

مِصْبَاحُ الْعِلْمِ

مکمل عربی اُردو کشتی

پچاس ہزار سے زیادہ عربی الفاظ کا بہترین مجموعہ

مستقیم

لفضل مولانا عبد الحفیظ بلیاوی

استاذ ادب ندوۃ العلماء لکھنؤ

مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب

← عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

← مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

← دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل

اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

← کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

← ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

← نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ ققوسیہ



مِصْبَاحُ الْعِلْمِ

مِصْبَاحُ الْعِلْمِ

مکمل عربی اُردو کشتی


پچاس ہزار سے زیادہ عربی الفاظ کا بہترین مجموعہ

مستقبہ

لفضل مولانا عبد الحفیظ بلیاوی

استاذ ادب ندوۃ العلماء لکھنؤ

مکتبہ قدوسیہ اُردو بازار لاہور



جملہ حقوق محفوظ ہیں

ناشر _____ ابو بکر قدوسی
اشاعت _____ جولائی 1999ء
مطبع _____ موٹروے پریس



MAKTABA QUDDUSIA

REHMAN MARKET GHAZNI STREET URDU BAZAR
LAHORE - PAKISTAN. Ph: 7351124 - 7230585
Fax: 92 - 42 - 7230585 Email: qadusia@brain.net.pk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

اَمَّا بَعْدُ! تقریباً دس سال ہوئے میں مدرسہ مصباح العلوم بریلی میں طلبہ کی خدمت پر مامور تھا کہ بعض بزرگوں اور عزیز طلبہ نے اصرار کے ساتھ خواہش کی کہ المنجد کی طرز پر ایک لغت کی کتاب ترتیب دی جائے جس میں ترجمہ اردو میں ہو، ایک مدت سے ایسی کتاب کی ضرورت میں خود محسوس کرتا تھا، لیکن اپنی کم مائیگی اور بے بضاحتی کی وجہ سے اس اہم کام کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تھا اور ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا اسی اثناء میں ایک مکتبہ نے تمنا ظاہر کی، پھر کیا تھا بزرگوں اور عزیزوں کو موقع مل گیا اور انہوں نے پھر اصرار شروع کیا اُن کے اصرار کے سامنے مجبور ہونا پڑا۔ کسی ایک زبان کو دوسری زبان میں شکل کرنا جتنا دشوار کام ہے اس سے کچھ وہی حضرات واقف ہیں جن کو اس قسم کے کام سے سابقہ پڑا ہو۔ اس کو وہی شخص کر سکتا ہے جو دونوں زبانوں کا ماہر اور دونوں کے ادب پر پوری طرح حاوی ہو اور اپنی حالت یہ ہے کہ عربی زبان تو بہر حال مادری زبان نہیں ہے جو مادری زبان ہے اسی سے پوری طرح واقفیت نہیں۔ سرکیف اس احساس کے ساتھ کام شروع کیا اور کام کرتے ہوئے تاج العروس، 'جمہورۃ اللغۃ' اقرب الموارد، قاموس کتاب الافعال لابن قوطیہ، تاج اللغات، مفردات امام راغب، 'مجمع البحار' نہایہ ابن اثیر، منتہی الارب المنجد، صراح یہ سب کتابیں پیش نظر رہیں۔ ہر لفظ کے معنی و مراد کی تمامیت تحقیق کے ساتھ تعین کی گئی پھر عمومی ناظرین سے اجازت ہے کہ اگر کہیں غلطی نظر آئے تو دامن غم سے چھپائیں اور ہو سکے تو مجھے اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں سچ کر دی جائے، چونکہ یہ کام مدرسہ مصباح العلوم میں شروع ہوا تھا اس لیے اس کتاب کا نام بعض بزرگوں نے مصباح اللغات تجویز کیا ہے۔ سالہا سال کی عرق ریزی کے بعد تالیف سے فارغ ہوا تو طباعت کا دشوار گزار مرحلہ درپیش تھا۔ وہ مکتبہ جس کے اظہار تمنا کی بنیاد پر میں نے کام شروع کیا تھا اب اس کے انتظام و انصرام سے انکار کر چکا تھا۔ اسی پریشانی میں تھا کہ عین وقت پر ندوۃ المصنفین اور مکتبہ برہان کے بانی جناب مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی مدظلہ نے دست گیری فرمائی اور اسے مکتبہ برہان سے شائع کرنے کا وعدہ کر لیا، ایسے نازک اور احتمالی مشکل وقت میں جناب مفتی صاحب موصوف اس خدمت کا بار اپنے ذمے نہ لیتے تو ظاہری اسباب کے تحت میں اس کی تکمیل و اشاعت سے قاصر رہتا، اس لیے میں موصوف کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے، دہلی کے ۱۹۳۷ء کے ہنگاموں میں ندوۃ المصنفین اور مکتبہ برہان کا دفتر جو اُن دنوں قزولباغ میں تھا وحشت و بربریت کے نذر ہو گیا یہاں تک کہ اس عظیم الشان ادارے کی زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا، تاہم مفتی صاحب مدظلہ اپنے وعدہ پر قائم رہے اور اتنے بڑے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔


نیز بڑی ناشکری ہو گی اگر صدیق کرم جناب مولانا مولوی حکیم صدیق احمد صاحب امرودی وارو حال بریلی اور جناب مولانا عبدالقدیم صاحب صدر مدرس مدرسہ مصباح العلوم بریلی اور فاضل جلیل جناب مولانا مولوی جلیل احسن ندوی صاحب کے احسانات سے اپنے آپ کو بیکدوش سمجھوں کہ اوّل الذکر دو حضرات نے اپنی کتابوں سے مؤخر الذکر نے اپنے علمی فیوض سے فائدہ پہنچایا خُدا تعالیٰ ان حضرات کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔

ابوالفضل عبدالحفیظ بلیاوی غفرلہ

دارالعلوم ندوۃ العلماء - بادشاہ باغ لکھنؤ

۱۰ شعبان المعظم ۱۳۶۹ھ مطابق ۲۸ مئی ۱۹۵۰ء





مصباح اللغات کے رموز و اشارات

ف	سے	فرد	اسم	فاعل	سے	فرد	صدر	(س)	سے	فرد	باب	سمع	سمع
ض	سے	فرد	اسم	مفعول	(ض)	سے	فرد	باب	ضرب	بضرب	باب	کرم	یکرم
ج	سے	فرد	جمع	جمع	(ن)	سے	فرد	باب	نصر	ینصر	باب	حسب	یحسب
ج	سے	فرد	جمع	الجمع	(ف)	سے	فرد	باب	فتح	یفتح	باب	فتح	یفتح

اگر کسی کلمہ کی تلاش ہو اور وہ مجرد ہو یا اگر مزید ہو تو مجرد بنا کر یا پہلا حرف بدلا ہوا ہو تو اصل کی طرف لوٹا کر پہلے حرف کے باب میں تلاش کرو۔

بعض قیاسی احکام

لغت عربی کے متعلم کو فن صرف کے قواعد سے اچھی طرح واقف ہونا چاہئے تاکہ جن قیاسی چیزوں کے ذکر کو چھوڑنے کی عام عادت ہے ان کے استعمال میں غلطی نہ ہونے پائے۔ لیکن پھر بھی بعض قواعد فائدہ کے لیے یہاں لکھ دیئے جاتے ہیں۔

مجرد کو مزید بنا دینے سے حسب ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں :

(۱) تعدیہ : لازم سے متعدی ہونا یا اگر فعل متعدی ہو تو ایک اور مفعول کو اضافہ ہونا۔

(۲) تصصیر : صاحب ماخذ بنا دینا۔

(۳) تعریض : مفعول کو ماخذ کے محل اور موقع میں لے جانا۔

(۴) وجدان : کسی چیز میں ماخذ کی صفت کا پایا جانا۔

(۵) ابتداء : کسی فعل کی ابتداء اسی باب سے ہونا بغیر اس کے کہ وہ فعل ثلاثی مجرد سے آیا ہو اور اگر وہ مادہ مجرد سے آیا ہو تو وہاں وہ معنی نہ ہوں جو ثلاثی مزید میں ہیں۔

(۶) استحاؤ : کسی چیز کو ماخذ بنانا یا ماخذ میں لینا۔

(۷) اشتراک : دو مفعولوں کو کسی کام میں شریک ہونا اس طرح کہ ہر ایک فاعل اور مفعول دونوں کی حیثیت رکھتا ہو۔

(۸) اقتضاب : کسی فعل کی ابتداء اسی باب سے ہونا اور ثلاثی مجرد مطلقاً کسی باب سے نہ آنا۔

(۹) الیاس ماخذ : کسی چیز کو ماخذ بنانا۔

(۱۰) بلوغ : ماخذ میں آنا یا ماخذ میں پہنچنا۔

(۱۱) تجسب : ماخذ سے پہنچنا۔

(۱۲) تحویل : کسی چیز کا عین ماخذ ہونا یا مثل ماخذ ہونا۔

(۱۳) تحویل : کسی چیز کو ماخذ یا مثل ماخذ بنا دینا۔

(۱۴) تخلیط : کسی چیز کو ماخذ سے آراستہ کرنا۔

(۱۵) تخییر : فاعل کا کسی فعل کو اپنی ذات کے لیے کرنا۔

(۱۶) تحخیل : فاعل کا اپنی ذات میں ماخذ کا حصول دکھانا یا جتاننا جس سے صرف دکھا دیا بنا دیا مقصود ہو۔

(۱۷) تدریج : کسی فعل کو آہستہ آہستہ کرنا۔

(۱۸) تصرف : ماخذ کے حصول میں کوشش کرنا۔

(۱۹) تعھمل : ماخذ کو کام میں لانا یا ماخذ سے کام لینا۔

(۲۰) تکلف : ماخذ میں تصنع یا بناوٹ ظاہر کرنا۔

فائدہ - تکلف اور تحخیل میں فرق یہ ہے کہ تکلف میں جو تصنع ہے وہ مرغوب فعل ہوتا ہے مگر تحخیل میں جس فعل کا اور تکلف ہوتا ہے وہ محض دکھا دیا اور جعل ہوتا ہے۔

(۲۱) حسان : کسی چیز کے متعلق یہ گمان کرنا کہ وہ ماخذ کے معنی سے موصوف ہے۔

فائدہ - حسان اور وجدان میں فرق یہ ہے کہ وجدان میں یقین پایا جاتا ہے اور حسان میں شک و گمان۔

(۲۲) صیونت : کسی امر کا ماخذ کے وقت میں واقع ہونا یا اس وقت میں پہنچنا۔

(۲۳) سلب : کسی چیز سے ماخذ کو دور کرنا۔

(۲۴) صیورت : صاحب ماخذ ہونا۔

(۲۵) طلب : ماخذ کو طلب کرنا چاہنا۔

(۱۳) موافقت : مجرد جیسے أَقْلْتُ البیع یعنی قلنته یعنی فسختہ
(۳۱)

باب تفعیل

(۱) ابتداء : جیسے تَكَلَّمَ - اس نے کلام کیا (مجرد کلمہ - زخمی کرنا)
(۵)

(۲) الہاس ماخذ : جیسے جملل الفرس = اس نے گھوڑے کو جھول
پہنائی۔ (۹)

(۳) بلوغ : جیسے خَتَمَ - وہ خیرہ میں آیا۔ (۱۰)

(۴) تحویل : جیسے نَصَرَ - اس نے نصرانی بنایا۔ (۱۳)

(۵) تخلیط : جیسے ذَهَبَ - اس نے سنہری بنایا۔ (۱۳)

(۶) حصیر : جیسے وَثَرَ القُوسَ - اس نے کمان کو زورہ دار بنایا۔ (۲)

(۷) تعدیہ : جیسے فَرَّخَنِي = اُس نے مجھے خوش کیا۔ (۱)

(۸) سلب : جیسے قَوَّذَ الإِبِلَ - اُس نے اونٹ سے بیچڑی کو دور
کیا۔ (۲۳)

(۹) صیروت : جیسے نَوَّرَ الشَّجَرَ - درخت گھونہ دار ہو گیا۔
(۲۳)

(۱۰) قصر : جیسے هَلَّلَ - اُس نے اِلَّا اِلَّا اللہ کہا۔ (۲۶)

(۱۱) مبالغہ : جیسے جَوَّلَ - وہ بہت گھوما (۲۹)

(۱۲) نسبت بمآخذ : جیسے فَسَّقَنِي - اُس نے مجھے بدکار کیا۔ (۳۲)

باب مفاعله

(۱) اشتراک : جیسے قَاتَلَ زَيْدٌ عَمْرُوًا - زید نے عمرو سے مقابلہ
کیا اور عمرو نے زید سے (۷)

(۲) موافقت مجرد : جیسے سَافَرْتُ - یعنی سفر۔

موافقت أَعْلَلَ - جیسے بَاعَدْتَهُ - یعنی أَيْعَدْتُهُ

موافقت فَعَّلَ - جیسے ضَاعَفَ - یعنی ضَاعَفَ (۳۱)

باب تفعیل

(۱) ابتداء : جیسے تَكَلَّمَ - اس نے کلام کیا (۵)

(۲) احتجاز : جیسے نَوَسَّدَ العَجْوَ - اُس نے اپنے پتھر کو تھکے بنایا۔
(۶)

(۳) تجنب : جیسے قَاتَمَ - اُس نے گناہ سے پرہیز کیا۔ (۱)

(۴) تحویل : جیسے نَصَرَ - وہ نصرانی ہو گیا۔ (۱۳)

(۵) تعمل : جیسے نَخَعَمَ - اُس نے انگوٹھی پہنی۔ (۱۹)

(۶) تدریج : جیسے تَجَوَّعَ - اُس نے گھونٹ کر کے پیا۔ (۱۷)

(۲۶) قصر : اختصار کے لیے کسی کلمہ کا مرکب سے اشتقاق کے طور
پر بنانا۔

(۲۷) لزوم و علاج : فعل میں جو ارج یعنی اعضاء کے کام کا اثر پایا
جائے۔

(۲۸) لیاقت : کسی چیز کا ماخذ کے لائق ہونا۔

(۲۹) مبالغہ : کسی امر کی کیفیت یا اس کی مقدار کی زیادتی کو بیان
کرنا۔

(۳۰) مطاوعت : ایک فعل کے دوسرے فعل کو لانا۔ جس سے
ظاہر ہو کہ مفعول نے فاعل کے اثر کو قبول کر لیا۔

(۳۱) موافقت : کسی فعل کا ہم معنی ہونا۔

(۳۲) نسبت بمآخذ : کسی چیز کا ماخذ سے منسوب ہونا۔

(۳۳) عطاء ماخذ : ماخذ دینا۔

(۳۴) تشارک : دو چیزوں کا فعل کے صدور میں شریک ہونا۔

باب الافعال

(تعریف کے لیے سامنے لکھے ہوئے نمبر کو دیکھو)

(۱) ابتداء : جیسے أَشْفَقَ وہ ڈر گیا (مجرد شفق - سر ہائی کرنا) (۵)

(۲) بلوغ : جیسے أَعْرَفَ - عراق میں پہنچا (۱۰)

(۳) تصبیور : جیسے أَشْوَكُ الثَّقَلَ - اُس نے تسمہ دار جو تاپایا۔
(ماخذ شراک بمعنی تسمہ) (۲)

(۴) تعدیہ : جیسے اخراج - نکالا۔ (۱)

(۵) تعریض : جیسے أَبْعَثَ الحِمَارَ - میں گدھے کو بیچنے کی جگہ
لے گیا۔ (۳)

(۶) صیروت : جیسے أَحْصَدَ الزُّرْعَ - کھیتی کے کٹنے کا وقت آ
گیا۔ (۲۲)

(۷) لیاقت : جیسے أَلَامَ الفُرعَ - سردار قابل ملامت ہوا (۲۸)

(۸) سلب : جیسے أَشْكِنْتُهُ - میں نے اس کی شکایت دور کی۔
(۲۳)

(۹) صیروت : جیسے أَلْبِنَ البَقْرَ - گائے دودھ والی ہو گئی (۲۳)

(۱۰) مبالغہ : جیسے أَمَمَ النخْلَ - کھجور کے درخت میں بہت سی
کھجوریں لگیں۔ (۲۹)

(۱۱) نسبت بمآخذ : جیسے أَكْفَرْتُهُ - میں نے اسے کفر سے نسبت
دی۔ (۳۲)

(۱۲) وجدان : جیسے أَبْعَلْتُهُ - میں نے اسے بخیل پایا۔ (۳)

موافقت تفاعل : جیسے اِخْتَصَمَ بمعنی تَخَاصَمَ (۳۱)

باب استفعال

(۱) طلب : جیسے استطعمته۔ میں نے اس سے کھانا طلب کیا
(۲۵)

(۲) لیاقت : جیسے استوقع الثوب۔ کپڑا قابل بیوند ہوا۔ (۲۸)

(۳) وجدان : جیسے استكرمه۔ میں نے اس کو کرم سے متصف پایا۔ (۳)

(۴) حسابان : جیسے استخسنته۔ میں نے اس کو اچھا گمان کیا (۲۱)

(۵) تحول : جیسے استخجز الطين۔ مٹی پتھر بن گئی (۱۳)

(۶) اتحاز : جیسے استوطن القرى۔ اس نے دیہاتوں کو وطن بنایا
(۶)

(۷) تکلف : جیسے استعجزا۔ اس نے جرات دکھائی۔ (۲۰)

(۸) قصر : جیسے استزجج۔ اس نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاجِعُونَ کہا۔
(۲۶)

(۹) مطاوعت انفل : جیسے اَفْدَتْهٖ فَاَسْتَقَامَ۔ میں نے اسے سیدھا کیا وہ سیدھا ہو گیا۔ (۳۰)

(۱۰) موافقت مجرور : جیسے قَرَوِ اسْتَقَرَّ (۳۱)

موافقت انفل : جیسے اَجَابَ وَاِسْتَجَابَ (۳۱)

(۱۱) ابتداء : جیسے استعان۔ زیر ناک کے بال کاٹنے (۵)

باب الافعال

(۱) مبالغہ : جیسے اسودَّ اللَّیْلُ۔ رات بہت تاریک ہو گئی (۲۹)

فائدہ۔ اکثر یہ ہاے الوان و عیوب کے لیے آتا ہے جیسے اِحْمَرَّ اَبِیضٌ اِحْمَرَّ اور ہمیشہ لازم ہوتا ہے۔

باب اِفْعَال

(۱) مبالغہ : جیسے اِخْدُوذِبَ۔ بہت کبڑا ہو گیا۔ (۲۹)

(۲) موافقت مجرور : جیسے اِخْلَوٰی التَّفَرُّ بِمَعْنٰی حَلًا (۳۱)

باب اِفْعَوَال

(۱) مبالغہ : جیسے اِجْلُوذًا۔ وہ بہت تیز دوڑا۔ (۲۹)

باب اِفْعِلَال

(۱) مبالغہ : جیسے اِحْمَارًا۔ بہت سرخ ہوا۔ (۲۹)

یہ باب الوان و عیوب کے لیے مخصوص ہے۔

باب تفعیل

(۱) مطاوعت : جیسے دَخِرْجَتَهُ فَاَخْرَجَتْہُ۔ میں نے اسے لڑکا

(۷) تکلف : جیسے تَشَجَّعَ = وہ بہادر بنا۔ (۲۰)

(۸) صیرورت : جیسے تَمَوَّلَ = وہ مالدار ہو گیا (۲۳)

(۹) مطاوعت فعل : جیسے علمته فَتَعَلَّمُ۔ میں نے اسے سکھایا اور وہ سیکھ گیا۔ (۳۰)

باب تفاعل

(۱) ابتداء : جیسے تَبَارَكَ اللّٰهُ = اللہ بڑی برکت والا ہے (مجرور برکت = اُونٹ کا بیٹھنا) (۵)

(۲) تشارک : جیسے تَشَاتَمَا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گالی دی۔ (۳۳)

(۳) تخیل : جیسے تَمَازَضَ = اس نے اپنے آپ کو مریض ظاہر کیا
(۶)

(۴) مطاوعت فاعل : جیسے بَاعَدْنُهُ فَبَاعَدَ۔ میں نے اسے دور کیا وہ دور ہو گیا۔ (۳۰)

باب انفعال

(۱) ابتداء : جیسے اِنْتَظَلَ = وہ گیا (مجرور تطلق) (۵)

(۲) لزوم و علاج : جیسے اِنْكَسَرَ = وہ ٹوٹ گیا۔

مطاوعت فعل : جیسے كَسَرْتُهُ فَاِنْكَسَرَ۔ میں نے اسے توڑا وہ ٹوٹ گیا۔

مطاوعت انفل : جیسے اَغْلَقَ الباب فَاِنْعَلَقَ = اس نے دروازہ بند کیا اور وہ بند ہو گیا۔ (۳۰)

فائدہ۔ باب انفعال ہمیشہ لازم ہوتا ہے متعدی نہیں اور ہمیشہ ایسے معانی کے لیے آتا ہے جن کا تعلق اعضاء ظاہری سے ہو۔

باب افتعال

(۱) اتحاز : جیسے اِحْتَجَزَ الفَاژ۔ چوہے نے مل بنایا۔ (۶)

(۲) تخبیر : جیسے اِكْتَالَ الشَّعِيرَ۔ اس نے اپنے لیے جو ناپے
(۱۵)

(۳) تصرف : جیسے اِكْتَسَبَ الفضل۔ اس نے کوشش کر کے فضیلت حاصل کی۔ (۱۸)

(۴) مطاوعت فعل : جیسے غَمِنَ فَاغْتَمَ۔ میں نے اسے غمگین کیا اور وہ غمگین ہوا۔ (۳۰)

(۵) طلب : جیسے اِكْتَدَّ فُلَانًا۔ اس نے فلاں سے مشقت طلب کی۔ (۲۵)

(۶) موافقت فعل : جیسے اجتذب بمعنی جذب

(۳) فعل لازمی کا مصدر فَعُولٌ کے وزن پر جیسے فَعُوذٌ، خُرُوجٌ، نُهُوضٌ۔

(۴) فَعِيلٌ اور فَعَلٌ کے وزن پر جیسے فَعِمٌ، نَصْرٌ۔

غیر ثلاثی کے مصادر

ثلاثی کے علاوہ سارے مصادر قیاسی ہیں۔ فَعَلٌ کا مصدر تَفَعَّلٌ ہے جیسے قَتَلَ تَقْبِيلاً اور تَفَعَّلَ کے وزن پر بھی آتا ہے مگر کم جیسے وَسَّعَ وَتَوَسَّعَ، قَدَّمَ وَقَدَّمَهُ۔ اگر موزوں الٹا ہو تو تَفَعَّلَ کا وزن زیادہ اور تَفَعَّلٌ کا کم آتا ہے جیسے تَبَّأَ تَبْيِئَةً وَقَتَا تَوَقُّطَةً، هَتَأَ تَهْتِئَةً اور اگر ناقص ہو تو صرف مَفْعَلٌ ہی کا وزن آتا ہے۔ جیسے حَلَّى تَحْلِيهِ، زَكَّى تَزْكِيَةً اور اگر اجوف ہو تو صرف تَفَعَّلٌ کا وزن آتا ہے جیسے قَوَّسَمٌ تَقْوِيماً، سَوَّدَ تَسْوِيداً۔

فَاعِلٌ کا مصدر فَعَالٌ و مَفَاعَلَةٌ ہے جیسے قَاتَلَ قِتَالاً و مَفَاعَلَةً ہے لیکن جن مواد میں فاع کلمہ یاء ہو وہاں مَفَاعَلَةٌ کا وزن متعین ہے جیسے يَامَسُوْا مَيَّاسَةً، يَأْمَنُ مَيَّامَةً اور يَأْوِمُ مَيَّأْوَمَةً و يَوْمَا شَاةٍ۔

أَفْعَلٌ کا مصدر اِفْعَالٌ ہے جیسے اَكْرَمَ اِكْرَامًا اور اگر عین کلمہ میں حرف علت ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو نقل کر کے الف سے بدل دیتے ہیں، دو الف کے جمع ہونے کی وجہ سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں اور اس کے عوض میں آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں جیسے اَمَاتٌ، اِعَاةٌ، اِغَاثٌ اِغَاةً، اِشَارٌ اِشَارَةٌ۔

تَفَعَّلٌ کا مصدر تَفَعَّلٌ اور تَفَاعَلٌ کا تَفَاعَلٌ ہے لیکن ان دونوں میں جب لام کلمہ حرف علت ہو تو یا سے بدل کر ماقبل کو کسرہ دیتے ہیں جیسے تَأَلَّى، تَأَلَّيْتُ، تَفَاعَضَى تَفَاعَضِيّاً۔

اِفْتَعَلَ کا مصدر اِفْتِعَالٌ، اِنْفَعَلَ کا اِنْفِعَالٌ، اِفْعَوْعَلَ کا اِفْعِيْعَالٌ اور اِفْعَلٌ کا اِفْعَالٌ ہے جیسے اِشْتَرَكَ اِشْتِرَاكًا، اِنْتَلَقَ اِنْتِلَاقًا، اِخْتَذَوْبَ اِخْتِيْذًا اور اِسْتَوْدِ اِسْتِوْدًا۔

اِسْتَفْعَلَ کا مصدر اِسْتَفْعَالٌ ہے لیکن عین کلمہ حرف علت ہو تو الف سے بدل کر حذف کر دیتے ہیں اور آخر میں تا بڑھا دیتے ہیں جیسے اِسْتَقَامَ اِسْتِقَامَةً۔

فَعْلَلٌ کا مصدر فَعْلَلَةٌ اور فَعْلَلٌ ہے جیسے ذَخَرَ ذَخْرَةً و ذَخَرَاجًا۔ دوسرا وزن صرف مضاعف ہونے کی صورت میں

دیا وہ لڑھک گیا۔ (۳۰)

علماء صرف کے نزدیک ان کے علاوہ اور بھی فوائد ہیں جن کو تطویل کے خوف سے نظر انداز کر دیا گیا۔

اور ان ابواب مزید فیہ کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر مجرور سے بتایا جائے بلکہ اس کا مدار سماع اور کتب لغت پر ہے۔

مشتقات

فعل سے جو اسم مشتق ہوتے ہیں وہ دس ہیں: (۱) مصدر، (۲) اسم، (۳) مرۃ، (۴) اسم نوع، (۵) ظرف مکان و ظرف زمان، (۶) اسم قائل، (۷) اسم مفعول، (۸) صفت مشبہ، (۹) اسم تفعیل، (۱۰) مبالغہ۔

ثلاثی مجرور کے مصادر قیاسی نہیں ان کے بست سے اوزان ہیں۔ اور ان کا مدار سماع پر ہے لیکن یوں ضبط میں لایا جا سکتا ہے کہ عموماً:

(۱) جو پیشہ کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن فَعَالَةٌ ہے جیسے زِرَاعَةٌ، تِجَارَةٌ، حَيَاكَةٌ۔

(۲) جو اجتماع کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن فَعَالٌ ہے جیسے آباءٌ، شرادٌ، جماعٌ۔

(۳) جو اضطراب کے معنی پر دلالت کرتے ہوں ان کا وزن فَعْلَانٌ ہے جیسے غُلَيَّانٌ، جَوْلَانٌ، خَفْقَانٌ۔

(۴) جن کی دلالت امراض پر ہو ان کا وزن فَعَالٌ ہے جیسے ضِدَاعٌ، زَكَامٌ، دَوَارٌ۔

(۵) جن کی دلالت سیر پر ہو ان کا وزن فَعَالٌ اور فَعِيلٌ ہے جیسے زَجِيْلٌ، وِذْمِيْلٌ۔

(۶) جن کی دلالت آواز پر ہو ان کا وزن فَعَالٌ اور فَعِيلٌ ہے جیسے ضِرَاحٌ، خَوَارٌ، زَيْفَرٌ، زَيْفِيمٌ۔

(۷) جن کا مدلول رنگ ہو ان کا وزن فَعْلَةٌ ہے جیسے حُمْرَةٌ، رِزْقَةٌ، حُمْصَةٌ۔

اور اگر ان معانی پر دلالت نہ ہو تو عموماً:

(۱) فعل کا مصدر فَعُوْلَةٌ اور فَعَالَةٌ کے وزن پر آتا ہے جیسے سَهْوَةٌ، نَبَاهَةٌ، فِصَاحَةٌ۔

(۲) فعل لازمی کا مصدر فَعْلٌ کے وزن پر ہے جیسے فَرَحٌ، عَطَشٌ، بَلَجٌ۔

حرفِ مکان و حرفِ زمان

حرفِ مکان وہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کی جگہ کو بتلائے اور حرفِ زمان وہ ہے جو فعل کے واقع ہونے کے زمانہ کو ظاہر کرے۔

ثلاثی مجرد سے حرفِ خواہ زمانی ہو یا مکانی مفعول کے وزن پر آتا ہے جبکہ مضارع کا عین مضموم ہو یا مفتوح جیسے مَنصَرٌ، مَفْتَحٌ، مَنصَمَعٌ اور اگر مضارع کا عین کمور ہو تو مفعول کے وزن پر جیسے مَنخِلِسٌ، مَنزُولٌ۔

اس قاعدہ سے الفاظ مندرجہ ذیل مشتقی ہیں 'ان سب کا وزن مفعول ہے باوجودیکہ ان کے مضارع کا عین مضموم ہے مَنصَجِدٌ، مَشْرُوقٌ، مَغْرُوبٌ، مَظْلُغٌ، مَجْرُوبٌ، مَرْفُوقٌ، مَفْرُوقٌ، مَسْكِينٌ، مَنسِكٌ، مَنبِتٌ، مَسِيقٌ۔

مثال سے طرفِ زمان و مکان ہمیشہ مفعول کے وزن پر اور ناقص سے ہمیشہ مفعول کے وزن پر جیسے مَوَعِدٌ، مَوَجِلٌ، مَطْوِيُّ، مَرْمِيٌّ۔

اور ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مصدر میسی کی مانند جیسے اَذخَلَ سے مَذخَلٌ، اَخْرَجَ سے مَخْرُجٌ، اَخَذَعَ سے مَخْدَعٌ۔

کسی جگہ میں کسی چیز کی کثرت کو ظاہر کرنے کے لیے مفعولہ کا وزن مقرر ہے، جیسے مقبرہ جمال قبریں زیادہ ہوں۔ ماہلہ۔ جمال اونٹ زیادہ ہوں۔ مفعلة۔ جمال سانپ زیادہ ہوں۔ مسبعة۔ جمال درندے زیادہ ہوں۔ کہا گیا ہے کہ یہ وزن ثلاثی مجرد و مزید سے قیاسی ہے اور بعض کا قول ہے کہ کثرت سے آتا ہے مگر قیاسی نہیں۔

اسم آلہ

کام کرنے کے آلے اور اوزار کا نام اسم آلہ ہے یہ صرف ثلاثی مجرد متعدی سے بنتا ہے اس کے تین وزن ہیں۔ مفعَلٌ جیسے مِزْدٌ۔ مفعَالٌ جیسے مَفْتاحٌ۔ مفعَلَةٌ جیسے مِكنَسَةٌ اور یہ اوزان بھی قیاسی نہیں۔ مَنخُلٌ، مُدْهِنٌ، مِكْحَلَةٌ، مَدَقٌ، مُسْغَطٌ، مَنزَاةٌ، مُسْطَطٌ وغیرہ الفاظ اسماء جامدہ کے مانند ہیں۔ ان کا فعل اسے اشتقاق نہیں اور اسم آلہ جو فعل سے مشتق نہ ہو اس کے لیے

تَفَعَّلٌ كَتَفَعَّلٌ۔ اِفْعَلَلٌ كَاِفْعَلَلًا۔ اِفْعَلَّلٌ كَاِفْعَلَّلًا ہے جیسے تَدَحْرَجُ تَدَحْرَجًا۔ اَحْرَجِمُ اَحْرَجِمًا۔ اِفْشَعُرُ اِفْشَعُرًا۔

فعل مجہول کے لیے مصدر کا کوئی خاص وزن مقرر نہیں۔ فعل معروف کا مصدر ہی اس کا کام بھی دیتے ہیں جیسے ضَرْبٌ ضَرْبًا جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ ضَرْبٌ ضَرْبًا مصدر میسی

ثلاثی مجرد سے مصدر میسی مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے منظرٌ، مضربٌ، مرمیٌ اس قاعدہ سے سات الفاظ مَجِيٌّ، مَرْجِعٌ، مَسِيْرٌ، مَصِيْرٌ، مَشِيْبٌ، مَرْفِقٌ، مَقِيْلٌ مشتقی ہیں۔ مثال وادی سے مفعول کے وزن پر خواہ مضارع کا عین کلمہ کمور ہو یا مفتوح جیسے مَوْرِدٌ، مَوَعِدٌ، مَوَجِلٌ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع مجہول کے وزن پر بجائے علامت مضارع کے میم مضموم لگا کر جیسے مَنخَدَرٌ، مَصْطَبٌ، مَزاحِمٌ۔

اسم مرة و اسم نوع

اسم مرة وہ مصدر ہے جو ایک مرتبہ فعل کے واقع ہونے کو ظاہر کرے اور اسم نوع وہ ہے جو فعل کی ہیئت اور نوع کو بتلائے۔ ثلاثی مجرد سے اسم مرة کا وزن فعلہ کے وزن پر آتا ہے جیسے ضَرْبَتْ ضَرْبَةً، جَلَسَتْ جَلَسَةً۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے جس باب کا اسم مرة بنانا مقصود ہو اسی باب کے مصدر کے وزن پر تاء کی زیادتی کے ساتھ لاتے ہیں جیسے التَّفْتُُّ البِغَاةُ، انطَلَقْتُ انطِلاقَةً، اور اگر ثلاثی وغیرہ کے مصادر کے آخر میں تاء ہو تو اسم مرة لانے کی صورت میں کسی ایسی چیز کا لانا ضروری ہے جس سے وحدت ظاہر ہو جیسے ضربتہ ضربية واحدة، قاتلتہ مقاتلة لا غير وما التفت اليه الا التفاتة واجبة اجابة فقط۔

اسم نوع کا وزن ثلاثی مجرد سے فعلتہ کے وزن پر جیسے وقف وقفة الاسد ومشي مشية المختال۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم مرة کے وزن پر جیسے حَسَنُ الانطِلاقَةِ، قَبِيحُ المعاشِرَةِ

کے علاوہ دوسرے ابواب سے اسم فاعل کے وزن پر آتا ہے اور صفتِ مشبہ صرف ابوابِ لازمہ سے آتا ہے جیسے مطمئن۔ مستقیم

اسم تفضیل

اسم تفضیل وہ ہے جو بہ نسبت دوسرے کے موصوف کی صفت کی زیادتی پر دلالت کرے اس کو فعل التفضیل بھی کہتے ہیں۔ مذکر کا وزن الفعل کا اور مؤنث کا وزن۔ فعلی کا مقرر ہے اور صرف ثلاثی مجرد کے ابواب سے بنتا ہے اور وہ ماوے جو رنگ، عیب یا حلیہ پر دلالت کرتے ہوں ان سے اسم تفضیل کا صیغہ نہیں آتا بلکہ اسی وزن پر صفت کا صیغہ آتا ہے۔ وہ ابواب یا وہ ماوے جن سے اسم تفضیل کا صیغہ افعال کے وزن پر نہیں آسکتا ان سے اسم تفضیل کے معنی کو ظاہر کرنا ہو تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ لفظ اشد یا اکثر یا انہی جیسے الفاظ کے بعد اس باب کا مصدر منسوب استعمال کرتے ہیں اشد سواداً۔ اشد استبحراً۔

اسم تفضیل کا صیغہ معروف سے اور ثلاثی مجرد سے بنا کرتا ہے لیکن بعض الفاظ بطور شدوذ کے مجہول اور ابواب غیر ثلاثی سے آتے ہیں مثلاً ”العور احمد“ میں احمد، خمد سے اور ”حاتم اعطی من عمرو“ میں اعطی سے اور ”هَذَا اسْفَرُ اَخْضَرُ مِنْ ذَاكَ“ میں اَخْضَرُ اِخْتَصَرَ سے ماخوذ ہے اور کبھی اسم تفضیل اسم جامد سے بھی آتا ہے جیسے ”مابا لبادية انوامنه“ میں انواء، نوء سے ماخوذ ہے جس کے معنی پختہ کے ہیں۔

خبر و شراصل میں اخیتر اور اشتر تھے۔ کثرت استعمال کی بنا پر دونوں سے ہمزے ساقط ہو گئے کبھی اصل کے لحاظ سے مع ہمزہ کے بھی آتے ہیں۔

اوزانِ مبالغہ

مبالغہ وہ ہے جو موصوف کی زیارتی صفت پر دلالت کرے اس کے مشہور وزن یہ ہیں :

فَعَالٌ جِيسَ عَلَامٌ۔ نَصَارٌ۔ فَعَالَةٌ جِيسَ عَلَامَةٌ وَفَهَامَةٌ۔ فَوَيْلٌ جِيسَ صِدْقٌ وَ سَكْبَرٌ۔ مَفْعِلٌ جِيسَ مَسْكِينٌ وَ مَغْطِيزٌ۔ مِفْعَالٌ جِيسَ مَكْسَالٌ وَ مَقْدَامٌ۔ فَعْلَةٌ جِيسَ ضَحْكَةٌ وَ ضَجْفَةٌ۔ فَعْلٌ جِيسَ شَرَةٌ وَ حَذِرٌ۔ فَعِيلٌ جِيسَ رَجِيمٌ وَ عَظِيمٌ۔ فَعُولٌ جِيسَ

کوئی ضابطہ نہیں۔ بہت سے مختلف اوزان پر آتے ہیں جیسے قَدْوَمٌ، مَسْكِينٌ، فاس وغیرو۔

اسم فاعل و اسم مفعول

اسم فاعل وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل واقع ہو ثلاثی مجرد سے فاعل کے وزن پر آتا ہے جیسے ضَارِبٌ، قَاتِلٌ، نَاصِرٌ۔

ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع معروف کے وزن پر علامت مضارع کے بجائے یم مضموم لگانے سے بنتا ہے اور مائل آخر کسور ہوتا ہے جیسے مَجْتَنِبٌ، مُسْتَخْرَجٌ، مُصْرَفٌ۔

اسم مفعول وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے جیسے مَنضُوزٌ، مَضْرُوبٌ، مَفْتُوحٌ ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے مضارع مجہول کے وزن پر علامت مضارع کے بجائے یم مضموم لگانے اور مائل آخر کو مفتوح کر دینے سے بنتا ہے جیسے مَقْبَلٌ، مَكْرُومٌ، مَدْحَرَجٌ

تنبیہ (۱) قیاس کا تقاضا ہے کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کا اشتقاق اپنے ہی فعل سے ہو خواہ مجرہ ہو خواہ مزید۔ لیکن کچھ الفاظ بطور شدوذ کے دوسرے سے مشتق ہیں۔ مثلاً اَفْحَلٌ سے مَاجِلٌ۔ اَمْلَحٌ سے مَالِحٌ۔ اَبْفَعٌ سے يَابِغٌ۔ اَعْطَبٌ سے عَاطِبٌ۔ اَحْبَبٌ سے مَعْجُوبٌ۔ اَجَنَّةٌ سے مَجْنُونٌ۔ حَمَّةٌ سے مَحْمُومٌ۔ اَزْكَمَةٌ سے مَرْكُومٌ۔ اَسَلَةٌ سے مَسْلُوبٌ۔

(۲) اسم مفعول مصدر میں طرف زمان و مکان ثلاثی مجرد کے علاوہ دوسرے ابواب سے سب ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ امتیاز قرآن کی بناء پر ہوتی ہے۔

صفت مشبہ

صفت مشبہ وہ ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں صفت بطور ثبوت کے ہو۔ ثلاثی سے اس کے اوزان سماوی ہیں مثلاً حَسَنٌ، كَرِيمٌ، لَيِّنٌ، سَهْلٌ، صَغْبٌ، لَقِيَانٌ، غَضْبَانٌ، كَسُولٌ، عَطَشِيٌّ، رُؤْفٌ اگر مادہ کی دلالت لون یا عیب یا حلیہ پر ہو تو اس کے لیے وزن الفعل کا ہے جیسے اَمْتَوْدٌ، اَعْوَجٌ، اَبْلَحٌ اور ثلاثی مجرد

اگرچہ ان کے آخر میں ان علامات میں سے کوئی علامت ہو چھے
طلحة، نخلہ، ارطی وغیرہ۔

مؤنث کی دو قسمیں ہیں مؤنث لفظی، مؤنث معنوی، مؤنث
لفظی وہ ہے جس میں علامت تانیث پائی جائے جیسا کہ اوپر کی
مثالوں سے ظاہر ہے۔

مؤنث معنوی وہ ہے کہ جس میں کوئی علامت تانیث نہ ہو اور
اسے اہل زبان مؤنث مانتے ہیں۔

وہ سارے اسماء جو مؤنث کے اہل ہوں جیسے مریم زینب
وغیرہ یا وہ اسماء جو طبقہ اثناث کے ساتھ مختص ہوں، جیسے اُخت، ام
وغیرہ یا وہ سارے اسماء جو شر اور قبیلہ کے نام ہوں جیسے شام، مصر،
قریش وغیرہ۔ یا اعضاء انسانی میں سے تمام وہ اعضاء جو دو دو ہوں
سب مؤنث معنوی ہیں لیکن اخیر کا حکم اکثری ہے، اس لیے کہ
صدق، مرفق، حاجب، حد، مؤنث نہیں۔

ان کے علاوہ کچھ اور بھی الفاظ مؤنث ہیں جن کو ائمہ لغت
نے جمع کیا ہے۔ (مولانا ذوالفقار احمد صاحب بھوپالی مرحوم و مقور کی
کتاب المبتکر فی ما ینعلق بالمؤنث والمذکر اس سلسلہ میں بہت
جائع کتاب ہے) یہاں پر سارے کا استقصاء تو بہت دشوار ہے،
مشہور اسماء درج ذیل ہیں:

اثنان، اذن، ارض، ارنب، اروئی، است، اصبع، افعی،
القی، بئر، باع، بنصر، ثعلب، جحیم، جہنم، حرب، خنصر،
دار، دبیر، ذراع، رجل، رخی، ریح، سعیر، سقر، سن، ساق،
شمس، شمال، ضبع، عروض، عصا، عقب، عین، غول،
فاس، فخذ، فلک، قدم، قدوم، قوس، کاس، کسف، کرش،
کف، نار، نعل، ناب، ورك، يد، یمن، ینبوع۔

ہوا کے لیے جو اسماء ہیں (مثلاً بباء، قبول، جنوب، دیور، شمال،
بیت، حرور، سموم، صرصر، کباء) وہ بھی مؤنث سمائی ہیں، ابن
الانباری فرماتے ہیں الريح مؤنثة لاعلامه فیها وكذلك سائر
اسمائها الا الاعصار فانہ مذکر۔

ان کے علاوہ کچھ اسماء ہیں جن میں تذکیر و تانیث دونوں جائز
ہیں ان میں سے مشہور یہ ہیں: ابط، ابہام، ازار، بلد، جراد، حال،
ہانوت، خمر، درع، دلو، روح، زقاق، سمیل، سرنی، سراویل، سلاح،
سکین، سلم، سلم، ساء، سون، صاع، صغی، طرس، طریق، عجز، عقد،

کذوب، وڈوز، فاجلة، جیسے زاویة۔ فعل، جیسے غفل۔ فعولة
جیسے فؤولة۔ مفعول جیسے مخزوب۔ فاعول جیسے فاوزوق۔ فَعَال
جیسے کُتِبَا۔ مبالغہ اور ان سمائی ہیں اور صرف ثلاثی مجرہ سے آتے
ہیں لیکن دَرَاك، اَدْرَاك سے۔ معطاء اعطی سے۔ مہوان اہان
سے وِخْسانِ احسن سے۔ وِثْلَافِ اَتْلَف سے وِثْلَافِ اَمْلَق سے
سے وِغْلَافِ اَخْلَف سے اور سَمِيعِ اَسْمَع سے۔ نَدِيْرِ اَنْدَر
سے۔ زَهْوَقِ۔ اَرْهَق سے شاذ ہیں۔

تنبیہ

(۱) بعض الفاظ مبالغہ میں تانیث کے لیے نہیں بلکہ تاکید
مبالغہ کے لیے ہے جیسے علامہ، فہامة
(۲) فعیل اگر فاعل کے معنی میں ہو تو مذکر و مؤنث میں
فرق کیا جائے گا۔ خواہ موصوف کا ذکر ہو یا نہ ہو جیسے "رجل
نصیر" امرأة نصیرة۔ "جاء نصیر و نصیرة"۔

(۳) فعیل اگر مفعول کے معنی میں ہو تو موصوف کے ساتھ
مذکر و مؤنث میں ایک ہی حالت ہوگی جیسے "زید قتیل"۔ و انت
المرأة جریما اور بغیر موصوف کے فرق کیا جائے گا جیسے جاء
حبیب و حبیبہ۔

(۴) فاعول اگر فاعل کے معنی میں ہو تو موصوف کے ساتھ
مذکر و مؤنث دونوں میں ایک ہی جیسے یحیی البتول، مریم البتول اور
موصوف نہ ہو تو فرق کیا جائے گا۔ جیسے جاء بتول و بتولة اور اگر
مفعول کے معنی میں ہو تو مذکر و مؤنث میں فرق کیا جائے گا خواہ
موصوف ہو یا نہ ہو جیسے "هذا رسول و تلک رسولة۔ و جاء
رسل و رسولة۔

مذکر و مؤنث

اسم مذکر میں کسی علامت کی ضرورت نہیں۔ مؤنث کی تین
علامتیں ہیں۔ تاء جیسے ظلمة، قوة، نعمة، قدرة، الف مقصورہ
جیسے عذری، فضلی، کبریٰ، عظمی الف مقصورہ جیسے حمراء،
سوداء، بیضاء، زرقاء۔

یہ تینوں علامتیں اسم کے آخر میں زائد ہوتی ہیں ہر وہ اسم
جس کے آخر میں ان تینوں علامتوں میں سے کوئی ایک ہو وہ
مؤنث ہے لیکن وہ اسماء جو مردوں کے نام ہوں مذکر ہی رہتے ہیں

اور اگر ہمزہ اصلی ہو تو اس وقت بھی باقی رکھنا ضروری ہے جیسے لالا سے لالا ان۔ فزّاء سے فزّاء ان۔
اور اگر ہمزہ نہ تو اصلی ہو اور نہ تانیث کے لیے تو دونوں صورتیں جائز ہیں، ہمزہ کو واؤ سے بدلنا بھی اور باقی رکھنا بھی جیسے
سمااء سے سمااء ان اور سماوان۔

ایسے اسماء جن کا لام کلمہ مزروف ہو اور اس کے عوض میں کچھ نہ ہو تو تشبیہ بنانے میں لام کلمہ واپس آئے گا جیسے ”اب“ کہ اصل میں ابو تھا تشبیہ کی حالت میں ابوان ہو گا ایسے ہی اخوان، حموان، غلدوان لیکن ہم اور ید میں واپس نہیں آئے گا۔ لھمان اور یدان ہی کہا جائے گا۔

اور ایسے اسماء جن کے مزروف کے عوض میں کچھ نہ ہو تو تشبیہ اپنی حالت پر بنایا جائے گا مثلاً سنۃ، ابن، اسم ہیں مستنان، ابنان، اسمان کہیں گے۔ کچھ ایسے اسماء ہیں جن کا تشبیہ نہیں آتا۔ مثلاً: بعض، اجمع، محط، کل، اور عرب، دیار، اور اسماء عدد اور اسم تفضیل جس کا استعمال من سے ہو جیسے الیدان الفضل من الرجلین۔

جمع

جمع کی دو قسمیں ہیں جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کا وزن باقی رہے زیادتی جو کچھ ہو وہ آخر میں اور جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے کچھ نہ کچھ تغیر ہو جائے جمع سالم کی دو قسمیں ہیں جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔
جمع مذکر سالم

جمع مذکر سالم وہ ہے جس میں کلمہ کے آخر میں حالتِ رفعی میں واو ماقبل مضموم اور حالتِ نفسی و جری میں یاء ماقبل مکسور اور ان دونوں کے بعد نون ہو جیسے ”جاء مسلمون رأیت مسلمین ومررت بمسلمین“۔

اس وزن پر جمع بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر اس محض ہو صفت کے معنی ملحوظ نہ ہوں تو تاء تانیث سے خالی ہو اور مرکب نہ ہو۔ اسی لیے طلحة باجوہ دیکھ ذکر کا علم ہے مگر واو نون سے جمع نہیں آئے گا اسی طرح معد کرب اور حبلک وغیرہ میں یہ وزن نہیں آئے گا، بلکہ جمع بنانا ہو تو لفظ ذکی جمع بنا کر اس کلمہ کی طرف

عقاب، عقرب، منق، عجبوت، فردوس، فرس، فہر، قہر، قفا، قیس، کعبہ، السان، مسک، ملح، منجیق، موسیٰ، نفس، وراء، انہی کے ساتھ حروفِ حمّی کے اسماء بھی لاحق ہیں۔

ثنی

ثنی وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے۔ کسی اسم کو ثنی بنانا ہو تو اس کے آخر میں حالتِ رفعی میں الف اور حالتِ نفسی و جری میں یاء ماقبل مفتوح اور دونوں حالتوں میں نون مکسور لائیں گے۔ جیسے ”جاء الرجلان“۔ رابت الرجلین و مررت بالرجلین۔

اگر کوئی علم مرکب اضافی ہو تو جزء اول یعنی مضاف کو ثنی لائیں گے جیسے ”عبدالاحد، عبدالرحمن“ اور اگر مرکب بنائی یا مرکب استادی ہو تو اپنی حالت پر ہیں گے اور ان سے پہلے مذکر میں ذوا اور مؤنث میں ذواتا لائیں گے۔ جیسے ذوا معدی کرب، ذواتا بعلبک۔

اسم مقصود (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں یاء ماقبل مکسور ہو جیسے القاضی) میں اگر یاء حذف ہو گئی ہو تو تشبیہ کی حالت میں پھر لوٹ آئے گی جیسے رام رامیان، داع داعیان۔

اسم مقصود (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں الف ہو اور اس کے بعد ہمزہ نہ ہو جیسے عصار، رچی) میں اگر الف تیسری جگہ ہو اور کسی سے بدل کر آیا ہو تو تشبیہ بنانے کی حالت میں تو اصل کی طرف لوٹ جائے گا جیسے عصار سے عصوان۔ فنی سے فنیان۔

اور اگر چوتھی جگہ یا اس سے زائد ہو تو یاء سے بدل جائے گا جیسے ذکریان، قہقرآن، خوزلان شاذ ہیں، قیاس کا تقاضا تھا کہ قہقرہیان، خوزلیان ہوتے۔

اسم محدود (یعنی وہ اسم معرب جس کے آخر میں ہمزہ ہو اور اس سے پہلے الف زائد ہو جیسے صفراء خضراء) میں الف اگر تانیث کے لیے ہو تو ہمزہ کو واؤ سے بدل لیں گے جیسے خضرا سے خضراوان۔ بشرطیکہ الف سے پہلے واؤ نہ ہو، اور اگر ہو تو ہمزہ کا باقی رکھنا ضروری ہے تاکہ دو واؤ جمع نہ ہو جائیں۔ جیسے عشاء سے عشاء ان۔

تفرقات اور بعض کی جمع جمع کسرتی ہے جیسے اساکل، قناصل، بطارک، کراولہ۔

تنبیہ :- اگر کلمہ ثلاثی ہو اور اس کا مین کلمہ صحیح ہو اور فَعْل اور فَعْلَة کے وزن پر ہو تو جمع بناتے ہوئے مین کلمہ کو فتح دینا ضروری ہے۔ جیسے تمرات۔ زَحْمَة وَحَمَات۔

اور اگر فَعْلُ یا فَعْلُ کے وزن پر ہو تو فتح دینا ساکن رکھنا اور فاکلمہ کی حرکت جیسی حرکت دینا بھی جائز ہے جیسے کِسْوَة سے کِيسِرَات، کِيسِرَات، کِيسِرَات، کِيسِرَات، حُجْرَة سے حُجْرَات، حُجْرَات، حُجْرَات۔

اور اگر کلمہ اجوف ہو تو مین کلمہ جمع میں ہمیشہ ساکن رہے گا خواہ فاکلمہ کی حرکت کیسی ہی ہو جیسے جَوْرَة سے جَوْرَات، بیعة سے بیعات

اور اگر ناقص ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحیح کا ہے جیسے رَمِيَة سے رَمِيَات اور رُقُوَة سے رُقُوَات، زُقُوَات، لیکن اگر فاکلمہ کسور اور لام کلمہ داوی ہو تو صرف فتح دینا اور ساکن رکھنا جائز ہے اور ہم شکل فاینانا جائز نہیں جروات شاذ ہے۔ اسی طرح اگر فاکلمہ مضموم ہو اور لام یائی ہو تو بھی دونوں صورتیں ہوں گی اجتہاد جائز نہیں۔

اور اگر کلمہ مدغم ہو تو جمع بناتے ہوئے لک ادغام نہیں ہو گا۔ جیسے حَمَمَة سے حَمَمَات۔ عَزَة سے عزات۔

جمع کسر

اوپر بتلایا جا چکا ہے کہ جمع کسورہ ہے جس میں واحد کا وزن اپنی حالت پر باقی نہ رہے کچھ نہ کچھ تغیر ہو جائے۔ اس تغیر کی تین صورتیں ہیں کبھی تو زیادتی سے جیسے زَجَل سے رجال۔ کبھی حذف سے جیسے رسول سے رُسُل۔ کتاب سے کتب اور کبھی محض حرکت کی تبدیلی سے جیسے اَسَد سے اُسُد۔ بَغْت سے بُغْت۔

جمع کسور کی دو قسمیں ہیں: جمع قلت، جمع کثرت۔

جمع قللة وہ ہے جس سے تین سے دس تک کی تعداد معلوم ہوتی ہے اس کے چار وزن ہیں:

أَفْعَالٌ جیسے جُفْلٌ سے أَطْفَالٌ۔ أَفْعَالٌ جیسے نر سے انہر۔

أَفْعَلَةٌ جیسے رَغِيفٌ سے أَرْغَفَةٌ۔ لَفْعَةٌ سے لَفْعَةٌ جیسے فنی سے

فنیہ۔

اضافات کسرت کے مثلاً ذومعدی کرب، ذود، طبک۔

اور اگر صفت ہو تو شرط یہ ہے کہ مذکر ہو، ذوی العقول میں سے ہو اور فاعل فاعلان یا فعلان فعلی کے وزن پر نہ ہو اور ایسا اسم بھی نہ ہو جس میں مذکور و مؤنث دونوں برابر ہوں جیسے جویح و صبور اور ایسا بھی نہ ہو کہ تاء تانیث سے التباس کا خوف ہو جیسے علامۃ کچھ ایسے اسم ہیں کہ ان میں شرطیں نہیں پائی جاتیں مگر جمع ذکر سالم کے وزن پر ان کی جمع آتی ہے۔ مثلاً ارضون، عالمون، عِلْمُون، اهلون، بنون، سنون اور اسی طرح ہر وہ کلمہ ثلاثی جس کا لام کلمہ حذف کر دیا گیا ہو اور اس کے عوض میں تاء لایا گیا ہو اس کی جمع بھی واؤ لون سے آتی ہے جیسے عضون، سیون، منون۔

جمع مؤنث سالم

جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف و تاء کی زیادتی ہو جیسے ثمرات و شجرات۔ اگر مفرد کے آخر میں پہلے ہی سے تاء ہو تو جمع بناتے ہوئے اس کو حذف کر دیتے ہیں جیسے طالبۃ سے طالبات، مسلمۃ سے مسلمات۔

اس وزن پر مندرجہ ذیل اسماء کی جمع آتی ہے۔

(۱) ہر وہ اسم جس کے آخر میں تاء ہو جیسے ثمرۃ سے ثمرات، شجرۃ سے شجرات، امرأۃ، شاة، قلۃ، أمة، ملة، شفة اس سے مستثنیٰ ہیں۔

(۲) ہر وہ اسم جو مؤنث کا علم ہو جیسے زینب سے زینبات،

مریم سے مریمات۔

(۳) ہر وہ اسم جو مصدر ہو اور تین حرف سے زائد ہو جیسے تفرقات اختیارات، امتیازات۔

(۴) ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف تانیث مقصورہ یا ممدودہ ہو۔ جیسے صحراء سے صحرات، حی سے حیات۔

اور ان اسماء مقصورہ یا ممدودہ میں الف کی تبدیلی یا بقا کے

متعلق وہی صورتیں اختیار کی جائیں گی جن کا ذکر فنی میں ہو چکا

ہے۔ اسماء مذکورہ بالا کے علاوہ میں اس وزن پر جمع کا آنا سماں ہے

جیسے سلوات، ارضیات، سجات، حلمات، مرادقات، ثلثات،

اہمات، سراویات وغیرہ۔

الفاظ اچھے میں سے بعض کی جمع اسی وزن پر آتی ہے جیسے

اجزۃ کی جمع اریزہ۔

(۸) فعالیل ہر اس رباعی کی جمع جس کے حرف آخر سے پہلے مدہ ہو جیسے قرطاس کی جمع قرطیس۔ عصفور کی جمع عصفایر۔

(۹) مفاعیل وفعل اور مفعلة کی جمع جیسے مبضع کی جمع مباضع۔ مکنسة کی جمع مکانس۔

(۱۰) مفاعیل مفاعیل اور مفعیل مفعول کی جمع مفتاح کی جمع مفتاحیح۔ مسکین کی جمع مساکین، مقدور کی جمع مقادیر۔

اسم جمع و شبہ جمع

اسم جمع وہ ہے جس سے جمع کے معنی ظاہر ہوں اور اس کے لیے اسی مادہ سے مفرد نہ ہو جیسے خیل، قوم، رطب، حیث۔

شبہ جمع وہ ہے جو جمع کے معنی کو ظاہر کرے اور واحد جمع میں تاء کی وجہ سے امتیاز ہو مثلاً: ورق کہ اس کا مفرد ورقہ۔ ہے، شمر کہ اس کا واحد شمرہ ہے۔ اور اسی قبیل سے ہے وہ کہ واحد اور جمع میں یاء نسبتی کی وجہ سے فرق ہو جیسے الروی۔ رویوں میں کا ایک۔ الجوی۔ مجوسیوں میں سے ایک۔ لیکن اس کا لحاظ رہے کہ پہلا غیر ذوی العقول کے لیے اور دوسرا ذوی العقول کے لئے۔

ہر اسم جمع اور شبہ جمع کی جمع مفردات کے طرز پر آتی ہے جیسے قوم کی جمع اقوام، رفقہ کی جمع رفق، نجم کی جمع انجم اور روم کی جمع اروام۔

صفت

صفت ہر وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ کوئی وصف ہو اس کی پانچ قسمیں ہیں۔ (۱) اسم فاعل (۲) اسم مفعول (۳) صفت مشبہ (۴) اسم تفضیل (۵) اوزان مبالغہ۔

صفت کی تائید

صیغہ صفت کو اگر مؤنث بنانا ہو تو آخر میں تا لگا دو، جیسے صادق صادقہ، عالم، عالمہ، لیکن وہ صفت جو نفعان یا افضل کے وزن پر یا اسم تفضیل ہو اس کے احکام جدا گانہ ہیں۔

(۱) جو صیغہ صفت کا نفعان کے وزن پر ہو اس کے لیے مؤنث فعلی کے وزن پر آتی ہے جیسے عطشان سے عطشی سکران سے سکری، ظمان سے ظمائی لیکن بعض کلمات ایسے ہیں کہ ان کی تائید تاء کے ساتھ آتی ہے اور وہ یہ ہیں: البان، حبلان، خصمان، سخان، صہ جان، قشہ ان،

اضال کی دوبارہ جمع افاضل کے وزن پر ہے جیسے انعام کی جمع اناعمیم اور افضل کی جمع افاضل کے وزن پر جیسے اکلب کی جمع اکالب آتی ہے اس کو جمع حسی المبروح کہتے ہیں اور اس سے مراد تمام وہ اوزان ہیں جن میں الف جمع کے بعد دو حرف متحرک یا تین حرف ہوں اور درمیان میں یاء ساکن ہو جیسے مساجد، منابر، اناعمیم، قنادیل۔

(تبیہ) جمع قلت پر الف لام استغراق داخل ہو اور یا ایسی چیز کی طرف اضافت ہو جس کی دلالت کثرت پر ہو تو کثرت کا فائدہ دیتی ہے جیسے ایہا الشیوخ لا تکتونوا کالفتیة۔ احفظوا انفسکم۔

جمع کثرت وہ ہے جو تین سے زیادہ الی غیر التمازیج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے اوزان بہت ہیں، صرف چند قیاسی ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ جمع سالم کی دونوں قسمیں بعض کے نزدیک جمع قللة کا فائدہ دیتی ہیں اور بعض کے نزدیک مطلق جمع کا بغیر قلت و کثرت کا لحاظ کیے ہوئے جس کا مال یہ ہے کہ قلت و کثرت دونوں کا فائدہ دیتی ہیں۔

جمع کثرت کے قیاسی اوزان

(۱) فَعْلٌ فَعْلَةٌ کی جمع جیسے غَلْبَةٌ کی جمع غَلَبٌ۔ صورت کی جمع صور صُورَةٌ کی جمع صُورٌ۔

(۲) فَعْلٌ فَعْلَةٌ کی جمع جیسے قِطْعَةٌ کی جمع قِطْعٌ۔ لیکن فَعْلَةٌ کی جمع کبھی فَعْلٌ بھی آتی ہے جیسے حلیۃ کی جمع حلی۔ لہجۃ کی جمع۔ لہجی۔

(۳) فعالیل ہر رباعی مجرد کی جمع جیسے بلبل کی جمع بلابل، سندس کی جمع حناس، اور خماسی مجرد و مزید کی جمع بھی جیسے سفرجل کی جمع سفارج، اور خندریس کی جمع خندارس۔

(۴) ہواصل ہر ثلاثی کی جمع جس کے فاکلہ کے بعد واو یا الف کی زیادتی ہو جیسے جوہر کی جمع جواہر۔ خاتم کی جمع خواتم۔

(۵) فاعل مؤنث کی جمع جس کا تیسرا حرف مدہ ہو جیسے صحیفہ کی جمع صحائف، رسالہ کی جمع رسائل۔

(۶) الفاعل المفعول (بشیت العزۃ) کی جمع الفاعل اصبع کی جمع لہص اصابع، أملة کی جمع أمائل، اجدل کی جمع اجادل۔

(۷) الفاعیل المفعول اور المفعولۃ کی جمع جیسے اسلوب کی جمع سالیب

مرضع، حامل اور حدوث کے معنی کا لحاظ ہو تو تاء آتی ہے جیسے
ارضعت فہی مروضعة۔

صفت کی جمع

اگر صفت کا مینہ ذوی العقول کے لیے ہو خواہ مذکر خواہ
مؤنث اس کی جمع جمع سالم لاتے ہیں جیسے رجال صادقون، نساء
صادقات جو صفت الفعل فعلاء یا فعلان فعلی کے وزن پر یا اسم
فاعل ناقص کا یا فاعیل بمعنی مفعول ہو ان کے احکام جدا گانہ ہیں۔
(۱) جو مینہ صفت کا اصل فعلاء کے وزن پر ہو اس کی جمع فعل کے
وزن پر آتی ہے جیسے امرئ حمیر۔ ازرق کی زرقی، اخرج کی
خرج، اعفی کی عمی لیکن اگر کلمہ اجوف یائی ہو تو تاء کو کسو
دے دیتے ہیں۔ عید، بیض، ہیف، اخید، ایہض، ایف کی
جمع۔

(۲) جب صفت فعلان فعلی کے وزن پر ہو تو اس کی جمع فعالی یا
فعال کے وزن پر آتی ہے جیسے سکاری و حباری سکوران و
حبران کی جمع اور ججاج و غضاب جو عمان اور غضبان کی
جمع۔

(۳) اسم فاعل ناقص کی جمع فَعْلَةٌ کے وزن پر آتی ہے جیسے دعاة
رماة، غزاة کہ اصل ان کی دَعْوَةٌ زُنْبَةٌ غزویہ ہے۔

(۴) ایسے مادہ سے جو بلاکت، درد یا تَشْتُّش کے معنی پر دلالت کرے
اس سے فعل بمعنی مفعول کی جمع فعلی کے وزن پر آتی ہے
جیسے جرجع کی جمع جرجعی، صریح کی جمع صریحی، شیت کی جمع شیتی
اور اسی پر حمل کیا گیا ہے اس کو بھی جو معنی میں اس سے
مشابہت رکھتا ہو اور فاعیل بمعنی فاعل ہو جیسے مریض کی جمع
مرضی — یا فعل کے وزن پر ہو جیسے زمن کی جمع زمینی یا فاعل
کے وزن پر ہو جیسے ہالک کی جمع ہالکی۔

صفت کی جمع کے بقیہ قیاسی اوزان چھ ہیں۔ فَعَالٌ، فَعْلَةٌ، فَعْلٌ،
فَوَاعِلٌ، فَعْلَاءَةٌ اور اِیْعَاءٌ۔

(۱) فَعَالٌ اور فَعْلَةٌ ہر اس اسم کی جمع ہے جو فاعل کے وزن پر ہو اور
اس کا لام کلمہ صحیح ہو جیسے زانو کی جمع زَوَاز۔ صائم کی جمع
صَوَامٌ اور کتاب کی جمع کتبا، ظالم کی جمع ظالمات۔

فَعْلَةٌ کا وزن عموماً اس فاعل کی جمع کے لیے ہے جو اجوف صلا
ہو اور کسی پٹھے پر دلالت کرتا ہو جیسے مسافة، باعة، حاكمة

مَصَانٌ، مَوْتَانٌ، نَدَمَانٌ، لَصْرَانٌ اور بعض کلمات کی تانیف
فعلی کے وزن پر بھی اور تاء کے ساتھ بھی آتی ہے جیسے
عطشان سے عطشی اور عطشانة، غضبان سے غضبی
اور غضبانة۔

(۲) صفت کا مینہ جو الفعل کے وزن پر ہو اس کی تانیف فعلاء کے
وزن پر ہو جیسے ایہض سے بیضاء، اسر سے سراء۔

(۳) اسم تفضیل کے لیے مؤنث کا مینہ فعلی ہے جیسے اکرم سے
کُرْمٰی۔ اصغر سے صغریٰ لیکن اگر کلمہ ناقص وادی ہو تو اول
کو یاء سے بدل دیتے ہیں۔ جیسے احملی سے خلیاء۔ اولیٰ سے
دنیاء۔

کچھ صفت کے بیٹے ایسے ہیں جن میں تذکیر و تانیف برابر
ہے اور وہ یہ ہیں:

(۱) فَعَالَةٌ جیسے رَجُلٌ، فَهَامَةٌ، اِمْرَاَةٌ، فَهَامَةٌ۔

(۲) مِفْعَالٌ جیسے رَجُلٌ مِفْعَالٌ، اِمْرَاَةٌ مِفْعَالٌ اور مِفْعَانَةٌ شاز
ہے۔

(۳) مِفْعِيلٌ جیسے رَجُلٌ مِفْعِيلٌ، اِمْرَاَةٌ مِفْعِيلٌ اور مِسْكِينَةٌ شاز
ہے۔

(۴) مِفْعَلٌ جیسے رَجُلٌ مِفْعَلٌ، اِمْرَاَةٌ مِفْعَلٌ۔

(۵) فَعْلَةٌ اور فَعْلَةٌ جیسے رَجُلٌ ضَحْكَةٌ اِمْرَاَةٌ ضَحْكَةٌ اور اگر
عین کو فتح دے دیا جائے تو فاعلیت کے معنی ہوں گے جیسے
ضحکة۔ بہت ہنسنے والا۔ ہمزہ۔ بہت عیب لگانے والا ہَزَاةٌ۔
بہت ٹھٹھا کرنے والا۔

(۶) فعل جو فاعل کے معنی میں اور فاعیل جو مفعول کے معنی میں ہو
جیسے رجل صبور، غلام قلیل، اِمْرَاَةٌ قَلِيلٌ لیکن یہ اس
وقت ہے جبکہ موصوف معروف ہو ورنہ تاء کے ساتھ فرق
کرنا ضروری ہے ہاں عدوۃ شاز ہے۔

کبھی فاعیل جو مفعول کے معنی میں ہو باوجود معروف
ہونے کے مؤنث کو تاء کے ساتھ لاتے ہیں خاتمة سعیدة،
عاقبة حمیدة اور کبھی فاعیل فاعل کے معنی میں مؤنث بغیر تاء
کے جیسے اِمْرَاَةٌ عَقِيمٌ، نَحِیْیُ الْعِظَامِ وَهِيَ زَبِينٌ۔

جو صفت کہ طبقہ اثاث ہی کے ساتھ مخصوص ہیں جب معنی
حدوث کا لحاظ نہ ہو تو عموماً آخر میں تاء نہیں آتی جیسے طالق،

اور اگر چوتھا حرف ہو اور اصلی ہو تو واؤ سے تبدیلی زیادہ ہے جیسا کہ مزہبی سے مرموی اور حذف کرنا بھی جائز ہے جیسے مزہبی اور اگر اصلی نہ ہو بلکہ زائد ہو تو خواہ تانیث کے لیے ہو خواہ الحاق کے لیے تو وہاں پر حذف مختار ہے جبلی اور ڈھرویٰ کہا جائے گا اور واؤ سے بدل دیں تو یہ بھی جائز ہے اس صورت میں جبلی 'ذہرویٰ' کہا جائے گا لیکن الف تانیث کو جب واؤ سے بدلتے ہیں تو اکثر اس سے پہلے ایک الف بڑھا دیتے ہیں جیسے طوباوی۔ ذہباوی۔

اور اگر الف مقصورہ ایسے اسم میں واقع ہو جس کا دوسرا حرف متحرک ہو تو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے مصطفیٰ سے مصطفیٰ اور بعض واؤ سے بدلنا بھی جائز کہتے ہیں اس صورت میں کہا جائے گا مصطفویٰ اگر اسم کے آخر میں الف ممدودہ تانیث کے لیے ہو تو واؤ سے بدل دیا جائے گا جیسے صفراء سے صفراوی۔ بیضاء سے بیضاوی اور اگر اصلی ہو تو اس کا باقی رکھنا ضروری ہے جیسے قراء سے قرآنی۔ ابتداء سے ابتداء۔ انتاء سے انتائی۔

اور اگر اصلی نہ ہو تو باقی رکھنا اور واؤ سے بدلنا دونوں جائز ہے جیسے رداء سے روانی یا رداوی، ساء سے سائی یا سلاوی۔

اور اگر اسم مقصور ہو اور یاء تیسری جگہ میں ہو تو اس کو واؤ سے بدل دیتے ہیں اور اس کے ماقبل کو فتح دیتے ہیں جیسے عی سے عموی۔ اور اگر چوتھی جگہ یا اس سے زائد ہو تو حذف کرنا جائز ہے جیسے قاضی سے قاضی۔ ماضی سے ماضی اور واؤ سے بدلنا بھی جائز ہے اور اس صورت میں ماقبل کو فتح دیا جائے گا کہا جائے گا قاضوی، ماضوی اور اگر پانچویں جگہ یا اس سے زائد ہو تو حذف کرنا ضروری ہے جیسے مستعلی سے مستعلی، معتدی سے معتدی۔

اگر کلمہ فعیل کے وزن پر ہو اور آخر میں حرف صحیح ہو تو وزن اپنی حالت پر باقی رہے گا۔ جیسے حنیف سے حنیفی غلیل سے غلیلی اور اگر ناقص ہو تو ایک یاء کو حذف کر دیا جائے گا اور دوسرے کو واؤ سے بدل دیا جائے گا اور ماقبل کو فتح دیا جائے گا جیسے غلیبی سے غلیبی۔ غلیبی سے غلیبی۔

اور اگر فعیلہ کے وزن پر ہو مضاعف اور متصل نہ ہونے کی صورت میں یاء کو حذف کر دیا جائے گا اور ماقبل مفتوح ہو گا جیسے

صاحۃ کہ اصل میں سوقۃ بیعۃ 'حیکۃ' صوغۃ تھے۔

(۲) فَعْل بھی فاعل کی جمع جیسے شَحْدُ ساجِد کی جمع نُؤْم نام کی جمع جَوْعُ جانع کی جمع۔

(۳) فَواعِل فاعلۃ کی جمع جیسے صواحب صاحبة کی جمع عواذل عاذلۃ کی جمع اور فاعل کے وزن پر اس فاعل کی جمع بھی آتی ہے۔ جو طبقہ اثاث کے صفات کے لیے ہو جیسے عواقر، عاقر، عاقر کی جمع حوامل حاصل کی جمع طوائق طالق کی جمع۔

(۴) فعلاء فعیل کی جمع جو معنی میں فاعل کے ہو جیسے کرماء کریم کی جمع۔ عَلَمَاءُ علیم کی جمع۔

(۵) المعلاء فعیل کی جمع جو مضاعف یا معتل اللام ہو جیسے اغنیاء غنی کی جمع اوقیا قوی کی جمع۔

مذکر اسم تفضیل کی جمع جمع سالم افطون کے وزن پر آتی ہے جیسے اعظمون اکرمون اور جمع مکسر افعال کے وزن پر جیسے اصاغرو۔ اکابرو

مؤنث اسم تفضیل کی جمع سالم فعیلات کے وزن پر جیسے عظیمات، کرمیات اور جمع مکسر فعل کے وزن پر جیسے ضغرو، کھرو۔ میندھتی الجموع کی جمع مکسرتو نہیں آتی لیکن جمع سالم آتی ہے جیسے ضوارب کی جمع ضواربات۔ افاضل کی جمع افاضلون

نسبۃ

کسی چیز کی طرف نسبت ظاہر کرنے کے لیے اسم کے آخر میں یاء مشدود لائق کرنے کا نام نسبت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ماقبل یاء کو مناسبت کی وجہ سے کسرہ دیا جائے جیسے رجل مضرب۔

اگر اسم ثلاثی مکسور العین ہو تو نسبت کرتے وقت عین کو فتح دیا جائے گا۔ مثلاً فحل میں فحلذی اور ملک میں ملکی کہا جائے گا اور اگر رباعی ہو تو واضح یہ ہے کہ عین پر کسرہ باقی رہے گا۔ جیسے مشرق میں مشرقی مغرب میں مغربی یشرب میں یشری۔

اگر کسی ایسے اسم کی طرف نسبت ہو جس کے آخر میں تاء ہو تو اس کا حذف کرنا ضروری ہے جیسے قاہرہ سے قاہری۔

اگر اسم کے آخر میں تیسرا حرف الف مقصورہ ہو تو واؤ سے بدل دیا جائے گا۔ جیسے عصا سے عصوی۔ فسی سے فتوی۔

جائز ہے اور انہی واسطی بھی کما جائز ہے۔
 اور اگر محذوف کے بدلے میں تاء تانیہ ہو تو تاء کو حذف کر
 دیا جائے گا اور محذوف کو دوبارہ لایا جائے گا جیسے صنفہ سے سنوی
 لفظ سے لغوی اور زلفہ سے وُزْنُی اور صلۃ سے وصل۔
 تشبیہ اور جمع کی طرف نسبت کرنا ہو تو مفرد کی طرف لوٹا دیا
 جائے گا جیسے عراقین سے عراقی، مسلمین سے مسلمی۔
 یہی حکم ہے کہ ان کا جو تشبیہ اور جمع کے ساتھ لاحق ہیں جیسے
 النہین سے الفی اور ثنوی۔ عشرين سے عشری، انہین سے
 انہی۔

ایسے جمع جن کے لیے مفرد نہیں جیسے اہلبل و صنادید اور یا
 مفرد تو ہیں لیکن اسی لفظ سے نہیں جیسے خاطر، مناجذ، نساء، نسبت
 کرتے ہوئے اپنے حال پر باقی رہیں گے جیسے خاطر، مناجذی،
 نسائی۔

بعض علماء صرف کے نزدیک جمع کسر نسبت کی حالت میں اپنی
 وضع پر رہے گا جیسے ملائکہ سے ملائکی۔ ملوک سے ملوکی۔
 اور جو جمع کسر ظم ہو گیا ہو وہ بھی نسبت کی حالت میں مفرد کی
 طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ جیسے انبار سے انباری، انصار سے
 انصاری، اہواز سے اہوازی۔

اور مرکب بتائی میں نسبت کرتے ہوئے آخر کا جزء حذف کر
 دیا جائے گا اور اول جزء کی طرف نسبت کریں گے جیسے بعلعی و
 معدی جبکہ بعلبک اور معدی کرب کی طرف نسبت کرنا ہو اور
 کبھی مجموعہ کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے بعلبک و معدی کہلی۔

اور مرکب اضافی کی صورت میں کسی میں جزء اول کی طرف
 نسبت کرتے ہیں اور کسی میں جزء ثانی میں جیسے امراء القیس سے
 امرئی دیر القمر سے دیرانی، عبد الاشمل سے اشملی، ابو بکر سے بکری
 عبد مناف سے منافی۔ کبھی مرکب اضافیہ میں پورے کی طرف
 نسبت کرتے ہیں جیسے عین اہل سے عین اہلی وادی آتش سی وادی
 آشی، عین حور سے عین حوری۔

اور مرکب استنادی میں صدر یعنی جزء اول کی طرف نسبت
 ہوتی ہے اور بجز یعنی جزء ثانی کو حذف کر دیا جاتا ہے جیسے کابلہ شرا
 سے نابطی، ذرحیثا سے ذری۔

ہمنہ سے منی، فریضہ سے فرضی۔ بعض الفاظ میں یاء کا باقی رہنا
 شاذ ہے جیسے طیبی، سلیمی۔

اور اگر مضاعف یا متصل عین ہو تو کچھ حذف نہیں ہو گا
 طویلہ کی نسبت میں کما جائے گا طویل اور عزیزہ میں عزیزہ۔

جو حکم فعلیل و فعلیۃ کا بیان کیا گیا ہے یہی فعلیل و فعلیۃ
 میں بھی جاری ہو گا جیسے عقیل سے عقیلی۔ قصی سے
 قُصُوئی۔ قلیبۃ سے قَلِیبُئی۔ اُمَیْمَۃ سے اُمَیْمِیۃ۔

اگر اسم کے آخر میں واو چوتھی جگہ یا اس سے زائد پر ہو
 اور اس کے ما قبل ضم ہو تو نسبت کرتے ہوئے واو کو حذف کر دیا
 جائے گا۔ فلنسوة سے فلنسیۃ اور توقوۃ سے ترقی کما جائے گا
 اور نہیں تو واو باقی رہے گا جیسے عدو سے عدوی، ولو سے ولوی۔

اگر اسم کے آخر میں یا مشدد ہو اور اس سے پہلے دو حرف
 ہوں تو یاء کا حذف کرنا ضروری ہے جیسے شافعی کی طرف نسبت
 کرتے ہوئے شافعی ہی کما جائے گا اور اسکندریہ کی طرف نسبت
 کرتے ہوئے اسکندری۔

اور اگر یاء سے پہلے ایک ہی حرف ہو جیسے حی تو دوسرے
 حرف کو فتح دینا اور تیسرے کو واو سے بدل دینا واجب ہے جیسے کہ
 حی سے حیوی۔

اور اگر دوسری یاء واو سے بدل کر آئی ہو تو نسبت کرتے
 ہوئے پھر واو ہو جاوے گی جیسے طی سے ظَوِیۃ اگر کسی کلمہ سے
 آخر حرف کا حرف حذف ہو گیا ہو اور محذوف منہ میں دو حرف
 باقی ہوں تو نسبت کرتے ہوئے اس محذوف حرف کو واپس لایا
 جائے گا جیسے اب سے ابوی، اخ سے اخوی۔

لفظ اخت اور بنت کی طرف نسبت تاء کے ساتھ ہوتے
 ہوئے کما جاتا ہے اختی و بنتی اور بعض حذف کر دیتے ہیں اور کہتے
 ہیں اخوی بنوی اور لفظ ابنۃ کی نسبت میں انبی اور بنوی کما جاتا
 ہے۔ یہ اور دم جیسے الفاظ میں محذوف کو لوٹا دینا واضح ہے کما جائے
 گا یَدَوِیۃ ذَوِیۃ اور بغیر واو کے لائے ہوئے بھی نسبت کرنا جائز
 ہے جیسے یدئی۔ ذمئی۔

اور اگر کسی کلمہ میں محذوف کے عوض میں ہمزہ وصل لایا گیا
 ہو جیسا کہ ابن اور اسم میں تو عوض کو حذف کر دینا اور محذوف کو
 لوٹانا جائز ہے۔ اسم اور ابن کی نسبت میں سموئی اور بنوی کما

حروف تہجی کے لحاظ سے ان اسماء کے تفصیل جو قواعد نسبت کے خلاف مستعمل ہیں

رُوحَانِيٌّ	رُوحَاءِ	رُوحَاءِ	حُرُورَاءِ	حُرُورَاءِ	أَنْهَاءِ	أَنْهَاءِ
رَازِيٌّ	"	رَازِيٌّ	حَرَمِيٌّ	حَرَمِيٌّ	أَمْوِيٌّ	أَمْوِيٌّ
رُوبِيٌّ	"	رُوبِيٌّ	حَضْرَمِيٌّ	حَضْرَمِيٌّ	بَدَوِيٌّ	بَدَوِيٌّ
سَهْلِيٌّ	"	سَهْلِيٌّ	خُزَيْنِيٌّ	خُزَيْنِيٌّ	بِحْرَانِيٌّ	بِحْرَانِيٌّ
سَلِيْقِيٌّ	"	سَلِيْقِيٌّ	ذَهْرِيٌّ	ذَهْرِيٌّ	بَهْرَانِيٌّ	بَهْرَانِيٌّ
سَلِيْمِيٌّ	"	سَلِيْمِيٌّ	ذَيْرَانِيٌّ	ذَيْرَانِيٌّ	تَهَامِيٌّ يَأْتِهَامُ	تَهَامِيٌّ
سَلِيْمِيٌّ	"	سَلِيْمِيٌّ	ذَارَانِيٌّ	ذَارَانِيٌّ	تَيْمَلِيٌّ	تَيْمَلِيٌّ
شَامِيٌّ	"	شَامِيٌّ	رَبَانِيٌّ	رَبَانِيٌّ	تَقْفِيٌّ	تَقْفِيٌّ
شَعْرَانِيٌّ	"	شَعْرَانِيٌّ	رَقَبَانِيٌّ	رَقَبَانِيٌّ	جَمَانِيٌّ	جَمَانِيٌّ
صَدْرَانِيٌّ	"	صَدْرَانِيٌّ	رَامِيٌّ	رَامِيٌّ	جَدَمِيٌّ	جَدَمِيٌّ
صِنَاعَانِيٌّ	"	صِنَاعَانِيٌّ	رَدِيْنِيٌّ	رَدِيْنِيٌّ	جَلُولِيٌّ	جَلُولِيٌّ
طَبِيْعِيٌّ	"	طَبِيْعِيٌّ	رُوحَانِيٌّ	رُوحَانِيٌّ	خُلَيْبِيٌّ	خُلَيْبِيٌّ
مَرْوَزِيٌّ	مَرْوَالشَاهِجَهَانِيٌّ	مَرْوَالشَاهِجَهَانِيٌّ	فُقَيْمِيٌّ	فُقَيْمِيٌّ	طَلَانِيٌّ	طَلَانِيٌّ
مَرْقِيسِيٌّ	مَرْوَالْقَيْسِيٌّ	مَرْوَالْقَيْسِيٌّ	فُرْهُودِيٌّ	فُرْهُودِيٌّ	عُمَيْرِيٌّ	عُمَيْرِيٌّ
هَاجِرِيٌّ	"	هَاجِرِيٌّ	قَوْمِيٌّ	قَوْمِيٌّ	عَبْدِيٌّ	عَبْدِيٌّ
هُذَلِيٌّ	"	هُذَلِيٌّ	قَرِيشِيٌّ	قَرِيشِيٌّ	عَبْسَمِيٌّ	عَبْسَمِيٌّ
نُبَاطِيٌّ يَأْتِ	"	نُبَاطِيٌّ	كَنْتِيٌّ	كَنْتِيٌّ	عَبْدَرِيٌّ	عَبْدَرِيٌّ
نُبَاطِيٌّ	"	نُبَاطِيٌّ	لُحْيَانِيٌّ	لُحْيَانِيٌّ	عَبْقَيْسِيٌّ	عَبْقَيْسِيٌّ
نَضْرَانِيٌّ	"	نَضْرَانِيٌّ	مُلْجِحِيٌّ	مُلْجِحِيٌّ	عَبْدَلِيٌّ	عَبْدَلِيٌّ
يَمَانِيٌّ	"	يَمَانِيٌّ				

تصغیر

اسی حالت پر رہے گا جس پر تغیر سے پہلے تھا۔ جیسے ثمرۃ کی تغیر فَمِيزٌ بشری کی بشیری۔ سمرا کی سمیراء۔ سکران۔ سکران۔ غضبان کی غضیبان اگر کلمہ مؤنث معنوی کا ہو تو تغیر بنانے میں تاہ۔

اگر کلمہ مؤنث معنوی کا ہو تو تغیر بنانے میں تاہ مقدرہ کا ظاہر ہونا ضروری ہے جیسے ارض سے ارضۃ۔ شمس سے شمسۃ لیکن شرط یہ ہے کہ التباس سے امن ہو ورنہ جہاں التباس کا خوف ہو گا ظاہر نہیں کریں گے، مثلاً خمس جبکہ معدود مؤنث ہو تو تغیر میں خمس کہیں گے خمسیت نہیں تاکہ معدود مذکر کے لفظ خمسۃ کی تغیر سے التباس نہ ہو۔

قلت یا حقاوت ظاہر کرنے کے لیے اسم میں کچھ تغیر کرنے کا نام تغیر ہے۔ ثلاثی مجرد سے فَعِيل کے وزن پر آتا ہے جیسے کلب سے کلیب۔ عبد سے عبید۔ رجل سے رجیل۔ ثلاثی مزید ربائی اور نحاسی سے اگر چہ تھارف مدہ نہ ہو تو فَعِيل کے وزن پر جیسے جَعْفَر سے جَعْفَرُو۔ سفر جیل سے سفیرج اور اگر مدہ ہو تو فَعِيل کے وزن پر جیسے فرطاس سے فَرَطِيس مضراب سے مَضْرُوب اگر اسم کے آخر میں علامت تانیث کا یا الف نون لاء کان ہو تو علامت تانیث یا الف نون سے مثل ہو تو حرف ہو گا وہ

کی تفسیر و زینة و عبدة ہوگی اور اخت اور بنت کی تفسیر اُختیة
نبتة آئے گی۔

شمی اور جمع سالم کی تفسیر اس طرح پر آئے گی مؤمنان کی
مؤمنان، مؤمنون کی مؤمنون، مومنات کی مومنات۔

اسی طرح جمع قلت کی تفسیر ارغفة کی ارغفة ہوگی۔

اور جمع کثرت کی تفسیر بنائے کا قاعدہ یہ ہے کہ مفرد کی تفسیر بنا

کر واو لون لگا دیا جائے گا جیسے غلام کی جمع غلمان کی تفسیر کی

صورت یہ ہوگی کہ غلام کی تفسیر غُلَامِ بنا کر واو لون لگا کر

غلیمون کہا جائے گا۔ اسی طرح شاعر کی جمع شعراء کی تفسیر

شویعون ہوگی اور اگر ذکر لا یفعل یا مؤنث ہو تو آخر میں اسی

طرح الف تاء لگائیں گے جیسے جاریتہ کی جمع جوار کی تفسیر جو ریات

درہم کی جمع درہمات کی درہمات اور مرکب اضافی کی تفسیر اس طرح

پر ہوگی کہ پہلے جزء کی تفسیر بنا کر دوسرے جزء کو اپنی حالت پر چمڑ

دریں گے مثلاً عبد اللہ کی تفسیر عبید اللہ ہوگی۔ اور یہی حالت

مرکب بنائی کی ہوگی جیسے معد ہکوب کی تفسیر معد ہکوب۔

حضر موت کی تفسیر حضر موت، نبطویہ کی تفسیر نبطویہ،

خسمة عشر کی خسمة عشر، بعلبک کی بعلبک۔

اور مرکب اسنادی مثلاً تائب شرکی تفسیر تائب شرکی۔

تنبیہ :

کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی تفسیر خلاف قیاس آتی ہے۔ ابھجر،

بحر کمی، انیسان، انسان کی۔ رویجل، رجل کی، اصیلال،

اصیل کی۔ عیشیة، عشیة کی۔ اُصیبیة، صبیة۔ اغیلمة

غلمة کی۔ اسی طرح قویس، ذریع، حریب، لعیل، عریس۔

ذوید کہ ان سب میں قیاس کے مطابق آخر میں تاء ہونے چاہئے

تھی۔

ہمزہ کی کتابت کے قواعد :

ہمزہ اگر ابتداء میں واقع ہو تو ہمیشہ الف کی صورت میں لکھا

جائے گا جیسے اسماء، ابناء، اکرام، اسی طرح اگر ابتداء میں ہو مگر

اس کے ساتھ کوئی دوسرا حرف متّصل ہو جیسے باجمل، لافضل۔

لیکن لئلا اور لئن اور یومثل اور حینئد میں تخفیف کے لیے

کثرت استعمال کی بنا پر اپنی حرکت کے موافق لکھا جائے گا۔

اور اگر ہمزہ وصل ہو اور فاء یا واو کے بعد واقع ہو تو حذف کر

اگر کلمہ میں حرف علت ہو اور تعلیل ہو چکی ہو تو تفسیر بنانے

میں اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ مثلاً باب کی تفسیر بویب اور

ناب کی تفسیر نیب ہوگی۔ اس لیے کے باب کا الف واو اور ناب

کا الف یا تھا اس وجہ سے کہ ان کی جمع ابواب اور انیاب آتی

ہے اور قاعدہ ہے کہ جمع تکمیر اسماء کو اصل کی جانب لوٹا دیتی ہے۔

اور اگر کلمہ ایسا ہو کہ یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا الف واو سے

بدلا ہوا ہے یا یا سے تو وہاں پر ما قبل کے ضمہ کا لحاظ کرتے ہوئے

تفسیر میں واو لایا جائے گا۔ جیسے عجاج سے عویج کہا جائے گا۔

لفظ عید کی تفسیر عبید شاذ ہے۔ قیاس کے لحاظ سے عوید

ہونا چاہئے تھا اور اگر واو یا بدلے ہوئے نہ ہوں تو اپنی حالت پر

رہیں گے مثلاً سور سے سویر۔ بیت سے بیست۔

اگر اسم کا دوسرا حرف الف زائد ہو تو واو سے بدل دیا

جائیگا۔ جیسے خالد سے خولید۔ ضارب سے ضویوب۔

اور اگر تیسرا حرف الف یا واو ہو تو یا سے بدل کر یا تفسیر

میں مدغم ہو جائے گا جیسے عصا سے غصی، دلو سے ذلی۔

عجوز سے عَجِيز۔ کتاب سے کَتِيب۔

اور اگر واو متحرک ہو اور لام کلمہ نہ ہو تو یا سے بدلا اور

باقی رہنا دونوں جائز ہے جیسے جدول سے جَدِیل یا جَدِیول،

ادور سے اُدیر یا اُدیور۔

اگر تیسرا حرف یا ہو تو یا تفسیر میں اوٹام کر دیا جائے گا جیسے

نُصیر سے نُصِیر۔ جمیل سے جَمِیل۔

اور اگر چوتھا حرف واو یا الف ہو تو یا سے بدل دیا جائے گا

جیسے عصفور سے عصفور اور سلطان سے سُلْطَانِین۔

اسم تفصیل اگر ناقص ہو تو تفسیر میں تو یا تفسیر کا مابعد فعل

تعب کی مانند متنوع رہے گا جیسے ہو اَحیلی من العسل۔

اسماء محذوفۃ الاعجاز کی تفسیر اس طرح پر ہوگی۔ اُنْی،

اُنْی، ذَمْنی اور اگر ایسا اسم ہو کہ اخیر کا حرف حذف کر کے

شروع میں ہمزہ وصل لگایا گیا ہو تو تفسیر بنانے میں ہمزہ وصل

حذف کر دیا جائے گا۔ اور محذوف حرف واپس آجائے گا جیسے ابن

کہ اس کی تفسیر بنی ہوگی۔

اور اگر محذوف کے عوض میں تاء ہو تو صرف محذوف کو

واپس لائیں گے اور عوض کو حذف نہیں کریں گے جیسے زنة عدة

ضارَب سے ماضی مجہول کا سینہ ضروب اور قاتل سے قَوِيل۔
اگر یاء ساکن ضمہ کے بعد واقع ہو تو واو سے بدل جانے کی
جیسے ایقن سے مؤقِن۔ ایسر۔ مؤسِر۔

اسی طرح اگر واو ساکن کسروہ کے بعد واقع ہو تو یاء سے بدل
جانے کا جیسے موزان سے میزان۔ موعاد سے ميعاد۔

واو یا یاء متحرک ہوں، اور ما قبل مفتوح ہو تو الف سے بدل
جاتے ہیں، جیسے قال، باع، باب، ناب۔

لیکن اس قاعدے کے لیے حسب ذیل شرائط ہیں۔ یہ واو یاء
فاکلہ کی جگہ میں نہ ہوں مدہ زائدہ سے پہلے الف تشبیہ سے پہلے
اور یائے مشدد اور نون تاکید سے پہلے نہ ہوں۔ ناقص کے عین
کلمہ کی جگہ میں نہ ہوں۔ جس کلمہ میں یہ واقع ہوں وہ فعلان و
فعلی کے وزن پر نہ ہو۔ اور ایسے لفظ کے ہم معنی نہ ہو جس میں
تعلیل نہیں ہوتی۔

اگر کسی کلمہ میں واو، یاء جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا
ساکن ہو تو واو کو یاء کے یاء میں ادغام کر دیتے ہیں، جیسے علی،
میت مری کہ اصل میں طوی، حیوت۔ مروی تھے۔

واو یا یاء اگر الف زائدہ کے بعد طرف میں واقع ہوں تو ہمزه
سے بدل جاتے ہیں جیسے کساء سماء بناء طباء۔

جو مدہ زائدہ مفرد میں ہو جب جمع بنایا جائے اور الف فعال
کے بعد واقع ہو تو ہمزه سے بدل جاتا ہے جیسے عجوز سے عجائز۔
قلادہ سے قلائد، صحیفہ سے صحائف۔

باب الفعال کے فاء کلمہ میں اگر واو یا یاء واقع ہو تو تاء سے
بدل جاتے ہیں، جیسے اتقی، اتسر۔

الفعال کے فاء کلمہ میں اگر وال یا زال یا زاء واقع ہو تو تاء کو
وال سے بدل لیتے ہیں، جیسے اذآن، اذذکر، اذدان کہ اصل میں
اذدان، اذذکر، اذتان۔ لہے۔ اذذکر میں وال کو زال اور ذال کو
ذال کہ دونوں جاتے ہیں۔ اذذکر اور اذذکر دونوں کہہ سکتے ہیں۔

الفعال کے فاء کلمہ میں اگر صاد، طاء، ظاء۔ واقع ہوں تو
تاء کو طاء سے بدل دیتے ہیں، جیسے اضطرِب، اضطرِد،
اططلم۔ اططلم جیسے میں ططاء کو طاء اور ططاء کو طاء کرنا دونوں
جاتے ہیں۔ اظطلم اور اظطلم دونوں کہہ سکتے ہیں۔



دیا جائے گا بشرطیکہ اس کے بعد ہمزه ہو جیسے فائسی، واذن لی۔

اور اگر ہمزه درمیان میں واقع ہو اور ساکن ہو تو اپنے ما قبل
کی حرکت کے موافق حرف طبع کی صورت میں لکھا جائے گا۔

جیسے ہأس ہونس پنس لیکن ہمزه وصل کے بعد ہو اور بدلا ہوا ہو
تو اثناء کلام میں اصل کی طرف لوٹا دیا جائے گا اور اسی حرف کی
صورت میں لکھا جائے گا جس سے تبدیلی ہوئی تھی جیسے "ما رجل

الذن" اور "هذا الذي أو تمت عليه" اور ہمزه متوسط متحرک

اپنی حرکت کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا خواہ اس
سے پہلے ساکن ہو یا متحرک۔ جیسے لؤم رؤف سال۔

اور اگر مفتوح ہو اور بعد ضمہ وکسروہ کے ہو تو ما قبل کی حرکت
کے موافق حرف کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے سؤال، رجال،

مؤنت اور اگر ہمزه الف اور یاء کے درمیان واقع ہو تو ہمزه پور یا
دونوں کی صورت میں لکھتا جاتے ہیں جیسے بققاء یا بققاءنی۔

اور اگر ہمزه الف اور ضار میں سے یا کے علاوہ کسی اور کے
درمیان واقع ہو اور کسور یا مضموم ہو تو اپنی حرکت کے موافق
حرف کی صورت میں اور مفتوح ہو تو ہمزه کی صورت میں لکھا
جانے کا جیسے بققاء بققاء بققاء۔

ہمزه اگر کلمہ کے آخر میں واقع ہو اور اس کے ما قبل ساکن
ہو تو ہمزه کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے جزء، شئ، فئ۔

اور اگر ما قبل متحرک ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف
کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے هَيُو، لَكَا، ظَلِمِي۔

اگر ہمزه طرف میں واقع ہو اور تاء تانیہ لاحق ہو اور ہمزه
سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو ہمزه کو الف کی صورت میں لکھا
جانے گا۔ مثلاً نشاء۔ اور اگر متحرک ہو تو ما قبل کی حرکت کے
مشابہ حرف سے لکھا جائے گا جیسے فَعَا، فَوَلُوْهُ۔

اور اگر ما قبل متصل ہو تو یاء کے بعد یاء کی صورت میں اور
الف اور واو کے بعد ہمزه کی صورت میں لکھا جائے گا جیسے :

عَطِيفَةٌ بَرِيَّةٌ قَرَاءَةٌ صَلَاةٌ مُرَوَّةٌ نُسُوَّةٌ۔

ابدال کے قواعد :

ایک حرف کی جگہ میں دوسرے حرف کے رکھنے کا نام ابدال
ہے کثیر الوقوع قواعد حسب ذیل ہیں۔

اگر الف ضمہ کے بعد واقع ہو تو واو سے بدل جانے کا جیسے

عربی خطوط کے نمونے خط ثلث

عَانَكَ خَالِكُ الْإِحْسَانِ وَاللَّيْلَةُ شَهْرٌ بِالْأَنْعَامِ عَلَيْهَا
خط نسخ

زِيَادَةُ الْعَقْلِ عَلَى اللِّسَانِ نِعْمَةٌ وَفَضِيلَةٌ وَزِيَادَةُ اللِّسَانِ عَلَى الْعَقْلِ بَلِيَّةٌ وَرَذِيلَةٌ
خط فارسی

من سأل الأيام طابت حياته وقلت احزانة وعم باله
خط بجاں

استقلال الامراتي في الكبار على العلوية المعانيها وان كان قوتها في غير في النشء يعتمنان لها النجاة
خط رقعہ

لا شيء ائمن من الحرية ولا سعادة اكبر من القيام بالواجب
خط ديوانی جلی

الجزء من الضعيف يوم العزلة والجزء من القوي يوم التمدد والظلمة
خط ديوانی

من استبرأ من راضل ومن استعانا به ذوى الفؤاد بسبب سبيل للفساد
خط کوئی


فصل العاقل على الجاهل
فصل البصير على السها

(رازمعین کوئی)

کھفضل انجم علی السہا

فصل العاقل علی الجاهل

اشکال ہندسیہ



خط منحنون




اضلاع مثلث




مثلث متساوی الساقین




مثلث متساوی الاضلاع




مثلث قائمہ الزاویہ
۳- وتر مثلث




۳-۳ = قاعدہ مثلث
۲-۱ = عمود مستقیم




خط مستقیم



خطوط متوازیہ




مثلثات




منصف الزاویہ


اوپر اور دو زاویہ قائمہ
نیچے، عادہ اور منفرجہ



خط منکسر



زاویہ حادہ




زاویہ قائمہ



زاویہ منفرجہ




زاویہ (منجّار)




- ۱-۶-۵-۸-۳ زاویہ متناظرہ
- ۱-۶-۵-۸-۳ زاویہ خارجہ متبادلہ
- ۱-۶-۵-۸-۳ زاویہ داخلہ متبادلہ
- ۱-۶-۵-۸-۳ زاویہ متجانسہ
- ۱-۶-۵-۸-۳ زاویہ خارجہ متبادلہ

اشکال ہستہ




متوازی الاضلاع




شعب المنحن

۱-۲ و ۳-۴ = قاعدے

۵-۱ = بلندی




مربع




۱- مرکزی نقطہ

۲-۳ = قوس ۳-۲ = وتر قوس




زاویہ ۱-۲-۳ = مرکزی زاویہ



۱-۲ = خط مماس

۳-۲ = قاطع دائرہ




دائرہ


۱ = مرکز دائرہ

۲-۳-۴ = محیط دائرہ


۳-۲ = قطر محیط، ۱-۲ = نصف قطر




مربع




(مستطیل)




قطر مستطیل = ۳-۲



مخمس




مستطیس




مستطیس


اشکال ہندسیہ




شکل ایلیپس
۲-۱ = محور اوجز = ۳-۲ = محور اصغر




۳-۱-۲ = مرکزی زاویہ
مستوی ۳-۲ قطعہ دائرہ




دائرہ ایلیپس بنانے کا طریقہ



مخروط




مستوی ۳-۲-۱ = قطاع




شکل ہری



نقشہ زمینا




شکل دھخ حلزوننی



شکل بیضوی

۱ = قطب شمالی ۲ قطب جنوبی

۳-۲ = خط استوار




۲-۱ = خط افق

۳-۲ = خط عمودی




کرہ




ستون (عمود)


اشکال هندسیہ




مکعب




موشور



ہلال



ہدف (وسطیں)



فون (آلومگار)

آنز: (ض) آنزوا، آنزوا، الظنبي: اچھلا۔ کورتا۔
 صفت آنز و آنز و آنز: — بضاحیہ آنز:
 علم کرتا۔
 الاینزہم والاینزہم: یکساں آواز میں۔
 آنسہ (ض) آنسہ: ملاصت کرتا۔ ڈرانا۔
 پہ: تاجدار بنانا۔ فلاٹا: قید کرتا۔ بدسلوکی سے
 پیش آنا۔ حقرو ذلیل سمجھنا۔
 آنسہ: قید کرتا۔ بدسلوکی سے پیش آنا، شرم دلانا
 الاینس: قحط۔ خشک سالی۔ سخت جگہ۔ زچکوا۔
 الاینس: اصل بد۔ سخت جگہ۔
 اہراقہ اباش: بد عورت۔
 آنسہ (ن) انبشا و آنسہ: جمع کرنا
 قائبش: القوم: لکھنا ہونا۔
 الاینسہ من الناس: مخلوط جماعت۔
 الاینس: کسی کے سخن اور دروازہ کو کھانے
 پینے کی چیزوں سے بچانے والا۔
 زجل: آباش: کمانے والا مرد۔
 ابض (س) ابض: خوش ہونا۔ صفت ابض
 ابض و ابوض۔
 ابض (ن) ابضنا: البعیر: اونٹ کے اگلے
 پاؤں کو بازو سے باندھنا۔
 قائبض البعیر: اباض نامی رتنی سے باندھنا
 (دیکھئے الاباض، البعیر: اباض نامی رتنی سے
 بندھا ہوا ہونا۔
 الابض: ج اباض۔ والمانبض ج ما بوض:
 زانو کا اندرونی حصہ۔ بندوست۔
 الاباض: اونٹ کے پاؤں کو بازو سے باندھنے
 کی رتنی۔
 قائبض الشئی: بغل میں لپٹا۔
 استائبض الزجل: اوپر سے ننگ اور اندر
 سے چوڑا رکھا ہوا۔
 الابط: بغل (مذکر مؤنث) ج اباط۔ ابط
 البطیل: دامن کوہ۔
 الاباط: بغل میں لپٹی ہوئی چیز۔
 ابق (س) و ابقی (ن) ض) اباقا و ابقا و ابقا:
 العقب: جمان۔ صفت ابق ج ابقی و ابقی:
 تابقی: چھٹا۔ الشئی: انکار کرتا۔ اوپر اچھلا۔
 الابقی: بھگ۔ بھگ کا چھلکا۔ کسان۔

أبل (س) ابلا و أبلی (ن) ابالة: اونٹوں کا چھی
 طرح انتظام کرتا۔ صفت أبلی و أبلی ج أبلی:
 أبلی (ن) ابالة: راہب بننا۔
 أبلی: بست اونٹوں کا مالک ہونا۔
 الابل: چھانٹ کر جمع کرتا۔
 قأبلی: الابل: چھانٹ کر جمع کرتا۔
 الابل و الابل: اونٹ (مفرد کے لیے اس کا
 استعمال نہیں ہوتا) ج ابال۔
 الأبلہ: قبیلہ۔ کہا جاتا ہے "جاء فی ابلیہ" وہ
 اپنے قبیلہ میں آیا۔
 الابل: ج ابال و أبلی و الابلین و الابلین:
 راہب۔
 الابلہ: جماعت۔ مال کا بہترین انتظام۔ حسن
 سیاست۔ الابلہ و الابلہ و الابلہ:
 گھاس یا گڑی کا گھا۔ کہا جاتا ہے "جئت علی
 ابلیہ" یعنی مصیبت بلائے مصیبت
 الابلیل: فرتے۔ ابائل جمع ہے اس کا واحد
 نہیں ظہر ابابیل: غول کے غول پرندے۔
 المابلہ: بست اونٹوں والی زمین۔
 ابلیس: شیطان کا عظیم جنس ج ابالیس و
 ابالسة۔
 ابنہ (ن) ض) ابنا: بطنی: عیب لگانا۔ تمت
 رکنا۔ المذم فی الخیر: کالا ہونا۔
 ابنة: عیب لگانا۔ شرم دلانا۔ مردہ کے اوصاف و
 عاصن شمار کرتا۔ وقابنة: پیچھے پڑنا۔
 اختطار کرتا۔
 ابان: الشئی: کسی چیز کی ابتداء۔ کسی چیز
 کا وقت۔
 الابنة: عیب، کینہ، لکڑی کی گائے ج ابن ابنة:
 الزجل: سارے ساتھی۔
 الابن: بیٹا۔
 الابن: خشک کھانا۔
 الابنوس و الابنوس: ایک قسم کی سخت اوپر
 کالی لکڑی۔
 ابنة (ف) ابنا: لہ: تاز جانا۔ لا یؤمہ لہ: اس کی
 طرف التفات نہیں کی جاتی۔
 ابنة: خبردار کرتا۔ سمجھانا۔
 قابنة: علیہ: تکبر کرتا۔ بڑا بننا۔ عن کذا: اپنے

آپ کو بلا دیر تر سمجھنا۔
 الابنة و الابنة: بدلی۔ غرور۔ نعت۔
 ابان (ن) ابان و ابان و ابان: ابان ہونا۔ البعیر:
 پرورش کرتا۔ کہا جاتا ہے۔ "ابوہ واممته":
 میں اس کے لیے ماں باپ بن گیا۔
 ابی: فلاٹا: کسی سے یہ کہنا کہ میں تمہارے
 اوپر اپنے باپ کو نڈا کرتا ہوں۔
 تابقی: فلاٹا: باپ بنانا۔
 الاب: باپ۔ وہ شخص جو کسی چیز کے لیے
 باعث ایجاد یا باعث اصلاح ہو" اس کا اعراب
 حالت رفعی میں واو سے اور حالت نصبی میں
 الف سے اور حالت جری میں یا سے آتا ہے۔ تم
 کہتے ہو۔ "جاء ابوک، زابت اباک و موزت
 بابیک" اور منادی کی صورت میں یا ابی اور
 یا ابنت ج اباء و ابون۔
 ابو ایاس: ہاتھ منہ دھونے کی چیز جیسے
 عطسی وغیرہ۔
 ابو ایوب: اونٹ۔ ابو الایوب: گدھ۔ ابو
 الایوب: چھٹا۔ ابو الایوب: گدھ۔ ابو
 الایوب: میرزا۔ ابو برص: چھلکا۔ ابو
 البشر: کنیت سیدنا آدم علیہ السلام۔ ابو لقیف:
 سرکہ۔ ابو جابع: دسرخوان۔ ابو حجاجہ:
 مذی۔ ابو حجاج: بچو۔ ابو جعفران: گھریلا۔ ابو
 جمیل: زکاری۔ ابو حصیب: بھنا ہوا بکری کا
 پتہ۔ ابو حذیب: لقلق۔ ابو حذیر: گرگ۔ ابو
 الحصین: لومڑی۔ ابو خالد: کتا۔ ابو
 خصیب: گوشت۔ ابو ذغلفہ: بیوقوف۔ ابو
 رزین: ایک قسم کا طوا۔ ابو رعلہ: بھیریا۔ ابو
 زاجر: کتا۔ ابو زھرة: گیدڑ۔ ابو سلیمان:
 مرغ۔ ابو السرو: بخور۔ ابو غدر المرأة:
 شوہر۔ ابو عسلة: بھیریا۔ ابو العفاء: گدھا۔ ابو
 عقبہ: سور۔ ابو العلاء: قالورہ۔ ابو عقرہ:
 افلاس بھوک۔ ابو عوف: زبڈی۔ ابو عوف:
 نمک۔ ابو غزوان: بی۔ ابو قترہ: کنیت ابلیس
 ابو قترہ: گرگ۔ ابو کلالہ: زبڈی۔ ابو لاجق:
 باز۔ ابو لبد: شیر۔ ابو مالک: بھوک۔ بھیریا۔
 گدھ۔ ابو مثنوی: میرزا۔ ابو مدقہ: بھیریا۔
 ابو موزہ: شیطان۔ ابو مزمزم: قاضی کا پیارہ۔ ابو

اَثْرًا (س) اَثْرًا يَفْعَلُ كَذَا: کرنے لگا۔ يَلْأَثْرُ: پورے اشماک سے مشغول ہونا۔ عَلَيْهِ: بگا
ارادہ کرنا۔ عَلَيْهِمْ: اپنے لیے بہتر چیزوں
کو چھٹا لیتا۔

اَثْرِيْهِ: اثر کرنا۔
اَثْرًا يَفْعَلُ: اِكْرَامًا: چھٹا۔ فَعْلِيَّتِ رَبِّهِ: اَثْرًا
کذا يَكْفِيْكَ: بچھے لگا۔

تَأَثَّرَ وَأَثَّرَ: فَلَانَا: نقش قدم کی پیروی کرنا
_____ مِنْهُ وَبِهِ: اثر قبول کرنا۔ تم کہتے ہو "معا
تَأَثَّرَ إِلَيْهِ" اَثْرًا: اس نے میرے ساتھ کچھ بھی
احسان نہیں کیا۔

اِسْتَأَثَرَ: بِالشَّيْءِ عَلَى الْغَيْرِ: اپنے لیے
مخصوص کر لیتا۔
_____ اَللَّهُ بِهِ: وقت دیتا۔

الْاَثَرُ: نشان۔ حدیث۔ سنت۔ مدت۔ حج آثارو
اَثْرًا: عِلْمُ الْاَثَرِ: پرانی یادگار چیزوں کا علم۔ کہا
جاتا ہے "خَرَجَ لِي (اَثْرًا) وَفِي (اَثْرًا)" وہ اس
کے بعد نکلا "وَ عَلَيَّ الْاَثَرُ" یعنی فوراً۔
الْاَثَرِي: ماہر آثار و قدیم۔

اَلْاَثَرُ وَالْاَثَرُ: زخم کا نشان۔ آثارو اَثْرًا
اَلْاَثَرُ: گوارا جو ہر حج اَثْرًا
اَلْاَثَرُ: حج اَثْرًا وَالْاَثَرُ: بقیہ علم۔ خاندانی و
موروثی شرافت۔

اَلْاَثَرُ: پسندیدگی۔ ترجیح۔ خو فرضی۔
الْاَثَرُ: گوارا جو ہر حج اَثْرًا۔ فَرَضُ:
اَثَرًا: گھروں کے بڑے نشان والا گھوڑا۔
الْاَثَرُ: قدماء کے نزدیک بمعنی نواں۔ آسان۔
اور علماء طبیعیات کی اصطلاح میں اِثْرًا کہتے ہیں
اور یہ وہ مادہ ہے جس کے جموج سے گرمی بڑھتی
اور آواز دور تک جاتی ہے۔

حَدِيثٌ مَثْرُورٌ: وہ بات جو قرآن بعد قرن نقل
ہوتی چلی آئے۔ اور اسی سے ہے "اَلشَّيْفُ
المَثْرُورُ" خاندانی گوارا۔

المَثْرُورَةُ: المَثْرُورَةُ: عمدہ فعل۔ خاندانی و
موروثی عزت۔ حج مَثْرُورٌ۔
اَلْقَدْرَانِ: اَلْقَدْرُ: بچھے جانا طلب کرنا۔
اَلْقَدْرُ: تاليفًا۔ القدر: پائے پر رکھنا۔
تَأَثَّرَ: الرَّجُلُ الْمَكَانَ: جَم کے رہنا۔۔۔

اِسْتَأْتَرْتَنِي: کا مقصد یہ ہے کہ وہ صاحب عزت تھا
ذلیل ہو گیا۔

اَلْاَثَرُ: حمام کا آئینہ۔ چونکہ ہانے کی بھٹی۔ حج
اَثْرًا و اَثْرًا۔

اَتَانًا (س) اَثْرًا و اِنَاءًا: السَّجْوُ: پھل ظاہر ہونا۔
بنت پھل دار ہونا _____ بِه وَ عَلَيْهِ: چھل
خوری کرنا۔

اَثْرًا و اِنَاءًا: رِشْوَتِ رَبِّهِ:
اِنَاءًا: الْاَثْرُ: زمین کی پیداوار۔
اَلْاَثْرُ: خراج۔ رِشْوَتِ: حج اَثْرًا و اِنَاءًا۔

اَتَى (ض) اِثْمًا و اِثْمًا و اِثْمًا: اِنَاءًا۔ اِنَاءًا۔
اَلْمَكَانَ: حاضِر ہونا۔ الشَّيْءِ: کرنا _____ عَلَيَّ
الشَّيْءِ: پورا کرنا۔ نافر کرنا۔ الرَّجُلُ: مرد کے پاس
سے گزرتا _____ عَلَيْهِ الدَّرَهُ: ہلاک کرنا۔

اَتَى نَائِبَةً و نَائِبًا: المَاءَ: پانی بننے کے لئے
راست نکال دیتا۔
اِنَاءًا مَوَانًا: عَلَيَّ الشَّيْءِ: موافقت کرنا۔

اَتَى اِنَاءًا: فَلَانَا الشَّيْءِ: دیتا۔ اِنَاءًا الشَّيْءِ:
بھینتا _____ الرَّجُلُ: بدلہ دیتا۔
نَائِبًا: الْاَثْرُ: تیار ہونا آسان ہونا _____ لِلْاَثْرِ
بِزِي رتار اور میانہ روی اختیار کرنا

_____ مَعْرُوفًا: درپے ہونا۔
اِسْتَأْتَرْتَنِي: الرَّجُلُ: آنے کی درخواست کرنا۔
سنت سمجھنا۔

اَلْاَثْرُ و اَلْاَثْرُ: اجنبی۔ مسافر۔ تیل۔
اَتَى و اَتَاوِي: اچانک آنے والا سیلاب۔
المَآئِي و المَآئَةُ: جت۔ ست۔ کہا جاتا ہے

"اَتَى الْاَثْرُ مِنْ مَآئَةٍ اَوْ مَآئِيَّةٍ" اس نے معاملہ
کو ٹھیک طریقہ سے انجام دیا۔

اِث (س) اِنَاءًا و اَثْرًا و اِنَاءًا: النَّبَاثُ
و الشَّعْرُ: گنجان ہونا۔ صفت (اِثٌّ و اِثْمٌ) حج
اِثًا۔

اِثٌّ: الْفَرَاشُ: بچھانا۔
تَأَثَّرَ: مال پانا۔
اَلْاَثْرُ: سالمان خانہ۔ سال۔

اَثْرًا (ض) اَثْرًا و اَثْرًا و اَثْرًا: اَلْحَدِيثُ:
نقل کرنا۔ صفت مفعول (مَثْرُورٌ) _____ ة: اِكْرَامًا و
تعظیم کرنا۔

اَلْمِنْهَالُ: گدھ۔ اَبُو مَشْغُولُ: نرجیوٹی۔ اَبُو
مَرْثَا: پھلی۔ اَبُو مَعَاوِيَةَ: جیتا۔ اَبُو الْمُنْذِرُ:
مرغ۔ اَبُو نَعِيْمٍ: روٹی۔ اَبُو الْيُوْقَابِ: عقاب
اور بقول بعض اِزَى ہرن۔ اَبُو هَبِيْرَةَ: زر
میٹک۔ اَبُو الْهَثِيْرِ: نرجو۔ اَبُو بَحْثِي: تلک
الموت۔ اَبُو الْيَقْظَانِ: مرغ۔ کہا جاتا ہے "لَا اَبَ
لِلَّكَ و لَا اَبَاكَ و لَا اَبْلَكَ" یہ جملے خبریہ ہیں مگر معنی
میں جملہ انشائیہ دعائیہ کے ہیں۔ مرغ و زم دوڑوں
موقعوں پر استعمال کیا جاتا ہے اور کبھی گالی کے
موقع پر بھی اور "بِأَيِّ اَنْتَ" کا مقصد یہ ہے کہ
میرا باپ تیرے اوپر فدا ہو۔

اَتَى (ف ض) اِنَاءًا و اِنَاءًا و نَائِبًا: الشَّيْءِ:
پسند کرنا۔ انکار کرنا۔ صفت اِبِج اَبُو ن و اِبَاءَ
وَ اِبَاءًا۔

اَتَى عَلَيْهِ و نَائِبًا: بازر ہونا۔ خود دار ہونا۔
اِبَاءًا اِنَاءًا: الشَّيْءِ: خود دار ہونا۔

الْاَثْرُ: نفرت کرنے والا۔ رذائل سے اپنے
آپ کو بلند رکھنے والا۔
رَجُلٌ اِبَاءً: خود دار مرد۔

نَائِبًا و اِنَاءًا: بے آستین والی قمیص پہننا۔
الْاَثْرُ: بے آستین والی قمیص۔ حج اَثْرًا
وَ اَثْرًا و اِنَاءًا و اِنَاءًا: و اَثْرًا الشَّيْءِ: حج کا
چھلکا۔

اَثْرًا: اصغر سردار۔ اس لفظ کا اطلاق اولاد
سلاطین کے اَتَالِيْق پر ہوتا تھا۔
اِلْتَادًا: روہنے کے وقت گائے کی ٹانگوں میں
باندھنے کی رسی۔ حج اِثْرًا و اِثْرًا۔

اَلْاَثْرُ و اَلْاَثْرُ: لیموں۔ لیموں کا درخت۔
اَثْرًا (ض) اَثْرًا و اَثْرًا و اَثْرًا: غمگینی و
سے آہستہ آہستہ چلنا _____ مِنَ الطَّعَامِ: شکم
سیر ہونا۔

اَقَمَ (ن) اَقَمًا: دو چیزوں کو جمع کرنا۔ بِالْمَكَانِ
: باقامت کرنا۔ تاخیر کرنا۔

المَآئِمُ: لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ عموماً
اس کا استعمال اس مجمع کے لیے ہوتا ہے جو اظہار
فہم کے لیے ہو۔ حج مَآئِمٌ۔

اَلْاَثْرَانِ: گدھی۔ حج اَثْرًا و اَثْرًا و اَثْرًا و
اِسْتَأْتَرْتَنِي: گدھی خریدنا۔ اور "مَكَانٌ جَمَاعًا

القَوْمُ الْأَمْوِيُّونَ عَلَيْهِ: اکٹھا ہونا۔ الْأَنْفِيَّةُ: دیک رکھنے کا پایہ۔ جماعت۔ ج۔ الْأَنَافِي: نالیقہ، الِانْفَافِي: پہاڑ کے ایک حصہ کو جس کے سامنے دو چتر رکھ کر اس پر بانڈی رکھتے ہیں، کما جاتا ہے "رَمَاهُ: نَلَّهٖ بِأَلْفَيْهِ الْاَنَافِي" اللہ اس کو بدترین مصیبت میں مبتلا کرے۔ أَقْل (ن) اَثْوَلًا وَأَثَل (ک) اَثَلَةٌ: جڑ پکڑنا۔ صفت اَثِيلٌ وَمُؤَثَلٌ۔ أَثَلُ الْمَالِ: زکوٰۃ دینا۔ اصل ٹھہرنا۔ الْمَمْرَةُ تقظیم کرنا۔ الْمَمْرُجُ: بھید بزرگی کی بنیاد رکھنا۔ تَأَثَلٌ: جڑ پکڑنا۔ اکٹھا ہونا۔ الْمَمَانُ: کما کر بھانا۔ الْمَبْرُ: بھوننا۔ الْأَثَلُ: جماد کا درخت واحد اَثَلَةٌ ج اَثَلَاتٌ وَأَثَال وَأَثَلٌ کما جاتا ہے "نَحَتْ أَلْفَتَهُ" اس نے اسے عیب لگایا اور اس کا مرتبہ گھٹایا۔ الْأَثَلَةُ وَالْأَثَلَةُ: گھریلو سامان۔ اصل سامان۔ الْأَثَلَةُ وَالْأَثَالُ وَالْأَثَالُ: موروثی مال یا شرافت یا بزرگی۔ أَيْم (س) اَيْمًا وَأَيْمًا وَأَيْمًا وَمَنْعًا: گناہ کرنا۔ صفت اَيْمٌ ج اَيْمَاءٌ وَأَيْمٌ ج اَيْمَةٌ۔ أَيْم (ن ض) اَيْمًا: اللہ فلاں کا کڈا۔ گنہگار قرار دینا اور سزا دینا۔ أَيْمَةٌ: گناہ کی طرف منسوب کرنا۔ أَيْمَةٌ: جملائے گناہ کرنا۔ تَأَيْمٌ: گناہ سے بچنا۔ الْأَيْمُ ج اَيْمٌ وَالْمَأَيْمَةُ وَالْمَائِمَةُ: ناجائز فصل۔ گناہ۔ جرم۔ الْأَيْمُ: بھیڑیا جو۔ شراب (آخری معنی کا ہو کر نے انکار کیا ہے)۔ أَثَانٌ (ن) اَثْوَانًا وَأَثْوَانًا وَأَثْوَانًا: اثبات یہ: چغل خوری کرنا۔ تَأَثْوَانًا وَتَأَثْوَانًا: بادشاہ کے پاس مقدمہ لے جانا۔ الْمَأَيْمَةُ وَالْمَأَيْمَةُ: چغل خوری۔ أَجَّ (ن) أَجَجْنَا: بھڑکانا۔ صفت۔ أَجَجٌ وَ أَجْجُجٌ أَجْجُجًا: المَاءُ: کھاری ہونا۔ أَجَجَّ: النَّارُ: بھڑکانا۔ عَلَى الْعَدُوِّ:	دُخِّنَ بِرَحْمَةٍ كَرَامًا۔ أَجَّ: الْمَاءُ: کھاری ہونا۔ تَأَجَّجَ وَتَأَجَّجَ وَانْتَجَّجَ: بھڑکانا۔ انْتَجَّجَ الْعَهْوُ: خمیر گرم ہونا۔ الْأَجَجُ: بخت کھاری پانی۔ الْأَجَجَةُ: گرمی کی شدت ج احجاج۔ وَالْأَجَجُ: شور۔ چلنے کی آہٹ۔ أَجَدَهُ وَأَجَدَهُ وَأَجَدَهُ: قوی کرنا۔ مضبوط کرنا فَالْفَأْجِدُ: مضبوط اونٹنی۔ الْإِجَادُ: بھوننا طوق۔ الْمُؤَجَّدُ: مضبوط کیا ہوا۔ بِنَاءٌ مُؤَجَّدٌ: مضبوط عمارت۔ قَوْبٌ مُؤَجَّدٌ التَّسْبِيحُ: مضبوط بنا ہوا کپڑا۔ أَجْرٌ (ض ن) أَجْرًا وَاجْرًا وَاجْرًا وَاجْرًا الرُّجْلُ عَلَى كَذَا: بدلہ دینا۔ مزدوری دینا۔ أَجْرٌ (ن ض) أَجْرًا وَأَجْرًا وَأَجْرًا۔ العَظْمُ: جڑ جانا۔ العَظْمُ: جوڑنا۔ أَجْرٌ: الظِّلْمُ: پکانا۔ أَجْرٌ مُؤَجَّرَةٌ: الرُّجْلُ: مزدور بنانا۔ الْإِنْجَارُ: الدَّاءُ فَلَانًا وَمِنْ فَلَانٍ: کرایہ پر دینا۔ صفت کَامِينٌ مُؤَجَّرٌ بَكْسِرِ الْجِيمِ ہے مُؤَاجِرٌ نَمِيں۔ الْإِتْجَارُ: صدقہ کرنا۔ مزدوری طلب کرنا۔ عَلَيْهِ بِكَذَا: اجرت پر مزدور ہونا۔ الْإِسْتِجَارُ: الدَّارُ: کرایہ پر لینا۔ الرُّجْلُ: مزدور رکھنا۔ الْأَجْرُ: ثواب۔ ج أَجْرًا وَأَجْرًا۔ الْأَجْرَةُ: بخت۔ ج أَجْرًا۔ الْأَجْرَةُ ج أَجْرًا وَالْإِجَارَةُ: کرایہ۔ مزدوری۔ الْأَجْرِيُّ: مزدور۔ نوکر۔ ج أَجْرًا۔ الْإِجَارُ: اَلْوَيْخَارُ: زرد آلہ۔ أَجَلٌ (ن) أَجَلًا: عَلَيْهِ شَرٌّ: کسی کے خلاف شر اٹھانا۔ أَجَلٌ (س) أَجَلًا: پیچھے رہنا۔ دیر کرنا۔ گردن میں درد والا ہونا۔ صفت أَجَلٌ وَأَجَلٌ۔ أَجَلٌ: الشَّقِيُّ: بدت مقرر کرنا۔ مصلحت دینا۔ الرُّجْلُ: درد گردن کا علاج کرنا۔ تَأَجَّلَ: پیچھے رہنا۔ بدت مہین کرنا۔	إِسْتَأْجَلَ: بدت مہین کرنا۔ أَجَلٌ: ہاں۔ الْأَجَلُ: بدت۔ وقت۔ موت۔ ج أَجَالٌ۔ الْأَجَلُ: سبب۔ کما جاتا ہے "مَنْ أَجَلَك فَعَلْتُ هَذَا" تمہاری وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ الْإِجْلُ: گردن کا درد۔ الإِجْلُ: نیل گاؤں کا گلد۔ ج أَجَالٌ۔ الْأَجَلُ وَالْأَجَلَةُ: دیر سے ہونے والا۔ آخِرَت۔ أَجَمٌ (ض) أَجْمًا: أَجْمًا وَتَأَجَّمَ: الْقَهَارُ: سخت گرم ہونا۔ تَأَجَّمَ عَلَيْهِ: ٹھیکناک ہونا۔ تَأَجَّمَ الْأَسَدُ: جھاڑی میں داخل ہونا۔ الْأَجْمَةُ: گنجانا۔ درخت۔ جھاڑی۔ شیر کے رہنے کی جگہ۔ ج أَجْمًا وَأَجْمًا وَأَجْمًا وَج أَجَامٌ۔ الْأَجْمُ: قلعہ۔ ج أَجَامٌ۔ أَجْنٌ (ن ض) أَجْنًا وَأَجْنًا وَأَجْنٌ (س) أَجْنًا: المَاءُ: رنگ اور مزہ بدلانا۔ صفت۔ آجِنٌ وَأَجْنٌ۔ أَجْنٌ (ن) أَجْنًا: القُوبُ: کپڑے کو دھونے کے لیے کوٹنا۔ الْأَجْنَانَةُ: کپڑے دھونے کا ٹب۔ ج أَجَانِيں۔ تھالہ۔ الْمِئْتَجِنَةُ وَالْمِئْتَجِنُ: دھونے کی موگری۔ ج مَاجِنٌ۔ أَجَّ (ن) أَجًّا: أَجًّا: بھانسانا۔ الْأَخَاحُ: پیاس۔ وَالْأَجْنِيحُ وَالْأَجْنِيحَةُ: عُتْرَةٌ۔ أَحَدٌ وَوَحْدٌ: الْمُتَعَدِّدُ: ایک کرنا۔ العَدَدُ: ایک بڑھانا۔ إِتَّخَذَ: بہ۔ کٹھا ہونا۔ متیقن ہونا۔ وَانْتَحَذَ: اکیلا ہونا۔ إِسْتَنْخَذَ: اکیلا ہونا۔ الْأَخْدُ: ایک، اکیلا، یکا۔ مَوْثٌ إِحْدَى: کما جاتا ہے "فَلَانٌ أَخَدَ الْأَخْدَيْنِ" فلاں بے مثل ہے۔ إِحْدَى: الأخد: بڑا عجیب معاملہ۔ أَخَادٌ: ایک ایک۔ کما جاتا ہے "جَاءُوا أَحَادًا وَ أَخَادًا" یعنی وہ لوگ ایک ایک کر کے آئے
--	--	---

کے لیے اخوی و اخینی۔
 الْأَخْتُ: بہن۔ ج. اخوات۔
 الْأَخِيَّةُ وَالْأَخِيَّةُ: رشتی جس کے دونوں سرے زمین میں گاڑ دیتے ہیں اور اوپر کو حلقہ سا نکلا ہوا ہوتا ہے جس میں جانوروں کو باندھتے ہیں۔ ج. اواخیتی و اخیایا و اواخ۔ کہا جاتا ہے: بَدَّدَ اللَّهُ بَيْنَكُمَا اَوْ اَخِي الْاِخَاءَ" اللہ تعالیٰ تم دونوں کے درمیان بھائی بندی کے علاقہ کو مضبوط کرے۔
 أَخِيُون: ناگ۔ یعنی۔
 آذُن (ان) آذُنًا: ؕ الْوَلِيُّ: مصیبت کا اچانک آنا۔ الْأُمُّ: بھاری اور دشوار ہونا۔
 الرَّجُلُ لِي الْأَرْضِي: سفر کرنا۔
 تَأَدَّدَ: الْأُمُّ: سخت دھوناک ہونا۔ صفت
 آوِدُ۔
 الْأَوْدِيَّةُ: شور۔
 الْأَذَى وَالْإِذَاءُ: سخت و دشوار کام۔ مصیبت ج. إِذَاءٌ وَإِذَاءٌ۔
 أَذْبُ (ک) أَذْبًا: زیرک و دانش مند ہونا۔ صاحب ادب ہونا۔ صفت ادیب ج. أَذْيَاءٌ۔
 أَذْبُ (ض) أَذْبًا وَأَذْبٌ إِذْبًا: دعوت کا کھانا تیار کرنا۔ أَذْبُهُ وَأَذْبُهُ: دعوت میں بلانا۔ کہا جاتا ہے "أَذْبَهُمْ عَلَيَّ الْأُمُّ" اس نے ان سب لوگوں کو کام پر جمع کر دیا۔
 أَذْبٌ: مہذب بنانا۔ شائستہ بنانا۔ ادب سکھانا۔ جرم پر سزا دینا۔
 تَأَذَّبَ: مہذب و شائستہ بنانا۔ ادب سکھانا۔ عَنَنْ فُلَانٌ: کسی کے اخلاق پر اٹھنا۔ بہ: اقمہا کرنا۔
 اسْتَقَادَبَ: ادب سکھانا۔
 الْأَذْبُ: اخلاقِ ملکہ جو ناشائستہ باتوں سے روکتا ہو۔ زیرکی۔ خوش طبعی۔ ج. آداب نیز آداب کا اطلاق ہر قسم کے علوم و معارف پر ہوتا ہے یا ان کے صرف دلچسپ حصے پر۔ کسی چیز یا کسی شخص کے مخصوص قوائم جیسے آدابِ مجلس۔ آدابِ درس وغیرہ، علمِ ادب۔ وہ علم جس کے ذریعہ بول چال اور تحریر کی غلطیوں سے محفوظ رہے۔
 الْأَذْبَةُ وَالْمَأْدَبَةُ وَالْمَأْدَبَةُ: کھانا جو دعوت کے لیے تیار کیا جائے۔ ج. مآدب۔

أَخْرَجَ أَخِيَّةً: غنہ: بیچے کرنا۔
 تَأَخَّرَ وَاسْتَأَخَّرَ: بیچے رہنا۔
 الْأَخْرُ: نیرج۔ أَخْرُونَ مؤنث أَخْرِي و أَخْرَاتُ ج. أَخْرُو أَخْرِيَاتُ: بطور کنایہ بولتے ہیں "أَبْعَدَ اللَّهُ الْأَخْرُ" یعنی اللہ اس شخص کو دور کرے جو ہم میں سے نہیں ہے۔
 الْأَخْرُ: پھیلا حصہ۔ کہا جاتا ہے "سَقَّ السُّوْبُ أَخْرًا وَمِنْ أَخْرٍ" اس نے کپڑے کو بیچے سے بھاڑ دیا۔
 الْأَخْرَةُ: وبری۔ کہا جاتا ہے "جاء أَخْرَةُ و بِأَخْرَةٍ" وہ آخر میں آیا۔
 الْأَخْرُ: پھیلا۔ ج. أَخْرُونَ مؤنث أَخْرِي ج. أَخْرِيَاتُ: کہا جاتا ہے "لَا أَفْعَلُهُ آخِرَ الدَّهْرِ و أَخْرِي اللَّيَالِي" یعنی میں اس کو کبھی نہیں کروں گا۔
 أَخْرِيَاتُ الْخَيْبَةِ: بارغ کا آخری حصہ۔
 الْأَخْرَةُ وَالْأَخْرِي: دار البقا اور نسبت کے لیے أَخْرِي وئ۔
 الْمُؤَخَّرُ وَالْمُؤَخَّرَةُ: ج. مآخرو و الْأَخْرَةُ مِنْ الْعَيْنِ: کپڑی کی طرف آنکھ کا گوشہ۔
 مُؤَخَّرَةُ الرَّجُلِ و مُؤَخَّرَتُهُ و أَخْرَتُهُ: کجاوہ کا پھیلا حصہ۔
 الْمُسْتَحْزَأُ مِنَ التَّخَلُّ: کجور کا درخت جس کا پھل جاڑے کے آخر تک باقی رہے۔ ج. مآخبر۔
 مُؤَخَّرُ: الشَّيْءُ: چیز کا پھیلا حصہ۔
 أَخْرَانُ: أَخْوَةٌ: ؕ: بھائی یا دوست بنانا۔
 أَخِي: لِلدَّيَاةِ: اخیہ بنانا (کچھ لفظ اخیہ)
 أَخِي إِخَاءَ و مُؤَاخَاةً وَاخَاوَةً: ؕ: بھائی یا دوست بنانا۔
 تَأَخَى: ؕ: بھائی بنانا۔ یا بھائی کہنے کے پکارنا۔ تَوَخَّى: قہم کرنا۔
 تَأَخَى: باہم بھائی بھائی ہونا۔
 الْأَخُ وَالْأَخُ وَالْأَخُ وَالْأَخُ: بھائی۔ ساتھی۔ دوست۔ ستھیہ۔
 أَخْوَانُ ج. إِخْوَةٌ و أَخْوَةٌ و إِخْوَانٌ و أَخْوَانٌ و أَخْوَانٌ و أَخْوَانٌ: اور بتال بعض الإخْوَانِ اس آخ کی بت ہے جو دوستی کے لحاظ سے بھائی کے معنی میں ہے اور الإخْوَةُ اس آخ کی جو نسبی بھائی کے معنی میں ہے۔ اور نسبت

الْأَخْدُ: التوارکان۔ یک شبہ۔ ج. آحاد۔
 أُخِدَ: مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا کے قریب ایک ہاڑ کا نام۔
 الْأَخْدِيَّةُ: بیکالی۔
 أَحْرَسَ (س) أَحْرَسًا: پوشیدہ دشمنی اور کینہ رکھنا۔
 أَحْرَسَ مُؤَاخَذَةَ الرَّجُلِ: کسی سے دشمنی رکھنا۔
 الْأَخْدَةُ: کینہ ج. احسن۔
 الْأَخْدِيَّةُ: دودھ یا گھی ملا ہوا آٹا۔
 الْأَخْبُوْطُ وَالْأَخْطُوْطُ: جگر کی قسم کا ایک کپڑا۔
 أَخَذَ (ن) أَخَذًا و تَأَخَذًا: لینا۔ وہ بہ: پکڑنا۔ ؕ بَدَنِيَّةً: سزا دینا۔ مواخذہ کرنا۔ عَلَيَّ يَدِهِ: کرنے سے روک دینا۔ مِنْ شَارِبِهِ: چھانٹنا۔ کرنا۔ غَنَةً: نقل کرنا۔ سیکھنا۔ عَلَيَّ نَفْسِي: گھرائی کرنا۔ فِيهِ الْخَمْرُ: اثر کرنا۔ يَفْعَلُ: کرنے لگنا۔ فِي كَذَا: شروع کرنا۔ إِخَذَهُ و يَأْخُذُهُ: طریقہ اختیار کرنا۔ کسی کے اخلاق کو اپنانا۔
 أَخَذَهُ: جاو کرنا۔
 أَخَذَهُ مُؤَاخَذَةً: ملامت کرنا۔ عتاب کرنا۔ ؕ عَلَيَّ دَنِيَّةً و بَدَنِيَّةً: سزا دینا۔
 إِتَّخَذَ: کر دینا۔ بنا دینا۔ عاجز ہونا۔
 إِتَّخَذَهُ و تَخَذَهُ (س) تَخَذًا: صدیق یا دوست بنالینا۔
 اسْتَأْخَذَ: درو کی وجہ سے سر جھکانا۔
 الْأَخْدُ: آشوب۔ چشم۔
 الْأَخْدَةُ: افسوس، منتز، درندوں کے شکار کے لیے گڑھا۔
 الْأَخْدَةُ: جسے یا اعضاء کی پوست۔
 إِخَاذَةُ: پانی جمع ہونے کی تالاب جیسی جگہ ج. إِخَاذَاتُ و إِخَاذٌ: إِخَاذِي ج. أَخْدُو أَخْدُو أَخْدُ۔
 الْأَخْيَدُ: قیدی۔ ج. أَخْدِي۔
 الْأَخْيَدَةُ: لڑائی میں دشمن سے چھینا ہوا مال۔
 غصب کیا ہوا مال۔
 الْمَأْخُذُ: راستہ لینے کا طریقہ یا وقت یا وہ جگہ جہاں سے کوئی چیز جانی جے مآخِذُ۔ الْمَأْخُذُ: پھندے، جال۔

اَذْرَ (س) اَذْرًا: الرَّجُلُ: آماس خضيه والا ہوتا۔ صفت اذْرٌ۔

الْأَذْرَةُ: الْأَذْرَةُ: آماس خضيه۔
الْأَذْفُ: آله تاسل۔ کان۔

أَذَلَّ (ض) أَذْلًا: الْخُضْبُ: كمرئز اترنا۔ اللَّبْنُ: بلونا۔ النَّابُ: بند کرنا۔ (اقرب)
الْأَذْلُ: گردن کاورو۔ گاڑھا کھارو۔

أَذَمَّ (ض) أَذْمًا: الْخَيْزُرُ: سالن لگانا۔ صفت
مفعولی مَاذَوْمٌ۔ اَذَيْمٌ۔

وَأَذَمَّ أَذْمًا: بَيْنَ مَتَحَاصِمَيْنِ: صلح
کرنا۔ اَلْفَتْ وَاتِّفَاقٍ پیداکرنا۔

أَذَمَّ (ن) أَذْمًا: أَهْلُهُ: اپنے لوگوں کے لیے
نمودینا۔

أَذَمَّ (س) أَذْمًا وَأَذَمَّ (ك) أَذْمَةً: گندم
گوں ہوتا۔

إِنَّذَمَّ: سالن سے روٹی کھانا۔
الْأَذَامُ: ہر موافق و مناسب چیز۔ سالن۔ ج

أَذَامٌ وَأَذَمٌ۔
الْأَذَمُ: ہرہ چیز جس کو سالن بتایا جاسکے۔

الْأَذْمَةُ وَالْأَذَمُ: چڑے کا ظاہری یا اندرونی
حصہ کہا جاتا ہے "فَلَا تُؤْذِمُ أَذْمًا قَوْمَهُ وَأَذَمًا يَتِيمِي

أَيْبُوهُ أَذْمَةً قَوْمِهِ" فلا اپنی قوم کا سردار ہے۔
أَذَمٌ: سیدنا ابو البشر آدم علی نبیہا علیہ الصلوٰۃ

والسلام کا اسم گرامی۔ افراد جنس پر بھی اس کا
اطلاق کیا جاتا ہے۔ ج اَوَادِم۔ نسبت کے لیے

أَذْمِيٌّ۔
الْأَذَمُ: گندم گوں۔ مَوْنَتُ أَذْمًا: ج اَذْمٌ۔

الْأَذَامُ: چڑے کی تجارت کرنے والا۔
الْأَذِيمُ: پکایا ہوا چمڑا۔ اَذَيْمٌ النَّهَارُ: دن کی

روشنی۔ کہا جاتا ہے: "ظَلَّ اَذِيمٌ النَّهَارَ
صَائِمًا": وہ پورے دن روزہ سے رہا۔ اَذِيمٌ

الضَّحَى: چاشت کی ابتداء اَذِيمٌ اللَّيْلُ:
رات کی تاریکی۔ وَالْأَذِيمُ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ

الْأَرْضِ آسْمَانٌ يَأْتِيهِمْ كَاظْمَةٌ: ج اَذْمٌ وَ
أَذْمٌ وَأَذْمَةٌ أَذَامٌ۔

الْأَذْمَةُ: قربت۔ وسیلہ۔ گندم گوئی۔
أَذَا (ن) أَذْوًا: الشَّمْرُ: پلکا۔ اللَّبْنُ:

گاڑھا ہونا۔ أَذْوًا: اللَّبْنُ: بلونا۔ الرَّجُلُ:

دھوکا فریب دینا۔

تَأَذَى وَتَأَذَى: آلمینا۔ تیاری کرنا۔ زمانہ کے
خوارث کے دفعیہ کے لیے اسباب میا کرنا۔

الْأَذَاةُ: آلم۔ ج اَذْوَاتُ۔

الإذَاةُ: چہرہ کا چھوٹا برتن۔ ج اَذَاوِيٌّ۔

أَذَى (ض) أَذْيًا وَأَذَى قَادِيَةً: الشَّمْرُ: پھینچنا۔
اوا کرنا۔

أَذَى إِذْمَاءً: تیاری کرنا۔ قوی ہونا۔ عَلَيَّ: مدد
کرنا۔

تَأَذَى: لَهُ مِنْ حَقِّهِ: ادا کرنا۔ إِلَيْهِ الْخَيْزُرُ:
پھینچنا۔

إِسْتَأَذَى: فَلَانًا الْمَالَ: لینا۔ عَلَيَّ: مدد چاہنا۔
الْأَذَاءُ: ادا کی۔ پھینچنا۔

إِذْ: زمانہ ماضی کے لیے ظرف ہے اور اس کے
بعد ہمیشہ جملہ واقع ہوتا ہے۔ اور کبھی جملہ کو حذف

کردیتے ہیں اور اس کے عوض توین لاتے ہیں۔
جیسے "مَنْ جَاعَكُمْ الْمَوْتُ فَجِيئِيهِ

تَعْلَمُونَ" یہ اصل میں یوں ہے فَجِيئِيهِ اَذْيَجِي
تَعْلَمُونَ۔ اور کبھی مفاہیجہ کے لیے آتا ہے جیسے

"بَيْتَنَا أَنَا جَالِسٌ إِذْ جَاءَ زَيْدٌ" اور کبھی لام
تعلیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے

"ضَرَبْتُ ابْنِي إِذْ سَاءَ" میں نے اپنے بیٹے کو مارا
اس وجہ سے کہ اس نے گستاخی کی تھی۔

إِذَا: زمانہ مستقبل کے لیے ظرف ہے اور معنی
شرط کو متضمن ہوتا ہے جیسے "إِذَا اجْتَهَدْتَ

نَجَحْتَ" جب تم کوشش کرو گے تو کامیاب
ہو گے۔ اور حرف مفاہیجہ بھی ہے جیسے "خَرَجْتُ

فَإِذَا أَسَدًا بِالنَّابِ" میں لکھا تو اچانک دروازہ پر
شیر تھا۔

أَذَارٌ وَأَذَارٌ: ماہ مارچ۔ (روی میں سے کانام)

الْأَذْرِيُّونَ: سورج کبھی۔

إِذْمًا: حرف شرط ہے بمعنی ان۔ اور دو فعلوں کو
جزم کرتا ہے جیسے إِذْمًا تَقُمْ أَفْمٌ۔

إِذْنٌ وَإِذًا: حرف جواب و جزا ہے۔ مثلاً تم سے
کوئی کے کہ "أَزُوؤُكَ عَدُوًّا" تو اس کے جواب میں

تم کو گے "إِذْنٌ أَكْرَمُكَ"

أَذِنَ (س) أَذِنًا: إِلَيْهِ وَهُوَ: کان لگانا۔ سننا۔ کہا جاتا
ہے "حَدَّثْتُهُ فَأَذِنَ لِي أَحْسَنَ الْأَذْنِ" میں نے

بات چیت کی تو اس نے اچھی طرح کان لگا کر
بات سنی۔

إِذْنَا وَأَذَيْتَنَا: لَهُ فِي الشَّمْرِ: اجازت دینا۔
مباح کرنا۔ إِذْنَا وَأَذْنَا وَأَذَانًا وَأَذَانَةً

بِالشَّمْرِ: جاننا۔

أَذْنَةُ (ن) أَذْنًا: کان پر مارنا۔ گوشالی کرنا۔
أَذْنٌ: کسی کے کان میں درد ہونا۔

أَذْنٌ إِذْنًا: فَلَانًا الْأَمْرُ وَالْأَمْرُ: جملانا۔
آگاہ کرنا۔ الرَّجُلُ: کان پر مارنا۔

العشبُ: خشک ہونے لگنا۔

وَأَذْنٌ تَأَذَيْتَنَا: بِالصَّلَاةِ: اذان دینا۔

أَذْنٌ الْوَلَدُ: کان گرم کرنا۔

تَأَذَنَ: شَمَّ کھانا۔ لَأْمُرٌ: آگاہ کرنا۔

جملانا۔ بِالشَّمْرِ: ذُرَانًا: الْأَيْمِيُّ فِي النَّاسِ: امیر کا
اعلان کرنا اور دھمکانا۔

إِسْتَأَذَنَ: اجازت طلب کرنا۔ عَلَيَّ: اندر
آنے کی اجازت مانگنا۔

الْإِذْنُ: اجازت طلب، کہا جاتا ہے "فَعَلَةٌ"
بِإِذْنِي" اس نے اس کو میری دانستگی میں کیا۔

الْأَذْنُ وَالْأَذْنُ: کان (مؤنث) ج اَذَانٌ: تغیر
أَذَيْتَهُ: أَذَانَ الْقَارِوُ: الْجَدْيِ وَ-

الْأَرْبِ وَ: الْفَيْلُ: مختلف حیوانات کے
کان اَذْنُ الْكُوْزِ: ٹوٹی۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَذْنٌ

مِنْ الْأَذَانِ" فلاں ہر ایک کی بات سن کر مان لیتا
ہے اور یہ لفظ واحد ہی تشبیہ جمع مذکر مؤنث سب

میں استعمال ہوتا ہے جیسے "هِيَ أَذْنٌ هُمَا أَذْنٌ"
هُمُ أَذْنٌ" اور کہا جاتا ہے "جَاءَ نَاشِرًا أَذْنِيَهُ" وہ

لاج کرتا ہوا آیا و جَاءَ لَا بُسَا أَذْنِيَهُ" وہ غافل ہو
کر آیا۔

الْأَذْنَةُ: خواہش۔

الْأَذَانُ: خبردار کرنا۔

الْأَذْنُ وَالْأَذَانُ: بڑے کان والا۔

الْأَذْنُ وَالْمُؤَذِّنُ: اذان دینے والا۔

الْأَذْنُ: سردار۔ لِيْذْرُ: لقیل۔

الْمُنْدَنَةُ: اذان دینے کی جگہ۔ منارہ۔ ج

مَارَنُ۔

أَذَى (س) أَذَى وَأَذَاةٌ: تکلیف پانا۔ صفت

أَذِيٌّ

جاتا ہے۔ "فَلَا تَنَارُوا زُأْمِي وَطَلِبِي" فلاں ہر مگر کے اپنے وطن ہی کی طرف آتا ہے۔ اللیل: عثمندی ہوتا۔ صفت اریز و آرز و آروز۔ اور کہتے ہیں "بِقِتْلَةِ أَرزَةٍ تَارُؤْمِنُ فِيهَا لَيْسِدَةٌ بَرْدَهَا" ہم نے ایسی عثمندی رات گذاری جس میں ہر شخص سردی کی شدت کی وجہ سے سکر جا رہا تھا۔ "وَأَرزَتْ أَصَابِعُهُ مِنَ الْبَرْدِ" اس کی انگلیاں سردی کی وجہ سے سکر گئیں "وَسَحَرَتْ أَرزَةً" وہ درخت جو جڑ پکڑے۔

أَرزِي: القوم: قوم کا سردار۔

الأرز: صنوبر کا درخت۔

الأرزو والأرزو والأرزو: جاول۔ دھان۔

الأرزو: خیل

أرس (ض) آرسا و آرس۔ کاشکار ہوتا۔

الأرنس: کاشکار۔ ج ارنسون۔

الأرنس: کاشکار، بڑا کاشکار ج اراسنہ

وارانس و اراوس۔

الأرس: پاکیزہ نسب۔

أرش (ن) أرشاه: بھڑکانا۔ بیت دینا۔

أرش: بیتنہم: فساد ڈالنا۔ ایک کو دوسرے کے خلاف آسانا۔ الحزب و التار: بھڑکانا۔

الأرش: ریت۔ رش۔ ج اروش۔

أرض (ن) أرضا و أرض (ک) أرضة۔

المكان: سرسبز اور خوش منظر ہوتا۔ صفت

أرض: زمین۔

أرضت (س) أرضا و أرضت: الخشبنة: دیکھ خورده ہوتا۔

أرض: الكلام و غيره۔ آراستہ کرنا۔ تیار کرنا۔

تأرض: بالمكان: اقامت کرنا۔ زمین میں

جم کے رہنا۔ لکندا: بورپے ہونا۔

استأرض: السحاب: زمین سے قریب فضا میں پھیل جانا۔

الأرض: زمین۔ ج أرضون و أرض

واراض و آراض: زکام۔ جوڑی بخار۔ کہا جاتا ہے "أتانا ابن أرض" ہمارے پاس غیر معروف

انسان سفر آیا "أرض القمل" جوتہ کی تلی۔

الأرضة: ایک قسم کا کیرا جو کڑی کھاتا ہے

حاجت ج مآرب۔

الأرزة: بگڑت کے سر کے بال۔

أرب: دیکھ مادہ ورث۔

أرب: بھڑکانا۔ بیتنہم: فساد کی آگ بھڑکانا۔

تأربت: الناژ: بھڑکانا۔

الأرزة و الأرب: ایندھن۔

الأرب و الأرب: آگ۔

أرب (س) أرجا و أرجا و أرخ: خوشبودار

مسلک۔ صفت أرب: آرب الناس: رونے میں آواز

بلند کرنا۔

أرب (ض) أرجا: ألحق بالباطل: حق میں

باطل کی آمیزش کرنا۔

أرب: القوم و بیتنہم: آسانا ایک کو دوسرے

کے خلاف بھڑکانا۔ صفت أرب: التار:

روشن کرنا۔

الأرب: بڑا بھوتنا۔

المورخ: شیر۔

الأرجوان: ایک پھولدار درخت کانام۔ سرخ

رنگ۔ سرخ رنگ کے پکڑے۔

أرب: فارینغا و أرب: مؤازحة: الكتاب:

تاریخ لکھنا۔

التاريخ: وقت کا بیان کرنا۔ تاریخ السن:

کسی چیز کے واقع ہونے کا وقت۔ ج تواریخ۔

علم التاريخ: ایسا علم جس میں حوادث

و واقعات ج تاریخ کے بیان کئے جائیں۔

الأرب: بیل۔ ج اروب۔

الأرب: بیل گائے۔ واحد أرخة۔ ج أرب:

و ارب۔

الأرب: پہاڑی بکری کا بچہ۔

الأرب: ایک بڑا پیمانہ جس میں چوبیس (۲۴)

صاع غلہ آتا ہے۔

أرب (ن) أربا: الدابة: جانور کو ہانکنا۔ دھکارنا۔ دور

کرنا المرأة: عورت سے جماع کرنا۔

التار: آگ سلگانا۔ السلح: پائیمانہ کرنا۔

أرب (ن) أربا: العاجن: جوئے میں طلبہ کے

وقت ارے رے کرنا۔

أرزة: آگ۔

أرب (ن) أرش (ف) أرزا و أرزا: سٹھان سکھانا۔ کہا

أدى إنذاء الرجل: تکلیف پہنچانا۔

تأدى: تکلیف اٹھانا۔

الأدى والأذية والأداة: تکلیف، رنجش

الأذى: تکلیف زدہ۔

الأذى: سخت تکلیف پہنچانے والا۔ سخت

تکلیف پانے والا۔

الأذى: موج دریا۔ ج اواذى۔

أرب (س) أربا: ماہر ہونا۔ صفت أرب

أرب: مؤنت أربية: أرب بالشئ: مشتاق

ہونا۔ ماہر و دان ہونا۔ إلیه: محتاج ہونا۔

الرجل: کسی کے اعضا کا اگر جانا علیہ: قوی

ہونا۔

أرب (ض) أربا: العقد: مضبوط گرہ لگانا

الرجل: عضو پرانا۔

أرب (ک) أربا و أربا: عمل مند و دان ہونا

صفت أرب و أرب۔

أرب: الشئ: مضبوط کرنا۔ الشاة:

کھڑے کھڑے لگانا۔

أرب: مؤازبة: قریب دینا، دھو کرنا۔ أرب

إربا: علیہم: کامیاب ہونا۔

تأرب: بگڑت زیرک بنا۔ الأمو:

دشوار ہونا۔

استأرب: مخالط دینا۔ دشمنی چھپاتے ہوئے

مدارات کرنا۔ قرض لینا۔

الأرب: حاجت، ضرورت، انتہاء۔ ج

أرب۔

الأرب: عضو۔ کہا جاتا ہے "قطعت الدبينة

إربا" یعنی میں نے ذبیحہ کے عضو عضو کو کاٹا۔

ضرورت۔ ج أرب۔

والأرب: چالاک۔ جیل۔

الأرب: انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کے

درمیان کا فاصلہ۔

الأرب: چالاک۔ پیدائش کے وقت کے گائے

بکری کے بچے۔

الأرب: گرہ۔ کتے کے گلے کا پٹنہ ج ارب۔

الأرب: ران کی جڑ۔

الأرب: جھینکا پھلی۔

المآرب و المآربة: شمیش راء مآربة:

<p>الازی۔ شد کھانا جو دیک کی تلی میں جل کر چپک جائے۔ الازیة۔ جانور کا تھان۔ الازیة۔ کوہان کی چرلی۔ أَزَتْ (ن ض) أَرَاوُ أَرَاوًا وَأَرَيْتَا الْقِدْرُ: جوش مارنا۔ سنناٹا۔ القِدْرُ وَبِهَا: جوش دینے کے لیے آگ جلانا۔ أَرَعَلَى كَذَا: بھڑکانا۔ برا گینیز کرنا۔ الشئی: جمع کرنا۔ تَأَزَّرَ الْمُصْخِلِسُ: اہل مجلس کا مضطرب ہونا۔ اسم الأرة ہے۔ الأزیر: چھوڑے وغیرہ کا درو۔ الأزیر: بادل مرج۔ دیک کی سنناٹ۔ سردی۔ أَزَبَ (ض ن) أَرَبْنَا النِّسَاءَ: جاری ہونا۔ الأزب: نسیم پست قد۔ جلاک۔ الأزب والأزب: لمبا۔ أَلْبَسْتُ أَبْرًا: پرنا۔ بدرو۔ پانی بننے کی جگہ۔ أَبْدَانُ مَخَارِبٍ: الأزیة۔ شدت و قحط۔ أَرَجَ (ض) أَرُوجًا فِي مَشِيئِهِ: تیز چلنا۔ أَرَجَ (س) أَرَجًا: الغضب۔ گھاس کا طویل ہونا۔ أَرَجَ (ن) أَرَجًا: عَنَى: مدد طلب کرنے کے وقت کا تلی کرنا۔ أَرَجَ: البیت۔ لمبا بنا۔ الأزج۔ لمبا گان۔ ج آرزج و آرزج و آرزج۔ الأزج۔ ناز و انداز سے ملنے والا۔ فَرَسٌ أَرُوجٌ: تیز رفتار گھوڑا۔ أَرَجَ (ض) أَرُوجًا وَأَرَجَ: دیر لگانا اور پیچھے رہ جانا۔ صفت أَرُوج۔ أَرَجَتْ قَدْمُهُ: پھسلنا۔ الأزدرخت والأزدرخت: ایک درخت کا نام ہے۔ الأزاد: ایک قسم کی کھجور۔ أَرَزَ (ض) أَرَزًا: بالشئی: احاطہ کرنا۔ التبات: لگنے جانا۔ وَأَرَزَ فَلَانًا: قوی کرنا۔ أَرَزَهُ: ڈھانپنا۔ أَرَزَهُ مُوَارِزَةً: مدد سے۔ غم خواری کرنا۔ تَأَرَزُوا وَتَرَزُوا: ازراہ پیمانہ۔ بند باندھنا۔</p>	<p>وشرح کچھ باقی نہ چھوڑنا۔ صفت مفعولی أَرَمَاءُ وَ مَارُومَةٌ۔ الشئی: جڑ سے ختم کرنا۔ الرَّجُلُ: نرم مزاج بنانا۔ الْحَبْلُ: مضبوط بننا۔ الأزَم: داڑھیں۔ کہا جاتا ہے۔ يَخْرُقُ عَلَيْهِ الأزَم: وہ اس کے اوپر غصے کی وجہ سے دانت پیتا ہے۔ پتھر۔ اگھوں کے کنارے۔ ٹکڑیاں۔ الأزَم والأزَم: میدان میں رہنمائی کے لیے نصب کئے ہوئے پتھر کہا جاتا ہے "مناہل الأزم أو أرم" اس میں کوئی نہیں۔ اس کا استعمال: بیش نفی میں ہوتا ہے۔ ج آرام و أزم۔ الأزومة والأزومة والأزوم: درخت کی جڑ۔ ج أزم اور حسب کے لیے استعارہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "نَفْسٌ ذَاتُ أَكْثُومَةٍ مِنْ أَطِيبِ أَرْوَمَةٍ" یعنی کریم النفس و کریم الاصل۔ الأزومة: نشان راہ۔ ج أزم۔ أَرِنَ (س) أَرْنَاوُ أَرِنًاوُ: البعير: نشاط میں آنا۔ صفت أَرِنٌ وَأَرُونٌ۔ أَرَنَهُ (ن) أَرَنًا: دانت سے کاٹنا۔ أَرَنَهُ مُوَارِزَةً وَإِرَانًا: مفاخرت کرنا۔ الأزَان: تابوت۔ ج أزن۔ الأزان: کھوار۔ الأزان والأزوان: وحشی جانوروں کے رہنے کی جگہ۔ ج مآربین۔ مُشَاةُ أَرَانٍ: جنگلی تیل۔ الأزنة: تزییر۔ اور بقول بعض ایک دانہ کا نام ہے جس کو دودھ میں پیڑ بنانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ الأزین والأزانی والأزنی: ایک قسم کا دانہ جو دودھ کو پیڑ بنا دیتا ہے۔ الأزُونُ: زہرا در بقول بعض ہاتھی کا بھیجا۔ الأزویة والأرویة: پھاڑی بکرا (نذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے)۔ ج آزوی و آزوی و آزوی۔ أَرَى (ض) أَرَيْتَا: التخل: شہد بنانا۔ أَرَى (س) أَرَيْتَا: صَدْرُهُ عَلَيَّ: غھبناک ہونا۔ أَرَى: الدابة: جانور کے لیے تھان بنانا۔ القَار: سلکان۔ بھڑکانا۔ تَأَزَى بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ عَنَهُ: پیچھے رہ جانا۔</p>	<p>دیک۔ ج أَرْض۔ المأزوض۔ دیک کہا تلی ہوئی کھلی۔ الأزوضی شوكی: زمین پر پھیلنے والا ایک خار دار پودا۔ الأزطی: ایک درخت جس کا پھل عناب کی مانند سرخ ہوتا ہے۔ الأزغش والأزغشون: آرگن۔ ایک قسم کا باجہ آزف تارینفا: حد بندی کرنا۔ الْحَبْلُ: بگرہ لگانا۔ أَرَفَ: عَلَى الْأَرْضِ: محدود کیا جانا۔ الأزفة: دو زمینوں کے درمیان حد قاصل علامت گرہ ج أرف۔ الأزفی: زمین کی پیمائش کرنے والا۔ خالص دودھ۔ کہا جاتا ہے "هو موافقی" یعنی اس کے مکان کی حد میرے مکان کی حد کے متصل ہے۔ أَرَقِي (س) أَرَقًاوُ أَرَقِي: رات میں نیند نہ آنا۔ صفت أَرَقِي وَأَرَقِي وَأَرَقِي: آخر کا کلمہ اس شخص کے لیے ہے جس کی عادت ہی بے خوابی کی ہو۔ أَرَفَهُ تَارِيْفًاوُ أَرَفَهُ إِتْرَافًا: بیدار رکھنا۔ الْبِرْقَانُ وَالْأَرْقَانُ وَالْبِرْقَانُ وَالْأَرْقَانُ: آدی کارنگ سیاہ یا زرد ہو جاتا ہے اور یہ عارضہ کھیت کو بھی ہو جاتا ہے۔ أَرَكَ (ن ض) أَرُوكًا: الْجَمَلُ: پیلو کے پتے کھانا۔ أَرَكَ (س) أَرَكًاوُ أَرَكًا: الْجَمَلُ: پیلو کے پتے کھانے سے پیٹ میں درد ہونا۔ أَرَكٌ وَأَرِكٌ: الجُنْحُ: زخم کا چھاپا جانا۔ الأزاک۔ درخت پیلو۔ واحد أَرَاكٌ ج أَرَاكٌ و اراک۔ الأزینكة: آراستہ و مزین تحت۔ ج أَرَاكٌ و أَرَاكٌ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ كَرِيمٌ الْمَأَزُوكُ" وہ کریم الاصل ہے۔ أَرِنَكُه: زخم کا چھاپنا۔ الأزلة: وہ چھڑا جس کو منتہ کے وقت کاٹتے ہیں۔ أَرَمَ (ض) أَرَمًا: مَا عَلَى الصَّائِلَةِ: سب کچھ چٹ کر جانا۔ الْأَرْضُ: زمین میں جڑ</p>
--	---	--

<p>اِسْتَانَاخ وَاِسْتَانَاخ پالک۔ اِسْتِيْدَانَاج وَاِسْتِيْدَانَاج سفيده کا شغری۔ اَلْاَسْت: جز۔ بنیاد۔ سرین۔ اَلْاَسْتَاذ: معلم۔ مذہب۔ عالم۔ ج اَسَايْذَة و اَسَايْذَة اور تاجروں کی اصطلاح میں حسابات کا جزل رجسٹر۔ اَلْاَسْتَاذ: فِي الْعَدَد: چار۔ فِي الْوَزْن: ساتھ چار شکل۔ ج اَسَاتِيْر (جدید) اَلْاَسْتَبْتِيْق: موثر۔ شے کپڑا۔ رشیم اور سونے کے تاروں کا تھوڑا کپڑا۔ اَسَد (ض) اَسَدًا وَاَسَدًا وَاَسَدًا اِسْتَاذًا۔ اَلْكَلْبُ بِالضَّمِّ: اَسَا۔ برا گیتے کرتا۔ اَسَدٌ يَعْنِي الْقَوْمَ: فساد انگیزی کرتا۔ اَسَد (س) اَسَدًا: شیر کو کوکھ کر دہشت کھاتا۔ اخلاق میں شیر کی طرح ہونا۔ عَلَيْهِ: جرات کرتا۔ تَأَسَّدُوا اِسْتَاذًا: شیر کی مانند ہونا۔ عَلَيْهِ: جرات کرتا۔ وَاِسْتَاذَةُ التَّبْتُ: استیابی لیا ہونا۔ اَلْاَسَدُ: شیر۔ زرمادہ دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے۔ "هُوَ الْاَسَدُ: هِيَ الْاَسَدُ" ج اَسَدٌ وَاَسَدٌ وَاَسَدٌ وَاَسَدٌ وَاَسَدٌ وَاَسَدٌ۔ جگل کے شیر اور شیرنی کو لَبُو کہتے ہیں۔ ذَاءُ الْاَسَدِ: کوڑھ۔ اَلْمَاَسَدَةُ: شیر کے رہنے کی جگہ یا وہ جگہ جہاں شیر رہت ہوں۔ ج مَآسِد۔ اَلْاَسَاذَةُ: بگیہ۔ اَسْرَه (ض) اَسْرًا وَاِسَارَةً: تمہ سے باندھنا۔ اَسْرَه اَسْرًا وَاِسَارًا وَاِسَارَةً: قید کرتا۔ تَأَسَّرَ عَلَيْهِ: دیر لگانا۔ اِسْتَاَسَرَ: قیدی بننے کے لیے اپنے آپ کو حوالہ کرتا۔ اَلْاَسْرُ: سہ کہا جاتا ہے "هَذَا الْكَلْبُ بِاَسْرِهِ" یہ کل تمہارے لیے ہے۔ اَلْاِسَارُ: تمہے لایاں۔ اَلْاَسْرُ: بیٹھاپ کارکنا۔ اَلْاَسْرَةُ: خاندان۔ مضبوط زرہ۔ ج اَسْر۔</p>	<p>ہو۔ اَلْاَزَلِي: قدیمی۔ وہ ذات جس کے وجود کی ابتداء نہ ہو۔ اَلْمَازِل: جگہ۔ اَزْمَةٌ (ض) اَزْمًا وَاَزْمًا: دانت سے کاٹنا۔ اَلْحَبْلُ: رشتی کو مضبوط بنانا۔ اَلدَّهْرُ عَلَيْهِ: سخت ہونا۔ بِضَا جِبِهِ: ہمیشہ ساتھ ساتھ رہنا۔ عَنِ الشَّيْ: رکنا۔ عَلَيْهِ: محافظت کرتا۔ اَلنَّابُ: دو رازہ بند کرتا۔ تَأَزَّمُ الْقَوْمُ: شگلی اور قحط سالی لاحق ہونا۔ زمانہ کی سختی سے درومند ہونا۔ اَلْاَزِمُ وَاَلْاَزِمَةُ وَاَلْاَزِمُ: کچل۔ نوکدار دانت ج اَزْمًا وَاَوَازِمًا وَاَزْمًا: پرہیز کرنے والا۔ اَلْاَزْمُ: پرہیز۔ کہتے ہیں "اَصْلُ كَلِمَةِ دَوَاءٍ اَلْاَزْمُ" ہر دوا کی جز پرہیز ہے۔ اَلْاَزْمُ: قوت۔ اَلْاَزْمَةُ وَاَلْاَزِمَةُ: سختی و شگلی۔ قحط۔ ج اَزْمًا وَاَزْمًا وَاَزْمَاتٌ وَاَوَازِمٌ۔ اَلْاَزْمَةُ: دن میں ایک ہی مرتبہ کھانا۔ اَلْمَازِمُ: جگہ۔ میدان۔ جنگ ج مَآزِم۔ اَلْاَزْمَةُ: سخت قحط کا سال۔ اَزَى مَوَازَاةً: اَلْوَجْلُ: ایک دوسرے کے مقابل اور قریب ہونا۔ تَأَزَى تَأَزَاةً: الْقَوْمُ: باہم قریب ہونا۔ تَأَزَى عَنَهُ: مڑنا۔ اِزَاةً: مقابل۔ سامنے۔ کہا جاتا ہے "جَلَسَتْ اِزَاةً هُوَ وَاِزَاةً" وہ اس کے مقابل بیٹھا۔ اِزَاةً اَلْمُرُ: کام کا منتظم۔ اور کہا جاتا ہے "هُمُ اِزَاةً وَّهُمْ" وہ لوگ ان کے مماش ہیں۔ اَس (ن) اَسًا: اَلدَّارُ: بنیاد رکھنا۔ يَعْنِي النَّاسَ: فساد پھیلانا۔ اَسَسَ: اَلْبَيْتَ: بنیاد رکھنا۔ اَلْاَسُّ وَاَلْاَسُّ وَاَلْاَسُّ: ج اَسَاس وَالْاَسَاسُ وَاَلْاَسَسُ ج اَسَّسَ وَاَسَّسَ: بنیاد۔ کسی چیز کی ابتداء۔ اَلْاَسُّ: چمچے میں تھوڑی راکھ۔ اَلْاَسَّاسُ: چغل خور۔ اَلْاَسْبُ: زانو کے بال۔ اندام نعلی کے بال۔ ڈبر کے بال۔ ج اَسَاب۔</p>	<p>اَلْاَزْرُ: قوت۔ چینی۔ کہا جاتا ہے "شَدِيدُهُ اَزْرَةٌ" اس کو اس کے ذریعہ قوت حاصل ہوئی اور اسی سے قرآن میں ہے "اَشْدُ ذِي اَزْرِي" یعنی اس کے ذریعہ مجھے قوت دے۔ اَلْاَزْرُ: جز۔ تہ بند۔ اَلْاَزْرُ: تہ بند باندھنے کی جگہ۔ اَلْاَزْرَةُ: تہ بند باندھنے کی نیت۔ کہا جاتا ہے "لِكُلِّ قَوْمٍ اَزْرَةٌ يَأْتِرُونَهَا" یعنی ہر ملک کے ہر رے۔ اَلْاَزَارُ: ہر وہ چیز جو تم کو چھپالے۔ چادر۔ پاکدامنی۔ تہ بند۔ پشہ دیوار۔ ج اَزْرَةً وَاَزْرًا۔ اَلْاَزَارَةُ: تہ بند۔ اَلْمُتَزَرِّ وَاَلْمُتَزَرَّةُ: تہ بند۔ ج مَآزَرُ: کہا جاتا ہے "شَدِيدُ الْاَهْوِ مُتَزَرَّةٌ" جب کہ مستعدی ظاہر کے۔ "نَضْرُ مُمُوتَزَرَّةٌ" پوری مد۔ اَزْف (س) اَزْفًا وَاَزْفًا: قریب ہونا۔ اَلْوَجْلُ: جلدی کرتا۔ اَلْحَبْلُ: زخم بھر جانا۔ اَزْفًا اِزْفًا: جلدی کرتا۔ تَأَزَّفَ اَلْوَجْلُ: بست قدم ہونا۔ بد خلق ہونا۔ تَأَزَّفَ: قریب قریب قدم رکھنا۔ اَلْقَوْمُ: بعض کا بعض سے قریب ہونا۔ اَلْاَزْفُ: شگلی و بد حالی اور اسی سے ہے۔ "فِي عَيْنِي اَزْفٌ" اس کی زندگی جگ ہے۔ اَلْاَزْفَةُ: قیامت کا دن۔ اَلْاَزْفِيُّ: تیز قدمی و جہتی۔ "يَمْنِي اَلْاَزْفِيُّ" وہ تیز چلتا ہے۔ اَلْمَاَزْفَةُ: پاستھانہ۔ ج مَآزِفُ۔ اَلْمَرْاُةُ وَاَلْمَرْاَفَةُ: چھوٹا توشہ دان۔ مَكَانٌ مَازِفٌ: جگہ۔ ج وَجْلٌ مَازِفٌ: پست قدم۔ اَلْمَرْاَفُ: جگہ دل و بد خور۔ اَزِق (ض) اَزِقًا وَاَزِقًا (س) اَزِقًا وَاَزِقًا: جگہ ہونا۔ اَلْمَازِقُ: جگہ۔ میدان۔ جنگ۔ ج مَآزِقُ۔ اَزَل (ض) اَزَلًا وَاَزَلًا: شگلی و سختی میں پڑنا۔ سفت اَزَلًا: اَزَلًا: روکنا۔ باز رکھنا۔ اَلْاَزَلُ: بلا و مصیبت۔ جھوٹ۔ اَلْاَزَلُ: بھنگی۔ وہ زمانہ جس کے لیے ابتدائے</p>
---	---	--

الْأَيْسُرُ: قیدی۔ جِ أَسْرَى وَأَسْرَاءُ
وَأَسَارَى وَأَسَارَى۔
الْأَسْرُ شَيْءٌ۔
الْأَسْرُوبُ وَالْأَسْرُوبُ وَالْأَسْرُوبُ سَيْدٌ۔
الْإِسْطَبْلُ: اصطبل۔ جِ اسْمُ ظِلَاتٍ۔
الْأَسْطَبْلُ: ایک قسم کا آلہ جس سے نبوی
ستاروں کی بلندی کا اندازہ کرتے ہیں۔
الْأَسْطَقِيسُ وَالْإِسْطَقِيسُ: اصل وغیرہ۔
جِ اسْطِقِيسَاتٍ: قداماء فلاسفہ کے نزدیک
عناصر اربعہ کو کہتے ہیں۔
الْأَسْطُورَةُ: قصہ۔ کہانی۔ جِ اسْطَابِيرٌ۔
الْأَسْطُولُ: جنگی جہازوں کا بیڑہ۔ جِ اسْطَابِيلٌ۔
الْأَسْطُورَانَةُ: ستون۔ کھمبا۔ جانور کی ٹانگ۔ جِ
أَسْطَابِينٌ۔ کہا جاتا ہے "هُمْ أَسْطَابِينُ الزَّمَانِ"
وہ لوگ زمانے کے کھمبے اور مخصوص افراد ہیں۔
أَصْفٌ (س) أَسْفًا: عَلِيٌّ: عَمَلِيٌّ ہوتا۔
افسوس کرتا۔ صفت أَسْفٌ۔
أَسْفًا: اِسْفًا: غمگینا کرتا۔ عَمَلِيٌّ کرتا۔
تَأَسَّفٌ: افسوس کرتا۔ تَأَسَّفْتُ يَذُّهُ: پھٹ
جانا۔ کہتے ہیں "يَا أَسْفَى وَيَا أَسْفَى عَلَى كَذَا"
مجھے اس پر کس قدر افسوس ہے۔
الْأَسْوَفُ: جلدی عَمَلِيٌّ ہونے والا۔ نِزْمٌ
دل۔
الْأَيْسِفُ: عَمَلِيٌّ۔ وہ شخص جو موٹا نہ ہو تاہو۔
جِ أَسْفَاءٌ مَوْتٌ أَيْسِفَةٌ: الْأَيْسِفُ: قیدی۔
حدیث میں ہے "لَا تَقْتُلُوا عَمِيئِفًا وَلَا أَيْسِفًا"
مزدور اور قیدی کو قتل مت کرو۔
أَرْضٌ أَيْسِفَةٌ وَأَسْفَاءٌ: وہ زمین جس میں
اچھی طرح پیداوار نہ ہو۔
الْأَسْفَاءُ: افسوس۔ زمین کی نری۔
الْأَيْسِفَةُ: باندی۔
الْإِسْفَنَجُ: اِسْفَنَجٌ: واحد اسْفَنَجَةٍ۔
الْإِسْفَنْدُ: سفید رانی۔ اسْبَنْدٌ۔
الْإِسْفَنْقُورُ وَالسْفَنْقُورُ: ایک قسم کا دریائی
جانور ہے جو گرم ممالک میں ہوتا ہے اور حرکت
سے بڑا اور موٹا ہوتا ہے اور دم چھوٹی ہوتی ہے۔
الْإِسْكَالَةُ: بحر روم کی ہر بندرگاہ۔ جِ
أَسَاكِلُ۔

أَسْلٌ (ك) أَسْلَةٌ وَأَسِيلٌ (س) أَسْلًا: نِزْمٌ
ہموار، لمبا ولامت ہوتا۔ صفت أَسِيلٌ مَوْتٌ
أَسِيلَةٌ۔
أَسَلٌ: الرَّوْحُ: تیز کرنا۔ ان کی مانند کرنا۔
تَأَسَّلَ: هُ: اخلاق و عادات میں مشابہ ہونا۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ عَلَيَّ أَسَالٌ مِنْ أَبِيهِ" وہ اپنے باپ
کے مشابہ ہے۔ آسَالٌ کا مفر نہیں آتا۔
الْأَسَلُ: چنگی اور لمبی شاخوں والی ایک قسم کی
نباتات، واحد أَسْلَةٌ: تیزی اور ہر تیز اور چنگی تلوار
اور چھری۔
الْأَسْلَةُ: زبان کی نوک۔ ذراع کا باریک حصہ۔
الْأَسْمُ: دیکھئے مادہ س ہو۔
أَسَافَةٌ: شیر کا علم جنس۔
أَسَنٌ (ن ض) أَسْنَاوُ أَسُونًا وَأَسِينٌ (س) أَسْنَا
وَقَاسِنٌ: المَاءُ: متحیر ہونا۔ بدبودار ہونا۔ صفت
أَسِينٌ۔ تَأَسَّنَ وَذَهُ: بدل جانا۔ تَأَسَّنَ أَنَا: باپ
کے اخلاق اختیار کرنا۔
أَسِينٌ (س) أَسْنَا: الرَّجُلُ: سڑے ہوئے پانی
والے کونٹوں میں داخل ہونے سے بیوش ہونا یا
سر چکرانا۔ صفت أَسِينٌ۔
الْأَسْنُ: چھلی کا بیجہ۔ جو آسان۔ الامان۔ آثار
قدیمہ۔ آسان القیاب: کپڑے کے بوسیدہ اور
پھٹے ہوئے حصے۔
الْأَسْنُ: رتی کی لڑی۔ جِ أَسُونٌ۔
أَسَانٌ (س) أَسْنَاوُ أَسَا: الْجُزْجُ: مِطْلَعٌ كَرَا۔
الرَّجُلُ: تلی ریتا۔ صفت مفعول أَسِيٌّ۔
وَمَا سُوٌّ: بَيْنَهُمْ: صلح کرنا۔ هُ: بَقْلَانٌ:
کسی کو کسی کے لیے نمونہ قرار دینا۔
أَسَى تَأْسِيَةً: الرَّجُلُ: علاج کرنا۔ تلی ریتا۔ بد
کرنا۔
أَسَى مَوَاسَاةً: الرَّجُلُ هِيَ مَالِيهِ: مالی ہمدردی
کرنا۔ أَسِيَّةٌ: بِنَفْسِي: اپنے برابر سمجھنا۔
تَأْسَى: صبر کرنا۔ تلی پانا۔ وائسلی: یہ:
اقتداء کرنا۔ پیروی کرنا۔
تَأْسَى: الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو تلی ریتا۔
الْأَسْوَةُ وَالْأَسْوَةُ: اقتداء۔ نمونہ۔ وہ چیز جس
سے تلی حاصل ہو۔ جِ أَسَى وَأَسَى۔
الْإِسَاءَةُ: دوا۔ جِ أَيْسَةٌ۔

فَلَانًا تَمَكَّنَا - اِنْتَصَّ إِلَيْهِ بِنَاهِ لِيَدَا - مضطر ہوتا۔ الْأَصَى : جڑ - کہا جاتا ہے "فَلَانٌ تَكْرِيمٌ الْأَصَى" فلاں شریف الاصل ہے۔ الْأَصَاصُ : پناہ لینے کی جگہ - جلن سوزش۔ الْأَصَاةُ : تالاب - جو بڑے ج اَصَى و اَصَاتَات۔ الْأَصَاةُ : خروڑہ کی فالیز - بید کا جھل۔ أَصَمٌ (س) اَصَمًا - عَلَيْهِ غَضَبًا کہ وہ بہ : تکلیف پہنچانے لگا۔ الْأَصَمُ - کینہ - حد - غصہ - ج اَصَمَات۔ اَطَّ (ض) اَطَّيظًا : آواز نکالنا - چڑھانا الْإِبِلُ بِلْمِائِنَا - کہا جاتا ہے "هَمَّ اِبِلُ اَطَّيظُ و صَهَيْلٌ" وہ اونٹ اور گھوڑے والے ہیں۔ اَطَّرَهُ (ض) اَطَّرُوا اَطَّرَةً : موڑنا۔ اِنَّاظَرُ : مڑنا۔ تَاظَرُ : دوہرنا۔ اَلْأَظَرُ : کمان کا خم۔ الْأَظِيظُ : گناہ - کہا جاتا ہے "اَخَذَهُ بِاَظِيظِ غَيْرِهِ" اُس نے اس کو دوسرے کے جرم میں پکڑ لیا۔ اَلْأَظَارُ : چو کھا گھیرا - ہر احاطہ کرنے والی چیز ج اَظُرُ۔ الْأَظَلُّ و الْإِظَلُّ : ج اَطَّال : اَلْأَيْظَلُّ ج أَيَاظِلُّ : پہلو - کوکھ۔ اَقْلَمُ : اَلْإِقْلَامُ : قلعوں کو بلند کرنا۔ تَأَقَّمُ : اَلْمَسْبُلُ : سیلاب کا بلند ہونا النَّارُ : آگ سے لپٹ اٹھنا عَلَيْهِ : بڑا بڑا غضبناک ہونا۔ اَلْأَقْلَمُ : قلعہ - ج اَقْلَامُ۔ اَلْأَقْلُومُ : سمندری کچھوا - ایک قسم کی موٹی کھال کی مچھلی - زرافہ - گائے۔ اَلْأَقْلِيمَةُ : آگ جلانے کی جگہ - چولہا - ج اَقْلَامُ۔ اَقْفُ (ن ض) اَقْفًا و تَأَقَّفُ و اَقْفُ : غم اور بے قراری کی وجہ سے اَب اَب اَب کہا۔ اَلْأَقْفُ : بے قراری - وقت۔ اَلْأَقْفُ : ناخن کا تراشہ - کان کا میل۔ اَقْبُ : اسم فعل - بمعنی الضجر و الکروه (میں	گناہ - ج اَصَار - کان کا سوراخ۔ الْأَصَارُ : ج اَصْرًا و الْاَيْصُرُ : ج اِباصر۔ الْأَصَاةُ : خیمہ کی رسیوں کی کھوڑا۔ الْأَصِيرَةُ : تعلق - رشتہ داری - ج اَوَاصِيرُ - إِضْطَبِلُ : اصل۔ الْإِضْطَفَلِينُ : گاجر - واحد اِضْطَفَلِيَّةُ۔ الْإِضْطَكْمَةُ : راگھ میں پکی ہوئی روٹی۔ الْأُضْطَوَانَةُ : ستون - کھمبا - جانور کی ٹانگ - ج أَصَابِيظُ و اَصَابِيظَةُ۔ الاصف - ایک قسم کا درخت۔ أَصْلُ (ک) اَصَالَةٌ : جڑ والا ہونا - جڑ پکڑنا۔ شریف الاصل ہونا _____ زَائِيَةٌ : عمدہ ہونا۔ صفت اَصِيلٌ۔ أَصِيلُ (س) اَصْلًا - اَلْمَاءُ : بچھڑکی وجہ سے متغیر ہونا _____ اللُّحْمُ : بودار ہونا۔ أَصِيلٌ فَلَانٌ يَفْعَلُ كَذَا : بمعنی ظَلُوقٌ یعنی فلاں ایسا کرنے لگا۔ أَصْلُهُ : جڑ والا بنانا - اصل بیان کرنا - شرافت بیان کرنا۔ أَصْلٌ اِيضًا : شام کے وقت میں داخل ہونا۔ شام کے وقت آنا - اسی سے ہے "أَتَيْنَاهُمُ صَبِيحِينَ" ہم شام کے وقت آئے۔ تَأَصَّلُ : جڑ والا ہونا۔ اِسْتَأَصَّلَ - الشَّيْ : جڑ سے اکھیرنا۔ اِسْتَأَصَّلَتِ الشَّجَرَةُ : جڑ پکڑنا۔ الأصل : جڑ - وہ چیز جو فرع کے مقابل ہو - والد۔ صدر و نوح - "مَا فَعَلْتُمْ أَصْلًا" میں نے اس کام کو یقیناً نہیں کیا - ج اَصُولٌ و الْاَصُولُ : وہ تو ائین جن پر کسی علم یا فن کی بنیاد ہوتی ہے۔ الأصیل : عمرو مغرب کے درمیان کا وقت ج أَصَالٌ و اَصَائِلُ و أَصْلٌ و أَصْلَانُ۔ و الاصيل - بغیر وکیل کے خود لین دین کرنے والا۔ الأصيلة - جڑ والی - "جاءُوا بِأَصِيلَتِهِمْ" وہ سب کے سب آئے۔ الأصلة : ایک قسم کا چھوٹا یا بڑا سانپ - ج أَصَلُ۔ أَصٌ (ن ض) أَصًا - هُوَ إِلَيْهِ : مجبور کرنا - مضطر کرنا۔	الأشیر - ٹڈی کے پاؤں کا خار - ٹڈی کے دم کے سرے پر کی گہرہ - ج اَوَاشِيرُ۔ اَلْأَشِيرَةُ : ٹڈی کے منہ کا وہ حصہ جس سے وہ کسی چیز کو کاٹتی ہے - ٹڈی کے پاؤں کا خار - ج تَاشِيرُ۔ اَلْمَشَشَاةُ : آرہ - ج مَاشِيرٌ و هُوَ اَشِيرٌ۔ الأشقی : ستال - ج اَشَافِي اَشَافِي۔ الأشقیل : ایک قسم کی نباتات۔ الأشنة : ایک قسم کی نباتات پر پھلتی ہے۔ الأشنان و الإشنان : ایک قسم کی نباتات جس کو ہاتھ دھونے میں استعمال کرتے تھے۔ أَصُ - الشَّيْ : توڑنا - نرم کرنا۔ أَصَصَ - الشَّيْ : مضبوط کرنا۔ فَأَصَصُوا و اِنْتَصُوا : جمع ہونا اور بھیڑ کرنا۔ الأصيص - شکستہ برتن - گملا - پیٹاب کرنے کا برتن - مضبوط عمارت - کچی۔ الأصيصة : قریب قریب کے گھر۔ أَصَدَّ و أَصَدَّ - الثَّابِتُ : بند کرنا - و أَصَدَّهُ : چھوٹی قمیص پہنانا۔ الأصدة - چھوٹی قمیص - کرتی - ج أَصَدُّ و اَصَادُ۔ الأصدة : قوم کے جمع ہونے کی جگہ - ج إِصْدُ۔ الأصيدة : صحن خانہ۔ الأصيدة باڑہ - چھوٹی قمیص - کرتی۔ الأصَادُ و الأَصِيدَةُ : طبع - اَلْإِصَادُ : چوکھٹ - پہاڑوں کے درمیان گڑھا - جس میں پانی جمع ہو۔ أَلْهُوَصِدُ : چھوٹی قمیص - کرتی۔ أَصْرًا (ض) أَصْرًا : الشَّيْ : توڑنا - اَلْأَخْيِمَةُ : خیمہ کے لئے بیچ بنانا _____ فَلَانًا عَلَيْهِ : متوجہ کرنا - مہربان بنانا۔ أَصْرَهُ هُوَ اَصْرَةٌ : بڑوسی ہونا۔ تَأَصَّرُوا : باہم بڑوسی ہونا۔ اِنْتَصَرُوا : القُرُومُ : کثیر التعداد ہونا _____ التَّبَيُّتُ : بستی اور گنجان ہونا۔ الأَصْرُ و الأَصْرُ و الأَصْرُ : عمدہ - بیان - بوجھ۔
--	---	--

اِفْرَافِكْ: ہاکنج اَفَاکون وَاَفَکَہ اَفْکَاغَرَنَ زَاہِہ: رائے سے پھیرنا۔ اِفْکَ: المَکَانُ: بے بارش والی ہوتا۔ اِفْکَ الرَّجُلُ: ضعیف العقل ہوتا۔ اِنْفَکَ: اَنبَلَدُ بِاِہْلِهِ: اٹ جانا۔ اَلْاَرْضُ: خشک سالی سے جل جانا۔ اِلْفَکَ وَاِلْفَکَۃُ وَاِلْفَیْکَۃُ: جھوٹ۔ گناہ۔ اِلْفَیْکَہ کی جمع اَفَاکِنُکَ۔ اِلْفَیْکَ وَاِلْمَاوُکَ: خیر سے محروم، عاجز رائے والا۔ اِلْفَکَۃ: من السینین: خشک سال ج اَو اِفْکَ۔ المُوْتَفِکَاکَاتُ: ہوا میں جو مختلف سمت سے چلیں۔ وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے اٹ کر جاہ کر دیا۔ اَقْلُ (ض ن) وَاَقِلُّ (س) اَقْوَلًا: القَمَرُ: ثواب ہوتا۔ غروب ہوتا۔ صفت اَقِلُّ ج اَقْلُ وَاَقْوَلُ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ کَفَبْہُ سَاہِلٌ وَنَجْمُہُ اَقِلُّ" یعنی وہ بد نصیب اور برگشتہ قسمت ہے۔ اَقْلُ (ض ن) اَقْوَلًا وَاَقِلُّ (س) اَقْلًا: الرَّجُلُ: شادمان ہوتا۔ المُوْرَضِیْعُ: دودھ کا ختم ہو جانا۔ اَقْلَۃُ: تعظیم کرنا۔ تَاَقَلُّ: تکبر کرنا۔ اَلْاَوْبِلُ: اونٹ کا بچہ۔ ج اَفَالٌ وَاَفَالٌ: مؤنث الہیلة۔ اَقْنُ (ض) اَقْنَا: الناقۃ، بے وقت دوہنا۔ اللہ فَلَآئًا: ضعیف العقل بنا کرنا۔ اَقِنُ (س) اَقْنَا وَاَقِنُ: ضعیف العقل ہونا۔ صفت اَقِیْنُ وَاَقِنُوْنُ۔ تَاَقَلُّ: تکلف کسی عادت کو اختیار کرنا۔ گھٹنا۔ اَو اِخْرَا المور: انعام کی فکر کرنا۔ اِلْفَاہَانُ: وقت۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ لَہِ اِلْفَاہَانُ ذَلِکَ" وہ اس کے دوران میں آیا۔ اَلْاَقِیُونُ: انیم۔ اَلْاَقِیَا: دوا کا نام۔ اَلْاَقَۃُ: نصف و ظل کا وزن۔ اَلْاَقْحُوَانُ وَاَلْقُحُوَانُ: بابونہ۔ وادع اَقْحُوَانہ وَقُحُوَانہ: ج اَقاحِی وَاَقاح: اَقاحِی اَلْاَمْرُ:	نا پسند کرتا ہوں میں بے قرار ہوں) اَلْاَفَاکُ: ہمت اَف اَف کرنے والا۔ اِلْفَاوُفُ: تیز کا بچہ۔ کڑوا کھانا۔ تیز رفتار۔ ج یَا فِیْفِی: اِلْفَاوُفَۃُ: پروانہ۔ اَفْخَہ: تالو مارنا۔ اِلْفَاوُفُ: تالو۔ بچے کے سر کا وہ نرم حصہ جو حرکت کرتا رہتا ہے۔ ج یَا فِیْفِی۔ کہا جاتا ہے "مَضْرَبُ یَا فِوُخِ اللیل" رات کے اوّل حصہ میں چلا "وَزَکِبُ یَا فَاوُفُ فَلَآنٌ" وہ اس پر غالب اور قائم ہو گیا۔ اِلْہِذْ (س) اِلْہِذْ: جلدی کرنا۔ صفت اِلْہِذْ وَاِسْتَاْفَدَ: التَّوَحُّلُ: کوچ قریب ہونا۔ اَلْاَقْدَ: ہمت۔ ثابت۔ اَلْاَقْدَۃُ: دیر۔ تاخیر۔ اَقْوُ (ض) اِقْرَا وَاَقْوُزَا: خدمت کرنے میں چستی رکھنا۔ اَلْقَوْمُ: دھتکارنا۔ دفع کرنا۔ اَقِرُ (س) اَقْرَا: التَّبَعِیْتُ: لاغری کے بعد موٹا ہوتا۔ اَلْاَقْوَرُ: جماعت۔ بلا۔ تنجی۔ اَلْمِشْفَرُ: خادم۔ خدمت میں تیز لڑکا۔ اِلْفَاوُنُجُ وَاِلْفَاوُنُجَۃُ: فرنگی۔ رومیوں اور ترکوں کے علاوہ یورپیوں۔ اَقْرُ (ض) اَقْرَا: گورنا۔ اچھلنا۔ اَلْاَقْسَمِیْنِ: ایک قسم کی دوا کا نام۔ اَقْقُ (ض) اَقْقَا: اَفَاق میں جانا۔ اَلْجِلْدُ: دیباغت دینا۔ صفت مَضْرُوْبُ اَفِیْقُ: ج اِلْفَیْقَۃُ وَاَفِیْقُ۔ اَفِیْقُ (س) اَقْقَا: کرم اور علم میں امتیاز تک پہنچانا صفت اَفِیْقُ وَاَفِیْقِی۔ اَقْقُ الظَّرِیْقِ: راستہ کار مہمانی حصہ۔ اَلْاَقْقُ وَاَلْاَقْقُ: کنارہ کنارہ آسمان۔ ہواؤں کے چلنے کی جگہ۔ ج اَقْقُ۔ اَلْاَفِیْقَۃُ: دیباغت دی ہوئی کھال۔ سخت مہمیت۔ اَلْاَفَاقِ: کمانے کے لیے اَفَاق میں بھرنے والا۔ اَلْاَقْقَۃُ وَاَلْفَقَۃُ: پہلو۔ کونہ۔ اَلْاَفِیْقِی: چمڑے کا بڑا ڈول۔ اَفْکَ (ض) اَفْکَا وَاَفْکَا وَاَفْکَا (س) اَفْکَا وَاَفْکَ: جھوٹ بولنا۔ صفت اَفِیْقُ ج اَفْکَا وَاَفْکَا:
--	--

میری عداوت پر ایک ہیں۔ انگشت شہادت او
انگوٹھے کے درمیان کا ناصلا۔

الْأَلْبُ: بکری کے بچے کی کھال۔ زہر۔ بخاری
شدت۔ گرمی کی شدت۔ پیاس۔ پھوڑے کے
اجھے ہونے کی ابتداء۔

الْأَلْبَةُ: بھوک۔

الْأَلُوبُ: سرد ہو جا جو خاک کو اڑائے۔ وَجَلُّ
الْوَبُّ: ڈول کو جلدی نکالنے والا مرد۔

المثلب: تیز رفتار۔

أَلت (ض) أَلتْ وَأَلتْ إِبِلَاتًا. الرَّجُلُ حَقَّةٌ:

حق میں سے گھانا۔ أَلت الشئی: گھانا۔ (لازم و

متعدی أَلته يَمِيثًا: قسم دانا۔ الرَّجُلُ: کسی کو
اس کے ارادے سے باز رکھنا۔

أَلتته: تمہوڑا عطیہ۔ گزرے ہوئے واقعہ پر
جھوٹی قسم۔

الذئبي: اسم موصول۔ تشبیه الذئبان۔ ج

الذئبان: تصغير الذئب والذئبان والذئبون

مؤنث النبی۔ ج أَلتواہی واللآت واللابی

تشبیه اللتان واللآت۔ تصغير اللتيا واللآتيا۔

الزؤبہ (ض) أَلتوا: لازم ہوتا۔ چٹ جانا۔

الزؤا: ہے قرار ہوتا۔

أَلتتہ (ض) أَلتسا: خیانت کرنا۔ دھوکا دینا۔

أَلتس: دیوانہ ہونا۔ صفت مألوس۔

أَلتتہ مؤنثہ: غد کرنا۔ خیانت کرنا۔

الألس: دیوانگی۔ خیانت۔

الألاس: دیوانگی۔

المألوس: دیوانہ۔ غلغل دماغ والا۔

الأولع: دیوانگی۔

المألوع: دیوانہ۔

أَلفہ (س) أَلفنا: مانوس ہونا۔ نخبت کرنا۔ صفت

أَلف ج أَلف وأَلف ج أَلف ج أَلف ج أَلف ج

أَلف اور اسم الألف۔ أَلف المکان وأَلفہ

إِبِلَاتًا: کسی جگہ سے مانوس ہونا۔

أَلفہ (ض) أَلفنا: ایک ہزار دینار ہونا۔

أَلفہ أَلفنا ومؤلفہ: باہم اُلُس و نخبت کے

ساتھ رہنا و أَلفہ المکان إِبِلَاتًا: کسی جگہ سے

کسی کو مانوس بنانا۔ أَلفہم: ہزار بنانا۔ أَلفو:

ہزار ہونا۔

أَنَّ (ض) أَلو وأَلو أَلبلاً المَرِيضُ: کراہتا۔
الرَّجُلُ فِي دُعَاةِهِ: گز گزانا۔

أَلتت (س) أَلتلا: الأنتنان: دانتوں کا خراب
ہونا۔

أَلل الشئی: کسی چیز کو نوک دار بنانا۔

أَلل: عمدہ۔ پڑوسی۔ عمدہ اصل۔ عداوت دیکھنا۔

أَلل: پہلا۔

أَلل: نالہ وزاری۔

أَللة: چھوٹا تیزہ۔ جنگ کا سارا سامان۔

أَللة: نالہ وزاری کرنے کی ہیئت۔ قرابت ج

إِلل۔

أَللة: موٹی جس کی چراگاہ دور ہو۔ ج أَلل۔

أَليلة: موٹی جس کی چراگاہ دور ہو۔

فرض مثل۔ تیز رفتار گھوڑا۔

أَل: ایک لفظ ہے جو کلام کے شروع میں مخاطب

کو متوجہ کرنے کے لیے اور ایک ہی چیزوں پر زور

دینے کے لیے مستعمل ہے جیسے "أَلا إِبِلَاتًا هُمْ

الشَّفَهَاءُ" خردوار رہو یقیناً یہی بیوقوف ہیں۔

حرف تشبیہ جیسے "أَلا يَاصِح فَم" خردوار اے

ساتھی کھڑا ہو جا۔ حرف عرض جیسے "أَلتقول بِنَا"

یعنی براہ کرم ہمارے پاس آئیے۔ حرف تخصیص

جیسے "أَلتؤب وتؤد عن غَيْبِك" ہمیں توبہ

کر لینی چاہئے اور اپنی شرارت سے باز آجانا

چاہئے۔

أَل: حرف تخصیص جیسے "أَلتُكْرِم أَوِيْلِكَ" تو

م کو اپنے والدین کی عزت کرنی چاہئے۔

أَل: حرف اشتاء: جیسے "جَاءَ الْقَوْمُ إِبِلَاتًا"

زید کے علاوہ سب لوگ آئے اور کبھی صفت کے

لئے غیر کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے "لِي وَجَلُّ

إِلد جَالِك" میرے آدمی تمہارے آدمیوں کے

علاوہ ہیں۔ اور کبھی نفی کے بعد صر کے لیے آتا ہے

جیسے "مَضْرُوبُ إِبِلَاتًا" یعنی زید ہی نے مارا۔

أَلب (ن ض) أَلبنا وأَلب: جمع ہونا۔ أَلبَت

السَّاء: تیمم برنا۔

أَلب (ن ض) أَلبنا وأَلب: جمع کرنا۔ أَلب

بَيْنَهُمْ: فساد اٹھیزی کرنا۔

أَلب: کسی شخص کی عداوت پر اکتھا ہونے والی

قوم کہا جاتا ہے "هَمْ عَلَي أَلب وَأَجِدُ" وہ سب

أَلحَلَّة: خارش۔ کھانے کی ہیئت۔ نعبت۔
أَلحَلَّة: خارش۔

أَلحَلَّة: دو بخاری جو عضو کو مڑا دے۔

أَلحَال: گھانا۔ اس سے ہے "مَضْرُوبٌ إِبِلَاتًا"

میں نے کچھ نہیں چکھا۔

أَلحَال: خارش۔

أَلحَال وَأَلحِيل وَأَلحُول وَأَلحَلَّة: ہمت

کھانے والا۔

أَلحُولَة: بکری جو کھانے کے لیے موٹی کی

جائے۔

أَلحُولَة وَأَلحِيل: بکری جو بھیرے وغیرہ

کے شکار کے لیے کھڑی کی جائے۔

المَاكِل: خوراک۔ ج مَاكِلٌ.

المَاكِلَة: خوراک۔ جو چیز کھائی جائے۔

المفكلة: بھونٹا پیالہ۔

أَلْمفكَل: بچھ۔ ج مَاكِل.

المَاكِل: خوراک۔ جو چیز کھائی جائے۔ ج

مَاكِل.

إِسْتَاكَم: أَلْمَوْضِعُ: ٹیلہ بن جانا۔

أَلْمَكَمَة: ٹیلہ۔ جھوٹی پیازی۔ ج أَلْمَكَم

وَأَلْمَكَمَاتُ ج أَلْمَكَم وَأَلْمَكَم.

المَاكَم والمَاكَمَة: سرن کا گوشت۔

المَاكَمُوم: غمگین۔

أَلْمَكَمَة: آشپانہ۔ گھونٹا۔

إِلْمَاكَمَة: منگ وغیرہ کا سر بند۔

أَلْمِي (ض) أَلْمِي: آکھیا۔ دستاویز لینا۔

أَل: حرف تعریف ہے کبھی عمدی ہوتا ہے

جیسے "إِسْتَرْفَيْتَ عِبْدًا نَمِ بَعَثَ الْعَبْدُ" میں نے

غلام کو خرید اور پھر اسی غلام کو بیچ دیا۔ اور کبھی

جنسی جیسے "خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا" انسان کو

کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور کبھی اسم موصول ہوتا

ہے۔ جب کہ اسم فاعل واسم مفعول پر داخل ہو

جیسے "جَاءَ نَبِي الضَّارِبِ وَالْمَضْرُوبُ" اور

صفت مشبہہ پر جو داخل ہوتا ہے اس میں صحیح

مذرب یہ ہے کہ وہ حرف تعریف ہے۔

أَل (ن) أَل: نیزے سے مارنا۔ دھکانا۔

الرَّجُلُ: دوڑنا۔ أَللُّون: رنگ

صاف ہونا۔ چمکانا۔

أَلْفُ الْكِتَابِ : مسائل کو جمع کرنا _____
 الشَّيْءُ : ایک کو دوسرے سے ملانا تہتہم : محبت
 ڈالنا۔ محبت واقع کرنا _____ أَلْفٌ : پورے ہزار
 کرنا۔
 تَأَلَّفَ : اکٹھا ہونا۔ تَأَلَّفَ الشَّيْءُ : اجزاء کا
 مرتب طور سے اکٹھا ہونا۔
 تَأَلَّفَهُ : اوپر کی دل سے محبت کرنا۔
 اِنْتَلَفُوا وَ تَأَلَّفُوا : اکٹھا ہونا۔
 اِسْتَأَلَفَ : دوست و ساتھی ڈھونڈنا۔
 اِلْفٌ وَاَلْفَةٌ : دوستی۔
 اَلْأَلْفُ : ہزار۔ ج اَلْوَفُ وَاَلْفٌ :
 اَلْأَلْفُ : حروف تہجی کا پہلا حرف۔ ہر چیز میں کا
 ایک مرد جس کی پیروی نہ ہو۔ بازو کے اندرونی
 حصہ کی ایک رگ کا نام۔
 اَوَّالِفٌ : الظلیر : گھروں میں رہنے والے
 پرندے۔
 اَلْأَلْفِيَّةُ : الف کی طرف نسبت۔ اور اصطلاحاً
 اس قصیدہ کو کہتے ہیں جس میں کسی فن کے قواعد
 بیان کئے گئے ہوں۔ جس کے اشعار کی تعداد ہزار
 ہو اور ان میں مشہور تر ”الفیہ ابن مالک“ ہے۔
 اِلْفِيَّالِفٌ : حمد۔ پروانہ رابہا راری۔
 التالیف : مصدر۔ کتاب۔
 اَلْأَلْفُ : بہت محبت کرنے والا۔ ج اَلْفٌ
 المألف : مرغوب مانوس چیز۔ ج ماألف۔
 المؤلف : مصنف۔ ہزار کا مالک۔
 اَلْفِي (ض) اَلْفًا وَ تَأَلَّفَ وَ اِنْتَلَفَ : التبرق : بجلی
 چمکتا۔ کو نڈنا۔
 اَلْفِي : التبرق : جھوم بولنا۔
 اَلْفِي اَلْفًا : دیوانہ ہونا۔ صفت مطلق وَ
 مَسْأَلُوْقٌ۔
 اَلْأَلْفِي : بھیرا۔ ج اَلْفِي : بد خلق۔ اِلْفَةٌ : بندریا۔
 اَلْأَلْفِي : دیوانگی۔ جنون۔
 اَلْأَلْفِي : بھیرا۔ ج اَلْفِي : بجلی۔
 اَلْأَلْفِي : جھومنا۔
 المألوق : دیوانہ۔
 المطلق : بے وقوف۔
 اَلْكُ وَاَلْكَا وَاَلْكُوْكَةُ وَاَلْكُوَا مَالِكًا۔
 وَاَلْكُ اِلْكَا : پیغام پہنچانا۔ اَلْفَرَسُ اَللِّحَامُ :

گھوڑے کا لگام کوچانا۔
 اِسْتَأَلَفَ : اَلْوَكْنَةُ : کسی کا پیغام لے جانا۔
 المَلَكُ وَاَلْمَلَاكُ : فرشتہ۔ ج مَلَائِكُ
 وَمَلَائِكَةٌ۔
 اَلْأَلْوَكُ وَاَلْوَكُوْكَةُ وَاَلْمَالِكُ وَاَلْمَالِكَةُ :
 پیغام۔ ج اَلْأَلْوَكُ وَمَالِكُ۔
 اَلْمَأَلُوْكُ : دیوانہ۔
 اَلِم (س) اَلْعَادُو كَمِي ہونا۔ صفت اَلِم۔
 اَلْمُ تَأَلَّفَ اَلْمَا وَاَلْمَةُ اِلْمَا۔ دھرتی۔
 تَأَلَّمَ : دیکھی ہونا۔
 اَلْأَلْمُ : دکھ۔ ج اَلَام۔
 اَلْأَلْمُ : وردناک۔
 اِلْمَاسُ : ہیرا۔
 اَلْه (ف) اَلْوَهَّةُ وَاَلْهَةُ وَاَلْوَهِيَّةُ : پرستش
 کرنا۔ بندگی کرنا۔
 اَلْه (س) اَلْهًا : متحیر ہونا۔ کہا جاتا ہے ”اَلْهَيْتُ
 عَلَيَّ“ میں نے اس پرست زیادہ جزع فرغ کیا۔
 اَلْهَةُ : غلام بنانا۔ خدا کا مرتبہ دینا۔ پرستش کرنا۔
 تَأَلَّمَ : معبود بن جانا۔ باخدا ہونا۔
 اِسْتَأَلَّمَ : معبود سے مشابہ ہونا۔
 اَلْهَلَّةُ : معبود۔ ج اَلْهَلَّةُ۔
 اَللَّهُ : ذات واجب الوجود کا نام۔ اَللَّهُمَّ : اے
 اللہ۔
 اَلْأَلْوَهَةُ وَاَلْأَلْهَةُ وَاَلْوَهِيَّةُ وَاَلْوَهِيَّةُ
 وَاَلْأَلْهِيَّةُ : معبودت۔
 اَلْأَلْهَةُ : بڑا سانپ۔ بیاچاند۔
 اَلْأَلْهِيَّةُ وَاَلْأَلْهَةُ : آفتاب۔
 عَلَّمَ اِلْأَلْهِيَّاتِ : وہ علم جس میں اللہ تعالیٰ کی
 ذات و صفات سے بحث کی جائے۔
 اَلْأ (ن) اَلْوَا وَاَلْوَا وَاَلْوَا وَاَلْوَا وَاَلْوَا
 اِسْتَأَلَّمَ : ہی الامر : کوتاہی کرنا۔ سستی دکھانا۔ کہا
 جاتا ہے ”لَمْ يَبَالِ جَهْدًا“ اس نے اپنی کوشش میں
 ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔
 اَلْمَا وَاَلْمَا وَاَلْمَا وَاَلْمَا : تم کھانا۔
 اَلْأَلْمُ : عطیہ۔ بکری کی بیگنی۔
 اَلْأَلْمُ وَاَلْأَلْمَةُ وَاَلْأَلْمَةُ وَاَلْأَلْمَةُ : اگر کی کلوی
 ج اَلْأَلْمَةُ۔
 اَلْأَلْمَةُ وَاَلْأَلْمَةُ وَاَلْأَلْمَةُ : جسم اَلْمَةُ کی جمع اَلْمَاتُ۔

اَلْأَلْمِي : بہت تمسک کھانے والا۔
 اَلْمِيَّةُ : وہ کپڑے کا ٹکڑا جس کو نوچ کرنے
 والی عورت اپنے ہاتھ میں لے کر ہلاتی جاتی ہے۔
 ج مَالٌ۔
 اَلْمِي (س) اَلْمِي : الکبش : میڑھے کا بڑی چکی
 والا ہونا۔ صفت اَلْمِي وَاَلْمِي : موٹے اَلْمِي وَاَلْمِي
 اَلْمِي : ج اَلْمِي۔
 اَلْمِي : ذبیح کی چکی۔ مثنوی اَلْمِي بغیر تاء کے۔
 ج اَلْمِي وَاَلْمِي۔
 اَلْمِي وَاَلْمِي وَاَلْمِي : نعمت ج اَلْمِي۔
 اَلْمِي وَاَلْمِي : ایک قسم کا لورٹ جو ہمیشہ سبز
 رہتا ہے اور اس کا پھل کڑوا ہوتا ہے۔ واحد
 اَلْمِي۔
 اَلْمِي : فوج کا دستہ ج اَلْمِيات۔ ترکی کلمہ
 ہے۔ اس کے لیے عربی ”فیلق“ ہے۔
 اَلْمِي : حرف جر ہے۔ مثنوی ذیل میں مستعمل
 ہے اثناء زمانہ کے لیے جیسے ”ذَرَسَ اِلْمِي
 اَلْمَسَاءُ“ اس نے شام تک پڑھا۔ اثناء مکان
 کے لیے جیسے ”سَارَ اِلْمِي اِلْمِي“ وہ گھر تک چلا۔
 بمعنی عند جیسے ”كَلَامُهُ اَلْمِي اِلْمِي وَاَلْمِي
 اَلْمِي“ اس کی گفتگو میرے نزدیک شراب
 سے زیادہ مرغوب ہے۔ بمعنی لام جیسے ”اَلْمِي
 اَلْمِي“ معاملہ تیرے اختیار میں ہے۔ بمعنی مع
 جیسے ”صَمَّ هَذَا اِلْمِي اَلْمِي“ اس کو اس کے ساتھ
 ملا۔
 اَلْمِي : اسم فعل بمعنی دور رہو۔ بٹو جیسے
 ”اَلْمِي عَيْنِي“ یعنی تو مجھ سے دور ہو جا۔ اور بمعنی
 خد جیسے ”اَلْمِي الْكِتَابُ“ یعنی کتاب کو لے لو۔
 اَلْمِي : اولیٰ کی جگہ استعمال ہوتا ہے جیسے
 اَلْمِي اَلْمِي : قدماء عرب۔ اولیٰ اسم اشارہ
 جمع قریب کے لیے ہے۔
 اَلْمِي : حرف عطف امزہ استتمام کے بعد تسوید
 اور برابری کے مفہوم کے لیے آتا ہے۔ جیسے
 ”اَلْمِي اَلْمِي اَلْمِي اَلْمِي“ اور کبھی نل
 کے معنی میں آتا ہے۔ جیسے هَلْ يَسْتَوِي
 اَلْمِي وَاَلْمِي اَلْمِي اَلْمِي اَلْمِي اَلْمِي
 اَلْمِي وَاَلْمِي۔
 اَلْمِي (ن) اَلْمِي وَاَلْمِي وَاَلْمِي : قصد کرنا

وَأَمَّهُ جِنْدًا بِرَارًا - دماغ پر صدمہ پہنچانا۔
 _____ إِمَامَةٌ وَأَمَّا وَأَمَامًا - الْقَوْمُ وَالْقَوْمُ :
 امام بننا۔

أَمَّتْ أُمُومَةً - ماں ہونا۔

تَأَمَّمَتِ الْمَرْأَةُ : ماں بنانا۔

إِقْتَمَّ بِهِ : اقتدار کرنا _____ وَإِسْتَمَّ هـ : امام
 بنانا۔ إِسْتَمَّ الْمَرْأَةَ : ماں بنانا۔

الْأُمُّ : ماں - کسی چیز کی اصل ج اَمَّهَات
 وَأَمَّات اور بقول بعض اَمَّهَاتِ انساں کے لیے
 اور اَمَّاتِ بہائم کے لیے۔ أُمُّ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعِينَ :
 کن بھجورا۔ أُمُّ أَوْزَانٍ : سختی۔ جُنگَلِيٌّ جُوبًا : اُمُّ
 الْبَيْضِ : شتر مرغ۔ أُمُّ التَّنَائِفِ : دُور کا جُنگل۔ أُمُّ
 تَوَلَّتْ : گدھی۔ أُمُّ حَبَابٍ : ہریسہ۔ أُمُّ جُنْدٍ :

ظلم و بے انصافی۔ أُمُّ الْجَوَافِ : ذول۔ زُحَالٌ : أُمُّ
 جَعْفَارٍ : بچو۔ أُمُّ جَعْرَانٍ : گدھ۔ أُمُّ الْجَيْشِ :

جُنْدًا : أُمُّ حَبَابٍ : ذُنیَا۔ أُمُّ حَبِيبٍ : گرجت۔ أُمُّ
 حَزْبٍ : جُنْدًا۔ أُمُّ حَفْصَةَ : مرغی۔ أُمُّ حَلِيسٍ :

گدھی۔ أُمُّ الْخَنَائِثِ : شراب۔ أُمُّ خَنَافٍ :
 سختی۔ أُمُّ خَنْوَرٍ : بچو۔ أُمُّ دَرَنْ : وینا۔ أُمُّ دَرِينِ :

قُطْرُ زَهْرٍ : سر زین۔ أُمُّ وُرْدَةٍ : وینا۔ أُمُّ دَفْرٍ : أُمُّ
 دَفَارٍ : وینا۔ أُمُّ الدِّمَاغِ : دماغ کی جھلی۔ أُمُّ
 الرِّاسِ : دماغ یا دماغ کی جھلی۔ أُمُّ رَاشِدٍ : جوبہ۔ أُمُّ

الرُّبَيْعِ : سختی و بلا۔ أُمُّ الرُّومِ : جھڑی۔ أُمُّ
 سَفْحَةٍ : بکرا۔ أُمُّ سَوْدَةٍ : ڈیر۔ أُمُّ صَبَّارٍ : أُمُّ
 صَبُورٍ : بلا و سخت لڑائی۔ أُمُّ الصَّبِيَّانِ : ایک قسم

کی بیماری جو بچوں کو لاحق ہوتی ہے اور جس سے
 بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ أُمُّ طَبَقٍ : سختی و بلا۔

سَابِ : أُمُّ الظَّرْبِ : شارع عام۔ أُمُّ الطَّعَامِ :
 معدہ۔ گیسوں۔ أُمُّ عَاوِیْرٍ : بچو۔ أُمُّ عَرِيطٍ : بچھو۔ أُمُّ
 عَزْمٍ : دیر۔ أُمُّ فَرُوةٍ : بھیر۔ أُمُّ الفَرُجِ : ایک قسم کا

کھانا جو گوشت چاول شکر سے تیار کرتے ہیں اور
 بقول بعض ایک قسم کی روٹی جس میں پرند اور

بکری کا گوشت بھر کر تور میں پکاتے ہیں۔ أُمُّ
 الْقُرَى : نکتہ معطر۔ أُمُّ الْقُرْآنِ : سورۃ فاتحہ۔ أُمُّ
 قَسْمٍ : سختی۔ جُنگ۔ موت۔ بچو۔ سَکْرَى۔ أُمُّ

الْقَوْمِ : سردار قوم۔ أُمُّ الْكِتَابِ : لورج محفوظ۔
 سورۃ فاتحہ یا کل قرآن پاک۔ أُمُّ كَتَلِبٍ : ایک

پھاڑی درخت کا نام۔ أُمُّ كَلْبَةٍ : بخار۔ أُمُّ مَازِنِ :

جِبْرَتِي - أُمُّ الْمُتَنَوِي : بیوی۔ أُمُّ مِلْدَمٍ : بخار۔ أُمُّ
 النُّجُومِ : ککشاں۔ أُمُّ الْوَلِيدِ : مرغی۔ أُمُّ هُبَيْرٍ :
 مینڈکی۔ لَا أُمُّ لَكَ : کلمہ زم ہے اور کبھی مدح

و استحسان کے موقع پر بھی بولتے ہیں۔
 الْأَمَامُ : آگے۔ وَأَمَامَكَ : کلمہ تحذیر ہے۔

بمستی بچو۔
 الْأَمَامُ : (فرد و مؤنث دونوں کے لیے) پیش
 امام۔ جس کی اقتداء کی جائے۔ پیشوا۔ ڈوری جس

سے مہمار عمارت کی سیدھ قائم کرتے ہیں۔
 نمونہ۔ واضح راستہ۔ سین جتنا ہر روز لڑکے
 پڑھیں۔ قرآن۔ خلیفہ۔ امیر لشکر۔ صلح اور تنظیم۔

الإمامة۔ خلافت و پیشوائی۔
 الأمة۔ جماعت۔ لوگوں کا گروہ۔ طریقہ۔ وقت۔ قد

وقامت۔
 الأمی : ان پڑھ۔
 الأمیة و الأمیة : ماں ہونا۔ مادریت۔

الأمیة و الأمیة : جس کی گدی پر بار گیا ہو۔
 الأمیة : لفظ ام کی تصغیر۔ ہمشور۔ ج امانیم۔
 الأمیة : پتھر جس سے سر کھلا جائے۔

أما۔ حرف تنبیہ ہے اس کے بعد اکثر قسم آتی
 ہے جیسے أَمَا وَاللَّهِ : حرف عرض جیسے "أَمَا تَتَنَزَّلُ
 بنا۔"

أَمَا : حرف شرط و تاکید جیسے "أَمَا الَّذِيْنَ آمَنُوا
 فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ" جو لوگ ایمان لائے وہ اس

کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ حرف تفصیل
 جیسے "أَمَا زَيْدٌ فَزَيْحٌ" اس کے جواب میں فاء کا آنا

ضروری ہے۔
 إِمَامًا : حرف تفصیل ہے جیسے إِيَّاهُ هَذِيْنَةُ السَّبِيْلِ
 إِمَامًا شَاكِرًا وَإِمَامًا كَفُورًا" ہم نے انسان کو راست

دکھلایا اس کے بعد وہ شکر گزار بندہ بنے یا ناشکر
 بن کر جینے۔ اور اس کے مواقع استعمال میں سے

موضع شک و ابہام و اباحت و تحذیر ہے جیسے "جَاءَ
 إِمَامًا زَيْدٌ وَإِمَامًا عَمْرٌ" یعنی زاید آیا عمو۔ جبکہ یہ

معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کون آیا۔ اور
 جیسے تَعَلَّمَ إِمَامًا الْفِقْهَ وَإِمَامًا اللَّغَةَ یعنی یافتہ یا لغت

سیکھو۔
 أَمَّتَهُ (ض) أَمَّتَاوَأَمَّتَهُ : اندازہ کرنا۔ قصد کرنا۔
 الْأَمْتُ : کمزوری۔ بلند جگہ۔ شک۔ خالی ہونا۔

تشیب و فراز۔ ج اَمَّات و أَمُوت۔
 أَمِج (ض) أَمَجًا : گرم ہونا۔ پیاسا ہونا۔ (ض)
 أَمَجًا : تیز چلنا۔

صَنِيفٌ أَمِجٌ : سخت گرمی۔
 أَمِج (ض) أَمَجَانًا : الجُحُوحُ : دور کرنا۔
 أَمِد (ض) أَمَدًا : عَلِيَّةٌ : ٹھینٹاک ہونا۔

أَمَدٌ : مدت بیان کرنا _____ السِّقَاءُ : ایک
 قطرہ نہ چھوڑنا۔

الْأَمَدُ : غایت۔ آخری حد۔ غَمَّةٌ : ج اَمَاد۔ کما
 جاتا ہے "ظَالٍ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ" ان کے اوپر
 مدت طویل ہوگئی۔

الْأَمْدُ وَالْأَمْدَةُ : بھری ہوئی کشتی۔
 أَمْرَةٌ (ن) أَمْرًا وَاَمْرَةً : اِمَارًا۔ حکم دینا۔

صفتِ اَمْرٍ اور صفتِ مفعولِ اَمْرٍ۔ کما جاتا ہے
 "أَمْرَةُ الشَّيْءِ وَالشَّيْءُ وَأَمْرَةٌ أَنْ يَفْعَلَ وَيَأْنِ
 يَفْعَلُ" اس نے اس کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا۔

أَمْرٌ (س) أَمْرًاوَأَمْرًا (ك) أَمْرًاوَأَمْرًا : امیر
 و حاکم ہونا _____ عَلِيَّةٌ : دوال ہونا۔

أَمْرٌ (س) أَمْرًا وَاَمْرَةً الشَّيْءِ : بہت ہونا۔
 الرَّجُلُ : بہت موشی کا مالک ہونا۔ صفتِ اَمْرٍ۔
 أَمْرَةٌ : امیر و حاکم بنانا۔

أَمْرَةٌ مَوْأَمْرَةٌ : فی اَمْرٍ : مشورہ کرنا۔
 أَمْرًاوَأَمْرًا : حکم دینا _____ هَالَلَهُ : بال یا نسل
 بڑھانا۔

قَامَرًاوَأَمْرًاوَأَمْرًا : مشورہ کرنا۔ قَامَرٌ
 عَلِيَّةٌ : تسلط ہونا۔ زبردستی کرنا۔ اَمْرًاوَأَمْرًاوَأَمْرًا

: فرماں برداری کرنا۔
 اَمْرًاوَأَمْرًاوَأَمْرًا : اہم مشورہ کرنا۔ اَمْرًاوَأَمْرًا
 بِفُلَانٍ : کسی کے کُل کی سازش کرنا۔

الأمرُ : ج اَمْرٍ : حکم۔ فرماں۔ ج۔ اَمْرٍ : کام۔
 واقعہ۔ چیز جیسے "الامرُ ما كان كذا" کسی چیز کی
 وجہ سے ایسا ہوا۔ "وَأُولُو الْأَمْرِ" اسلامی حکومت

کے حکام و علماء۔
 الأُمْرَةُ : امر کا اسم مرہ۔

الأُمْرَةُ : امر کا اسم نوع۔ حکومت۔ ولایت۔
 الأُمْرَةُ : بیابان میں پتھر کا چھوٹا نشان۔ چھوٹا

ٹیلہ۔ ج اَمْرٌ۔

امانت رکھی جائے۔ حج اماناء۔
 البَيْلَةُ الامِينِ۔ مکہ معظمہ۔
 الْأَمَانُ: امانت دار۔ معتمد علیہ۔ کاشتکار۔ وہ شخص جو لکھنا جانتا ہو۔
 آمین و آمین: اسم فعل بمعنی قبول کر۔
 الْمُؤْمِنُ: مان لینے والا۔ تصدیق کرنے والا نیز اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ میں سے ہے۔
 الْمُتَأَمِّنُ: معتمد علیہ۔
 الْمُتَأَمِّنُ: امن دہنے والی جگہ۔
 أَمِيَةٌ (س) اَمِيَةٌ وَأَمِيَةٌ الشَّيْءِ: بھولنا۔
 أَمِيَةٌ (ن) أَمِيَةٌ: إِلَيْهِ فِي الْأَمْرِ: عمد دیکھنا کرتا۔
 قَامَةً الْمَرْأَةُ بِالْبَنَاتِ: اَلْأَمِيَّةُ: بکری کی چھک یا پھنسیاں جو بکری کو ہوتی ہیں۔
 أَمَانًا (و) أَمِيًا (س) وَأَمِيًا (س) وَأَمِيًا (ض) أَمِيَّةٌ: اَمِيَّةٌ الْجَارِيَةُ: باندی ہونا۔
 أَمِيَّةٌ (ن) أَمِيَّةٌ: السِّتْرُ: مياؤں مياؤں کرتا۔
 أَمِيَّةٌ الْجَارِيَةُ: باندی ہونا۔
 قَامِيًا وَاسْتَقَامِيًا: الْجَارِيَةُ: باندی ہونا۔
 الْأَمِيَّةُ: ارندی۔ انڈی۔ حج اماناء و اموات و اَمِيَّةٌ: نسبت کے لیے اَمِيَّةٌ: تفسیر اَمِيَّةٌ۔
 اَمِيَّةٌ: قریش کا ایک قبیلہ۔ نسبت کے لیے اَمِيَّةٌ اور بسا اوقات اَمِيَّةٌ بھی کہتے ہیں۔
 اَمِيَّةٌ (۱) حرف مصدری ہے فعل مضارع کو نصب دیتا ہے جیسے "اَن تَقْضُوا فَمَا خَيْرٌ لَّكُمْ" یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے۔
 اَمِيَّةٌ (۲) محفد ہے اَن مثلاً سے اور افعال تہین یا ان کے مشابہ کے بعد آتا ہے جیسے "عَلِمَ اَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضِيٌّ" اللہ نے جان لیا کہ تم میں سے پیار ہوں گے۔ "حَسِبُوا اَن لَّا تَكُونُ فِتْنَةً" لوگوں نے گمان کر لیا کہ آزمائش نہیں ہوگی۔
 اَمِيَّةٌ (۳) مفرہ بمعنی آتی جیسے "فَاَوْحَيْنَا إِلَيْكَ الْبَيَانَ" اَصْنَعِ الْفُلْكَ" پس وحی بھیجی ہم نے طرف اس کی یہ کہ بنا کشتی کو۔
 اَمِيَّةٌ (۴) زائدہ تاکید کے لیے جیسے "لَمَّا اَن جَاءَ"

إِمْتِعَ كِي اَصْلُ وَائِيٌّ مَعْلَكُ ہے۔ اِمْتِعَ كِي تَا تَا تاسیہ کی نہیں مبالغہ کے لئے ہے۔
 تَأَمَّنَ وَاسْتَأْمَنَ: ہر ایک کی رائے کا تابع ہونا۔
 اَمَقَى الْعَيْنِ: ناک کی طرف کا آنکھ کا گوشہ حج امانق۔
 اَعْلَى (ن) اَعْلَى وَأَعْلَى تَأْمِينًا: اَمِيَّةٌ كَرًا۔
 تَأَمَّلَ: الْأَمْرُ وَفِيهِ: غور کرنا۔ دیر تک سوچنا۔
 الْأَمَلُ وَالْأَهْلُ: اَمِيَّةٌ حج امانق۔
 الْأَهْلَةُ: اَمِيَّةٌ۔
 الْأَهْلَةُ: وہ لوگ جن کی مدد کی اَمِيَّةٌ رکھی جائے واحد اَجَل۔
 الْمُتَأَمِّلُ: اَمِيَّةٌ: جس کی اَمِيَّةٌ رکھی جائے۔
 الْمُؤَمَّلُ: گھوڑوں میں آٹھویں نمبر کا گھوڑا۔
 أَمِنَ (ك) أَمَانَةً: اَمِنَ ہونا۔ امانت دار ہونا۔ معتمد علیہ ہونا۔ صفت اَمِنَ حج اماناء۔
 أَمِنَ (ض) أَمَانًا: اِحتماد کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ مائل ہونا۔ صفت اَمِنَ۔
 أَمِنَ (س) أَمَانًا وَأَمَانًا وَأَمَانَةً: مطمئن ہونا۔ صفت اَمِنَ و اَمِنَ و اَمِنَ۔
 الْأَسَدُ وَنَهْ: محفوظ رہنا۔
 أَمِنَ: اَمِنَ كَمَا: ة: امن و اطمینان میں کرتا۔
 أَمِنَ وَانْتَمَنَ: فَلَا نَأْخِذُ بِكَذَا: کسی کو کسی چیز کا اَمِنَ ہونا۔ اَمِنَ: اَمِنَ كَمَا۔
 أَمِنَهُ اِمَانًا: اس دن رات: یہ تصدیق کرنا۔
 اِحتماد و بھروسہ کرنا: لهُ: تاجدار و مطلع ہونا۔
 اِمْتَأَمَنَهُ: امن طلب کرنا۔ اَمِنَ كَمَا۔
 عَلِيًّا كَمَا: اَمِنَ ہونا۔
 الْأَمَانَةُ: اطمینان۔ دل کا سکون۔ امانت۔ ہر ایک پر بھروسہ کرنے والا۔
 الْأَمَانَةُ: معتمد علیہ۔
 الْأَمْنِيَّةُ: آرزو حج امانق و اَمَانًا۔
 الْأَمَانَةُ: امانت۔ ودیعت۔ حج امانات فریضہ خداوندی۔
 الْإِيمَانُ: مان لینا۔ تصدیق کرنا۔
 الْأَمُونُ: سواری جس کے ٹھوکر کھانے کا خوف نہ ہو۔ حج اَمِنَ۔
 الْأَمِينُ: امانت دار۔ وہ شخص جس کے پاس

الْأَمَانَةُ: علامت۔ حج امانات۔
 الْإِمْرُ: عجب۔ خلاف شرع و خلاف عقل سلیم بات۔
 الْإِمْرُ وَالْإِمْرَةُ: کمزور رائے والا۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُ إِمْرٌ وَلَا إِمْرَةٌ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔
 الْأَمَارُ: بہت حکم دینے والا۔ برائی پر آکسانے والا۔ مؤنث: اَمَارَةٌ۔
 التَّامُّورُ: برتن۔ دل۔ بادشاہ کا وزیر۔
 التَّامُّورَةُ: راہب کا صومعہ۔ شیر کا بھجار۔
 التَّامُّورِيُّ وَالتَّامُّورِيُّ وَالتَّامُّورِيُّ: انسان۔
 الْأَمِيرُ: حکم دینے والا۔ والی قوم۔ شریف آدمی۔ اس کلمہ کا اطلاق اس شخص پر ہوتا ہے جو شریف الاصل ہو اگرچہ صاحب آمر نہ ہو۔ پڑوسی۔ وہ شخص جس سے مشورہ کیا جائے۔
 أَمِيرُ الْبَحْرِ: بحری کمانڈر۔
 أَمِيرُ الْأَمِي: فوج کے ایک دستہ کا افسر یا بحری بیڑے کا کپتان۔ حج اماناء۔
 الْأَمَالُ الْأَمِيرِيُّ: شاہی ٹیکس۔
 الْأَمُونَةُ: کافر لیس۔
 الْأَمُونَةُ: فَا: خورد رائے۔ ایام مجوز کا آخری دن۔
 الْمُسْتَمَرُّ: مشورہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَا تَبْتَغِيَنَّ مِنَ الْمُسْتَمَرِّ قُرْبًا مِنَ الْمُسْتَمَرِّ" وہ مشورہ سے بعید اور چٹلی سے قریب ہے۔
 أَمَسَ: مبنی علی الکتس۔ کل گذشتہ۔
 الْأَمَسُ: (اعرابی حالت میں) گذشتہ ایام میں سے کوئی دن۔ حج اَمَسَ و اَمَسَ و اَمَسَ۔
 نسبت کے لئے اَمَسِيٌّ خلاف قیاس۔
 الْأَمِضُ وَالْأَمِيضُ: وہ گوشت جس کو باریک کر کے کچا کھاتے ہیں۔ اور کبھی ذرا آگ دکھلا لیتے ہیں۔
 أَمِضَ (س) اَمِضًا: الرَّجُلُ: کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا اور کسی کی ناراضی کو خاطر میں نہ لانا۔
 مابقی الضمیر کے خلاف بے باکانہ ہونا۔
 الْإِمْتِعُ وَالْإِمْتِعَةُ: ہر ایک کی رائے کی پیروی کرنے والا۔ لوگوں کے ساتھ بغیر بلائے ہوئے دعوت میں شریک ہونے والا۔ حج اَمِضُونَ۔ اور

<p>جانا۔ أَنْسَهُ يُؤَانِسُهُ مُؤَانِسَةً: لطف و مهربانی کرتا۔ محبت کرتا۔ تسلی دیتا۔ أَنْسَهُ يُؤَانِسُهُ إِيقَانًا۔ مانوس کرتا۔ آنس الصوت: سنا۔ الشئ: دیکھنا۔ اور اسی سے ہے ”آنس من جانيب الظفر نازًا“ موسیٰ ﷺ نے طور کی جانب اُگ کو دیکھا۔ تَأَنَسَ: انسان ہونا۔ مانوس ہونا۔ السبع: ڈور سے شکاری آہٹ معلوم کر لینا۔ یہ: مانوس ہونا۔ إِسْتَأْنَسَ: وحشت کا ڈور ہونا۔ یہ وَالْيَتِيمَ: مانوس ہونا۔ لَهُ: کان لگانا۔ دیکھنا۔ الْأَنْسُ: وہ شخص جس سے تم انس حاصل کرو۔ بڑی جماعت ج اناس۔ الْإِنْسَانُ: آدمی۔ واحد (الْإِنْسِيُّ وَالْإِنْسِي) ج أناس و أناسي۔ اِنْسِك و اِنْسِي اِنْسِك و اِنْسِي اِنْسِيك: تمہارا دوست اور حلیف۔ الْأَنْسُ وَالْأَنْسِيَّةُ: اُنیت۔ الْأَنْسِيَّةُ: پاکیزہ طبیعت والی لڑکی۔ ج أَوَانِسُ الْإِنْسَانِ: آدمی۔ جنس بشری کے افراد پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور مولدین کے اشعار میں انسانہ بھی آیا ہے غیر مردودہ زمین۔ انسان العين: آنکھ کی پتلی ج اناسي و اناسية و اناس۔ پھاڑ کاسایہ۔ الْأَنْسِيَّةُ: انسان کی خصوصیات۔ اکثر اس کا استعمال اخلاق محمودہ کے لیے ہوتا ہے۔ الْأَنْوَسُ: بنت اُنس کرنے والا۔ مِنْ الْكِلَابِ: بڑا کٹھن والا۔ کتاب ج اُنس۔ الْأَنْسِيَّةُ: اُنس کرنے والا۔ وہ شخص جس سے اُنس حاصل ہو کما جاتا ہے۔ ”منا بالذَّارِ مِنْ أَنْسِيَّةٍ“ یعنی گھر میں کوئی نہیں۔ الْأَنْسِيَّةُ: ایک آبی پرندہ جس کی آواز گائے کی آواز سے مشابہ ہے۔ مرغ۔ الْأَنْسِيَّةُ وَالْمَأْنُوسَةُ: آگ۔ الْمُؤْنِسُ: اُنس دینے والا۔ شیخ شنبہ کے دن کا نام۔ أَبُو مُؤْنِسٍ: شیخ۔ الْمُؤْنِسَاتُ: ہتھیار۔</p>	<p>الْإِنْبِيْقُ: عرق کشید کرنے کا آلہ۔ ج انابيق (جدید) أَنْتَ وانت۔ تو (واحد حاضر مذکر و مؤنث کی ضمیر مرفوع منفصل) ج انشم و انثن۔ أَنْتَ (ض) أَنْتِشَا۔ الْمَرْيُضُ: بیمار کا کہنا۔ آہ آہ کرنا۔ فَلَانًا: حسد کرنا۔ الشئ: اندازہ کرنا۔ أَنْثُ (ك) أَنْثَا۔ الْحَدِيدُ: لوہے کا پکا ہونا۔ نرم ہونا۔ خنث ہونا۔ صفت (أَنْثِيَّة) مَكَانٌ أَنْثِيٌّ: جس زمین میں گھاس وغیرہ جلدی آگے۔ سَيْفٌ أَنْثِيٌّ: کند تلواریں۔ أَنْثَهُ: مؤنث بنانا۔ مؤنث سمجھنا۔ خنث بنانا أَنْثُ لَهُ: نرم ہونا۔ نرمی برتنا۔ أَنْثَتْ إِثْمَانًا۔ المَرْوَأَةُ: مادہ جننا۔ صفت (مؤنث) تَأَنَّثَ: مادہ ہونا۔ لَهُ: نرم ہونا۔ و ضیلا ہوتا۔ الْأَنْثِيُّ: مادہ۔ ج اِنَاث و اِنَاثِي و ج أَنْثُ الْمُؤْنِثُ: مادہ۔ بجزا۔ الْمِثْنَاتُ: وہ عورت جس کی عادت لڑکیاں بننے کی ہو۔ مرد کے لیے بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے کہ مفضل کا دونوں کے لیے یکساں ہے اور اس کے مقابلہ میں بھڈکار ہے۔ یعنی وہ عورت جس کی عادت لڑکے بننے کی ہو۔ الْأَنْثَاتُ: چھوٹے چھوٹے ستارے۔ الْأَنْجَعُ: جہاز کا لنگر۔ الْإِنْجِيلُ: وہ اصلی کتاب جو عیسیٰ ﷺ پر نازل ہوئی تھی۔ ج اناجيل۔ (گلدیوٹالی ہے جس کے معنی بشارت کے ہیں) أَنْحَ (ض) أَنْحَاوْ أَنْحَاوْ أَنْوَحَا: کا گھٹنا الْأَنْحُ وَالْأَنْحُ وَالْأَنْوَحُ: سوال کرنے پر بکل کی وجہ سے کا گھٹنے والا۔ الْأَنْحَةُ: پست قد عورت۔ أَيْسُ (س) وَأَنْسُ (ك) أَنْسَا وَأَنْسَهُ وَأَنْسُ (ض) أَنْسَا۔ مانوس ہونا۔ بِهَوِّ الْيَتِيمِ: محبت کرتا۔ سگون قلب پانا۔ أَنْسَهُ: مانوس کرتا۔ اُنس الشئ: دیکھنا اور</p>	<p>الْبَشِيْرُ ”جب آیا خوشخبری لانے والا۔ إِنْ۔ حرف شرط ہے دو فعلوں کو جزم دیتا ہے جیسے ”إِنْ تَضْرِبْ تَضْرِبْ“ اگر تو مارے گا مارا جائے گا۔ حَرْفٌ نَفِيٌّ ہے۔ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے اور بعضوں کے نزدیک لَيْتَسُ کا عمل کرتا ہے جیسے ”إِنْ أَحَدٌ خَيْرٌ أَمِنْ أَحَدٍ الْبَالِغِيَّةِ“ یعنی عافیت کے بغیر کوئی کسی سے بتر نہیں۔ إِنْ اور کبھی جملہ فعلیہ پر داخل ہوتا ہے جیسے ”إِنْ أَذْرِي أَقْرَبْتُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تَوْعَدُونَ“ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا بعید۔ مُخَفَّفٌ ہے اُن مثلاً سے اور اس صورت میں زائد ہوتا ہے جیسے ”مَا لَنْ زَيْدٌ قَانِمٌ“ إِنْ۔ حرف تاکید ہے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے جیسے ”إِنْ زَيْدٌ أَهَانِمٌ“ حَرْفٌ جواب ہے جیسے کوئی کے ”لَعَنَ اللَّهُ نَافَةَ حَمَلْتَنِي الْيَكُ“ یعنی اللہ اس اوٹھی پر لعنت کرے جو مجھ کو تیرے پاس لائی ہے۔ اس کے جواب میں کہا جائے ”إِنْ وَرَأَيْتَهَا“ یعنی ہاں اور اس کے سوا پر بھی۔ إِنْ۔ حرف تاکید ہے جو خبر کو رفع اور اسم کو نصب دیتا ہے اور جملہ کو بتاویل مفرد کر دیتا ہے جیسے ”بَلَّغْنِي إِنْ زَيْدٌ أَهَانِمٌ“ مجھ کو زید کے قیام کی خبر پہنچی۔ أَنْ (ض) أَنْشَاوْ أَنْأَوْ أَنْأَاوْ وَأَنْأَاوْ: کہنا۔ آہ آہ کرنا۔ أَنْتَهُوْ فَأَنْتَهُ: مانا۔ الْأَنْأَانُ وَالْأَنْأَانُ وَالْأَنْتَةُ: بنت کراہنے والا۔ الْأَنْتَهُ وَالْأَنْأَانَةُ: کراہنا حاصل مصدر) أَنَا۔ میں (واحد منکلم کی ضمیر مرفوع منفصل) الْأَنْأَانَتُ: بنا کرنا۔ الْأَنْأَانِيَّةُ: بڑیک خود غرضی۔ اِدْعَاءُ۔ أَنْتَهُ: جھڑکنا۔ سلامت کرنا۔ الْأَنْبُ: بیکن۔ الْمُؤْنِيبُ: وہ شخص جس کو کھانے کی خواہش نہ ہو۔ الْأَنْأَابُ: مٹک یا ایک قسم کا مطر۔</p>
--	---	--

هَذِهِ اللَّهْ بَعْدَ مَوْتِهَا" اللهُ اسِ بَسْتِي كُو كُو كُو
زندہ کرے گا اور اسی سے ہے "فَأَشْرَا حَزْلُكُمْ
أَنِّي سَيْئْتُمْ"

أَهْوَاهُ وَأَهْوَاهُ وَأَهْوَاهُ وَأَهْوَاهُ. آه آه
آه (ن) آهًا وَآهَةً وَآهَةً وَآهَةً. آه آه
کرنا۔

أَهَبْتُ وَتَاهَبْتُ. لِلْأَمْرِ: تَبَارُؤُ آهَادِهِ هُوَا
الْأَهْبَةُ: سَالَمًا - كَمَا جَاءَا فِي "أَخَذَ لِلشَّعْرِ
أَهْبَةً" اس نے سلمان سخرلیا۔

الْأَهَابُ: كَهْلًا - كَحِي كَهْلًا - جِ: أَهَبْتُ وَأَهَبْتُ
وآبِة۔

الْأَهْرَةُ: كَهْرُ بِلُؤْلُؤِ سَالَمَانَ - أَجْمَعِي حَالَتِ - بَيْتِ جِ:
أَهْرًا وَأَهْرَاتِ۔

أَهْلٌ (ن) ض) أَهْلًا وَأَهْلًا - الرَّجُلُ: شَادِي
شده ہونا _____ إِهْرَؤَةً: نَكَاحُ كَرْنَا - صَفْتِ
مَعْنُو (مَا هَؤُلَةَ)

أَهْلٌ (س) أَهْلًا بِهِ: أُنْسُ حَاصِلُ كَرْنَا۔
أَهْلٌ - الْمَكَانُ أَوْ الْبَيْلُدُ: آبَادُ هُوَا - صَفْتِ

أَهْلٌ وَمَاهُولُ
أَهْلَةٌ (بِهَؤُلَا: شَادِي كَرُونَا) _____ وَأَهْلَةٌ

لِلْأَمْرِ: لِأَنَّ بِنَايَا سَجْمَا - أَهْلٌ بِهِ: كَسِي سِ
أَهْلًا وَسَهْلًا كَرْنَا۔

تَاهَلُّ وَأَهْلُ: شَادِي شِدِه هُوَا - تَاهَلُّ
لِلْأَمْرِ: لِأَنَّ هُوَا۔

إِسْتَاهَلَّ الشَّيْءُ: كَسِي جِزْرًا كَاهِلُ هُوَا۔
الرَّجُلُ: لِأَنَّ سَجْمَا - اسْتَاهَلَّ: كَسِي

هُوَ كَسِي لِيَتَا كَاهِلَا۔
أَهْلًا وَسَهْلًا: خُوشْ أَمْرِيْدُ - تَقْدِيرُ عِبَارَتِ كِي

يُؤِي سِ "صَادَقَتْ أَهْلًا لَا عُرْبَاءَ وَوَطِنَتْ
سَهْلًا لَا عُرْوًا" تو نے اپنے لوگوں کو پایا جنہیں

کو نہیں اور نرم زمین میں آسخت میں نہیں۔
الْأَهْلُ: كَبِيْدُ - رَشْدُ دَارِجِ أَهْلُونَ وَأَهْلِي

وَأَهَالٍ وَأَهْلَاتٍ وَأَهْلَاتُ - أَهْلُ الرَّجُلِ:
يُؤِي - أَهْلُ الْأَمْرِ: كَلَامُ - أَهْلُ الْمَذْهَبِ:

شَيْعِيْنُ مَذْهَبُ - أَهْلُ الْوَيْبِ: بَدُو - أَهْلُ الْمَدِيْنِ
وَالْحَضْرُ: عَرَبُ كِ شَرِي۔

الْأَهْلِيَّةُ: قَابِلِيَّةُ -
الْأَهْلِي وَالْأَهْلِي: بِأَلْوَجَانُورُ وَغَيْرِهِ۔

أَتَقَّ: تَعَجُّبٌ فِي ذَالِنَا -
أَتَقَّ إِتْقَانًا وَنِيْقًا: تَعَجُّبٌ فِي ذَالِنَا - نِيْقًا مَصْدَرُ
خِلَافِ قِيَاسِ هُوَا۔

تَأْتَقُّ: نَفَاسَتُ بِسِنْدِ هُوَا _____ فِي الْكَلَامِ أَوْ
الْقَمَلِ: أَجْمَعِي طَرَحُ كَرْنَا _____ الْمَكَانَ: بِسِنْدِ
آئے کی وجہ سے جدا نہ ہوتا۔

الْأَتَاقَةُ وَالْإِنَاقَةُ: حَسَنُ بِسِنْدِيْدِهِ -
الْأَتُوقُ: عَقَابٌ "هُوَ عَزْمٌ مِّنْ بِيضِ الْأَتُوقِ"
وہ عقاب کے انڈے سے زیادہ کیاب ہے۔ بطور

مَشَلِّ كِ اس جِزْرِ كِ لِيْے بُولْتِے ہِيں جِس كِ اَحْصُولِ
مَحَالِ هُوَا۔

أَتَكَ (ن) أُنْكَأَ - الشَّيْءُ: بِيْزَاؤُورُ مَوَا هُوَا۔
الْأُنْكَ: سِيْدُ - اِيْكَ كَلْرَے كُو اُنْكَةُ كَتِے ہِيں۔

الْأُنْكَالِيْسُ: بَارْمَانِي -
الْأُنْكَامُ وَالْأُنْكَامُ وَالْأُنْكَامُ: مَحْلُوقٌ - نِيْمُ كِ اسْتِعْمَالِ
سَرَفِ اشْعَارِيْسِ هُوَا تُوَا۔

الْأُنِي (ض) أُنِيَاوَانِي وَأُنِيَاوَانِي ثَانِيَّةُ: قَرِيْبِ
هُوَ - آتَا _____ التَّبَاتُ بِكُ جَانَا۔

أُنِي يَانِي وَأُنِي (س) أُنِيَاوَانِي: دُوْرِي كَرْنَا - بِحِيْبِ
رَبْنَا - صَفْتِ أُنِيُ

أُنِيَاوَانِي: فُلَانًا: دُوْرِي كَرْنَا - بِحِيْبِ ذَالِنَا -
تَانِي وَإِسْتَانِي - فِي الْأَمْرِ وَبِهِ: أَجْمَعِي طَرَحِ

خُورُ كَلْرُ كَرْنَا _____ الرَّجُلُ: مَمْلُتِ رَبْنَا۔
الْأُنَاةُ: بُوْقَارُ - بَرْدِيَارِي - انْتِظَارُ مَمْلُتِ۔

الْأُنَاةُ وَالْأُنَاةُ وَالْأُنَاةُ: بُوْقَارُ - بَرْدِيَارِي - انْتِظَارُ مَمْلُتِ۔
الْأُنَاةُ: بَرْدِيَارِي - نَرِي - پُورَادِنِ يَاسِ كِ اِيْكَ

جِزْرُ - جِ: أُنَاةُ وَأُنِيُ كَمَا جَانَا فِي "أُنَاةُ اللَّيْلِ
وَأَطْرَافِ النَّهَارِ" یعنی رات اور دن۔

رَجُلٌ: بَرْدِيَارُورُ سَجْمِيْدُ مَرْدُ -
الْأُنَاةُ: بَرْتِنُ - جِ: أُنِيَّةُ وَجِ: أُوَانُ -

أُنِي (1) طَرَفِ مَكَانِ هُوَا دُوْرُ فَعْلُوں كُو جِزْرُوم
كَرْنَا ہِيے "أُنِي تَجْمِيْسُ أَجْمَلِيْسُ" جِہاں تُو

بِيْشِيے كَامِيْسُ بِيْشُوں كَا۔
(2) مَعْنِي كَمَاں سِ ہِيے "أُنِي لَكْ هَذَا" یعنی

جِہِيں يِے كَمَاں سِ حَاصِلُ هُوَا؟
(3) طَرَفِ زِمَانِ مَعْنِي كَبِ ہِيے "أُنِي جِئْتُ"
تَم كَبِ آئے؟

(4) اسْتِغْنَامِيْہِ مَعْنِي كَيْفِ ہِيے "أُنِي يُحْيِي

الْأُنِيْسُونُ - النِيْسُونُ (اِيْكَ دُوَا كَانَامُ)
أَنْضُ (ض) أُنِيْضًا - اللُّحْمُ: خُرَابُ هُوَا - كَلْرُ
جَانَا۔

أَنْضُ (ن) أُنِيْضًا: خُوفُ كِي وَجِہِ سِ آخُوں كِ
حَرَكَتِ كَرْنَا۔

أَنْضُ إِتْقَانًا - اللُّحْمُ: نِيْمُ بَرِيَاں كَرْنَا۔
أُنْفُ (س) أُنْفًا مِّنَ الْعَارِ: خُورْدَارُ هُوَا - تَانِيْدِ
كَرْنَا - صَفْتِ (أُنُوفُ) أُوْرَا سِمِ (الْأُنْفَةُ)

_____ النِيْجِيْتُ: نَاكُ مِيں دَرْدِ هُوَا - صَفْتِ (أُنْفِ)
أُنْفُهُ (ن) ض) أُنْفًا: نَاكُ بَرْمَانَا۔

إِسْتَنْفَ وَإِسْتَنْفَ - الشَّيْءُ: اِسْرُؤُو كَرْنَا - اِدْرِ
اسِ سِ ہِيے "اسْتَنْفَ الدَّخُوِي" یعنی اس نے
اِبْتِيْلُ كِي۔

الْأُنْفُ: نَاكُ - أُنْفُ الْحَيْبِلِ: بِهَازُ كَالْكَفَا هُوَا
كُوشِ - "أُنْفُ كُلِّ شَيْءٍ" ہر جِزْرِ كِي اِبْتِدَا - كَمَا جَانَا
ہِيے "مَاتَ حَتْفُ أُنْفِهِ" ہُوَا بِنِي طَبِيْعِ مَوْتِ مَرَا۔

زَعِيْمُ أُنْفُهُ: دُوْرُ زَيْلِ هُوَا - حِيْمِي أُنْفُهُ: دُوْرُ غَايِبِ
زَبْرَدَسْتِ هُوَا - جِ: أُنْفًا وَأُنُوفُ وَأُنْفُ۔

أُنْفًا: اِبْحِي - كَمَا جَانَا فِي "ذَكَرْتُهُ أُنْفًا" مِيں نِے
اس كُو اِبْحِي يَادُ كِيَا۔ يِے بِيْشِيے بَرْمَانِي طَرَفِيْتِ

مَنْصُوبُ هُوَا تُوَا۔
أُنْفَةُ الشَّبَابِ: آخَاؤُ جُوَانِي - كَمَا جَانَا ہِيے

"مَعْنَتْ أُنْفَةُ الشَّبَابِ" جُوَانِي كِي مَسْتِي خْتَمُ هُوَا
سُئِي۔

الْأُنْفُ: مِيں الزِّيَاضِ: دُوْرُ سَرْمِزِ وَشَادَابِ
حَضْرَ زِمِيْنِ جِس كُو كَسِي جَانُورِ نِے چَرَانِ ہُوَا۔

كَأُنْشُ -
أُنْفُ: دُوْرُ بِيَاَلِ جِس سِ كَسِي نِے بِيَاَنِ ہُوَا۔

الْأُنْفِيْفُ: نَرْمُ لُوْہَا - تَمَامُ زِمِيْنُوں سِ پِئْلِيے
پِيْدَاؤَارُ آگَانِے وَالْاِبْهَازُ۔

رَجُلٌ "أُنْفِيْفُ: بَرِي نَاكُ وَالْمَرْدُ -
الْمُسْتَنْفَ: مِيں الْأَمْرِ: دُوْرُ كَلَامِ جِس كُو اِبْحِي

كَسِي نِے نِہ كِيَا ہُوَا۔
أُنْفِي (س) أُنْفًا: خُوشُ هُوَا - الشَّيْءُ: بِسِنْدِ كَرْنَا

_____ يِے: بِسِنْدِ كَرْنَا وَا سُوَا بَرِ تَرَجِيْحِ رَبْنَا _____
الشَّيْءُ: خُوْبِيْصُورَتُ وَتَعَجُّبُ اِكْمِيْزُ هُوَا - صَفْتِ

أُنْفِي وَأُنْفِي وَنُؤْفِي: كَمَا جَانَا ہِيے "زَوْضَةُ أُنْفِي وَ
أُنْفِيَّةُ" خُوْبِيْصُورَتُ بَلُغُ۔

الْأَهْلُ: بال تخم والـ
 الْإِهَالَةُ: بجملي ہوئی چلی۔ ہر وہ روغن جس کو بلور ساکن کے استعمال کیا جائے۔
 الْمَاهُولُ: آبو مکان۔
 أَوْ: حرف عطف میں سے ہے اور اس کے مواقع استعمال حسب ذیل ہیں۔
 (۱) شک جیسے "لَيْسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ" ہم ایک دن یا دن کے کچھ حصہ میں ٹھہرے۔
 (۲) ابہام جیسے "نَحْنُ أَوْ أَنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ" ہم یا تم حق پر ہیں۔
 (۳) اباحت جیسے "جَالِسُ الْحَسَنِ أَوْ ابْنِ سَيْرِينَ" حسن کے پاس بیٹھو یا ابن سیرین کے پاس۔
 (۴) تیز جیسے "سَيِّزُ الْكَبَابِ وَمَا شَبَّاهُ" سوار چلو یا پیدل چلو۔
 (۵) تقسیم جیسے الْكَلِمَةُ اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ (کلمہ یا اسم ہے یا فعل یا حرف) کبھی الٰہی کے معنی میں آتا ہے جیسے "لَا تَزِمَنَّكَ أَوْ تَقْبِضِي حَقِّي" میں تمہارے ساتھ لازم رہوں گا میرا تک کہ تم میرا حق پورا کر دو اور کبھی الٰہ کے معنی میں آتا ہے جیسے "لَا تَقْبِضَنَّ الْعُدُوَّ وَيَخْضَعَنَّ" میں دشمن کو یقیناً قتل کروں گا مگر یہ کہ وہ تابع ہو جائے۔
 آب (ن) اُوْبًا وَمَا بَيْنَ السَّفَرِ: لوٹنا واپس ہونا۔ صفت (آب) ج اُوْبٍ وَأَيْبٍ وَأَوَابٍ
 الماء: رات میں کسی چشمہ پر اترنا
 الشمس: آفتاب کا غائب ہونا۔ غروب ہونا
 إلى الله: توبہ کرنا۔
 آبة (ن) اُوْنَا: قصد کرنا۔ آب الیہ: کسی کے پاس رات کے وقت جانا۔
 اُوْب (س) اُوْنَا: غضبناک ہونا۔
 اُوْبٍ وَأَيْبٍ: عتہ: لوٹنا۔ اُوْبٍ الْأَوِيمِ: بیچ میں سے گول کاٹنا۔
 اُوْبٍ وَأَوْبٍ مُؤَاوِنَةٌ: القَوْمُ: سارے دن چلانا اور رات میں قیام کرنا۔
 قَاوَبٌ وَقَايِبٌ وَأَيْبٌ: لوٹنا۔ اُوْبٍ الْأَوِيمِ: بیچ رات میں کسی چشمہ پر اترنا۔
 اُوْبٍ وَالْأُوْبَةُ وَالْأَيْبُ: واپس و اُوْبٍ:


قصد۔ عادت۔ راستہ۔ جت۔ کہا جاتا ہے "جاءوا من كل أوب" وہ لوگ ہر جت سے آئے۔
 "وَكُنْتُ عَلَى صُوبِ فَلَانٍ وَأُوْبِهِ" میں فلاں کی روش اور طریقے پر تھا۔ الاؤبۃ: جانور کی ٹانگ۔
 ج اُوْبَات۔
 الاُوْبَات: توبہ کرنے والا۔ ج اُوْبَاتُ: صواب۔ لوٹنے کی جگہ۔ ج مآوِب۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ مآوِبٌ" ان دونوں کے درمیان تین منزل کا فاصلہ ہے۔
 الاؤبۃ: وہ پانی جس کو دوسرے کے وقت نکلیں۔
 الأفوج: بلندی۔ فن موسیقی کا ایک نثر۔
 الأوح: انڈے کی سفیدی۔
 آذہ (ن) اُوْدًا وَأُوْدًا: الأَمْزُ: گرا ہوا کرنا۔
 تھکا دینا۔ الحمل: بوجھل کرنا صفت (اُؤِد) اور صفت مفعولی (هُؤِد)۔ (اُوْدًا) الفئی: لوٹنا۔ العشی: باطل ہونا۔ (اُوْدًا) اُوْدًا: العود: بھکانا۔ ٹیڑھا کرنا۔
 اُوْد (س) اُوْدًا وَأُوْدًا: ٹیڑھا ہونا۔ مڑنا۔ صفت (اُوْد) مؤنث (اُوْدَاء) وقاؤدہ الأَمْزُ: شاق گزرتا۔ مگراں ہونا۔
 اِنَادِ الْبَيْتَا: مڑنا۔ بھکانا۔ ٹیڑھا ہونا۔
 الاؤد: مشقت۔ ٹیڑھا ہونا۔
 الاؤدۃ: بوجھ۔
 المآود: مصیبتیں۔
 الأوزار: گری۔ پیاس۔ دھواں۔ ج اُوْر۔
 الأوزة: چولہا۔ آگ جلانے کی جگہ۔
 الأوزة: بط۔ مرغابی۔ ج اُوْر۔
 المآوزة: وہ جگہ جہاں طین زیادہ ہوں۔
 آس یؤوس أو سوا وایناسا: دینا۔ بدل دینا۔
 استنآسہ: عطیہ مانگنا۔ مدد طلب کرنا۔ ساتھ رہنے کو کہنا۔
 الأوس: عطیہ۔ بھیڑیا۔
 الآس: ایک درخت کا نام ہے جو رحمان کے نام سے مشہور ہے۔ واحد آسۃ ہے۔
 الآس: جو لے کی بقیہ رکھ۔ شمد۔ چھتہ میں باقی ماندہ شمد۔ قبر۔
 اُوینس: بھیڑیا۔
 آفہ (ن) اُوْفًا: نقصان پہنچانا۔ فاسد کرنا۔ آفت

قصد۔ عادت۔ راستہ۔ جت۔ کہا جاتا ہے "جاءوا من كل أوب" وہ لوگ ہر جت سے آئے۔
 "وَكُنْتُ عَلَى صُوبِ فَلَانٍ وَأُوْبِهِ" میں فلاں کی روش اور طریقے پر تھا۔ الاؤبۃ: جانور کی ٹانگ۔
 ج اُوْبَات۔
 الاُوْبَات: توبہ کرنے والا۔ ج اُوْبَاتُ: صواب۔ لوٹنے کی جگہ۔ ج مآوِب۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ مآوِبٌ" ان دونوں کے درمیان تین منزل کا فاصلہ ہے۔
 الاؤبۃ: وہ پانی جس کو دوسرے کے وقت نکلیں۔
 الأفوج: بلندی۔ فن موسیقی کا ایک نثر۔
 الأوح: انڈے کی سفیدی۔
 آذہ (ن) اُوْدًا وَأُوْدًا: الأَمْزُ: گرا ہوا کرنا۔
 تھکا دینا۔ الحمل: بوجھل کرنا صفت (اُؤِد) اور صفت مفعولی (هُؤِد)۔ (اُوْدًا) الفئی: لوٹنا۔ العشی: باطل ہونا۔ (اُوْدًا) اُوْدًا: العود: بھکانا۔ ٹیڑھا کرنا۔
 اُوْد (س) اُوْدًا وَأُوْدًا: ٹیڑھا ہونا۔ مڑنا۔ صفت (اُوْد) مؤنث (اُوْدَاء) وقاؤدہ الأَمْزُ: شاق گزرتا۔ مگراں ہونا۔
 اِنَادِ الْبَيْتَا: مڑنا۔ بھکانا۔ ٹیڑھا ہونا۔
 الاؤد: مشقت۔ ٹیڑھا ہونا۔
 الاؤدۃ: بوجھ۔
 المآود: مصیبتیں۔
 الأوزار: گری۔ پیاس۔ دھواں۔ ج اُوْر۔
 الأوزة: چولہا۔ آگ جلانے کی جگہ۔
 الأوزة: بط۔ مرغابی۔ ج اُوْر۔
 المآوزة: وہ جگہ جہاں طین زیادہ ہوں۔
 آس یؤوس أو سوا وایناسا: دینا۔ بدل دینا۔
 استنآسہ: عطیہ مانگنا۔ مدد طلب کرنا۔ ساتھ رہنے کو کہنا۔
 الأوس: عطیہ۔ بھیڑیا۔
 الآس: ایک درخت کا نام ہے جو رحمان کے نام سے مشہور ہے۔ واحد آسۃ ہے۔
 الآس: جو لے کی بقیہ رکھ۔ شمد۔ چھتہ میں باقی ماندہ شمد۔ قبر۔
 اُوینس: بھیڑیا۔
 آفہ (ن) اُوْفًا: نقصان پہنچانا۔ فاسد کرنا۔ آفت

”اَیْنُ یُؤَسِّفُ“ یوسف کہاں ہے؟ اور معنی شرط کو متضمن ہو کر دو فطوں کو جزم دتا ہے خواہ ما اس کے ساتھ لاحق ہو یا نہ ہو جیسے ”اَیْنُ أَوْ اَیْتَمْنَا نَقِیْفُ أَلْفٍ“ تو جہاں کڑا ہو گا میں کڑا ہوں گا۔
 اَیْنُ: کچھ اور کو۔ یا کرو۔ یا ساؤ۔
 اَیْتَمُّوا اَیْتَامًا وَاَیْتَامًا وَاَیْتَامًا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کی روشنی۔ اور ایسا ہی نباتات کی رونق کے معنی میں بھی آتا ہے۔ والایاتہ: آفتاب کے گرد گوارا۔

اَن یَیْتِنُ اَیْتِنَا: وقت آتا۔ کہا جاتا ہے ”اَن لَکَ اَن تَفْعَلَ کَذَا“ تمہارے لیے ایسا کرنے کا وقت آگیا۔
 اَلْاَیْنُ: حاکم۔ مانگی۔
 اَلْاَنُ وَاَلْاَوَانُ: سامان دیکھو۔
 اَیْتَانُ: اسم شرط ہے۔ دو فطوں کو جزم دتا ہے جیسے ”اَیْتَانُ تَضْرِبُ اَضْرَبُ“ جب تم مارو گے میں ماروں گا۔ اسم استغمام جیسے ”اَیْتَانُ تَزْجَعُ“ تو کب واپس ہو گا؟ اور معنی کے معنی میں بھی آتا ہے بمعنی کب۔
 اَیْنُ: اسم ظرف ہے بمعنی کہاں — جیسے

زَوْجِیُّہَا وَاَلْمَرْاۃُ مِنْ زَوْجِہَا: راتڑ بیوہ ہوتا۔ صفت مذکر و مؤنث (اَیْم) حج اَیْتَمِج وَاَیْتَمِضِ وَاَیْتَمُونَ وَاَیْتَمَات۔
 اَیْتَمَہ: راتڑ بیوہ کرتا۔
 تَاَیْمُ: عرصہ تک بے نکاح کے رہنا۔
 اَلْاَیْمُ: ستاپ۔ نرا اثر دہا۔ حج ایوم۔
 اَیْمُ اللّٰہِ: اللہ کی قسم۔
 اَلْاَیْمَةُ: عیب و نقص۔ کہا جاتا ہے ”اَلْحَزْبُ (ہَاۤیْمَةٌ) مَیْتَمَةٌ“ لڑائی عورتوں کو راند کرنے والی اور بچوں کو یتیم بنانے والی ہے۔



ب۔ حروفِ جرمیں سے ہے۔ معانی ذیل کے لیے مشتمل ہے۔

(۱) الْبَصَاقُ: جیسے اَمْسَكَتُ بِالْفُلَامِ میں نے فلام کو پکڑ لیا۔

(۲) اِسْتِعَانَةٌ: جیسے كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ میں نے قلم سے لکھا۔

(۳) مُصَاحِبَةٌ: اِذْهَبْ بِسَلَامٍ سلامتی کے ساتھ جاؤ۔

(۴) مَطْرُقَاتٌ: جیسے مَسَارٌ بِاللَّيْلِ وہ رات میں چلا۔

(۵) بَدَلٌ: جیسے بَاعَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اس نے ایمان کے بدلے کفر لیا۔

(۶) تَعْدِيَةٌ: جیسے ذَهَبْتُ بِهِ إِلَى التَّيْنِتِ میں اس کو گھر تک لے گیا۔

(۷) قَسَمٌ: جیسے بِاللَّهِ اَللّٰهُ كِي قَسَمٌ۔

(۸) مَسْبِيبٌ: "لَقِيْنَتْ بِرَبِّيْذِ الْاَهْوَالِ" میں زید کی وجہ سے خطرات میں پڑ گیا۔

(۹) تَاكِيْدٌ: اور یہ زائد ہوتا ہے اور زیادتی کے مواقع حسب ذیل ہیں۔

كَانَ مَثْقِي كِ خَرْمٍ جیسے "وَمَا كَانَ بِمُنْكَرٍ" یہ منکر نہیں۔ لیس کی خبر میں جیسے "فَئِسْ زَيْدٌ بِقَاتِمٍ" زید کھڑا نہیں ہے۔ حاشا۔ بلیس کی خبر میں جیسے "مَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ" اللہ غافل نہیں ہے۔

اور اَصْلٌ مِثْلُهُ تَجِبُ كَ فَاعِلٌ پَر جیسے "اَكْرَمٌ بِهِ اَحْمِيْنُ بِهِ" اور فَعْلٌ وَفَعْلَانِ كَ تَاكِيْدٌ لَانِے میں جیسے "جَاءَهُ الْوَيْزَانُ بِرَبِّهِمْ" و زِرُّ خُودِ اَيًّا۔

اور كَفَى كَ فَاعِلٌ پَر جیسے "كَفَى بِاللَّهِ شَهِيْدًا" اور مفعول پَر جبکہ اس کا تہدیرہ ایک مفعول کی طرف ہو جیسے "كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُحَدِّثَ"

بِكَلِّ مَا سَمِعَ" اور مبتدا پر سماعی حیثیت سے جیسے "بِحَسْبِكَ دِزْهَمٌ" بجائے "حَسْبُكَ دِزْهَمٌ" کے۔

اور اِذَا فَاتِيْے كَ بَعْدَ قِيَاسِي حَيْثِيْتِے سَے جیسے "عَوْرَجْتُ لَمَّا ذَابَ رِيْدِي الْظَّرِيْقُ"۔

اور اس حال پَر جس کا عامل مثنیٰ ہو جیسے "فَمَا رَجَعْتَ بِخَاتِيْبِيْ رِ كَاثٌ"۔

اور كَبِيْ عِن وَعَلِيْ وَآلِيْے كَ مَعْنِيْے مِّنْ آتَاے۔

التَّبَا: بُوْپ ج تَابُوَاتِ نَسْبِے كَ لِيْے (بابوئی)

بَابًا ؕ وَبِه: كَسِي سَے هَابِي وَانْتِ وَامِي كِنَا۔

الْوَلْدُ: بَابَا كِنَا۔

التَّبُوْتُو: اَصْلٌ دَر مِيَانِي حَضَر۔ اَكْهَ كِي پَتْلِي عَالِم۔ خُوش طَرَحِ سَرْدَار۔

تَابِل: فَرَاتِ كَ كِنَارِے كَاوَه مَشُورِ شُرُجُو كَلْدَانِيُوں كَاوَارِ السُّلْطَنَتِ كِنَا۔ جِس كُو نَمُودِے بَسَايَا كِنَا۔

التَّبَالِيْ: جَاوِدِ كَر۔ شَرَابِ زَبَر۔

التَّبَاوُجُ وَالتَّبَاوُضُ: جَوْتِ كِي اِيكِ قَسْمِ جِ نُوَابِيْجِ

التَّبَاوُرُ: اِسْتِمْرَانِ كِي عَرَبِي بَاخِرِے هَے

التَّبَاوُتِيْجُ وَالتَّبَاوُيْجُ: بَابُوْنِدِ۔

بَآجُ (ف) بَآجَاوُ بَآجُ: چَلَانَا۔

التَّبَاوُجُ وَالتَّبَاوُجُ: قَسْمِ - شَكْلِ - كَمَا جَاتَا هَے۔

"اَلْقَاسُ بَآجُ وَاحِدٌ" لوگ اِيكِ رُوشِ طَرِيْقَتِ پَر هِيْنِ وَالتَّبَاوُجُ: كِيَسُ جُو بِيْمِيْرُ كِي كَے مَالِكِ سَے لِيَا جَاے۔

التَّبَاوُزُ: زَبَرِ بَاوُ (اِيكِ بِيَارِي كَاتِم)

التَّبَاوُلُ: نَسْلِيْے اُوْر كِرُوْنِ كَے دَر مِيَانِ كَا فَاصِلِ

اَلْتَّبَاوُلَةُ: بَعْضِ اُوْر پِسْتَانِ كَے دَر مِيَانِ كَا گوشتِ۔

التَّبَاوُجَانُ وَالتَّبَاوُجَانُ: بِيْغِيْنِ۔

بَآزُ (ف) بَآزَاوُ اِبْتِآزُ: كُودِنَا ___ الشَّقِي: چھپانا۔ زُخْرُو كِنَا ___ النَّخِيْرُ: پُوْشِيْدِه طُورِ پَر كِنَا۔

اَبَآزُ ؕ: كَسِي كَے لِيْے كِنُوَالِ بَنَانَا۔

الْبِيْزُو: كِنُوَالِ جِ اَبَآزُو وَابَآزُو وَبَآزُو وَابَآزُو (كَلِمَةُ مَوْنَسَفِے)

الْبِيْآرُ: كِنُوَالِ كُودِنِے وَآلَا۔

الْبِيْزُوَّةُ: كِرْهَمَا اَتَشْدَانِ زُخْرُو۔

الْبِيْزُوَّةُ وَالتَّبِيْزُوَّةُ: زُخْرُو۔

الْبِيْزُوَّةُ: قَرَشِ كَا چَالِيسُوَالِ حَضَرِ جِ بَارَاتِ

التَّبَاوُتِيْجُ وَالتَّبَاوُتِيْجُ: بِيْجَتِ - فَرَسَتِ حَدِيْثِ كَے رَاوِيُوں اُوْر اَسَاوُ كَتَبِ كِي فَرَسَتِ۔

التَّبَاوُودُ: بَارُوْدِ۔

التَّبَاوُودَةُ: بِنْدُوْقِ جِ بُوْرَانِدِ۔

التَّبَاوُ: جِ بِيْزَانِ وَبُوُوْزُ وَابُُوُوْزُ وَابُُوُوْزُ وَابُُوُوْزُ (التَّبَاوُ وَالتَّبَاوُ) جِ بِيْزَانِيْے جِ ابُُوُوْزُ وَابُُوُوْزُ وَابُُوُوْزُ وَابُُوُوْزُ: بَاوُ۔

التَّبَاوُذَارُ: بَاوُغِيْرِے شَكَرِي پَر عَدِے رَكْنِے وَآلَا جِ بِيْزَادِرَةُ۔

التَّبَاوُزُ: بَاوَارِ۔

التَّبَاوُزُكَانُ: سُوْدَا كَرِ۔

التَّبَاوُزُ: دِيْكِيْے سَاوَدِ زَهْرِ۔

بُوُوْسُ (ك) بَاوَسَا۔ مَضْبُوْبُ وَبَارُوْدِ هُوْنَا صَفْتِ (بِيْسِ وَبِيْئِيْسِ)

بِيْسُ (س) بُوُوْسَاوُ بِيْئِيْسَاوُ بُوُوْسَاوُ وَبُوُوْسَاوُ بُوُوْسَاوُ سَخْتِ حَاجَتِ مَعْدُوْدَا هُوْنَا صَفْتِ (بَايْسِ جِ بُوُوْسِ)۔

بِيْسُ: فَعْلٌ مَاضِي جَاوِدِ هَے۔ عَدَمَتِ كَے لِيْے مَسْتَمْلِ هَے اُوْر بِيْسُ الْوُجُوْدِ سَے بِنَا هَے۔

اَبَاوَسُ: مَضِيْبِيْسِ پَرْنَا ___ ؕ: مَضِيْبِيْسُوں اُوْر خِيْتِيُوں مِيْنِ چُكَلَا كِنَا۔

حاصد۔

الْبَحْرُ: جنسی واحد (بقرہ) بحر بنور۔

الْبَحْرُ: بنت۔ کہا جاتا ہے "کثیر بنور"

الْبَحْرُ: بنت المدار۔ وہ شخص جس پر حسد کیا جائے۔

يَبْحَثُ (س) يَبْحَثُ: الشَّفَقَةُ خَاصَّةً: کثرت خون سے سرخ ہوتا۔

الْأَبْحَقُّ: وہ شخص جس کے ہونٹ کثرت خون سے سرخ ہو گئے ہوں۔ مؤنث بَيْحَاءُ ج بَيْحُ.

بَيْحُ (ن) بَيْحًا وَبَيْحًا وَبَيْحًا وَبَيْحًا: الشَّيْبُ الْمَوْضِعُ: سیلاب کا جگہ کو پھاڑ دینا۔ بَيْحُ الْبَيْحُ: پانی اچھی طرح بننے کے لیے دریا کے بند کو توڑ دینا۔

الْبَيْحُ: الْمَاءُ: بہہ پڑنا۔ بِالْكَوَالِمِ: تیز بولنا۔

الْبَيْحُ وَالْبَيْحُ: دریا کے کنارے کی ٹوٹی ہوئی جگہ ج بَيْحُ.

بَيْحُ (ن) بَيْحًا: پھاڑنا۔ نیزہ مارنا۔ بَيْحُ الْكَلَاءِ: الثَّاقَةُ: موٹا کرنا۔

الْبَيْحُ: پھلنا۔

الْبَيْحُ: كِشَارُهُ الْوَالِدِ: مؤنث بَيْحَاءُ۔

کما جاتا ہے "عزیز بَيْحَاءُ" کشارہ آکھ۔

الْبَيْحَةُ: جنسی جو آکھ میں نکلتی ہے۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

بَيْحُ: الصَّبِيُّ: بچے کو ملانا۔

باہر کو نکلی ہوئی نالی والا ہوتا۔ بڑے ہیٹ والا ہوتا۔

دودھ اور پانی سے ہیٹ بھرنے کے باوجود میراب نہ ہوتا۔ صفت (بحر و آبجر)

تَبْحَرُ: التَّبِيدُ: پینے میں زیادتی کرنا۔

الْبَاحِرُ: فاعل۔ پھولے ہوئے ہیٹ والا ج بَحْرَةٌ۔

الْبَحْرَةُ: نالہ۔ چہرہ۔ عیب ج بَحْرُ۔ کہا جاتا ہے "ذکر عَجْرَةٌ وَبَحْرَةٌ" اس نے اس کے محبوب ظاہری و باطنی سب بیان کر دیئے۔

الْبَحْرُ: ج أَبْحَرُ وَابْحِيرُ وَالْبَحْرِيُّ: ج بَحْرِيٌّ: بڑائی۔ مصیبت۔ بڑا معاملہ۔ کہا جاتا ہے "الْقَيْثُ وَبِنَةِ الْبَحْرِيَّةِ" اس سے مجھے مصیبتیں حاصل ہوئیں۔

الْبَحْرَاءُ: سخت اور بلند زمین۔ زمین جس میں گھاس نہ آگے۔

الْبَحْرَاءُ: صعبتیں۔

بَيْحَسُ (ن) بَيْحَسًا وَبَيْحَسًا: الْمَاءُ: پانی جاری کرنا۔ الْجَوْحُ: زخم چرنا۔

بَيْحَسُ فَلَانًا: گالی دینا۔

بَيْحَسُ وَابْحَسُ وَبَيْحَسُ: الْمَاءُ: پانی جاری ہونا۔ بہنا۔

الْبَيْحَسُ وَابْحَسُ: بے بنے والا۔ عَزِيضٌ بَيْحَسٌ: سخت پانی والا چشمہ۔ ماء بَيْحَسٌ: بہتا ہو پانی۔

بَيْحَعَةُ (ف) بَيْحَعًا: گوارے کاٹنا۔

الْبَيْحَعُ: ایک قسم کا پرندہ جس کی چوچ لگی اور چوڑی ہوتی ہے اور اس کی چوچ کے نیچے بڑا سا پوتا ہوتا ہے۔ واحد بَيْحَعَةٌ۔

بَيْحَلُ (ن) وَبَيْحَلٌ (س) بَيْحَلًا وَبَيْحَلًا: خَوْشُ ہونا۔ خوش حال ہونا۔ صفت (باجل)

بَيْحَلُ (ک) بَيْحَالَةٌ وَبَيْحَلًا: مَمْرُزُ ہونا۔ صفت (بجیل)

بَيْحَلَةٌ: تھکیم کرنا۔

الْبَيْحَلُ: برتان، تعجب و دعوت، دون ہستی۔

بَيْحَلِيٌّ: حرف جواب مثل تم کے۔ اسم فعل بمعنی حَسِبْتُ۔ تم کہتے ہو۔ "بَيْحَلِكُ" یعنی تمہارے لیے کافی ہے۔

الْبَيْحَلُ: بڑا برتان۔

الْبَيْحَلُ: وسیع و فراخ۔

الْبَيْحَلُ: ہاتھ یا پاؤں کی ایک موٹی رگ کا نام۔ ج۔ أَبْجَلُ۔

بَيْحَمُ (ض) بَيْحَمًا وَبَيْحَمًا: گہرا ہٹ یا عاجزی سے خاموش ہوجانا۔

بَيْحَمُ: بمعنی مجرد ویر کرنا۔ تیز نظر ڈالنا۔ متنبض ہونا۔

الْبَيْحَمُ: جھاد کا پھل۔ واحد بَيْحَمَةٌ۔

الْبَيْحَمُ: بڑی جماعت۔

بَيْحُ (س) بَيْحًا وَبَيْحًا وَبَيْحًا وَبَيْحًا: بے چارگی یا بے چارگی سے بے چارگی۔ گلو کرتے ہونا۔ بیچس ہوئی آواز والا ہونا۔ صفت (ابیح) مؤنث بَيْحَاءُ۔ ج بَيْحُ۔

أَبْحَهُ وَبَيْحَهُ: کسی کی آواز کو بھاری کر دینا۔

الْبَيْحَةُ: آواز میں بھاری پن اور خشونت۔

بَيْحُ وَبَيْحُ: اچھی طرح ٹھہرنا۔

تَبْحِيحُ الْمَدَارِ: گھر کے وسط میں ٹھہرنا۔

"تَبْحِيحُ سَبْتِ الْعَرَبِ لِي لَعَابِيهَا" توسع کرنا۔

الْبَيْحُ: حَتَّى: وسط۔ درمیان۔

الْبَيْحُ: فراخی زندگی۔

الْبَيْحَةُ: جماعت۔

الْبَيْحَةُ: بد خو عورت۔

بَيْحَتُ (ک) بَيْحُوتَةً: خالص ہونا۔

بَيْحَتُهُ: الْوَدُّ: خالص دوستی کرنا۔ فَلَانًا: بیتانا۔

الْبَيْحَتُ: شخص خالص۔ شَوَابٌ بَيْحَتٌ: سادہ بغیر کسی چیز سے ملا ہوا۔ وَسَلْتُ بَيْحَتٌ: خالص منگ۔ عَزِيضٌ بَيْحَتٌ: خالص نسب والا عملی مؤنث بَيْحَتَةٌ: بحت کا لفظ واحد "شئینہ"

جمع "ذکر" مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ اگر چاہو تو مؤنث تشبیہ جمع لاسکتے ہو۔

الْبَيْحَتُ وَالْبَيْحَتِيُّ: بہت قد گھٹے بدن والا۔

بَيْحَتُ (ف) بَيْحَاتٌ: لُحْيٌ: کھودنا۔ اور اسی سے مثل ہے "کَالْبَيْحَتِ عَنِ حَقِّقِهِ بِظِلْفِهِ" یعنی وہ اپنی ہلاکت ویرانی کا سامن خود پیدا کرتا ہے۔ عَقَّةٌ: تھیش کرنا۔

بَيْحَتَةٌ: خطاب کرنا۔ مَنكُورَةٌ: تباہی خفا۔ بہانہ منکُور کرنا۔

خوہی کرنا۔ الوَجِيءُ: کوئی پالی نکلنے تک
 کھودنا۔ فَلَا تَأْكُلْ عَيْبَةً: تصدیق کرنا۔
 بَيَّعَ (س) بَيْعًا عَارًا بِمَخَاضَةٍ: بالحق: اقرار
 کرنا۔ حق کے سامنے جگ جانا۔
 بَخَعَ (ف) بَخْعًا وَابْخَعَ: عَيْتَهُ: کالی کرنا
 پھوڑنا۔
 زَجَلَ (أَبْخَعَ وَبَخَعَ وَبَخِيقَ وَبَخِيقَ وَمَبْخُوقَ)
 کاتھرو۔
 عَيَّنَ (بِخَعَاءٍ وَبِخَعَةً وَبِخَعَةً وَمَبْخُوقَةً)
 کالی آگھ۔
 أَلْبِخَاقَ: زبھیرا۔
 بَخِعْتِ (س) بَخْعًا: عَيْتَهُ: بڑی طرح کالی
 ہوتا۔
 بَعَجَلَ (س) بَيْعَلًا وَبَيْعَلًا (ك) بَيْعَلًا: بخیل
 ہوتا۔ تجوس ہوتا۔ صفت بخیل ج بخلاء عَلَيَّه
 وَعَيْتَهُ: کسی سے بخل کرنا۔ صفت با بخل ج
 بَيْعَلًا۔
 بَيْعَلُهُ: بخل کی جانب منسوب کرنا۔
 أَبْخَعَلَهُ: بخیل بنانا۔
 الْبَيْعَالُ وَالْبَيْعَالُ وَالْمَبْخُوعُ وَالْبَيْعَلُ:
 بُعْتُ تَجُوسٍ۔
 الْمَبْخَعَةُ: باحث بخل۔ اور اسی سے ہے
 "الْوَلْدُ مَبْخَعَةٌ مَبْخَعَةٌ" لڑکا باحث بخل اور
 باحث بزدلی ہوتا ہے۔
 الْبَيْعُوقُ: کٹوپ۔ ایک قسم کا زائدہ سرہند۔
 بَيْعًا (ن) بَيْعًا: عَيْتَهُ: غمنا۔
 بَدَّ (ن) بَدَّ: رَجَلَيْهِ: ناگلیں پھیلاتا۔
 الْوَجَلَ عَنِ الشَّيْءِ: دُور کرنا۔ روکنا۔
 بَدَّ (س) بَدَّدًا: زیادتی گوشت کی وجہ سے
 دونوں رانوں میں فاصلہ ہوتا۔
 بَدَّدَ: الشَّيْءُ: مَفْرَقَ کرنا۔ بکھیرنا۔ الرَّجُلُ:
 مَحْلًا۔
 بَادَتْهَا ذَاؤُ وَبَدَّ: مَوَالِدَ: کے طور پر بیچنا۔
 الْقَوْمَ هَلِي السَّفَرِ: ہر ایک کا ہانا ہنا زاد سفر
 لانا اور ہجر کرنا۔
 أَبَدَّ: الشَّيْءُ يَبْدُهُمْ: ہر ایک کا حصہ دینا۔
 بَدَّدَ: زمین کی طرف ہاتھ بڑھانا۔
 تَبَدَّدَ: مَفْرَقَ ہونا۔ الْقَوْمَ الشَّيْءِ: آپہن

میں حصے تقسیم کرنا۔
 ابْتَدَأَ الرَّجُلَانِ فَلَانًا بِالْعَضْبِ: دو آدمیوں کا
 کسی کوروں جانب سے بارنا۔
 تَبَادَأَ الْقَوْمَ: باہم متبادلہ کے لیے لگانا اور اپنے
 اپنے حریف کو پکڑنا۔ دو دو آدمیوں کا قاصلہ سے
 گذرنا۔
 ابْتَدَأَ بِكَذَا: اپنے آپ کو ترجیح دینا۔
 الْأَمْزُوقَانِ: کسی معاملہ کا بے قابو ہونا۔
 التَّبْدُؤُ التَّبْدِيْدُ: مثل نظیر۔
 التَّبْدُؤُ: چارہ کار۔ ہمانے کی جگہ۔ تم کہتے ہو "لَا تَبْدُؤُ
 مِنْ هَذَا" یہ لازمی ہے۔ بدلہ۔
 وَالتَّبْدُؤُ التَّبْدَادُ: حشر۔
 التَّبْدَادُ: مقابلے کے لیے لگانا۔ ہسر لوگ۔ کہا
 جاتا ہے "لَقَوْمًا ابْدَاهُمْ" وہ لوگ اپنے حریفوں
 سے لے۔ "وَبَدَّادٍ أَوْ تَبْدَادٍ بَدَّادٍ" یہ اس وقت بولا
 جاتا ہے جب یہ کہتا مقصود ہو کہ ہر شخص اپنے اپنے
 قرین کو پکڑے۔ "وَجَاءَتْ ثُ التَّبْدِيْدُ بَدَّادٍ"
 کھوڑے مفرق مفرق آئے۔
 التَّبْدُؤُ التَّبْدَةُ: طاقت۔ حاجت۔
 الْآبَدُ: وہ شخص جس کے ہاتھ رانوں میں فاصلہ
 ہو۔ بڑے جسم والا۔ مَوْنَتْ بَدَّاءُ: کہا جاتا ہے
 "فَعَبِيْرًا (أَبَادِيْدُ تَبَادِيْدُ)" یعنی وہ لوگ مفرق ہو
 گئے۔ وَطَلِيْرًا أَبَادِيْدُ تَبَادِيْدُ "مفرق پرندے۔
 الْمُسْتَبِيْدُ: کام شروع کر کے خاتمہ ہی پر دم لینے
 والا۔
 بَدَّ (ف) بَدَّةً ۱ ابْتَدَأَ وَتَبَدَّ: الشَّيْءُ وَبِهِ:
 شروع کرنا۔ پہلے کرنا۔ بَدَّ بَقْلَانِ: آگے بڑھانا۔
 بَدَّ الشَّيْءُ: شروع کرنا۔ پیدا کرنا۔
 بَدَّ وَأَبَدَّ: اللّٰهُ الخَلْقَ: پیدا کرنا۔
 صفت (بَدَّيْ وَمَبْدِيْدِي) أَبَدَّ الرَّجُلُ: عجیب
 چیز لانا۔ تعجب انگیز کام کرنا اور کہا جاتا ہے۔ "فَلَا نِ
 مَا يَبْدِيْدُ وَمَا يَبْدِيْدُ" یعنی فلاں کچھ بھی نہیں بولتا۔
 بَدَّ: شروع کرنا۔ غصیلت دینا۔
 التَّبْدَةُ وَالتَّبْدَةُ وَالتَّبْدَةُ: الشَّيْءُ وَبِهِ: شروع۔
 ابتداء۔ کہا جاتا ہے "أَفْعَلُهُ بَدَّةً أَوْ بَدَّةً بَدَّيْدُ وَأَوَّلُ
 بَدَّيْدُ وَبَدَّيْدُ بَدَّيْدُ وَبَدَّيْدُ بَدَّيْدُ" یعنی میں اس کو
 ساری چیزوں سے پہلے کروں گا۔
 وَالتَّبْدَةُ: کسی جگہ کے لیے سفری ابتداء۔ تم

کہتے ہو "اِخْتَرْتُ الثَّغْرَ لِلْبَدَّاءِ وَالرَّجُلَةَ"
 میں نے کھوڑے کو آمد رفت کے لیے کریا پر
 لیا۔ بَدَّوْكَ: جمع ابتداء و بَدَّوْذُ۔
 الْمَبْدَأُ: اصل۔ سبب متبادی۔
 الْمَبْتَدَأُ: پہلا۔ وہ اسم مند الیہ جو عوامل
 لفظیہ سے خالی ہو۔
 بَدَّخَ (ف) بَدَّخًا: بِالْعَصَاءِ: بلا شئی سے مارنا
 بِالْمِيزِ: ظاہر کرنا۔
 تَبَادَخُوا بِالشَّيْءِ: باہم مل کر پھینکانا۔
 الْبَدَّخُ: ج بَدَّخٌ وَبَدَّخٌ وَبَدَّخٌ (وَالْبَدَّاحُ) ج
 بَدَّخٌ وَ(الْبَدَّخَةُ): وسیع زمین۔
 بَدَّخَ (ف) بَدَّخًا: بَدَّخًا وَبَدَّخًا: بَدَّخًا وَبَدَّخًا: بَدَّخًا
 عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (بَدَّيْدُ) ج بَدَّخَاءُ:
 تَبَدَّخَ: عَلَيَّهِ: بڑھانا۔
 بَدَّ (ن) بَدَّوْرًا: إِلَى الشَّيْءِ: جلدی کرنا
 هَالِي الشَّيْءِ: کسی چیز کے لیے کسی سے
 سبقت کرنا۔
 بَادَرَ مَبَادَرَةً وَبَدَّارًا: إِلَى الشَّيْءِ: جلدی کرنا
 الشَّيْءِ: دُفْعًا سے پہلے کرنا۔ تَبَادَرُ فَلَانًا
 الشَّيْءِ وَالْيَهْ: کسی چیز کے لیے کسی سے سبقت
 کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔
 تَبَادَرُ: الْقَوْمَ: جلدی کرنا۔
 تَبَادَرُ وَابْتَدَرُ: الْقَوْمَ: آمْرًا: بعض کا بعض
 سے سبقت کرنے کے لیے بڑھنا۔
 أَبَدَرَ: ماہ کامل طلوع ہونا۔ چودھویں رات میں
 چلنا۔
 الْبَدَّرُ: ماہ کامل۔ چودھویں رات کا چاند طبق۔
 ج بَدَّوْرُ۔
 الْبَدَّارُ: جلدی کرنے والا۔ سبقت کرنے والا۔
 ج تَبَادَرُ۔
 الْبَدَّرِي: جاڑے سے کچھ پہلے کی بارش۔
 الْبَدَّرِي: مسابقت۔ کہا جاتا ہے۔ "اِسْتَفْتِنَا
 الْبَدَّرِي" ہم نے ایک دوسرے سے سبقت
 لے جانے کے لیے دوڑی۔
 الْبَدَّرَةُ: دس ہزار درہم۔ مِنَ الْفَصَالِ:
 بڑی مایت۔ دس ہزار درہم کی گھلی۔ ج بَدَّرُ
 بَدَّرُ کہتے ہیں فَلَانًا يَهْبُ الْبَدَّرُ: فلاں دس
 ہزار کی تحلیاں بہہ کرتا ہے۔

<p>بَذَرُ (ن) بَذَرًا - الْحَبُّ: بَرَا — أَلْعَانَ: كَمَا جَاتَا فِي "بَتَّلَ نَفْسَهُ ذُوْنَ أَوْعَنْ فَلَانٍ" اِسْ لَعْنَ كِي حِمَايَتِ مِي اِي جَان لَزَادِي - صَفَتِ (بَابِلُ وَيَلْقُولُ) اِدِر صَفَتِ مَفْعُولِي (مَبْتَلُولُ) بَذَلَ جَهْدَهُ: پُورِي كُوشِشِ كَرَا (وَابْتَذَلَ) الْقُوْبُ: كَامِ كِي وَقْتِ پَنَتَا يَا رُوْزَانِدِ اِسْتَعْمَالَ كَرَا - كَلَامٌ مُبْتَدَلٌ: كَلِمَاتِ اِي كَثِيْرَ اِسْتَعْمَالَ - مَنِيْفٌ صَدَقِي الْمُنْتَقِلُ: حِيْرَ دِحَارِوَالِ كَلُوَارِ -</p> <p>تَبَذَلَ وَابْتَذَلَ: مَجْهُورَا هُوْنَا - وَقَارِ كِي خِلَافِ كَرَا - اِبْتَذَلَ: رُوْزَانِدِ پِيْنِي كِي كُپُرِي اِسْتَعْمَالَ كَرَا - پَرَا لِي بُو سِيْدِه كُپُرِي پَنَتَا -</p> <p>الْبَذَلُ: عَطَا - بَطَّشَ: زَجَلٌ بَذَلٌ: فَيَاضِ مَرُوْدِ - اَلْبَذْلَةُ: مِيْنَ اَلْقِيَابِ: رُوْزَانِدِ اِسْتَعْمَالَ كُپُرِي - اَلْبَذَالُ وَ اَلْمَبْتَذَالُ: بِيْنَتِ فَيَاضِي كَرِي دُوَالَا - اَلْمَبْتَذَلُ وَ اَلْمَبْتَذَلَةُ: رُوْزَانِدِ اِسْتَعْمَالَ كُپُرِي - پَرَا بُو سِيْدِه كُپُرِي اِسْتَعْمَالَ مَسَائِلِ -</p> <p>بَذَلَغَ بَذْلًا لَعْفًا وَ بَذَلَغَا: قَوْلِ كِي مَطَابِقِ مَعْنِي كَرَا - صَفَتِ مَبْتَذَلِغًا وَ بَذَلَغًا -</p> <p>بَذَمٌ (ك) بَذَمَةٌ: كِي رَا لِي پَرِ بَجَلِي كِي سَاثِدِ وَتِ جَانَا - صَفَتِ مَلِيْمِ -</p> <p>اَلْبَذْمُ: ذُوْرَانِ مَشِي - قُوْتِ - طَلَقِ - رَا لِي كِي مَدْمُگِي - مَرُوْتِ -</p> <p>اَلْمَبْتَذَمُ: مَسْبُوْبٌ اُوْمَشِي -</p> <p>بَذَا (ن) بَذَاؤًا وَ اَبْذَى اِبْتَدَاءً — عَلَيْهِ: فَحْشٌ يَكُنَا -</p> <p>بَذَاؤٌ (ك) بَذَاءَةٌ وَ بَذَاءَةٌ: فَحْشٌ كُو هُوْنَا - صَفَتِ (بَذِي) اِسْتَعْمَالَ مَوْسَمِ (بَذِيَّة) - اَلْبَذَاءُ: بِيُوْدِه كَلَامِ -</p> <p>بَزَا (ن) بَزَاؤًا وَ هَبْرًا وَ اَلْبَذَاءُ: طَاعَمَتِ كَرَا - حَسَنِ سَلُوْكِ كَرَا - خَدَمَتِ كَرَا - صَفَتِ (بَزَا) اِسْتَعْمَالَ اُوْرَادِ (بَزَا) اِسْتَعْمَالَ -</p> <p>بَزَا (س) بَزَاؤًا وَ بَزَاؤَةً وَ بَزَاؤِي: قَوْلِيهِ بِسَبْحِ يُوْنَا — خَالِقَةٌ: طَاعَمَتِ كَرَا — بَزَاتِ اَلْبِيْمِيْنِ: حَسَمِ پُورِي هُوْنَا - بَزَاتِ اَلْمَضَلَاةُ: نَمَازِ كَا مَقْبُوْلٌ هُوْنَا - بَزَاؤُ اَللّٰهُ الصَّلُوَّةُ: نَمَازِ كُو قَوْلِيهِ كَرَا -</p> <p>بَزْوَةٌ: نِيْكِ چَلَنِ قَرَارِ يُوْدِجِ جُوَازِ سِيْدِ اِكْرَا - نَاوَةٌ: حَسَنِ سَلُوْكِ كَرَا - مَهْرِيَانِي كَا پَرَا تَاوُ كَرَا - اَبْرٌ: خَشْكِي كَا سَبْرُ كَرَا — عَلَيْهِ: غَالِبٌ هُوْنَا -</p>	<p>بَذَرُ (ن) بَذَرًا - الْحَبُّ: بَرَا — أَلْعَانَ: فَضُوْلٌ خَرْمِي مِي اَزَاثَا — الْعَلَمُ: مَجِيْلَانَا - اِبْتَاَمَتِ كَرَا -</p> <p>— اَلْاَرْضُ: اِكْرَا -</p> <p>"فَهَبُوا شَذْرَ بَذْرٍ وَ شِيْذَ بَذْرٍ" وَ هِ لُوْكِ هَرِ طَرَفِ مَكْرَمِي كِي -</p> <p>بَذَرُ - أَلْعَانَ: فَضُوْلٌ خَرْمِي مِي مَكْمِيْرَا - صَفَتِ (بَذَرُ) اِسْتَعْمَالَ وَ اِسْتَعْمَالَ -</p> <p>تَبَذَرُ وَ اِبْتَبَذَرُ: مَسْتَرَقٌ هُوْنَا - جَبَذَرُ الْمَاءُ: رَمَكِ يَدَلِ كَرِي اِسْتَعْمَالَ جَانَا -</p> <p>اَلْبَذْرُ: خَمِ رِيْزِي كِي لِي جِي - نَسْلٌ - كَمَا جَاتَا فِي "اِنَّهُ بَذْرٌ شُرُوْبٍ" وَ هِي بَرِي نَسْلِ كَا فِي - جِ بَذْرُوْرٌ يَدَارُ -</p> <p>اَلْبَذْرُ وَ اَلْبِيْذَارُ وَ اَلْبِيْذَارَةُ وَ اَلْبِيْذَارُ: بِيْنَتِ بِيْكِ كَرِي كَرِي دُوَالَا - فَضُوْلٌ خَرْمِي كَرِي دُوَالَا -</p> <p>اَلْبَذْرُ وَ اَلْبِيْذَارُ: مَجْهُولٌ خُوْرِ وَ هِ فَضُوْلٌ جُو اِسْتَعْمَالَ رَا كُو مَجِيْلَانَا كِي - جِ بَذْرُ -</p> <p>اَلْمَبْتَذِرُ: فَضُوْلٌ خَرْمِي كَرِي دُوَالَا -</p> <p>اَلْبَذْرِيُّ: بِاطِلِ - بِيْنَتِ فَضُوْلِ خَرْمِجِ - اَلْمَبْتَذُوْرُ: بِيْنَتِ -</p> <p>بَذْرُقٌ - أَلْعَانَ: مَكْمِيْرَا - فَضُوْلٌ خَرْمِي كَرَا - مَجِيْلَانِي كَرَا -</p> <p>اَلْمَبْتَذِرِيُّ: رَا اِيْمِيْرَ دِيْمَا نِ - رِيْمَا -</p> <p>بَذَعَهُ (ف) بَذَعًا: مَكْمِيْرَا مِي اَلْمَا - ذُرَاثَا - بَذَعُ اِلَاثَاةً: مَرْتِنِ كَا مَكْمِيْرَا -</p> <p>اَبْذَعَهُ: ذُرَاثَا - خُوْرِ دُوَالَا - مَكْمِيْرَا مِي اَلْمَا - اَلْبَذَعُ: مَرْتِنِ سِي نِيَا هُوَالِيَانِي -</p> <p>اَلْبَذَعُ: خُوْرِ - ذُرُ - اَلْمَبْتَذَعُ: خُوْرُوْدِ -</p> <p>اِبْذَعُوْرٌ: مَسْتَرَقٌ هُوْنَا - اِبْذَعُوْرَتِ اَلْمَحِيْلُ: كِي چِيْرِي كِي طَلَبِ مِي دُوْرَا -</p> <p>اَلْبِذَاقُ وَ اَلْبِذَاقِي: اِكْمُوْرُ كَا شِيْرِه قُوْمُوْرَا سَا مَكْمِيْرَا هُوْنَا - اَلْبِيْذَاقَةُ: بِيَاوِي كَرَا -</p> <p>اَلْبِيْذَقِيُّ: سَبْرُ كَارِ مِيْمَا - بِيَاوِي - جِ بِيْذَاقِي -</p> <p>اَلْمَبْتَذِقَةُ: وَ هِ فَضُوْلٌ جِ اِقْوَالِ مَعْنِي سِي مَهْرُو -</p> <p>اِبْذَقُوْرٌ: مَسْتَرَقٌ هُوْنَا - مَجِيْلَانَا - كَمَا جَاتَا فِي - "مَا اِبْذَقُوْرُ اَلْدَمُّ فِي الْمَاءِ" - يَمِيْنِ خُوْنِ يَمَانِي مِي نَسْلِي مَلَا -</p> <p>بَلَسٌ (ن) بَلَسًا - الشَّيْءُ: وَ هِ - سَلُوْتِ كَرَا -</p>	<p>وَبَذُوِيٌّ مَوْسَمٌ بَذُوِيٌّ جِ بَذَاوِيٌّ - اَلْبَذَاوَةُ: بُوَادِي كَا اِنَارَه -</p> <p>اَلْبَذَاةُ: مَكْمِيْرَا - خَاكِ - قَامٌ كَرُوْدِ رَا لِي - جِ بَذَاوَاتِ -</p> <p>بَذَاوَةٌ اَلْاَمْرُ: اِنَارِ مَحَلَّةِ - وَ اَلْبَذَاوَاتِ: مَكْمِيْرَا رَا لِي -</p> <p>بَذَا (س) بَذَاؤًا وَ بَذَاؤًا وَ بَذَاؤَةً وَ بَذَاؤَةً: پَرِ مَحَلِ هُوْنَا - فَحْشٌ حَالِ هُوْنَا - صَفَتِ (بَذَا وَ بَذَاؤًا) مَوْسَمِ (بَذَاؤًا وَ بَذَاؤَةً) -</p> <p>بَذَاهُ (ن) بَذَاهُ: غَالِبٌ هُوْنَا - فَا نِي هُوْنَا -</p> <p>بَذَاهَةٌ: سَبِيْقَتِ كَرَا -</p> <p>اِبْتَبَذَاهَةُ حَقَّةٌ: لِيْمَا -</p> <p>اَلْبِيْذُو وَ اَلْبِيْذِيْنَةُ: فَحْشٌ — اُوْرِ كَمَا جَاتَا فِي - "زَجَلٌ بَذِيْنَةٌ" مَكْمِيْرَا رُوْزِ كَرُوْدِ -</p> <p>بَذَا (ف) بَذَاؤًا - الشَّيْءُ: نَا پَنَدِ كَرَا — اَلشَّخْصُ وَ اَلشَّخْصُ: اَلشَّخْصِي: خَا رَتِ كَرَا فَزَمَتِ كَرَا -</p> <p>بَذَا (ف) وَ بَذَاؤِي (س) وَ بَذَاؤُ (ك) بَذَاءَةٌ: فَحْشٌ كُو هُوْنَا - يُوْرُوفِ هُوْنَا - صَفَتِ (بَذِيْنِي) اَرْضِ بَلُوِيْنَتِي: وَ هِي زَمِيْنِ حَسِ مِي كَمَا سِي - هُو -</p> <p>اَبْذَاؤٌ: فَحْشٌ كُو كَرَا -</p> <p>بَذَاهُ: مَجْهُولٌ كَرَا - فَحْشٌ كُو كَرَا -</p> <p>اَلْبِيْذُجُ: مَكْمِيْرَا كَا مَكْمِيْرَا - جِ بَذَاؤِي جَانِ -</p> <p>بَذَخَةٌ (ف) بَذَخًا: چِيْرَا — اَلْمَجْلَدُ عِيْنِ اَلْعَرَبِي: كَامَلٌ هُوْنَا -</p> <p>بَذَخُ: اَلْمَشْحَابُ: مَرْتِنَا -</p> <p>اَلْبِيْذُجُ: مَجْمُوْمٌ جِ بَذَخُوْحِ: كَمَا جَاتَا فِي - "هِي وَ جِلْمِيْهِ بَذَخُوْحٌ" اِسْ كِي يَاوِي مِي يُوَالِي فِي -</p> <p>اَلْبِيْذُجُ: رَا لُوِي كِي خُرَاشِ -</p> <p>بَذَخُ (س) بَذَخَاؤًا وَ بَذَخُ (ف) بَذَخَاؤًا وَ بَذَخُ (ك) بَذَخَةٌ وَ اَبْذَخُوْرٌ: بَلَدٌ هُوْنَا - مَكْمِيْرَا كَرَا - بِيْرِي شَانِ دُوَالَا هُوْنَا - صَفَتِ (بَذَاؤُ) جِ بُوَاؤِيخِ وَ (بَذِي) جِ بَذَخُوْحِ -</p> <p>بَذَاؤَةٌ: مَجْمُوْمٌ كَرِي مِي مَقَابِلِ كَرَا -</p> <p>اَلْبِيْذُجُ: مَكْمِيْرَا كَرِي دُوَالَا — مِيْنَ اَلْاَوَّلِ: بِيْنَتِ اِلِيْمَا لِي دُوَالَا اُوْنَتِ -</p> <p>اَلْبِيْذَاؤِي: يُوَا -</p> <p>اَلْبِيْذَاؤُجُ: مَوْسَمٌ جِ مَوَالِي مَوْرَتِ -</p>
--	---	---

فائق ہوتا۔ اللہ حُخْتَه: قبول کرنا۔
 التَّيْمَنُ: قسم پوری کرنا۔
 تَبْرُؤٌ: نیک ہونا۔ نیکی کے اظہار کا ارادہ کرنا۔
 تَبْرُؤَةٌ: طاعت کرنا۔
 تَبَارَءَ الْقَوْمُ: ہر ایک کا دوسرے کے ساتھ
 نیکی کرنا۔
 التَّبَوُّ: ساتھیوں سے کنارہ کش ہونا۔
 التَّبَرُّ: اللہ تعالیٰ کے سامنے حسنیٰ میں سے ہے۔
 تَبْوِ كَارٍ: شکستہ زمین۔ ج تبوؤر۔ کہا جاتا ہے
 "جَلَسْتُ بَرًّا" میں گھر سے باہر بیٹھا۔ "خَرَجَ
 بَرًّا" وہ بیابان کی طرف نکلا۔ وَأَرِنْدُ خَبْوًا يُرِنْدُ
 بَرًّا" میں پوشیدگی چاہتا ہوں اور وہ علانیہ (یہ قدیم
 معاشرہ نہیں ہے)
 التَّبْرُ: عطیہ۔ طاعت۔ صلاحیت۔ سچائی۔ نیک
 دل۔ لومڑی کا بچہ۔ چہا۔ بڑا چہا۔
 التَّبْرُ كِيَوْمٍ: واحد (تَبْرَةٌ)
 التَّبْرُ وَالْبَارُ: نیکو کار۔ بھلائی کرنے والا۔ بَرَّتْ
 نیکی کرنے والا۔ سچاچ آئو اور بَرُورَةٌ۔
 التَّبْرِي: ضد۔ عری۔ مِنَ التَّبَاتِ: جنگلی
 مِنَ الْمُخَيَّرَانِ: وحشی۔
 التَّبْرِيَّةُ: جنگل بیابان۔ ج تبواری۔
 التَّبْرَائِي: ظاہر۔ کہا جاتا ہے "مَنْ أَصْلَحَ
 جَوَائِزَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ بَرَائِيَّتَهُ" جو شخص اپنے
 پالمن کو درست کرے گا اللہ اس کے ظاہر کو
 درست کرے گا۔
 التَّبْرِيْتِ: جنگل۔ بیابان۔ ج تبواریت۔
 التَّبْرُ: اسم تفضیل۔ عرب کے قول "أَصْلَحَ
 الْعَرَبُ أَبْرَهُمْ" کا مقصد یہ ہے کہ عرب کا سب
 سے زیادہ فصیح وہ بدوی ہے جو شہر سے بَرَّتْ
 دور ہو۔
 التَّبْرِيُّ: اچھی بات۔
 التَّبْرِيَّةُ: جو نیکی پر ابھارے۔ عطیہ۔ ج
 تَبْرِيَاتٍ وَمَتَابِرٍ۔
 التَّبْرُورُ مِنَ الْأَفْعَالِ: شبہ۔ بھوت خیانت
 سے ظلم۔
 التَّبْرِيُّ: درخت۔ پیلو کا پہلا پھل۔ واحد تَبْرِيوَةٌ
 تَبْرَأَةٌ (ف) تَبْرَاءٌ وَ تَبْرُوءًا: نیست سے
 صحت کرنا۔

تَبْرِي (س) تَبْرُوءًا أَوْ تَبْرَاءَةً مِنَ الْعَيْبِ
 وَالذَّنْبِ: خلاصیانا۔ نجات پانا۔
 تَبْرِيٌّ (س) وَ تَبْرَأُ (ف) وَ تَبْرُؤًا (ك) تَبْرَاءَةً أَوْ
 تَبْرُوءًا مِنَ الْعَرَضِ: شغلیاب ہونا۔ چنگا ہونا۔
 تَبْرَأَةٌ تَبْرُوءَةً: بری کرنا۔ پاک کرنا۔ من
 الشَّهْمَةِ: دور کرنا۔
 التَّبْرَأُ: التَّبْرِيضُ: شفا دنا۔ هُ مِنَ الذَّنْبِ:
 بری کرنا۔ التَّبْرِيضُ: مینے کی پہلی رات میں
 داخل ہونا۔
 تَبْرَأُ أَوْ تَبْرِيكُهُ: شریک سے جدا ہونا اختیار کر لینا۔
 تَبْرَأُ مِنَ الذَّنْبِ: گناہ سے ہزار ہونا۔
 تَبْرَأُ: التَّبْرُؤَانِ: شہر بیوی کا ایک دوسرے
 سے جدا ہونا۔
 التَّبْرِيضُ: قرض یا گناہ سے برآء طلب کرنا۔
 التَّبْرِي وَ التَّبْرِي: خالص۔ خالی۔ گناہ و حسرت
 سے پاک۔ ج تَبْرِيون وَ تَبْرَاءُ وَ تَبْرَاءُ وَ تَبْرَاءُ
 وَ تَبْرَاءُ: مَوْتٌ تَبْرِيَّةٌ وَ تَبْرِيَّةٌ ج تَبْرِيَاتٍ وَ
 تَبْرِيَاتٍ وَ تَبْرِيَا۔
 التَّبْرَاءُ: مینے کی پہلی رات۔ "إِنَّ التَّبْرَاءُ" مینے
 کی آخری رات۔ کہا جاتا ہے "أَنَا تَبْرَاءٌ مِنْ كَذَا"
 میں اس سے بری ہوں۔ (اس کا تشبیہ جمع نہیں اور
 نہ اس کے لیے مَوْتٌ ہے)
 التَّبْرَاءَةُ: شکاری کی جمو نیوی۔ ج تَبْرَاءُ
 التَّبْرَاءَةُ: تَبْرِيٌّ کا مصدر۔ فرمان۔ پروانہ۔ ج
 بَرَات۔
 التَّبْرَائِي: پیدا کرنے والا۔ صحت یاب۔ جس کی
 لاغری ہوتی ہو۔
 التَّبْرِيَّةُ: مطلق۔ ج تبواریا۔
 التَّبْرِيَابِلُ وَ التَّبْرِيَابِيَّةُ: پرندہ کی گردن کے پر۔
 التَّبْرِيَابِي: مرغ۔
 تَبْرَانٌ وَ تَبْرَانٌ وَ تَبْرَانٌ: الطَّلَائِي: پرندہ کا لڑنے
 کے لیے گردن کے پر کھڑے کرنا۔
 التَّبْرِيَجُ: مٹی کا پرنا۔ ج تبواریج
 تَبْرِيوٌ: بک بک کرنا۔ بڑبڑانا۔ صفت (تَبْرِيَا)
 تَبْرِيوٌ: وحشی ہونا۔
 التَّبْرِيوِي: قوم بدر کا ایک فرد۔
 التَّبْرِيوُ: مغربی افریقہ کی ایک قوم۔ اور بنا
 اوقات اس لفظ کا اطلاق رنگیوں اور حشیوں پر

بھی ہوتا ہے۔ ج تَبْرِيوٌ وَ تَبْرِيوَةٌ۔
 التَّبْرِيوِي: شیر۔
 تَبْرِيْسَةٌ: طلب کرنا۔
 تَبْرِيْسُ: کتے کی ماہر چلنا۔
 التَّبْرِيْسُ: گہرا کنواں۔
 تَبْرِيْسُ: الأَرْضُ: شیخہ۔
 التَّبْرِيْبُ: ہمدان (باج)۔
 تَبْرِيْتُ (ش) تَبْرِيْتًا: الشَّيْ: کاشنا۔
 تَبْرِيْتُ (س) تَبْرِيْتًا: حیران ہونا۔
 التَّبْرِيْتُ وَ التَّبْرِيْتُ: گمانی۔ شکر سفید التَّبْرِيْتُ:
 کھانا۔
 التَّبْرِيْتُ وَ التَّبْرِيْتُ: باہر راہبر۔ ج تَبْرِيْتُ
 التَّبْرِيْتَانِ: تاریخی۔ تاریخی کا درخت۔ واحد
 (تَبْرِيْتَانِ)
 تَبْرِيْتُكَ تَبْرِيْتُكَ: التَّبْرِيْتُ: مجازاً۔ کھلے
 کھلے کرنا۔ الشَّيْ: بیوی کی ماہر کاشنا۔
 التَّبْرِيْتُكُ: چھوٹے ٹیلے (جمع ہے اس کا
 واحد نہیں)
 تَبْرِيْتُ (س) تَبْرِيْتًا: خوش حالی میں زندگی بسر کرنا۔
 التَّبْرِيْتُ: نرم و ہموار زمین۔ ج تَبْرِيْتُ وَ تَبْرِيْتُ
 وَ تَبْرِيْتُ۔
 التَّبْرِيْلُ: مِنَ التَّبْرِيْعِ وَ الطَّلِيْرِ: بچہ۔ چنگل ج
 تَبْرِيْلِي۔
 التَّبْرِيْقَةُ: شوکت و قوت۔
 تَبْرِيْجُ (س) تَبْرِيْجًا: کہا جاتا ہے تَبْرِيْجُ
 عَيْلَةٍ: آگھ کا سیاہ اور کشادہ ہونا۔ خوبصورت
 ہونا۔ صفت (تَبْرِيْجُ) اور آگھ کی صفت (تَبْرِيْجَاءُ)
 ج تَبْرِيْجُ۔
 تَبْرِيْجُ الشَّيْ: ظاہر ہونا بلند ہونا۔
 تَبْرِيْجُ وَ تَبْرِيْجُ: مدح ماننا۔
 تَبْرِيْجَتُ: التَّبْرِيْجَةُ: اجنبیوں کے سامنے
 آراستہ ہو کر لگانا۔
 التَّبْرِيْجُ: خوبصورت۔ نمایاں۔ روشن۔ ج
 التَّبْرِيْجُ: استون۔ قلعہ۔ محل۔ منار۔ گنبد۔ ج
 تَبْرِيْجُ وَ تَبْرِيْجُ وَ تَبْرِيْجَةُ: آسماں پر چل
 میں سے ایک۔ آسماں پر چلنے والے جن کے نام یہ
 ہیں۔ حمل۔ ثور۔ جوزاء۔ سرطان۔ اسد۔ سنبلہ۔

میزان - عقرب - قوس - جدی - دلو - اور حوت -

التبّارح: باہر کشی بان۔

التبّارحۃ: بڑی جنگل کشی۔ ج بوارح۔ کتے ہیں "مما فلان لا تبّارحۃ قد جمع لہ کلّ الشجر یعنی فلاں بڑا شجر ہے۔" مستغنیۃ تبّارحۃ" کھلی ہوئی کشی۔

تبّاریح التّبات: نباتات کے پھول۔

الأبویح: دو دوہ بولنے کا آلہ۔

البیرح: موٹا چھاری دار کھیل۔

البیرحیس: ایک ستارہ کا نام جس کو مشتری کہتے ہیں۔ بہت دو دوہ والی اونٹنی۔

البیرحمۃ: ج براجم: انگلیوں کے جوڑ ہاتھ پیر کی چھوٹی چھوٹی ہڈیاں۔ انگلیوں کے جوڑ کی پشت۔

البیرحیم: قبیلہ حمیم کی ایک شاخ۔ "إنّ الشقی والحدّ البیرحیم" ایشہ عرب میں سے ہے اس شخص کے حق میں ہوتے ہیں جولایح کی

وجہ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے۔ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ جب سوید بن ربیع نے عمرو بن ہند کے بھائی کو مار ڈالا تو عمرو بن ہند نے بنو حمیم کے

سو آدمیوں کو جلانے کی قسم کھالی اور بنو دارم (قبیلہ بنی حمیم کی ایک شاخ) کے ننانوے آدمیوں کو قتل کر کے جلانے لگا تو ایک شخص جو براہم میں سے تھا گوشت کے جلنے کی بو پا کر وہاں آ موجود

ہوا۔ عمرو بن ہند نے اس کو بھی قتل کر کے اپنی قسم پوری کر لی۔

بوح (س) بواخا و بواخا۔ المکان و منۃ؛ ہنا۔ جدا ہونا۔ نازل ہونا۔ کہا جاتا ہے "صا بوح ولا بوح ح غیباً" بمعنی ما زال ولا زلت بوح الحففاء، ظاہر ہونا۔

بوح (ن) بواخا۔ الوجل: ٹھپٹاک ہونا (بڑو خا) الصیّد: داہلی جانب سے

گزرنا۔ صفت (بارح و بوح و بویح) بوح۔ بہ الاثر: تمکنا۔ سخت تکلیف دینا۔

اللہ عتک تکلیف دور کرنا۔

ابو حۃ: ہٹانا۔ تقصیر کرنا۔ تعجب میں ڈالنا۔

بارح۔ المکان: جھاڑو۔

البیرح: ج ابواح و التبیریح و البیرحاء؛

تخی۔ تکلیف۔ برائی۔

البیرح: بروشت انگیز معاملہ۔

أثر (بوح): تکلیف وہ معاملہ۔

البیرح: کشادہ زمین جس میں درخت اور عمارت نہ ہو۔ کہا جاتا ہے۔ "لا بواح" کوئی چارہ کار نہیں۔ "وجاءنا الأثر بواخا" معاملہ لمبیاں

طور پر سامنے آیا۔ "وجاء بالکفر بواخا" اس نے کلمہ کلا کفر کا اظہار کیا۔

بواح: بیروزی قطعاً: آفتاب کے لیے علم

البیرح و البیرحۃ: گذشتہ رات۔ البیرحۃ الأثولی: گذشتہ رات سے پہلی رات۔ کہا جاتا ہے "هذه لعلۃ بواحۃ" یہ فعل غلط اور غیر ارادی

ہے۔ بویح: ایک کلمہ جس کو نشانہ میں غلطی کے وقت بولتے ہیں اور مزحی اس کے خلاف ہے۔

البیرح: گرم ہوا۔ ج بواح۔ ابن بویح: کوا۔

البیرح: شفقت ہائے زندگانی۔ کہا جاتا ہے "تبّاریح الشوق" سوز شائے عشق۔

بیرد (ن) بیرد و بیرد (ک) بیردۃ: ٹھنڈا ہونا۔ صفت (بیرد و ہارد و بیرد و ہارد) بیردیت

الارض: اولے پڑا۔ بیرد القزم: سردی لگنا یا اولے پڑا۔ بیرد الحق علیہ اولۃ: حاجت ہونا۔

بیرد فلان: سونا۔ ست ہونا۔ کہا جاتا ہے "جد فی الأثر فم بیرد" اس نے معاملہ میں کوشش کی پھر ٹھنڈا پڑ گیا۔

بیرد (ن) بیرد: العلید: ریتی سے رگڑنا۔ الخبز: روٹی پر پانی ڈالنا۔ العین: ٹھنڈا سرمہ لگانا۔

بیرد (ن) بیرد او بیردۃ: ٹھنڈا کرنا۔ الیوح: تکلیف کو ہلکا کرنا۔ سکون دینا۔

الحق: حاجت کرنا۔ واجب کرنا۔ بردفا اللیل و بیرد علینا: رات کو ٹھنڈک لگانا۔

بیرد: موسم سرمایا اولوں میں داخل ہونا۔

الیہ التبرید: قاصد بھیجا۔ الشقی: ٹھنڈا کرنا۔

بیردۃ العرض: کزور کرنا۔

بیرد: ٹھنڈک چاہنا۔ کہا جاتا ہے "نزل لی

الصبا یتبرد" وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی میں آتا۔

تبازد: کسی کام میں سست ہو جانا۔ ٹھنڈک ظاہر کرنا۔

ایتبرد: ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا۔

استبردۃ: ٹھنڈا پانا۔ استبردۃ علیہ لسانہ: اس نے اس پر زبان درازی کی۔

التبرد: سردی۔ نیند۔

التبردان و الأبتردان: صبح شام

التبرد: اولہ۔

التبردۃ: ایک اولہ۔ بد ہمسی۔

التبرود: سرمہ جس سے آنکھ کو ٹھنڈک پہنچے۔ قوت تبرود: وہ کپڑا جس کی درزا بھری ہوئی ہو۔

التبرود: پانی میں تڑکی ہوئی روٹی۔

التبرود: دھاری دار کپڑا۔ ج تبرود و تبراد و تبرد۔ کہا جاتا ہے "وقع بینہم فلما تبرود یصاۃ" یعنی چادریں ان کے درمیان پھینیں۔

یعنی سب آپس میں جھگڑے۔

التبرود: کالا کھیل۔ واحد تبرودۃ ج تبرود۔

التبرود: ایک قسم کا پودہ جس کی پھال کو قدام ممبرکات کے لیے استعمال کرتے تھے۔

التبرود: ایک قسم کی عمدہ جھوڑ۔

التبرود: ریتی کرتے ہوئے لوہے وغیرہ سے جو کچھ کرے۔

التبرداء: جاڑا بخار۔

التبرداء: پانی ٹھنڈا کرنے کا رتن۔

التبرید: قاصد۔ ج تبرد۔ تقریباً بارہ میل کی مسافت ڈاک خانہ۔

التبرد: فاء عیش ہارد: خرگوار زندگی۔ "غیبۃ ہاردۃ" بغیر جنگ اور شفقت کے حاصل کی ہوئی نعمت۔ حقیقت ہاردۃ: کزور

دلیل۔ المبردات التبراد: تیز کلمے والی کلمہ۔

الابترد: چیتا۔ ج ابارد۔ مؤنث الابتردۃ

التبرد: ریتی۔

التبردۃ: وہ چیز جو ٹھنڈک پیدا کرنے والی ہو۔ کہا جاتا ہے "هذا تبردۃ للتبرد" یہ بدن کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہے۔

"هذان ساقا ابروض" اور جمع کی صورت میں "هؤلاء ساقا ابروض و ابروض" ہوتے ہیں۔

ابروض ناص: چھل۔

الابروض: چھانہ۔

البرص صوم: پکڑے کا وہ ٹکڑا جس سے شیشی بولٹ وغیرہ کے سر کو باندھیں۔

برص (ن) ابروض: الكساء من العنق: تھوڑا ٹکٹا۔

برص (ن) ابروض: الثياب: اکھوٹا ٹکٹا۔

برص و ابروض: المكان: بست اکھوٹا والی ہوتا۔

تبرص: تھوڑی چیز پر زندگی گزارنا۔ الشق: تھوڑا تھوڑا لینا۔ الماء: چوستا۔

الارض: روئیدگی ظاہر ہونا۔

البرص: تھوڑا برص و ابروض و ابروض کہا جاتا ہے "هذا برص من علة" یہ

بنت میں سے تھوڑا ہے۔

البرص: زمین جس میں کچھ نہ آگے۔

البارص: اکھوٹا۔

عین (برص) تھوڑے پانی والا چشمہ۔

البرص و البرص: تھوڑا۔

المبرص: کثرت داد و دہش کی وجہ سے ٹھک دست۔

المبرص و المبرص: بائع اور خریدار کے درمیان دلال۔ المبرص: کرایہ پر

گھوڑوں اور گدھوں کو چلانے والا۔

البرص: پتھر کی چوکت۔ فصیح عربی الاشكفة ہے۔

برطل: برطل: رشوت لینا۔

تبرطل: رشوت لینا۔

البرطل: ٹوٹی۔

البرطل: رشوت۔ لہذا جمع برطل لہذا

برطل: اللیل: تاریک ہونا۔ البرطل: غصہ کی وجہ سے ہونٹ لگانا۔ و تبرطل: غصہ سے پھولنا۔

البرطل و البرطل: ہونٹ ہونٹ والا۔

بروع (ن) و بروع (س) و بروع (ک) برع و بروع: عیلم یا فعلیت یا بمل میں کامل ہونا۔

التبرع: بولگوں کی جماعتیں۔ بڑے راستے کے ارد گرد چھوٹے راستے۔ واحد تبرع۔

برص (س) ابروض: مقروض پر تھی کرتا۔

برص: الارض: نرم ہونا۔

البرص و البرص: روٹی۔

البرص: ایک قسم کی کھجور۔

برص: برسام میں جلا کر دینا۔

البرص: ایک بڑی بیماری۔

برص: برسام میں جلا ہونا۔ صفت (مبصر صم)

برص (س) برص و ابروض: سفید داغوں والا ہوتا۔ صفت (ابروض و مبرص) مکان۔ ابروض: مختلف رنگوں کی بنت نباتات والی زمین۔ مسکتہ

برص: سال جس میں گھاس کی پیداوار بنت ہو۔ البرص و البرص: سفید داغ۔

البرص: سفید داغوں والا۔

برص: اللحم: کانا۔

البرص و البرص: بد خلق۔

برص: اللحم: کانا۔ کلوے کلوے کرتا۔ فلانا بالشرط: کوزے سے مارنا۔

ابروض: شواہد ہونا۔ صفت (مبصر شق)

الشجور: کلی ٹکٹا۔ التور: ٹکٹا۔

برص الجوز: کلوے کلوے کرتا۔

برص و برص و برص: البرص: عم کی وجہ سے خاموش ہونا۔ البرص: تیز نظر سے دیکھنا۔

البرص: برقع۔

البرص: تیز نظر والا۔

برص: الرمسالة: گوند سے چپکانا۔

البرص: گوند لینی۔

برص (س) برص: برص کی بیماری والا ہونا۔

صفت (ابروض) مونت برصاء ج برص۔

ارض برصاء: مختلف جگہوں سے چری ہوئی

زمین۔ صفت برصاء: سفید داغوں والا ساق۔

ابروض: برص کی بیماری میں جلا کر دینا۔

تبرص: الارض: چرا کر بالکل صاف کر دینا۔

البرص: ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے جلد

سفید ہو جاتی ہے اور سخت تکلیف دہ خارش پیدا ہو

جاتی ہے۔

ساق ابروض: چھل۔ تشبیہ کی صورت میں

مبصر و البرص: پالان کے نیچے ڈالنے کا عمل۔

البرص: تھوڑا۔ تھوڑا۔ ترکی گھوڑا۔ ج برص۔

برص الفرس: ترکی گھوڑے کی طرح چلنا۔ تھوڑا

کی طرح چلنا۔ البرص: مغلوب کرنا۔

برص (ن) ابروض: میدان کی طرف لگانا۔

برص (ن) و برص (س) برص: گمائی کے بعد

مشہور ہونا۔ صفت (بارص)

برص (ک) برص: فضل یا شجاعت میں اپنے

ہمسروں سے بڑھ جانا۔ صفت (برص) مونت (برص)

ابروض: ٹکٹا۔ الکتاب: شائع کرنا۔ الرجل: ارادہ سرفر کرنا۔

برص: پائیمانہ کرنا۔ الشق: ٹکٹا۔ ظاہر کرنا۔

الفرص: گھوڑوں کے میدان میں آگے بڑھ جانا۔ الرجل ہی العیلم: ہمسروں سے فاتح ہوتا۔

بارص و البرص و برص: لڑائی کے لیے مقابلہ پر ٹکٹا۔

تبرص: قضائے حاجت کے لیے میدان میں جانا۔

تبارص: مقابلہ پر نکل کر لڑنا۔

المبصر: ٹکٹا۔

البرص: بارز کا صدر۔ آدمی کا پائیمانہ۔

البرص: درختوں سے خالی کشادہ میدان۔ (اس کو قضائے حاجت کے لیے بطور کرایہ کے استعمال کرتے ہیں)

المبصر و المبرص: قضائے حاجت کی جگہ۔

صفت (ابروض): خالص سونا۔

البرص: دو چیزوں کے درمیان کی روک۔

مرنے کے وقت سے دو بارہ اٹھنے تک کا زمانہ۔ ج

براص: براص: ایمان کی ابتداء اور

آخر کے درمیان کی حالت۔ یا شک و یقین کے

درمیان کی حالت۔

البرص و البرص و البرص: نشاط۔ جوانی۔

کریل جوان۔

تبرص: القوم: بغیر گھوڑوں اور آدمیوں کے

جمع ہوتا۔

صفت (بارق)

برقعة: عجم یا صلیت یا جمال میں غالب ہونا۔

برق الخبیل: ہماڑ چڑھنا۔

تبشع بالعطاء: ہمدرد کرنا۔ تبرع کرنا۔

التبریع: عمل و جمال میں کامل۔ تبرق تبریع:

دور سے چمکنے والی بجلی۔

التبرعت: طلقہ در۔

البرعس والبرعس: بہت دودھ دینے والی

اودنی۔ التبرعش: خیتوں پر مہر کرنے والا۔

تبرعش الزجل: کسی کے نیچے چھلانا۔

تبرعشت الخیة: کندلی مارنا۔

التبرعش: بچو کا پتہ۔

تبرعم تبرعمۃ وتبرعم۔ الشجر: ٹھونڈ

لگانا۔

التبرعم والتبرعمۃ: ج تبراعم و التبرعموم

والتبرعمۃ: ج تبراعم: ٹھونڈ ناگفتہ۔ پھل کا

غلاف۔

تبرع (اس) تبرعاً: ناز و نعمت سے زندگی بسر کرنا۔

التبرع: اعلاب۔

تبرعت۔ التمکان: بہت پھولوں والا ہونا۔

التبرعوث: بھونج تبرعوث۔

تبرعوث التبرع: جھینکا۔

التبرعز و التبرعوز و التبرعاز: گائے یا نسل کا

پتہ۔ تبرعز و تبرعوز و تبرعز۔

التبرعش: جھمر۔ واحد (تبرعشۃ)

البرعی والتبرعی: تپ والی کیل۔ ج براعی

فصح عربی لولب ہے۔

التبرعیر: ارغوانی رنگ۔ ارغوانی رنگ سے

رنگا ہوا کپڑا۔

تبرق (ن) تبرقا و تبروقا و تبرقانا و تبرقنا:

التبرقی: ظاہر ہونا۔ الشئی: چمکانا۔ روشن

ہونا۔ الشماء: چمکنی ہوئی بجلی والا ہونا۔

الزجل: دھمکانا۔

تبرقت (ن) تبرقا و تبرقت و تبرقت۔

التمزاة: آراستہ ہونا۔

تبرق (س) تبرقا: تمیر ہونا۔ چندھیا جانا۔ خیرہ

چشم ہونا۔

تبرقة: آراستہ کرنا۔ تبرقی عنینہ وبعینتہ: آنکھ

ہماڑ ہماڑ کرنا۔

التبرق: برق زدہ ہونا۔ دھمکانا۔ دور کا سفر کرنا

بسنیہ: چمکانا۔ عن وجہہ: ہلانا۔

التبرقت الشماء: چمکنی ہوئی بجلی والا ہونا۔

التبرق: بجلی ج تبروقی۔ کہا جاتا ہے تبرقی

خلب و تبرق خلب و برق الخلب: بے بارش

کی بجلی۔

التبرقة: بجلی والا بادل۔ کواہریں۔ مسخاتہ

(تبرقة) بجلی والی ہڈی۔

التبرقة: دہشت۔ خوف۔

التبرقی: گھبراہٹ۔ دہشت۔ بھیڑ کا پتہ۔ ج

التبراق و تبرقان۔

التبرقی: گمراہ۔

زجل (تبروق) ہزدول۔

التبرقة: ج تبرقی و (التبرقی) ج التبرقی: سخت

ترین زمین جس میں ریت گارا تھو۔ اس کی تصغیر

(التبرقی) ہے۔ التبرقی: سیاہ سفید رنگ والا۔

التبراق: اس جانور کا نام ہے جس پر نبی کریم

ﷺ شب سراج میں سوار ہوئے تھے۔ اس جانور

کا نگوں سے بڑا اور ٹھہرے چھوٹا تھا۔

التبریقی: حموراساتیل یا گھی جو کھالے میں ڈالا

جاتے۔

متبرقی: الصبیح: صبح طلوع ہونے کی جگہ۔ ج

متبارق و متبارق۔

تبرق تبرقۃ و تبرقۃ: وجہہ: بد صورت

ہونا۔ التبرق: آلودہ ہونا۔

تبرقۃ تبرقۃ: مختلف رنگوں سے آراستہ کرنا

فی الکلام: بے سروبی کی باتیں کرنا۔

تبرقش: مختلف رنگوں سے آراستہ ہونا۔

التبرقش: ایک لطیف آواز اور رنگین پردوں

والا پرندہ۔

التبرقش: ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے پر کا

ہلالی حصہ خاک اور بیج کا حصہ سرخ اور نیچے کاسیہ

ہوتا ہے اور جب وہ پر نکالتا ہے تو مختلف رنگ

دکھائی دیتے ہیں۔ ہماڑ احمون الزنج کو کہتے ہیں۔

التبرقوش: پھانسا ہونا۔

تبرقظ: قریب قریب قدم سے چلنا۔ مڑ مڑ کر

دیکھنا۔ الکلام: بے ترتیب بولنا۔

تبرقہا: تبرق اور دھمکانا۔

تبرقت: تبرق اور دھمکانا۔

التبرق: تبرق۔

تبرقل: جھومت بولنا۔

التبرقۃ: قول جو عمل سے خالی ہو۔

التبرقیل: ایک قدیم قلعہ جس کا نام آج

التبرقوی: شمشیر۔

تبرک (ن) تبروکا و تبراکا و تبرک

و استبرک۔ التبرک: شہنشاہ۔ تبرک بالتمکان:

اقامت کرنا۔

تبرک فیه: برکت کی دعا کرنا۔

تبارک التبرک: برکت کی دعا کرنا۔ راضی ہونا۔

تبارک اللہ لک و لیک و علیک و تبارکک:

برکت دینا۔ بولتے ہیں "تبارک علی الأنبیاء

و الہم" یعنی ان کی عزت و عظمت جو تو نے

انہیں بخشی ہے برقرار رکھ۔ اور تبرک فیک اس

سائل سے کہتے ہیں جس کو دفع کرنا منظور ہوتا

ہے۔

التبرکۃ: اونٹ کو شہانا۔

التبرک بہ: برکت حاصل کرنا۔

تبارک: یہ: نیک ٹھون لینا۔ اللہ:

مقدس ہونا۔

التبرک: القوم: سمجھوں کے بل بیٹھ کر جگ

کرنا۔ التبرکوا فی العدو: تیر دوڑنے کی

کوشش کرنا۔ فلاناً: ہچھاڑنا اور اپنے سینہ

کے نیچے دیا لینا۔ فی عجزہ و علیہ: کمال

دینا۔ اہانت کرنا۔

استبرک: برکت کی مثال لینا۔

التبرک: سینہ۔ اونٹوں کا گدہ۔ واحد (بارک)

مؤنث (بارکۃ) ج تبروک۔

التبرکۃ: زیادتی۔ بہتت۔ نیک بختی۔ نمو

التبرکۃ: اونٹ کے بیٹھے کی بہت۔ پانی جمع

ہونے کی جگہ۔ حوض۔ ج تبرک۔ دودھ دینے والی

بکری۔ ج تبرکات۔

التبرکۃ: ایک چھوٹا سفید آبی پرندہ۔ پینے

والے کی اجرت۔ ج تبرک و تبرک و تبرکان۔

التبریک: اونٹ۔

التبروک: ہزدول۔ کابوس۔

والے کو دو۔ یعنی کام اس شخص کے سپرد کرو جو اس کی اہلیت رکھتا ہو۔

الْبَزَائِقَةُ وَالْبِرَاءُ: تراشہ۔ چھیلن۔

الْبَرِيَّةُ: مخلوق۔ جن جنور آیتا۔

الْإِنْبِيَّةُ وَالْبَيْرِيَّةُ: سر کی بموسی جو کھسی کرتے وقت گرے۔

الْبُرْءَةُ وَالْمَبْرُوءَةُ وَالْمَبْرُوءَةُ: چاقو۔ تراشنے کا اوزار۔

بُرْءَةٌ (ن) بُرْءٌ بِرْءٍ: چھیننا۔ غالب ہونا۔ الشَّيْءُ مِنْهُ: زبردستی لے لینا۔

إِنْتَرَى مِنْهُ الشَّيْءُ: زبردستی چھین لینا۔

الْبُرْءُ: کٹاں یا روٹی کے کپڑے۔ ہتھیار۔ ج بُرْءُوز۔

الْبُرْءَةُ: کپڑے۔ ہتھیار۔ بیت۔

الْبُرْءَانُ: پارچہ فروش۔

الْبُرْءَاةُ: پارچہ فروشی۔

الْبُرْءَانُورُطُ: پاسپورٹ (جدید) پروانہ راہداری اس کے لیے فصیح لفظ الجَوَازُ ہے۔

بُرْءُوزٌ: تیز چلنا۔ سخت ہانکنا۔ ہانکنا۔ بخت حرکت کرنا۔

الْبُرْءَانَازُ: بھٹی کے سرے پر لوہے کی جو دار صلاح۔

بُرْءُج (ن) بُرْءُجًا: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ عُلَى فُلَانًا: ہراکنا۔ آکسانا۔ ہراگینہ کرنا۔

بُرْءُجَةٌ: آراستہ کرنا۔ خوبصورت بنانا۔

بَارِءُجَةٌ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

تَبَارَءَا: باہم فخر کرنا۔

بُرْءُخ (س) بُرْءُخًا: نکلے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پیٹھ والا ہونا۔ صفت (ابْرُخ) مؤنث (بُرْءُخَاءُ) ج بُرْءُخُ۔

بُرْءُخ (ف) بُرْءُخًا: ظہورُ بِالْعَصَاءِ: بلا شئی سے پشت پر مارنا۔ فُلَانًا: زسوا کرنا۔

تَبَارَءَخَ: عَنِ الْأَمْرِ: پیچھے ہٹنا۔ نکلے ہوئے سینہ اور دھنسی ہوئی پیٹھ والے کی طرح چلنا یا بیٹھنا۔

تَبَارَءَخَتِ الْمَرْءَةُ: بڑے سرین والی ہونا۔ بُرْءُخٌ لَه: فروختی کرنا۔

بُرْءُز (ض) بُرْءُزًا: الخُبْرُوبُ: یونانہ بیج ہمیشہ اور وِبْرُزُ الْقَلْبِ: مسالہ ڈالنا۔ بُرْءُزُ الْإِنَاءَةِ:

الْبُرْءُوسُ: وہ لمبی ٹوپی جو عرب میں پہنی جاتی تھی۔ وہ لباس جس کا کچھ حصہ ٹوپی کی جگہ کام رہے۔

الْبُرْءُيَّةُ: انگریزی ٹوپی۔ بیت (جدید)

الْبُرْءُيَّةُ: مٹی کا برتن۔ جن جنور آیتا۔

بُرْءَةٌ (س) بُرْءًا: بیمار کے بعد جسم کا اصلی حالت پر آنا۔ صفت (أَبْرَةٌ) مؤنث (بُرْءَاءُ) ج بُرْءُ۔

أَبْرَةٌ: دلیل لانا۔

الْبُرْءَةُ وَالْبُرْءَةُ: عرصہ۔ زمانے کا ایک حصہ۔ ج بُرْءُوه و بُرْءَات۔

الْبُرْءِيَّةُ: ہندوؤں کی ایک ذات۔ مفرد (بُرْءِيٌّ)

بُرْءَهُنَّ: الشَّيْءُ وَعَلَيْهِمْ عَهْدٌ: دلیل قائم کرنا۔

تَبْرُءَهُنَّ: دلیل سے ثابت ہونا۔

الْبُرْءَانُ: دلیل۔ ج بُرْءَانِین۔

الْبُرْءُوزُ: چوکھٹا (جدید) اس کے لیے فصیح لفظ کھاف اور اظفار ہے۔

الْبُرْءُوقُ وَالْبُرْءُوقُ: ایک قسم کی گھاس جو محض بادل ہی سے سرسبز ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے

شکل ہے "أَشْجَرٌ مِنْ بُرْءُوقَةٍ" یعنی وہ تھوڑی چیز کا بھی شکر یہ ادا کرتا ہے۔

بُرْءَان (ن) بُرْءُوانٌ: ابْرَاءُ: الثَّقَاةُ: اُدنی کی ناک میں حلقہ ڈالنا۔

الْبُرْءَةُ: حلقہ (خواہ کنگن ہو یا بلبل یا یا زینب ج بُرْءُی و بُرْءَات و بُرْءِن و بُرْءِن۔ کہا جاتا ہے "أَعْظَمَةُ الدُّنْيَا بُرْءُوقَهَا" یعنی دنیا اس کے ہاتھ میں آگئی ہے۔

بُرْءُی (ض) بُرْءُیًا و ابْرُءُیًا: السَّهْمُ أَوْ الْقَلَمُ: تیرا قلم تراشہ۔ صفت مفعلی (بُرْءُیٌّ و مَبْرُءُیٌّ)۔

الشَّخْصُ: ڈیلا کرنا۔ کمزور کرنا۔

بَارِءٌ: الْبُرْءُخُ: آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اِمْرَأَةٌ: فراق کی شرط پر صلح کرنا۔

أَبْرُءٌ: مٹی لگانا۔

تَبَارَءَا: باہم آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔

تَبْرُءُیٌّ: لَمَعْرُوقُهُ: بھلائی کے درپے ہونا۔

ابْرُءُیٌّ: تراشاجانا۔ لَه: پیش آنا۔

الْبُرْءُیُّ: مٹی۔

الْبَارِیُّ: قہ پیداکرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمِ حسی میں سے ہے۔ تیرا کاراٹھنے والا۔ اسمِ عرب میں سے "أَعْطِ الْقَوْمَ بَارِءُهَا" کمان تراشنے

الشَّرَاكُ: پہاڑی لینے والا۔ سینے والا۔ الْفَعْرُوكُ: اونٹ کے بیٹھے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "لَيْسَ بِفُلَانٍ مَبْرُوكٌ جَمَلٌ" یعنی فلاں کے پاس کچھ نہیں۔

الْبُرْءُوكَةُ: بارہ سی۔

الْبُرْءُوكَارُ وَالْبُرْءُوكَارُ: پر کار (جدید)

الْبُرْءُوكَانُ: آتش ٹھکانا۔ ہوا لاکھی (جدید) بُرْءُوكَةٌ: کٹنا۔ پھیلاؤ۔ بُرْءُوكَةُ الْقَرْمُشِ: چاروں

پہروں پر کھڑا ہونا اور گھٹنوں کے بل گرنا۔

بُرْءُوكَةٌ و تَبْرُءُوكَةٌ: الْبُرْءُوكَةُ: چوڑے بل گرنا۔ الْبُرْءُوكَةُ: پست قدم۔

جَبُوعٌ (بُرْءُوكَةٌ) تحت ہموک۔

بُرْءُوم (ن) بُرْءُومًا و بُرْءُومٌ: الْحَبْلُ: دو لڑیوں کو ٹٹنا۔ صفت مفعلی (مَبْرُوءُومٌ و بُرْءُومٌ)۔ الْأَمْرُ: مضبوط کرنا۔

بُرْءُوم (س) بُرْءُومًا: ٹنگ دل ہونا۔ زچ ہونا۔

بُحْبُوبَةٌ: دلیل لگانا۔

أَبْرُءٌ: الْحَبْلُ: بمعنی بُرْءُومُ الْحَبْلِ۔ ہ: زچ کرنا۔ عُلَيْهِ فِي الْجِدَالِ: خاموش

کرنے کے ارادے سے بحث کئے جانا۔

تَبْرُءٌ: زچ ہونا۔

إِنْتَبَرَأَ الْحَبْلُ: رسی کا بٹ جانا۔

الْبُرْءُومُ: درخت خصلہ کا پھل (دیکھئے غصاء) یہ معمول لیم۔ وہ شخص جو محل کی وجہ سے جوئے میں شریک نہ ہو۔ ج ابْرَام۔

الْبُرْءُومَةُ: پتھر کی ہانڈی۔ ج بُرْءُومُ ابْرَام۔

الْبُرْءُومُ: بد اخلاق لوگ۔

الْبُرْءُومُ: چمچڑی۔ ج ابْرُومہ۔

الْبُرْءُومُ: رسی پٹنے والا۔

الْبُرْءُومُ وَالْبُرْءُومُ: دھاکا۔ ہر وہ چیز جو بی جا ہے۔

بُئِي ہوئی رسی۔ التبریم۔ لشکر۔

التبریمة: سوراخ کرنے کا اوزار۔ ہرا۔

الجبریم: نکل۔ ج مَبْرَام۔

المُبْرَمُ: منع قضاء۔ مَبْرَمٌ: اشل فیصلہ۔

المَبْرَمُ: مٹی۔ ج بُرْءُومِیل (جدید)

المَبْرَمُ: مٹی۔ ج بُرْءُومِیل (جدید)

بُرْءُوسَةٌ: برس پھلنا۔

تَبْرُءُوسٌ: برس پھلنا۔

بمرا۔ کتے ہیں "فَلَا نَبْرَزُ كَلَامَهُ وَتَوْبَلُهُ"
 فلاں نے اپنی تنگدلی میں تنگ مریج ملا۔
 النَّبْرُ - حج - خم - واحد (بِرْزَة) حج نَبْرُور - مسالہ -
 حج آنبر - حج آنبر کہتے ہیں "ويفعل لا يتخفى
 عليه أبانزورك" یعنی مجھ جیسے پر تمہاری نہیں
 پوشیدہ نہیں رہ سکتیں۔ النَّبْرُ - رینت -
 النَّبْرُور (النَّبْرُورَاء) بنت اولاد والی عورت -
 النَّبْرُور (حج اور مسالہ کا بیٹے والا -
 النَّبْرُور : سئل کا بے - دھوبی کا تختہ ()
 والنَّبْرُور : دھوبی کی موگری -
 النَّبْرُور : باز پالنے والا - کاشکار - حج بیازرة
 (مغرب)
 بُرْع (ک) بُرْعَاءَةُ - الفَلَام : خوش طبع کی اور
 چست ہونا - صفت (بُرْع) مؤنث (بُرْعَاءَةُ)
 تَبْرَع - الفَلَام : چست و چمڑیلا ہونا - الشُّرُ :
 شروقتہ کا مہر -
 النَّبْرَاع : بغیر جھک کے منگھو کرنے والا لڑکا
 والنَّبْرَاع (من الفَلَمَان : تیز خاطر - جرب
 زبان لڑکا - النَّبْرَاع : شریف آدمی -
 بُرْعَتْ (ن) بُرْعَاءُ وَبُرْعَاءُ - الشَّمْس : طلوع
 ہونا - بُرْعَاءُ النَّجْم : نشترا کا ذمہ - خون ہونا -
 بُرْعَاءُ : النَّبْرَاع : فصل ہمار کا شروع ہونا -
 النَّبْرَاع (بُرْعَاءُ) طلوع ہونے والے ستارے -
 النَّبْرَاع : النَّبْرَاع : شتر -
 بُرْق (ن) بُرْقَاءُ : تھوکتا - الْأَوْض : بونا -
 النَّبْرَاع : تھوک -
 النَّبْرَاع : ایک قسم کا گھونٹا - واحد بُرْقَاءَةُ
 بُرْل (ن) بُرْلَاءُ وَبُرْلٌ - الشُّن : سوراخ کرنا -
 الشُّرَاب : صاف کرنا - بُرْل الْأَمْر : کسی کام کو کر
 گزرا - رائے : کوئی نئی رائے پیش کرنا - کسی
 رائے پر جم جانا -
 بُرْل (ن) بُرْلَاءُ - النَّبْرُور : اونٹ کا جوان ہونا
 نَاب النَّبْرُور : کھلی کا لگانا - صفت مذکر و
 مؤنث (بَارِل) حج بوازیل و بُرْل و بُرْل
 بُرْل و بُرْل : سوراخ ہونا -
 بُرْل و بُرْل : النَّبْرُور : شراب کے برتن
 میں سوراخ کرنا - النَّبْرُور : النَّبْرُور : جسم سے خون
 نکلتا

السَّقَاءُ : منگھ کا کھینا
 اِسْتَبْرَل : الشُّن : کھونا - النَّبْرُور :
 صاف کرنا -
 النَّبْرُور : نختی -
 النَّبْرُور : ایک قسم کا پھاڑی بکرا -
 النَّبْرُور : ہما - سوراخ کرنے کا اوزار -
 النَّبْرُور : شراب کے منگھ کا سوراخ -
 النَّبْرُور : اونٹ کی کھلیوں کا اونٹ - تجربہ کار
 مرد - کتے ہیں "وَمِنْهُ بِأَشْهَبُ بَارِلٌ" وہ شوہار
 معاملہ میں پختہ کیا -
 النَّبْرُور : بڑی مصیبت - عمدہ رائے - کہا جاتا ہے
 "إِنَّمَا بُرْلَاءُ الرَّأْيِ" عمدہ رائے والی عورت -
 "وَحُطْلَةُ بُرْلَاءِ" صاف دواغ طریق کار -
 النَّبْرُور : شراب صاف کرنے کا آلہ - سوراخ
 کرنے کا اوزار -
 رَجُلٌ (بُرْلَاءُ وَبُرْلَاءَةُ) : مرد کو تہ قامت -
 بُرْم (ن) بُرْمَاءُ - عَلِيَّة : گلے والوں سے کاٹنا
 بِالشُّن : أَهْمَاءُ - فَلَا نَبْرُور : چھین
 لینا - النَّبْرُور : انگوٹھے اور شادت کی انگلی
 سے دوہنا - وقر القوس : کمان کے تانت کو
 انگوٹھے اور شادت کی انگلی سے پکڑ کر تیر جانا -
 النَّبْرُور : ساگ یا ترکاری وغیرہ کا مٹھا ہانڈھنے
 کے لیے پتے یا چھلکا -
 النَّبْرُور : دانت -
 بُرْمَاءُ بُرْمَاءَةُ : کبیر کرنا -
 بُرْمَاءُ (ن) بُرْمَاءُ - عَلِيَّة : دراز دستی کرنا (بُرْمَاءُ
 وَأَبْرَاءُ وَأَبْرَاءُ) بہ غالب آنا (بُرْمَاءُ) بُرْمَاءُ بُرْمَاءُ
 وَأَبْرَاءُ (بُرْمَاءُ) کٹے ہوئے سینے اور دھنسی ہوئی
 پیٹھ والا ہونا صفت (بُرْمَاءُ) مؤنث بُرْمَاءُ -
 بُرْمَاءُ : باز کے مشابہ ہونا - سرین اٹھا کر ہاتھ
 ہوئے چلنا -
 النَّبْرُور : شل و نظیر -
 النَّبْرُور : دودھ پینا بیجہ - کہا جاتا ہے "هُوَ بُرْمَاءُ"
 وہ میرا دودھ شریک ہمانی ہے -
 النَّبْرُور : ٹیگ -
 النَّبْرُور : البازو البازوی : باز -
 بُرْمَاءُ (ن) بُرْمَاءُ وَأَبْرَاءُ - الْأَبْل : آہستہ آہستہ
 ہانکنا اور بس بس کرنا - "بُرْمَاءُ فِي الْبِلَادِ"

نکب میں مال کا پھیلاؤ - "بُرْمَاءُ الشُّن" : گھی
 یا زیتون کے تیل میں ستولانا - الْقَوْمُ عَتَلَةٌ
 دھنکارنا - "وَأَبْرَاءُ بِالنَّبْرُور" : روہنے کے لیے
 چکارنا -
 اِنْبَس : زمین پر پانی کا بہنا - الگ ہونا -
 اِنْبَس و اِنْبَس : بلا - کوشش - حج بیساس
 البیسینس : تھوڑا کھانا -
 البیسینس : گھی یا زیتون کے تیل میں ملا ہوا
 ستویا آنا -
 البیسینس : اونٹنی جو بغیر بس بس کے ہوئے
 دودھ دے - حج بیساس -
 بَس و بَس و بَس : بکریوں، اونٹوں، بلیوں
 کے بلانے یا ڈانٹنے کے لیے کلمہ -
 بَسْبَس : بِالْعَنَمِ أَوْ الْأَبْلِ : بس بس کہہ کے
 بلانا - پہ : کسی سے بس کرنا -
 البیسینس : بیابان، بے گھاس پالی والی زمین -
 حج بیساس - تَرَهَاتُ البیسینس و التَرَهَاتُ
 البیسینس : جھوٹی اور باطل باتیں -
 البیسینس : باغ - حج بیساسین - (جدید)
 البیسینس : باغ والا - باغیان - البیسینس : من
 النبات : لگانے ہوئے پودے -
 بَسْت (ن) بَسْتَاءُ : چلنا - کشادہ قدم رکھنا -
 دوڑنے میں سبقت کرنا -
 البیسینس : خادم -
 البیسینس : مٹی کا مریجان -
 بَسْر (ن) بَسْرَاءُ : جلدی کرنا - مغلوب کرنا
 وَأَبْسَر : الْقَرْحَةُ : نچوڑ کر ہانڈھنا
 الْحَاجَةُ : بے وقت طلب کرنا - النَّبْرُور :
 درخت خرما میں گھل از وقت پیوند لگانا
 التَّبَات : ترمکاس چرانا - وَأَبْسَر النَّبْرُور : گدر
 کھجور والا ہونا -
 بَسْر (ن) بَسْرَاءُ وَبَسْرَاءُ : ترش رو ہونا -
 صفت (بَابِ) اور اس وجہ سے شیر کو البیسینس
 کہا جاتا ہے -
 بَسْر و اِنْبَس : الْحَاجَةُ : بے وقت طلب
 کرنا - اِنْبَس بِالْأَمْر : شروع کرنا - الشُّن
 : تازہ لینا - اِنْبَس لَوْثُهُ : بدل جانا -
 البیسینس : ٹھنڈا پانی - کہا جاتا ہے "وَجْهٌ بَسْرٌ"

تجوری چڑھا ہوا چہرہ۔

البسْر: تازہ چیز۔ گدر گجور۔ واحد بَسْرَةٌ ج بَسْرَاتٍ۔ البسْرَةُ: طلوع کے وقت کا آفتاب۔

الباسْمُورج بَواسِمٌ: بوا سیر کی بتاری۔

المبْسُور: بوا سیر کی بتاری والا۔

المبْسِرَات: ہوائیں جن کا چلنا بارش کی علامت ہو۔

بَسَطَ (ن) بَسَطًا: الفَرْب: پھیلاتا۔

الزُّجَلُ کسی کا دل بوجھانا۔ التَّيْدُ: ہاتھ

کشاہ کرنا۔ الفَعْرُ: عذر ظاہر کرنا یا قبول

کرنا۔ المَمَكَانُ القَوْمُ: وسیع ہونا۔

فَلَانًا عَلَيَّهِ: فعلیات دینا۔ السَّيْفُ:

گھوڑا سوتتا۔

بَسَطَ (ك) بَسَاطَةً: بسط ہونا۔ بَسَطَ: بڑھانا ہونا۔

بَسَطَ: الفَرْب: پھیلاتا۔

بَسَطَهُ: کسی سے کھل کر باتیں کرنا۔

تَبَسَّطَ وَالتَّبَسُّطُ: پھیلتا۔ دراز ہونا۔ بے

کلف ہو جانا۔ سیر و تفریح کرنا۔

البِاسِطُ: نا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں

سے ہے۔

البِاسِطَةُ: دور کی مسافت۔

يَدٌ (بَسَطُوا نَسَطًا) کھلا ہوا ہاتھ۔

البَسِطَةُ: وسعت۔ وسوس۔ کمال۔

بَسَطَةُ العَيْشِ: فراخی زندگی۔

البَسَاطُ: چھوٹا۔ فرش۔ ج بَسِطُ۔

البَسَاطُ: کشاہ زمین۔

البَسِيطُ: مفرد۔ کشاہ زمین جہر مذاق۔ بسِيطُ

الوجه: کشاہ رو۔ جس کھ۔

بَسِيطًا التَّيْدُ: قیاض۔ مخی۔ ج بَسِيطَاءُ۔

التَّبَسِيطَةُ: زمین۔ زمین کا ہوا حصہ۔

بَسَقَ (ن) بَسَقًا: تھوکتا۔

بَسَقَ (ن) بَسَقًا: التَّخَلُّ: لمبے تھے اور لمبی

ٹہنیوں والا ہونا۔ صفت (بِاسِقٌ)۔

أَصْحَابِيَّةٌ وَعَلَى أَصْحَابِيَّةٍ: فعلیات میں بڑھ

جانا۔ لہی علمہ: ناہر ہونا۔

بَسَقَهُ: لبا کرنا۔

تَبَسَّقَ: لبا ہونا۔

البِاسِيقَةُ: مؤنث۔ سفید صاف رنگ کا بال۔

مصعبت۔ ج بَوَاسِيقٌ وَبَوَاسِيقُ الشَّحَابِ:

ابتدائی بال۔

بَسَلٌ (ك) بَسَلًا وَبَسَلَةً: ہلکا ہونا صفت

(بَسُولٌ وَبِاسِلٌ ج بَسُولٌ وَبَسُولَةٌ)۔

بَسَلٌ (ن) بَسُولًا: الزُّجَلُ: خستہ یا ہمداری

سے تجوری چڑھانا۔ صفت (بَسُولٌ وَبَسِيلٌ)۔

التَّيْبِذُ: تمیز کا تیز ہونا۔ اللُّحْمُ: گوشت کا

بد پرواز ہونا۔

بَسَلَةٌ (ن) بَسَلًا: علامت کرنا۔ حلال کرنا۔ جائز

کرنا۔ عَن حَاجَتِهِ: منع کرنا۔ روکنا۔

أَبَسَلَهُ: ہلاکت کے لیے جموڑنا۔ رہن رکھنا

اللَّهُ الشَّيْءُ: حرام کرنا۔ هُ الْكَذْبُ:

چس کرنا أَبَسَلْتُ نَفْسِي لِلْعَمَلِ: مرے کے لیے

تیار ہو جانا۔

بَسَلَهُ: ناپسندیدہ بنا دینا (بَسَلٌ وَابْتَسَلٌ نَفْسَهُ

لِلْعَمَلِ: اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر دینا۔

بِاسَلَهُ: لڑائی میں حملہ کرنا۔

بَسَلٌ: خستہ یا ہمداری سے تجوری چڑھانا۔

ابْتَسَلٌ: مرے یا مارے کے لیے جنگ میں

کو پڑنا۔

البَسَلُ: مخی۔ حلال۔ حرام (واحد جمع مذکر و

مؤنث مساوی ہیں) کہا جاتا ہے۔ "هَذَا بَسَلٌ

عَلَيْكَ" یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ اور کہا جاتا

ہے "بَسَلًا لَكَ" اس کے لیے خرابی ہو۔

البِاسِلُ: شیر۔ ج بَوَاسِلٌ۔ اور کہا جاتا ہے "يَوْمٌ

بِاسِلٌ" سخت دن۔ "وَعَضَبْتُ بِبِاسِلٍ" تیز خستہ۔

البَسُولُ: شیر۔

البَسَالَةُ: دلیری۔ ہمداری۔ کراہت۔

الْبِاسِلِيُّ: ایک قسم کی نباتات۔

البَسِيسِلُ: حرام۔ کمرہ چہرہ والا۔ برتن میں

شراب کا تیز۔

التَّبَسِيسَةُ: مخی۔ کسی چیز کا تیز۔

البَسَلَةُ: افسوس کرنے والے کی اجرت۔

بَسَمَ (ض) بَسَمًا وَبَسَمًا: التَّبَسُّمُ وَالتَّبَسُّمُ: مسکراتا۔

صفت (بِاسِمٌ وَبَسِيمٌ)۔

التَّبَسُّمُ: وراثت۔ ج تَبَسُّمٌ۔

التَّبَسُّمُ: التَّبَسُّمُ: مسکراتے والا۔

بَسَمَ: مسکراتا۔

أَبَسَنَ: خوش رنگ و خوش وضع ہونا۔

البِاسِيقَةُ: کارنگروں کے آلات۔ مل کا پھارج

بِاسِنٌ۔

بَشٌّ (س) بَشًّا وَبَشَاشَةً: جس کھ ہونا۔ کشاہ

رو ہونا۔ لِلشَّيْءِ: کسی چیز کو دیکھ کر بشت

ظاہر کرنا۔ بِالصَّلَاتِ: دوست کو دیکھ کر

خوش ہونا۔ صفت (بَشٌّ وَبَاشٌّ وَبَشْوُشٌ

وَبَشَاشٌ)۔

أَبَسَّتِ: الْأَرْضُ: نباتات کا آپس میں گتھ

جانا۔

بَشَّشَ: الزُّجَلُ: بشت ظاہر کرنا۔

تَبَشَّشَ: پہ: کسی سے کشاہ روئی سے پیش

آنا۔

البَشْتِخَةُ: چھوٹا سندوق۔

بَشَّرَ (ن) بَشْرًا: العَجَلَةُ: چھڑا پھیل دینا

الشَّارِبُ: موٹھ موٹھ کر کھال ظاہر کر

دینا۔ العَجْرَاءُ الْأَرْضُ: مٹی کا سب کچھ

کہاجانا۔

بَشَّرَ (ض) وَبَشَّرَ (س) وَابْتَشَّرَ: ابْتَشَّرَ

پہ: خوش ہونا۔ ابْتَشَّرَتِ الْأَرْضُ: اکھوا نکالنا۔

کہا جاتا ہے۔ "بَشَّرَنِي بِوَجْهِ حَسَنِ" وہ مجھ

سے کشاہ روئی سے ملا۔

بَشَّرَهُ: خوش کرنا۔ خوشخبری دینا۔

أَبَشَّرَ: فَلَانًا: خوشخبری دینا۔ خوش ہونا۔

قرآن میں ہے ﴿وَأَبَشَّرُوا بِالْحِجَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ

تُوعِدُونَ﴾ الْأَمْرُ وَجْهَهُ: حسین پُر

روتن بنا دینا۔ الشَّيْءُ: پھیلتا۔

بَاشَرَهُ: الْأَمْرُ: کسی کام کو خود کرنا۔ بَاشَرَهُ

التَّوْبِيعُ: نعمتوں میں پلانا۔ العَجْرَاءُ: جمل

کرنا۔

تَبَاشَرُوا: بِالْأَمْرِ: ایک دوسرے کو خوش

خبری دینا۔

البِشْرُ: چہرہ کی رونق۔ کشاہ روئی۔

البِشِيرُ: خوش خبری دینے والا۔ ج بَشْرَاءُ۔

البِشَارَةُ: حسن و جمال۔

البِشَارَةُ: کمال کا تراشہ۔ یہ ہے جو خوشخبری

دینے والے کو دیا جائے۔

أَلْبِشَارَةُ: خوشخبری۔ ج بَشَارَاتٌ وَبَشَائِرٌ۔

الباصِرَة: آنکھ - ج بواصر - کتے ہیں "خیر
العشاء بواصرہ" بہترین کھانا وہ ہے جو تاریکی
سے پہلے کھالیا جائے۔

الباصر: چھوٹا گول بیالان - ج بواصر -
البصر: کنارہ - روٹی - چھال - بصر کل شیء:
موٹائی - حدیث میں ہے "بصر کل مساء
میسرة تخمسائة عام" ہر آسمان کی موٹائی
پانچ سو برس کی مسافت کے برابر ہے۔

البصر - نرم سفید پتھر
المنبصر والمنبصرة: واضح روشن دلیل -
الذبصر: نگہبان - کہا جاتا ہے "رثبت علی
بئسفانی منبصرًا" میں نے اپنے باغ کے لیے
ایک نگہبان مقرر کیا۔

بضعة (ف) بضعًا: جمع کرنا _____ الماء:
پانی بہنا یا رنا۔

البضع: رات کا کچھ حصہ -
البضع: بے وقوف - انگشت شہادت اور بیچ
والی انگلی کے درمیان کا فاصلہ -

البصیع: بچہ جو جسم سے نکل رہا ہو - ج
بضع

الانضع: بے وقوف - اس کو تاکید کے موقع
پر بھی استعمال کرتے ہیں کہتے ہیں "اخذت
حقنی اجمع انضع" مؤنث (بضعاء) ج
ابضعون وبضع _____ اور اس کو اجمع پر
مقدم نہیں کرتے۔

بضع (ان) بضعًا: توکانا _____ الشاة:
حاملہ بکری کو دوہنا۔

البصاق: تھوک - اور جب تک منہ میں ہو
اس کو بقیہ کہتے ہیں۔

البضقة: بلند سنگلاخ زمین - ج بصاق -
بضلة وبضلة: من ثیابہ: بنگار کا -
بضل القشر: چھلکے کا موٹا ہونا۔

البصل: پیاز - واحد بصلۃ - البصلۃ: بوسے کا
خود اور اسی سے ہے "خبر جواکانہم الاصل
وعلی زؤوسہم البصل" وہ لوگ نظر کو پاک
ڈسنے والے ساتپ ہیں اور ان کے سروں پر خود
ہیں۔ اس قول میں اصل: جمع اصلۃ کی ہے جو
ایک قسم کا ہریلا سا پ ہے۔

کوٹل لگانا۔

البصاصة: آنکھ۔

البصینص: چمک - کھٹی - اور اسی سے ہے
"أفلت له بصینص"
بصینص بصینصۃ: بمعنی بضعص - () _____

وتبصینص، الکلب: ڈم بلانا _____ فلان:
چاپلوسی کرنا۔

بصیر (ک) بصیر - (س) بصیر او بصارة وہ وہ:
جاننا - دیکھنا۔

بصیر (ن) بصیر الشئ: کاٹنا۔

بصیرۃ الأثر: پانچواں - معلوم کرنا - وبصیر:
بصر میں آنا _____ الجرو: بچے کا آنکھیں کھولنا۔

باصر الشئ: دور سے جھانک کر دیکھنا - دیکھنے
میں مقابلہ کرنا۔

ابصیرہ: دیکھنا - بیانا بیانا _____ الزجیل: بصرہ
میں آنا ابصر الطریق: واضح و نمایاں ہونا۔

تبصر: الشئ: غور سے دیکھنا _____ فی
الشئ: سوچنا غور کرنا۔

تبصروا: کسی چیز کو پہلے دیکھ لینے میں مقابلہ
کرنا۔

استبصر - الأثر: ظاہر ہونا _____ الأثر:
ظاہر کرنا - اچھی طرح دیکھنا _____ فینہ: سوچنا۔

تبصر: دیکھنے کی قوت - آنکھ - علم - ج ابصار
_____ کہا جاتا ہے "آتیفہ بین سمع الأرض
وبصیرھا" میں اس کے پاس اس وقت پہنچا جبکہ
کوئی نہیں تھا صرف زمین ہی دیکھنے والی سننے والی
تھی۔

البصیرۃ: ایک شہر کا نام جو باہم لے چلے
دریا سے دو جملہ و فرات کے مغربی کنارہ پر واقع ہے۔
البصیرتان: بصرہ و کوفہ - والبصیرۃ: سخت
زمین - لیس دار مٹی جس میں نکلریاں بھی ہوں - ج
بصار۔

البصیر: دانہ - پیاز - ج بصیراء۔

البصیرۃ: عقل - زیرکی - دانائی - حیرت - شاہد -
حجت - کہا جاتا ہے "خبر ارحہ بصیرۃ علیہ" اس
کے اعضاء اس کے اوپر گواہ ہیں - وفقراسة ذات
بصیرۃ: عجمی فراست۔

بشائر الوجہ: چہرہ کی خوبیاں - بشائر الصبح:
آغاز صبح۔

البشائر: کینہ آوری -
البشر: انسان (مذکر مؤنث واحد جمع) ابو
البشر: حضرت آدم نبی و علیہ الصلوٰۃ والسلام کی
کنیت۔

البشرۃ: کھال کا اوپر کا حصہ - ساگ گھاس - ج
بشر۔

التباشیر: خوش خبری - ہر چیز کی ابتداء۔

البشورئ: خوشخبری -
الشبیرات: بارش کی امید دلانے والی
ہوا لیں۔

بیشع (س) بشعًا وبشاعة الشئ: بدرمزہ
ہونا _____ المزغ: زشت رو ہونا _____
فلان بالآخر: حقیقت میں ہونا۔

تبشع: بے مزہ ہونا بدر صورت ہونا۔
تاپسندی کی ظاہر کرنا۔

استبشعہ: بے مزہ سمجھنا۔

تبشعہ (ض) وبشعہ (س) تبشعًا بالفضاء:
لاحمی سے مارنا۔

البشاق: ایک شکاری پرندہ - ج بواشق
بشک (ان ض) بشکًا: جلدی کرنا - الخبیر:
گھڑا _____ الثوب: دور دور سینا _____ فی
عقلہ: بڑے طریقے سے کرنا۔

إبتشک: جھوٹ بولنا _____ الكلام: گھڑ
لینا۔

البشاک: بڑا چھوٹا۔

بیشم (س) بیشمًا - من الطعام: بدرہمی ہونا
_____ من الشئ: آگاہنا - صفت (بیشم)

البشام: ایک خوشبو دار درخت کا نام جس کی
کڑی سے خلال بناتے ہیں - واحد اس کا بشامة
ہے اور دو فروش اس کے بیج کو حب البشام
کہتے ہیں۔

بش (ض) بصیرتًا وبصا: چمکانا - روشن ہونا
_____ العشاء: رنا - کہا جاتا ہے "بش لیں
بیسیر" اس نے مجھے تھوڑا سا۔

بضعص الجرو: بچے کا آنکھیں کھولنا
_____ الأرض: اکلوا لکنا _____ الشجرۃ:

بَضِّلُ الْفَارِ: جنگلی پياز۔ عوام اس کو بَضِيْلَةٌ کہتے ہیں۔

بَضْم (ن) بَضْمًا۔ الْقَمَاشُ: سامان پر علامت لگانا۔

الْبَضْمُ: خصر اور بھر کے درمیان کا فاصلہ۔
تَوْبُ ذُوْبَضْمٍ: موٹا غف کپڑا۔
رَجُلٌ ذُوْبَضْمٍ: موٹا مرد۔

الْبِضْمَةُ: علامت۔

الْبِضَانُ وَالْبِضَانُ: ماہ ربیع الآخر۔ ج بَضَانَاتُ وَأَبْنَسَةٌ۔

بِضًا (ن) بَضْوًا۔ غَرِيْمَةٌ: قرضدار سے سب کچھ لے لینا۔

الْبِضْوَةُ: چنگاری۔ انگارہ۔

بِضٌ (ض۔ س) بِضَاضَةٌ وَبِضْوَضَةٌ: موٹاپے کے ساتھ پتلے اور نرم چمڑے والا ہونا۔ صفت (بِضٌ وَبِضٌ وَبِضِيضٌ) مَوْنَتُ بِضَّةٌ وَبِضَاضَةٌ وَبِضِيضَةٌ۔

بِضٌ (ض) بِيضًا وَبِضْوًا وَبِضِيضًا۔ الْمَاءُ: تھوڑا تھوڑا ہونا۔ الْحَجَجُ: پانی

رسانا خیل کے لیے کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَائِيضٌ حَجَجُوهُ" یعنی فلاں کے خیر کو حاصل نہیں کیا جا

سکتا۔ الْعَيْنُ: آنسو نکلتا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَائِيضٌ عَيْنُهُ" فلاں کی آنکھوں

سے آنسو نہیں نکلتا۔ یعنی وہ مصیبتوں پر مبر کرنے والا ہے۔ "أَوْتَارَ الْعُودُ" بجانے

کے لیے چھڑنا۔ لُةٌ: دیتا۔

بِضْفًا وَبِضَاضَةً: تھوڑا دیتا یا تھوڑا پانی دیتا۔

أَبِضٌ: لُةٌ: تھوڑی سی چیز دیتا۔

بِضْفٌ بِبِضِيضًا: ناز و نعمت کی زندگی بسر کرتا۔

إِبْتَضَ الْقَوْمُ: ساری قوم کو جا کر دیتا۔

تَبِضْتَنُ فُلَانًا: سب کچھ لے لینا۔ حَقَّةٌ مِنْ فُلَانٍ: تھوڑا تھوڑا کر کے وصول کرتا۔

بِئْرٌ (بِضْوَضٌ): کم پانی والا کنواں۔ ج بِضَاضٌ۔

الْبِضْفُ وَالْبِضَاضَةُ: تھوڑا پانی۔

الْبِضُّ: موٹائی کے ساتھ نرم جسم اور پتلے کمال والا۔ مَوْنَتُ بِضَّةٍ۔ الْبِضُّ وَالْبِضَّةُ: کھٹا

دودھ۔

الْبِضِيضَةُ: جو کچھ کسی کے قبضہ میں ہو۔ کہا جاتا ہے "أَخْرَجْتُ لَهٗ بِضِيضَتِي" میں نے اپنی تمام مملوکہ چیزیں اسے دیدیں۔

الْبِضْوَةُ: رائیگاں۔ اور اسی سے ہے۔ "ذَهَبَ ذَمُّهُ بِضْرًا وَبِضْرًا": اس کا خون

رائیگاں گیا۔

بِضْعٌ (ف) بِضْعًا وَبِضْعٌ: الشَّيْءُ: کاتنا۔ چیرنا۔ نَشْرٌ لگانا۔

بِضْعٌ (ف) بِضْعًا: الْكَلَامُ: سمجھنا۔ الْكَلَامُ: واضح ہونا۔ مِنْ فُلَانٍ: آگیا جانا۔

تک دل ہونا۔

أَبْضَعَهُ الْكَلَامُ: واضح طور سے بیان کرتا۔ أَبْضَعُ الشَّيْءُ: سرمایہ بنانا۔ الْمَرْأَةُ: نکاح

کرتا۔ الْمَاءُ فُلَانًا: سیراب کرتا۔

تَبِضْعٌ وَاسْتَبِضْعٌ: سرمایہ لینا۔ الشَّيْءُ: سرمایہ بنانا۔ تَبِضْعُ الْعَرَقِ: لچبند کا

تھوڑا تھوڑا ہونا۔ اسْتَبِضْعُ الرَّجُلِ الشَّيْءُ: کسی کے لیے سرمایہ بنانا۔

إِنْبِضْعٌ: کھٹا۔ چیرا جانا۔ شگاف دیا جانا۔

بِاضِعٌ مِبْاضِعَةٌ وَبِضَاعًا: الْمَرْأَةُ: جماع کرتا۔

الْبِاضِعُ: لوگوں کے سامان کو اٹھانے والا شمشیر بڑاں۔

الْمِبْضِعُ: نشتر۔ ج مِبْاضِعُ۔

أَلَهُ بِضْعٌ مِنَ الرَّجَالِ: لاغز البِضْعَةُ وَالْبِضْعَةُ: گوشت کا ٹکڑا۔ ج بِضْعُ

وَبِضْعٌ وَبِضَاعٌ وَبِضَاعَاتٌ۔ البِضْعُ وَالْبِضْعُ: رات کا کچھ حصہ۔ تین

سے نو تک کی تعداد۔ کہا جاتا ہے "بِضْعٌ مِثْنَيْنِ وَبِضْعٌ عَشْرَةٌ مِنَ النِّسَاءِ وَبِضْعٌ وَعَشْرُونَ

إِمْرَأَةً" اور مذکر کے لیے بِضْعَةٌ عَشْرٌ مِنَ الرِّجَالِ وَبِضْعَةٌ وَعَشْرُونَ اور بضع کی تقدیم

واجب ہے اس لیے عَشْرُونَ وَبِضْعٌ: کسنا جائز ہوں۔

الْبِضْعُ: گوشت۔ بزیرہ۔

الْبِضَاعَةُ: سرمایہ۔ پونجی۔ ج بِضَائِعُ۔ بَضْمٌ (ن) بَضْمًا۔ الْوَزْعُ: موٹے دانہ والا ہونا۔

الْبِضْمُ: خوشہ۔ لُس۔ کہا جاتا ہے "هُوَ كَرِيْمٌ الْبِضْمُ" وہ کریم النفس ہے۔

بَطَّ (ن) بَطًّا۔ الْجُرْحُ: زخم کو چیرنا۔ شگاف کرتا۔

بَطَّطٌ: عاجز ہونا۔ تھکنا۔

الْبِطُّ: واحد (الْبِطَّةُ) بَطٌّ (بزوارہ دونوں کے لئے) ج يَطُّوْطٌ وَبِطَاطٌ۔

الْبِطَّةُ: بَطٌّ کے شکل کی شیشی۔

الْمِبْطَجُ مِبَاطٌ وَ(الْمِبْطَلَةُ): نشتر۔ شگاف دینے کا اوزار۔

الْبِطَاطَا: آلو (جدید)

بَطَّطَ: الْبِطُّ: آواز کرتا۔ پانی میں غوطہ لگانا۔ الرَّجُلُ: کمزور رائے والا ہونا۔

بَطَّوْ (ك) بَطَّاءٌ وَبِطَاءٌ وَبَطَّوْءٌ وَابْطَاءٌ: دیر کرتا۔ صفت (بِطِيٌّ) مَوْنَتُ بِطِيضَةٍ جِ بِطَاءٌ

أَبْطَأَ وَبَطَّأَ: عَلَيْهِ وَبِالْأَمْرِ: دیر کرتا۔ مَوْخِرٌ کرتا۔

بِاطَاءَةٌ: ٹال مٹول کرتا۔

تَبَطَّأَ وَتَبَاطَأَ فِي سَبْرِهِ: بیچھے رہنا۔

اسْتَبْطَأَهُ: دیر کرنے والا پانا یا سمجھنا۔

الْمَبْطِئَةُ: باعث دیری۔

بَطَّحَهُ (ف) بَطَّحًا: بچھانا۔ مُنَدُّ کے بل گرانے۔

بَطَّحَ: الْبَيْتُ: شکر زنی بچھا کر ہموار کرتا۔

تَبَطَّحَ وَابْطَّحَ وَاسْتَبْطَّحَ: الْوَادِي: پھیلانا۔ کشادہ ہونا۔ ابْطَّحَ الرَّجُلُ: مُنَدُّ کے بل

گرتا۔

الْبِاطِحُ: فَا: مُنَدُّ کے بل گرنے والا۔

الْبِطَّحَاءُ جِ بَطَّاحٌ وَبِطَاطِحٌ وَبِطَّحَاتٌ وَ(الْأَبْطَحُ جِ أَبْطَاحٌ۔ وَ(الْبِطَّاحَةُ جِ بَطَّاطِحٌ وَ(الْبِطَّاحُ): کشادہ ٹال جس میں ریت

اور چھوٹی ٹکڑیاں ہوں۔ الْبِطَّاحَةُ: تندرست۔ مسافت۔

الْبِطَّاحَةُ: خصلت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے

"هَذِهِ بَطَّاحَةٌ صَدِيقٌ"

ہ وَلَہُ : بیٹ پر مارنا۔ بَطْنُ الْأُمِّ : کسی محلہ کی بی بی کو پہنچانا۔ (بَطْنُونَ وَبَطْنَانَةٌ بَطْنَانٌ وَمِنْہُ : کسی کے خواص میں سے ہونا۔ بَطْنٌ (س) بَطْنًا وَبَطْنٌ (ک) بَطْنَانَةٌ : بڑے بیٹ والے ہونا۔ صفت (بَطْنٌ وَبَطْنِيٌّ وَمَبْنَانٌ)۔

بَطْنٌ بَطْنًا : جلائے درد شکم ہونا۔ صفت مَبْنَانٌ۔

بَطْنٌ وَأَبْطَنٌ : القوب : استر لگانا۔ الدَّابَّةُ : ننگ کسنا۔ أَبْطَنَ الشَّيْءُ : پوشیدہ کرنا۔ بَاغْتَنَ : سرگوشی کرنا۔ دوستی کرنا۔ تَبَاطَنَ : الْمَمْكَانُ : دُور ہونا۔

تَبَطَّنَ وَاسْتَبَطَّنَ : الشَّيْءُ : اندر داخل ہونا۔ الْأُمُّ : محلہ کی بی بی معلوم کرنا۔

البطن : بیٹ۔ ہر چیز کا اندرونی حصہ۔ بَطْنٌ الْأَرْضِ : زمین کا پست حصہ۔ مِنْ الْقَوْمِ : گروہ جو قبیلہ سے کم اور عمارت سے زائد ہو۔ ج بَطْنُونَ وَأَبْطَنٌ وَبَطْنَانٌ کہا جاتا ہے "أَلْفَتِ الدُّجَاجَةَ ذَابَطْنِيهَا" یعنی مرغی نے انڈے دیئے۔ "وَصَاحَتْ عَصَا فِيرِ بَطْنِيہُ" یعنی وہ بھوکا ہوا۔

البطن : بیٹ کی بیماری۔ البطن : حریص جس کا نصب العین صرف بیٹ ہو۔

البطننة : ذہر۔ البطننة : زیادتی خوراک کی وجہ سے بہت زیادہ شکم پڑی۔

البطن ج ابطننة و بطن : ننگ جس کو جانور کے بیٹ کے نیچے سے باندھتے ہیں۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا جس کو گھوڑے پر کھینوں سے بچانے کے لیے ڈالتے ہیں۔ کہا جاتا ہے۔ "فَلَانَ عَرِيضُ الْبَطْنِ" فلاں غنی یا آسودہ حال ہے "وَالْتَقَّتْ حَلَقَتَا الْبَطْنِ" محلہ ٹکٹیں ہو گیا اور مصیبت سخت ہو گئی۔

بَطْنَانَةٌ : القوب : کپڑے کا استر۔ الرَّجُلُ : اہل دعیال خاص لوگ۔ بھید۔ ج بَطْنَانٌ : راز دار۔

الباطن : اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے

عَلِيہ : حملہ کرنا۔ ٹوٹ پڑنا۔ صفت (بَاطِشٌ وَبَطَاشٌ وَبَطِيشٌ) : کہا جاتا ہے "فَلَانَ يَبْطِشُ فِي الْعَلْمِ بِبَاعِ بَيْسِطٍ" : یعنی فلاں علم کو بہت جلدی حاصل کر لیتا ہے۔ بَاغْتَنَ : ایک دوسرے کو سختی سے پکڑنا یا حملہ کرنا۔

الْأَبْطَعُ : وہ شخص جس کے نیچے کے سامنے والے دانت گر گئے ہوں۔

البطاقة : خط، پرچہ، پرزہ۔ بَطَاقَةُ الْقَوْمِ : کاندھ کی وہ چٹ جس میں کپڑے کی قیمت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ج بَطَاقِيٌّ۔

بَطَلٌ (ن) بَطْلًا وَبَطُولًا وَبَطْلَانًا : فاسد ہونا۔ بیکار ہونا۔ باطل ہونا۔ صفت (بَاطِلٌ) : بَطَالَةٌ : فی کَلَامِہِ : تسخیر کرنا۔

الفَاعِلُ مِنَ الْعَمَلِ : بیکار ہونا۔ صفت (بَطَالٌ)۔

بَطَلٌ (ک) بَطَالَةٌ وَبَطُولَةٌ : ذہر ہونا، ہمدار ہونا۔ صفت (بَطَلٌ) ج أَبْطَالٌ : مؤنث بَطَلَةٌ۔ ج بَطَالَاتٌ۔

بَطَلَةٌ : باطل کرنا۔ بیکار کرنا۔

أَبْطَلُ : نعو کام کرنا۔ صفت (مَبْطُولٌ) : الشَّيْءُ : ضائع کر دینا۔ باطل کرنا۔ الرَّجُلُ : تسخیر کرنا۔

تَبَطَّلُ : ہمدار بننا۔ بیکار رہنا۔ کہا جاتا ہے "تَبَطَّلُوا بَيْنَهُمْ" انہوں نے اپنے درمیان لغو اور باطل امور کئے۔

البطالة : بیماری۔ کام سے فراغت۔ البطالة : ہمداری۔

الباطل : نا حق۔ ج اباطیل : شیطان۔ جادوگر۔ ج بَطَلَةٌ۔

البطل : باطل۔ جموت۔ اور کہا جاتا ہے "ذَهَبَ دُمَةُ بَطْلًا" : اس کا خون رائیگں گیا۔ البطلات : لغویات۔ فضولیات۔

الانبطالة والانبطولة : باطل۔ البظم والبطم : بن۔ بن کا پھل۔

بَطْنٌ (ف) بَطْنُونَ وَبَطْنًا : پوشیدہ ہونا صفت (باطن)

بَطْنٌ (ن) بَطْنًا : الْوَادِي : داخل ہونا

البطاح : ایک بیماری جو بخار سے پیدا ہوتی ہے اور برسام کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور اس سے ہے (البطاحی)

بَطَحَهُ (ف) بَطْحًا : چاٹنا۔ أَبْطَحَ : بہت خربوزے والا ہونا۔

البطیخ : خربوزہ۔ خربوزہ کی تیل۔ واحد بَطِيخَةٌ۔

المَبْطُخَةُ : خربوزوں کی فالیز۔ ج مَبَاطِخٌ بَطْخَةٌ (ن ض) بَطْخًا : چیرنا۔ ڈھکنا رہنا۔ صفت مفعول (مَبْطُورٌ وَبَطِيورٌ)

بَطِيورٌ (س) بَطْورًا : زیادتی نعمت کی وجہ سے حیران ہونا۔ اترانا۔ الْحَقُّ : تکبر سے قبول نہ کرنا۔ الشَّيْءُ : ناپسند کرنا حالانکہ وہ چیز ناپسندیدگی کے قابل نہ ہو۔

البغمة : جالت یا تکبر سے تحقیر سمجھنا اور ناگھری کرنا۔ صفت (بَطِرٌ)۔

أَبْطَرُهُ : دہشت میں ڈالنا۔ ناگھری گزار بنانا کہتے ہیں "أَبْطَرُهُ ذُرْعَهُ" : اس پر اس کی طاقت سے زیادہ لادویا۔ ذُرْعُهُ أَبْطَرُهُ کی ضمیر مفعول سے بدل استعمال ہے۔

بَطْرًا : رائیگں۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ دُمَةُ بَطْرًا" : اس کا خون رائیگں گیا۔

بَطْرٌ : الدَّابَّةُ : جانور کا علاج کرنا۔ نعل بندی کرنا۔ صفت (مَبْطَرٌ وَبَطِيورٌ وَبِطَارٌ) ج بِيَاطِرُهُ۔

البطيرة : سالوتری کا پیشہ۔ البطيريو : زباں دراز۔ بہت چمچنے والا۔

مؤنث بطيرة۔

البطريشيل والبطرشمين : ایک قسم کا لہبا کپڑا جس کو کاهن ڈیوٹی کے وقت استعمال کرتا ہے۔

البطريق : رویوں کا جرنیل۔ ج بَطَارِيقٌ وَبِطَارِيقٌ وَبِطَارِقَةٌ۔

البطارق : لہبا۔ البطرک والبطريرک والبطرنيک :

پادریوں کا سردار۔ عیسائیوں کے کسی گروہ کا مذہبی سردار۔ ج بَطَارِقَةٌ وَبِطَارِيقٌ۔

بَطَشٌ (ن ض) بَطَشًا : بہ۔ سختی سے پکڑنا

ہے۔ ہر چیز کا اندرونی حصہ۔ پوشیدہ۔ من
الأرضی: پست حصہ۔ من القدم: کوا۔
ج أبطئة ونظنان۔
الباطنة: بید۔
البطین: دور۔ کہا جاتا ہے "شأؤ بطین"
مسافت بیدہ "کینش بطین" بھری ہوئی حملی۔
البطین: بڑے پیٹ والا۔
الظین: چاند کی منازل میں سے ایک منزل
کا نام۔
الغبطین: پتلے پیٹ والا۔
المبطنة: ایک قسم کی کشتی۔
الباطیة: بڑا پیالہ۔ شراب کے لیے شیشہ کا
برتن۔ ج بواطب۔
بَطَّ (ن) بَطَّ: العوذ: بجانے کے لیے چھیننا۔
دورست کرنا۔
ابَطَّ: الزُّجْلُ: موٹا ہونا۔ صفت (بَطَّيظ)
البَطَّ: فِظُّ: کاتال ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ قِظُّ
بَطَّ": وہ سخت مزاج ہے۔
بَطَّرَ (س) بَطَّرَ: الزُّجْلُ: غیر مختون ہونا
صفت أَبَطَّرَ: مؤنث بَطَّرَاء۔ ج بَطَّرَ۔
البَطَّرَ: انگوٹھی۔
البَطَّرَ: رائیگاں۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ دَمُهُ
بَطَّرًا": اس کا خون رائیگاں گیا۔
المُبَطَّرَ: خند کرنے والا۔ مؤنث مُبَطَّرَةٌ۔
بِعَّ (ن ش) بَعَّ: النَّصَاةُ: بکثرت سے برانا۔
التَّبَاعُ: سلمان۔ بادل کا پانی جو ابھی نہ برسا
ہو۔ کہا جاتا ہے "أَلْقَى السَّحَابُ تَبَاعَهُ"
بادل نے سارا پانی برسا دیا۔ "أَلْقَى تَبَاعَهُ
عَلَيْهِ" اس نے اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔
التَّبَعَةُ: جلدی جلدی بولے جانا۔
التَّبَاعِيَّةُ: فقرا جن کے پاس کچھ بھی مال
وجائیداد نہ ہو۔
بَعَّه (ف) بَعَّه وَتَبَعَّاهُ: تمنا بھیجنا
ہو: دوسرے کے ساتھ بھیجنا۔ هُ:
براگینتہ کرنا۔ جوش دلانا۔ کہا جاتا ہے "بَعَّه مِنْ
نَوْمِهِ" اس نے اس کو نیند سے بیدار کیا۔
"وَبَعَّه عَلَى الشَّيْءِ" اس نے اس کو فلاں کام
کرنے پر آسلیا۔ المَبَيْتُ: دوبارہ زندہ

کرنا۔ اور اسی سے "يَوْمُ الْبَيْتِ" ہے بمعنی روزِ
قیامت۔
بَيْعَتُ (س) بَعَّه: نیند سے بیدار ہونا۔
تَبَعَّتْ: الشَّيْءُ: کسی چیز کا تیزی سے ظاہر ہونا
الشَّعْرُ مِنْهُ: شعر کی آمد ہونا۔
تَبَاعَثُوا: عَلَى الشَّيْءِ: ایک دوسرے کو
کرنے پر براگینتہ کرنا۔
ابْتَعَثَ: بِمِجْمَا جَانَا: کسی چیز کا تیزی سے ظاہر
ہونا۔ فِي الشَّيْءِ: جلدی کرنا۔
ابْتَعَثَهُ: بِمِجْمَا۔
التَّبَعْتُ وَالتَّبَعْتُ: فوج: ہر وہ جماعت جو
کسیں بھیجی جائے۔ ج تبعت و تبعتو۔
التَّبَعْتُ وَالتَّبَعْتُ: جس کو غم بیدار رکھے اور
نیند سے اٹھاوے۔
التَّبَاعُوثُ: عیسائیوں کی اصطلاح میں استقامت
کی نماز (کلمہ سرانیہ ہے)
التَّبَاعُوثُ وَالتَّبَاعِيَّةُ: سبب ج بَوَاعِثُ۔
التَّبَعِيَّةُ وَالتَّبَعُوثُ: بھیجا ہوا۔ اٹھایا ہوا۔
يَوْمُ تَبَاعُثٍ: ایک جنگ کا نام جو اوس و خزرج
کے درمیان زمانہ جاہلیت میں ہوئی تھی۔
بَعَثَهُ بَعَثَةً: کھیرنا۔ المَتَاعُ: اَلثَّنَا
پلٹنا۔
تَبَعَثَرُ: اَلثَّنَا پلٹا جانا۔ کہا جاتا ہے "تَبَعَثَرْتُ
نَفْسِي" یعنی میرا نفس مضرب ہو گیا اور حملی
ہونے لگی۔
بَعَّجَ (ف) بَعَّجَا: التَّبَلُّغُ: پھاڑنا۔ صفت
(بَاعِجٌ) صفت مشغول (مَبْعُوجٌ وَبَعِيجٌ) بعج
مذکورہ مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔
ج بَعَّجِي: الأَرْضُ آهَارًا: بہت کوسیں
کھودنا۔ المَنْظَرُ الأَرْضُ بَعَّجَ لِيْنَهَا:
شہرت و قورح کی وجہ سے چھروں کو ظاہر کر دینا
بطنہ لہ: خیر خواہی میں مبالغہ کرنا۔
تَبَعَّجَ وَابْتَعَّجَ: السَّحَابُ: برس کر کھل
جانا۔ الشَّيْلُ: سیلاب کا تیزی کے ساتھ
بڑھنا۔ عَلِيٌّ بِالْكَلامِ: بہت زیادہ باتیں
کرنا۔
التَّبَاعِجَةُ: داوی کا کاشہ حصہ۔ ج بَوَاعِجُ۔
بَعَّدَ (ك) بَعَّدَا وَبَعَّدَ (س) بَعَّدَا: دور ہونا۔

ہلاک ہونا۔ مرنا۔ صفت (بَاعِدٌ) ج بَعَّدُو (بَعْدُ)
مغرور و ج دونوں کے لیے و (بَعِيدٌ) ج بَعَّدَا و
بَعَّدُو وَبَعَّدَانُ۔
أَبَعَّدَ: دُور ہونا۔ (أَبَعَّدَهُ وَبَعَّدَهُ وَبَاعَدَهُ):
دور کرنا۔
تَبَاعَدُوا: ایک دوسرے سے دور ہونا۔
تَبَعَّدَ: دور ہونا۔
تَبَاعَدَ وَابْتَعَدَ وَاسْتَبَعَدَ: عَنَهُ: دُور ہونا۔
اسْتَبَعَدَ الشَّيْءُ: دُور پانا یا کھٹنا۔
التَّبَعْدُ وَالتَّبَعْدُ وَالتَّبَعْدَةُ: دوری۔ رائے و
دور اندیشی۔ بَعَّدَ اللهُ: بد دعا ہے۔ یعنی اللہ اس
کو ہلاک کرے یا خیر سے محروم کرے۔
التَّبَعَادُ: بیدار کی مانند صفت ہے۔ دور۔
بَعَّدَ: حُرْفٌ زَلٌّ ہے بمعنی پچھنے۔ اور اس
کے لیے اضافت لازم ہے اور اگر اضافت نہ
ہو تو ارادہ اضافت کی صورت میں جہی برضہ
ہوتا ہے اور اگر اضافت نیت میں بھی نہ ہو
تو مضمون ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے۔ بَعَّدُو وَبَعَّدَا و
مِنْ بَعَّدَ۔
الأَبَعْدُ: بہت دور۔ خیانت کرنے والا۔ ج
أَبَاعَدُ۔
زُجْلٌ (مِنْ بَعْدَ): بہت دور دور کا سفر کرنے
والا۔
بَعَّرَ (س) بَعَّرَا: الجَمَلُ: نو (۹) سالہ یا چار
(۳) سالہ اونٹ ہونا۔
بَعَّرَ (ف) بَعَّرَا: بیگنی کرنا۔
بَعَّرَ البَعِيَّ وَابْتَعَّرَهُ وَتَبَعَّرَهُ: ساری بیگنی
نکال دینا۔
البَعْرُ وَالبَعْرُ: ج أَبْعَارُ: بیگنی۔ واحد (بَعْرَةٌ)
ج بَعْرَاتُ۔
التَّبَعِيرُ: نو (۹) سالہ یا چار (۳) سالہ اونٹ یا
اوشنی ج بُعْرَانُ وَابْتَعَّرَهُ وَج أَبَاعِيرُ وَابْتَاعِيرُ۔
التَّبَعِيرُ وَالمَبَعِيرُ: بیگنی نکلنے کا عضو۔ آنت
کی چربی۔
بَعَّرَ لَهْ بَعْرَةَ: پرانہ کرنا۔ کھیرنا۔
بَعْضُ: الزُّجْلُ: چھروں سے تکلیف اٹھانا۔
صفت (مَبْعُوضٌ)
بَعْضَهُ: جئے بنانا۔ جزء جزء کرنا۔

تَبَعَضُ : ۲۶۷۲ ہوتا۔

أَبْعَضُ - الْمَكَانُ : مَجموعہ والی ہوتا بہت مَجموعہ والی ہوتا۔ صفت (بعض و متبعوض) بَعْضُ - الشَّيْءُ : کسی چیز کا ایک جزء۔ اور کبھی ایک فرد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے "بَعْضُ اللَّيَالِي" : یعنی راتوں میں سے ایک رات۔ ج۔ أَبْعَاضُ۔

التَّبَعُوضُ : مَجموعہ واحد (تَبَعُوضَةٌ)

بَعَضَ (ف) بَعْظًا - فِي الْجَهْلِ وَالشُّومِ : مبالغہ کرنا۔ زیادتی کرنا الخِيَوَانُ : ذبح کرنا۔

أَبْعَطُ - فَلَانٌ : حد سے بڑھ جانا الخِيَوَانُ : طاقات سے زیادہ کی تکلیف دینا۔ فِي الْجَهْلِ : زیادتی کرنا۔

بَعَقَ (ف) نَ بَعَاقًا - الْمَنْظَرُ الْأَرْضِ : تریزے سے پرکردرا ڈال دینا۔

(بَعَقًا) الْجَمَلُ : اونٹ ذبح کرنا الخِيَوَانُ : کتواں کھودنا۔

بَعَقَ - الرَّقِي : ہلک پھاڑ دینا۔

تَبَعَّقَ وَابْتَعَّقَ وَابْتَعَّقَ - فِي الْكَلَامِ : تیزی کے ساتھ بہت گفتگو کرنا الخِيَوَانُ : مسخا ہوا۔

زور سے برنا۔

البَاقِ : مؤنث۔

البَاقِ : زور سے برنے والا بول۔ جج۔

مَبْتَعَقٌ - الْمَفَارِجَةُ : بیابان میں کشادہ جگہ۔

الْبَعْقُظُ وَالْبَعْقُظُ : پست تہ۔

الْبَعْقُظَةُ : گہریلا کی گولی۔

بَعَكَ (س) بَعَاكَ - الْجِسْمُ : بدن کا ٹھک اور کھردرا ہونا۔

البَاعِجُ : بیوقوف۔

بُعْكَوْكَةٌ - النَّاسُ : لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ الخِيَوَانُ : گری۔

أَلْبَعْكَوْكَةٌ : کسی چیز کا درمیانی حصہ۔

بَعَلَ (ن) بَعَالًا وَبَعُولَةً - الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ : شوہر ہونا۔ بَعَلَتْ الْمَرْأَةُ : شوہر والی ہونا۔

بَعَلَّ (س) بَعَلًا - بِأَمْرِهِ : تھمر ہونا۔ صفت (بَعَلٌ) مَوْتٌ بَعْلَةً۔

تَبَعَّلَتْ - الْمَرْأَةُ : شوہر کی اطاعت کرنا۔

بَاعَلَ - الْقَوْمُ قَوْمًا : آپس میں شادی بیاہ کرنا۔

اسْتَبْعَلَ : الْمَكَانُ : بارانی ہونا۔ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ : شوہر ہونا۔

البَعْلُ - ج بُعُولٌ وَبُعَالٌ وَبُعُولَةٌ : شوہر۔ بیوی کو بَعْلٌ اور بَعْلَةٌ بھی کہتے ہیں۔ البَعْلُ : مالک۔ سردار۔ کہتے ہیں۔ "مَنْ بَعَلَ هَذِهِ النَّاقَةَ" اس اونٹنی کا مالک کون ہے۔ اسی کے لحاظ سے کتالی وغیرہ بت پرست اپنے معبودوں پر لفظ بعل کا استعمال کرتے تھے۔

البَعْلُ مِنَ الْأَرْضِ : بارانی زمین۔ بَعْلَتِكَ : نلک شام کے ایک شہر کا نام۔ نسبت کے لیے بَعْلَتَيْكَ وَبَعْلَتَيْكَ۔

الْبَعِيمُ : ایک بت کا نام۔ لکڑی کی بنی ہوئی مورت۔ موم کی گڑیا۔ رَجُلٌ بَعِيمٌ : شہر نہ کہہ سکنے والا مرد۔

بَعَائِنِي وَبِعُورًا وَبِعِي بَعِيًا : گناہ کرنا۔ خطا کرنا الخِيَوَانُ : نظر بد لگانا الخِيَوَانُ : عَالِيَهُمُ الشُّرُ : کسی کے ساتھ برائی کرنا الخِيَوَانُ : مکتی لینا۔

بَعَّ (ن) بَعَا - الدَّمُ : خون کا جوش میں آنا۔

بَعَغَ بَعِغَةً - البَسَاطُ : چھوٹا روٹنا۔

الْمَبْتَعِغُ : گفتگو میں گڑبڑی کرنے والا۔ بہت جلد باز۔

بَعَتْ (ف) بَعْتًا وَبَاعَتْهُ : اچانک آنا۔ کہا جاتا ہے "لَسْتُ آمِنٌ مِنْ بَعَاتِ الْعَدُوِّ" میں دشمن کے اچانک آجانے سے مامون نہیں ہوں۔

بَعَثَ (س) بَعَثًا : سبزی مائل سفید ہونا۔ گرد اور ہونا۔ صفت (أَبْعَثُ) : مؤنث بھننا الخِيَوَانُ : ایک آبی پرندہ ج بَعَثٌ و أَبَاعَثُ - الْأَبْعَثُ : شیر۔

الْبَعِثَةُ : سبزی مائل سفیدی۔

الْبَعْثَاءُ - مِنَ النَّاسِ : لوگوں کا مخلوط گروہ۔ کہا جاتا ہے۔ "دَخَلْنَا فِي الْبَعْثَاءِ" ہم لوگوں کی جماعت میں داخل ہو گئے۔

الْبِعَاثُ : بتثلبت الباء : سبزی مائل سفید

رنگ کا ایک پرندہ۔ جو گدھ سے چھوٹا اور اڑنے میں سست ہوتا ہے۔ ج بَعْثَانٌ عرب کے قول "إِنَّ الْبِعَاثَ بِأَرْضِنَا يَسْتَسِيرُ" کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پردوس میں رہتا ہے وہ ہماری وجہ سے معزز بن جاتا ہے۔ الخِيَوَانُ : گیہوں۔

بَعَثَرُ - الْقَوْمُ : جوش میں آنا۔ آپس میں مخلوط ہونا۔ بَعَثَرَةٌ : جدا جدا کرنا۔ متفرق کرنا۔ بَعَثَرَتْ نَفْسَهُ وَتَبَعَثَرَتْ : جی مٹلانا۔

الْبِعْثَرُ : بیوقوف۔ بڑے ذلیل ڈول کا اونٹ۔ بَغْدَادُ : عراق کے ایک شہر کا نام جس کو مدینة السلام اور زوراء اور دار السلام بھی کہتے تھے۔

تَبَعَثَدَ : بغداد کی جانب منسوب ہونا۔ بغداد والوں کی مشابہت اختیار کرنا۔

بَعَرَ (س) بَعَرًا وَبَعْرًا : پانی پینا اور سیراب نہ ہونا۔ صفت (بَعِيرٌ وَبَعِيرٌ) ج بَعَارِيٌّ وَبَعَارِيٌّ بَعَرَتْ (ن) بَعْرًا - السَّمَاءُ : برساتنا الخِيَوَانُ : ستارہ گرنا۔

بَعُرَتْ - الْأَرْضُ : بارش ہونا۔

الْبَعْرُ : پیاس جس میں سیرابی نہ ہو۔ (والبعر) : سخت بوجھار۔ کہا جاتا ہے۔ "نَفَرْنَا بَعْرًا" وہ لوگ ہر طرف متفرق ہو گئے۔

الْبَعْرَةُ : پانی کی قوت۔

بَعْرَهُ (ف) بَعْرًا : لاٹھی سے مارنا۔

الْبَعْرُ : سرعت حرکت۔ چستی۔

الْبَاعِزُ : چست۔ فسق و فجور میں منہمک۔

الْبَاعِزِيَّةُ : حریر کی مانند ایک قسم کا کپڑا۔

الْبُؤْعَازُ : آبنائے۔ ج بُوْعَازُ۔

بَعَثَتْ (ف) بَعَثًا - السَّمَاءُ : ہلکی بارش برساتنا الخِيَوَانُ : الصَّبِيءُ إِلَى أُمَّتِهِ : روانا ہو کر متوجہ ہونا۔

بُعِثَتْ - الْأَرْضُ : ہلکی بارش پڑنا۔

الْبَعْثَةُ : ہلکی بارش۔

بَعْضٌ وَبَعْضٌ (ن) (ك) وَبَعْضٌ (س) بَعْضًا : دشمنی کرنا۔ نفرت کرنا (مَا أَبْعَضَنِي لَهُ

النَّبْتُ: أَمَا _____ السَّمَاءُ: لَكَ تَار كَثْرَتِ
سے بارش ہونا _____ الْمَرْأَةُ: بہت اولاد والی
ہونا _____ النِّبْتُ: بہت کھٹل والا ہونا۔ ()
_____ بَقَاً وَبَقَاً وَأَبَقَ عَلَى الْقَوْمِ: بہت
بک بک کرنا۔
بَقِقَ: مَالَهُ: متفرق کرنا۔ (وَأَبَقَ) النِّبْتُ:
بہت کھٹل ہونا۔ وَأَبَقَ وَلَدُ فُلَانٍ: بہت ہونا۔
أَبَقَتِ الْمَرْأَةُ: بہت اولاد والی ہونا _____
السَّمَاءُ: لَكَ تَار بہت بارش ہونا۔
النِّبْتُ: کھٹل۔ پو۔
البَقَاقُ: گھر کا ردی سالن۔ رَجُلٌ بَقَاقٌ
وَبَقَاقَةٌ: بہت بولنے والا مرد۔
بَقِبْتُ بِقَبِيحَةٍ: الْكُؤُزُ فِي الْمَاءِ: بَقِ بَقِ كِ
آواز لگانا _____ الْقُدُزُ: اُبُلَانَا _____
الرَّجُلُ: بہت بک بک کرنا۔
البَقْبَاقُ: بہت بولنے والا۔ کہا جاتا ہے
”رَجُلٌ لَقْلَقٌ بَقْبَاقٌ“: بہت بکواس کرنے
والا۔
البَقْبَجَةُ: کپڑے وغیرہ کی گھمڑی۔ (جدید)
البَقْدُونَسُ: ایک قسم کی نباتات۔
بَقْرَهُ (ف) بَقْرًا: پھاڑنا۔ کھولنا۔ وسیع کرنا۔
بَقْرَ (س) بَقْرًا: نگاہ کا پھرا جانا۔
أَبْقَرَ: الْمَرْأَةُ عَنْ جَيْشِيهَا: ہیٹ چیر کر پچھ
نکانا۔
إِبْتَقَرَ: پھٹنا۔ کھل جانا۔ وسیع ہونا۔
تَبَقَّرَ: الرَّجُلُ: عِلْمٌ يَأْمَلُ فِي زِيَادَتِي وَالِ
ہونا۔
التَّقَرُّ: گائے۔ تیل (اسم جنس) واحد (بَقْرَةٌ)
ج بَقَرَاتٍ وَتَقَرُّ وَتَقَرُّ وَتَقَرُّ وَتَقَرُّ وَتَقَرُّ وَتَقَرُّ
وَأَبَاقِيرٌ. بَقْرُ الْوَحْشِ أَوْ التَّقَرُّ الْوَحْشِيِّ:
تیل گائے۔ جُوذُغُ التَّقَرُّ: سخت بھوک۔ عَيْدُونُ
التَّقَرُّ: ایک قسم کا گھور۔ بَقْرُ الْمَاءِ: گائے کے
مشابہ ایک قسم کی مچھلی۔
البَقْرُ وَالْبَقْرَائِي: جھوٹ۔ مصیبت۔ کہا جاتا
ہے ”جَاءَ فُلَانٌ بِالصُّقْرِ وَالْبَقْرِ وَالصُّقْرَائِي
وَالْبَقْرَائِي“: فلاں شخص جھوٹ اور

کرنا۔ علم کرنا۔ صفت (باغ) ج بَعَاةٌ وَبَغِيَان
_____ السَّمَاءُ: سخت برسانا _____ الْأَمَةُ: زنا
کرنا _____ الْجُنْحُ: سوچنا خراب ہونا
_____ پیپ سے بھرنا۔
إِبْتَغَى وَتَبَغَى: الشَّيْءُ: طلب کرنا۔
أَبْغَاهُ الشَّيْءُ: طالب بنانا۔ طلب کرنے میں مدد
دینا۔ کہا جاتا ہے ”أَبْغَيْتُ ضَالِي“: میری گم
شدہ چیز کی تلاش میں مدد کرو۔
بَاغَتِ الْأَمَةُ بَعَاةً وَبَغَاةً: زنا کرنا۔
تَبَاغَى: الْقَوْمُ: بعض کا بعض پر ظلم کرنا۔
إِبْتَغَى: سسل ہونا۔ آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے
”لَا يَبْتَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ“: تمہارے لیے
مناسب نہیں کہ ایسا کرو۔ (اس فعل کا ماضی
مستعمل نہیں)
إِسْتَبَغَى: الشَّيْءُ: طلب کرنا _____ الْقَوْمُ:
طلب کرنے میں مدد چاہنا۔
أَلْبَغَى: ظلم۔ جنایت۔ گناہ۔ بہت بارش۔ فساد۔
کہا جاتا ہے ”بَوِيءَ جُزْأُهُ عَلَى بَغْيِي“: یعنی
اس کا زخم مندمل تو ہوا لیکن اندر فاسد مادہ باقی
رہ گیا ہے۔
البَغْيَةُ وَالبَغْيَةُ وَالبَغْيَةُ وَالبَغْيَةُ: مرغوب و
مطلوب۔ البَغْيَةُ: حاجت۔
البَغْيِيُّ: بدکار و زنا کار عورت۔ ج بَغَايَا۔ بَغَايَا
البَغْيِيشُ: فوج کے ہراول دستے۔
المَبْتَغَى وَالمَبْتَغَاةُ: طلب کرنے کی نوعیت یا
جگہ۔ کہا جاتا ہے ”بَغَيْتُ الْمَالِ مِنْ مَتَاعَاتِهِ“
میں نے مال کو اس کے موقع سے تلاش کیا۔ جیسے
کہتے ہیں ”أَتَيْتُ الْأَمْرَ مِنْ مَتَاتِيهِ“: میں نے
کام کو اس طرح انجام دیا جیسا دیا جائے۔
المُبْتَغَى: شہر۔
فَتَاةٌ (بَاغِيَةٌ): امام عادل کی اطاعت سے نکلنے
والی جماعت۔
بَقِيَ (ن) بَقَاً: الْمَاءُ مِنْ لَيْلِهِ: پانی کو منہ میں
سے زور سے پھینکنا _____ لَنَا الْعَطَاءُ: بخشش
وسیع کرنا _____ مَالَهُ: بکھیرنا۔ متفرق کرنا
_____ الْعُزَابُ: پھاڑنا (_____ بَقَاً وَبَقُوقًا)

وَمَا أَبْغَضَ إِلَيَّ) سبوی نے کہا کہ جب تم ”مَا
أَبْغَضْتَنِي لَهُ“ کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
میں اس کے نزدیک بہت زیادہ مبغوض ہوں
اور جب مَا أَبْغَضَ إِلَيَّ: کو تو اس کا مطلب
یہ ہے کہ وہ میرے نزدیک بہت زیادہ مبغوض
ہے۔
بَغَضَ إِلَيْهِ: نَفَرْتُ دَلَانًا۔ دشمنی دلانا۔
أَبْغَضَ: دُشْمَنِي كَرَانًا۔ نفرت کرنا۔
تَبْغِضَ إِلَيْهِ: دُشْمَنِي كَرَانًا۔
تَبَاغَضُوا: ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔
البَغِضُ: نفرت۔ دشمنی۔
أَلْبِغَضَةُ وَالبَغِضَاءُ وَالبَغِضَاةُ: سخت
دشمنی۔ البَغِضَةُ: دشمنی کرنے والے لوگ۔
البَغِيضُ: سخت دشمنی رکھنے والا۔
بَغْلَهُمْ (ف) بَغْلًا: باپ کی طرف سے کسی
کی اولاد کو دوغلا قرار دینا۔
بَغْلٌ: بمعنی بَغْلٌ _____ فِي الْمَشْيِ:
تھک جانا۔ عاجز ہونا۔
البَغْلُ: حُمْرٌ ج بَغَالٌ وَأَبْغَالٌ: مَوْنَتٌ بَغْلَةٌ
ج بَغْلَاتٍ وَبَغَالٍ۔
البَغَالُ: حُمْرٌ وَالِا۔ یا پھرا کھنے والا۔
بَغَمْتُ (ف ن ض) بَغُومًا وَبَغَامًا وَ
تَبَغَمْتُ: الظَّنِيَّةُ: بہت نرم آواز نکانا۔ صفت
(بَاغِمَةٌ وَبَغُومٌ) بَغَمَ الرَّجُلُ صَاحِبِيهِ: مہم
گفتگو کرنا۔
بَاغَمَهُ: نرم آواز سے گفتگو کرنا۔
البِقَامُ: ہرن کی آواز۔
البِقَمَةُ: عورتوں کا ہار (کلمہ ترکی ہے) ج
بَغَمٌ۔
بَعَا (ن) بَعُؤًا: الشَّيْءُ: غور سے دیکھنا
_____ عَلَيْهِ: تعدی کرنا۔ زیادتی کرنا۔ صفت
(بَعُؤٌ) البَعُؤَةُ: کچا پھل _____ مِنَ التَّبَاتِ:
شگوفہ جو سفید نکلا ہو۔
بَغَى (ض) بَغَاءً وَبَغْيًا وَبَغْيًا وَبَغْيَةً
الشَّيْءُ: طلب کرنا _____ الرَّجُلُ: حق سے
ہٹ جانا۔ نافرمانی کرنا _____ عَلَيْهِ: دراز دستی

مصیبت لایا۔ یعنی مصیبت کا سبب بنا۔
 البَقِیْرُ: بچوں کا ایک کھیل۔
 البَقَارُ: گائے والا۔ گائے کا چرواہا۔
 الباقِرُ والباقُورُ والبَقُورُ: گاؤں کا روڑ۔
 یہ اسم جمع ہیں۔
 هِنْتَةٌ (باقورة): نخت کو ختم کر دینے والا بڑا
 قند۔

البَقِیْرَةُ والبَقِیْرُ: بغیر آستینوں والی عورتوں
 کی قمیض۔ ناقةٌ بَقِیْرَةٌ: اونٹنی جس کا پیٹ
 چاک کر کے بچے نکالا گیا ہو۔
 البَقْسُ: ایک درخت کا نام جس کی کڑوی
 تخت ہوتی ہے اور اس سے بچے بنائے جاتے
 ہیں۔ واحد (بقسہ)

بَقَطَ (ن) بَقَطًا: متاعہ: سز کے لیے جمع
 کرنا۔ متفرق کرنا۔ فلانًا بَسَطْتَهُ: تھامی
 یا چوتھائی پیداوار کی شرط پر دینا۔

بَقَطَ لِي الْجَبَلُ: چرنا۔
 الشَّيْءُ: متفرق کرنا۔

تَبَقَطَ الشَّيْءُ: تھوڑا تھوڑا لیتا
 اَلْحَبِيزُ: تھوڑا تھوڑا حاصل کرنا۔

البَقَطُ: توڑنے کے وقت کی گری ہوئی
 کھجوریں۔ متفرق جماعت۔
 البَقَاطُ: پیر کا گلہ۔
 البَقَطَةُ: زمین کا ایک حصہ۔

بَقَع (س) بَقَعًا: الظَّلْمُ: مختلف رنگ والا
 ہونا۔ صفت (أَبْعَع) مؤنث بقعاء ج بَقَع
 فلانٌ بالشيءِ: اکتفا کرنا

الأَرْضُ مِنْهُ: خالی ہونا۔
 بَقَع (ف) بَقَعًا وَبَقَعٌ: جانا۔ تم کہتے ہو "ما
 أَذْرَى أَيْنَ بَقَعٌ" میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔
 بَقَعُ الثُّرْبِ: رکٹے ہوئے سفید داغ
 چھوڑنا۔

تَبَقَعٌ: داغدار ہونا۔ تَبَقَعَتِ الثَّيَابُ:
 کپڑوں پر پانی کے چھینے اس طرح ڈالے گئے
 کہ باقی رہے ہوئے بے رنگ شک حصے بھی
 تر ہو گئے۔

إِبْتَقِعَ: تیز جانا۔
 ابْتَقِعَ: لَوْنُهُ: خوف یا غم سے بدلے ہوئے
 رنگ والا ہونا۔ (أَمْتَقِعَ مِمَّ سے زیادہ صحیح ہے)
 البَقْعَةُ والبَقْعَةُ: زمین کا ٹکڑا۔ ج بَقَاعُ و
 بَقَعٌ: کہا جاتا ہے "فلانٌ حَسَنُ البَقْعَةِ عِنْدَ
 الأَمِيرِ": فلاں امیر کے پاس اچھے رجہ والا ہے۔
 وَالبَقْعَةُ: پانی جمع ہونے کی جگہ۔

البَقِيعُ: وہ جگہ جہاں مختلف قسم کے درختوں
 کی جڑیں ہوں۔ إِبْنُ بَقِيعٍ: کتا۔
 الباقِعةُ: الباقع کا مؤنث۔ ہوشیار و ذہیرک
 مرد جس کو فریب نہ دیا جاسکے۔ ج بَوَاقِعُ کہا جاتا
 ہے "مَنْ فُلَانٌ إِلَّا بِبَاقِعَةٍ مِنَ البَوَاقِعِ": یعنی
 فلاں بڑا چالاک ہے۔

الأَبْقَعُ: سیاہ سفید داغوں والا۔ مؤنث بقعاء۔
 ج بَقَعٌ: کتا جس میں سیاہی سفیدی ہو۔ ج
 بَقَعَانٌ: سَنَةٌ بَقَعَاءٌ: سال جس میں سرسبز
 و خشک سالوں دونوں ہوں۔

الأَبْقِعُ: کم بارش والا سال۔
 بَقَلَ (ن) بَقَلًا وَبَقُولًا وَبَقَلٌ: ظاہر ہونا
 نَابُ البَقِيعِ: لکنا۔ المَكَانُ:

سبزی آگنا۔ صفت (بالل و بقل و بقیل)۔ وَجْهٌ
 الغُلامِ: سبزہ آناز ہونا۔ بَقَلَ لَبِيعِيهِ بَقَلًا:
 ساگ پات جمع کرنا۔ وَأَبْقَلَ القَوْمُ: سبزی پانا
 قوم کے موٹی کا سبزی کو چرنا۔
 بَقَلَ: وَجْهٌ الغُلامِ: سبزہ آناز ہونا۔
 تَبَقَلَ وَابْتَقَلَ: سبزے کی تلاش میں جانا
 المَناحِيةُ: سبزہ چرنا۔

البَقْلُ: سبزی۔ تَرَكَارِي: ج بَقُولٌ وَأَبْقَالَ
 البَقْلَةُ: البَقْلُ کا واحد (بَقْلَةُ الخُمُقَاءِ وَ
 بَقْلَةُ الثُّرْمَاءِ وَبَقْلَةُ اللَّيْتِ) حرف کا ساگ۔
 البَقْلَةُ البَارِدَةُ: مشق پیچہ۔
 بَقْلَةُ الأَنْصَارِ: کرم کلا۔

الباقِلَاءُ والباقِلِيُّ والباقِلِيُّ: لوبیا۔ أَرْضٌ
 (بَقْلَةٌ وَبَقِيلَةٌ وَبَقَالَةٌ وَبَقْلَةٌ) سبزی والی
 زمین۔
 البَقَالُ: سبزی فروش۔

المَبْقَعَةُ: سبزی کی جگہ۔
 البُقَالُ والباقُولُ: بویام۔ مٹی کی دوات۔
 ج بَوَاقِيلُ۔
 بَقِمُ الثُّرْبِ: کپڑے کو ختم سے رکنا۔
 البَقِمُ: ایک قسم کی کڑوی جو کپڑے رکٹے
 میں کام آتی ہے۔
 البَقِمُ: دستورا۔

البَقَامَةُ مِنَ الضُّوْفِ: اُون جو دھننے میں
 گر جائے اور کاسٹے کے قابل نہ ہو۔ کمزور بے
 عقل مرد۔
 بَقَا (ن) بَقَاوَةٌ وَبَقِي (ض) بَقِيًا: فلانًا
 بَقِيِيهِ: دیکھنا۔ نَظَرُوا لَنَا _____ هُ: انتظار کرنا۔
 بَقِي (س) بَقَاءٌ وَبَقِي (ض) بَقِيًا: ہمیشہ
 رہنا۔ ثابت رہنا۔

أَبْقَى عَلَيْهِ: رحم کرنا۔ مہربانی کرنا۔ _____
 وَبَقِي وَتَبَقَّى وَاسْتَبَقَى: هُ: ثابت کرنا۔ باقی
 رکھنا۔ اسْتَبَقَى مِنْهُ: کچھ باقی رکھنا۔ تَبَقَّى:
 باقی رہنا۔

الباقِي: فا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمے حسنیٰ میں
 سے ہے۔

الباقِيةُ: الباقی کا مؤنث۔ ج الباقیات
 والباقِیةُ۔

البَقْوَى والبَقْوَى والبَقِيَا والبَقِيَّةُ: باقی
 ماندہ۔ ج بَقِيَانًا: کہا جاتا ہے "فلانٌ بَقِيَّةٌ
 قَوْمِيهِ" فلاں اپنی قوم کے بہتر لوگوں میں سے
 ہے۔

المَبْقِيُّ: بقا۔ زنگالی۔ ج المَبْقِیةُ۔
 بَكَّةُ (ن) بَكًا: مزاحمت کرنا۔ الشَّيْءُ:
 چھڑانا۔ فُحٌّ کرنا۔ الدَّابَّةُ: چلا کر تھکانا۔
 بَلَكَ الرَّجُلُ: محتاج ہونا۔
 تَبَاكَ القَوْمُ: بھوم کرنا۔ الشَّيْءُ:
 تو بر تو ہونا۔

البائِكُ: فا۔ بیوقوف۔
 بَكَّةٌ: بک کرنا۔
 بَكَبَكَ وَتَكَبَكَ: القَوْمُ عَلَيْهِ: بھوم کرنا
 جَمَعَ (بَكَبَكَ): بہت بڑی جماعت۔ وَجُلَّ

بَكَبَكَ وَتَكَبَكَ: القَوْمُ عَلَيْهِ: بھوم کرنا
 جَمَعَ (بَكَبَكَ): بہت بڑی جماعت۔ وَجُلَّ

بَنَكَا: سخت مزاج مرد۔

بَكَاتٌ (ف) وَبَكْوَةٌ ث (ك) بَنَكُوا وَ بَكَاءٌ وَ بَكَاءٌ وَبَكَاءٌ: کم دودھ دالی ہونا۔ البئر: کم پانی والا ہونا۔

العین: کم آنسو دالی ہونا۔ صفت (بکیئ و بکیئة و بکی و بکیئة) ج بکاء و بکابا۔ اُئید بکاء: کم دودھ دالے والے ہاتھ۔

بکیئ (س) بَنَكَا: اپنی حاجت سے محروم رہنا۔

أَبَكَاءُ: اللذر: کم پانا۔

البکاء و البکاء: ایک قسم کی نباتات۔ واحد بکاء۔

بَنَكَةُ (ن) بَنَكَا: تلوار یا لاطھی سے مارنا۔

حجت میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "بَنَكْتُه حَتَّى أَمْسَكْتَهُ": وہ اس پر حجت میں غالب رہا یہاں تک کہ اس کو خاموش کر دیا۔

بَنَكْتُه: بمعنی بَنَكْتُه زجر کرنا۔ سرزنش کرنا۔ جھڑکنا۔ اور اسی سے ہے تَبَكَّيْتُ الضَّمِيرَ۔

بَكَّرَ (س) بَكَّرَا: اِلَى الشَّيْءِ: جلدی کرنا۔

بَكَّرَ (ن) بَكَّرُوا: آگے بڑھنا۔ عَلَيْهِ وَآلِهِ: صُحُج کے وقت آنا۔ فِي الشَّيْءِ: صُحُج سویرے کرنا۔

أَبَكَّرَ وَبَكَّرَ: آگے بڑھنا۔ جلدی کرنا۔ فَلَانًا: صُحُج کے وقت آنا۔ بَكَّرَهُ عَلَيْهِم: کسی کو صُحُج سویرے بھیجنا۔ بَكَّرَ الْمُضَلِّي: اَزَل وقت میں نماز کے لیے آنا۔

بَكَّرَهُ: آگے بڑھنا۔

إِبْتَكَّرَ: کسی چیز کے ابتدائی حصہ پر قابض ہونا۔ فَلَانًا: صُحُج کے وقت آنا۔

الْبَاكِرُ: قَا: آتَاہُ بَاكِرًا: وہ اس کے پاس صُحُج کے وقت آیا۔

البکیر: والدین کا پہلا بچہ۔ (نذر کرد مونت) دونوں کیلئے ہے) جوان گائے: کنواری۔ ہر چیز کا اول۔ ج ابکار۔ البکیر: ہر فعل کہ اس جیسا اس سے پہلے نہ ہوا ہو۔ الضَّرْبَةُ البکیر: تلوار

کا دار جو قائل ہو۔ كَرَمٌ بَكْرٌ: پہلا دانہ انکور کا۔ ناز بکیر: آگ جس میں سے ابھی کچھ لیانہ گیا ہو۔ خَلُّ بَكْرٌ: تیز سرک۔ الذَّرَّةُ البَكْرُ: ذر ناسف۔

البکیر۔ جوان اونٹ۔ ج أَبَكَّرَ وَ بَكَّرَان وَبَكَارٌ وَبَكَارَةٌ۔ مَوْتٌ بَكْرَةٌ ج بَكَار۔

البکیرة۔ صُحُج۔ تم کہتے ہو "أَبَيْتُهُ بَكْرَةً" میں اس کے پاس صُحُج کے وقت آیا۔

البکیرة و البکیرة: ذنی سامان اتارنے چڑھانے کی چرخی۔ ج بَكَّرَ وَ بَكَّرَات۔ کہا جاتا ہے "والبکیراتُ شَرُّهُنَّ الضَّائِمَةُ" چرخیوں میں سے بڑی وہ ہے جو کھوسے نہیں۔ البکیرة: جماعت۔ اور اسی سے ہے "جَاءَهُ وَاعْلَى بَكْرَةً أَبَيْتُهُمْ" وہ سب کے سب آئے کوئی بھی باقی نہیں رہا۔

البکیرة: دو شیریں۔ کنواریاں۔

البکیرة و البکیرة: البکیر کا اسم۔

البکیرة: پہلا میوہ۔ ہر چیز کا پہلا۔ ج بَوَاكِرٌ وَبَاكِرَات۔

البکیر و البکیر و البکیر: ہر چیز میں سے پہلے تیار ہونے والا۔ موسم بہار کی ابتدا کی بارش۔

البکیرة: پھل یا درخت خرما جو پہلے تیار ہو جائے۔ ج بَكَابِر۔

المُبَكِّرُ: قَا: موسم بہار کی پہلی بارش۔

المُبَكِّرُ: پھل یا درخت خرما جو پہلے تیار ہو جائے۔ اَزْطٌ مَبَكَّرٌ: جلدی آگانے والی زمین۔ ج مَبَاكِرٌ۔

بَنَكْتُه (ن) بَنَكَا: مغلوب کرنا۔

بَنَكْتُه (ف) بَنَكَا: بدن کے مختلف حصوں پر سخت مارنا۔ حجت سے مغلوب کرنا بد سلوکی سے پیش آنا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَذْرِي أَيْنَ بَنَكْتُ" میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ وَبَنَكْتُ الشَّيْءَ: بخش دینا۔

بَنَكْتُه: کھلے کھلے کرنا۔ حجت سے مغلوب کرنا۔ وَجَلُّ (أَبَكُّغ) ہاتھ کٹا مرو۔

بَنَكَلٌ (ن) بَنَكَلًا وَ بَنَكَلٌ: الشَّيْءُ: ملانا

الرَّجُلُ: آتَا: ستو: گھی ملا کر کھانا تیار کرنا۔

تَبَكَّلَ: فِي الْكَلَامِ: مَزِيدٌ لَتَكَلَّمَ كَرْنَا هُوَ عَلَيْهِ: گال گلوچ مار بیٹ سے غالب آنا۔

الشَّيْءِ: غَيْمَتٌ سَجَّهَ كَرِيْنَا الرَّجُلُ: خُوش مِشِي كِي زَنْدِ كِي سَر كَرْنَا فِي مَشِيئِهِ: ناز سے چلنا۔

إِبْتَكَّلَ: الشَّيْءِ: غَيْمَتٌ سَجَّهَ كَرِيْنَا أَلْبَكَلَةُ: حَال۔ بِيْت۔ شَكْل وَ صُورَت۔ طَبِيعَت۔ ج بَكَلٌ۔

البكائلة و البكيلة: ایک قسم کا کھانا جو آتَا ستو: گھی یا روغن زیتون ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ البكيلة: غَيْمَت۔

بَكِمٌ (س) بَكَمًا وَ بَكَامَةً: گونگا ہونا۔ صفت (أَبَكِمٌ ج بَكَمٌ وَبَكِيمٌ ج بَكِيمَان۔

بَكِمٌ (ك) بَكَامَةً: جان بوجھ کر خاموش ہونا۔

تَبَكَّمَ: الْكَلَامِ عَلَيْهِ: مَنكُوكَا بِنْدُ هُوَا جَانَا بَكِي (ض) بَكَاءٌ وَ بَكِي۔ رونا۔ صفت

(بَاكٌ) ج بَكَاة۔ مَوْتٌ بَاكِيَةٌ ج بَاكِيَاتٌ وَ بَوَاكٍ۔

بَكِي وَبَكِيٌ: المَيْتُ: میت پر رونا۔ بَكِي وَبَكِيٌ وَاسْتَبَكِي: الرَّجُلُ: زلانا۔ تَبَاكِي: رونے کی صورت بنانا۔ بَخْلَفَ رونا۔

البكاء و البكئ: بہت رونے والا۔

التَّبَكَّاءُ وَ التَّبَكِّيَاءُ: گریہ یا کثرت گریہ۔ المَبَكِّي: رونے کی جگہ ج مَبَاكِي۔

بَلٌ: حَرْفٌ عَطْفٌ هُوَ۔ سَابِقٌ سَعِ اضْرَابٌ كَيْلِيءٌ آتَا هُوَ جِيءِ "مَآ ذَهَبَ زَيْدٌ بَلٌ عَمْرُوٌ" میں حکم عمر کے لیے ہے اور زید مسکوت عند کے حکم میں ہے۔

بَلَةٌ (ن) بَلًا وَ بَلَّةٌ وَ بَلَلًا: بِالمَاءِ: تَر كَرْنَا بَلٌ يَدُهُ: رونا۔

بَلٌ (س) بَلًا وَ بَلَلًا: بَكَّدَا: صُحُج مند ہونا۔

كاسياب ہونا۔ پالینا جیسی "إِذَا بَلَّتْ بِقَاتِمِهِ

بَدْعٌ یعنی جبکہ اس کے بعض پر میرا ہاتھ پڑے۔

بَلَّ (ض) بَلَّلًا وَبَلَّلًا وَبَلَّلًا مِنْ مَرَضِهِ: صحت یاب ہونا۔ چنگا ہونا (بَلَّلًا فِی الْأَرْضِ) جانا (بَلَّلًا) التَّرْفِیحُ: سرد ہونا کا

چلنا۔

أَبَلُّ الشَّجَرِ: چھلدار ہونا (الْفَوْذُ: کڑی میں تری کا ہونا۔ مِنْ مَرَضِهِ: صحت یاب ہونا۔ أَبَلَّهُ فِی الْأَرْضِ: لے جانا۔

بَلَّلَ الثَّوْبَ: تر کرنا۔

تَبَلَّلَ وَابْتَلَّ: تر ہونا (وَأَسْتَبَلَّ مِنْ مَرَضِهِ: صحت یاب ہونا۔

البَلُّ: صحت و شفا۔ مباح۔ اور اسی سے عباس

بشیر کا قول ہے "لَا أُحِلُّهَا لِغُفَّيْلٍ وَهِيَ لِشَارِبٍ حَلٌّ وَبَلٌّ" میں اس کو نمانے والے کے لیے حلال قرار نہیں دیا اور وہ پینے والے کیلئے حلال و مباح ہے۔ چالاک۔ کہا جاتا ہے "هُوَ

بَلٌّ لِبَلِّالٍ" وہ بڑا چالاک ہے۔

البَلَّةُ: جوانی کی تروتازگی۔

البَلَّةُ: تری۔ رزق۔ خیر۔

البَلَّالُ وَالبَلَّلُ وَالبَلَّلُ: تری پانی دودھ

لیانی کلاتہ حصہ جو حلق کو تر کر دے۔

البَلَّالَةُ: اتنی مقدار جس سے کوئی چیز تری جا

سکے۔ تھوڑی سی چیز۔ تری۔

البَلَّلُ: بیج۔

البَلَّلِيلُ وَالبَلَّلِيَّةُ: نمی کے ساتھ ٹھنڈی ہوا۔

البَلَّلِيَّةُ: صحت۔

ذُو بَلِيٍّ وَبَلِيٍّ وَبَلِيَّتَانِ: دور کی غیر معلوم جگہ۔

کہا جاتا ہے "هُوَ بَلِيٌّ بَلِيٌّ" وہ دور کی غیر معلوم

جگہ میں ہے۔

الْأَبَلُّ: بدکار۔ بڑا جھگڑالو۔ سخت بخیل۔ سونت

بَلَاءٌ: ج بَلٌّ اور کہا جاتا ہے "لَا شَيْءَ أَبَلُّ لِلْجَنِينِ مِنْ كَذَا" جسم کے لیے اس سے زیادہ

کوئی چیز موافق نہیں۔ ضَعْفًا بَلَاءٌ: چٹنا پتھر۔

البَلَّانُ: حمام میں نسلانے والا۔ مَوْتٌ بَلَاءَةٌ: وَالبَلَّانُ ج بَلَّائَاتٍ: حمام۔

البَلَّةُ: بیعت و حال۔ کہا جاتا ہے "ظَلَوْنَتْ السَّعَاءُ عَلَى بَلَّوْبِهِ وَبَلَّوْبِهِ: مشک کو بار جو دواس

کی تری کے میں نے لیٹ لیا۔ وَظَلَوْنَتْ فَلَانًا

عَلَى بَلَّوْبِهِ وَبَلَّوْبِهِ وَبَلَّوْبِهِ وَبَلَّوْبِهِ: بار جو درمیب کے میں نے فلاں کو برداشت کیا۔

الْمَيْلُ: ہر وزن مَفْعَلٌ: مستقل۔ کہا جاتا ہے

"حَضَمْتُ مَيْلًا" یعنی مستقل جھگڑالو۔

البَالُؤُلُ: تھوڑا پانی۔

البَلَّالُ وَالمَبْتَلِلُ: بہت شور کرنے والا مور۔

مَبْتَلِلٌ: شیر۔

بَلَّيْلٌ بَلَّيْلَةٌ وَبَلَّالٌ بَلَّالٌ: بھلا کرنا۔ جوش

دلانا۔ غم میں جھلا کرنا (أَلَّ لَسْتَةً: حلو

کرنا (الْأَمْنِيَّةُ: حفرق کرنا۔ کھیرنا

الْإِرَاءُ: خراب کرنا بگاڑنا۔

تَبَلَّلْتُ: بھڑکانا۔ غم میں جھٹا ہونا۔

البَلَّيْلُ: بلیل۔ ج بَلَّالٌ۔ بَلَّيْلٌ الْإِبْرَاقِي: لوسے کی ٹوٹی۔ عوام کے نزدیک بلیل بچوں کا ایک

کھیل بھی ہے جس کے لیے فصیح لفظ "ذَوَامَةٌ"

(لٹو ہے۔

البَلَّيَالُ: خدمت۔ غم۔ بھیرنا۔

بَلَّتْ (ض) بَلَّتًا: الشَّيْءُ: کانا۔

بَلَّتْ (ن) بَلَّتًا وَبَلَّتْ (س) بَلَّتًا وَابْتَلَّتْ: کٹنا۔

بَلَّتْ (ك) بَلَّالَةً: فصیح ہونا۔

أَبَلَّتُهُ: بیعتنا: قسم دلانا۔ أَبَلَّتَ الرَّجُلُ: مٹھکو

سے رک جانا۔

البَلِّيَّةُ وَالبَلِيَّةُ: مخفّر کلام کرنے والا۔ فصیح۔

خوش بیان۔ مخفّر۔

المَبْتَلَّتُ: آراستہ کلام۔

البَلِّغُ: باہر۔ ہر چیز کا جاننے والا۔

البَلِّغِيُّ: زبان آور۔ فصیح۔

البَلِّيَّةُ: دو سالہ پرانا چارہ جو سیاہ ہو گیا ہو۔

بَلَجٌ (ن) بَلُّوجًا وَابْلَجٌ وَتَبْلَجٌ وَابْتَلَجٌ وَابْتَلَجٌ: الصَّبِيحُ: روشن ہونا۔

بَلَجٌ (س) بَلَّجًا: صَدْرَةٌ: مطمئن ہونا

الحَقُّ: واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔ صفت (البلج)

مَوْتٌ بَلَّجَاءُ وَالأَبْلَجُ: علیحدہ علیحدہ ابروؤں

والا۔

تَبَلَّجَ: اَلَيْتَهُ: ہنسا۔ خوش ہونا۔

ابْلَاجٌ وَابْلَاجٌ اِبْلَاجًا: ظاہر ہونا۔ واضح

ہونا۔

البَلَّجَةُ وَالبَلَّجَةُ: سپیدہ رُوحٌ (والبَلَّجُ)

ابروؤں کے درمیان کشادگی۔

البَلَّحَةُ: درز۔ اور بَلَّحَةٌ بِالْحَاءِ: صبح ہے۔

البَلَّحُ وَالبَلَّحُ: کشادہ رو۔

بَلَّحٌ (ف) بَلَّحًا: الْقَرْيُ: خشک ہونا۔

أَلَيْتُ: پانی ختم ہونا۔ صفت (بَلَّوْح)

الرَّجُلُ بِالْأَمْرِ: انکار کرنا

الْقَرِينُ: مغلّس ہونا (الرَّجُلُ بِشَهَادَتِهِ

چھپانا۔) (بَلَّوْحًا وَبَلَّحٌ وَتَبْلَجٌ) تھکانا۔ عاجز ہونا۔ کہا جاتا ہے "بَلَّحٌ وَبَلَّحٌ عَلَيَّ"

یعنی میں نے اس کے پاس کچھ نہیں پایا۔

أَبْلَحَ: التَّخَلُّ: کچی کچھوروں والا ہونا۔

بَالَحَ: الْقَوْمُ: حق نہ ہوتے ہوئے جھگڑنا اور

غالب ہوجانا۔

تَبَالَّحًا: باہم انکار کرنا۔

البَالِحُ: زمن جس میں کچھ نہ آگے۔ ج

بَوَالِحٍ۔

أَبْلَحَ: کچی کچھور۔ کچھور کی ابتدائی حالت کو

طلوع کہتے ہیں پھر اس کے بعد خلال پھر تَبْلَحُ پھر

بُسْرُ پھر زُطْبُ پھر رَمَقٌ۔

البَلَّحُ: ایک پرندہ جو گدھ سے بڑا ہوتا ہے۔ ج۔

بَلْحَانُ۔

البَلَّوْحُ: اندھا کنواں۔ قطع رحمی کرنے والا۔

بَلَّحٌ (س) بَلَّحًا وَتَبْلَجٌ: تکبر کرنا۔ بیوقوف

ہونا۔ صفت (أَبْلَحُ) مَوْتٌ بَلَّحَاءُ وَابْلَحٌ وَابْلَحٌ

(بَلَّحُ)

البَلَّحُ وَالبَلَّحُ: ایک قسم کا درخت جس کو

شاہ بلوط کہتے ہیں۔

البَلَّحُشُ: ایک قسم کا تھنی جو ہر

بَلَدٌ (ن) بَلَّوْدًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ شہر

جانا۔ صفت (بَالِدٌ) ج بَلَدَةٌ۔

بَلَدٌ (س) بَلَدًا: کشادہ ابرو ہونا۔ صفت (ابلد)

بَلَدٌ (ك) بَلَادَةٌ: ست و کندر خاطر ہونا۔ صفت

(بَلِيدٌ) اَبْلَدٌ

بَلَدٌ: کمزور رائے والا ہونا۔ کم بہت ہونا۔

الْفَرْسُ: آگے نہ بڑھنا

السَّخَابَةُ: نہ برتنا۔

الرَّجُلُ: بکل کرنا (عُ اَلْفِي

اصطلاح البَلِّغِيُّ: مسکونہ جگہ کی آب و ہوا کا

<p>الْبَلْطِيُّ: ایک قسم کی چھل۔ بَلَطَخَ: اپنے آپ کو زمین پر پھینکا۔ الشَّىءُ: جو ڈاکرنا۔ تَبَلَطَخَ: جو ڈاکرنا۔ بَلَعَ (ف) بَلَعًا وَابْتَلَعَ: الشَّىءُ: لکھا۔ بَلَعَهُ وَابْلَعَهُ: لکھانا۔ اور کما جاتا ہے "بَلَعَهُ رِقْعَةً" اس نے اس کو تھوک لگنے کی مدت کی سہلت دی۔ (بَلَعَ وَتَبَلَعَ): الشَّبَابُ فِي زَاوِيهِ: جو چلیا ظاہر ہوتا۔ وَتَبَلَعَهُ: گھونٹ لینا۔ البَلْعَةُ: بجلی کا سوراخ۔ ج بَلَعَ۔ البَلْعَةُ: بست کھانے والا مرد۔ البَلْعُوعُ: بست لگنے والا۔ المَبْلُوعُ: حلق۔ الجَبْلُوعُ: بست کھانے والا۔ البَالُوْعَةُ وَالبَلَاْعَةُ وَالبَلُوْعَةُ ج بَوَالِيعٍ وَ بَلَايِعٍ: جوری۔ بدرو۔ بَلَعَمَ: اللَقْمَةُ: لکھا۔ البَلْعَمُ وَالبَلْعُومُ: حلق۔ ج بَلَعِمَ۔ البَلْعَمُ: بست کھانے والا۔ تیز لگنے والا۔ بَلَعَهُ (ن) بَلُوْعًا: پہنچنا۔ القَمْرُ: چکنا القَلَامُ: ہلچل ہونا۔ صفت (بالغ مؤنث بالبَلْعَةِ وَبالِيعٍ) العِلَّةُ: تیز ہونا۔ اور کما جاتا ہے "بَلَعٌ وَبِئْسَ كَلَامٌ" تمساری منگھو سے میں بست متاثر ہوا۔ بَلَعَ: الزَّجْلُ: جھٹلایے مشقت ہونا۔ بَلَعَ (ك) بَلَاْعَةً: بلغ ہونا۔ صفت (بلیغ) ج بَلْعَاءُ۔ بَلَعَهُ وَابْلَعَهُ: إِلَيْهِ: پہنچانا۔ بَلَعَ عَنَهُ الرِّسَالَةَ إِلَى الْقَوْمِ: پیغام رسالی کرنا۔ بَلَعَ الْفَارِصُ: تیز دوڑنے کے لیے لگام کو بڑھانا۔ بَالَعُ: فِي الْأَمْرِ: مبالغہ کرنا۔ تَبَلَعَ بِالشَّىءِ: اکتفا کرنا۔ قاصحت کرنا۔ بِهِ الْعِلَّةُ: جبر ہونا۔ تَبَالَعَ فِيهِ الْمَرْصُ: سخت ہونا اور اتنا کہ پہنچنا الزَّجْلُ فِي الْكَلَامِ: تکلف وادب سے کام لینا۔ الذَّبَاغُ فِي الْجِلْدِ: دباغت کا کمال میں اچھی طرح سے ہونا۔</p>	<p>الْبَلْسَمُ: گونڈ کی قسم کا ایک مادہ ہے۔ جس کا زخم پر لپ لگایا جاتا ہے۔ الْبَلْسَامُ: برسام (ایک بیماری کا نام) البَلْسَمُ: مسور۔ مسور کے مشابہ ایک قسم کا دانت۔ الْبَلْسَانُ: ایک درخت ہے جس کے پھول چھوٹے سفید رنگ کے ہوتے ہیں اور پتے تیلی کے مانند اور اس سے خوشبودار تیل لگتا ہے۔ البَلْسُونُ: بگلا۔ بَلَسَ: فَلَانًا مِنْ مَالِهِ: لے لینا۔ بَالَسَهُ: کسی پر کوڑ پڑنا۔ حملہ کرنا۔ تَبَلَسَ: الشَّىءُ: پوشیدہ طور سے طلب کرنا۔ تَبَلَسَتِ الْعَنَمُ: کم دودھ والی ہونا۔ البَلْسُوعُ: ایک قسم کا پرندہ۔ ج بَلَسُوعِي۔ بَلَطَ (ن) بَلَطًا وَبَلَطًا وَابْلَطَ: الذَّارِ: پتھروں کا فرش لگانا۔ "وَبَلَطَ الزَّجْلُ" چلنے میں تھکنا۔ بَلَطَ أَذَنَهُ: گوشہ لکھنا۔ کما جاتا ہے "إِذَا هَفَا صَبِيحَكَ فَبَلَطَ لَهْ" جب تمہارا پتہ کے تو اس کی گوشہ لکھ کر۔ ابْلَطَ: اللَّصُّ الزَّجْلُ: سب کچھ خرا لینا۔ وَأَبْلَطَ: حجاج و فقیر ہونا۔ بَالَطَ وَتَبَالَطَ: الْقَوْمُ: تلوار سے لڑنا۔ وَبَالَطَهُ: چھوڑ کر ہماگ جانا۔ بَالَطَ فِي أُمُورِهِ: مبالغہ کرنا۔ السَّبَاغُ: تیراکی میں کوشش کرنا۔ البَلَاطُ: ہموار زمین۔ پتھر کے چوکے جو فرش لگانے کے کام میں آتے ہیں اور اسی سے بَلَاطُ المَلِكِ ہے۔ بمعنی محل شاہی اور محاز۔ بمعنی مجلس شاہی۔ البَلْطُ: لکھنے سے بھاگنے والے۔ البَلُوْطُ: ایک بڑا درخت ہے جس کا سحر موتا اور ککڑی مضبوط ہوتی ہے اور اس کی چھال سے دباغت دیتے ہیں اور اس کا پھل کھلیا جاتا ہے۔ بلوط کا پھل۔ بَلُوْطُ الْأَرْضِ: ایک قسم کی گھاس ہے جس کے پتے کاسنی کے مانند ہوتے ہیں۔ بَلُوْطُ الْمَلِكِ: اخروٹ و شاہ بلوط: ایک قسم کا جنگلی درخت جس کی ککڑی سخت اور مضبوط پھل گول اور پتیوں کے کنارے کٹاؤ دار ہوتے ہیں۔</p>	<p>علوی بنانا۔ اور اسی سے ہے "خَلِيقَةُ الطَّيْرِ" وہ بلغ جس میں غیر جگہ کے حیوان یا نباتات کو آپ ہو اور کا عاری بنایا جائے۔ أَبْلَدٌ: الْقَوْمُ: شہر میں ہمیشہ رہنا۔ أَبْلَدُهُ التَّبَلَدُ: شہر میں ہمیشہ رکھنا۔ بَالَدٌ: تلوار یا تیروں سے جنگ کرنا۔ تَبَلَدٌ: سخت و کند خاطر ہونا۔ کندہی ظاہر کرنا۔ الْفُوسُ کرنا۔ الزَّجْلُ: دونوں ہاتھوں سے تلی جمانا۔ الصَّنِيْحُ: روشن ہونا۔ الْقَوْمُ: غیر آباد شہر میں آباد ہونا۔ المَبْلُودُ: تھمیر۔ البَلْدَةُ وَالتَّبَلُدُ: ج بِلَادٌ وَبُلْدَانٌ: ہر ایک جگہ آباد یا غیر آباد۔ التَّبَلُدُ: قبر۔ التَّبَلْدَةُ: سینہ۔ کما جاتا ہے "هُوَ وَابِغِ التَّبَلْدَةَ" وہ کشادہ سینہ والا ہے۔ شہر۔ مہمیلی۔ کما جاتا ہے "مَضْرِبٌ بَلْدَتُهُ عَلَى بَلْدَتِهِ" یعنی اپنی مہمیلی کو اپنے سینہ پر مارا۔ التَّبَلْدَانُ: بھرہ و کوفہ۔ البَلُورُ وَالبَلُورُ: ایک قسم کا شیشہ۔ ایک قسم کا سفید و شفاف جو ہر تَبَلُورٌ وَتَبَلُورٌ: بلور کے مشابہ ہونا۔ الْإِبْلِيْزُ وَطَبِيْحُ الْإِبْلِيْزِ: مصر کی وہ مٹی جو دریائے نیل زمین سے بھلا کر چھوڑ جاتا ہے۔ أَبْلَسَ: بے خبر ہونا۔ لگت دل ہونا۔ تمکین ہونا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ: بالوس ہونا۔ فین أُخْرِهِ: متعیر ہونا۔ صفت (بلیش و فینیش) فُلَانٌ: قسم کی وجہ سے خاموش ہونا۔ أَبْلَسَهُ: تھمیر کرنا۔ البَلْسُ: بے خبر آدمی۔ البَلَاضُ: ٹاٹ۔ بالوں سے بنا ہوا فرش ج بَلْسُ۔ البَلَاضُ: ٹاٹ بیچنے والا۔ مَا ذُقْتُ عُلُوْمًا وَلَا بَلُوْمًا: یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔ إِبْلِيْسُ: شیطان کا عظیم جنس۔ ج أَبَالِيْسُ وَأَبَالَسَةُ۔ بَلِيْسِمُ: مکروہ چہرہ والا ہونا۔ جھٹلایے برسام ہونا۔ بَلْسَمٌ وَتَبَلْسَمٌ: گھبراہٹ کی وجہ سے خاموش ہونا۔ بَلْسَمٌ: مکروہ چہرہ والا بنانا۔</p>
--	--	--

بِنٌّ (ض) بَنَّا وَابْنٌ بِالْمَعْنَى: اقامت کرنا۔
 أَبْنَتُ السَّخَابَةِ: کئی رود تک برنا۔
 بَنَنْ: الشَّاةُ: بکری کو مونا کرنے کیلئے باہر جانا۔
 تَبَنَّ: جدلی نہ کرنا۔
 البَنَان: پورے۔ انگلیوں کے اطراف۔
 انگلیاں۔
 البَنَانَةُ: البنان کا واحد۔ انگلی۔ اوپر کا پورا۔ ج۔
 بَنَانَاتُ:۔
 البَنَانَةُ: سرسبز باغ۔
 أَبْنَتُن: ایک درخت کا دانہ ہے جس سے قوہ
 پایا جاتا ہے۔
 مَعْنَانٌ (بِنٌّ) بَدْرٌ وَارِجَةٌ: البِنُّ: چربی۔ فرہی۔
 البِنَّةُ: خواہاچی ہو یا بڑی۔
 البِنِين: مونا۔ زور اندیش۔ عاقل۔
 بَنَّتْ: عتہ: خبر دریافت کرنا۔ هُكْبَدًا:
 خاموش کرنا۔
 بَنَجٌ (ن) بَنَجًا: اصل کی طرف لوٹنا۔
 بَنَجَةٌ: بھگ پلا کر سلا بنا۔
 البِنَج: بھگ۔
 البِنَج: اصل۔ جڑ۔
 البِنَجْحِكْسِت: لوہک۔ (جدید)
 البِنَجْوَةُ: توپ کا دانہ ج بَنَجَا (جدید)
 البِنْدُ: بڑا جھنڈا۔ جمیل۔ کتاب کی فصل یا فقرو۔
 قید۔ جیل۔ ج بَنُوْد۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ كَظِيْرُ
 البِنُوْدِ" فلاں بہت جیلوں والا ہے۔ (جدید)
 البِنْدَرُ: بند گارہ۔ سمندر کے کنارے کا شہر۔ شہر
 میں تاجروں کے قیام کی جگہ ج بَنَادِرُ (جدید)
 (الْكشَاهُ بِنْدَرٌ) سودا گروں کا رئیس۔
 بَنَدَقٌ: البِنْدَقُ: تیز نظر ڈالنا۔
 البِنْدَقُ: بندوق کی گولی۔ ایک درخت کا نام۔
 واحد بِنْدَقَةٌ: بندوق درخت کا پھل۔
 البِنْدَقِيَّةُ: بارود۔ اٹلی کے ایک شہر کا نام۔
 بِنَسٌ (س) بَنَسًا وَابْنَسٌ: بڑائی سے گریز
 کرنا۔
 بَنَسٌ: عتہ: بچھے ہٹنا۔
 البِنَصِيرُ: جھٹکیا اور بیچ کی انگلی کے درمیان کی
 انگلی۔ ج بَنَصِيرٌ (مؤنث) بِنَصِيرٌ:
 البِنَصِيرُ: بَنَسٌ (البِنَصِيرُ)

بَنَقٌ (ن) بَنَقًا وَابْنِقٌ وَبَنَقٌ: بَنَجًا۔ بَنَقٌ
 الكَلَامُ: جمع کرنا۔ درست کرنا۔
 الكَدْبُ: گمراہی۔ بِالْمَعْنَى:
 اقامت کرنا۔ الشَّقَى: کسی چیز کا ظاہر ڈالنا
 ظَهْرُهُ بِالسَّرْوَةِ: زخمی کرنا۔
 القَوِيضُ: گریبان لگانا۔
 البِنِيضَةُ: البِنِيضَةُ: گریبان۔
 ظَرْبِيٌّ (مَبْنِيٌّ) كَشْوَهُ رَاسًا۔
 البِنْفُوسُ: غرورہ کا ٹھونڈنا۔ ج بَنَفَالِيْسُ۔
 بَنَكْتُ: البَحَاْنُ بَنَانٌ: قبیلہ سے باہر ہو کر دونوں
 کا ایک دوسرے کو اپنے قبیلہ کی خبر دینا۔
 تَبَنَّكَ: بِالْمَعْنَى وَبِهِ: اقامت کرنا۔
 لَمِي عَزْرَهُ: جاگزیں ہونا۔
 البَنِكُ: جڑ۔ رات کا حصہ۔ کہا جاتا ہے "مَضَى
 بَنَكْتُ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا حصہ گزر گیا۔
 البَنِكُ: بَنِكٌ: ج بَنِيْكُ (اس کی عربی معرّف
 ہے)۔
 البَنَامُ: پورا (بنا) کے نون کو نیم سے بدل لیا گیا
 ہے)۔
 بَنِيٌّ (ض) بَنِيًا وَبَنَاءٌ وَبَنِيَانًا وَبَنِيَانَةٌ:
 البِنِيْتُ: تعمیر کرنا۔ الأَرْضُ: آباد کرنا۔
 مَكَانَاتُ بَنَانٌ: عَلَي أَهْلِهِ وَبِهَا: پہلی رات
 میں یہی ہے کہ پاس جانا۔ الرَّجُلُ: بحر
 سلوک کرنا۔ الطَّعَامُ بَدَنَهُ: مونا کرنا
 الكَلِمَةُ: جی بِنَانٌ عَلَي كَلَامِهِ:
 کسی کے کلام کی نقل کرنا۔
 بَنَاءٌ تَبْنِيَةٌ: بنانا۔ ترمیم کثرت کیلئے ہے۔
 أَبْنَاءُ: عمارت۔ بَنَسًا: یا سلمان تعمیر رہا۔ مکان
 بنانا۔
 بَنَاءَةٌ: تعمیر میں مقابلہ کرنا۔
 تَبْنِيٌّ: بِنَانٌ: الرَّجُلُ: بے ہوش
 گھر کی مانند ہونا۔ اس سے ہے "إِذَا جَلَسَتْ
 تَبْنِيَتْ" یعنی جب بیٹھتی ہے تو گھر کے مانند معلوم
 ہوتی ہے۔
 ابْنَتِي: بِنَانٌ: الرَّجُلُ: بیٹوں والا
 ہونا۔ الرَّجُلُ: احسان و سلوک کرنا۔
 عَلَي أَهْلِهِ وَبِهَا: پہلی رات میں یہی ہے
 پاس جانا۔

إِسْتَبْنَى: العَنْزَلُ: گرا کر بنانا۔
 الرَّجُلُ: دولسن لانا۔
 البِنَاءُ: عمارت۔ ج أَبْنِيَةٌ وَجِ ابْنِيَاتُ: اور کہا
 جاتا ہے "بِنَاءٌ عَلَيهِ" نصب کے ساتھ اس وجہ
 سے کہ مفعول نہ ہے۔
 البِنَائِيَّةُ: معہ۔ شرف۔
 البِنِيَّةُ وَابْنِيَّةُ: عمارت۔ ج بِنِيٌّ وَ بِنِيٌّ
 وَابْنِيَّةُ: دُعا سَاجِدٌ۔ حُلٌّ۔ فطرت۔ کہا جاتا ہے
 "فَلَانٌ صَحِيْحُ البِنِيَّةِ" فلاں صحیح فطرت ہے
 بِنِيَّةُ الكَلِمَةِ: جید اور باد۔
 البِنِيَانُ: معہ۔ عمارت۔ کہا جاتا ہے "كَأَنَّهُمْ
 بِنِيَانٌ مَرْتَضٌ" گویا وہ لوگ مضبوط عمارت
 کی مانند ہیں۔
 البِنَائِي: قلعہ۔ بِنَاءَةٌ: مؤنث بِنَائِيَّةٌ ج بِنَائِيَّةُ:
 البِنَائِيَّةُ: سینہ کی پسیلیں۔ اونٹنی کی ٹانگیں اور
 اس سے ہے "بِنِيَّةُ البِنِيْتِ عَلَي بِنَائِيَّةِ" اس نے
 گھر کو اس کی بنیاد پر بنایا۔
 البِنَاءُ: معمار۔ ج بِنَائُونُ:
 البِنَائُونُ: بِنَانٌ: ج بِنُونٌ وَابْنَاءُ: تعمیر بِنِيٌّ اور
 نسبت کیلئے ابْنِيٌّ اور بِنَوِيٌّ (اصل کے لحاظ سے
 اور حمزہ وصل کو ساقط کر کے) مؤنث ابْنَةٌ۔ ابْنٌ
 الشَّيْبِلُ: مسافر۔ ابْنٌ جَلَاءٌ: مشہور آدمی۔ ابْنٌ
 لِبَلْهَاءُ: بڑے کام والا۔ ابْنٌ ذَكَاءٌ: صحیح ابْنٌ
 الظُّلُوْدُ: آواز باز گشت۔ "هُوَ ابْنٌ يُوْبَهُ" وہ ایسا
 شخص ہے جو کل احمد کی فکر نہیں کرتا۔ "هُوَ
 ابْنٌ بَطْلِيَّةٌ" وہ ایسا شخص ہے جس کو ہمیشہ اپنے
 بیٹے ہی کی فکر رہتی ہے۔
 الابْنَمُ: بِنَانٌ: نیم زادہ ہے اور اعراب میں نون
 نیم کے تابع رہتا ہے۔
 البِنْتُ: ج بِنَاتٌ: بیٹی۔ اور نسبت کیلئے بِنْتِيٌّ
 وَبِنَوِيٌّ: بِنْتُ الشَّقَةِ: کلمہ۔ الأَرْضُ:
 کھری۔
 العَيْنُ: آنسو۔ العَيْنُ: البِنْتُ: قوہ:
 شراب۔ بِنَاتُ الذَّهْرِ: وَبِنَاتُ ظَلْقِي: حقیقیات۔
 بِنَاتُ اللَّيْلِ وَبِنَاتُ الصُّدْرِ: الفکار۔ بِنَاتُ
 اَلْعَدْرِ: جنگلی گدھے۔ بِنَاتُ الجَفَالِ: حور نسیم۔
 بِنَاتُ الأَرْضِ: جھوٹی بھوٹی عریاں۔
 بِنَاتُ نَعَشِ الكُنْبُوِي: سلت ستارے جو

الْبُهْمَاءُ: مع۔ انگوٹھا (مؤنٹ) کبھی مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ جَبَّانُ بُهْمَاءُ۔
الْمُبْهَمَةُ: ضم۔ اُمْرٌ مُبْهَمٌ: غیر معروف معاملہ
كَلَامٌ مُبْهَمٌ: غیر معروف کلام۔ طَرِيقٌ مُبْهَمٌ:
غیر واضح راستہ۔ حَاطِطٌ مُبْهَمٌ: دیوار جس میں
دروازہ نہ ہو۔

بُهْمَانٌ (س) بُهْمَانًا: بہت خوش ہونا۔
الْبُهْمَانَةُ: اچھی طبیعت کی عورت جو گنگو
وغیرہ میں نرم ہو۔ جَبَّانَةٌ بُهْمَانَاتٌ:
الْبُهْمَانُ: نسرتن۔
تُبْهِنُ: ناز سے چلنا۔
الْبُهْمَانُ: شیر۔

بُهْمَانٌ (ان) بُوْهْمَانٌ (س) اُوْبُهْمَانٌ (ک) بُهْمَانَةٌ حسین و
خوبصورت ہونا۔ تَرْفِيفٌ ہونا۔ صفت (بہمی)
مؤنٹ بَہْمِيَّةٌ بُهْمَانٌ: خوبصورتی میں غالب ہونا۔
بُهْمِيٌّ (س) بُهْمِيٌّ: ویران ہونا۔ خالی
ہونا۔

بُهْمِيٌّ: کشاہہ کرنا۔
بَاهَاةٌ فِي الْحُسْنِ: حسن و خوبی میں مقابلہ پر
فخر کرنا۔

أُبْهِيٌّ - خوبصورت چہرہ والا ہونا
الْإِنَاءُ: خالی کرنا۔ الْخَيْلُ: جگ کے لیے کام نہ
لینا۔

إِتْبَهِيٌّ بِهِ: فخر کرنا۔
تَبَاهَاؤُا: باہم فخر کرنا۔
الْبُهْمُو: مکان یا خیمہ کے آگے کا کمرہ جو مہمان
وغیرہ کے قیام گاہ کا کام دے۔ ملاقات کا کمرہ
أُبْهَاءٌ وَ نُهْوٌ وَ بُهْمِيٌّ۔

بَاءٌ بِبَوَاءٍ بَوَاءٌ - إِلَيْهِ: لوٹنا۔ بَاءٌ هُوَ وَ بَاءٌ بِهِ:
لوٹنا۔ بِالْحَقِّ أَوْ بِالذَّبِّ: اقرار کرنا
فَلَانٌ بِفَلَانٍ بَوَاءٌ: بدلے میں قتل کیا
جاتا۔ کما جاتا ہے۔ "ذَمٌّ بَوَاءٌ ذَمٌّ" خون خون کے
برابر۔ بَوَاءٌ بِهِ: یعنی اللہ لوگوں میں سے ہو جا جن کو
اس کے بدلے میں قتل کیا جائے اور اسی سے
مسلل کا قول بجا کیلئے ہے۔ "يُوْا بِشَيْءٍ نَعْلُ
كَلْبِي" یعنی کلب کے جوتے کے لئے کے
برابر ہو جا۔

بَوَاءٌ الْمَكَانَ: اترنا۔ نازل ہونا۔

کھول دینا اور پتہ کو دودھ پینے دینا۔
إِتْبَهَلَ إِلَى اللَّهِ: گڑگڑا کر دعا کرنا۔

بَاهَلٌ بِغَضْمِهِمْ بَغْضًا: ایک دوسرے پر لعنت
کرنا۔

تَبْهَلُوا وَ تَبَاهَلُوا: باہم لعنت کرنا۔
إِتْبَهَلًا: ایک دوسرے پر لعنت کرنا۔
التَّبَهَلُ وَ التَّبَاهَلُ: لعنت۔

التَّبَاهِلُ: بغیر کسی کام کے آنے والے۔ بغیر
ذمے کے چرانے والا۔ بے تحصیل۔ نَاقَةٌ تَبَاهِلُ:
وہ اونٹنی جس کے تھنوں پر بندش نہ ہو۔ جَبَّانٌ تَبَاهِلٌ وَ
بُهْلٌ۔ مؤنث تَبَاهِلَةٌ۔ التَّبَاهِلَةُ: بیوہ عورت۔
التَّبَهْلُ: بہت ہنسنے والا۔ ہنسوز۔ جامع فضائل
سرور۔ جَبَّانٌ تَبَاهِلٌ۔

التَّبَهْلُ وَ التَّبَاهِلُ: مداری۔ رسی پر چلنے والا۔
تَبْهَلُ بِتَبْهَلَةٍ: تکبر کرنا۔ ڈیک مارنا۔ روبرو گنگو
کرنا۔ جھوٹ بولنا۔

تَبْهَلُ: جھوٹ بولنا۔
التَّبَهْلِيُّ: جھوٹی باتیں۔
التَّبَهْلِيُّ: سختی دینا۔

بُهْمٌ بِالْمَكَانِ: مستقل اقامت کرنا۔
بُهْمٌ: ماں سے علیحدہ کر کے چرانا۔

أُبْهَمٌ: النَّبَابُ: بند کرنا۔ الْمَكَانُ:
بُھمی گھاس والی ہونا۔ () وَ تَبْهَمٌ
وَ اسْتَبْهَمَ الْأَمْرَ عَلَيْهِ: مشتہد ہونا۔ دشوار ہونا۔
أَسْتَبْهَمَ عَلَيْهِ: شور مچانے کی وجہ سے گنگو پر
قادر نہ ہونا۔

التَّبْهَمُ وَ التَّبْهَمُ وَ التَّبْهَامُ: چمائے، بھیڑ، بکری کے
بچے۔ وَاحِدٌ التَّبْهَمُ التَّبْهَمَةُ:

التَّبْهَمَةُ: دیر جس پر کوئی قابو نہ پاسکے۔ چمکی
چٹان۔ سخت و مشکل کام۔ جَبَّانٌ التَّبْهَمُ: مشکل
امور۔

التَّبْهَمِيُّ: جو کی مانند ایک قسم کی نباتات۔
التَّبْهَمِيُّ: کالا۔ فَرَسٌ تَبْهَمِيٌّ: ایک ہی قسم کا
گھوڑا۔ لَيْلٌ تَبْهَمِيٌّ: پوری تاریک رات۔ جَبَّانٌ التَّبْهَمُ وَ
بُهْمٌ۔

التَّبْهَمَةُ: چارپایہ۔ جَبَّانٌ التَّبْهَمَةُ: ہر وہ
جس میں قوت کو یابی نہ ہو۔
الْأُبْهَمُ: گونگا۔ جَبَّانٌ بُهْمٌ: خاموش۔

الْبُهْمِيُّ: سختی سے دھکیلنے والا۔

بُهْمٌ (ف) بُهْمًا عَلَيْهِ: دیر لری کرنا۔

بُهْمٌ إِلَيْهِ (ف) بُهْمًا: خوشی سے متوجہ ہونا۔
مُشَقٌّ ہونا۔ بَدِيدٌ إِلَيْهِ: لینے کیلئے ہاتھ
پوشا۔ لِلنَّكَاءِ: رونے کیلئے آواز دینا۔
ہونا۔ عَثَّةٌ: کھوکھری کرنا۔

بُهْمٌ وَ تَبْهْمٌ: الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔
التَّبْهْمُ: تزکوکل (گوگل ایک دو کا نام ہے)
رَجُلٌ بُهْمٌ: شاش بٹاش مرد۔
بُهْمٌ (س) بُهْمًا: پیاسا ہونا۔
التَّبْهْمُ: پیاس۔

بُهْمٌ وَ تَبْهْمٌ: کپڑے اتار کر جوئے کی
بازی پر لگانا۔ بُهْمٌ الْقَوْمِ مِنْ مَالِهِمْ: طمیدہ کر
دینا۔ کُلُّ دینا۔

التَّبْهْمُ: بہت سخت۔
بُهْمَةٌ (ف) بُهْمًا وَ أَبْهَمَةً: الْحَمْلُ أَوْ
الْأَمْرُ: یو جمل کرنا۔ باعث مشقت ہونا۔ أَبْهَمٌ
خَوَاضَهُ: بھرونا۔

الْبَاهِظَةُ: مؤنث۔ باعث مشقت و تکلیف۔
مصیبت۔
الْمَبْهُوظُ: طاقت سے زیادہ تکلیف دیا ہوا۔

الْفَرْقُ الْمَبْهُوظُ: مطلوب۔
بُهْمٌ (ف) بُهْمًا: التَّوَجُّلُ: سونا۔ صفت
(باہم)

التَّبْهِيُّ: برص کی بیماری کے علاوہ جسم پر سفید
وارغ۔

بُهْمِيٌّ النَّجْحَرُ: چمپر آگی ہوئی ایک قسم کی
گھاس جو کالی کی مانند ہوتی ہے۔

بُهْمٌ بِبُهْمَةٍ فِي الْعَضْلِ: جلدی کرنا۔
التَّبْهَكُ: نازک اندام پر گوشت جو ان۔
مؤنث تَبْهَكَةٌ۔ سَنَابٌ تَبْهَكٌ: نئی جوانی۔

التَّبْهَكُنُ: نازک اندام پر گوشت جو ان۔
مؤنث تَبْهَكَةٌ۔ جَبَّانٌ سَنَابٌ تَبْهَكُنُ: نئی
ترو تارہ جوانی۔

بُهْمَةٌ (ف) بُهْمًا: اللَّهُ: لعنت کرنا۔
وَ أَبْهَمَةً: جھوڑنا۔ () وَ اسْتَبْهَلَ
الْوَالِي زَعِيْنَةُ: بلا روک ٹوک چھوڑ دینا۔
بُهْلٌ: النَّاقَةُ: اونٹنی کے تھن سے بندش

<p>إِنْبَاهَجَتْ: عَلَنِيهِمُ الدَّوَاهِي: مَمِيصَتِيوں كَا پڑنا۔</p>	<p>الرُّمُحُ نَحْوُهُ: كَسَى كِي طَرَفٌ سِيدَا كَرَا- بَوَّأَهُ وَبَوَّأَ الْمُعْتَمِلَ: كَسَى كَيْلِي تَارَا كَرَا۔</p>
<p>النَّجَاحُ: دِيكِي لِنظَابَج۔ النَّجَاحَةُ: اِخْتِلَاط۔</p>	<p>أَبَاءَهُ: مَنَهُ: بِمَا كَانَا _____ بِالْمَكَانِ: اِقَامَت كَرَا۔ الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ: لَوْنَانَا</p>
<p>النَّجَاحُ: رَان كِي اِيك رَا كَلَام- ج بَوَالِج۔ النَّجَاحَةُ: مَمِيصَت- ج بَوَالِج- النَّجَاحَةُ: كَشَاهِد رِيكِي تَان۔</p>	<p>وَمَنْزِلًا وَفِي الْمَنْزِلِ: اِتَارَا _____ الْقَائِلِ بِالْقَيْدِ: مَخْتَلِ كِي بَدَلِي مِيں قَائِل كِي قَل كَرَا۔</p>
<p>بَاحُ (ن) بَوَّخَا وَبَوَّوْحَا وَبَوَّوْحَةُ: الشَّيْءُ: ظَاہِر ہونا۔ مَشْهُور ہونا _____ اَلْيَدِ بِالتَّيْسِ: ظَاہِر كَرَا۔</p>	<p>تَبَوَّأَ: الْمَكَانَ وَيَه: اِقَامَت كَرَا۔ تَبَوَّأَ: الشَّيْءَانَ: مَسَاوِي ہونا۔</p>
<p>أَبَاحُ: التَّيْسُ: ظَاہِر كَرَا _____ شَيْئًا: جَايز كَرَا مَبَاح كَرَا۔</p>	<p>الْبَاءَةُ وَالْبَيْتَةُ وَالْمَنْوَأُ وَالْمَنْبَاءَةُ: مَخْرَجُ- وَالْبَيْتَةُ: حَالَت۔ كَمَا جَا تَا بِ "إِنَّهُ حَسَنُ الْبَيْتَةِ" وَهِيَ حَالَتِ دَالَا بِ۔ حَاجَةُ (شَيْئَةٍ) شَدِيدَةٌ حَاجَت۔</p>
<p>اِسْتَبَاحُ: الشَّيْءُ: جَايز وَ مَبَاحٌ مُصْرَمًا يَا كَمَا۔ كِي جِي رِي اِقْدَام كَرَا۔ الْقَوْمُ: جَاهِد رِي مِلَا كَرَا۔ اَلْاِبَاحِيُّ: مَمْنُوْعَات كُو كَرْنِي اور مَمْرُوَات كُو جَمُوْرْنِي كِي اِجَايزت دِيئِنِي وَالا۔</p>	<p>بَابُ (ن) بَوَّوْنَا: لُهُ: دِي رِي بَان ہونا۔ بَوَّوْبُ: الْكِتَابُ: اَلْاِبَاب مِيں تَقْوِيْم كَرَا۔ تَبَوَّوْبُ: الرَّجُلُ: يُوْرِيَان مَبَانَا۔</p>
<p>التَّابَةُ: يَانِي يَاس كَا يَزَا حَتْم۔ بَسْمَت سِي كَجُور كِي دَرِخْت۔ مَمْنَن- تَاحَةُ: الطَّرِيقُ: وَسَط رَاسْت۔ التَّبَوَّاحُ: كَلِمٌ كَلَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "فَعَلَهُ تَبَوَّاحًا" اِس نِي اِس كُو كَلِمٌ كَلَا كِيَا۔</p>	<p>التَّابُ: دِي رُوَاذِہ _____ مِيں الْكِتَابُ: كِتَاب كَا يَاب- ج اَلْاَبْوَاب وَبِيْتَان۔</p>
<p>بَوَّوْحُ: كَلِمٌ تَرَحَّم بِہَا مَمْنُوْ وَيُخَلِّك كِي۔ التَّبَوُّوْحُ: دِيں كِي بَلت ظَاہِر كَرْنِي وَالا۔ التَّبَوُّوْحِيُّ: بِجَايزَا ہوا۔ كَمَا جَا تَا بِ "تَوَّكَّفْهُمُ بَوُّوْحِي" بُوُوحُ: اَلْاَبُ كِي لِي عِلْم ہي۔</p>	<p>التَّابَةُ: فِيں الْحِسَابِ وَالْمُحَدُّودُ: غَايَتُ اِتْمَان۔ شَرْط۔ حَم۔ عَادَت۔ كَمَا جَا تَا بِ "هَذَا شَيْءٌ مِيں تَابِيْتِك" يِي جِي رِي كِي ہُو تَمَارِي لِي مَنَاسِب ہي" ج بَابَات۔ بَابَاتُ الْكِتَابُ: طَرِيں۔</p>
<p>بَوَّوْحِيُّ: جَايز۔ رُوَا۔ بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: كَمَلَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "عَدَا حَسَنِي بَاحُ" وَہُو دَرَا مِيں تَك كِي تَمَك كِيَا _____ اَلْحِزُّ وَ الْقَضْبُ وَالنَّازُ: مُخْتَلَا پڑنا۔ دِي مِيں ہونا۔ جَمَحَا بُوُوْحَا: اللُّخْمُ: كِيڑَا۔ خَرَاب ہونا۔</p>	<p>التَّبَوُّوْبُ: يُوْرِيَان- ج بَوَّوْبُوْن۔ التَّبَوُّوْبَةُ: دِي رِي بَانِي كِي اَجْرَت۔ التَّبَوُّوْبُ: اِيك بِهَازِي كَمَاس كَا نَام۔ التَّبَوُّوْبَةُ: التَّبَوُّوْبَةُ: كَمَال۔</p>
<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: كَمَلَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "عَدَا حَسَنِي بَاحُ" وَہُو دَرَا مِيں تَك كِي تَمَك كِيَا _____ اَلْحِزُّ وَ الْقَضْبُ وَالنَّازُ: مُخْتَلَا پڑنا۔ دِي مِيں ہونا۔ جَمَحَا بُوُوْحَا: اللُّخْمُ: كِيڑَا۔ خَرَاب ہونا۔</p>	<p>بَابُ (ن) بَوَّوْنَا وَ اَبَاتُ وَ اِبْتِثَاتُ الشَّيْءِ وَعَنِ الشَّيْءِ: كَمُور كِي رَا كَرَا۔ بَابُ الْمَكَانِ: كَمُور كَرْمِي مَلَانَا۔ بَابُ الْقَرَابِ: مَخْرَق كَرَا۔ بَابُ الزَّمَانِ: كَمِيْرَا۔</p>
<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: كَمَلَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "عَدَا حَسَنِي بَاحُ" وَہُو دَرَا مِيں تَك كِي تَمَك كِيَا _____ اَلْحِزُّ وَ الْقَضْبُ وَالنَّازُ: مُخْتَلَا پڑنا۔ دِي مِيں ہونا۔ جَمَحَا بُوُوْحَا: اللُّخْمُ: كِيڑَا۔ خَرَاب ہونا۔</p>	<p>اِسْتِثْنَاتُ: الْقَرَابِ: مَعْنِي تَكَلَانَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "تَوَّكَّفْ دَارَهُمْ حَوْتُ" (بَوُّوْبُ) يَمِينِي اِن كِي كَمُور مِيں مَل جَلَا دِي اور دِي رِي اِن كَرِيَا۔</p>
<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: كَمَلَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "عَدَا حَسَنِي بَاحُ" وَہُو دَرَا مِيں تَك كِي تَمَك كِيَا _____ اَلْحِزُّ وَ الْقَضْبُ وَالنَّازُ: مُخْتَلَا پڑنا۔ دِي مِيں ہونا۔ جَمَحَا بُوُوْحَا: اللُّخْمُ: كِيڑَا۔ خَرَاب ہونا۔</p>	<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: الشَّرُّ فَلَانَا وَعَلَيْهِ: نَازِل ہونا۔ بِيْتَانَا۔ اِزْدَانَا _____ اَلْبَوُّوْبُ: جَمَلَا۔ التَّبَوُّوْبُ: كَمَلَا۔</p>
<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: كَمَلَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "عَدَا حَسَنِي بَاحُ" وَہُو دَرَا مِيں تَك كِي تَمَك كِيَا _____ اَلْحِزُّ وَ الْقَضْبُ وَالنَّازُ: مُخْتَلَا پڑنا۔ دِي مِيں ہونا۔ جَمَحَا بُوُوْحَا: اللُّخْمُ: كِيڑَا۔ خَرَاب ہونا۔</p>	<p>اِسْتِثْنَاتُ: الْقَرَابِ: مَعْنِي تَكَلَانَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "تَوَّكَّفْ دَارَهُمْ حَوْتُ" (بَوُّوْبُ) يَمِينِي اِن كِي كَمُور مِيں مَل جَلَا دِي اور دِي رِي اِن كَرِيَا۔</p>
<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: كَمَلَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "عَدَا حَسَنِي بَاحُ" وَہُو دَرَا مِيں تَك كِي تَمَك كِيَا _____ اَلْحِزُّ وَ الْقَضْبُ وَالنَّازُ: مُخْتَلَا پڑنا۔ دِي مِيں ہونا۔ جَمَحَا بُوُوْحَا: اللُّخْمُ: كِيڑَا۔ خَرَاب ہونا۔</p>	<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: الشَّرُّ فَلَانَا وَعَلَيْهِ: نَازِل ہونا۔ بِيْتَانَا۔ اِزْدَانَا _____ اَلْبَوُّوْبُ: جَمَلَا۔ التَّبَوُّوْبُ: كَمَلَا۔</p>
<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: كَمَلَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "عَدَا حَسَنِي بَاحُ" وَہُو دَرَا مِيں تَك كِي تَمَك كِيَا _____ اَلْحِزُّ وَ الْقَضْبُ وَالنَّازُ: مُخْتَلَا پڑنا۔ دِي مِيں ہونا۔ جَمَحَا بُوُوْحَا: اللُّخْمُ: كِيڑَا۔ خَرَاب ہونا۔</p>	<p>اِسْتِثْنَاتُ: الْقَرَابِ: مَعْنِي تَكَلَانَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "تَوَّكَّفْ دَارَهُمْ حَوْتُ" (بَوُّوْبُ) يَمِينِي اِن كِي كَمُور مِيں مَل جَلَا دِي اور دِي رِي اِن كَرِيَا۔</p>
<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: كَمَلَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "عَدَا حَسَنِي بَاحُ" وَہُو دَرَا مِيں تَك كِي تَمَك كِيَا _____ اَلْحِزُّ وَ الْقَضْبُ وَالنَّازُ: مُخْتَلَا پڑنا۔ دِي مِيں ہونا۔ جَمَحَا بُوُوْحَا: اللُّخْمُ: كِيڑَا۔ خَرَاب ہونا۔</p>	<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: الشَّرُّ فَلَانَا وَعَلَيْهِ: نَازِل ہونا۔ بِيْتَانَا۔ اِزْدَانَا _____ اَلْبَوُّوْبُ: جَمَلَا۔ التَّبَوُّوْبُ: كَمَلَا۔</p>
<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: كَمَلَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "عَدَا حَسَنِي بَاحُ" وَہُو دَرَا مِيں تَك كِي تَمَك كِيَا _____ اَلْحِزُّ وَ الْقَضْبُ وَالنَّازُ: مُخْتَلَا پڑنا۔ دِي مِيں ہونا۔ جَمَحَا بُوُوْحَا: اللُّخْمُ: كِيڑَا۔ خَرَاب ہونا۔</p>	<p>اِسْتِثْنَاتُ: الْقَرَابِ: مَعْنِي تَكَلَانَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "تَوَّكَّفْ دَارَهُمْ حَوْتُ" (بَوُّوْبُ) يَمِينِي اِن كِي كَمُور مِيں مَل جَلَا دِي اور دِي رِي اِن كَرِيَا۔</p>
<p>بَاحُ (ن) بَوَّوْحَا: كَمَلَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "عَدَا حَسَنِي بَاحُ" وَہُو دَرَا مِيں تَك كِي تَمَك كِيَا _____ اَلْحِزُّ وَ الْقَضْبُ وَالنَّازُ: مُخْتَلَا پڑنا۔ دِي مِيں ہونا۔ جَمَحَا بُوُوْحَا: اللُّخْمُ: كِيڑَا۔ خَرَاب ہونا۔</p>	<p>اِسْتِثْنَاتُ: الْقَرَابِ: مَعْنِي تَكَلَانَا۔ كَمَا جَا تَا بِ "تَوَّكَّفْ دَارَهُمْ حَوْتُ" (بَوُّوْبُ) يَمِينِي اِن كِي كَمُور مِيں مَل جَلَا دِي اور دِي رِي اِن كَرِيَا۔</p>

الأنثر: مخلوط ہونا۔ القوم و انہم: رائے میں گریزی ہو جانے کی وجہ سے کوئی راستہ نہ پانا۔
 الزجلی: حرام ہونا۔
 انباف: علیہا لأمز: گزری ہو جانا۔
 بان (ن) انبوا و متبالا: چیشاب کرنا۔
 بولکوا ابانہ: چیشاب کرنا۔
 البال: دل۔ کہا جاتا ہے "ما عطلت الامم پتالی" یہ معاملہ میرے دل میں نہیں گزرا۔ حال و شان۔ کہا جاتا ہے "فلان زینحی البال" فلاں آسودہ حال ہے۔ خیال۔ کہا جاتا ہے "تخایف البالی" جس چیز کا اہتمام کیا جائے۔ کہا جاتا ہے "انہن ہذا امن یالی" یعنی یہ ان چیزوں میں سے نہیں جن کی میں پروا کرتا ہوں۔ "وامز و بان" یعنی ایسا کام جو قابل اہتمام ہو۔ "وما بانک" یعنی تمہاری کیا حالت ہے۔
 البال: سندر کی مچھلیوں میں سے ایک مچھلی۔ ویل مچھلی۔
 البالہ: شیشی۔ خوشبو کی ڈبیہ۔
 البؤل: پیشاب۔ البول: لڑکا۔ عدد کثیر۔
 بؤل الصبوز: شراب۔
 البؤلة: لڑکی۔
 البؤال: ایک بیماری جس میں پیشاب کثرت سے آتا ہے۔
 البؤلة: بہت پیشاب کرنے والا۔
 البؤولة: وہ چیز جو پیشاب لانے کا سبب ہو۔
 البؤولة: پیشاب کرنے کا برتن۔
 البؤلیضة أو البؤلیضة: رسید۔ ہڈی۔ ج بؤالص۔
 البؤلیس: پولیس۔ اس کی عربی شذیعی اور جملواز ہے۔
 البؤہو البؤیضة: اہوج اہوجام (دونوں لفظ کر و مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہیں)
 بانہ (ن) انبونا: فضل و زیادتی میں غالب ہونا۔
 البؤن و البؤن: ذوری۔ فصل۔ دو چیزوں کے درمیان فرق۔
 البؤنة: جمعوتی۔
 البان: ایک قسم کا درخت جس کے پتے بید کے پتے کی طرح ہوتے ہیں اور اس کے پھل

جہات کیلئے حرب المل ہے۔
 باعۃ اللداری: گھر کا گمن۔
 البیع: دور دور قدم رکھنے والا۔ کہا جاتا ہے "فروض بیع" دور دور قدم رکھنے والا گھوڑا۔
 بوعاء الطیب: خوشبو کی مہک۔
 باعہ (ن) بوعا: غلبہ کرنا۔ برابر ہونا۔ کہا جاتا ہے "انک لعالم لا تباغ" یعنی تو ایسا عالم ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔
 تبوع الذم یہ: جوش مارنا۔ فلان علیہ غالب ہونا۔
 البوعاء: خاک۔ غبار۔ بوعاء الطیب: خوشبو کی مہک۔
 باقی (ن) بوقا و بؤوقا: لڑائی جھگڑا بپا کرنا۔
 القوم: بیوقوفی کرنا۔ چوری کرنا۔ باقی الباقفة القوم: مصیبت پہنچنا۔ باقی القوم علیہ: اکٹھے ہو کر ظلم قتل کرنا۔ باقی الشفیقة: ڈوبنا۔ باقی الشئی: غالب ہونا۔ ظاہر ہونا۔ خراب ہونا۔
 بوق: لہجہ البوق: بگل بجانا۔
 تبوق: جموت ہونا۔ الزباء لہجہ الماشیة: جانوروں میں دبا چیلنا۔
 انباف: علیہم الشؤ: برائی و مصیبت پہنچنا۔ یہ: ظلم کرنا۔
 البوق: بگل۔ تری۔ زرخشا۔ ج ابواق و یبقان و بؤقات۔ اور کہا جاتا ہے "جاء بالبوق و ففخ لہ البوق" اس نے ڈنگے کی چوٹ اعلان کیا۔ نیز اس معنی میں آتا ہے کہ بیوہ کا اور لایعنی کنگو کی۔
 البؤلة: بارش کی سخت بوجھار۔ ج بوق۔
 الباقفة: گلدستہ۔ ساگپات کا مصلح بناقاة۔
 الباقی: من المتاع: بے قیمت۔ کہا جاتا ہے "متاع باقی" بے قیمت مسلمان۔
 الباقفة: مصیبت۔ شرد و سادو۔ کہا جاتا ہے "رفقت عنک باقفة فلان" یعنی میں نے تم سے فلاں کی لالہ ہوئی مصیبت کو اٹھایا ج بواقی۔
 البواق: بگل بجانے والا۔
 البوق: کلام باطل۔
 البؤلیضة: ایک قسم کے درخت کا نام۔
 بان (ن) بؤنکا: المتاع: بیچنا یا خریدنا۔

ہے۔
 البؤیض و البؤیضی: محتاج جس کے بہت بال بنتے ہوں۔
 باصۃ (ن) بؤصا: سابق ہونا۔ آگے بڑھنا۔
 حنة: بھاک کر چھینا۔ فی الأنثر: اصرار کرنا۔
 بؤص: میدان میں آگے بڑھنا۔
 الشئی: صاف رنگ والا ہونا۔
 البیاض: متبعض ہونا۔
 البؤص: ذوری (۔ البؤص) رنگ۔ صورت شکل۔ چوڑا۔ رشیم یا کتل۔ ج ابواص البؤصی: ایک قسم کی کشتی۔
 ظریق (بانیض) دور کاراستہ۔
 باص (ن) بؤصا: جھانپنے پڑنے کے بعد خوبصورت چرو والا ہونا۔ بالمکان: اقامت کرنا۔
 باط (ن) بؤطا: دولت مندی کے بعد محتاجی یا معزز ہونے کے بعد ذلیل ہونا۔
 البؤطہ: کھالی۔ کپڑے وغیرہ میں گول نشہ۔ ج بؤوط۔
 باط (ن) بؤطا: لاغری کے بعد موٹا ہونا۔
 باع (ن) بوعا: علیہ دینے کے لیے ہاتھ بڑھانا۔ الفروض: دور دور قدم ڈالنا۔
 (۔ و تبوع) العنبل: باغ سے اندازہ کرنا۔ دیکھنے لفظ باع و تبوع للتمساعی: باغ پھیلانا۔
 انباف: البؤق: بہنا۔ الحیة: اچھلنے کے لیے لہا ہونا۔ الشجاع من الصف: بہادر کا صف سے لکنا۔ الزجل الیہ: کشادہ روی سے بڑھنا۔ انباف لہ فی بضاعۃ: بیچنے میں سولت برتا۔
 المتاع: دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار کہا جاتا ہے "ظونل المتاع و زحبت المتاع" یعنی فیاض۔ "و قھصیر المتاع و ضیق المتاع" یعنی پھیل جائز۔ ج ابواص و باعہات و بیعان۔
 البؤع: مع دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدار۔ اور اس سے مش ہے "لا یعرف کوعۃ من بؤعہ" وہ کوع اور بوع کو نہیں پہچانتا۔ پوری

”فَلَانَ كَثِيرَ الْمَالِ يَبْدَأُهُ بِخَيْلٍ“ بِمَعْنَى غَيْرِ أَنْ يَبْخُلَ.

الْبَيْدَاءُ: بِيَابَانِ - ج. يَبْدُو بَيْدَاوَاتٍ.

الْبَيْدَاءَةُ: فَوْجٌ كَمَا هِيَ - وَاحِدٌ (بَيْدَاةٌ).

الْبَيْدَانَةُ: كَدْحِي - ج. بَيْدَانٌ كَدْحِي.

يَبْدُرُ: الْجَنْفَةُ: ذُو هِرْكَانَا.

الْبَيْدَرُ: كَهْلِيَانِ - خُرْمَنَ.

الْبَيْدَقُ: أَيْكُ شَكَارِي بِرَنْدَه.

الْبَيْدَقُ: سَفَرُكَارِ بِنَا بِبِلِ مَلِّهِ وَاللَا - أَوِ اسِي

سَهْ يَبْدُقُ الشَّطْرَنْجَ هِيَ - بِمَعْنَى شَطْرَنْجِ كَامَرَه

جِسْ كَوِيَارَه كَتَبَتْ هِيَ جِ بِي بَيْدَاةٍ.

الْبَيْزِقُ: جَمْعُ نَجْدِ الْبَيْزِقِ - وَ (الْبَيْزِقُ قُدَارُ)

جَمْعُ بَرْدَارِ.

الْبَيْزَارُ: بَازِرُ كَتَبَتْ وَاللَا - كَاشِكَارِ جِ بِي بَيْزَارَه.

الْبَيْرُورَةُ: كَاشِكَارِي - بَازِرِي رَكْمَوَالِ.

بَيْضُ اللَّذَّةِ وَجَهَهُ: خَوْبُصُورَتِ بِنَا.

أَبْيَاشُ: الشَّجَرَةُ: بَرَزِي بَيْضُ رِيَا.

الْبَيْشُ: أَيْكُ تَسْمِ كِي زَهْرِي كَهَالِ.

الْبَيْشُ: تَهَالِهَ - كَرَّحَا جِسْ مِشْ پُورَه لَغَا جَا.

هِيَ - جِ أَيْبَاشِ.

الْبَيْصُ وَالْبَيْصُ: تَخْلِي - كَمَا جَا هِيَ

”وَقَفَّوْا فِي حَيْضِ بَيْصٍ“ دَه لُوكُ تَخْلِي أَوِ تَخْتِي

مِشْ پَرَكْنِي.

بَاضٌ (ض) يَبْضُدُ: الطَّلَاةُ: ائْرُطَه رِيَا.

صَفْتُ ذَكَرِ (بَاضٌ) مَوْنَتِ بَاضِ جِ بَوَاضِ

أَوِ اَرَامِ مَبَاهِ (بَيْضُ) جِ بَيْضُ وَبَيْضُ

بَاضٌ الْحَوْرُ: كَرِي تَخْتِ هُونَا _____ فَلَانَا:

سَفِيدِي مِشْ غَالِبِ هُونَا _____ الشَّحَابُ:

بَارِشُ هُونَا _____ بِالْمَكَانِ: اِقَامَتِ كَرَا.

بَيْضَةُ: سَفِيدِ كَرَا. أَوِ اسِي سَهْ ”تَبْيِضُ

الْكِبْتَانَتِ“ هِيَ - بِمَعْنَى مَسْوَدَه كَوِ صَافِ كَرَكِ

لَكَهْنَا أَوِ ”تَبْيِضُ الْاَلَانِيَةَ“ بِمَعْنَى تَقْلِي كَرَا. أَوِ

كَتَبَتْ هِيَ ”بَيْضُ اللَّذَّةِ وَجَهَهُ“ اَللَّهِ اسْ كِي چَرَه كَوِ

رُوشِ كَرَسَ.

أَبَاخَصِبُ: الْمَرْأَةُ: سَفِيدِ بَنَجِي جَنَا.

بَانَضَةُ: سَفِيدِي مِشْ غَالِبِ هُونَهْ پَرِ مَقَابِلَه

كَرَا.

إِبْقَاضُ: خَوْبُ پَنِنَا _____ الْقَوْمُ: فَا كَرِيَا.

أَبَابِيَتِ - أَوِ بِقَوْلِ بَعْضِ يَتِيمَاتِ أَوِ أَبَابِيَتِ
اَشْرَافِ كَيْلِيَه مَخْصُصِ هِيَ - تَهْغِيرُ مَيْنَتِ: كَهْرُ مَكَانِ

شَرَاةٍ: يَبِيْتُ الرَّجُلِ: اَلِ وَ عِيَالِ يَبِيْتُ

الْيَسْفَرُ: دَه مَعْظُومُ كَلَامِ جُودِ مَصْرُوعِي پَرِ شَامِلِ هُوَ.

يَبِيْتُ الْقَصِيدَةِ: قَهْمِيدَه كِي مَحْرَمِنِ اَشْعَارِيَارَه شَعْرِ

جُوشَعَارِي غَرَضِ كَوِ مَخْصُصِ هُوَ.

يَبِيْتُ الْمَقْدَسِ أَوْ الْبَيْتِ الْمَقْدَسِ: مَلِكِ

شَامِ كِي اَيْكُ شَرِكَا نَامِ - يَبِيْتُ الْمَالِ: كَهْكَوْمَتِ

اِسْلَامِي كَا خِرَازِمِ - يَبِيْتُ الْعَنْكَبُوتِ: كَرْمَلِي كَا جَالَا.

الْبَيْتُ الْعَيْتِيُّ أَوْ الْبَيْتُ الْحَزَامِ: كَهْبِ مَعْظَمَه.

أَوِ كَمَا جَا هِيَ ”هُوَ جَارِي يَبِيْتُ يَبِيْتُ“ دَه مِيرَا

پَرِ دُوسِي هِيَ جِسْ كَا كَهْرِ مِيرَه كَهْرَسَه مَلَا هُوَا هِيَ.

الْبَيْبَاتِ: شَبِ خُونِ ذَالَا.

الْبَيْبَتِ وَالْبَيْبَتَةِ: رَاةِ كِي خُورَاكِ - كَمَا جَا هِيَ

”لَهْ يَبِيْتُ لَيْلِيَةَ“ اِسْ كِي پَاسِ اَيْكِ رَاةِ كِي

خُورَاكِ هِيَ.

الْبَابِيَتِ وَالْبَيْبُوتِ: بَاسِي - هِرُودَه چِيَزِ جِسْ پَرِ رَاةِ

كُرِزِ رُجَلِي هُوَا دَرُوه مَعْنَدِي هُوَ چَكَلِي هُوَ - كَمَا جَا هِيَ

”أَسْتَقْبِي مِنَ بَيْبُوتِ السَّقَاءِ“ بِمَعْنَى جَهْ كَوِ اِسْ

دُودَه مِشْ سَهْ پَلَا ذُجُورَاةِ كُو دُو دَا كِيَا هُوَا دَرِ مَشْكَرَه

مِشْ رَكَه كِيَا هُوَا مِهَا مِشْ تَكِ كِي مَعْنَدَا هُوَا كِيَا هُوَ.

الْبَيْبُوتِ: اَيْبَا مَحَالَهْ جِسْ كِي وَجَهْ سَهْ صَاةِ

مَحَالَهْ رَاةِ سَوَجِ پِجَارِ مِشْ كُرَارَه - مِشْ بَيْبُوتَةُ:

مَضْبُوطَاةِ.

الْمَيْبِيَتِ: رَهْطِي كِي جَلَهْ - شَبِ بَاشِي كِي جَلَهْ.

الْمَيْبِيَتَةُ: مِشْ الْبِنَاةِ: كَهْرُ أَوِ شُورِ رَاةِ

عُورَتِ.

الْمُسْتَبِيَتِ: تَقْوِيَرِ.

بَيْحُ تَبْيِيْحَاةِ: چَكَلِي سَهْ عِيدِ مَلَانَا.

الْمَحْمُ: كَا نَا اَوِ تَقْسِيْمِ كَرَا.

الْبِيْحَاةُ وَالْبِيْحَاةُ: اَيْكُ تَسْمِ كِي چَهْوَنِي مَجْمُوعِي.

الْبِيْحَاةُ: مَجْمُوعِي كَا جَالَا.

الْبِيْحَانُ: رَاةِ ظَا هِرُ كَرْنَه وَاللَا.

بَاذِبِيْدِي تَبِيْدَاوِ يَبِيْدَاوِ يَبِيْدُو ذَاوِ يَبِيْدُو ذَهْ: هَلَاكِ

هُونَا - بَاذِبُ الشَّمْسِ يَبُو ذَاوِ غُرُوبِ هُونَا.

أَبَاذَهْ: هَلَاكِ كَرَا.

يَبِيْدُ: بِمَعْنَى خَيْرِ اِسْ كِي بِيْشَه اَضَاةِ اِسْ جَمْلَهْ كِي

طَرَفِ هُوَتِي هِيَ جِسْ پَرِ اَنْ رَاةِ اِوَلِ هُوَا هِيَ چِيْ

سَهْ خُوشِيوَا رَتَلِ كَلَمَا هِيَ اَوِ رُوجِ طَوِيلِ هُونَهْ
كِي اِسْ سَهْ قَدْرُ كَوِ تَهْشِيْرَه دِي جَا تِي هِيَ.

الْبَوَانُ وَالْبَوَانُ: خَيْرِ كَرْمَلِ كَرْنَه كَا سَتُونِ جِ

أَبُوْنَهو وَبُوْنِ وَبُوْنِ.

بَاهُ (ف) بُوْهَا: اِلْدَشِي: كَهْمَا - كَمَا جَا هِيَ

”مَاهِيْتُ وَمَاهِيْتُ الْأَمْرُ“ مِشْ نَهْ مَحَالَهْ كَوِ

نَهْشِي كَهْمَا.

بَاهَةُ: الدَّارُ: كَهْرُ كَا مَحْنِ.

الْبُوْهَةُ: اَلْوِيَا اَلْوِيَا مَانَه اَيْكِ بِرَنْدَه.

الْبُوْهَةُ: الْبُوْهَةُ كَا مَوْنَتِ - هُوَ قُوفِ مَرَدِ رُودَاةِ

مِشْ ذَالِنَهْ كِي لِيَهْ وَهَكَلِي هُوَتِي شَكْلِ اِدُونِ - أَوِ

اَكْرُودَاةِ مِشْ ذَالِ دِيں تُوَا سِ كَوِ ”لَيْقَةُ“ كَتَبَتْ

هِيَ.

الْبُوْهُ: اَدُوْنِي كَا چَكَلِي - اَدُوْنِي وَغَيْرَه كِي مَرُورَه چَكَلِي

كَهَالِ جِسْ مِشْ كَهَالِ وَغَيْرَه مَجْرُ كَا سِ كِي مَالِ كِي

سَاةِ كَرِ دِيچَه هِيَ نَاكِهْ دُودَه دُودَه مِشْ اَسْمَانِي

هِيَ.

بُوِي بُوِي بِيَا: دُوسَرَه كِي فَعْلِ كِي نَقْلِ

كَرَا.

الْبُوِي: تَهْلِيَدِ - نَقْلِي - اَرَزُو - طَبِيْعَتِ - اَلِمِ.

الْبَيْبُ: تَابِدَانِ - حَوْضِ كِي تَابِلِ.

الْبِيْبَابُ: مَسْتَه جُوكُ لُوكُو كُو بَانِي پَلَا تَا مَحْرَمِي.

بَابُ (ض) يَبِيْتَاوِ بِيْبَاتَاوِ يَبِيْتُوْتَهْ وَبِيْبَاتَاوِ

مَبَانَا. فِي الْمَكَانِ: شَبِ بَاشِي كَرْنَا _____

فَلَانَا وَبِهْ وَعِنْدَهْ: كَسِي كِي پَاسِ رَاةِ مِشْ آتَا.

كَمَا جَا هِيَ ”بَابُ يَفْعَلُ كَذَا“ جَبَكِهْ كَسِي كَامِ كَوِ

رَاةِ مِشْ كَرَسَهْ جِيْسَا كِهْ جَبِ دُونِ مِشْ كَرَسَهْ تُو كَمَا

جَا تَا هِيَ ”ظَلَّ يَفْعَلُهْ كَذَا.“

بَابُ يَبِيْتِ بِيْبَاتَاوِ الرَّجُلِ: نَكَا حِ كَرْنَا _____

الرَّجُلِ: نَكَا حِ كَرْنَا.

بَيْتِ الشَّيْ: رَاةِ مِشْ كَرْنَا _____ الْعُدُو:

شَبِ خُونِ ذَالَا _____ الْبَيْتِ: كَهْرِي تَا _____

رَاةِ: رَاةِ مِشْ سَوَجِ پِجَارِ كَرْنَا.

بَيْتِ الشَّيْ: اِنْدَاةِ كِيَا جَانَا.

أَبَابَةُ: شَبِ بَاشِي كَرْنَا - كَتَبَتْ هِيَ - أَبَابَةُ اَللَّهِ

أَحْسَنُ آيَةِةِ: بِمَعْنَى اِبَابَةُ.

اِسْتَبَاتِ: رَاةِ كِي خُورَاكِ مِيَا كَرَا.

الْبَيْبَتِ: جِ بَيْبُوتِ وَاَبِيَاتِ وَجِ بَيْبُوتَاتِ وَ

قوم کے میدان میں داخل ہوتا۔

بَيْضٌ وَابْيَاضٌ سفید ہونا۔

البَيْضُ: سفیدی۔ دودھ۔ بِيَاضُ الْعَيْنِ:

آنکھ کی سفیدی۔ بِيَاضُ الْبَيْضَةِ: انڈے کی

سفیدی۔ بِيَاضُ الْجِلْدِ: بے بال چڑا۔ بِيَاضُ

الْوَجْهِ: شمرت و نیک نامی۔ بِيَاضُ النَّهَارِ: دن

کی روشنی۔ الْيَوْمُ: تمام دن۔

الْأَرْضُ: عمارت سے خالی زمین۔

الْبَيْضُ: گوردہ کی چرنی۔ اور کتے ہیں فَلَانٌ يَلْبَسُ

السَّوَادَ وَالْبَيْضُ: وہ سیاہ و سفید پرتا ہے۔ اور

کبھی سواد کو نساد کے لیے اور بیاض کو صلاح کے

لیے مثال قرار دیتے ہیں۔

الْبَيْضَةُ: البیض کا واحد۔ انڈا۔ ج بیضات

اور بیض کی جمع بیوض ہے۔ خضیہ۔ خور۔ بَيْضَةُ

الْقَوْمِ: چوپال۔ بَيْضَةُ الْبَلَدِ: شہر کا سب سے بڑا

آرمی۔ گنام نسب والا۔ بَيْضَةُ الْيَدِيكَ: مرغ کا

انڈا (جو چیز ناممکن الحصول ہو یا ایک ہی مرتبہ پائی

جائے اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، جیسے اردو

میں ہمیں کا انڈا)

الْحَرُّ: گرمی کی شدت۔ الخذر:

لڑکی۔

العقر: آخری اولاد۔

الْأَبْيَضُ: مؤنث بیضاء۔ ج بیض۔ سفید۔

الموت الأبیض: ناگہانی موت۔

والخبط الأبیض: کتابیہ ہے سفیدہ صبح سے۔

الْبَيْضَاءُ: نعمت و احسان۔ کہا جاتا ہے

”أَبْيَئُهُ“ فی بَيْضَاءِ الْقَيْظِ” میں اس کے پاس

سخت گرمی میں آیا و كَلْمَةُ فَصَا رَدَّ عَلَيَّ

بَيْضَاءً وَلَا سَوْدَاءً“ میں نے اس سے گفتگو کی

اس نے اچھا برا کوئی جواب نہیں دیا۔ اللَّيَالِي

الْبَيْضُ: چاندنی راتیں۔ قمری مینے کی تیرہویں،

دہویں، پندرہویں راتیں۔ وَآيَاتُ الْبَيْضِ:

انہی راتوں کے دن۔ الْأَبْيَضَانِ: دودھ اور پانی یا

دودھ اور چربی یا روئی اور پانی۔ اور کہا جاتا ہے ”مَا

رَأَيْتُهُ مِنْذُ بَيْضَانٍ“ میں نے اس کو دو مہینے یا دو

دن سے نہیں دیکھا اور ہذا بیض من ذاک شاذ

ہے۔ قیاس اشدُّ بِيَاضًا ہے۔ البَيْضَاءُ: چاندی۔

گیوں۔

الْبَيْضَاءُ: ہمت انڈوں والی۔

الْبَيْضَانِ: مِنَ النَّاسِ: سفید نام لوگ۔

بَانِطٌ (ض) بَيْطًا: لاغری کے بعد موٹا ہونا۔

الْبَيْطُ: چوٹی کے انڈے۔

بَاعَ (ض) بَيْعًا وَبَيْعًا: فَلَانًا كَيْتَابًا أَوْ مِنْ

فُلَانٍ كَيْتَابًا: بیچنا۔ خریدنا۔ صفت (بائع) جمع باعۃ۔

صفت مفعول (مبیع)

بَابِعَةٌ مَبَايِعَةٌ: باہم عقد بیع کرنا۔ باہم معاہدہ کرنا۔

کہا جاتا ہے ”بَابِعُوهُ بِالْخِلَافَةِ وَ يُؤَيِّعُ لَهُ

بِالْخِلَافَةِ“ لوگوں نے اس کی خلافت کی بیعت

کی۔

أَبَاعَ الشَّيْءَ: بیچنے کے لیے پیش کرنا۔

تَبَايَعًا: باہم خرید و فروخت کرنا۔

إِتْبَاعَ الشَّيْءِ: خریدنا۔

إِتْبَاعَ الشَّيْءِ: راجع ہونا۔

الْبَيْعُ: فروختگی۔ خرید۔

الْبَيْعَةُ: عہد دہیان۔

الْبَيْعَةُ: کلیسا۔ گرجا۔ یہودیوں کا عبادت خانہ ج

بَيْعٌ وَبَيْعَاتٌ وَبَيْعَاتٌ:

الْبَيْعَاتُ: سامان فروختنی۔ ج بیعاعات۔

الْبَيْعُ وَالْبَيْعَاتُ: بیچنے والا۔ خریدار۔

بَاعَ بَيْعًا بَيْعًا وَبَيْعًا: الدَّمُ: جوش میں آنا۔

الْبَيْعَةُ: ایک قسم کی کھاس کا نام ہے۔

بَيْعُزٌ: چھٹا۔ ہلاک ہونا۔ سر جھکائے ہوئے تیز

چلنا۔ غیر معلوم جگہ میں جانا۔ فِي مَالِهِ:

جلدی سے جاہ و ریاد کر دینا۔ الدَّارُ: اُترنا۔

الْأَبْيَقُ: بے خیر و بے فیض آدمی۔

الْبَيْكَارُ: پرکار۔

الْبَيْلَسَانُ وَالْبَيْلَسَانُ: ایک قسم کا درخت ہے

جس سے خوشبودار تیل نکلتا ہے۔

الْبَيْمَارِسْتَانُ وَالمَارِسْتَانُ: شفا خانہ۔ اس

کیلے عربی لفظ ”مُسْتَشْفَى“ ہے۔

بَانَ (ض) بَيْئَانًا وَبَيْئَانًا وَبَيْئَانًا: جدا ہونا۔

بَانَ (ض) بَيْئَانًا وَبَيْئَانًا: ظاہر ہونا۔

واضح ہونا۔ صفت (بین و باین) ج ابیناء و بایناء

و ابینان۔

أَبَانَ الشَّيْءَ: ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔ جدا کرنا

الشَّيْءَ: ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ صفت

(مبین) کہا جاتا ہے ”حَضْرَتُهُ فَلَانٌ وَاسْتَهْ مِنْ

حَضْرَتِهِ“ اس نے اس کو مارا اور اس کے سر کو

دھڑ سے جدا کر دیا۔

بَيْنَ الشَّيْءِ: واضح ہونا۔ ظاہر ہونا۔

الشَّيْءُ: بچے لکنا۔ الشَّيْءُ: واضح

کرنا۔

الْبَيْتُ: نکاح کر دینا۔

بَابِعَةٌ: چھوڑ کر جدا ہونا۔

تَبَيَّنَ: الشَّيْءُ: واضح ہونا۔ الشَّيْءُ:

واضح کرنا۔ غور و تامل کرنا۔

تَبَيَّنَا: ایک دوسرے کو چھوڑنا۔ ایک

دوسرے سے دور ہونا۔ تَبَيَّنَ الشَّيْئَانِ: باہم

متفاوت ہونا۔

إِسْتَبَانَ الشَّيْءَ: واضح ہونا۔ الشَّيْءُ:

کسی چیز کی وضاحت طلب کرنا۔

بَيْنَ: درمیان (طرف ہے)

بَيْنَ بَيْنَ (دونوں کلمے جتنی رفعت ہیں) بمعنی

درمیانہ۔ متوسط۔ اور کہا جاتا ہے ”بَيْنَا وَبَيْنَمَا

لَحْنٌ نَضْرِبُ“

الْبَيْنُ: جدائی۔ وصل۔ کہا جاتا ہے ”تقطع

بَيْنَهُمَا“ یعنی ان کے میل ملاپ میں فصل واضح

ہو گیا۔

ذَاتُ الْبَيْنِ: نسب۔ رشتہ داری۔ دوستی۔

عداوت۔ نفاذ۔ کہا جاتا ہے ”مَنْعِي فِي إِصْلَاحِ

ذَاتِ بَيْنِهِمْ“ یعنی ان کے اصلاح حال میں

کوشش کی۔

الْبَيْنُ: گوشہ۔ دو زمینوں کے درمیان کا

فاصلہ۔ حد نظر تک کی زمین کا کلراج بیون لفظ

بین کے معنی ترکی زبان میں ہزار کے ہیں۔ بین

باشی کے معنی ہزار کا سردار۔

الْبَيْانُ: مصدق۔ فصیح گفتگو جوانی الضمیر کو ظاہر

کرے۔

الْبَائِنَةُ: البائِنُ: کاموث۔ ولسن کا چیز (مولدہ)

البائِنَةُ: گمراہیوں۔


الْبَيْتَةُ: البَيْنُ: کاموث۔ دلیل و حجت ج

بیتات۔

بَابِعَاتُهَا بَيْئَانًا: مُطَبَعٌ ہونا واقف ہونا۔ جاننا۔

بَيْئَاتُكَ اللَّهُ: بمعنی بَوَّأَكَ اللَّهُ۔ خدا تم کو مالک

ہائے، تمہارے رجبہ کو بلند کرے۔ اور کہا جاتا ہے "ہی بن ہی" یا "ہیان، ہیان" یعنی وہ ہے "ہی بن ہی" اور کہا جاتا ہے "وَلَسْتُ اَذْرِيْ اَيُّ هِيَ بِنِ هِيَ هُوَ" میں نہیں جانتا وہ کون آڑی ہے۔



التَّاءُ: حروفِ مبالغی کا تیسرا حرف (مؤنث) ج تاءات: نسبت کے لیے ثانی و تاولیٰ و تویوی: کہا جاتا ہے "فَصِنْدَةٌ ثَانِيَةٌ وَ تَوَالِيَةٌ وَ تَوِيوَةٌ": اس کا استعمال کئی طرح سے ہوتا ہے۔ فعل کے آخر میں تنکلم اور مخاطب کی ضمیر ہو کر جیسے قُنْتُ وَ قُنْتُ وَ قُنْتُ وَ قُنْتُ مَا وَ قَمْتُ وَ قَمْتُ وَ قَمْتُ وَ قَمْتُ جیسے قائمہ و قَمْتُنَّ اور کبھی تانیث کی علامت جیسے قَائِمَةٌ وَ ذَهَبْتُ اور کبھی جنس میں سے واحد پر دلالت کے لیے جیسے مَشْجُورَةٌ۔

اور کبھی مبالغہ کے لیے جیسے فَهَامَةٌ عَلَامَةٌ۔ اور کبھی یہ حرف جر ہوتا ہے اور قسم کے لیے آتا ہے اور لفظ اللہ کو جرتا ہے۔ جیسے تَاللَّهِ۔ اور کبھی کبھی اس لفظ کے علاوہ دوسرے کو بھی جرتا ہے جیسے تَوَيْبِي۔

اور کبھی میخہ یعنی المجموع کے آخر میں نسبت پر دلالت کے لیے جیسے مَهَالِبَةٌ۔ اور کبھی حرف محذوف کے بدلہ میں جیسے زَنَاوَقَهُ زَنْبِقِي كِي جَمْع۔

اور افعال کے اوائل اور وسط میں بھی زیادہ کیا جاتا ہے جیسے تَقَاتِلْ وَ اقْتَتَلْ اور کبھی اسماء کے آخر میں جیسے ملکوت کی تاء۔ اور کبھی اول کلمہ کے حرف محذوف کے بدلہ میں جیسے عَطْفَةٌ۔

اور کبھی آخر کلمہ سے جیسے شَفَقَةٌ۔ تا۔ مؤنث مفرد کے لیے اسم اشارہ ہے۔ اس کا ثنی تان۔ ج اولاد اور اس پر "تاء تیبہ" بھی داخل ہوتا ہے جیسے ہالانا ہالانا و ہؤلؤا۔

خطاب کی حالت میں کاف لاحق کرتے ہیں۔ جیسے تاک و تلک و تیلک و تلک میں ہمہ کاف ترفلت رویہ ہے) ثنی کے لیے تانک

و تانک اور جمع کے لیے اولک و اولاک و اولالک: اور تلک کے علاوہ ان سب پر ان سارے احوال میں ہاء تیبہ بھی داخل ہے۔ التائوٹ: کلزی کا صندوق۔ اور اسی سے تابوت میت ہے۔ کشتی۔ ج توائینت۔ تَائَاتُ تَائَاتَةٌ وَ تَائَاتَةٌ: بولتے ہوئی تھلا۔ صفت تَائَاءُ _____ الطِّفْلُ: چلنا _____ المحارِبُ: لڑائی میں اظہارِ شجاعت کے لیے اگرتے ہوئے چلنا۔

تَائَزَةٌ (ف) تَائَزًا: جھڑکنا۔ تَائَزًا تَائَزًا: دیکھنا۔ تکلی لگانا _____ بِالْمَعْصَاءِ: لاشعی سے مارنا۔ التَّائِزَةُ: ایک مرتبہ۔ ہمزہ کا ترک کثرت استعمال کی وجہ سے ہے۔ کہا جاتا ہے۔ "فَعَلْتُ تَائِزَةً هَذَا وَ تَائِزَةً ذَاكَ" وَ "تَائِزَةٌ بَعْدَ تَائِزَةٍ" ج تائزات و تھیر و تھیر تَائِزًا (ف) تَائِزًا: الجُرْحُ: زخم کا بھر جانا۔ مندرل ہونا _____ القَوْمُ فِي الْحَزْبِ: لڑائی میں ایک دوسرے سے قریب ہونا۔ تَوَيْبٌ (س) تَائِفًا: الأَنَاءُ: برتن کا بھر جانا۔ التَّوَيْبُ: غصہ سے بھر جانا۔ صفت (تَبِقٌ وَ مَتَاقٌ) أَتَاقٌ: الأَنَاءُ: برتن بھرنا۔ التَّائِقَةُ: غصہ کی تیزی۔ اور لڑائی کی طرف تیز تندی۔

أَتَامَتِ: المَرْأَةُ: جوڑواں بیٹھا۔ صفت (مُنْتَبِهٌ) اور اگر یہی عادت ہو تو ایسی عورت کو (مستام) کہتے ہیں۔ ج متانیم۔ تَاءَمٌ: أَعْمَاهُ: جوڑواں پیدا ہونا۔ صفت (تَبِيمٌ) وَ تَوَيْمٌ وَ تَبِيمٌ: الثَّرْبُ: تانا بانا دونوں میں دوسوی بنا۔ صفت مفعولی (مستام)

التَّوَامُ: ج توایم و توأم۔ مؤنث تَوَامَةٌ: کہا جاتا ہے "هَذَا تَوَامٌ هَذَا وَ هَذِهِ تَوَامَةٌ هَذِهِ" اور جب دونوں جمع ہوں تو ان کو تَوَامَانٌ وَ تَوَامٌ کہتے ہیں جیسے زَوْجَانٌ وَ زَوْجٌ۔ التوام: جوئے کے تیروں میں سے ایک تیر۔ تَوَائِمُ النُّجُومِ أَوِ اللُّوْلُؤِ: ستارے یا سوتی جو آپس میں گتے ہوئے ہوں۔

تَبَّ (ن) تَبًّا: الشَّيْءُ: کائناتا _____ فَلَانًا: ہلاک کرنا۔ تَبَّأ وَ تَبَّأ وَ تَبَّأ وَ تَبَّأ: ہلاک کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "تَبَّأ لَهُ" یعنی اللہ اس کے لیے خسران و ہلاکت لازم کرے۔ "وَ تَبَّتْ يَدَاهُ" اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ تَبَّبَ: فَلَانًا: کسی سے تبالک کرنا۔ ہلاک کرنا۔

أَتَبَّبَ: کمزور و ضعیف کرنا۔ اِمْتَنَّبَ: الأَمْرُ: درست ہونا۔ درست طریقے سے جاری رہنا۔ التَّوَجُّلُ: کمزور و عاجز ہونا _____ الظَّرِيقُ: چلنا ہوا ہونا۔ التَّبَابُ: کی۔ نقصان۔ ہلاکت۔ التَّبِيَةُ: سخت حالت۔

التَّابُ: بوڑھا اور کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے "كُنْتُ شَابًا فَصِرْتُ تَابًا" میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا۔ ج أَتَبَابُ۔ تَبَّبَ: التَّوَجُّلُ: بوڑھا ہونا۔ تَبَّرَ (س) تَبَّرًا: ہلاک ہونا۔ تَبَّرَةٌ (ض) تَبَّرًا: ہلاک کرنا۔ توڑنا۔

أَتَبَّرَ: عِنَ الأَمْرِ: پیچھے ہٹنا یا باز رہنا۔ تَبَّرَةٌ: ہلاک کرنا۔ التَّابُّورُ: فوجی جماعت۔ ج تَوَابِيرُ۔

مُتَبَّبٌ: کمزور و ضعیف کرنا۔ اِمْتَنَّبَ: الأَمْرُ: درست ہونا۔ درست طریقے سے جاری رہنا۔ التَّوَجُّلُ: کمزور و عاجز ہونا _____ الظَّرِيقُ: چلنا ہوا ہونا۔ التَّبَابُ: کی۔ نقصان۔ ہلاکت۔ التَّبِيَةُ: سخت حالت۔

التَّابُ: بوڑھا اور کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے "كُنْتُ شَابًا فَصِرْتُ تَابًا" میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا۔ ج أَتَبَابُ۔ تَبَّبَ: التَّوَجُّلُ: بوڑھا ہونا۔ تَبَّرَ (س) تَبَّرًا: ہلاک ہونا۔ تَبَّرَةٌ (ض) تَبَّرًا: ہلاک کرنا۔ توڑنا۔

أَتَبَّرَ: عِنَ الأَمْرِ: پیچھے ہٹنا یا باز رہنا۔ تَبَّرَةٌ: ہلاک کرنا۔ التَّابُّورُ: فوجی جماعت۔ ج تَوَابِيرُ۔

مُتَبَّبٌ: کمزور و ضعیف کرنا۔ اِمْتَنَّبَ: الأَمْرُ: درست ہونا۔ درست طریقے سے جاری رہنا۔ التَّوَجُّلُ: کمزور و عاجز ہونا _____ الظَّرِيقُ: چلنا ہوا ہونا۔ التَّبَابُ: کی۔ نقصان۔ ہلاکت۔ التَّبِيَةُ: سخت حالت۔

التَّابُ: بوڑھا اور کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے "كُنْتُ شَابًا فَصِرْتُ تَابًا" میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا۔ ج أَتَبَابُ۔ تَبَّبَ: التَّوَجُّلُ: بوڑھا ہونا۔ تَبَّرَ (س) تَبَّرًا: ہلاک ہونا۔ تَبَّرَةٌ (ض) تَبَّرًا: ہلاک کرنا۔ توڑنا۔

أَتَبَّرَ: عِنَ الأَمْرِ: پیچھے ہٹنا یا باز رہنا۔ تَبَّرَةٌ: ہلاک کرنا۔ التَّابُّورُ: فوجی جماعت۔ ج تَوَابِيرُ۔

التَّبَاعُ: ہلاکت۔
 التَّبِعُ: سونے کاغیر ذلہا ہوا ذہیلا۔ واحد تَبِیرة۔
 التَّبِیرَةُ: سرکی بھوس (ہیرے میں ایک لخت ہے)
 المَثْبُورُ: ہلاکت شدہ۔ ناقص۔
 تَبِعَهُ (س) تَبِعًا وَتَبَاعًا وَتَبَاعَةً وَتَبِعَهُ: پیچھے چلنا۔ ساتھ چلنا۔ فرمانبردار ہونا۔ صفت (تبع) واحد اور جمع دونوں کے لیے آتا ہے۔ ج: اتَّبَعَ وَتَابَعَ وَتَبِعَ وَتَبِعَهُ وَتَوَابَعَ وَتَبَاعَ: التابع لآخر۔ خادم۔ جن۔ تبع وَتَبِعَ الشَّيْءُ: پیروی کرنا۔ نشان قدم پر چلنا۔
 تَبِعَهُ: پیروی کرنا۔ تبع بہ کذا لائق کرنا
 تَابَعَ: تَبِعَ الْأَعْمَالُ: لگاتار کرنا۔
 التَّحْدِثُ: اچھی طرح بیان کرنا۔ الْعَمَلُ: محکم کرنا۔ مضبوط کرنا۔ فَلَمَّا عَلِيَ الْأَمْرُ: موافقت کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَابَعِي بِمَالِي عِنْدِي" یعنی اس کا جو کچھ میرے پاس تھا اس کا اس نے مجھ سے مطالبہ کیا۔
 اتَّبَعَهُ: پیروی کرنا۔ لائق ہونا۔ اتَّبَعَهُ كَذَا: لائق کرنا۔
 تَفْتِخُ: الْأَمْرُ: دیر تک تلاش و جستجو کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَفْتِخُ أَحْوَالَهُ" میں اس کے احوال کو ٹوٹا رہا۔
 تَتَابَعَتِ الْأَخْبَارُ: ایک دوسرے کے پیچھے آتا۔
 اسْتَتَبَعَهُ: پیچھے چلنے کو کہنا۔
 التَّبِيعُ: تابع۔ عاشق۔ کہا جاتا ہے "هُوَ تَبِيعُ الْكُرْمِ" وہ فاضی کا عاشق ہے۔
 التَّبِيعُ: بہت تابعداری کرنے والا۔
 التَّبِيعَةُ: ج تَبِيعَاتٍ وَالتَّبَاعَةُ: ج تَبَاعَاتٍ: نادان۔ ڈانٹ۔ کہا جاتا ہے "لِئِهَذَا الْفِعْلُ تَبِيعَةٌ" یعنی اس فعل سے ضرر لائق ہونے والا ہے۔
 تَبِيعَ: تبیع کے بلاش ہوں کا لقب۔ ج: التَّبِيعَةُ وَالتَّبِيعُ: ساری۔ شرم کی بڑی کمی ج: تَبِيعُ وَالتَّبِيعُ: مددگار۔ پیروی کرنے والا۔ ج: تَبِيعَ وَتَبِيعَ: تبیع۔
 التَّبِيعَةُ: تابع کا مؤنث۔ نوکرانی۔ خادمہ۔ بیہ۔
 التَّبَاعِيُّ: تابع اور تابع کی جانب نسبت۔ وہ

مخض جس نے بحالت ایمان صحابہ کرام میں پیغمبر کی زیارت کی ہو اور حالت ایمان ہی پر انتقال ہوا ہو۔
 التَّبَاعُ: تابع کا مصدر۔ اور کبھی صفت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے "شہد ناہن ایاما تَبَاعًا"
 الاتِّبَاعُ: مع کسی ایسے کلمہ کا لانا جو ما قبل کے کلمہ کے ہم وزن ہو۔ جیسے کثیر بثیر۔ خبیث نبیث۔
 التَّبِيعُ: تمباکو۔
 تَبِيعَةُ (ن) تَبِيعًا وَتَبِيعَةً: الْحَبُّ أَوْ الذُّمُّ: پیار کرنا۔ عقل کو ضائع کرنا۔ صفت مضوی (مقبول و تینیل) ہے۔
 تَبِيلٌ وَتَابِلٌ وَتَوْبِلٌ: الطَّعَامُ: سالہ ڈالنا۔
 التَّبِيلُ: مع۔ کینہ۔ دشمنی۔ کہا جاتا ہے "بینھما تَبِيلٌ" ان دونوں کے درمیان عداوت ہے ج: اتَّبِيلٌ وَتَبِيلٌ۔
 التَّابِلُ وَالتَّابِلُ وَالتَّابِلُ: مسالہ۔
 التَّبَالُ: مسالہ والا۔ مسالہ پیچھے والا۔
 التَّوْبَالُ: مِنَ التَّحَاسِ وَالتَّحْدِيدِ: ذرات جو کوٹے میں گریں۔
 تَبِينُ (ض) تَبِينًا: الدَّيْبَةُ: بھوسہ کا چارو دینا۔
 تَبِينُ (س) تَبِينًا وَتَبَانَةً: سمجھ دار و ذکی ہونا۔ صفت (تَبِينُ)
 تَبِينٌ: بھوسے کے ذخیرہ میں بھوسہ رکھنا۔
 الرَّجُلُ: باریک بین ہونا۔
 التَّبِينُ: جاگھیا ہونا۔ لنگوٹ باندھنا۔
 التَّبِينُ: بھوسہ، واحد (تَبِينَةٌ) ج: اتَّبَانٌ وَتَبِينُونَ: بڑا پیالہ۔
 التَّبِينِيُّ: بھوسہ کے رنگ کا۔
 التَّبَانُ: بھوسہ پیچھے والا۔
 التَّبَانُ: لنگوٹ۔ جاگھیا۔ نیکر۔
 تَبَانُ (ض) تَبَانًا: غزودہ کرنا اور مال قیمت حاصل کرنا۔
 التَّبَرُّ: قوم تاتار۔ واحد (تَبَرُّ) کہا جاتا ہے "جَاءَ الْقَوْمُ (تَبَرُّ) وَتَبَرُّ" لوگ پے در پے آئے اس کی اصل وَتَوْبَرُّ ہے۔
 التَّبَرُّ: تمباکو (یہ لفظ ترکی الاصل ہے اس کے معنی دھوئیں کے ہیں)۔

تَبَجَزَ (ن) تَبَجَزًا وَتَبَجَزَةً وَتَابَجَزَ وَاتَّبَجَزَ وَاتَّبَجَزَ: سوداگری کرنا۔
 التَّبِجَازَةُ: سوداگری۔ سرمایہ۔
 التَّبَاجِرُ: سوداگر۔ عرب شراب پیچنے والے کو تاجر کہا کرتے تھے۔ ج: تَبَجَزَ وَتَبَجَزًا وَتَبَجَزَ: اور کہا جاتا ہے "بِضَاعَةُ تَابَجِرَةٌ" راجح سلمان۔ ج: تَوَاجِرُ۔
 التَّبَجَرُ: سوداگری۔ سرمایہ۔ اور اسی سے ہے "وَصُنْعُهُ فِي مَشْجَرِ الْحَمْلِيِّزِ الْعِجَّةِ"
 التَّبَجِرَةُ: منڈی۔ کہا جاتا ہے "أَزْضُ مَشْجَرَةٌ" تَبَارَتِي نَلِكُ۔
 تَبَحَّتْ: بچے۔ اس لفظ کے لیے اضافت لازم ہے اور جب اضافت سے علیحدہ کرتے ہیں تو جملی برضہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں "جَاءَ مِنْ تَبَحَّتْ" ج: تَبَحَّتُوت۔
 التَّبَحُّوتُ: کہنے۔ اولیٰ درجہ کے لوگ۔
 التَّبَحُّوتَانِي: تحت کی جانب منسوب۔ بچے کی چیز۔
 تَبَحَّتْ: مِنْ مَكَانِهِ: حرکت دینا۔ کہا جاتا ہے "فَلَمَّا لَا يَتَّبِعُخُ مِنْ مَكَانِهِ" فلاں جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔
 التَّبَحُّوتَةُ: حرکت۔ تسمہ کی حرکت کی آواز۔
 التَّبَحُّوتَةُ: الشَّيْءُ وَبِالشَّيْءِ وَالتَّبَحُّوتَةُ: بہ: ہدیہ کرنا۔ تحفہ دینا۔
 التَّبَحُّوتَةُ: التَّبَحُّوتَةُ: ہدیہ۔ نہیں تسمہ کی چیز۔ ہر وہ چیز جو کسی کے سامنے لطف و مہربانی کے طور پر پیش کی جائے۔ ج: تَبَحُّوتُ۔
 تَبَحَّمَ (ن) تَبَحُّمًا: الْقَوْبُ: نقش و نگار کرنا۔
 التَّبَحُّمُ: التَّبَحُّمًا: سخت سیاہ ہونا۔
 التَّبَاحِمُ: جولاہہ۔
 التَّبَحُّمُ: سخت سیاہ۔
 التَّبَاحِمُ: باغبان۔
 تَبَحَّ (ن) تَبَحُّوحَةً: الْعَجِينُ: گندے ہوئے آنے کا ترش ہونا۔ (تَبَحُّ) الْعَجِينُ: او الطَّيْنُ: گندے آنے یا مٹی کو نرم ہونے کے لیے پانی بڑھانا۔
 التَّبَحُّ: الْعَجِينُ: کھٹا کرنا۔ نرم ہونے کے لیے زیادہ پانی ڈالنا۔

المَاءُ بِأَيِّ كَأْمٍ جَاءَ -
 تَوْرَةٌ (ض) تَوْرًا: بچھاڑنا۔
 اَتَوْرَ الشَّيْءِ: سخت کرنا۔ خشک کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "الْحَزْمِيُّ يُنَزِّرُ لِحَمِّ الدَّابَّةِ" دوڑ جانور کے
 گوشت کو سخت کر دیتی ہے۔
 القَارِزُ: سخت وقوی۔ اور اسی سے ہے "إِنَّ
 عَجَبَتِكُمْ لِقَارِزٌ" تمہارا نمیر سخت ہے۔ خشک چیز
 جس میں روح نہ ہو۔ مردہ۔
 التَّرَازُ: جاہک موت۔
 تَوْرَةٌ: ڈھال پٹنا یا دینا۔ (توس) :
 ڈھال لگانا یا ڈھال سے اپنے آپ کو چھپانا۔ صفت
 (تارس) کہا جاتا ہے "لَا يَسْتَوِي الرَّاجِلُ
 وَالْقَارِضُ وَالْأَكْشَفُ وَالْقَارِشُ" پیدل اور
 سوار اور بے ڈھال والا اور ڈھال والا برابر نہیں۔
 اَتَوْرَسُ النِّيَابِ: دروازہ بند کرنا۔
 اَتَوْرَسُ: بالثَّرِبِ أَوْ غَيْرِهِ: ڈھال وغیرہ سے
 اپنی حفاظت کرنا۔
 التَّوْرَسُ: ڈھال۔ ج: اَتَوْرَسُ وَتَوْرَسُ وَتَوْرُوسُ
 وَتَوْرَسَةٌ: تَوْرَسُ الشَّمْسِ: آفتاب کی کلیا۔ کہا
 جاتا ہے "غَابَ تَوْرَسُ الشَّمْسِ"
 المِشْرَاسُ وَالمِشْرَاسَةُ: ج: مِشْرَاسُ وَ
 (المِشْرَاسُ) ج: مِشْرَاسُ: دروازے کے پیچھے
 لگانے کا ڈنڈا۔ دیوار وغیرہ جس کے پیچھے چھپ کر
 دشمن سے بچیں۔
 التَّوْرَاسُ: ڈھال بنانے والا۔ ڈھال والا۔
 التَّوْرَاسَةُ: ڈھال سازی۔
 التَّوْرَسَانَةُ وَالتَّوْرَسَانَةُ: اسلحہ خانہ۔ جواز
 سازی کا کارخانہ۔
 تَوْرِشُ (س) تَوْرِشًا: بد خلق ہونا۔ صفت
 (تَوْرِشُ)
 تَوْرِشُ (ك) تَوْرِشَةً: الشَّيْءُ: سیدھا ہونا۔
 مضبوط ہونا۔ صفت (تو ریش)
 تَوْرِشُ وَتَوْرِشُ: المِشْرَاسُ: سیدھا کرنا۔ صفت
 مضبوطی (تو ریش و مَشْرُوسُ): کہا جاتا ہے "اَتَوْرِشُ
 مِشْرَاسَكَ لِيَأْتَهُ شَابِلٌ" اپنی ترازو درست کرو
 اس لیے کہ وہ اٹھی ہوئی ہے۔
 المِشْرَاصَاتُ: سیدھے کھے ہوئے نیزے۔
 تَوْرِعُ (ع) تَوْرِعًا: برائی کی طرف سبقت کرنا۔

آمان زمین جیسا فرق ہے۔
 التَّوْرَةُ: مٹی۔ قبرستان۔ ج: تَوْرَبٌ: تَوْرَبَةٌ۔
 الْإِنْسَانُ: انسان کی قبر۔
 التَّوْرَبُ: فقیر۔ "رَبِيعٌ تَوْرَبَةٌ" خاک اڑانے والی
 ہوا۔ "لِحَمِّ تَوْرَبٍ": خاک آلود گوشت۔ "مَكَائِ
 تَوْرَبٍ" بہت مٹی والی جگہ۔
 التَّوْرَبَةُ: ج: تَوْرَبٌ: ایک قسم کی گھاس۔ ج
 تَوْرِبَاتُ: اگلیوں کے کنارے۔ سراگشت۔
 التَّوْرِبِيَّةُ: سینہ کی ہڈی۔ سینہ کا بالائی حصہ۔ تَوْرِبِيَّةُ
 التَّبَعِيَّةُ: اونٹ کے نحر کرنے کی جگہ۔ ج: تَوْرِبُ
 التَّوْرِبَةُ: فقر وفاقہ۔ کہا جاتا ہے "مِشْكِينٌ
 ذُو مَشْرَبَةٍ" یعنی خاک آلود مسکین۔
 تَوْرَتَرٌ تَوْرَتَرَةٌ: جلدی جلدی بولنا اور بہت بولنا۔
 گفتگو میں نرم ہونا۔ بدن کے لحاظ سے ڈھیلا ہونا
 الشَّيْءُ: خوب ہلانا۔
 تَوْرَتَرٌ تَوْرَتَرًا: ہل جانا۔
 التَّوْرَاتِرُ: سختیاں۔
 تَوْرُجُ (س) تَوْرُجًا: التَّوْرُجُلُ وَشَوَارِبَانَا: مشکل و
 شہتیاں۔
 تَوْرُجُ (ن) تَوْرُجًا: بچھنا۔ پوشیدہ ہونا۔
 التَّوْرُجِيُّ: مضبوط پٹوں والا۔ مَوْنَتٌ تَوْرُجِيَّةٌ:
 اور کہا جاتا ہے "رَبِيعٌ تَوْرُجِيَّةٌ" تیز ہوا۔
 تَوْرُجَمٌ: التَّكْلَامُ: ترجمہ کرنا۔ صفت (تَوْرُجْمَانُ
 وَ تَوْرُجْمَانُ) ج: تَوْرُجْمَةٌ وَتَوْرُجِمٌ: التَّوْرُجُلُ:
 عادات و اخلاق دیکھنا۔ عتقہ: کسی کے معاملہ کو
 واضح کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَوْرُجِمَهُ بِالتَّوْرُجِيَّةِ" اس
 نے تری زبان میں ترجمہ کیا۔
 تَوْرُجِمٌ: التَّكْلَامُ: شہتہ ہونا۔
 التَّوْرُجِمَةُ: ترجمہ۔ سوانح عمری۔ ج: تَوْرُجِمٌ وَ
 تَوْرُجِمَةُ الْكِتَابِ: کتاب کا تراجم۔
 تَوْرُجُ (ف) تَوْرُجًا وَتَوْرُجٌ: عملیں کرنا۔
 تَوْرُجُهُ وَتَوْرُجُهُ: عملیں کرنا۔
 التَّوْرُجُ: غم۔ محتاجی۔ فقیری۔ ج: اَتَوْرَاجُ:
 القُرْحُ: کم خیر والا۔ بہت غم والا۔
 المِشْرَاجُ: مِنَ التَّوْرُجِ: اونٹنی جس کا دودھ
 جلدی سے ختم ہو جائے۔ ج: مِشْرَاجِيَّةٌ۔
 تَوْرَزٌ (ض) وَتَوْرَزٌ (س) تَوْرَزًا وَتَوْرَزًا
 الشَّيْءُ: خشک ہونا۔ مضبوط ہونا۔ سخت ہونا۔

التَّوْرُجُ: بگاڑنا۔ مٹی کا عصارہ۔
 التَّوْرُجُ: سخت۔ تَوْرُجُ الْمَلِكِ: تخت
 شای۔ تَوْرُجُ الْمَمْلُوكَةِ: دارالسلطنت۔ جامہ
 دان۔ ج: تَوْرُجُوتُ۔
 التَّوْرُجِيَّةُ: لکنت۔ بھلا پن۔
 التَّوْرُجِيَّةُ وَالتَّوْرُجِيَّةُ: بھلا۔
 تَوْرُجِدَةُ (س) تَوْرُجِدًا: لینا۔
 تَوْرُجِمَةُ (ض) تَوْرُجِمًا: حد مقرر کرنا۔
 تَوْرُجِمُ (س) تَوْرُجِمًا وَالتَّوْرُجِمُ: بد بھسی ہونا۔
 اَتَوْرُجِمَةُ: الطَّعَامُ: جلائے بد بھسی کرنا۔
 تَوْرُجِمُ: مُلْكِي مُلْكِكَ: سرحدیں متصل
 ہونا۔
 التَّوْرُجِمُ وَالتَّوْرُجِمُ: سرحد۔ ج: تَوْرُجِمُومُ۔
 التَّوْرُجُجُ وَالتَّوْرُجُجُ: ایک خوبصورت پردہ
 جس کی دم لمبی ہوتی ہے۔ ج: تَدَارِجُ۔
 تَوْرَانُ (ض) تَوْرَانًا وَتَوْرُوْرًا: الْعَظْمُ: کٹ کر گرنا
 عَنْ قَوْمِهِ: الگ ہونا۔ ڈور ہونا۔ (توس)۔
 تَوْرَانَةُ: التَّوْرُجُلُ: موٹا اور ڈھیلا ہونا۔ صفت (تَوْرَانُ)
 اَتَوْرَهُ: دور کرنا۔ اَتَوْرِيْدَةً: ہاتھ کاٹ دینا۔
 التَّوْرُ: اصل۔ جز۔ معمار کی ڈوری۔
 التَّوْرِيُّ: مِنَ الْاَيْدِي: کٹا ہوا ہاتھ۔
 تَوْرِبُ (س) تَوْرِبًا: الْمَكَائِ: بہت مٹی والا ہونا
 الشَّيْءُ: مٹی لگ جانا۔
 تَوْرِبُ (س) تَوْرِبًا وَمَشْرَبَةٌ: التَّوْرُجُلُ: محتاج ہونا۔
 صفت (تَوْرِبُ وَتَوْرِبُ) ج: تَوْرِبُ: اور اسی سے
 ہے "تَوْرِبُ بَعْدَ أَنْ اَتَوْرِبُ" وہ مالدار ہونے کے
 بعد محتاج ہو گیا۔
 تَوْرِبٌ وَتَوْرِبٌ: مالدار ہونا۔ کم مال والا ہونا۔
 تَوْرِبُ وَتَوْرِبُ الشَّيْءِ: خاک ڈالنا۔
 تَوْرِبَةٌ: بمعصم ہونا۔ دوست ہونا۔
 تَوْرِبٌ مِثْلِي ہونا۔ خاک آلود ہونا۔
 التَّوْرِبُ: مٹی۔ ج: اَتَوْرِبُهُ وَتَوْرِبَانُ:
 التَّوْرِبُ: بکری کا دست۔
 التَّوْرِبُ: ہم عمر۔ اکثر اس کا استعمال عورتوں
 کے لیے ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "هَذِهِ تَوْرِبُ
 فَلَانَةَ" یہ عورت فلانی کی ہم عمر ہے۔
 التَّوْرِبَاءُ: مٹی۔ زمین۔ کہتے ہیں "بَيْنَهُمَا مَاءٌ
 بَيْنَ الْحَزْمِيَّةِ وَالتَّوْرِبَاءِ" ان دونوں کے درمیان

ماہر ج اَنفان۔
 اليقظة: حوض کا بقیہ گدلا پانی۔
 نقي: (دیکھئے ماہہ و قی)۔
 تَكَكَّةُ (ان) تَكَكَّا: رونڈ کر کچل دینا۔ تَكَكَّةُ الثَّيْبُ: مد ہوش کر دینا۔
 تَلَّ (ان) تَلَّكَوْكَأَ: الرَّجُلُ: لاغر ہونا۔ یہ قوف ہوتا۔ صفت: تاك (تاک) ج تاكون و تَكَكَّةٌ و تَكَكَّا و تَكَكَّكَ۔
 اسْتَتَكَ: اليقظة: پانچامہ میں ازار بند ڈالنا۔
 اليقظة: ازار بند ج تَكَكَّكَ۔
 اليقظة: پانچامہ میں ازار بند ڈالنے کی سلائی۔
 اليقظة: ازار بند بیچنے والا یا بننے والا۔
 تَكَكَّا: (دیکھئے ماہہ و قی)۔
 تَكَكَّكَ تَكَكَّكَ: رونڈ کر کچل دینا۔ کھڑے کھڑے کر دینا۔ المساحة: تک تک کرنا۔
 تَكَكَل: (دیکھئے ماہہ و قی)۔
 تَلَّ (ان) تَلَّأَ: بچھاڑنا۔ الشئ اليه: رخ کرنا۔ الحنبل الي البشر: کتوں میں رخ لگانا۔ الشئ الي يديه: رکھنا۔ کہا جاتا ہے "تَلَّه (بيتلہ) موع" اس نے اسے بڑے فضل کی تمت لگائی۔
 اليه: عاجزی کرنا۔ گز گزانا۔
 آتَلَّ: الدابة: باہر ہٹا۔ کھینچنا۔ المانع: پکانا۔
 التلال والتلاله: گرائی۔
 التل: مِنَ الْأَرْضِ: چھوٹا ٹیلہ۔ ج تلال و تُلُولٌ و اِحدا تَلَّة۔
 التلَّة: حالت۔ (و التلَّة): بیٹے کی حالت۔
 تَلَّہ کی حالت: اور کہا جاتا ہے "ہی خُلْفِيَّة تَلَّہ" اس کی عادت میں کالی ہے۔
 التليل ج آبلہ و تليل و تلاليل: گردن۔
 ج تَلَّيْ: بچھاڑنا۔
 اليقظة: وہ چیز جس سے کسی کو بچھاڑا جائے۔ کہا جاتا ہے "رُفِعَ مَتَلٌ" سیدھا اور سخت نیزہ قوی و مضبوط آدمی یا اونٹ۔
 التلبي: ذبح کی ہوئی بکری۔
 التلاب: اِقْلَابًا: الأُمُرُ: درست ہونا۔
 الجُمَارُ: سرو سید اٹھانا۔ کہا جاتا ہے قِيَامُ مَطْلَبٌ: یعنی قیاس مطروہ "طَرَفِي مَطْلَبٌ"۔

گدا۔
 اليقظة و التفرقة و التفرة: اُدب کے ہونٹ کا گزہا۔
 تَقِرَّةُ الشَّجَرِ: کوئل۔ و التفرقة: درخت کے نیچے آگے والی گھاس۔ یا وہ گھاس جس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے جانور چر نہ سکے۔
 التفارنج: چوتھے کے پائے کے قاطع اگلیوں کے درمیان کی شادگی واحد تَفْرَاج۔
 التفرؤق: خلاف خرما۔
 تَقَلَّ (ان) تَقَلَّأَ: تَهَوَّنَا: تھوکرنا۔
 تَقِيلُ (ان) تَقِيلُ: تَهَوَّنَا: تھوکرنا۔
 کی وجہ سے بدبودار ہونا۔ صفت (تَقِيلُ) مَوْنُث (اقبلہ و ميثقال)۔
 اتَقِيلُ: بدبودار کر دینا۔
 الميغلة: بیک دان۔ ج مَيَغَلٌ۔
 التثفل و التثفل و التثفل: لومڑی۔ مَوْنُث تَثْفَلَةٌ۔
 التثفن: میل۔
 تَفِهَ (ان) تَفَهَا و تَفَهَا: الشئ: کم ہونا۔ گھٹیا ہونا۔ حقیر ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَفِهَ عِظَاءُ فُلَانٍ" فلاں کی داد و دہش کم ہے۔ (تَفَاهَةٌ) الطعام: بے مزہ ہونا۔ صفت (تَفِهَ و تَفَاهَ) تَفَهَا الرَّجُلُ: کم عقل ہونا۔ صفت (تَفَاهَ) اتَفَهَ: الشئ: کم کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَعْطَيْتَ لَهَا تَفَهًا" تم نے زیادہ کم دیا۔
 اليقظة و التقدرة: دوحیا۔ زیرہ۔ روی۔ مسال۔
 التقر و التقررة: مسال۔ التقررة: دوحینا۔ زیرہ روی۔
 تَقَعَ (ان) تَقَعَا: بھوکا ہونا۔
 التقع: بھوک۔
 جُنُوعٌ: تَقَعَ: بھوک۔
 اتَقَنَّ: الأُمُرُ: مضبوطی سے کرنا۔
 تَقَنَّ: الأرض: پیداوار زیادہ ہونے کے لیے بیچنا۔
 اليقن: طبیعت۔ کہا جاتا ہے "الفصاحة من يقنہ" فصاحت اس کی طبیعت ہے۔ گارا جو شک ہو کر پھٹ جائے۔ حوض کا بقیہ گدلا پانی رَجُلٌ (يقن و يقين) کام کا اچھی طرح کرنے والا۔ کام میں

التعلل: حلق کی سوزش۔
 تَعَب (ان) تَعَبًا: ہلاک ہونا۔
 اتَعَبَ: ہلاک کرنا۔
 التعب: ہلاکت۔ میل پھیل۔ بھوک۔ عیب و فساد۔
 التعب و التعبه: گناہ۔ قحج۔ کہا جاتا ہے "مَالِيهِ تَعْبَةٌ" یعنی اس میں کوئی ایسا عیب نہیں جس کی وجہ سے اس کی شہادت روکی جائے۔
 تَفْتَعُ: التَّكْلَامُ: واضح طریقہ سے نہ بولنا۔
 الضحك: ہنسی کو چھپانا۔
 التفتحة: زیور کی جھکار کی نقل۔ ہنسنے کی آواز کی نقل۔ زبان کی ثقافت۔
 تَفَرَّتْ (ف) تَفَرَّتْ و تَفَرَّتْ: السحابه: پانی بہہ پڑنا۔ تَفَرَّتْ العروق: کثرت سے خون جاری ہونا۔
 تَفَرَّأَ: القيدُ: جوش مارنا۔ ایلنا۔ جُنُوحٌ تَفَرَّأَ: کثرت سے خون بہانے والا زخم۔
 تَفَفَّهَ: کسی سے تھو تھو کرنا۔
 التفف: تاثر۔ کامل۔ ج تَفَفَّهَ۔
 التففان: وقت۔ کہا جاتا ہے "اتَيْتَكَ بِتَفَفَانِهِ و عَلَي تَفَفَانِهِ" میں مناسب وقت میں تمہارے پاس آیا۔
 التففه: حقیر و ذلیل عورت۔
 التففه: ایک قسم کا چھوٹا کیزا جو چڑھے کو خراب کر دیتا ہے۔
 تَفِيَّ (ان) تَفَيَّأَ: سخت غھبٹا ہونا۔
 تَفِيَّئَهُ و تَفِيَّئَهُ: الشئ: وقت۔
 تَفِيَّتْ (ان) تَفَيَّتَا: میل پھیل غالب ہونا۔
 صفت (تَفِيَّتْ): کہا جاتا ہے "قَضَى تَفِيَّتَهُ" اس نے میل پھیل کو دور کیا۔
 تَفَفَّتْ: الدَّمَاءُ مَكَانَهُ: آلودہ کرنا۔
 التفتاح: سیب۔ سیب کا درخت۔ واحد تَفْتَاخَةٌ ج تَفْتَاخِيحٌ۔
 التفتاحتان: دونوں دران کے سرے۔
 المتفتحة: سیب کی پیداوار کی جگہ۔
 اتَفَرَّ: الشَّجَرُ: کوئیل لگانا۔ الرَّجُلُ: تاک کے پالوں کا ہونٹ کے گڑھے تک لہا ہونا۔
 الرَّجُلُ (التافر و التفر و التفران): میلا۔

القَمْزُ بدير کال ہوتا۔

قَتَامٌ - القَوُّ : سب کا آنا۔

إِسْتَقَمَ الشَّيْءُ : پورا کرنا۔ الشَّيْءُ : پورا کرنے کو کہنا۔

القَمِّ : بیا کی ایک قسم جس کی گردن لمبی ہوتی ہے۔

اليَمِّ : کھاڑا۔ البَدْر العِجَم : ماہ کال۔

العَصَامُ بثلاث التاء والاعراب الفتح :

کمال۔ وہ چیز جس سے کسی چیز کو پورا کیا جائے۔

اور اسی معنی میں قَمِّ و قِيمَ و قِيمَ و قِيمَاة و قِيمَاة

و قِيمَاة : ہے۔ چاند کے پورا ہونے کی رات۔

اور کہا جاتا ہے "بَدْرٌ قَمَامٌ و بَدْرٌ قَمَامٌ" "لَيْلَةُ

القَمَامِ" جاڑے کی لمبی رات۔

القَمَامَةُ بقیہ۔

القَيْمَةُ : جس سے کسی چیز کو پورا کیا جائے۔

القَيْمِيَّةُ : مضبوط۔ پورے قدر قامت والا۔

القَيْمِيَّةُ : تعویذ۔ ح تمائم و تمیحات : اور

"إِمَاطَةُ التَّمَائِمِ" کہنا یہ بڑے ہونے سے۔

تَمَمَّ قَمِيَّةٌ : فی الکلام : جلدی جلدی

پولنا اور واضح نہ کرنا۔ صفت (تمام) مؤنث

قَمَامَةٌ۔

قَمْرَةٌ (ن) قَمْرٌ و قَمْرَةٌ : کجور کھانا۔

اللَّحْمُ : چھوٹے چھوٹے کڑے کا ٹانادر

خُک کرنا۔

أَقَمَرُوا قَمْرًا : خُک کجور ہونا۔

التَّخْلَةُ : کچل دار ہونا۔ أَمْر القَوْمِ : بست

کجوروں والا ہوا۔

تَمَمَّ اللَّحْمُ : خُک ہونا۔

القَضْرُ : خرما۔ واحد قَمْرَةٌ۔ ح قَمْرَات و قَمْرُور

و قَمْرَان : القَمْرَةُ : چاہک کے سرے کی گرہ۔

القَمْرُ الهِنْدِيُّ : اٹلی۔

العَقَارُ : خرما فروش۔

القَامِرُ : بست کجور والا۔ کجور والا۔

المَقْمُورُ : کجور کا توڑ دیا ہوا۔

القَمْرِيُّ : کجوروں کا شائق۔

القَامِرِيُّ و القَامِرِيُّ : انسان۔ کہا جاتا ہے

"مَابَا لِدَارِ قَامِرٍ أَوْ قَامِرٍ" گھر میں کوئی نہیں

یا کچھ نہیں۔

تَمْمُورٌ و تَمْمُورٌ : ترکی مینہ۔ مطابق ماہ جولائی۔

الْيَمْسَاحُ : گھڑیاں۔ ح تَمَامِيْنِيْح۔

تَمِه (س) تَمِهًا و تَمَاهَةٌ۔ الطَّعَامُ : بُو یا مزہ

نراب ہونا۔ صفت (قِمہ)

قَاتِنٌ يَتَمَمُّهَا : مقابلہ کرنا۔ اندازہ کرنا۔

أَقَنَّ - المَرَضُ الصَّيْبِيُّ : بڑھنے سے روکنا۔

صفت مفعول (يَنْ) الزَّوْجُلُ : دور ہونا۔

النَّبِيُّ : غصص۔ شش۔ ہسرن۔ ح أَقَنَّان۔

النَّبِيْنُ : کچھلی۔ اڑوہا۔ آسمان میں ایک جگہ کا

نام۔ ح نَكَّاتِيْن۔

نَقَّأ (ف) نَقَّوَةٌ ا۔ بِالْمَكَّانِ : اقامت کرنا۔

صفت (تانی) ح نَقَّأء۔

التَّنْبِكُ و التَّنْبِيَاكُ : تمبرا کو۔

النَّبِيْلُ و النَّبِيَالُ و التَّنْبُوْلُ و النَّبِيَالَةُ : بست

تد۔ کدو۔ ح سِت ح تَنَابِلُ و قَنَابِلَةٌ۔

النَّبِيْلُ و التَّنَابِيْلُ : پان۔

التَّنَجْرَةُ : ہانڑی۔ ریگ (جدید)

نَخَّحَ (ن) نَخَّحًا و نَخَّحًا و نَخَّحًا : بِالْمَكَّانِ :

اقامت کرنا۔

نَخَّحَ (س) نَخَّحًا : بد بھشی ہونا۔

أَنَخَّحَهُ : جلا عبد بھشی کرنا۔

التَّنْزُبُ : صنوبر کی مانند ایک درخت کا نام۔

واحد تَنْزُوبَةٌ۔

التَّنْزُورُ : خور۔ ح تَنْزَايِر۔

التَّنَّارُ : خور بنانے والا۔

التَّنْضُبُ : (دیکھئے ماہ مضب)

التَّنْزُورَةُ و التَّنْزُوبَةُ : بے پانی کا جنگل ح تَنْزَائِف۔

التَّنَّكُ : تین (جدید)

التَّنَّكَجِيُّ : تین بنانے والا۔ (جدید)

تَهْتَه : لغویات میں مشغول ہونا۔

التَّهَاتِيَّة : لغویات، باطل باتیں۔

تَهَمَ (س) تَهَمًا۔ اللُّحْمُ : خراب ہونا۔ صفت

(تہم)

أَهَمَّ و تَهَمَّ و تَهَمَّ : سرزمین۔ تمامہ میں آنا یا

نازل ہونا۔

التَّهَمَةُ : بدبو۔

تَهَامَةٌ : کتہ مغلہ۔ ملک حجاز کے جنوبی علاقے۔

نسبت کے لیے تہامی و تہام۔ ح تَهَامِيْتُوْن

و تَهَامِيْن۔

أَهَمَّ و تَهَمَّ : (دیکھئے ماہ وہم)

تَهَمَ (س) تَهَمًا : صفت (تہم)

تَهَمًا (ن) تَهَمًا : غافل ہونا۔

التَّهَوَاءُ : رات کا ایک حصہ۔ کہا جاتا ہے

"مَضَى تَهَوَاءٌ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا ایک حصہ

گذر گیا۔

التَّوْ : اکیلا۔ ایک لڑی کی بیٹی ہوئی رسی۔ ح

أَتَوَّأ : کہا جاتا ہے "جَاءَتْ تَوًّا" وہ قصد کر کے آیا۔

کوئی چیز اس کو باز نہیں رکھ سکتی۔

قَاب (ن) تَوَّنًا و تَوَّنَةً و مَتَانًا و تَوَّنِيَّةٌ۔

إِنِّي اللَّهُ : گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ

ہونا۔ نام و دشیمان ہونا۔ صفت (نائب)۔

اللَّهُ عَلَيَّ : بخش دینا اور دوبارہ مریمان ہونا۔

صفت (تَوَّاب)

إِسْتَقَابَةٌ : توبہ کرنے کی ترغیب دینا۔

القَوْتُ : قوت کا درخت۔ قوت کا پھل۔

القَوِّيَا : یہ ایک قسم کا پتھر ہے جو بطور سرسہ

کے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک قسم کی سمندری

سپی جس پر کائے ہوتے ہیں اور اس کے اندر

سے اندرے کی زرری کی مانند ایک چیز نکلتی ہے جو

کھائی جاتی ہے۔

تَاج (ن) تَوَّجًا : تاج پہننا۔

تَوَّجَهُ : تاج پہنانا۔

تَوَّجَ : تاج پہننا۔

التَّوَّاجِجُ : تاج والا۔

التَّاجِجُ : شاہی ٹوپی۔ ح يَنْجَحَان۔ تَاجُ العَجَابِ :

ستارے۔ تَاجُ العَمُودِ : ستون کے بالائی حصہ

کے کس و نگار۔

قَاحٌ يَنْصُوحٌ تَوْحًا لَهُ الشَّيْءُ : تیار ہونا۔

تَاحَتْ (ن) تَوْحًا و تَوْحًا : الأَصْبَغُ فِي

الجَسْمِ الوَارِدِ أَوْ الرِّخْوِ : انگلی کا سوجے ہوئے

یا زرم حصہ بدن میں دھس جانا۔

التَّوْدِي و التَّوْدِيُّ : ایک دوا کا نام

تَاز (ن) تَوْرًا۔ الماءُ : جاری ہونا۔


أَقَارُهُ و أَقَارَةٌ : بار بار لوٹنا۔

التَّوْرُ : چھوٹا ترن۔ قاصد۔

التَّوَارَةُ : (دیکھئے تار)

<p>نباتت۔ النَّبِيَّةُ وَالتَّبِيَّةُ: بکرے جیسی طبیعت۔ کتے ہیں۔ فی فلانٍ تَبِيَّةٌ وَتَبِيَّةٌ النَّبِيَّاسُ: بکری والا۔ الْأَتَيْسُ: بکری جیسا۔ تَاعُ (ض) تَيْعًا وَتَيْعًا وَتَيْعَانًا۔ الْقَيْ: کلتا _____ الْمَاءُ: برسات اور زمین پر پھیلنا۔ _____ الْيَهُ: جلدی کرنا اور مشتاق ہونا۔ () تَيْعًا، الطَّرِيقُ: طے کرنا _____ الشَّمْنُ: روٹی کے ٹکڑے سے سجھی آٹھانا۔ أَتَاعَ: مَا أَكَلَهُ: اُلٹی کرنا _____ الشَّيْ: لوٹنا۔ تَتَّعَ: إِلَى الشَّيْءِ وَتَتَّعَ إِلَى الشَّيْءِ: بُرانی کی طرف سبقت کرنا۔ صفت (تَتَّعَ وَتَتَّعَانُ) _____ الرِّيحُ بِالْوَرِقِ: اُڑا لے جانا۔ تَتَّعَ فِي الْأُمُورِ: اصرار کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ يَتَّعِغُ فِي الْأُمُورِ" وہ اپنے آپ کو معاملات میں بغیر سوچے کچھے ڈال دیتا ہے۔</p>	<p>التَّبَوُّةُ: باعث ہلاکت۔ باعث نقصان کہتے ہیں "الشَّيْءُ مَبْتَوٌّ" کل باعث نقصان ہے۔ ج مَبْتَوٍّ وَمَبْتَوَّاتٍ۔ التَّبَاثُرُ: صیپر۔ اس کی عربی مُمَقَّلٌ ہے اور مولدین کے نزدیک مُسْرَحٌ۔ تَاخَ (ض) تَيْخًا لَه: مقرر ہونا۔ تیار ہونا _____ فِي مَشْهُوبٍ: بھگنا۔ أَتَاخَهُ: أَتَاخَهُ: تیار کرنا۔ مقرر کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَتَاخَ اللَّهُ لَهُ الشَّرَّ" اللہ نے اس کے لیے شر کو مقرر کر دیا۔ المُنْتَاحُ وَالمُنْتَاخُ: امر مقرر۔ فیصل شدہ۔ التِّيَاحُ وَالبَيْتِيحَانُ وَالتَّبِيحَانُ وَالتَّبِيحَانُ وَالمُنْتِيحُ: لائینی امور میں مشغول ہونے والا۔ اور کہا جاتا ہے "وَجَلَّ تَيْحٌ" بیش بلا میں جلا رہنے والا مرد۔ تَاخَهُ (ض) تَيْخًا: کجیور کی چمڑی سے مارنا۔ المُنْتِيخَةُ: کجیور کی چمڑی۔ التَّبِيدُ: زری کہا جاتا ہے "تَبِيدَ كَذَا" زید سے زری کر۔ تَاَزَ (س) تَبَيَّرَ: أَنَا: التَّبَيُّرُ: جوش میں آنا۔ التَّبَيُّارُ: جوش مارنے والے سمندر کی لہر۔ مغرور۔ کہا جاتا ہے "فَلَقَطَ عِرْقًا تَبَيَّرًا" اس نے تیز بننے والی رگ کو کاٹا۔ "فَوْسٌ تَبَيَّرٌ" دوڑنے میں موج کی طرح چلنے والا گھوڑا۔ التَّبِيْرُ: کجیور وغرور۔ تَاَزَهُ: (وَجِبْتِي تَاَزَ) تَاَزَهُ (ض) تَبَيَّرَ: غلبہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَاَزَ السُّهْمُ فِي الزُّمَيْرَةِ" حکار میں تیرنے حرکت کی۔ التَّبَايُزُ: پست قد سخت جوڑوں والا۔ تَابَسَ: تَبَيَّنَ: البَجْدِيُّ: بکرا بن جانا۔ تَبَيَّنَ: فَرَسَهُ: سدا حانا۔ _____ عَنْ كَذَا: باز رکھنا۔ تَابَسَ: بَدَافَتُ كَرَا۔ تَبَايَسَ: الْمَاءُ: موجوں کا ٹکرانا۔ (او) إِسْتَبَيَسَ: الْغَرُ: بکری کی طرح ہوجانا۔ التَّبِيَسُ: بکرا۔ جنگلی بکرا۔ زہرن۔ ج تَبِيَسُ وَالتَّبَايَسُ وَبَيْسَةُ: لِحِيَةُ التَّبِيَسِ: ایک قسم کی</p>	<p>التَّبَوُّةُ وَالتَّبَوُّةُ: آسانی کلب جو سیدنا موسیٰ عَلَیْهِ السَّلَامُ پر نازل ہوئی تھی۔ ج تَبَوُّاتٍ وَ تَبَوُّاتٍ۔ تَاَزَ (ن) تَبَوُّا: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ التَّبَوُّسُ: طبیعت۔ اصل۔ کہا جاتا ہے۔ "هُوَ مِنْ تَبَوُّسٍ صَبَدِي" تَاعُ (ن) (ض) تَوْعًا: روٹی کے ٹکڑے سے کھن یا سجھی آٹھانا۔ التَّبَوُّوعُ: ہر ایک پودہ جس کو کاٹنے پر دودھ نکلے۔ تَاَفَ (ن) تَوْفًا: التَّبَوُّوعُ: نگاہ کا چندھیاجانا۔ التَّافَةُ وَالتَّبَوُّوعَةُ وَالتَّبَوُّوعَةُ: عیب۔ کہا جاتا ہے "مَنْ لَيْسَ تَوْفَةً" اس میں کوئی عیب نہیں۔ گناہ۔ تَاَقَى (ن) تَوْقًا وَتَوْقًا وَتَوْقَانًا وَتَوْقَانًا وَهِجَاةً: تَوْقًا: شائق ہونا۔ إِلَى الْعَايَةِ: جلدی کرنا۔ صفت (تَاَقَى وَتَوَاقَى): عینہ بِالْمَشْهُوعِ: برسات۔ تَاَقَى مِنْهُ: ڈرنا۔ بِنَفْسِهِ: جان دینا۔ تَتَّقَى: إِلَى الشَّيْءِ: آرزو مند ہونا۔ شائق ہونا۔ تَالَ يَتَّوَلُّ تَوْلًا: جاوہ کرنا۔ جاوہ کا علاج کرنا۔ التَّوَلُّةُ وَالتَّبَوُّةُ: مصیبت جو نولات۔ التَّبَوُّةُ وَالتَّبَوُّةُ: جاوہ وغیرہ۔ التَّبَوُّةُ: موتی کے مشابہ چاندی کا دانہ۔ بالی۔ شتر مرغ کا دانہ۔ ج تَوْمٌ وَتَوْمٌ۔ تَوْمٌ: تَوْمٌ کو عوام تَوْم (س) کے بجائے استعمال کرتے ہیں۔ التَّبَوُّومُ: ملاپنا ہونا۔ کان میں بالی پینے والا۔ تَتَّوَوْنَ وَتَتَّوَوْنَ: الصَّبِيَّةُ: کبھی دائیں کبھی بائیں سے حملہ کرنا۔ التَّبَوُّومُ: الحَمَامُ: حمام کی بھیٹی۔ تَاَهُ (ن) تَوْهًا: ہلاک ہونا۔ ضائع ہونا۔ راستہ گم کرنا۔ فاسد الفحل ہونا۔ التَّبَوُّهُ وَالتَّبَوُّهُ: ہلاکت۔ فَلَاحَةُ تَوْهُ: گمراہ کر دینے والا بیابان۔ ج تَوْهُ أَوْ ج تَاَوِيَهُ۔ تَوْهُهُ وَأَتَاهُ: ہلاک کرنا۔ تَوِي (س) تَوِي: الْمَالُ: برباد ہونا۔ ہلاک ہونا۔ صفت (تَوِي وَتَوِي): کہا جاتا ہے "لَا تَوِي عَلَيْهِ" اسے کوئی نقصان نہیں۔ أَتَوَاهُ: تَوَاهُ: اللَّهُ: ہلاک کرنا۔</p>
--	---	---

<p>أَرْضٌ تَبْهَاءُ وَمَتْبِهَةٌ وَمَتْبِهَةٌ وَمَتْبِهَةٌ وَرَبِيَّةٌ : راستہ بھٹکانے والی سرزمین۔</p>	<p>مغزور۔ الینہ : ڈیک۔ غرور۔ گراہی۔ چیل میدان جس سے انسان بھگ جائے۔ ج آتیاہ و آتاویہ و اتاویہ۔</p>	<p>وتبہانًا) سرگشتہ پھرنا۔ گمراہ ہونا۔ صفت (کتاہ و تبہان) تکہ و آتاءہ : گمراہ کرنا۔ ضائع کرنا۔ التائبہ و التبیہان و التبیہان : تکبیر۔</p>
---	--	---



اَثْبِتْ و وثابت - الامور: پوری طرح سے پہچانا۔

اِسْتَنْبَيْتْ وَ تَنْبَيْتْ - فِي الْأَمْرِ وَالزَّوْجِ: جلدی نہ کرنا۔ سہلت سے کام لینا۔ مشورہ کرنا۔ اور حقیقت کی جستجو کرنا۔

النَّبْتِ: ثابت ہونا۔ حجت۔ دلیل۔ کہا جاتا ہے "لَا اِحْكَمَ إِلَّا بِثَبْتٍ" میں بغیر حجت و برہان کے فیصلہ نہیں کرتا۔

النَّبَاتِ: برقع کے بند۔ کجاہہ باندھنے کے تھے۔ النَّبَاتِ: ایسی بیماری جو حرکت سے عاجز کر دینے والی ہو۔ بہادر شمسوار جس کا حملہ بھرپور ہو۔

الْاَثْبَاتِ: ایجاب۔ ثبوت کی ضد۔ الْاَثْبَاتِ: قوم کے معتبر لوگ۔ مفرد ثَبْتٌ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ ثَبْتٌ مِنَ الْاَثْبَاتِ" یہ مجاز ہے جیسے کہ "فَلَانٌ حُجَّةٌ" جبکہ روایت میں ثَبْتٌ ہو۔ الثَّوَابِ مِنَ الثَّجْوَمِ: سیاروں کے علاوہ ستارے۔ واحد ثَابِتَةٌ۔

الثَّبْتِ: مہم۔ تسموں سے بندھا ہوا۔ مَرِيضٌ مُثَبَّتٌ: زیادتی مرض کی وجہ سے پھوٹنے سے جدا نہ ہونے والا۔

ثَبْتٌ (ن) ثَبْتًا وَ ثَبْتًا: الْكَلَامُ: ٹھیک طریقے سے گفتگو نہ کرنا۔ الْخَطُّ: تحریر میں غیر معروف طریقہ استعمال کرنا۔

ثَبْتٌ (ض) ثَبْتًا وَ ثَبْتًا: پادوں کی انگلیوں پر بیٹھنا۔

ثَبْتٌ وَ تَنْبَيْتٌ الزَّاعِي بِالْعَصَا: لامنی کو پیٹھ پر رکھ کر اس کے پیچھے ہاتھ رکھنا۔

اِتِّبَاحٌ - اِسْقَاءٌ: مہرجانا۔ الْوَجْلُ: موٹا اور ڈھیلا ہونا۔

ثَبْتٌ (ف) ثَابًا: اللَّحْمُ: خراب ہونا۔ بگڑنا۔ ثَبْتٌ - الْوَجْلُ: زکام ہونا صفت (مَثْوُطٌ) الْفَرَاطُ: زکام۔

الثَّابَةُ: بدبودار کچھڑ اور اسی سے مثل ہے "ثَابَةٌ مَدَّتْ بِمَاءٍ" اس وقت بولتے ہیں جبکہ ایک خرابی کے ساتھ اسی جیسی دوسری خرابی ہو جائے۔ جیسے اردو میں "مفلسی میں آگا گلیا" ج۔ ثَابٌ۔

الثَّابَةُ: بیوقوف عورت۔ ثَوَّلِي وَ تَفَالُلِي - جَسَدُهُ: سسے والا ہونا۔

الثَّوْلُولُ: مسد۔ پستان کا سرا۔ بھٹی ج ٹالینل۔ ثَائِي (ف) ثَائِيًا وَ اَثَائِيًا - الشَّيْءُ: چرنا۔ پھاڑنا۔

كزور کرنا۔ فاسد کرنا۔ و اَثَائِي فِي الْقَوْمِ كَشْتِ وَ خُونٌ كَرْنَا۔

ثَبْتِي (س) ثَائِي - الشَّيْءُ: جھد جانا۔ الثَّائِي: زخم کے نشان۔

الثَّائِي: مہ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَرُؤِبُ الثَّائِي" فلاں فساد کی اصلاح کرتا ہے۔

ثَبْتُ (ن) ثَبَاتًا وَ ثَبْتًا: فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا۔ قیام کرنا۔ ثَابًا: جم کر بیٹھنا۔ وقار سے بیٹھنا۔

الثَّوْبُ: پورا کرنا۔ ثَبْتٌ (ك) ثَبَاتَةٌ وَ ثَبْوَةٌ: بہادر ہونا۔ صاحب عزم ہونا۔

ثَبْتٌ (ن) ثَبَاتًا وَ ثَبْوَةً: فِي الْمَكَانِ: ٹھہرنا۔ قیام کرنا۔ ثَابًا: جم کر بیٹھنا۔ وقار سے بیٹھنا۔

صفت (ثَابٌ وَ ثَبْتٌ وَ ثَبْتٌ) الْاَمْرُ: عہدہ۔ ثابت ہونا۔ موکد ہونا۔

ثَبْتُهُ وَ اَثْبَتُهُ: ثابت کرنا۔ الْحَقُّ: دلائل سے موکد کرنا۔ نام درج رجسٹر کرنا۔ لکھنا اور

کہا جاتا ہے "طَعَنَتْهُ فَاَثْبَتَتْ لِيهِ الزَّمْعُ" اس نے اس کو تیز ہمارا اور گھسا دیا۔

ثَبْتٌ (س) ثَابًا وَ ثَبْتًا وَ تَثَابَتْ: جمالی لینا۔ صفت (مَثْوُوبٌ) وَ تَثَابَ الْأَخْبَارُ: جستجو کرنا۔ الْغَابُ وَ الْفَوْبَاءُ وَ التَّثَابُ: جمالی۔

ثَابًا: پیا سا رکھنا۔ سیراب کرنا۔ النَّازِ: آگ بجھانا۔ الْغَضَبُ: غصہ ٹھنڈا کرنا۔

عَنِ الْأَمْرِ: کسی کام سے روکنا۔ ثَابَتْ (ف) ثَابًا: الْجَانُ: الْعَنَمُ: مریانا۔

الثَّوَجُ: بھیر بھیری کی آواز۔ ثَبْتٌ (س) ثَابًا: الثَّبْتُ: شاداب ہونا۔

الثَّوَجُ أَوْ الْمَكَانُ: ٹھنڈا ہونا۔ صفت (ثَبْتٌ وَ ثَبْتٌ)

الثَّادُ وَ الثَّادُ: ثَمَنُكَ مَثِي - تری۔ سردی۔ بڑا کام۔ نرم دوسرے چیزیات۔

الثَّادَةُ: موٹی عورت۔ الثَّادَةُ: بولہا۔

الثَّادَةُ: بولہا۔ الثَّادَةُ: بولہا۔

ثَارٌ (ف) ثَارًا - الْقَتِيلُ وَ بِالْقَتِيلِ: خون کا مطالہ کرنا۔ قَاتِلٌ كَوَقْتَلٌ كَرْنَا - صفت (ثَائِي) کہا جاتا ہے "ثَارَهُ بِكَذَا"

یعنی اس نے فلاں کے ذریعہ خون کا بدلہ لیا۔ "وَ ثَبْرٌ زَيْدٌ" زید سے خون کا بدلہ لیا گیا۔

اَثَارٌ وَ اَثَارٌ - مِثْنٌ: خون کا بدلہ لینا۔ اِسْتَشْفَاؤُ: خون کا بدلہ لینے کے لیے فریاد کرنا۔

الثَّارُ وَ الثَّوْرَةُ: خون کا بدلہ۔ جرم کا بدلہ۔ ج اَثَارٌ وَ اَثَارٌ وَ اَثَارٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ ثَارٌ لَكَ" وہ تمہارے رشتہ دار کا قاتل ہے۔ "وَ يَا ثَارَاتِ

فُلَانٍ" اے فلاں کے قاتلو! "وَ النَّازِ الْمُثِيمُ" خون کا بدلہ جس کے بعد طالب آرام سے

سور ہے۔

<p>”مَزَادَةٌ لَجَلَاءَ“ كشاورہ توشہ دان۔ فَجَمَعْتُ (ض) لَجَمًا وَأَلْجَمْتُ السَّمَاءَ: جلدی سے برسا۔ فَجَمَعَهُ عَنَهُ: جلدی سے باز رکھنا۔ فَجَا(ان) فَعْوًا: خاموش رہنا۔ أَفْجَاهُ: خاموش کرنا۔ فَجَحَنَ (ك) لَجَحًا وَفَجَانَةً وَفَجَوْنَةً: موٹا ہونا۔ سخت ہونا۔ صفت (فَجَحِنَ) ج لَجَحًا۔ أَفْجَنَ: لُی الْأَمْرُ: مبالغہ کرنا۔ لُی الْعَدُوَّةُ: خوہزی میں مبالغہ کرنا۔ لُی الْأَرْضُ: سخت خوہزی کرنا۔ أَفْجَنَهُ: الجراح: بست و کزور کرنا۔ أَفْجَنَ: بست و کزور ہونا۔ اسْتَفْجَنَ: منه المرضُ أو النومُ: غالب آنا۔ لَدَغَ (ف) لَدَغًا: راسًا: چلانا۔ پھوڑنا۔ إِنْدَغَ: چلانا۔ لَدَقَ (ان) لَدَقًا: المطر: بارش ہونا۔ المسحاب: برسا۔ صفت فاقوق۔ الغَدَقِم: بیوقوف۔ إِنْدَقَ: الناس عليه: جملہ کرنا۔ لَدَمَ: الاثر بقی: چھننا۔ الغَدَم: مھنگو اور حجت میں عاجز۔ بیوقوف۔ سَتَ: مؤنث لَدَمَةً۔ الیدام: چھنا۔ فَدِنَ (س) فَدَنًا: اللخم: بددوار ہونا۔ وَلَدَنَ: الرجلُ: بڑا گوشت اور بیماری ہونا صفت (لَدِنَ) و مَدَنَ۔ أَلْدَنَ: الشی: چھوٹا کرنا۔ لَدَاهُ (ف) لَدَوًا: تر کرنا۔ لَدَى (س) لَدَى: تر ہونا۔ القدی و القدی: پستان (مذکر و مؤنث) ج لَدَى و لَدَى و لَدَى۔ القدیاء: بڑی پستان والی عورت۔ قَدْرًا (ض) قَدْرًا وَتَوَرُّدًا وَتَوَرُّدًا: تھکاہٹ۔ الشی: کشاورہ ہونا۔ الغَدِن: بست پانی والا ہونا۔ صفت مؤنث قَدْرًا و تَوَرُّدًا۔ و تَوَرُّدًا: صفت مذکر (قَدْرًا) ج تَوَرُّدًا: کہا جاتا ہے۔ ”مَطَرٌ قَدْرًا“ بڑی بوندوں کی کثیر بارش ”و قَدْرًا“</p>	<p>الغَدِنَةُ: ج تَبْنٍ وَ(الغَدِنَانِ) ج تَبْنٍ: بھانڑ۔ الغَدِن: بیمار کا کنارہ جبکہ اس کو موڑ لیں۔ المغَدِنَةُ: جمیلی جس میں عورت اپنا آئینہ وغیرہ رکھتی ہے۔ ج مغَدِنَانِ۔ غَدِنَ (ض) لَغِنًا: الشی: جمع کرنا۔ غَدِنَ: الشی: جمع کرنا۔ تعظیم کرنا۔ درست کرنا۔ پورا کرنا: کہا جاتا ہے ”غَدِنَ اللَّهُ لَهُ الْغَنَمَ“ اللہ تعالیٰ نے اسے نعمتوں کے انبار دیئے۔ عَلَى: الْأَمْرُ: پیش رہنا۔ عَلَى: فَلَانٍ: کسی کے خلاف مدد طلب کرنا۔ الثَّيْبَةُ: حوض کا درمیان۔ جماعت۔ شمسواروں کی جماعت۔ ج ثَبَاتٍ وَثَبُونِ۔ الأَثْبِيَّةُ: بڑی جماعت۔ ج أَثْبَائِيٌّ۔ الشی: لوگوں کی بست تعریف کرنے والا۔ فَدِنَ (س) فَدَنًا: اللخم: بددوار ہونا۔ اللغَّةُ وھیلا ہونا۔ صفت لَدِنَةً۔ فَدَجَ (ان) فَدَجًا: الْمَاءُ: برسا۔ (فَدَجًا) الْمَاءُ: برسا۔ إِنْفَجَ: الْمَاءُ: برسا۔ الثَّيْبَةُ: باغ جس میں حوض ہو۔ ج نَجَاتٍ مَطْوَرٌ (نَجَاتٍ): بست برسنے والی بارش۔ عَتِئٌ (فَدَجُوجٌ): بست پانی والا پتھر۔ الثَّيْبِيَّةُ: زبردست سلاب۔ الفَجِيحَةُ: دودھ کا جھاگ جو ہاتھ یا برتن میں چپک جائے۔ المفَج: زُبان آد خلیب۔ فَدَجَ: الْمَاءُ: برسا۔ تَفَجُّجٌ: برسا۔ فَدَجَ (ان) فَدَجًا: العَصَا: مھجور کو برسی کھل کے ساتھ ہلانا۔ فَدَجَ: کشاورہ کرنا۔ چوڑا کرنا۔ الفَدَجُ: درمیان۔ وسط۔ کہا جاتا ہے ”أَقَامُوا فِي فَدَجَةِ الْوَادِي“ انہوں نے وادی کے درمیان اقامت کی۔ بَسَلِي: کی بڑیوں کے درمیان حصہ کارو درگرد۔ ج فَدَجٌ: کہا جاتا ہے ”مَطَعْنُوهُمْ فِي الْفَجْرِ وَالشَّجَرِ“ الفَجْرُ: وَالشَّجَرُ وَالْأَلْبَجَرُ: مِنَ الْوَرَقِ وَنَحْوِهِ: موٹا اور چوڑا۔ فَجَلَّ (س) فَجَلًّا: بڑے پھٹ والا ہونا صفت (الجَل) مؤنث لَجَلَاءَ ج لَجَلٌ: کہا جاتا ہے</p>	<p>الْفَج: کا گدھے اور پیٹھ کا درمیانی حصہ۔ ”الْفَجُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ“ درمیانی حصہ۔ بڑا حصہ۔ بلند حصہ۔ ج ”أَتْبَاجٌ وَتَبْجُوجٌ“ کہا جاتا ہے۔ ”يَتَوَكَّبُونَ تَبْجُوجَ هَذَا الْبَحْرِ“ وہ لوگ اس سمندر کے بڑے حصے پر سوار رہ گئے۔ ”وَسَمِعْتُ الْخُمْرَ أَتْبَاجَ الْأَتْبَاجِ“ گدھے ٹیلوں کی بلند یوں پر چڑھ گئے۔ الأَتْبَاجُ: چوڑی پیٹھ والا۔ کبڑا۔ رَجُلٌ مَتَّبِعٌ: لمبا بے ذول مرد۔ المَتَّبِعَةُ: آلو۔ تَبْجُوجٌ (ان) تَبْجُوجًا: لعنت کرنا۔ دھکانا۔ محروم کرنا۔ ہلاک کرنا۔ عَنَ: كَذَا: روکنا۔ مٹانا۔ تَبْجُوجًا: ہلاک ہونا۔ تَبْجُوجٌ (س) تَبْجُوجًا: الفَرَجَةُ: بھٹانا اور برسا۔ فَدَجَ تَبْجُوجًا وَمُتَابِجَةً: عَلَى الْأَمْرِ: مداومت کرنا۔ تَبْجُوجًا: کسی کو کسی چیز پر روک دینا۔ اللَّهُ فَلَانًا: ہلاک کرنا۔ تَفَاتَرُوا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ الغَبْرَةُ: نرم زمین۔ زمین یا پہاڑ کا گڑھا۔ المَغْبَرُ: بوچھا خانہ۔ عورت یا اونٹنی کے جھنے کی جگہ۔ المَغْبَرُ: روکا ہوا۔ محروم۔ الغَبْرَةُ: کھلیان میں صاف کیے ہوئے غلہ کا ڈھیر۔ تَبْجُوجَةٌ (ان) تَبْجُوجًا وَتَبْجُوجًا: روکنا باز رکھنا۔ عَلَى الْأَمْرِ: کسی کو کسی کام پر موقوف رکھنا۔ أَلْبَطَلَةُ: المرضُ: بیماری کا ہدانا ہونا۔ تَبْجُوجًا: عَنِ الْأَمْرِ: روکنا۔ الْفَيْطُ: کزور۔ بیوقوف۔ ج أَلْبَطَلَةٌ وَفَيْطٌ مؤنث فَيْطَةٌ۔ تَبَقَ (ض) تَبَقًا وَتَبَقًا: التَّهْمُ: پانی کی زیادتی سے تھیر برسا۔ الغَدِنُ: عین۔ جلدی آسونا۔ الغَدِنُ: و التَّغِيلُ: برتن کی تلی کا پانی ماندہ۔ تَبِنَ (ض) تَبِنًا وَتَبِنًا: العُوبُ: کنارہ موڑ کر سبنا۔ و تَبِنَ: الشی: بھانڑ میں لینا۔ پانچاس گدھے کی فیدہ میں رکھ لینا۔</p>
---	--	--

الثقب: مست رتقار اوث و غیرہ۔
 الثقب: بجلی کے نیچے پھانے کا پردہ۔
 والثقب: بجلی کا پلخیا۔
 الثقل والثقال: ٹپھٹ۔ الثاقب: گوبر۔
 الثقل: ٹپھٹ کمانے والا۔
 ثَقَنْتَ (ض) ثَقْنَا۔ ثَقْنَا: ثقافت گھٹنے سے مارنا۔
 ثَقْنَهُ: دفع کرنا۔ مارنا۔ ثَقْنُ الشَّيْءِ: لازم ہونا۔
 ثَقَنْتَ (س) ثَقْنَا۔ يَذُه: کام کرنے سے سخت ہونا۔ الثَقْنُ العَمَلُ يَذُه: سخت کرنا۔
 ثاقفة: ہم زانو ہو کر بیٹھنا۔ کسی کے ساتھ لگے رہنا یہاں تک کہ اس کا ہمید معلوم کر لینا۔
 على كذا: مدرکنا۔
 الثقبنة: من التبعير: اوث کا وہ حصہ جو بیٹھتے ہوئے زمین پر لگے اور سخت ہو گیا ہو کہا جاتا ہے۔
 "خوبى التبعير على ثقنا" یعنی اوث بیٹھ گیا۔
 من الانسان: زانو۔ من الخيل: گھوڑے کے زانو کا اندرونی حصہ۔ ج ثقنات الشقبنة: لوگوں کی جماعت۔
 ثقا (ن) ثقوا: تابع ہونا۔ جردی کرنا۔ پیچھے جانا۔
 الثقب: الزجل: تین عورتوں سے نکاح کرنا۔
 وثقبى: القدر: ہانڈی کو چمکے کے پایہ پر رکھنا۔
 المثقبى: وہ شخص جو تین یا زیادہ بیویوں کو دفن کر چکا ہو۔
 المثقاة: وہ عورت جس کے تین یا زیادہ شوہر مر چکے ہوں۔
 ثقب (ن) ثقبنا: الشئ: سوراخ کرنا۔ چھیدنا۔
 ثقوبا: النار: روشن ہونا۔
 الثجم: چکانا۔ الثقاير: اونچا اڑنا۔
 الثقافة: بہت دودھ والی ہونا۔
 زاية: نافذ ہونا۔ الزاينة: چیلنا۔
 ثقب (ک) ثقبنا: سرخی میں آگ کے مشابہ ہونا۔ صفت (ثقب) مؤنث ثقبية۔
 ثقب و ثقبنت: الشئ: سوراخ کرنا۔ چھیدنا۔
 ثقبه الشئ و ثقب فيه الشئ: پھیلنا۔ ظاہر ہونا۔ ثقب و ثقبنا: النار: روشن کرنا۔ ثقبنت و الثقبنت: سوراخ ہونا۔

الثقبور: منقذ۔

الثقبور: زرد دانت۔

الثقبور: الوادى: درخت ثقبور والی ہونا۔

الثقبور: الراش: سفید ہونا۔ الزجل:

غضب تاک ہانا۔ جلاء یعنی کھینا۔

ثاقمة: بوسہ دینا۔

الثقبور: کائنات والا۔

الثقبور: ایک قسم کا سفید پھولوں والا درخت

واحد ثقبور۔

الثقبور: سفید۔

ثقب (ن) ثقبنا: الشئ: مہیا۔ کہا جاتا ہے

"ثاله لاغية ولا زاعية" اس کے پاس نہ بکری

ہے نہ اونٹنی۔ "ومابالدراغ ولا راغ" یعنی گھر

میں کوئی نہیں۔

الثقبور: الثقبور: الشئ: مہیا۔ کہا جاتا ہے

"آبنته فما الثقبور ولا زاعية" میں اس کے

پاس آیا تو اس نے نہ بکری دی نہ اونٹنی۔

الثقبور: بھوک۔ اور قبیلہ کا خلی ہونا۔ کہا جاتا ہے

"أصاب الحى ثقبية" قبیلہ بھوک میں جلاء

ہے۔

الثقبور: الثقبور: الشئ: جوش ٹھنڈا کرنا۔

الثقبور: رائق واحد ثقبورة

الثقبور: الدرغ: زرہ کو لباس کے نیچے پہننا۔

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

کہ اس کے بال ہر سال گر جاتے ہیں اور اسی سے ہے "دار الثعلب" اس بیماری کا نام ہے جس میں بال گرتے ہیں۔ مادہ کو ثعلبية اور نرکو ثعلبان کہتے ہیں۔ اور ثعلب کا اطلاق مذکورہ مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ ج ثعلاب و ثعلال۔ الثعلب: بمالے کا سرا جو پھل کے اندر داخل ہو۔

الثعلبية: دم کی بڑی۔ سرین۔

عذب الثعلب: بکوسے۔ کہا جاتا ہے "مكناث

(مفعلات) و أرض مفعلة" بہت لومڑیوں والی

جگہ یا زمین۔

ثقب (ض) ثقبنا: الجمذ: پھلنا۔ الدم:

بتا۔

ثقبنت: لثنت بالدم: سوڑھے سے خون

بتا۔

الثقب: ج ثقاب و ثقباب و الثقب: ج

ثقبان و ثقبان: پہاڑ کے سایہ میں تالاب جہاں

دموچ نہ ہو چنے اور اس وجہ سے پانی ٹھنڈا ہو۔

ثقب ثقبنة: کلامہ: تنگلوں میں خلط طوطا کرنا۔

صفت (ثقب و ثقبنا): کہا جاتا ہے "فلاث

ثقب في كلامه" فلاں تنگلوں میں گڑبڑی کرنا

ہے۔

ثقبور (ف) ثقبور: الاناء: سوراخ کرنا یا توڑنا

بتا۔

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثقبور: الثقبور: الشئ: بول () و

الثَّقِبُ: سورخ۔ ح الثَّقِبُ وَثَقُوبٌ۔
الثَّقِبَةُ: چھوٹا سورخ۔ ح ثَقُوبٌ وَثَقِبٌ
الثَّقَابُ وَالثَّقُوبُ: چھٹی۔ چھوٹی چھوٹی
کڑیاں جن سے آگ سالگی جاتی ہے اور جس کو
عوام شُخْطُ یا لُفْطُ کہتے ہیں۔
الثَّقَابُ: زائچہ ثاقب: عمدہ رائے۔ "عقل"
ثاقب" عقل کامل۔ حَسَبُ ثاقب: مشور
حسب کہا جاتا ہے نحن اثقبت الناس
أحساناً ہم لوگوں میں حسب کے لحاظ سے
مشہور ہیں۔
الثَّقُوبُ: امور میں بہت زیادہ دخل دینے
والا۔
المثَقَّبُ: برہا۔ سورخ کرنے کا اوزار۔ کہا جاتا
ہے "رجُلٌ مثَقَّبٌ" یعنی سجدہ دار تجربہ کار عمدہ
رائے والا۔
المثَقَّبُ وَالمَثَقَّبُ: بڑا راستہ۔ سخت و
دشوار راستہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ظَلَّغٌ
الصَّفَاقِبُ" یعنی وہ بہادر ہے۔
المَثَقَّبُ: سورخ کیا ہوا۔
ثَقِفَ (س) وَثَقَّفَ (ک) ثَقَّفَا وَثَقَّفَا
وَثَقَّافَةٌ: زبرک و سبک و چالاک ہونا۔ صفت
(ثَقَّفُوا وَثَقَّفُوا وَثَقَّفُوا وَثَقَّفُوا)
ثَقَّفَهُ (س) ثَقَّفَا: کامیاب ہونا۔ فتح مند ہونا۔
پالیا۔ (ثَقَّفُوا وَثَقَّفُوا وَثَقَّفُوا) الكلام:
جلدی سے سمجھ لیا۔
ثَقَّفَهُ (ن) ثَقَّفَا: دانائی میں غالب ہونا۔
بالروح: نیرہ مارنا۔
ثَقَّفَ: الوُضْعُ: سیدھا کرنا۔ الولد:
مہذب بنانا۔ تعلیم دینا۔
ثاقفہ: ہتھیاروں سے باہم کلینا۔ دانائی میں
غالب ہونے کی کوشش کرنا۔ جھگڑا کرنا۔ کہا جاتا
ہے "ثاقفنه فثقفنه" یعنی میں نے اس پر غالب
آنے کی کوشش کی اور غالب ہو گیا۔
ثاقفا: باہم جھگڑا کرنا۔ دانائی میں ایک
دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا۔
العِصافُ: جھگڑا۔ نیزوں کے سیدھا کرنے کا
اوزار۔
إمْرَأَةٌ ثَقَافٌ: ذکی و ذہین عورت۔

الثَّقِيفُ: بہت زبرک و چالاک۔ خَلُّ ثَقِيفٌ:
بہت کھٹا سرکڑ۔
المَثَقَّفُ: شعراء کے عرف میں بمعنی نیزہ۔
ثَقُلَ (ک) ثَقُلًا وَثَقَالَةً: ہماری ہونا۔ صفت
(ثَقِيلٌ وَثَقَالٌ وَثَقَانٌ ح ثَقْلَاءٌ وَثَقَالٌ وَثَقُلٌ)
السمغ: کچھ بھرا ہونا۔ القول:
سننا ناگوار ہونا۔ المَرْؤَةُ: حمل ظاہر ہونا۔
ثَقَلَهُ (ن) ثَقَلًا: وزن معلوم کرنے کے لیے
ہاتھ میں اٹھانا۔
ثَقُلَ (ک) ثَقَلًا: المَرِيضُ: سخت بیمار ہونا۔
ثَقَلَهُ: بوجھل کرنا۔ الحَزَفُ: تشدید
دینا۔ عَلِيَّهِ: ہماری بوجھ لانا۔ هُ
المَرْضُ: سخت ہونا۔ "أثَقَلَتِ المَرْؤَةُ" حمل کا
بھاری ہونا اور ولادت کا وقت قریب ہونا۔
ثَقَّافٌ: تکلف ثقل ظاہر کرنا۔ عَنَهُ: دیر
لگانا۔ القَوْمُ: باوجود طلب کیے جانے
کے مدد کے لیے نہ اٹھنا۔
إثاقِلَ: إلى الدنيا: ناکل ہونا۔
إستثقلَ: الشئ: بوجھل ہونا۔
الشئ: بوجھل پانا۔ بفلائي: بوجھ کو
محسوس کرنا۔
الثاقِلُ: بوجھل۔ مرضِ ثاقِلُ: سخت مرض۔
دَبَّارٌ ثاقِلٌ: پورا دن سورج نواقل: کہا جاتا ہے
"أصبح ثاقلاً" یعنی اس کو مرض نے بوجھل کر
دیا۔
الثقل: مسافر کا سامان اور اس کے نوکر چاکر۔ کہا
جاتا ہے "أعطيه ثقله" اس کو اس کے برابر دید و ج
انقال۔ والآنقال: زمین کے تزانے اور وچنے۔
مزورے۔ قرآن مجید میں ہے ﴿وَإِخْوَجِبِ
الْأَرْضِ أَثْقَالَهَا﴾ اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال
چھینے گی۔
الثقل: گرانہاری۔
الثَّقَلَةُ وَالثَّقَلَةُ وَالثَّقَلَةُ وَالثَّقَلَةُ:
کل سازو سامان۔ کہا جاتا ہے "وَإِذْ خَلَقُوا
بِثَقَلِهِمْ" وہ لوگ مع اپنے پورے سازو سامان
کے چلے گئے۔ الثَّقَلَةُ: بیٹھ میں خوراک کی
گرائی۔ اوگھ۔ کہا جاتا ہے "وَإِذْ خَلَقْنَا فِي
جَسَدِي" میں نے اپنے بدن میں سستی محسوس

کی۔
المثقال: تولے کے اوزان۔ وَثَقَالُ الشئ:
بیز کا وزن یا چیز کی ترازو۔ ج مثاقيل اور مثقال
وزن میں ڈیڑھ درہم کے وزن کا ہوتا ہے اور
کبھی کم اور کبھی زیادہ۔
ثقل (س) ثَقَلًا وَثَقَلًا: ابتداء: ہم کرنا۔
صفت (ثاقِلٌ وَثَقَالٌ): مؤنث ناکل
وَثاقِلَةٌ وَثَقَلَةٌ: نواکیل و نکلانی۔
أثقل: الأثم وَثَقَلًا وَثَقَلًا: نکلنے سے
سے ماں کو ہم کرنا۔ اور ماں کے سامنے بچے کا
مر جانا۔
الثقل وَالمثقال: بچے کو بہت کم کرنے
والی عورت۔ جمع مثاقيل: کہا جاتا ہے "نساء
المغزاة مثاقيل" غازیوں کی عورتیں بچے کو کم
کرنے والی ہیں۔
المثقلة: سب گھمگئی فرزند۔ کہا جاتا ہے
زمنحه للذات مثقلة" اس کا نیزہ ماؤں کے
لیے بچوں کے گم کرنے کا سبب ہے۔
ثقل (ن) ثَقَلًا: الامزواج الطریق: کسی امرا
کسی راستے کیلئے لازم ہونا۔ الأثاق: بیروی کرنا
لہ الامر: واضح طریقہ سے بیان کرنا۔
و ثقل (س) ثَقَلًا: بالمکان: اقامت کرنا۔
ثقل: الطریق وَثَقَلَتُهُ: راستہ کار میں
الثقل: کبوتروں کی ڈار۔ فوجوں کا مرکز۔
لوگوں کی جماعت۔ چھاپوں کا گلد۔ گردن بند
جنزاق۔ ثقل۔ کہا جاتا ہے "حسام ثقل" یعنی
آٹھ کبوتر۔
ثقل (ن) ثَقَلًا: البئس: کنوئیں سے مٹی نکالنا
الوعاء: برتن سے سب کچھ نکال لینا
ثقلًا ثَقَلًا: القوم: ہلاک کرنا
البيئس: گرا دینا۔ و حاربا: کہا جاتا ہے "ثقل اللہ
عروشهم" یعنی اللہ نے ان کے تلک کو ربو کر
دیا۔ و ثقل عروشهم ان کی عزت ضائع ہو گئی
الثراب: گرا دینا۔ و انا: ثقل ذی
خفاہ: لہد کرنا۔
الثقل: اقلد: اقلد: مرمت کرنے کا ہم دینا۔ و الثقل
بہت بھینڑوں والا ہونا۔ فقه: بے دانت والا
ہونا۔

برکی نے گھاس کو اپنے منہ سے صاف کر لیا۔
إِنْقَمَ : الْجِسْمُ : گھٹنا۔ کرور ہوتا
الشَّيْبُ : بڑھا ہوا۔ صفت (لثمة)
قَم و **قَمَة** : وہاں۔ اسم ہے جس سے بعد کی
 طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔
القَم : ثمن کا مصدر بمعنی درست کرنا۔ اور اسی
 سے ہے "قَمْنَا أَهْلَ قَيْبِهِ وَرَقَبِهِ" ہم اصلاح
 و مرمت کے اہل تھے۔ اور کہا جاتا ہے۔ "هو قَمَةُ
 وَرَمُهُ او قَمُهُ وَرَمُهُ او لَثْمُهُ وَرَمُهُ" وہ اس کا
 چید دردی قلیل و کثیر ہے۔ اور کہا جاتا ہے "عالمه
 لَثْمٌ وَرَمٌ" یعنی وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔
قَم : حرف عطف ہے۔ ترتیب اور تراخی کے
 لیے مستعمل ہے۔ اور اس پر تاہمی آتا ہے کہا جاتا
 ہے قَمْتُ۔
القَمَّة : سوکھی گھاس کا ٹکڑا۔
القَمَام : ایک قسم کی گھاس جو لائی نہیں ہوتی
 واحد قَمَامَةٌ۔
القَمَم : مِنَ القَامِ : اچھا بڑا قسم کا گھاس
 کھانے والا۔
قَمَاءُ (ف) لَفْظاً : چلی گھٹانا۔ **القَامِ** :
 چلانا توڑنا۔ **القَامُ** : کنارہ توڑنے سے
 خون بہتا۔
إِنْقَمَأَ : القَامِ : چلا جانا۔ ٹوٹنا۔
القَمَوَات : وہ شخص جو جماع کے وقت پائنتانہ
 کر دے۔
قَمَجَمُ (ض) لَفْظاً : باہم ملانا۔
القَمِيجُ : مختلف رنگوں سے رنگنے والا۔
 مؤنث جَمِيجَةٌ۔
قَمَدٌ (ن ض) لَفْظاً : قَمَدًا و **القَمَدَا** و **استَقَمَدَ**۔
القَمَاءُ : پانی جمع ہونے کے لیے حوض کی مانند ہوتا۔
قَمَدُ الشَّيْءِ : فلان : کسی کے پاس کسی چیز کا اس
 طرح ہونا کہ اس کا سارا مال ضائع ہو جائے۔
القَمَاءَةُ : بالْحَلَبِ : روہنے میں اونٹنی کا
 دودھ کو سبک لینا۔
القَمَدُ و **القَمَدُ** : تھوڑے پانی کی طرف
 جانا۔
استَقَمَدَهُ : بخشش طلب کرنا۔
القَمَدُ و **القَمَدُ** : تھوڑا پانی جو جاڑوں میں جمع

رہے اور گرمیوں میں خشک ہو جائے گا جو
 میں بارش کا پانی جمع ہو۔ ج لثام
الْإِنْقَادُ و **الْإِنْقَادُ** : ایک قسم کا پتھر جس سے
 سرسہ تیار کیا جاتا ہے اور جس کو طلاء کہا گیا انیمون
 کہتے ہیں۔
رَجُلٌ (مَشْمُودٌ) : وہ شخص جس کو سائلین کی
 کثرت مغلل بنائے۔
قَمَرٌ (ن) لَفْظاً : **القَمَرُ** و **القَمَرُ** : چاند
 ہوتا۔ صفت (ثامر و مضمین)۔ **القَمَرُ** : الشَّجَرُ
القَمَرُ : پھل لانا۔ **القَمَرُ** : القوم : پھل گھٹانا۔
قَمَرٌ : صَالِحٌ : بڑھانا۔ زیادہ کرنا۔
استَقَمَرُ : الشَّيْءُ : نتیجہ خیر بنانا
القَمَرُ : پھل لینا۔
القَمَرُ : واحد قَمَرَةٌ۔ ج لثام و ج أعمار
 و قمر۔ **القَمَرَةُ** : نسل۔ اولاد۔ **قَمَرَةُ** : اللِّسَانِ :
 زبان کا کنارہ۔ **القَمَرَةُ** : السُّوْطُ : چابک کے
 سرے کی گرہ۔ اور اسی سے ہے "أَمَرَ الْجَلَاءُ دَانَ
 يَنْدُقُ لَمَرَةَ سُوْطِهِ" اس نے جلاد کو حکم دیا کہ
 کوڑے کے سرے کی گرہ کو پھل لے۔ **قَمَرَةٌ**
الْقَلْبِ : دوستی۔ محبت۔ اور اسی سے ہے
 "حَضَيْنَ بِقَمَرَةٍ لِقَلْبِهِ" اس نے مجھ کو اپنی دوستی
 کے لیے خاص کیا۔
القَامِرُ : لویا۔
شَجَرَةٌ (لَفْظاً) : پھل دار درخت۔ **القَمَرُ**
القَمَرَةُ : بہت پھلوں والی زمین۔
قَمِيلٌ (س) لَفْظاً : بہت ہونا۔ صفت (قَمِيلٌ)
قَمَلَةٌ (ن ض) لَفْظاً : فریاد رسی کرنا۔ گھٹانا پلانا۔
 فریاد کرنا۔
القَمَلَةُ : مدہوش کرنا۔ **القَمَلُ** : اللِّبْنِ : بہت
 جھاگ والا ہونا۔
 () **وَقَمِلَ** : اللِّبْنِ : جھاگ اٹھنے کے لیے
 اچھانا۔
قَمَلٌ : صافھی الاناء بیٹا۔
القَمَلَةُ : ج لثام و (القَمَلَةُ) : ج لثام
القَمَلَةُ : ج لثام و (القَمَلَةُ) : ج لثام
القَمَلَةُ : حوض یا برتن میں پانی مانہ پانی وغیرہ۔
القَمَلَةُ : جھاگ۔
القَمَلُ و **القَمَلُ** : زہر قاتل۔

القَمَلُ : القوم : قوم کا فریاد رس۔
القَمِيلُ : کھانا دودھ۔
القَمَلَةُ : حوض۔ **القَمَلُ** :
القَمَلَةُ : حوض کی تلی کی کچڑ۔ چرواہے کا
 تھیلا۔ جس کو وہ اپنے کندھے پر رکھتا ہے۔
قَمَلٌ (ن ض) لَفْظاً : **القَمَلُ** : کسی شخص کے
 مال کا آٹھواں حصہ لینا۔ **القَمَلُ** : آٹھواں
 حصہ لینا۔ **القوم** : آٹھواں ہونا۔
قَمَلٌ (ك) لَفْظاً : الشَّيْءُ : جیتی ہونا۔
قَمَلٌ : الشَّيْءُ : قیمت کا اندازہ کرنا۔ آٹھ
 والی ہونا۔
القَمَلُ : القوم : آٹھ ہونا۔ **القَمَلُ** : المان
 زید او لیزیدو قیمت دینا۔
القَمَلُ : بیع شہہ چیز کا بدلہ۔ قیمت ج اقصان
 و انقمتہ و انقمتہ۔
القَمَلُ و **القَمَلُ** : آٹھواں حصہ۔ ج اقصان اسی
 معنی میں یعنی اس سے اور القَمَلِ : جیتی۔
أَمْرًا (لثام و قَمَلٌ) : وہ لوگ آٹھ آٹھ آئے
 (غیر مصرف ہے)
القَمَلَةُ : آٹھ۔ **القَمَلُ** : مؤنث قَمَلان۔ اور تم کو گے
 "قَمَلَةُ عَشْرَةٍ وَجَلَاءُ قَمَلَانِ عَشْرَةَ أَمْرًا"
القَمَلُ : آٹھواں۔
القَمَلُونَ : آٹھ۔ (۸۰)
القَمَلُ : وہ چیز جس کی قیمت کا اندازہ کیا گیا
 ہو۔ بہت پھل۔ آٹھ پھلوں والی چیز۔
القَمَلَةُ : گھوڑے کے پاؤں کے پچھلے حصے کے
 بال ج لثام۔
القَمَلَةُ و **القَمَلَةُ** : مرد کا وہ حصہ جو عورت
 کے پستان کا ہے۔ ج لثام۔
القَمَلُ : بچہ رہانے والوں کی ہماری۔
قَمَلٌ (ض) لَفْظاً : الشَّيْءُ : سوڑنا۔ لیٹنا۔ بعض کو
 بعض پر تر کر دینا۔ **القَمَلُ** : روکنا۔ **القَمَلُ** :
 حاجت سے باز رکھنا۔ اور سورا ہونا۔ تم کہتے ہو "هَذَا
 وَاجِدٌ فَأَنْتِهِ" یہ ایک ہے تم دوسرے بن جاؤ گا
 جاتا ہے "قَمَلٌ عَلَيْهِ بِضْرَةٌ لَانِيَّةٌ" اس نے اس
 کو دوبارہ مارا۔ "وَقَمَلٌ لَانِيَّةٌ وَلَا يَنْقَلُ" یعنی
 فلاں چلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ "وَقَمَلٌ صَدْرُهُ"
 یعنی اس نے اپنے دل میں دشمنی کو پوشیدہ کیا۔

الْفُوجُ: مٹی چوہ اٹھانے کی ٹوکری۔
فَاخْت (ن ض) فُوجًا وَفَيْعًا: الْأَصْبَحُ لِي
الزُّورِ وَأَوَّلُ الْجُلِّ لِي الْوَحْلِ: اٹکل کا درم میں یا
پیر کا پھیر میں دھننا۔

فَاذ (ن) فُوزًا وَفُوزًا وَأَنَا وَفُوزًا: جوش میں
آنا۔ بھڑکانا۔ اور اسی سے ہے "فَاذَاتِ الْفَيْقَةِ
يَبْتَهُمُ" ان کے درمیان فتنہ و فساد بھڑکانا۔

الْمُضَاوُ أَوْ الدُّخَانُ: بلند ہونا
الْحِزَاؤُ: ٹڈیوں کا ظاہر ہونا _____ نَفْسُهُ:
جی کا اٹھانا _____ الْيَهُودِ: جملہ کرنا۔ کو پڑنا۔
فَاوْرَةٌ مَفَاوِزٌ وَفُوزًا: ایک دوسرے پر حملہ
کرنا۔

فُوزَةٌ وَأَفَازَةٌ وَاسْتَفَازَةٌ: جوش دلانا۔ فُوزٌ
الْأَفْرُ: کھود کرنا۔ فُوزٌ الْكِتَابُ: محل میں
بحث کرنا۔

فَفُوزٌ: جوش میں آنا۔
فُوزَانُ: الشَّفَقُ وَفُوزَةٌ: شفق کی سرخی۔
الْفُوزُ: تھل۔ آسمان کے ایک برج کا نام۔ ج
نہران و الفُوزِ وِثَارٌ وَبِثْرَةٌ وَفُوزَةٌ: الفُوزُ: بچیر
کا پورا کھوج۔ ج الفُوزِ وَفُوزَةٌ: فاشن کی جڑ
کی سفیدی۔

الْفُوزَةُ: گائے۔ کثرت۔ کہا جاتا ہے "ثورة
رجل اود صالح": لوگوں کی یا رکت کی کثرت۔
جوش دیکھنا۔ بھگت۔

الْمَخَايِرُ: قہ۔ کہا جاتا ہے "فَاذَ فَايِرَةٌ فَايِرَةٌ"
یعنی وہ غیبی تاک ہوا۔ "وَآيِرَةٌ فَايِرَةٌ الْوَأَسُ" میں
نے اس کو پر آئندہ مال دیکھا۔
الْمَخَايِرَةُ: شور۔ ج۔ ج۔ فو الو۔
الْمَخَايِرَةُ: بہت بیلوں والی زمین۔
فَاعُ (ن) فُوعًا: المَاءُ: بہنا۔

فَوَلَّتْ (س) فَوَلًا وَفَالَتْ (ن) فَوَلًا: الشَّادُ
مَخَاصِي: دعوائی ہونا _____ الزُّجَلُ: بیوقوف
ہونا۔ صفت (أَقْوَل) مَوْنٌ فَوَلًا: ج فَوَلٌ ج
أَنَاوَلَةٌ۔

فَفَوَلٌ: الصَّحْلُ: اٹکھا ہونا _____ عَلَيْهِ
الْقَوْمِ: جڑاٹھانے اور مارنے پینے لگانا۔
إِنْفَالٌ الْفَجَالُ: عَلَيْهِ الثَّرَابُ: گرنا۔ کہا جاتا
ہے "إِنْفَالٌ عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ" لوگ

إِنْفَانٌ: مَوْنٌ فَنفَانٌ وَفَنفَانٌ: دو۔

الْإِنْفَانُ وَيَوْمُ الْإِنْفَانِ: پیرکان۔ سوموار۔
الثَّانِي: مَوْنٌ الْعَالِيَةِ: دوسرا۔

الثَّانِيَةِ: سیکڑ۔ ج الفَوَائِي۔

الْفَتْوَى وَالْفَتْوَا: مِنَ الْجُزُورِ: ذبح کیے ہوئے
جانور کا سر پھاڑاں مستثنیٰ کیا ہوا۔

الْمَثْنَى: بربط ماجہ کے پہلے تار کے بعد والا تار
"مَثْنَى الْوَادِي: وادی کا موڑ۔ ج العَفَائِي۔
المَثْنَى: قرآن کی آیتیں۔ مَثْنَى الشَّيْءِ: کسی
چیز کی لڑی وغیرہ۔ وَالمَثْنَى مِنَ الدَّابَّةِ: زانو اور
کھنیاں۔

المَثْقَاةُ: اُون اور بال وغیرہ کی رشتی۔ کچی لپیٹ
ج مَثْنِيَّة۔

ثَابُ (ن) فُوتًا وَفُوتًا: لوثنا _____ النَّاسُ:
اٹکھا ہونا _____ المَاءُ: عوش میں جمع ہونا)
_____ ثَوْبَانًا وَثَوْبًا: الثَّوْبَانُ: المَرِيضُ: چنگا ہونا۔

فُوتَةٌ: مِنْ كَذَا: بدلہ دینا _____ الزُّجَلُ:
جانے کے بعد واپس ہونا۔ (_____ وَتَقْوَبٌ):
المُضَلِّي: فرض کے بعد لٹل نماز پڑھنا۔

أَثَابَ إِثَابَةً: الزُّجَلُ: چنگا ہونا _____ الزُّجَلُ:
بدلہ دینا _____ هِجْرَاءُ: دینا۔

_____ الحَوْضُ: بھرننا۔
تَقْوَبٌ: ثَوْبٌ مَحْصَلٌ كَرْنَا۔

إِسْتَقَابَ: المَالُ: لوثنا _____ الزُّجَلُ:
بدلہ مانگنا۔

القَائِبُ: قہ۔ بارش سے پہلے کی تیز ہوا
مِنَ النَّحْوِ: سمندر کا پڑھتا ہو پانی بھاننا کے بعد۔
الْقَوْبُ: کپڑا ج حجاب و أثواب و أثواب۔ کہا
جاتا ہے "طَاهِرٌ أَوْ ذَنْسُ الْقِيَابِ" پاک لمس یا
خیبت النفس۔

الْقَوَابُ وَالمَقْوَبَةُ وَالمَقْوَبَةُ: احوال کا بدلہ۔
خبر ہوا شرم عموماً خبر کے لیے مستعمل ہے۔
الْقَوَابُ: شمد۔ شمد کی قمی۔
الْقَوَابُ: بیزاز۔ کپڑے کا سودا گر۔ کپڑے والا۔
الْقِيَابِيُّ: کپڑوں کا محافظ۔

المَقَابُ وَالمَقَابَةُ: جمع ہونے کی جگہ۔
"مَقَابُ الْبُيُوتِ وَمَقَابُهَا" کونوں کے ارد گرد کے
اوغے پتھر۔

لَقِيَ الشَّيْءَ تَقْبِيَةً: دوہرا کرنا
بِالْأَمْرِ: ایک کام کے ساتھ دوسرا کام ملنا۔
الْكَلِمَةُ: تشبیہ کی علامت لگانا۔ ایک حرف پر دو
نقلے لگانا۔

أَقْبَى: الزُّجَلُ: دو سرا ہونا _____ عَلَيْهِ:
تسریف کرنا _____ عَلَيْهِ بِالضَّرْبِ: دو بارہ
بارنا۔

تَقَانًا وَعَلَيْهِ: مہربانیاں ظاہر کرنا۔
إِسْتَقَى: الشَّيْءُ: حکم عام سابق سے لگانا
_____ فَلَانًا وَعَلَى فَلَانٍ: کسی کو غیر کے حکم
سے خارج کرنا۔

إِقْتُونِي: صدرہ عَلَى الْبَغْضَاءِ: بغض و
عداوت پر مشتمل رہنا۔

الْبَغْيُ: مِنَ الْقَوْبِ: بیچ۔ لپیٹ۔ تم کہتے ہو
"أَزْسَلْتُهُ بَعِي كِتَابِي" میں نے اس کو اپنے خط
میں تلفیج کر کے بھیجا _____ مِنَ الْوَادِي:
موڑ _____ مِنَ اللَّيْلِ: وقت _____ مِنَ
الْحَيَاةِ: کنڈلی ج اُنشَاء۔ اُنشَاءُ الْكَلَامِ: دوران
مکتلو۔ تم کہتے ہو "جَاؤُوا فِي أُنشَاءِ الْأَمْرِ" یعنی
وہ لوگ کام کے درمیان میں آئے۔

الْبَيْئِيُّ: دہرائی ہوئی بات۔ ج ثَبِيَّةُ)
وَالمَقْبِيَانِ: سردار سے دوسرے درجہ کا آدمی۔
الْقَبَاءُ: تحریف۔ ج أَثْبِيَّة۔

الْبِنَاءُ: اونٹ کے زانو باندھنے کی دہری رشتی۔
أَتَوَا (تَنَأَ وَمَثْنَى): وہ لوگ دو دو آئے (غیر
مصرف ہے اور مذکر و مؤنث کے لیے یکساں
ہے)۔

الْبَنِي: ج بِنَاءٌ وَفَتِيَانٌ: وہ جانور جس کے
سامنے کے دانت گر گئے ہوں۔
الْبَيْئَةُ: سامنے کے اوپر کے نیچے کے دو دو
دانت۔ ج ثَقَابًا اسْتِنَاءً: کہا جاتا ہے "خَلَفَ
يَمِينًا لَيْسَ فِيهَا ثَبِيَّةٌ" اس نے بغیر استناء کے
قسم کھائی۔ گھلنی کا راستہ۔ کہا جاتا ہے۔ "فَلَانٌ
طَلَّغَ الثَّقَابِيَّ" یعنی فلاں مشقتوں کا برداشت
کرنے والا ہے۔

تَقْبِيَةُ الْأَشْيِزِ: موسیٰ ﷺ کی کتابوں میں
سے پانچویں کتاب۔

الثَّقَابِيُّ مِنَ الْأَلْفَاظِ: دو حرفوں والا۔

<p>عورت۔ (فد کرد مؤنث) دونوں کے لیے یکساں ہے۔ تم کہتے ہو ”رجل ثیب“ شادی شدہ مرد ”امراة ثیب“ شوہر سے جدا شدہ عورت ثیب: جو عورتوں کے لیے ہے اس کی جمع ثیبات ہے اور کہا جاتا ہے ”بنو ثیب“ کنواں جس میں پانی جمع ہو۔</p>	<p>الواہ فی المکان: ٹھہرانا۔ قیام کرانا۔ تَفَوَّاه: ممان بنا۔ الفؤاة: گھر کا سامان راستے کے نشان کے پتہ۔ ج۔ ثوی۔ الفؤاة والفائة: اونٹوں کا بازہ۔ الفوی: ممان۔ ممان خانہ قیدی۔ ج۔ الفوینا مؤنث فویة۔ الفویة: بھیڑ بکری گائے اونٹ کا بازہ۔ عورت۔ کہا جاتا ہے ”هذیه فویة فلان“ یہ فلاں کی بیوی ہے۔ الفویة: پتھر جو راستہ میں نصب کر دیا جائے تاکہ چرداے کے لیے علامت رہے جبکہ وہ رات میں داپس ہو۔</p>	<p>اس پر ہر طرح سے ٹوٹ پڑے _____ عَلَيهِ القول: زبان پر خود بخود آجانا۔ القول: حمد کی کھیں کا جھنڈ۔ الفویة: قبیلہ کے جمع ہونے کی جگہ۔ متفرق گھروں کے لوگوں کا ہتھا۔ کہا جاتا ہے ”انہی فویة من الناس“ لوگوں کی جماعت آئی۔ الفؤم: بسن۔ الفؤمة: ایک بسن۔ تھوار کے دست کے کنارے کی آرائش۔ تم کہتے ہو ”سنبلی فؤمته من فؤمة“ میری تھوار کے دست کا کنارہ چاندی کا ہے۔</p>
<p>المشيب: خاندان سے جدا شدہ عورت۔ الفتيل: پہاڑی بکری۔ نامرد۔ عورتوں کے پاس بیٹھنے والا۔ فتيل وفتيل: الزجل: غسل مندی کے بعد یہ قوف بنا۔</p>	<p>الفتيل والفتيل: ایک قسم کی گرہ دار بناکت جو زمین پر پھیلتی ہے۔ الفتيل: موتی نکالنے کی جگہ موتی میں سوراخ کرنے والا۔ موتی میں سوراخ کرنے کا آلہ (البیئة) بکریوں کا بازہ۔</p>	<p>تَفَاوَن: گھر فریب کرنا۔ الفتوی: آنے میں لگانے کی خشکی۔ ہلیتھن۔ فوی (ض) فؤاة و فوینا۔ المکان و لہ و بہ: اقامت کرنا _____ الزجل: مرنا۔ فوی: دفن کیا جاتا۔ فؤاہ تفویة فی المکان: ٹھہرانا۔ قیام کرانا۔ القول: اقامت کرنا۔ فؤاہ: ممانی کرنا۔</p>

والکعباب فی القمار پانسہ پھینکانا۔

الجَبْنَعَانَةُ: میگزین (جدید) اس کے لیے

عملی لفظ منسلحہ ہے۔ بارود کارٹوس۔

جَبْنَدَةُ (ض) جَبْنَدَاوِ اجْتَبَدَةُ: کھینچنا۔

جَبْنَدَاوِ العَدْبُ: چھوٹا اور خشک ہونا۔

جَبْنَادُ: مہنی علی الکسر: موت۔

جَبْنَلُ: الکبیل: باب بھروانا۔

الجَبْنُودَةُ: بلند۔ گول بلند زمین۔ تہ رج

جناد۔

الجَبْنُودُ: غویہ ناگفتہ۔

جَبْنَوَانُ (ن) جَبْنَوَانُ جَبْنَوَانُ جَبْنَوَانُ جَبْنَوَانُ

العظم: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنا۔

جَبْنَر (ن) جَبْنَوَانُ و جَبْنَوَانُ و جَبْنَوَانُ

و جَبْنَوَانُ و جَبْنَوَانُ: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست ہونا

_____ الفَقِيْرُ: غنی بنانا۔ جَبْنَوَانُ علی الامر:

بھجور کرنا۔

أَجْبَنَةُ: علی الامر: بھجور کرنا۔ مذہب جبریت

کی طرف منسوب کرنا۔

اجْتَبَنُوْا و اسْتَجَبَنُوْا: فقر کے بعد مستغنی ہونا۔

تَجَبَّنُوْا: تکبر کرنا۔ سرش ہونا۔ صفت (جہیز)

حالت گذشتہ کا وہی آنا۔ التبیث: چمے جانے

کے بعد بھرا آنا۔ تَجَبَّنُوْا المرعیض: درست

حالت والا ہونا۔

الجَبْنَرُ: نوٹے ہوئے کی درستی۔ غرور۔

بھجوری۔ قضاء الہی کے وقوع کا کلی طور پر

بھجورانہ اعتقاد کرنا۔ الجہراء: بھاور مرد۔

الجَبْنَاوَةُ: ٹوٹی ہوئی ہڈی درست کرنے کا

پیشہ (_____ و الجَبْنِيْرَةُ) ٹوٹی ہوئی ہڈی کے

باندھنے کی کڑی یا پٹی۔ ج جَبْنَانُوْا۔ الجَبْنَانُوْا:

کفن و یاد دہندہ۔

الجَبْنُوْرُوْا و الجَبْنُوْرُوْا و الجَبْنُوْرُوْا

قدرت۔ طاقت۔ عظمت۔

جَابِرُ: قا۔ ابو جابر: روٹی۔ اُمّ جابر:

ہریرہ۔

الجَبْنَانُ: بیکار بے قیمت۔ کہا جاتا ہے "ذہب

ذہبہ جَبْنَانًا": اس کا خون رائیگ گیا۔ یعنی اس

کے خون کا بدلہ نہیں لیا گیا۔" و النامعہ تخلیوة

و جَبْنَانًا" میں اس سے پاک و مری ہوں۔

جَبْنَانًا: منکل کازن۔

الجَبْنَانُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے

ہے۔ قابض: تسلط والا۔ قاہر: مغرور سرکش۔

بَرُوْجُ جَبْنَانًا: کہا جاتا ہے۔ "طَلَعُ الجَبْنَانُ"

برج جو ذرا طلوع ہوا۔ نَخْلَةُ جَبْنَانًا: لباجور کا

درخت جس پر اترتے پہنچ سکے۔

الجَبْنِيْرَةُ و المَجْبُوْرَةُ: فرق اسلامیہ میں

سے ایک فرقہ جس کے ماننے والے انسان کے

بھجور محس ہونے کے قائل تھے۔

جَبْنُوْرَانِیْلُ و جَبْنُوْرَانِیْلُ: ایک فرشتہ کا نام جو وحی

الہی لائے پر مائل تھے۔

جَبْنُوْرَانِیْلُ (ن) جَبْنُوْرَانِیْلُ: کانا۔

جَبْنُوْرَانِیْلُ (ن) جَبْنُوْرَانِیْلُ: خشک ہونا۔ صفت

(جہیز)

الجَبْنِيْرُ: بخیل۔

الجَبْنُوْرَةُ: کھلا۔ کہا جاتا ہے "جَبْنُوْرُهُ مَالُهُ"

جَبْنُوْرَةُ" یعنی اس نے اس کو اپنے مال کا ایک حصہ

دیا۔

الجَبْنِيْرُ: خشک روٹی۔

تَجَبَّنَسَ: غمی مشیتہ: ناز و تکبر سے چلنا۔

الجَبْنِيْسُ: بزدلی۔ کینہ۔ کند خاطر۔ قاسق۔ گج۔

رہجہ کا پتہ۔ ج آبجاس۔

الجَبْنِيْسُ: رہجہ کا پتہ۔ (_____)

و الجَبْنُوْسُ و الأَجْبَسُ: کینہ۔ ناکارہ۔

الأَجْبَسُ: کمزور۔ بزدل۔

جَبْنَسَ (ض) جَبْنَسَا: شہرے: موڑنا۔

جَبْنَلَةُ (ض) جَبْنَلَا: اللہ: پیدا کرنا۔ کہا

جاتا ہے "جَبْنَلَةُ اللّٰهُ عَلٰی الْکُفْرَم" اللہ نے

شرافت و کرم اس کی فطرت میں رکھ دی۔ جَبْنَلُ

الغرائب: بالی ڈال کر گارہ بنانا۔

جَبْنَلَةُ: مختلف گلے کرنا۔

أَجْبَلَةُ: بخیل بنانا۔

أَجْبَلُ و تَجْبَلُ و جَابَلُ: المسافر: بہاڑ

کی طرف جانا۔ بہاڑ میں داخل ہونا۔ بہاڑ میں رہنا۔

کہا جاتا ہے "طَلَبَ حَاجَةَ فَاَجْبَلُ" اس نے

اپنے مقصد میں کوشش کی اور محروم رہا۔

و تَجْبَلُ مَا عِنْدَهُ: اس نے اس کا سب کچھ

لے لیا۔

الجَبْنَلَةُ و الجَبْنَلَةُ و الجَبْنَلَةُ و الجَبْنَلَةُ:

چروہ۔ جسم کا سامنے کا حصہ۔ فطرت۔ طبیعت۔

اصل۔ قوت۔ زمین کی تختی۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ

ذُو جَبْنَلَةٍ" فلاں تخت طبیعت ہے۔" و جَبْنَلُهُ

علی الغیبر" اس کی طبیعت میں نکل ہے۔

الجَبْنَلُ و الجَبْنَلَةُ: لوگوں کی جماعت۔

الجَبْنَلَةُ: کوہان۔

الجَبْنَلُ: مکان کا صحن۔ بہت بڑا۔ کہا جاتا

ہے۔ "حَمِيَّ جَبْنَلٍ" بڑا قبیلہ۔

الجَبْنَلُ: بڑا پیالہ۔

الجَبْنَلُ: بہاڑ۔ ج جَبْنَالُ و أَجْبَانُ

و أَجْبَانُ: اور کہا جاتا ہے "رَجُلٌ جَبْنَلٌ" یعنی

بخیل مرد۔ "وَهُوَ جَبْنَلٌ لَوَجْهِهِ" وہ بھد سے چہرہ

والا ہے۔" و "فَلَانٌ جَبْنَلٌ قَوْمِهِ" فلاں اپنی قوم

کا سردار و عالم ہے۔ اِنَّتَ الجَبْنَلُ: سانپ۔

مصیبت۔ آواز باز گشت۔

الجَبْنَلِيُّ: طبعی۔

الجَبْنَالُ: بدن۔ کہا جاتا ہے فُلَانٌ خَطِيْرٌ

الجَبْنَالُ" فلاں تو مند ہے۔

الجَبْنَلُ و المَجْبَلُ: بد صورت۔ کہا جاتا

ہے "رَجُلٌ جَبْنَلٌ لَوَجْهِهِ" بد صورت مرد۔

"و اِمْرَاةٌ مَجْبَلَةٌ" بد صورت عورت۔

مَنْبِقُ مَجْبَلٌ: موٹی دھاری کی کھوپڑی۔

الجَبْنَلَةُ: خشک سال۔ ہر چیز کی کثرت۔ اصل۔

المَجْبَلُ: بڑے ڈیل ڈول والا۔

جَبْنَانُ (ن) جَبْنَانُ و جَبْنَانُ و جَبْنَانَةُ: بزدل

ہونا۔ صفت (جَبْنَانٌ) ج جَبْنَانُ مَوْنَتٌ جَبْنَانَةُ

و جَبْنَانٌ ج جَبْنَانَاتُ۔

جَبْنَانُ اللبْنِ: بھیر بنانا۔ الرجل: بزدلی

پر آسانا۔ (_____ و أَجْبَنُ و اجْتَبَنُ)

الرجل: بزدلی کی طرف منسوب کرنا۔ بزدل بنانا۔

اور اس سے ہے "فَأَقْلَبْنَاكُمْ لَمَّا أَجْبَنَّاكُمْ"

ہم نے تم سے جنگ کی تو تم کو بزدل نہیں بنایا۔

تَجَبَّنُ اللبْنِ: بھیر بنانا یا بھیر کی طرح جم جانا

_____ الرجل: بھولنا ہونا۔

الجَبْنُ و الجَبْنُ و الجَبْنُ: بھیر۔

الجَبْنَةُ: بھیر کا کھلا۔

الجَبْنِيْنُ: پیشانی۔ پیشانی کا کنارہ۔ ج أَجْبِنُ

<p>الجَحِيحَل: بڑی چٹان۔ پہاڑ۔ ہریڑی چیز۔ جَحَم (ف) جَحْمًا۔ الناز: بھڑکانا۔ العَيْن: کھولنا۔ عن الامر: روکنا۔ جَحَمَت (س) جَحَمًا وَجَحْمًا وَجَحْمَت (ک) جَحْمًا۔ الناز: بھڑکانا۔ جَحْمَةٌ۔ بعينه: گھورتا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔ أَجْحَمَ۔ عن الامر: رکنا۔ باز رہنا۔ أَجْحَمَتِ الناز: تیز بھڑکانا۔ فَجَحَمَ: بھگ ہونا۔ چلنا۔ الجاحِم: نا۔ بھڑکتی ہوئی چنگاری۔ من الحرب: سخت اور گھمسان کی جنگ۔ اور کہا جاتا ہے "نازًا جاحِمَةً" تیز آگ۔ "عَيْنٌ جاحِمَةٌ" انھی کی آٹھی رہ جانے والی آگ۔ الجَحِيم: دوڑ۔ گڑھے میں سخت بھڑکتی ہوئی آگ۔ سخت گرم جگہ۔ جَحْمَةٌ۔ النار: آگ کی بھڑک۔ جَحْمٌ الجَحَام: آنکھوں کی سوجن۔ الأَجْحَم: بہت سرخ آنکھوں والا۔ سوتی ہوئی آنکھوں والا۔ مَوْنَتٌ جَحْمَاءٌ۔ جَحْمٌ وَجَحْمٌ وَجَحْمِي۔ الجَحَام: بخیل۔ الجَحْمُوش: بہت بوڑھی عورت۔ بد صورت مونا خرگوش۔ جَحْمَايِر: تفسیر جَحْمِير الجَحْمَش وَالجَحْمُوش: بہت بوڑھی عورت۔ الجَحْمِظَةُ: گوارہ میں پتے کے اوپر لپٹنے کا کپڑا۔ زخ کرنے کے وقت جانور کی ناکوں میں باندھنے کی رسی۔ جَحِين (س) جَحِينًا۔ الصَّبِي: خوراک کی خرابی سے گزور ہونا۔ صفت (جحن) جَحِين (ف) جَحِينًا وَجَحِينٌ وَجَحِينٌ: فقرا بخل کی وجہ سے اہل و عیال پر بھلی ڈالنا۔ أَجْحَنَةُ: بری خوراک دینا۔ الجَحِين: دیر میں جوان ہونے والا۔ من النہات: کمزور اور چھوٹا پودہ۔ الجَحِين وَالجَحِينَةُ: بچھڑی۔ جَحَا (ن) جَحْوًا: چلنا۔ بالمکان:</p>	<p>العَيْن: آنکھ کی بوٹی آنکھ والا مرد۔ جَحْمَطُ۔ اليه: گھورتا۔ تیز نظر سے دیکھنا۔ الجَحْمِطَان: دونوں آنکھوں کے ڈھیلے۔ جَحْمَطُ (ف) جَحْمَطًا: چھیلنا۔ ہمالے جان۔ زیاد کردنا۔ ہر جگہ: لات مارنا۔ جَحْمَطُ مَعَهُ وَلَهُ عَلَي غَيْرِهِ: ناکل ہونا۔ لہ الطغَام: کہا نا کھانا۔ جَحْمِطُ۔ الرجل: جلاسے بیٹھنا ہونا۔ أَجْحَمُ۔ السَّبِيلُ: ہمالے جان۔ الدهرُ بالناس: ہلاک کرنا۔ جز سے مٹانا۔ فَلَاحٌ بَعْدِيهِ: طاقت سے زیادہ کام کی تکلیف دینا إِجْحَافٌ كاستعمال بطور استعارہ کے نقص فاحش میں بھی ہوتا ہے۔ جَحَافَةٌ: مزاحمت کرنا۔ جاحف عنه: رافت کرنا۔ لَجَحَافُوا: بلاٹھی اور تلواروں سے لڑنا۔ بالحِوَر: بلے سے باہم دو گریڈ چھیننا۔ إِجْحَافُهُ: چھیننا۔ جز سے اکیڑنا۔ ہلاک کرنا مَاءُ البئر: تمام پانی نکال دینا۔ السَّبِيلُ الوادي: کھود کر ہمالے جان۔ الجَحْمِظَةُ وَالجَحْمِظَةُ: حوض کے اطراف میں پانی کا تپہ۔ السَّبِيلُ وَالموت (الجَحَاف): ہمہ گیر دہا کن۔ الجَحَاف: بیٹھنے کے اسام۔ المَجْحُوف: جلاسے بیٹھنا۔ الجَحَاف: جگہ۔ لڑائی۔ المَجْحِظَةُ: مصیبت۔ جَحْمِظَةُ جَحْمِظَةً: پچھاڑنا۔ پھینکانا۔ سرزنش کرنا۔ فَجَحْمِظُوا: جمع ہونا۔ الجَحْمِظَل: بڑا لنگر۔ جَحْمِظَال: رجل جَحْمِظَلٌ: بڑے مرتبہ کامرد۔ الجَحْمِظَلَةُ: کھردار جانور کا ہونٹ۔ جَحْمِظَلُ (ف) جَحْمِظَلًا وَجَحْمِظَلًا: پچھاڑنا۔ الجَحْمِل: جَحْمِظُولٌ وَجَحْمِلَان: گرجت۔ گورہ کا پتہ۔ گھریلا۔ شد کی کمیوں کی ملکہ۔ جَحْمِل جَحْمِلَان: بڑی مٹک۔ اور کہا جاتا ہے "رجل جَحْمِل" مونا کشادہ پیشانی والا مرد۔ الجَحْمِلَان: زہر۔</p>	<p>جَحْمَتِ العَيْن: اندر کودھش جاننا۔ تم کہتے ہو۔ "جَحْمَتِ العَيْنُ عَيْنًا" غیر ہم تک نہ پہنچی۔ أَجْحَرُ وَجَحْمَرُ۔ السَّبِيح: سورج میں داخل ہونے پر مجبور کرنا۔ وَأَجْحَرَتِ السَّمَاءُ: بارش نہ ہونا۔ أَجْحَرَتِ القَوْمُ: قحط و سختی میں پڑنا ہ: بھلی ڈالنا۔ ہالی کذا: مجبور کرنا۔ أَجْحَرُ: سورج پٹنا۔ فَجَحْمَرَتِ۔ العَيْن: اندر کودھشنا۔ اور اسی سے ہے عین (جَحْمَرَاء) گڑھے میں دھسی ہوئی آنکھ۔ الجَحْمَر: گہرا لڑھا۔ الجَحْمَرُ قَوَالِحُ العَجْرَةِ: خشک سال۔ الجَحْمَر: سورج۔ بل۔ جَحْمَرًا وَجَحْمَرَةً وَالجَحْمَرَةَ۔ الجَحْمَرُ: پیچھے رہ جانے والا جو قائلہ کو نہ پاسکے۔ الجَحْمَرُ: وہ جانور جو اپنے ریز سے پیچھے رہ جائیں۔ المَجْحَرُ: چھینے کی جگہ، جائے پناہ۔ جَحْمَرُ مَجْحَرُ۔ الجَحْمَرُط: بوڑھی عورت۔ وَجَحْمَلُ (جَحْمَرُط): بھگ خود بد خلق مرد۔ الجَحْمَرُط: بوڑھی عورت۔ جَحْمَش وَجَحْمَش (ف) جَحْمَشًا وَجَحْمَشًا۔ الجَحْمَش: چھیلنا۔ کھینچنا۔ جَحْمَش وَجَحْمَش: عن نفسه وعن غیره: رفاقت کرنا۔ ہ: مزاحم ہونا۔ متاقلہ کرنا۔ الجَحْمَش: گڑھے کا پتہ۔ تَشْبِهُهَا كَهْوَسُ کے بچے کو بھی کہتے ہیں۔ جَحْمَش وَجَحْمَشَان وَجَحْمَشَةٌ۔ الجَحْمَشَةُ: گڑھے کا مادہ پتہ۔ ادن جو ہاتھ پر لپٹ کر کالی ہے۔ الجَحْمُوش: پھوٹا پتہ۔ المَجْحُوش: وہ شخص جس کا آدھا بدن ماتوف ہو گیا ہو۔ جَحْمِظَلَت (س) جَحْمِظَلًا۔ عينه: آنکھ سے ڈھیلے والی ہونا۔ کہا جاتا ہے۔ رجل (جَحْمِظَل)</p>
---	--	---

<p>اجْتَدَتْ: قبر ہانا۔ الجُدُّجُد: سخت ہموار زمین۔ جمہیر۔ بُدْی کی مانند ایک سیاہ رنگ کا کپڑا جو رات میں آواز کرتا ہے۔ ج۔ جداجد۔ جَدَّح (ف) جَدَّحًا وَاجْدَحَ وَاجْتَدَحَ۔ السَّوْفِيُّ: گولنا۔ جَدَّحَ السَّوْفِيُّ فِي اللَّبَنِ: ملانا۔ کہتے ہیں "جَدَّحَ جُؤَيْنٌ مِنْ سَوِيقِ غَيْرِهِ" (دوسرے کے ستوک جؤین نے گھولا) طاولی کی دوکان اور داداجی کی فاتحہ کے طور پر ضرب المل ہے۔ جَدَّحَةٌ: ملانا۔ المَجْدَحُ: ستو وغیرہ گھولنے کا سامان۔ ایک ستارہ کا نام۔ المَجْدَحُ: سمندر کا کنارہ۔ ج۔ مَجْدَحُ۔ مَجْدَانِيحُ: السماء: پختہ۔ واحد۔ مَجْدَحُ: کہا جاتا ہے "أَزْسَلَتْ السَّمَاءُ مَجْدَانِيحَ الْعَيْشِ" آسمان نے ہارش کے لیے پختوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ جَدَّرَ (ن) جَدَّرًا وَجَدَّرًا وَجَدَّرَ: بیچک لگانا۔ صفت (مَجْدَرٌ وَمَجْدَرٌ) جَدَّرَهُ (ن) جَدَّرًا: لائق و مناسب بنانا۔ الجَدَّارُ: دیواروں سے گھیرنا۔ الرجلُ: دیوار کی اوست میں ہو جانا۔ جَدَّرَ وَجَدَّرَ (ك) جَدَّارَةً وَاجْدَرَّ۔ النَّهْثُ: کوٹیل لگانا۔ جَدَّرَ (ك) جَدَّارَةً: بکڈا: لائق ہونا۔ صفت (جدیر) کہا جاتا ہے "هُوَ جَدِّيٌّ بِكُدَا وَلَكُدَا" ج۔ جَدِّيُّونَ وَجَدَّرَاءُ۔ مَوْثُ جَدِّيَّةٌ۔ ج۔ جَدِّيْرَاتُ وَجَدِّيْرُ۔ جَدَّرًا وَاجْتَدَّرَ: الخَالِقُ: بیروانا اور باہر سے کرنا۔ الجُدَّرُ وَالْمَجْدَرُ: پھریں مار کا نشان۔ زخم کا نشان۔ الجَدِّيْرُ: بالسُّنِيِّ: ولہ: لائق۔ مناسب ج۔ جَدِّيْرُونَ۔ الجُدَّرُ: ج۔ جَدَّرَانَ وَالْمَجْدَرَانَ ج۔ جُدَّرُ وَجُدَّرُ: دیوار۔ الجُدَّرُ وَالْمَجْدَرُ: ایک قسم کی ریگستانی</p>	<p>نباتات جَدُّور۔ واحد (جَدَّرٌ وَجَدَّرَةٌ) الجُدَّرِيُّ وَالْمَجْدَرِيُّ: بیچک۔ المَجْدَرُ: دھوکا (یعنی وہ چیز جو جانوروں اور چیزوں کو ہنگامے کے لیے کھیت میں کھڑی کی جاتی ہے۔ المَجْدَرَةُ: لائق۔ کہا جاتا ہے "أَنَّهُ مَجْدَرَةٌ لِأَن يَفْعَلُ كَذَا" وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔ (مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے یکساں ہے) ارض مَجْدَرَةٌ: بہت بیچک والی سرزمین۔ المَجْدَرُورُ: بیچک زدہ۔ کم گوشت والا۔ اور کہا جاتا ہے "انہ مجدور ان يفعل كذا" وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔ المَجْدِشُ وَالْمَجْدِشَةُ: غیر آباد زمین۔ غیر مزروعہ زمین۔ المَجْدِشُ: خشک خون۔ جَدَّشَةٌ (ض) جَدَّشًا: لینے کا ارادہ کرنا۔ الجَدَّشُ: سخت زمین۔ ج۔ اَجْدَشُ۔ جَدَّع (ف) جَدَّعًا: الأَنْفُ وَمَا شَاكَلَهُ: کانٹا۔ کہا جاتا ہے "لَأَمْرٍ مَا جَدَّعَ قَصِيْرٌ أَنْفَهُ" کسی خاص مصیحت سے قسیر نے اپنی ناک کاٹی۔ جَدَّعَ فَلَانًا: بقید کرنا۔ بازار کھانا۔ الرجلُ عِيَالَهُ: نان نفقہ روک لینا۔ () جَدَّعَ وَاجْدَعُ: الولدُ: بی بی خوراک دینا۔ جَدَّعًا (س) جَدَّعًا: بی خوراک والا ہونا۔ صفت (جدع)۔ الرجلُ: کان ناک کا کٹ جانا۔ صفت (اَجْدَعُ) مؤنث جَدَّعًا ج۔ جُدَّعُ۔ جَدَّعُهُ: کسی سے "جدعالك" کہنا یعنی اللہ تجھ کو عیب وار کر دے اور تجھ سے خیر کو منتقل کر دے۔ جَدَّعُهُ مَجْدَاعَةً وَجَدَّعًا: گلی دینا۔ جھگڑا کرنا۔ جَدَّعًا: باہم جھگڑنا۔ باہم گلی گلوچ کرنا۔ اسی سے عرب کا قول ہے "تَرَكْتُ الْبِلَادَ تَجْدَاعُ" اَفَاعِيْنَهَا" میں نے ملک کو اس حال میں چھوڑا کہ وہاں کے اشرار ایک دوسرے کو کھائے جا رہے تھے۔ الجَدَّعَةُ: کانٹے کے بعد عضو کا بقیہ حصہ۔</p>	<p>کانٹے کی جگہ۔ جَدَّعُ: ہر وزن قطعاً: سخت سال۔ کہا جاتا ہے "وَاجْتَدَّعْتُ بِهِمْ جَدَّعًا" ان کو قطعاً کے سال نے زیادہ کر دیا۔ المَجْدَعُ: عضو کانٹے کا اوزار۔ الجَدَّاعُ: موت۔ جَدَّاف (ض) جَدَّافًا: الطَّيْرُ: کٹے ہوئے پرندوں سے اُڑنا۔ الطَّيْرُ: چھوٹے قدم سے چلنا۔ الرجلُ: بیچک میں ہاتھوں کو ملانا۔ جَدَّاف (ض) جَدَّافًا: الشَّيْءُ: کانٹا۔ المَلَّاحُ: السفينة: چبڑ سے چلانا۔ السماءُ: بالطلح: برف گرانا۔ جَدَّافُ: نعمت کی ناشکری کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَا تَجِدُ فَوَائِيْعِمُ اللّٰهُ" اللہ کی نعمتوں کی ناشکری مت کرو۔ المَلَّاحُ: چبڑ سے ڈوگی چلانا۔ علی اللہ: کفر اور اہانت آمیز باتیں کرنا۔ جَدَّافُ: علیہ: جھگی میں جٹلا کیا جانا۔ اور اسی سے ہے "وَإِنَّهُ لَمَجْدَّافٌ عَلَيْهِ الْعَيْشُ" وہ تنگ دست ہے۔ أَجْدَفُ: القَوْمُ: چلانا۔ شور مچانا۔ الجَدَّافَةُ: شورو شغب۔ رَجُلٌ (مَجْدُوفٌ) الْعِيدُ: چھوٹے ہاتھ والا۔ کٹے ہوئے ہاتھ والا۔ "مَجْدُوفٌ الْأَزَارُ وَالْقَمِيصُ" چھوٹا تہنہ اور چھوٹی قمیص پہننے والا۔ المَجْدَّافُ: چبڑ۔ مَجْدَّافًا: الطَّيْرُ: پرندہ کے دونوں بازو۔ ج۔ مَجْدَّافِيْفُ۔ التَّجْدِيْفُ: کلہ کفر۔ ج۔ تَجْدِافِيْفُ۔ الجَدَّافِي وَالْمَجْدَّافَاءُ: غیبت۔ الجَدَّافُ: قبر۔ ج۔ اَجْدَافُ۔ جَدَّالٌ (ض) جَدَّالًا: الحَبِيْلُ: پٹنا۔ جَدَّالٌ (س) جَدَّالًا: الرجلُ: سخت جھگڑاؤ ہوتا۔ () جَدَّالٌ (ن) جَدَّالًا: الحَبِيْلُ: خوش میں سخت ہونا۔ الولدُ: مضبوط اور سخت ہڈیوں والا ہونا۔ جَدَّالَةٌ (ض) جَدَّالًا وَجَدَّالَةٌ: زمین پر پھک</p>
--	--	---

”ثُرْتُ إِلَى الضَّمِّ فَكَسَّرْتَهُ أَحَدًا“ میں
بت پر لوث پڑا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے
کر دیئے۔
الجُدَّة: کلزا۔
الْجُدُّ: ٹوٹا ہوا۔ مَوْتُ جُدَاءِ۔
جُدْبَةٌ (ض) جُدْبًا وَاجْتَدَبَتْهُ: الہ: کھینچنا۔
جُدَبَ الشَّهْرُ: اکثر حصہ گذر جانا۔ جُدَبَتْ
النَّاقَةُ: کم دودھ والی ہونا۔ _____ الہر عن
امہ: دودھ چھڑانا۔
جَادَبَتْهُ الشَّيْءُ: کسی چیز کے ہارے میں کھٹکش
کرنا۔
وَجَادَبْنَا الشَّيْءَ: کسی چیز کے ہارے میں ہاتھ
کھٹکش کرنا۔
تَجَدَّبَ اللَّيْنُ: بچنا۔
إِنْجَذَبَ: بھینچ جانا۔ اِنْجَذَبَ فِي السَّبْرِ: تیز
چلنا یا دور تک جانا اور کہا جاتا ہے ”اِنْجَذَبَ بِسْمِ
السَّبْرِ“ وہ لوگ دور تک چلے۔
الْجَادِبُ: قا۔ کم دودھ والی اونٹنی۔ ج
جوادب و جُدَاب۔
الْجُدْبَةُ: دور کی مسافت۔ کہا جاتا ہے ”بہنہ
وین المنزل جلدیہ“ اس کے اور منزل کے
درمیان مسافت بعید ہے۔
جُدَاب: موت کے لیے علم۔
الْجَادِبِيَّةُ: کھینچنے کی قوت۔
الْجُدَابِيَّةُ: جھولی چڑیوں کے ڈکار کرنے کا کہا۔
جُدْرَةٌ (ن) جُدْرًا: کانا۔ جڑ سے اُکھیرنا۔
جُدْرٌ: العُدَّة: عدد کا جذر حاصل کرنا۔
جُدْرَةٌ وَوَأَجْدْرَةٌ: جڑ سے اُکھیرنا۔
الجُدْرُ: جڑ سے اُکھیرنا۔
الجُدْرُ وَالْجُدْرُ: جڑ۔ جُدْرُ النَّبَاتِ:
نبات کی جڑیں جو زمین میں پھیلی ہوئی ہوں۔ ج
جُدْرُورٌ: مرلج کا جذر۔ جدر البقرة: گائے
کے سینک۔
الْجُدْرِيَّةُ: وہ دانت جو راجحہ کے بعد ہو۔
الْمَجْدُورُ: عدد کا مرلج۔
الْجُدْرُورُ وَالْجُدْرُورُ: نیل گائے کا
پچھڑ۔ ج جوادب و جُدَاب۔
الْمَجْدُورُ: بست پست قد۔

أَجْدَى إِجْدَاءً: عطیہ پانا۔ فَلَائًا: عطیہ دینا
_____ الْأَمْزُ: نفع دینا۔ کہتے ہیں۔ ”ما يَجْدِي
عَنكَ بِلْدًا“ تم کو یہ فائدہ نہیں دے گا۔
إِجْتَدَاهُ: عطیہ دینا۔
الْجُدَا: عام بارش (_____ وَالْجُدَاءُ)
نفع عطیہ۔
الْجَادِي: مانگنے والا۔ عطیہ دینے والا۔
الْجَادِي: زعفران۔
الْجُدْوِي: عطیہ۔
الْأَجْدِي: زیادہ نافع۔
الْجُدِي: سخی۔
الْجُدْوَةُ: گلہ۔ ریوڑ۔
جُدْيٌ (ض) جُدْيًا: عطیہ طلب کرنا۔
أَجْدَى إِجْدَاءً: العَجْرُ: برتا۔
الْجُدِي: پہلے سال کا بکری کا پچھڑ۔ ج أَجْدُ
وَجُدَاءُ وَجُدْيَانُ: قصب کے پہلو کے ایک
ستارے کا نام جس کو ”جُدْيُ الْقُرْأَنُ“ بھی کہتے
ہیں آسمان کے ایک برج کا نام۔
الْجُدْيَةُ: زین یا پالان کے نیچے کی گدی ج
جُدِي وَجُدِيَاتُ۔
الْجُدَايَةُ وَالْجُدَايَةُ: ہرن کا پچھڑ۔
الْجَادِيَاءُ: زعفران۔
الْمَجْدَاءُ: عدد کا مرلج جسے نو (۹) تین (۳) کا۔
سولہ (۶) چار (۴) کا۔
جُدْرَةٌ (ن) جُدْرًا: کانا۔ تُوْرُنَا: جُدْفِي سیرہ: تیز
چلنا۔
جُدْدُ: قوم سے اپنی بیوی چاہتا اور اس کا
نہ ماننا۔
الْجُدُّ: کنا۔ ٹوٹنا۔
تَجْدُدٌ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
الْمَجْدَاذُ وَالْمَجْدَاذُ وَالْمَجْدَاذُ: کلزا۔
سوئے کے ٹکڑے۔
الْمَجْدَاذَةُ: ہر چیز کی زیادتی۔ کہا جاتا ہے
”جُدَاذُهُ عَلَيْهِ كُدَا“ وہ اس سے اتنا زیادہ۔
الْمَجْدَاذَاتُ: ریزہ۔ براہ۔ کہا جاتا ہے ”عندِي
جُدَاذَاتٌ مِنَ الْبَيْضَةِ“ میرے پاس چاندی کے
ریزے ہیں۔
الْمَجْدُ: کسی ہوئی چیز کا چھوٹا ٹکڑا۔ تم کہتے ہو

دینا۔ جُدْلُ الشَّعْرِ: کونہ ہٹا۔ چرٹی بنانا۔
جَادَلُهُ مُجَادَلَةً جَدَالًا: جھگڑا کرنا۔
تَجَادَلًا: ایک دوسرے سے جھگڑنا۔
تَجَدَّلٌ وَانْجَدَلٌ: زمین پر ٹکا جانا۔
الْجَدَلُ: مہ: تخت۔ ٹھوس۔ عضو۔ ج
جُدُولٌ: قبر۔
الْجَدَلُ: جھگڑا۔ جھگڑنے کی مہارت۔
الْجَدَلَةُ: ہاون کا رستہ۔
الْجَدَالَةُ: زمین۔ جَدَالَةُ الْخَلْقِ: کھٹھے
ہوئے برن والا۔
الْمَجْدِيلُ: مٹی ہوئی رسی۔ ج جُدَلٌ۔ جُدَلٌ
الانسان: انسان کے ہاتھ بیروں کی
جوفدار بڑی۔
الْمَجْدِيلَةُ: طریقہ۔ کہا جاتا ہے ”عملی علی
جَدِيلِيَّة“ اس نے اپنے طریقہ پر کام کیا۔ نبیلہ۔
گوشہ۔ کنارہ۔ رائے کی کھینچ۔ کبوتر وغیرہ کا کابک۔
الْأَجْدَلِي وَالْأَجْدَلُ شَمْرًا: ساعدًا جَدَلُ:
خوبصورت کھنٹی ہوئی کلائی۔ ج أَجْدَالٌ: دُرْعَةٌ
جُدْلَاءُ: مضبوط زور۔ ج جُدَلٌ۔
الْمَجْدَالُ وَالْمَجْدِيلُ وَالْمَجْدَلُ
وَالْمَجْدَالُ: بست۔ جھگڑالو۔ الْجَدَالُ: کابک
پینچنے والا۔
الْمَجْدَلُ: محل۔ ج مَجْدَالٌ
الْمَجْدَلُ: لوگوں کی جماعت۔
الْمَجْدُولُ: بنا ہوا یا مضبوط بنا ہوا۔
الْجُدُولُ وَالْجُدُولُ: نالہ۔
جُدْمَةٌ (ن) جُدْمًا: کانا۔ جُدْمَتِ النَّخْلَةِ:
پھلدار ہو کر خشک ہونا۔ صفت (جَادِم)
الْجُدْمُ: کٹ جانا۔
الْمَجْدَمَةُ: پست قد۔
_____ وَالْمَجْدَمَةُ: وہ ہالیاں جو پہلی مرتبہ
گاہنے میں نہ ٹوٹیں۔
الْمَجْدَمُ: پست طبقہ کے لوگ۔
أَجْدَنُ إِجْدَانًا: فقیری کے بعد مالدار ہونا۔
الْمَجْدَنُ: خوش آوازی۔
جَدَا (ن) جَدْوًا: عطیہ دینا۔
وَاجْتَدَى إِسْتَجْدِي: فَلَائًا: حاجت کا
سوال کرنا۔ عطیہ مانگنا۔

<p>”جرح الشهادة“ اس نے کوئی کو باطل کر دیا الرجل: کما۔ صفت (جرح) اور اسی سے ہے ”مأله جارحة“ اس کے لیے کوئی کمانے والا نہیں۔</p>	<p>وَجُرْبٌ وَجُرْبٌ الجُرْبُ: خالی شئی۔ الجُرْبَةُ: سخت و قوی افراد (انسان ہو یا حیوان) کھاؤ اور کھنے اہل و عیال۔</p>	<p>صندوقی ہو کھینچنے سے کھلے۔ بِنَزْوِ (جَزْوَر): گمراہیوں — فرس جَزْوَرُ قابو میں نہ آنے والا گھوڑا، امرأة جَرور: لہجی عورت۔</p>
<p>جَرَحَ (س) جَرَحًا: زخمی ہونا۔ جَرَحُهُ: بہت زخمی کرنا۔ جَرَحَ الشَّهَادَةَ: رد کرنا۔</p>	<p>الجُرْبِيَاءُ: شائی ہو یا اس کی ٹھنڈک الجُرْبَانُ وَالجُرْبَانُ: من السيف: میان پر تلہ۔ دھار۔ من القميص: گریبان۔</p>	<p>الجُرْبُوءَةُ: گناہ۔ کہا جاتا ہے ”فعلت ذلك من جريرة تك“ میں نے اس کو تمہاری وجہ سے کیا۔</p>
<p>اجْتَرَحَ الشَّيْءُ: کمانا۔ اَلْاَلَمُ: ارتکاب کرنا۔ اسْتَجَرَحَ الشَّيْءُ: فاسد ہونا۔ الجُرْحُ: زخم۔ جَزْوَرُ وَالْجَزْوَرُ: الجُرْحَةُ: جس چیز سے مخالف کی گواہی یا دلیل بخروج کی جائے۔</p>	<p>المَجْرُوبُ: آزمودہ۔ دراهم معجزة: کھرے دراهم۔ الجَزْوَرُ: پانٹا بہ (فارسیہ) ج جَوَارِبُ و جَوَارِبَةُ۔</p>	<p>الجَزْوَرُ: بہت کھینچنے والا۔ گمراہانے والا۔ گمرا بیچنے والا۔ جیش جوار: بہت بڑا لشکر۔ عوام چھوٹی صندوقی کے لیے لفظ جَزْوَرُ کو استعمال کرتے ہیں جو کھینچنے سے کھلتی ہو۔</p>
<p>الجُرْحَةُ: جس چیز سے مخالف کی گواہی یا دلیل بخروج کی جائے۔ الجُرْحَةُ: زخم۔ ج جَوَاح و جَوَاحَاتُ: جراح کا پیشہ۔ گناہ۔</p>	<p>الجَزْوَرُ: پانٹا بہ پانٹا۔ الجَزْوَرُ: ایک قسم کی پھلی۔ مارماہی۔ جَزْوَرٌ وَاَجْرَتُهُم: اوپر سے نیچے کرنا اور سکر کر زمین پر آ رہنا۔ اجْرَتُهُم: چھٹ کے رہ جانا۔</p>	<p>الجَزْوَرَةُ: زرد رنگ کا پھو جو دم کو گھسیٹتا چلے ہے۔ الْأَجْرَانُ: انسان و جنات۔ المَجْرُوبُ: پانی بٹنے کی جگہ۔ شہیر۔ المَجْرُوبَةُ: ککشاں۔ عوام اس کو ”درب السبانه“ کہتے ہیں۔</p>
<p>الجُرْحُ وَالْجُرْحُ: زخموں کا علاج کرنے والا۔ سرجن۔ الجُرْحَةُ: جرح کا مؤنث۔ چھری۔ شکاری درندہ یا پرندہ یا کتہ۔ علمو انسانی خصوصاً ہاتھ ج جَوَاحِ: جَوَاحِ النَّهَارِ: کتاب ہے مصائب سے۔ اور اسی سے ہے ”نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَجَوَاحِ النَّهَارِ“ ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ ”الجَوَاحِ مِنَ الطَّيْرِ“ شکاری پرندے۔</p>	<p>جَرَحَ (س) جَرَحًا: الخاتم في اصبعه: ڈھیل ہونے سے حرکت کرنا۔ صفت (جرح) الرجل: سخت زمین میں چلنا۔ الجُرْحُ: سخت زمین۔ الجُرْحَةُ: توشہ رکھنے کا تھیلا۔ خرمی۔ ج جُرْحُ۔</p>	<p>جَزْوَرٌ (ك) جَزَاءَةٌ وَجَزَاءَةٌ وَجَزَائِيَّةٌ: علیہ: دلبری کرنا۔ صفت (جَزْوَرِي) ج اجزء و اجزءیاء۔ جَزَاءَةٌ تَجْرِيْنَا: جرأت دلانا۔ دلبرینا۔ اجْتَرَأَ: دلبر ہونا۔ اسْتَجْرَأَ: تکلف جرأت و کھانا۔</p>
<p>الجُرْحُ وَالْجُرْحُ: زخموں کا علاج کرنے والا۔ سرجن۔ الجُرْحَةُ: جرح کا مؤنث۔ چھری۔ شکاری درندہ یا پرندہ یا کتہ۔ علمو انسانی خصوصاً ہاتھ ج جَوَاحِ: جَوَاحِ النَّهَارِ: کتاب ہے مصائب سے۔ اور اسی سے ہے ”نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَجَوَاحِ النَّهَارِ“ ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ ”الجَوَاحِ مِنَ الطَّيْرِ“ شکاری پرندے۔</p>	<p>جَزْوَرٌ (ن) جَزْدًا وَجَزْدًا: العود: چھیلانا الجلد: بال آتارنا۔ السيف: نگی کرنا القحظ الارض: چھیل کرنا۔ جَزْدَةٌ من لوبه و جَزْدَةٌ قَوِيَّةٌ: ٹھکانا۔ جَزْدَةُ الْكِتَابَةِ: اعراب نہ لگانا۔ جَزْدَةُ الْجَزْدَةِ: پیونک رہنا۔ جَزْدٌ (س) جَزْدًا: چھیل ہونا۔ ٹھکانا ہونا المكان: بڑی زدہ ہونا۔ الفرس: چھوٹے بال والا ہونا۔ جَزْدَتِ: الارض: بڈیوں کے کھانے سے صاف ہو جانا۔ جَزْدًا: ٹھکانا ہونا۔ الامر: تمام کاموں سے فارغ ہو کر مشغول ہونا اور کوشش کرنا الفرس: گھوڑوں میں آگے بڑھ جانا۔</p>	<p>الجَزْوَرَةُ: درندوں کے شکار کرنے کا مکان۔ ج الجرجالی۔ الجَزْوَرَةُ: پونا۔ ملحق۔ جَرَبٌ (س) جَرَبًا: نارش والا ہونا۔ صفت (جَرَب و جَرَبَان و اجْرَب) ج جراب و جَزْبِي و اجْرَاب و جُرْب و جُرْبُ السيف: رنگ آلود ہونا۔ جَزْوَرَةٌ تَجْرِيْنَا وَتَجْرِيْنَا: آزمانا۔ اجْرَبُ: القوم: قوم کے اونٹوں میں غارش پیلانا۔ گھلی میں جٹلا کرنا۔ الجَرَبُ: عیب۔ برائی۔ گوارا کا رنگ۔ الجَزْبَاءُ: اجرب کا مؤنث۔ قط زدہ زمین۔ ستاروں بھرا آسمان۔</p>
<p>الجُرْحُ وَالْجُرْحُ: زخموں کا علاج کرنے والا۔ سرجن۔ الجُرْحَةُ: جرح کا مؤنث۔ چھری۔ شکاری درندہ یا پرندہ یا کتہ۔ علمو انسانی خصوصاً ہاتھ ج جَوَاحِ: جَوَاحِ النَّهَارِ: کتاب ہے مصائب سے۔ اور اسی سے ہے ”نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَجَوَاحِ النَّهَارِ“ ہم دن اور رات کے مصائب سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ ”الجَوَاحِ مِنَ الطَّيْرِ“ شکاری پرندے۔</p>	<p>جَزْوَرٌ (ف) جَزْحًا: زخمی کرنا۔ ہ بلسانہ: عیب لگانا۔ مرتبہ لگانا۔ کہا جاتا ہے جَزْحًا: زخمی کرنا۔ ہ بلسانہ: عیب لگانا۔ مرتبہ لگانا۔ کہا جاتا ہے</p>	<p>الجَرَبُ: عیب۔ برائی۔ گوارا کا رنگ۔ الجَزْبَاءُ: اجرب کا مؤنث۔ قط زدہ زمین۔ ستاروں بھرا آسمان۔ الجراب: گوارا کا مہمان۔ چڑے کا برتن۔ کنویں کا جوف۔ غمیشین کی تھیلی۔ ج اجْرَبَةُ</p>

آواز۔
والجروش والجروش والجروش۔ من اللیل، رات کا ایک حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ "مضى جروش من اللیل" رات کا ایک حصہ گزر گیا۔ ج آجروا وجرؤش۔
جروضة: الحب، دلاہواقلہ۔ سرکی بھوسی۔
الجرواوش: جوارش۔ (دوا)
الجروئش والمجروؤش: دلاہوا۔
جروض (س) جروضا برفیقہ: فکرا غم کی وجہ سے مشکل سے توک لگانا۔ رفقہ: یکبارگی گل لینا۔ کہا جاتا ہے "فلان یجروض علیک رفقہ غیظا" یعنی فلاں تمہارے اوپر رانت میں رہا ہے۔
جروضہ (ن) جروضا: گھا گھوٹنا۔ کہا جاتا ہے "ہو یجروض نفسه" وہ مرے والا ہے۔
آجروضہ: برفیقہ: اچھو لگوانا۔
الجروض والجروئض: توک جس سے پھندا لگ جائے۔ اور اسی سے مثل ہے "حال الجروئض ذؤن القروئض" شکر کرنے سے شدید غم نے روک دیا۔
الجروئض: عملگین۔ ج جروضی: اور کہا جاتا ہے "فلت فلائ جروضا" فلاں مرے ہی والا ہے۔
الجرواض والجروئاض والجرواض: بہت عملگین۔
الجروضم والجرواضم والجروضم: بہت کھانے والا۔ ناقہ (جروضم و جروضم) موٹی تازی اونٹنی۔
جروع (ف) جروعا و جروع (س) جروعا و اجروع اجروعا۔ یکبارگی پی لینا۔
جروعہ: الماء: ایک ایک گھونٹ کر کے پانا۔
تجروع: الماء: تھوڑا تھوڑا پینا۔
العیظ: غصہ پی جانا۔
أجوعت: الناقة: کم درود والی ہونا۔ صفت (مضارع) جضجوع و مضجوع (مضارع) الجروعہ والجروعہ والجروعہ: گھونٹ۔
الجروعہ: ج جروع و جروعان و (الجروعاء) ج جروعوات و (الأجروع) ج أجراع: ہموار

رٹلا میدان جس میں کچھ نہ اگے۔
جروف (ن) جروفا و جروفا و جروفا و اجروفا و اجروفا: الشقی: کل یا اکثر حصہ کو لے جانا۔
الطین: کھرج لے جانا۔
أجروف: المكان: سیلاب زدہ ہونا۔
الجروف: ہ۔ بہت مال (مویشی چاندی سونا وغیرہ) سرسبز۔ دوداؤ جو اونٹ کی ران یا بدن پر لگایا جاتا ہے۔
الجروف: ج جروفہ و (الجروف) ج أجروف: دریا کے کنارے کا وہ حصہ جس کو پانی نے کھو کھا کر دیا ہو۔ اور اسی سے ہے "فلان یتنی علی جروف ہار لا یندرئ مالئین من نہار" فلاں دریا کے گرتے ہوئے کنارے پر گھرتا ہے اور اسے پیل دہناری تیز نہیں۔
الجروف: من السیل: تمام چیزوں کو بہا لے جانے والا سیلاب۔ اور کہا جاتا ہے "رجل جروف" تمام کھانا کھا جائے والا مرد۔
(والجزاب) ایک قسم کا پتہ۔
الجراف: فاطمون۔ عام پتہ کن موت (جائے انسان کی ہویا مویشی کی)
الجزاؤف: بہت کھانے والا۔ تیز بہا لے جانے والا۔ مٹوس۔ مؤنث ججازؤفہ۔
الجرواف: بہت تیز بہا لے جانے والا۔
المجروف والمجروف: وہ شخص جس کا تمام مال برباد ہو گیا ہو۔
المجروف والمجروف: بیلچہ۔ پھاڑہ۔
جروضہ: بچاڑنا۔ الشقی: بہت حرص سے کھانا۔
الجروض والسجروض: شیر۔
جروئ (س) جروئا۔ المكان: سخت اور پتھریلی ہونا۔
الجروئ: سخت اور پتھریلی زمین ج اجروال۔
الجروؤل: پتھریلی زمین۔ ج جرواول۔
الجروئال و الجروئال: شراب یا اس کا رنگ۔
جروم (ض) جروما۔ الشقی: کاٹنا۔ پورا کرنا۔
الناقہ: اون کڑا () جروما جروما و جروما و جروما: النخل: کھجوریں کاٹنا۔
جروم (ن) جروما و اجروم۔ لابلہ: کاٹنا۔

لیں۔ "وَأَخَذَهُ بِجَمْرٍ امِيزَةٍ" اس نے سب لے لیا۔

الْمَجْرُؤُوقُ: موزہ۔ وہ چیز جو موزہ کے اوپر اس کی حفاظت کے لیے پٹی جاتی ہے۔ عوام اس کو "کالوش" کہتے ہیں۔

جَزَن (ن) جَزُونًا۔ الثوبُ: بوسیدہ و نرم ہونا۔ علی الامر: خرگہ ہونا۔ عاری ہونا۔ کہا جاتا ہے "جَزَنَتْ يَدُهُ عَلَى الْعَمَلِ" اس کا ہاتھ کام میں مشاقت ہو گیا۔

جَزَنًا۔ الْحَبُّ: حبیبہ۔

أَجَزَنَ۔ الْحَبُّ: کھلیان میں جمع کرنا۔

إِجْتَزَنَ: کھلیان بنانا۔

الْحَاوِنُ: سانپ کا پتہ۔ سٹے ہوئے نشان والا راستہ۔ من المتاع: استعمال شدہ بوسیدہ سامان۔ مَسْقَاةُ حَاوِنٍ: سخت چڑھے والی ٹھک۔ دِرْعُ حَاوِنَةٍ: نرم زرہ۔ ج حَاوِرٍ و حَاوِرَاتٍ۔

الْحَزْنُ: پائی وغیرہ کے لیے کھدا ہوا پتھر۔ ج أَجَزَانٍ و حَزَانٍ (۔)۔ الْحَزِينُ: ج حَزُونٍ: کھلیان مجبور وغیرہ خشک کرنے کی جگہ۔

الْحِزَانُ: من التبعير: اُونٹ کی گردن کا اگا کا حصہ۔ ج حِزُونٍ و أَجْرَانَةٍ اور کہا جاتا ہے "الْفَقِي البعيرُ حِرَانَةٌ" یعنی اُونٹ بیٹھ گیا۔ "والقبي فلانٌ عليٰ بلدِ الامرِ حِرَانَهُ" یعنی فلان نے اس مقصد پر اپنی نظر جمادی۔ "وَصَرَبَ الْإِسْلَامُ بِحِرَابِهِ" اسلام نے بڑھکلی۔ "وَصَرَبَ الْفَيْلُ بِحِرَابِهِ" رات آگئی "والقبي عليه حِرَابَةٌ" اس نے اپنا بوجھ اس پر ڈال دیا۔

المِحْزُونُ: کھلیان۔ رجلٌ مِحْزُونٌ: بست کمانے والا مرد۔

المِحْزُونُ: من السياط: نرم اور چکنا کوڑا۔ حِرَابَةٌ تَحْرِيبُهَا: الامر: ظاہر آشکارا کرنا۔

حِرَابَةٌ: الامر: ظاہر آشکارا ہونا۔

الحِرَابِيَّةُ: ظاہر آشکارا۔ کہا جاتا ہے "صَمِعْتُ حِرَابِيَّةَ الْقَوْمِ" میں نے قوم کی بیخ پکارتی۔

جَزَهُدٌ و اجْزَهُدٌ: في السير: تیز چلنا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْحِرَابِيُّ: بھرتلا چلنے والا۔

الْجَزْزُ: کترے یا کائے والا۔
 المَجْزُ: کترلی۔ قہجی۔
 جَزْأُ (ف) جَزْأَةُ الشَّيْءِ: اجزاء میں تقسیم
 کرنا۔ ایک جزء لیانا۔ (وَجَزْأُ وَاجْتَزَأُ)
 بِالشَّيْءِ: اکتفاء کرنا۔
 جَزْأُ لَجَزْأَةٍ وَتَجَزَيْتَا: الشَّيْءُ: تقسیم کرنا۔
 (جَزْأُ وَأَجْزَأُ) بِالشَّيْءِ: قائل بنانا۔ کہا جاتا ہے
 "جَزْأُ الْعَاشِيَةِ بِالرَّغْبِ عَنِ الْمَاءِ" جانور کو تر
 گھاس کھلائی اور پانی پلانے کی ضرورت نہیں
 ہوئی۔ أَجْزَأُ عَنْهُ: مستغنی ہونا۔
 تَجَزَأُ: تقسیم ہونا۔
 الْجَزْءُ: بعض۔ کفایت۔ کہا جاتا ہے لکھی
 هَذَا عِشَاءُ وَجَزْءُ تَسْمَارِهِ لِيَةَ انْتَابِيسَ۔
 الْجَزْءُ: چیز کا ایک حصہ۔ جِ اجزاء اور اسی
 معنی میں جَزْءُ وَجَزْءُ مَبِيَّ هُوَ۔
 الْجَزْئِيَّةُ: جڑ کی جانب منسوب۔ کھلی کی ضد۔
 الْجَزْئِيَّةُ: ضد کلیت۔ جِ ح جزئیات۔
 الْجَزْءُ: چھری۔ ستلی وغیرہ کا دستہ۔
 الْمُجْزَأُ وَالْمَجْزَأَةُ وَالْمَجْزَأُ وَالْمَجْزَأَةُ:
 کسی چیز کا اتنا حصہ جو کافی ہو۔ کہا جاتا ہے۔ "أَجْزَأُ
 مَجْزَأُ فُلَانٍ وَمَجْزَأُهُ وَمَجْزَأَانَهُ وَمَجْزَأَانَهُ"
 وہ فلاں کا تمام مقام ہوا۔
 الْجَزْئِي وَالْمَجْزِئِي: من الطعام: آسودہ
 کرنے والا۔
 الْجَوَازِي: نسل گائے جو صرف گھاس چرتی
 ہے اور زیادہ پانی کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔
 جَزَعُ (ف) جَزَعًا لَهُ مِنَ الْمَالِ: حصہ دینا
 _____ الرَّجُلُ: اپنے کام کے لیے جانا
 _____ الطَّبِيَاءُ: اپنی بھارتی میں داخل ہونا۔
 الْجَزْعُ: مہ۔ عطیہ۔
 الْجَزْدَانُ: بزودان۔ رستہ۔ تھیلی۔
 جَزْرٌ (ن ض) جَزْرًا وَجَزْرًا وَجَزْرًا
 وَاجْتَزَرَ: ذبح کرنا۔ جَزْرُ التَّخْلَةِ
 جَزْرًا: کاٹنا۔
 جَزْرٌ (ن ض) جَزْرًا: البَحْرُ: سمندر کا پیچھے
 ہٹنا۔ _____ الْمَاءُ: خشک یا کم ہو جانا۔
 أَجْزَرَ: النخلُ: کاٹنے کا وقت آنا۔ الشَّيْخُ:
 مرے کا وقت آنا۔ _____ فَلَانًا: ذبح کرنے کے

لیے کھری دینا۔
 تَجَزَأُ: باہم گالی گلوچ کرنا۔
 تَجَزَرُ فِيهِمْ وَاجْتَزَرُوا هُمْ: لُحِي الْقِتَالِ: میدان
 جنگ میں دشمن کو درندوں کی خوراک بنا دینا۔
 الْجَزْرُ: مہ۔ ذبح کرنا۔ بھانا۔ سمندر کے پانی کا
 آثار۔
 الْجَزْرُ: ہر وہ جانور جس کا ذبح کرنا جائز ہو۔ واحد
 جَزْرَةٌ: زبجہ۔ جزر السباع: وہ گوشت جس کو
 درندہ کھائے۔ کہا جاتا ہے۔ "لو كوهوم
 جَزْرًا" یعنی انہوں نے ان کو صحرا میں قتل کر دیا
 الْجَزْرُ: وہ زمین جہاں سے مد (جوار) لوٹے۔ و
 (الجزر) گار۔
 الْجَزْرُ وَالْجَزْرِيُّ: ذبح کرنے والا۔
 الْجَزْوَرُ: ذبح کے لیے اونٹنی یا کبھی۔ جِ ح جَزْوَرُ
 جَزْوَرَاتُ وَجَزَائِرُ۔
 الْجَزْوَاةُ: ذبح کیے ہوئے جانور کے اطراف
 (یعنی سری پائے) اس لیے کہ ذبح کرنے والا ان کو
 ذبح کرنے کی اجرت میں لیتا ہے۔ وہ چیز جس کو ذبح
 کرنے والا ان کی اجرت میں لے۔
 الْجَزْوَاةُ: ذبح کرنے کا پیشہ۔
 الْجَزْوِيَّةُ: جِ ح جَزَائِرُ وَجَزْوَرُ جَزْرٍ: زمین کا وہ
 حصہ جس کے چاروں طرف پانی ہو۔ دو آب کے
 ممالک جزیرہ العرب: ملک عرب۔ (اور یہی
 الحقیقت جزیرہ نما ہے۔ الْجَزَائِرُ: شمالی افریقہ میں
 ایک ملک کا نام۔ الْجَزَائِرُ الْخَالِدَاتُ: بحرِ میحل
 (الٹلائک) کے مغربی حصہ میں چھ جزیرے۔
 الْمَجْزَرُ: فنج۔ بوجھ خانہ۔ عوام اس کو
 منسلخ کہتے ہیں۔
 جَزَعُ (ف) جَزَعًا: الْوَادِي: پار کرنا۔ لَهُ
 مِنْ مَقَالِهِ جَزْعَةٌ: ایک حصہ دینا۔
 جَزَعُ (س) جَزَعًا وَجَزْوَعًا: مہ۔ بے صبری
 کرنا۔ _____ عَلَيْهِ: ذرنا۔ صفت (جَزَعٌ وَجَزَاعٌ
 وَجَزَعٌ وَجَزَاعٌ وَجَزْوَعٌ)
 جَزَعَةٌ: تسلی دینا۔ بے صبری ذاکل کرنا۔ جَزَعُ
 الشَّيْءِ: کلڑے کلڑے کرنا۔ _____ الْحَوْضُ:
 تھوڑے پانی والا ہونا۔
 أَجْزَعُهُ: گھیرا دینا۔ (أَجْزَعُ مِنْهُ جَزْعَةٌ: ایک
 حصہ پانی چھوڑ دینا۔

الْجَزْزُ: کترے یا کائے والا۔
 المَجْزُ: کترلی۔ قہجی۔
 جَزْأُ (ف) جَزْأَةُ الشَّيْءِ: اجزاء میں تقسیم
 کرنا۔ ایک جزء لیانا۔ (وَجَزْأُ وَاجْتَزَأُ)
 بِالشَّيْءِ: اکتفاء کرنا۔
 جَزْأُ لَجَزْأَةٍ وَتَجَزَيْتَا: الشَّيْءُ: تقسیم کرنا۔
 (جَزْأُ وَأَجْزَأُ) بِالشَّيْءِ: قائل بنانا۔ کہا جاتا ہے
 "جَزْأُ الْعَاشِيَةِ بِالرَّغْبِ عَنِ الْمَاءِ" جانور کو تر
 گھاس کھلائی اور پانی پلانے کی ضرورت نہیں
 ہوئی۔ أَجْزَأُ عَنْهُ: مستغنی ہونا۔
 تَجَزَأُ: تقسیم ہونا۔
 الْجَزْءُ: بعض۔ کفایت۔ کہا جاتا ہے لکھی
 هَذَا عِشَاءُ وَجَزْءُ تَسْمَارِهِ لِيَةَ انْتَابِيسَ۔
 الْجَزْءُ: چیز کا ایک حصہ۔ جِ اجزاء اور اسی
 معنی میں جَزْءُ وَجَزْءُ مَبِيَّ هُوَ۔
 الْجَزْئِيَّةُ: جڑ کی جانب منسوب۔ کھلی کی ضد۔
 الْجَزْئِيَّةُ: ضد کلیت۔ جِ ح جزئیات۔
 الْجَزْءُ: چھری۔ ستلی وغیرہ کا دستہ۔
 الْمُجْزَأُ وَالْمَجْزَأَةُ وَالْمَجْزَأُ وَالْمَجْزَأَةُ:
 کسی چیز کا اتنا حصہ جو کافی ہو۔ کہا جاتا ہے۔ "أَجْزَأُ
 مَجْزَأُ فُلَانٍ وَمَجْزَأُهُ وَمَجْزَأَانَهُ وَمَجْزَأَانَهُ"
 وہ فلاں کا تمام مقام ہوا۔
 الْجَزْئِي وَالْمَجْزِئِي: من الطعام: آسودہ
 کرنے والا۔
 الْجَوَازِي: نسل گائے جو صرف گھاس چرتی
 ہے اور زیادہ پانی کی ضرورت محسوس نہیں کرتی۔
 جَزَعُ (ف) جَزَعًا لَهُ مِنَ الْمَالِ: حصہ دینا
 _____ الرَّجُلُ: اپنے کام کے لیے جانا
 _____ الطَّبِيَاءُ: اپنی بھارتی میں داخل ہونا۔
 الْجَزْعُ: مہ۔ عطیہ۔
 الْجَزْدَانُ: بزودان۔ رستہ۔ تھیلی۔
 جَزْرٌ (ن ض) جَزْرًا وَجَزْرًا وَجَزْرًا
 وَاجْتَزَرَ: ذبح کرنا۔ جَزْرُ التَّخْلَةِ
 جَزْرًا: کاٹنا۔
 جَزْرٌ (ن ض) جَزْرًا: البَحْرُ: سمندر کا پیچھے
 ہٹنا۔ _____ الْمَاءُ: خشک یا کم ہو جانا۔
 أَجْزَرَ: النخلُ: کاٹنے کا وقت آنا۔ الشَّيْخُ:
 مرے کا وقت آنا۔ _____ فَلَانًا: ذبح کرنے کے

اليد من العمل : کام کرنے کی وجہ سے سخت ہوتا۔ صفت (جاسمۃ وجسشاء)
 الجس : سخت کھال۔ جمادیاہیانی۔
 الجاسی : من النبات ونحوہ : خشک
 جسید (س) جسدا۔ اللحم بہ : چکنا۔ (جسیدہ وجاسیدہ)
 جسدة : زعفران سے رنگنا۔
 تجسد : تن آور ہونا۔
 الجسد : بدن انسانی۔ زعفران۔ خشک خون ج
 اجساد نسبت کے لیے (جسدی وجسدانی)
 الجسد : زعفران۔
 الجسد : بیٹ کا در۔
 الجسید : خشک خون۔
 الجسد : کردہ جو بدن سے متصل ہو ہینان
 جسر (ن) جسارۃ وجسورۃ علی الامر : اقدام کرنا (وتجاسر فخر کرنا۔ جری ہونا۔
 جسر (ن) جسور : پل بنانا واجتسر
 المفاضة : بیور کرنا۔
 جسورۃ : بہادر بنانا۔
 الجسر والجسر : پل۔ ج جسور و
 اجسر۔ الجسر من الابل : بڑا اونٹ —
 من الرجال : بڑے ڈیل ڈول کا مرد مؤنت
 جسرة۔
 الجاسر ج جسار وجاسور و
 (الجسور) ج جسور وجسر : دلیر۔ جس قدی
 کرنے والا۔ مؤنت جاسرۃ وجسور۔ ج
 جواسر۔
 الجسرة : دلیری۔ بہاری۔
 الجسار : بہت دلیری کرنے والا۔
 جسع (ف) جسوعا۔ عن العطاء : باز رہنا۔
 زک جانا۔
 الجاسع من السفر : لمبا سفر۔
 جسع (ک) جساعة : بھور ہونا۔ صفت
 (جسام وجسیم) ج جسام مؤنت (جسیمۃ
 وجساعة)
 جسمة : تن آور ہونا کرنا۔
 تجسم : بھور ہونا ہونا۔

الجزفة : بھڑوں کے روڑا ایک حصہ۔ بقاء
 او انا (مجزم) بھری ہوئی ٹھک یا برتن۔
 جزوی (ض) جزاء الرجل بکلامه وعلی کذا
 : بدلہ دینا۔ جزوی فلاناً حقہ : ادا کرنا۔ جزاء
 الشئ : کافی ہونا (—) وجزئی الامر منه او
 عنه : قائم مقام ہونا۔ تم کہتے ہو۔ "جزوی ہلدا من
 او عن ذاک" یہ اس کے قائم مقام ہے۔
 جزاءہ فجزاءة وجزاء : بدلہ دینا۔
 تجازی تجازیاً : دینہ و بدینہ علی فلان :
 طلب کرنا۔ تقاضا کرنا۔
 اجترأہ : بدلہ مانگنا۔
 الجزاء والجزاء والجزایة والمجازاة :
 کسی چیز کا بدلہ۔ الجزایة کی جمع الجوازی۔ کہا
 جاتا ہے "جز تک الجوازی" یعنی تم نے اپنے
 نفل کا بدلہ لیا۔
 الجزیة : زمین کا محصول۔ ٹیکس جوڑی سے لیا
 جائے۔ ج جزوی وجزوی وجزاء۔
 الاجزوی : بہت کافی۔ تم کہتے ہو "اللحم
 السمين اجزوی من المهزول" موٹا گوشت
 دلے سے زیادہ بہتر ہے۔
 جسۃ (ن) جسنا واجسنة : معلوم کرنے کے
 لیے ہاتھ سے پھونکا۔ الارض : روندنا۔
 مہینہ : بھورنا۔ جز نظر ڈالنا۔
 جس وجس وجس وجس واجس : الاخباز او
 الامور : تفتیش کرنا۔
 الجس : ج اجسہ و (الجاسوس) ج
 جواسیس والجساس : جاسوس۔ ثمانی کی
 نیت سے خبروں کی تفتیش کرنے والا۔
 جواس : الانسان : انسان کے حواس خمسہ
 واحد (جاسۃ)
 الجس والجس : بھونے کی جگہ۔ سینہ۔
 کہا جاتا ہے "فلان ضیق الجس او
 الجسۃ" فلان تنگ دل ہے۔ المجسۃ :
 نبیل۔ کہا جاتا ہے۔ "مجسۃ حارة" اس کی
 نبیل گرم ہے۔ ج جاس
 الجسۃ : بھونے کا آلہ۔ ج مجس و
 مجسات۔
 جسأت (ف) جسنا وجسوة او جساة۔

رنہ۔
 اجزل : العطاء و فی العطاء ومن العطاء
 لفلان وعلیہ بہت دینا۔
 استجزلہ : کسی چیز کو بڑا یا موٹا یا کسی کلام کو
 فصیح پانا۔ استجزل راہہ : کسی کو صاحب الرائے
 پانا۔
 الجزل : ہمہ۔ موٹا۔ بڑا۔ بہت۔ فیاض۔ بہت
 دینے والا۔ عمدہ رائے والا۔ عمدہ الفاظ۔
 الجزل : خشک لکڑی۔
 الجزال والجزال : بھور کے پھل اتارنے
 کا وقت۔ کہا جاتا ہے "هذا زمن الجزال" یہ
 بھور کے پھل اتارنے کا زمانہ ہے۔
 الجزال والجزیل : بہت بڑی۔
 الجزول : کبوتر کا پتہ۔ ج جزوازل۔
 جزمہ (ض) جزما : کاٹنا۔ جزم الحرف :
 ساکن کرنا۔ الفعل : جزم دینا یا حرف علت یا
 تشبیہ وجمع سے نون گرا دینا۔ التیمیج :
 پوری کرنا۔ تم کہتے ہو "حلف یعینا جزما
 — الامر : کسی امر کا قطعی فیصلہ کرنا۔ تم کہتے ہو
 "امرہ امرأ جزما" میں نے اس کو لازمی حکم
 دیا۔ "وہذا حکم جزم" یہ لازمی و قطعی حکم
 ہے۔ جزم الی الامر : بہت ارادہ کرنا۔ جزم
 علیہ الشئ : واجب کرنا۔ الجزل : دن
 رات میں ایک ہی مرتبہ کھانا۔ (—) واجتزم)
 التخلۃ : پھلوں کا اندازہ کرنا۔ (—) وجزم)
 عنه : بڑول ہونا عاجز ہونا۔ — علیہ :
 خاموش ہونا۔ القربة : بھرتا۔
 تجزم العود : بھرتا۔
 الجزم : العظم : ٹوٹنا۔ الحرف :
 ساکن ہونا۔
 الجزم : کہا جاتا ہے "لحم جزم" برابر قند
 والا۔ و "امر جزم" وقت سے پہلے آنے والا
 حطلہ۔
 الجزم : حصہ۔
 الجزم : جزم کا عمل کرنے والا۔ جیسے لہم۔
 صفاۃ جازم : بھری ہوئی ٹھک۔ بھور جازم :
 برباد ہونے ج جزوم۔
 الجزمہ : دن رات میں ایک مرتبہ کھانا۔

تَجَشَّمُ فِي عَيْنِي كَلِّدًا: خيال میں آنا
 الامر: کسی بڑے کام کی طرف اقدام کرنا
 الرمل: ریگستان کے بڑے حصے کو طے کر لینا
 _____ فَلَائِنَا مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: انتخاب کرنا
 _____ الارض: ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "تَجَشَّمُ فَلَائِنَا مِنَ الْكُرْمِ" فلاں پودا فیاض ہے
 گویا کہ وہ کرم کا مجسم ہے۔
 الجِشْمُ: بدن۔ وہ چیز جس میں طول عرض
 متن ہو۔ جِشْمٌ أَوْ جِشَامٌ وَأَجْشَمٌ وَجُشُومٌ۔ نسبت
 کے لیے (جَسْتَوَى وَجَسْمَانِي)
 الجِشْمَانُ: بدن۔
 الجِشْمُ: بڑے بڑے امور۔
 الأَجْشَمُ: بخار اور بیڑا۔
 المُجَشَّمُ: وہ عدد جو کسی جسم کی لمبائی کو
 عرض و متن میں ضرب دینے سے حاصل ہو۔ ہر
 وہ چیز جس میں طول عرض متن ہو۔
 جِشَا (ن) جَشُوا وَجَشُوا: بمعنی جَسَا۔
 جَانَسَاهُمْ جَانَسَاةً: خوشی کرنا۔
 جَشَّةُ (ن) جَشَا: کوٹا۔ توڑنا۔ جَشَّ
 المكان: بھاڑو رہا۔ صاف کرنا۔ _____ ہ
 بالعصا: لاشمی سے مارنا _____ ذمقہ: برانا
 _____ القوم: کوچ کرنا۔ اکھا ہوتا۔
 أَجَشَّ - الشَّيْءُ: کوٹا۔ توڑنا _____ النَّبْرُ:
 مونا پیرنا۔ صفت مفعول (جَشِينِشْ وَ
 مَجَشُونِشْ)
 أَجَشَّ وَاجْتَشَّ - المكان: گنجان گھاس والی
 ہوت۔
 الجِشَّ - ہ - مَوْضِعٌ جَشَّ: سخت چھری
 جگہ۔
 الجِشَّ: بہاڑ۔ جِشَّاشُ۔
 الجِشَّةُ وَالجِشَّةُ: لوگوں کا ایک ساتھ آنے
 والا گروہ۔ بھدی آواز۔
 الأَجَشَّ: بھدی آواز والا آدمی۔ مؤنث
 جَشَاءُ۔
 المِجَشُّ وَالمِجَشَّةُ: بگل۔
 جَشَأَ نَكْسَهُ (ف) جَشُونَا وَجَشَأَ وَجَشَأَ:
 غم یا گہرا غم کی وجہ سے جی تلتانا _____
 المكان: خوب پیداوار ہوت۔ _____ من

المكان: فلانا _____ البحر: جوش میں آنا۔
 جَشَأَ تَجَشَّنَةً وَتَجَشَّنَا تَجَشَّنُوا: ڈکار لینا۔
 اجْتَشَأَ: البلاد و اجْتَشَأَتْهُ البلاد: ناموافق
 ہوت۔
 الجِشَاءُ: ڈکار۔ واحد جَشَأَةٌ وَجَشَاءَةٌ۔
 جَشَبَ (ف) وَ جَشِبَ (س) جَشَبًا وَ
 جَشَبَ (ك) جَشَابَةً: الطعام: موٹا و بد مزہ
 ہوتا۔ صفت (جَشَبْتُ وَ جَشِبْتُ وَ جَشِبْتُ وَ
 مِجْشَابٌ وَ مِجْشُوبٌ) وَ جَشَبَ الرَّجُلُ: بد
 غذا ہونا۔
 المِجْشَبُ: موٹے جسم والا بہادر۔
 جَشَرُ (ن) جَشَرًا وَ جَشَرًا: المواشي:
 چرانے کے لیے لے جانا۔ وَ جَشَرُ الاناء: غلی
 کرنا۔
 جَشَرُ (ن) جَشُرًا: المصباح: پو پھٹنا _____
 الرَّجُلُ: سز کرنا۔
 جَشِرُ (س) جَشَرًا وَ جَشِرًا: کھانا۔ آواز
 پھینکا۔ صفت (أَجَشِرُ) مؤنث جَشِرَاءُ۔ ج
 جَشِرٌ۔
 الجِشَرُ وَالجِشَارُ: مویشی جو چراگاہ سے لوٹ
 کر شام کو گھر نہ آئیں۔ وہ لوگ جو چراگاہ سے
 رات گزاریں اور گھر واپس نہ آئیں۔
 الجِشَارِي: چرواہا۔
 المِجْشَرُ: حوض۔ جِشَارِي: جِشَارِي۔
 الجِشَرِي: بچرے کا تیروان۔
 الجِشَارُ: کھانسی۔
 الجِشَرَةُ: سینہ کی تخی۔ ٹھگ کھانسی۔
 جَشِعَ (س) جَشَعًا وَجَشَعًا: بدترین قسم کا
 لالچی ہونا۔ صفت (جَشِعٌ) جِشَعُونَ
 وَجَشَاعِي وَجَشَاعِي: جَشَاعُ۔
 تَجَشَّاعًا: الماء: باہم ٹھگی کرنا اور بیا سارنا۔
 جِشِمَ (س) جَشَمًا وَجَشَامَةً وَتَجَشَّمُ
 الامر: سخت سے کام کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "جِشِمْتُ اليك عرق القرية" تمہاری وجہ
 سے بڑی مصیبت جمی۔ وَتَجَشَّمُ الرمل:
 ریگستان کے بڑے حصہ کو طے کیا۔ "وَ تَجَشَّمُ
 فَلَائِنًا مِنْ بَيْنِ الْقَوْمِ: اس نے قوم سے فلاں کا
 انتخاب کیا اور اس کی روش پر چلا۔

جَشَمَةٌ وَأَجَشَمَةٌ: امر: کوئی کام کرنے کی
 تکلیف دینا۔ "مهما تَجَشَمْنِي فإني تَجَشِمُ"
 جس کا تو مجھ کو تم سے گامیں کروں گا۔
 الجِشْمُ وَالجِشْمُ: بوجھ۔ ہماری کام۔ کہا
 جاتا ہے "القي عليَّ جِشْمَهُ" اس نے میرے
 اوپر اپنا بوجھ ڈال دیا _____ من البعير: سینہ۔
 الجِشْمُ وَالجِشْمِي: موٹا۔ ہماری۔
 الجِشُونُ: سینہ۔ زرہ۔ جوشن الليل:
 آدمی رات۔
 جَشَّ (ض) جَشَا وَجَشِينَا: سخت بندہ
 جانے کی وجہ سے کہا ہوتا۔
 جَشَصَ: البناء: گچ کرنا _____ الجِرْوُ:
 آگھیس کھولنا _____ العنقودُ: پھوٹا _____
 على العدو: حملہ کرنا۔
 اجْتَشَصَ وَتَجَشَصَ: القوم: قریب قریب
 اکھا ہوتا۔
 الجِشَصُ وَالجِشَصُ: گچ۔ چونہ۔
 الجِشَصُ: گچ والا لالچ پھینچنے والا۔
 الجِشَصَانَةُ: گچ بنانے کا کارخانہ۔
 الجِشَصِيصُ: فریاد و نالہ۔
 الجِشَصِيصَةُ: آواز۔ شور و غما۔ پاس پاس
 رہنے والا گروہ۔
 جَشَّ (ن) جَشَا: عليه بالسيف: حملہ کرنا۔
 جَشَبَهُ (ف) جَشَبًا وَجَشَبَهُ تَجَشَبًا وَ
 جَشَبَهُ جَشَبًا وَجَشَبَهُ: اٹک رہا۔ بھاڑو رہا۔
 جَشَبَ (الجِشَبَةُ) تَرَشَّ بِهَا۔
 تَجَشَبَ وَالجِشَبُ وَتَجَشَبِي: بچھڑ جانا۔
 تَجَشَبِي الجِشَبُ: کثرت کے ساتھ جِشَبُ ہونا۔
 الجِشَبَةُ: تَرَشَّ۔ جِشَبَابُ۔
 الأَجَشَبُ: بڑے بیٹے والا جو کام کرنے میں
 مست ہو۔ مؤنث جَشَبَاءُ۔ جِشَبُ الجِشَبَاءُ:
 ڈیر۔
 الجِشَبَابُ: تَرَشَّ بنانے والا۔
 الجِشَبَانَةُ: تَرَشَّ بنانے کا پیشہ۔
 الجِشَبُونُ: بست قدر شکل۔ جِشَبَابُ۔
 الجِشَبِي وَالجِشَبَانَةُ: حلقہ ڈیر۔
 المِجْشَبُ: ہر ایک کو گچاڑ دینے والا۔
 جَشَوَعَ: البعير: شملہ یا اٹھانے کے لیے

حرکت رہتا۔ بھانا۔ البعیر: بیٹھنا۔
 بالفیریم: سختی سے مطالبہ کرنا۔ فی
 المكان: غیر مطمئن حالت میں بیٹھنا۔
 فجفجع: درو کی وجہ سے زمین پر گر پڑنا۔
 الجفجفة: ہمہ اکٹھے ہونے والے اونٹوں کی
 آواز۔ چکی کی آواز۔ اور اسی سے مثل ہے
 "أسمع جفجفًا ولا أرى طحنا" چکی کی آواز
 سنتا ہوں اور آثار کھائی نہیں رہتا۔ اس شخص کے
 حق میں بولتے ہیں جو دم کی تودے اور کچھ کر کے
 نہ دکھائے یا اس بخیل کے حق میں جو وعدہ تو
 کرے اور پورا نہ کرے۔
 الجفججاج: ننگ اور سخت جگہ۔ معرکہ
 جگہ۔ قط زوہ زمین۔
 جفد (ک) جفادۃ و جفودۃ: الشعیر:
 ٹھنڈا ہونا۔
 جفد الشعیر ٹھنڈا ہونا۔
 تجفد الشعیر: ٹھنڈا ہونا۔ و تجفد
 الشئی: سکڑنا۔
 الجفد من الشعیر: ٹھنڈا ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "هو جفد الید" وہ بخیل ہے۔ و جفد القفا
 جس کے حسب میں کھوت ہو۔ ج جفاد: تراث
 جفد: ننگ مٹی۔ و ج جفد: کم لاحت والا
 گول چرو۔ زفد جفد: تمہ پر تمہ کھن۔ (ابو
 جعدہ و ابو جعدادہ ابو جعدادہ): بھیرنے کی
 کیفیت۔
 جفوز (ف) جفوزا و الجفوز: السبع: پاخانہ
 کرنا۔
 فجفوز: کونٹوں میں گرنے کے خوف سے کر
 میں رستی باندھنا۔
 الجفوز: دروغے کا پاخانہ۔ ج جفوز
 الجفوز: رستی جس کو کونٹوں میں اترنے کے
 وقت کمرے سے باندھ لیں اور اس کا دو سر اکنارہ کسی
 کھونٹے سے تاکہ گرنے سے محفوظ رہیں۔ جانور
 کی رانوں کے داغ۔
 جفوز بروزن قطام و (ابو جفوز و أم جفوز):
 بچو۔
 أبو جفوزان: گھریلا۔
 أم جفوزان: بڑا گدھ۔

الجفوزان: دونوں ران کے وہ حصے جہاں پر
 زہ پلانے میں پہنچتی ہے۔
 الجفوزا و الجفوز: درو۔
 جفوس (ف) جفوسا: الزجل: پاخانہ کرنا۔
 تجفوس: گھن کھانا۔ فوش بکنا۔
 جعظ (س) جعظا: غضبناک و بد خلق ہونا۔
 صفت جفظ و جعظ۔
 جعظہ (ف) جعظا و جعظہ: دفع کرنا۔ ہٹانا۔
 جعظہ (ن) جعظا و جعظہ: بچاڑنا۔
 جعظ و اجعظ: الشجرۃ: بڑے اکیڑنا۔
 اجعظت الشجرۃ: بڑے اکیڑنا۔
 مسبل (ج) جعظ و جعظا: تمام چیزوں کو ہالے
 جانے والا سیلاب۔
 الجعظ: تموڑی روزی جس سے کچھ نہ بچ
 سکے۔
 الجعظو: نالہ۔ ندی۔ بہت دودھ والی اونٹنی۔
 جعظل جعظلہ: زمین سے زمین پر گر اڑنا۔
 جعظ (ف) جعظا: ہٹانا۔ ہٹا کرنا۔ جیسے "جعل
 اللہ الظلمات" رکھنا۔ تبدیل کرنا۔ جیسے "جعل
 الحسن قبیحا" گمان کرنا جیسے "جعل الحق
 باطلا": اس نے حق کو باطل گمان کیا۔ مقرر کرنا
 جیسے "جعلہ حاکمًا" اس نے اسے حاکم مقرر کیا
 "له کذا علی کذا" شرط باندھنا۔ شروع کرنا۔
 جیسے "جعل یکتب" وہ لکھنے لگا۔ اور دینے کے
 معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے "اجعل لئی لسان
 صدیق" مجھ کو نیک نالی دے۔
 جعظ (س) جعظا: الماء: پانی میں کیڑوں کی
 کثرت ہو جانا۔ العلام: موٹائی کے ساتھ
 بہت تھ ہونا۔ الزجل: بھگڑا ہونا۔
 جاعلہ من جاعلہ: رشوت دینا۔
 اجعل: لہ: مزدوری مقرر کرنا۔ الماء:
 پانی میں کیڑوں کی کثرت ہونا۔ اجعلہ
 جعظا: مزدوری دینا۔
 تجاعظوا: الشئی: آپس میں کر لینا۔
 اجعظلہ: گھڑنا۔ الشئی: ہٹانا۔ لیتا۔ تم کہتے
 ہو "جعلہ الشئیفا جعظلہ" اس نے اس کو ایک
 چیز دی اور اس نے لے لی۔
 الجعظ: گھریلا کی ایک قسم۔ ج جعظان۔

الجعظ: سیاہ قام بد صورت مرد۔ یا بھگڑا لو۔
 تمہاں۔ ماء (جعظ و جعظل) وہ پانی جس میں
 کیڑے بہت ہوں۔
 الجعظال: ج جعظ و (الجعظل) ج جعظال و
 (الجعظالۃ) بتالیث الجیم و (الجعظیلۃ) ج
 جعظال: اُبرت۔ مزدوری۔ جنگ کرنے والے
 کا وظیفہ۔
 الجعظال: چولے سے دیگ اتارنے کا پتھرا۔
 صافی۔
 الجعظول: شتر مرغ کا بچہ۔
 جعظہ (ف) جعظا: جانور کے منہ پر تھو تھنی
 چڑھانا۔
 جعظ و جعیم (س) ف جعظا: کھانے کی
 خواہش نہ ہونا۔ کھانے کی خواہش کرنا۔ کہا جاتا
 ہے "جعیم الی اللحم" وہ گوشت کھانے کا
 بہت خواہش مند ہے۔ جعظ و تجعظ: فی
 الشئی: طع کرنا۔ صفت (جعظ و جعیم)
 اجعظ: الشجرۃ: درخت کے سارے پتے چر
 لینا۔ الشئی: بڑے اکیڑنا۔
 الجعظ: بھوک۔
 الجعظیم: بھوکا جو ہر چیز کو دیکھ کر کھانے کی
 خواہش کرے۔
 الجعظیم: جائے پناہ۔
 الجعظوس: گوبر۔
 جعظا (ن) جعظا: البعور و نحوہ: ڈھیر لگانا۔
 الجعظ: جو کی شراب۔
 الجعظو: ہاتھوں سے جمع کیا ہوا ڈھیر۔ بچہ۔
 چوڑا۔
 الجعظیۃ: جغرافیہ۔
 جف (ض) جفافا و جفوفًا: خشک ہونا
 صفت (جافی و جفیف) کہا جاتا ہے۔ "جف
 لیدہ" یعنی اس نے اقامت اختیار کر لی اور سفر
 کرنا چھوڑ دیا۔
 جنف (ن) جنفا: المال: جمع کر کے لے کے
 چل دینا۔
 جنفہ تجنفوا و تجنفا: خشک کرنا۔ جنف
 الفرس: پاکر پھینا۔
 تجنف: خشک ہونا۔

مرغ جو ہر چیز سے بد کے ہاتھی کی لید۔ کشنی ج جفول۔

الجفلة۔ من الشجر: بہت پتوں والا درخت۔

الجفلة: اُون کا کلا۔

الجفان: دودھ کی جھاگ۔ بہت اُون۔ سیلاب کا خس و خاشاک۔

الجفالة۔ من القدر: ہاتھی کی جھاگ۔

الجفالة: لوگوں کی جماعت۔ سیلاب کا خس و خاشاک۔

ريح (جفول) ج جفول و مضخف و مضخفان و مبخفالة: تیز ہوا جو بالوں کو اڑالے جائے۔

الجفلی: دعوت غامہ۔ کہا جاتا ہے ”ذعی فلان فی التقویٰ لافی الجفلی“: وہ دعوت خصوصی میں پایا گیا نہ دعوت عمومی میں۔

الجفیل: بہت۔ زراعت کا اتر بواہا ہوا حصہ جو کاٹ دیا جائے۔

الاجفلة: جماعت۔ کہا جاتا ہے ”جناؤا اجفلة“

الاجفیل: بزدل۔

الجفلی: بہت موٹی بڑھی۔

جفن (ن) جفنا۔ الناقہ: ذبح کر کے بڑے پیالوں میں کھانا۔ _____ نفسہ: بڑائیوں سے روکنا) _____ و تجفن (الکرم: جز پکڑنا۔

جفن: بڑے پیالوں میں کھانا _____ و اجفن: بہت جماع کرنا۔

الجفن۔ مہ۔ اُوپر نیچے کا پوند۔ نیام۔ ج اجفان و جفون و اجفن۔ الجفن: انگوڑی کی جڑیا ٹہنیاں۔ واحد جفنة۔

الجفنة: بڑا پالہ۔ وہ برتن جس میں شراب بنائی جائے۔ چھوٹا کنواں ج جفن و جفان و جفئات۔

جفا یجفون جفان و جفانہ: ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا _____ علیہ کذا: گراں ہونا _____

الثوب: موٹا ہونا۔ جنبہ عن الفراض: قرار نہ پانا۔

جفا (ن) جفوا و جفان و جفا۔ صاحبہ: امراض کرنا۔ بد سلوکی سے پیش آنا۔

الشئی: کشادہ ہونا۔ جعفر من المرض: صحت یاب ہونا۔ جعفر ماکان فیہ: چھوڑنا۔ جعفر صابحة: قطع تعلق کرنا۔

الجعفر۔ مہ: کشادہ کنواں۔ ج جفان۔ کہا جاتا ہے ”فلان منہذم الجعفر“ فلاں بے عقل ہے ”و فعلت ذلك من جفروا جعفر کذا“ میں نے اس کو اس کی وجہ سے کیا۔ علم الجعفر: علم جفر ایک علم ہے جس میں اسرارِ حروف سے بحث کی جاتی ہے۔

الجفرة۔ من الشئی: وسط۔ درمیان۔ _____ من الارض: گول کشادہ زمین۔

الجفیر: کڑی کا ترکش جس میں چڑانہ ہو یا چڑے کا خس میں کڑی نہ ہو۔

الجفوی: شگوفہ خرا کا غلاف۔

المجفوة: بے تعلق کاسب۔

جفیس (س) جفسا و جفاسا: بد معنی ہونا۔ الجفیس و الجفیس و الجفیس: کمزور۔

لہم: کینہ۔

جفظ (ن) جفظا۔ الاءاء: بھرا۔

اجفانک و اجفانک اجفناظا۔ المقتول: پھول جانا۔ صفت (جفینظ)

المجفینظ: قریب بہ ہلاکت۔

جفعہ (ف) جفعنا: بچھاڑنا۔

جفل (ن) جفلا۔ الطائر: بھگانا۔ کہا جاتا ہے۔ جفل القناض الوحش عن مراعیها“ شکاری نے وحشی جانوروں کو ان کی چراگاہوں سے بھگانا

_____ البخر السمک: کنارہ پر ڈال دینا _____ الریح السحاب: اڑالے جانا _____ ہ: بچھاڑ دینا _____ الطین: نیچے سے کھرچ لینا _____

المتاع: بعض کو بعض پر رکھنا _____ الفیل: لید کرنا۔

جفل (ن) جفول و جفلا و اجفل _____ البعیر بدنا“ بھگانا“ صفت جافل و جفال _____ النعامہ بھگانا _____ الریح: تیز چلنا۔

_____ و انجفل و تجفل القوم: تیز بھگانا۔ جفلة: بد کاٹا۔ بھگانا۔

تجفل الیدیک: کفنی کو پھڑکانا۔ الجفل۔ مہ: بالوں جو پانی برسا کر کھل جائے۔ شتر

اجفنت۔ ماہی الاءاء: برتن کا سب کچھ کھا جانا۔

الجف و الجفنة و الجفف و الجففة: لوگوں کی جماعت۔ بڑی تعداد۔ کہا جاتا ہے ”جاء القوم جففة“ ساری قوم آئی۔ الجفف: کھوکھلی نالی والی چیز۔ بوڑھا۔ کہا جاتا ہے ”هو جفف مال“ وہ مال کا منتظم ہے۔ الجففة: بڑا ڈول۔

الجفف: سخت و خشک زمین۔ الجففیف: خشک گھاس۔

الجفاف: سوکھی ہوئی چیز۔ الجفاف و التجفاف: برگستون۔ پاکیزہ۔

جفا (ف) جفا۔ التھز: جھاگ پھینکنا _____ القدر: اُبلنا _____ القدر: اُٹھیل دینا۔ جفا الرجل و جفا بہ الارض: چلک دینا۔

اجفا۔ بہ: چلک دینا۔ بچھاڑ دینا _____ الناقا: چلا کر تھکا دینا _____ الباب: بند کر دینا۔

اجفاف و تجفات۔ البلاؤ:۔۔ _____ بے برکت ہونا۔

اجفنا۔ الشئی: اکھیر کر پھینکنا۔

الجفان: سیلاب کی خس و خاشاک۔ بیکار۔ بے فائدہ۔ کہا جاتا ہے۔ ”ذهب جفانہ“ رائیگاں گیا۔

ججف۔ الابل: تیزی سے ہانکنا۔ ایک دوسرے کے اُوپر چڑھنے لگیں۔

تجفجف۔ الطائر: اُڑے بیٹا۔ _____ الثوب: خشک ہونا اور کچھ نمی باقی رہ جانا۔

الجففجف: بلند زمین۔ پست زمین۔ بہت بیورہ کئے والا۔

الجففجفة: نئے کپڑے کی آواز۔ جففجفة الموكب: سواروں یا پیادوں کے طے کی آواز۔

الجفاجف: ہیبت۔ لباس۔ جففج (ف) جففخا: تکبر کرنا۔ فخر کرنا۔

صفت (جفناخ) جاففخہ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

جفر (ن) جفروا و تجفروا و استجفروا۔ ولد الشاة: بڑا ہونا اور بڑے پیٹ والا ہونا۔ _____

تجالی عن مکانہ قرار نہ پاتا۔

جفأہ بد اخلاق بتاویہ۔

تجالی الرجل بد سلوکی سے پیش آتا۔ دور رکھا۔

أجلی العیول سخت محنت لینا اور کمانے نہ دینا۔ فلاناً نہ دور کرنا۔

تجالی علیہہ ہوا۔ الگ ہونا۔ کہا جاتا ہے "تجالی الشرح عن ظہور الفرس" زمین گھوڑے کی پیٹھ سے ہٹ گئی۔ "و تجالی جثتہ عن الفرائض" اس کا پہلو چھوڑنے سے دور رہا۔

اجتفی الشئ جبکہ سے ہٹانا۔ دور کرنا۔

استجفی استجفأہ الشئ بد سلوک کہنا۔ دوری چاہنا۔

الجفوة الجفوة اذہین بد سلوکی۔

العجالی موتا۔ تجالی الخلق اذہ بد اخلاق ج جفأہ مؤنث جافیہ۔ ج جافیات و

جوابی

جفی (ض) جفینا الرجل پچھاڑنا۔ (ج) واجتفی النبات جز سے اکھڑنا۔

جق (ن) جقأ الطائر بیٹ کرنا۔

الحقۃ یرومیا او تخی۔

جکرو (س) جکرو او جکرو بیچنے میں اصرار کرنا۔

الجکرة حاجت۔

الجکرة جکرة بوعے پر لوہا گرے کی جھٹکار۔

جل (ض) جلالاً و جلالة بوعے مرتبہ والا ہوا۔ تم کہتے ہو "جل فلان فی عینی" فلاں میری نظر میں عظیم المرتبہ ہو گیا۔ تم میں بڑا ہونا۔

عمر میں بڑا ہونا۔ صفت (جلیل) ج اجلاء۔

و اجلأ و جلأ و جل و جل و جلأ و جلأ و جل و جل و تجأل عن کذا اپنے کو بلا دہر کرنا۔ تجأل علیہ بڑا بنا۔ (جل جلا و

جتل۔

الفرس جمول ڈالنا۔

جل (ن ض) جلتو لا و جلا اپنے وطن سے دوسرے شہر کو چلا جانا۔ صفت (جأل) ج جالہ۔

جل (ن ض) جلا و جملہ و اجتل البقر بیچنی پھنا۔ الشئ بوعے حصہ کو لینا۔

جلل الشئ عام ہونا۔ الشئ ڈھانپ لینا۔ اور اس سے ہے "جلل المظنن الارض" بارش نے زمین کو ڈھانپ لیا۔ الرجل تعظیم کرنا۔

اجلأ اجلالاً تعظیم کرنا۔ عن العیب پاک کرنا۔ الرجل قوی ہونا۔ کمزور ہونا۔

عقر و زندا بست دینا۔ کہا جاتا ہے "المت فلا فلانما اجلینی و ما اذقینی" میں فلاں کے پاس آیا تو اس نے مجھے زیادہ دیا نہ تھوڑا۔

تجلل بڑا ہونا۔ بالفوب اوزرنا۔

تجللہ عتاب ہونا۔

الجللہ جم جلیل سفید۔ سرخ۔ زرد۔ گلاب کا پھول۔ واحد جللہ۔ یولان۔ ج۔ جلول۔

الجل و الجلل جمول۔ ج جلال و اجلال۔

جل الشئ چیز کا بڑا حصہ۔ جل الیبت وہ جگہ جہاں خمیر نصب کیا جائے۔ والجلل موتا۔

بھاری۔ کہا جاتا ہے "فعلہ من جلتک" اس نے اس کو تیری وجہ سے کیا۔

الجلل بست۔ کہا جاتا ہے "مالہ یوق ولا جلل" اس کے پاس نہ کم ہے نہ بہت۔

المناع فرش چھوڑا۔ چادر وغیرہ۔ رجل جلل مرد بزرگ۔

امزوجلل بڑا معاملہ۔ آسان معاملہ۔ کہا جاتا ہے "فعلنہ من جلیلک و من اجلالک و من تجلیک" میں نے تماری وجہ یا تمہاری تعظیم کی وجہ سے یہ کیا۔

الجللہ بتطیبت الجیم بیچنی۔ اور کہا جاتا ہے "قوم جللہ" بوعے لوگ۔ یہ جلیل کی جمع ہے۔

الجللہ بڑا اور کرا۔ ج جلال و جتل۔

العجالہ وہ لوگ جو اپنے وطن سے چلے گئے ہوں۔

الجلی الاجل کا مؤنث۔ بڑا معاملہ۔ امر عظیم

الشان۔ ج جتل۔

التجللہ علمت دہر کرنا۔

المجللہ برسالہ کاپی۔

الجلالۃ پلیدی کمانے والی گائے۔

المجلیل قہ صاحب فصیحیل۔ عام بارش والا بادل۔ امر مجلیل۔ عام معاملہ۔

جلاہ (ف) جلا و جلا و جلاۃ پچھاڑنا۔ پک رہنا۔ جلاۃ بالفوب بیچنا۔

جلبہ (ن ض) جلیبا و جلیبا پاک کرنا۔ الرجل جانا۔ الجرح اچھا ہونا۔ (ج) واجلبت القوم جمع کرنا۔ جلبہ و اجلبہ دھکانا۔ جلب و اجلب لاہلہ۔ کانا۔ جلب و اجلب علی الفرس چلا کر آگے بڑھنے پر آسانا۔ جلب و اجلب الدم خشک ہونا۔

جلب و اجلب القوم شور و غوغا کرنا۔

جلب (س) جلیبا پاک ہونا۔

جلب (ن) جلیبا علیہ کلمہ کرنا۔

جلب القوم جینا چلانا۔ علی الفرس ڈانٹنا۔ واجلب القوم ہر طرف سے جگ کے لیے اکٹھا ہونا۔

اجلب جانا۔

اجلبہ لانا۔

استجلبہ کسی چیز کو حاصل کرنا۔ یا سبب بن جانا۔

الجلب مہ گنہ۔ جرم۔

الجلب مہ مال جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے جائیں۔ ج اجلاب (ج) واجلبہ شور و غوغا۔

الجلب بے پانی کا بادل۔ بادل جو پہاڑ کی طرح دکھائی دے۔ رات کی تاریکی۔ جلب الرجل و جلبلہ کباہ کی کڑیاں۔

الجلبۃ کھریڑ۔ پھر جو بے بہتہ ہوں جس میں جانوروں کے لیے راستہ باقی نہ رہے۔ گھاس کے متفرق ٹکڑے۔ سزکانے دار درخت۔ بادل کا ٹکڑا۔

چراغ پالان پر لگایا جائے۔ جلبۃ الشتاء سردی کی شدت۔ ج جلبل۔

الجلیب لایا ہوا۔ کھینچا ہوا۔ کہا جاتا ہے۔

"عجذب جلیبت" زر خرید نظام۔ ج "جلیبی و جلیبۃ و امراة جلیب و جلیبۃ" کہیں سے لائی ہوئی عورت۔ ج جلیبی و جلاب۔

الجلبۃ اونٹ جس پر سنان کو لاداجائے۔

الجلاب غلاموں کو تجارت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے والا۔

الجلاب و الجلاب گلاب اور شکر یا شکر کا

<p>ہ علی الامر: مجبور کرنا۔ بالارض: بچھاڑنا۔ جلدت الحية: بونا۔</p> <p>جَلَدٌ (ک) جَلَدًا و جَلَادَةٌ و جَلُودَةٌ و مَجْلُودًا: مجبوراً استقلال و قوت دکھانا۔</p> <p>جَلَدٌ (س) جَلَدًا و جَلَدًا و أُجِلِدَ: المكان: پلاڑیا۔ صفت مشغول (مَجْلُود)</p> <p>جَلَدٌ: الكتاب: جلد یا حصہ۔ العجزور: کمال آتارنا۔</p> <p>جَلَادَةٌ بالسيف: تلوار سے مارنا۔</p> <p>أَجَلَدُهُ اليه: تھم جانا۔ مجبور کرنا۔</p> <p>تَجَلَدٌ: مجبوراً استقلال ظاہر کرنا۔</p> <p>تَجَلَدُوا و اجْتَلَدُوا: بالسيف: تلوار سے مارنا۔ اجْتَلَدُوا الاناء: سارابی جانا۔</p> <p>الجَلْدُ: م۔ مضبوط۔ قوی۔ ج۔ اجلا۔ موت جَلْدَةٌ و آجَلَادُ الانسان و (تجالده) جسم و اعضاء تم کہتے ہو "ما اشد اجلا فلان با جلا دايه" فالان کے اعضاء اس کے باپ کے اعضاء سے کس قدر مشابہ ہیں۔</p> <p>الجَلْدُ: م۔ آسان یا ٹیلا گنبد۔ کھل (کھل) و الجَلْدَةُ: سخت زمین۔</p> <p>الجَلْدُ کمال۔ ج۔ آجلا و جُلُود و (الجَلْدَةُ) کھل کا ٹکڑا یا کھل کی قسم۔ ج۔ جَلْدٌ۔ کہا جاتا ہے "ہم من جلدتنا" وہ لوگ اپنے ہی مشابہ ہیں۔</p> <p>الجَلِيدُ: قوت والا۔ صابر۔ چالاک۔ ج۔ جَلْدًا و جَلَادًا و جَلْدُ الجَلِيدِ: پالا۔</p> <p>الجَلاد: بڑے سخت مجبور کے درخت۔ بہت دودھ والی اونٹیاں۔</p> <p>الجَلَادُ: کوڑے سے مارنے والا۔ تلوار سے مارنے والا۔ سزا دینے والا۔ کھل بچنے والا۔</p> <p>المجَلد و المَجْلَد: چمڑے کا ٹکڑا جس کو نوچ کرے والی عورت اپنے منہ پر مارا کرتی ہے۔</p> <p>کوڑا۔ ج۔ تَجَلَدُوا و تَجَلَدُوا: المَجْلَدَةُ: کوڑا۔</p> <p>عَظْمٌ (مَجْلَدٌ) صرف کھل لگی ہڈی۔ فوس مجلد: کوڑا مارنے سے نہ چوکنے والا گھوڑا۔</p> <p>اجْلُودٌ اجْلُودًا: تیز جانا۔ اللَّيْلُ: لمبی ہونا یا ختم ہونا۔ بہم السيو: تیزی کے</p>	<p>جَلْعٌ و اجْلَاحٌ و جَلْحَانٌ مَوْتٌ جَلْحَاءُ النور: بے سبک والا ہونا۔ الارض: زمین کی گھاس کا پھیر لیا جانا۔</p> <p>القزى: خفاقی قلعوں کا پانی نہ رہنا۔</p> <p>جَلِحت۔ الشجرة: اوپر سے کھایا جانا۔</p> <p>الارض: گھاس کا پھیر جانا۔</p> <p>جَلْعٌ على الشئ: سخت پیش قدمی کرنا۔</p> <p>فی الامر: بخت ارادہ کرنا۔ المسبع على القوم: حملہ کرنا۔ جَلْحَتِ الماشية الشجر: اوپر سے چرنا۔</p> <p>جَالِحَةٌ: کھلم کھلا دشمنی کرنا۔ جالِح بالسنى: کھلم کھلا کرنا۔</p> <p>الجَلْحَةُ: سر کے دونوں جانب بال گرنے کی جگہ۔</p> <p>الجَلْح: سخت سیلاب۔</p> <p>أَرْضٌ (جَلْحَاء) بغیر درخت والی زمین۔ بقرة جَلْحَاء: بے سبک والی گائے۔ قویۃ جَلْحَاء: بے قلمہ والی آبادی۔ سُطوح جَلْحَاء: بغیر درہ کی دیوار والی چھتیں۔</p> <p>صَنَةٌ (جَالِحَةٌ) خشک سال۔ ج۔ جَوَالِح۔ الجَوَالِح: وہ چیز جو بائس کے اندر سے روٹی کی مانند نکل کر اڑتی ہے۔ برف کے ٹکڑے جو ایک دوسرے پر گرے۔</p> <p>المُجَالِح: نا۔ شیر۔ و المَجْلَاح و المَجْلَحَةُ: جاڑے میں دودھ دینے والی اونٹنی۔ ج۔ المَجَالِح: قحط جس میں مویشی وغیرہ بڑا ہوا جائیں۔</p> <p>المُجَالِح: بہت کھانے والا۔</p> <p>جَلْعٌ (ف) جَلْحًا۔ السيل الوادى: مجبورنا۔</p> <p>دونوں طرف کے کناروں کو کاٹ دینا۔</p> <p>الشئ: کھینچنا۔ دراز کرنا۔ پہ: بچھاڑنا۔</p> <p>جَلْحَهُ بالسيف: گوشت میں سے کچھ کاٹ لینا۔</p> <p>و جَلْعٌ الموشى: تیز کرنا۔ میٹھل کرنا۔ (مولد)۔</p> <p>اجْلَعُ الشبيخ: کمزور ہونا اور اعضاء کا ڈھیلنا پڑ جانا۔</p> <p>الجَلَاخ: بڑا سیلاب۔ گرمی وادی۔</p> <p>جَلْدَهُ (ض) جَلْدًا بالسياط: کوڑے مارنا</p>	<p>بہاوشربت۔ گلاب کا مرق۔</p> <p>الجَلْحَان: مڑ۔ چمڑے کا تھیلہ۔ اور کہا جاتا ہے "رجل جَلْحَان و جَلْحَان" شور مچانے والا مرد۔</p> <p>الجَلْبَاب و المَجْلَب: بد خلق بیسودہ گو۔ شور مچانے والا۔</p> <p>المَجْلَبَةُ: کسی چیز کے حاصل کرنے کا سبب۔ باعث۔</p> <p>جَلْبَبَةٌ: چادریا قمیص پٹنا۔</p> <p>تَجْلَبَبٌ: چادریا قمیص پٹنا۔</p> <p>الجَلْبَاب و الجَلْبَبَات: چادریا قمیص۔ ج۔ جَلَابِب۔</p> <p>جَلْدَهُ (ض) جَلْحًا و اجْتَلْدَهُ: مارنا۔</p> <p>جَلْعُل۔ الزجلُ: زور سے بولنا۔</p> <p>السحاب: گرنا۔ جَلْعُلُهُ: حرکت دینا۔</p> <p>جَلْعُلُ الوتر: مضبوط ہونا۔ البعير: جھانچہ لگانا۔</p> <p>تَجَلَجَلت۔ فواعذ البيت: بل جانا۔</p> <p>تَجَلَجَل في الارض: گھسنا۔ الامزفي نفسہ بول میں کسی خیال کا آنا۔</p> <p>الجَلَجَل: گھوم گھرو۔ واحد (جَلَجَل) جَلَجَل النفس: وہ خیالات جو دل میں آئیں۔ تم کہتے ہو "بئسئنه جَلَجَل نفسي" میں نے اس سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔</p> <p>الجَلَجَل و الجَلَجَل: پھرتلا۔ چابک دست۔</p> <p>الجَلَجَلَةُ: م۔ بادل کی گرج۔ کھنٹی کی آواز۔</p> <p>الجَلَجَلَان: دھینے کے دانے۔ تل کا دانہ۔</p> <p>جَلْحَان الشئ: بڑی چیز۔ جَلْحَان القلب: سویرا قلب کہتے ہیں۔ "مخرج من جَلْحَان القلب الي قمع الاذن" یعنی دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔</p> <p>المَجْلَجَل: بڑا سردار یا وہ شخص جس کی آواز دور تک جائے۔ گرجنے والا بادل۔ بے عیب طرف۔ و عددٌ مُجَلَجَل: بڑی تعداد۔</p> <p>جَلْحَتِ (ف) جَلْحًا۔ الماشية الشجر: اوپر سے کھنے کو چر جانا۔</p> <p>جَلْحِ (س) جَلْحًا: سر کے دونوں جانب سے گرنے والے بالوں والا ہونا۔ صفت (أَجْلَح) ج۔</p>
---	--	---

<p>جَلْفٌ - الويل امو الهمم - تباہ کرتا۔ تَجَلَّفَ: لاغر و کمزور ہوتا۔ اجْتَلَفَ: بڑے سے اگھیرنا۔ ہاں الدہر: تباہ کرتا۔</p>	<p>الجلسة: بیٹھنے والے۔ المجلس: بیٹھنے کی جگہ۔ بیٹھنے والے لوگ پکری۔ المجلسة: بیٹھنے کی جگہ۔</p>	<p>ساتھ چلنا۔ المطر: زمانہ بارش کے اختتام کے بعد تک برساتارہا۔ الجلد: چھپوئدر۔ ج مناجد۔ من غیر لفظہا۔</p>
<p>الجلف: اکڑ اور اجڈ۔ یوقف۔ خالی مٹکا۔ برتن۔ بغیر سر کے دھڑ۔ روٹی کا کنارہ۔ ج اجلاف و جلفوف۔</p>	<p>جَلَفَ (ض) جَلْفًا: قسم کھانا اور جھوٹ بولنا۔ الراس: موڈنا۔ السيف: سونتا۔ الجلد: کھال آتارنا۔ سلحہ: بیٹھ کرتا۔</p>	<p>الجلدئ والجلادئ: گرجا کا خادم۔ راہب۔ کارنگر۔ ج جلاذئ۔ الجلذئ و العجلوذ: قوی موٹا اونٹ۔</p>
<p>الجلیف: کھرا ہوا۔ اکڑ اور اجڈ۔ ظالم۔ مؤنث جلیفہ: کہا جاتا ہے "أصابنہم جلیفہ عظیمہ" ان کو سخت قحط سالی لائن ہوئی جس نے ان کے مال کو تباہ کر دیا۔ ج جلاذئف و جلف و جلف و الجلاذئف: طغیانیاں۔</p>	<p>إجتلط: البعیر: تیز چلنا۔ الشئ: پرانا ہونا۔ گھس ہونا۔ جالتظہ: باہم کرکرتا۔ اجتلظہ: ایک لیتا۔ ماہی الاناء: سب پی جاتا۔</p>	<p>جلز (ض) جلزًا: الراس: پٹی باندھنا۔ الشئ الی الشئ: ملنا () و جلز و جلز السکین: دست باندھنا۔ و جلز الزجل: تیز جانا۔</p>
<p>الجلیفہ: چڑے وغیرہ کا تراش۔ الجلیفہ: خشک روٹی کا کٹورا۔ ج جلف۔ الجلیفہ و الجلیفہ: من القلم: زبان قلم۔ الجلاف: گارا۔ بکچر۔ الجلائی: بڑا ڈول۔</p>	<p>الجلطہ: خون رستی یا دبی کی تھوڑی مقدار۔ امراة جلولط: بے حیا عورت۔ جلع (س) جلعًا: لیوں کے نہ نلنے کی وجہ سے کھلے ہوئے دانتوں والا ہونا۔ صفت 'جلع و آجلع' مؤنث جلعة جلعًا۔</p>	<p>تجلز الامر: آمادہ ہونا۔ مستعد ہونا۔ جلوز: بین یدی الامیر: امیر کے سامنے آنے جانے میں چستی دکھانا۔ جلز السنان: ہمالے کے نیچے کا گول حلقہ۔ الجلاز: کوڑے کے کنارے پر بندھا ہوا قسم۔ ج جلازیز۔</p>
<p>المجلیف: وہ شخص جس کا مال قحط سالی میں تباہ ہوا ہو۔ وہ چیز جس کا کچھ حصہ باقی ہو۔ جلفظ و جلفظ: السفینة: کشتی کے درز بند کرنا۔ عوام قلفظ: استعمال کرتے ہیں۔ الجلفاط و الجلفاط: کشتی کے درز بند کرنے والا۔</p>	<p>جلعت (ف) جلوعًا: المرأة: بے حیا ہونا۔ صفت (جالیع و جالیعة) جالیع القوم: بھڑکا کرنا۔ قش باتیں کرنا۔ إنجلع الشئ: کھانا۔ الجالیع: کھلے ہوئے چہرے والی عورت بے حیا۔</p>	<p>الجلوزة: آمدورفت میں چستی۔ الجلوز: سپاہی۔ بادشاہ کے سامنے تیز تیز چلنے والا۔ ج جلاوزة۔ الجلوز: بڑے جسم والا بار۔ چلوڑہ۔ الجلوز: مضبوط۔ کہا جاتا ہے "فلان مجلوز العمل" فلاں کام میں مشاق ہے۔</p>
<p>جلق (ض) جلقًا: الراس: موڈنا۔ القوم بالمنجنيق: آکر سب اندازے دشمن پر حملہ کرنا۔ تجلق: بیٹھنے میں دانت نکالنا۔ الجلافة: گوشت کا کٹورا۔ کہا جاتا ہے "رجل جلافة" دبا مر۔</p>	<p>الجلعة: بیٹھنے کے وقت دانت کھلنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "فلان لطیف الجلعة" الجلعم: بے حیا۔ إجلعت و اجلعت: بستر دراز ہو جانا۔ الجلعد: تخت و مضبوط۔ الجلاعد: من الابل: مضبوط اونٹ۔ ج جلاعد۔</p>	<p>جلس (ض) جلوسًا و مجلسًا: بیٹھنا۔ صفت جالس ج لوس و جلوس۔ جالسة و جالسة: ساتھ بیٹھنا۔ جالسة و آجالسة: ٹھانا۔ تجالسوا: فی المحاکم: عدالتوں میں بیٹھنا اور بحث کرنا۔</p>
<p>العبوالق و العبوالق: اڈن یا بادل کی کون۔ ج عبوالق (مغرب) جلیق و جلیق: دمشق یا اس کے حوالی کے مرغزار۔</p>	<p>جلغہ (ف) جلغًا: بالسيف: کلے کرنا۔ جالیع: کھوار سے مقابلہ کرنا۔ جلغہ (ن) جلغًا: کھرتا۔ کہا جاتا ہے "جلف الطین عن الحجر" اس نے مٹی کو پتھر سے کھج دیا۔ الظفر: بڑے اگھیرنا۔ ہاں بالسيف: گوشت میں سے کھارک لیتا۔ ہاں الدہر: تباہ کر دیتا۔</p>	<p>إمتجلسہ: بیٹھنے کو کہنا۔ الجلسة: الجلسوں کا اسم مرہ۔ ایک بیٹھ۔ الجلسة: بیٹھنے والے کی بیٹ۔ الجلس: بڑی اور سخت چٹان۔ بلند زمین جمل جلس: مضبوط اونٹ۔ نااقہ جلس: مضبوط اونٹنی۔ شہد جلس: گاڑھا شہد۔</p>
<p>الجلکی و الجلکی: ایک قسم کی پھلی مار ماہی کے مشابہ۔ جلمہ (ض) جلمًا و اجتملمہ: کانا۔ الصوف: کترنا۔ الجوز: ہڈیوں پر سے گوشت آتارنا۔</p>	<p>جلف (س) جلفًا و جلافة: اڈب ہونا۔</p>	<p>الجلساء و الجلوس: (الجلس والجلیس) ہم نشین۔</p>

الجَلَمُ والجَلَمَانُ: اُون کترنے کی قبچی
جَلَمَانُ پر تشبیہ اور مفرد دونوں کا اعراب آتا
ہے۔ جیسے شَرِيْطُ الجَلَمِيْنَ وشریت
الجَلَمَانُ۔
الجَلَمُ: بکرا۔ بکری کا پتہ۔ ج جَلَام۔ الجَلَمُ:
ایک قسم کا شکاری پرندہ۔
الجَلَمَةُ والجَلَمَةُ والجَلَمَةُ: سب پوری
چیز۔ تم کہتے ہو ”اخذت الشئ بجلمته“ میں
نے پوری چیز لی۔ ”وبذہ جَلَمَةُ الجوزور“
یہ ذبح کیے ہوئے جانور کا سارا گوشت ہے۔
الجَلَمَةُ: کتری ہوتی اُون۔
الجَلَمُ: چودھویں رات کا چاند۔
الجَلَمُدُ: ج جَلَاوِد و (الجَلَمُوْد) ج۔
حلامید: پتھر چٹان۔ رجل جَلَمُدُ: قوی
مضبوط مرد۔ ارض جَلَمُدَةُ: پتھر ٹلی زمین
”رضح اوبص جَلَمُدُه“ اس شخص کے حق
میں بولتے ہیں جو بکل میں مشہور ہو اور کچھ دے
بھاگے۔ الجَلَمُدُو الجَلَمُوْد: اونٹوں کا بڑا گلہ۔
جَلَمَقُ القوس: مکان پر تانت چڑھانا۔
الجَلَمَاقُ: پمچا جس سے تانت بنائی جاتی
ہے۔
الجَلَمَقُ: قباغ جَلَامِق۔
الجَلَمَاقُ: گل اتار۔
الجَلَمَجِيْنُ: گل قد۔
جَلَه (ف) جَلَهَا الشئُ: ظاہر کرنا۔ دُور کرنا
_____ المرءُ: باز رکھنا _____ العمامة: پیشانی
سے بلند کرنا۔
جَلَه (س) جَلَهَا: سر کے اگلے حصہ کے بال کا
اڑجانا۔ صفت (أَجَلَه)۔
الجَلَهَةُ: من الوادی: وادی کا کنارہ۔ وادی
کے سامنے والی جہت۔ ج جَلَاه۔
بيت (مَجَلُوْه) بغیر دروازہ اور پردہ کے مکان۔
الجَلَاهِقُ: قَلَه۔ گولی۔ اور بقول بعض غلیل
(فارسیہ)
الجَلَهْمُ: بڑا چوہا۔
الجَلَهْمُوْمُ: بڑی جماعت۔
جَلَأ (ن) جَلَاءُ: ظاہر ہونا۔ واضح ہونا
_____ عن بلدہ و منہ: لکنا _____ الشئُ: بلند ہونا۔

جَلَأ (ن) جَلُوْا و جَلَاءُ۔ الامرُ: واضح کرنا۔
ظاہر کرنا۔ الرجلُ عن بلدہ: جلا وطن کرنا
_____ النحلُ: شہد نکالنے کے لیے دھواں کرنا
_____ عنہ الہَمُّ: زائل کرنا۔ دُور کرنا _____ السیفُ:
صیقل کرنا _____ البصرُ بالکحل: روشن کرنا۔
(جَلُوْة بِثَلِث الجیم و جَلَاءُ و اجْتَلَى)
العروسُ علی زوجها: بناؤ سنگار کر کے پیش
کرنا۔
جَلَأ (ن) و جَلَى۔ الزوجُ عروسہ ہدیہ:
شب زفاف میں ہدیہ دینا۔
جَلَى (س) جَلَى: سر کے اگلے حصہ کے بالوں
کا اڑجانا۔ صفت (أَجَلَى) مَوْنُثُ جَلُوْا۔ جیبہ۔
جَلُوْا: کشادہ پیشانی۔
جَلَى۔ فلاناً و عن فلان الامرُ: کسی کی
صیبت کو دُور کرنا۔ جَلَى بنظرہ: نظر ڈالنا۔ کہا
جاتا ہے۔ ”جلی التباؤی“ بازے سر اٹھا کر شکار کو
دیکھا _____ عن ضمیرہ: ہائی الضمیر ظاہر کرنا۔
جَلَى۔ فلاناً ہامر: دوسرے کے سامنے ظاہر
کرنا۔ کلم کھلا کرنا۔
أَجَلَى عن بلدہ: لکنا۔ أَجَلَاه عن بلدہ: نکالنا
_____ الزجلُ منزلہ: خوف کی وجہ سے چھوڑ دینا۔
تم کہتے ہو ”أَجَلُوا عن القتل“ مقتول کو چھوڑ کر
بھاگ گئے۔
تَجَلَى تَجَلَى الشئُ: اچھی طرح ظاہر ہونا
_____ المكانُ: چڑھنا _____ الشئُ: گردن بلند
کر کے دیکھنا۔
تَجَلَى القومُ: ہر ایک کا حال دوسرے پر ظاہر
ہونا۔
الجَلَى: ظاہر ہونا۔ تم کہتے ہو ”إنجلی الہمُّ
عن قلبی“ غم میرے دل سے دُور ہو گیا۔
اجْتَلَى۔ الشئُ: دیکھنا _____ العمامة: عمامہ کو
پیشانی سے بلند کرنا _____ النحلُ: شہد نکالنے کے
لیے دھواں کرنا۔
استجلی۔ الشئُ: ظاہر کرنے کو کہنا
_____ العروسُ: آراستہ ہو کر خاوند کے سامنے ظاہر
ہونا۔
اجْلُوْا و اجْلُوا۔ الرجلُ: ایک شہر سے
دوسرے شہر کو جانا۔

کرتا۔ المرأة شعرها: چھٹی گوندہ کر بیچے ڈالتا۔
 أجمز: تیز چلنا۔ اور اسی سے ہے "أجمزین یغدو" وہ اس کے سامنے تیز چلا۔ الثوب: دھوئی رتہ۔ الناز: تیار کرتا۔ الامر القوم: کسی امر کا عام ہونا۔ المرأة: چھٹی گوندہ کر بیچے ڈالتا۔
 أجمز العجیش: دشمن کے ٹلک میں گھر جانا اور نہ لوٹنا۔ بالمجمرة: دھوئی رتہ۔ القبائل: اکٹھا ہونا۔
 أجمز واستجمر: بالمجمرة: دھوئی رتہ۔
 الجمرة الجمر کا واحد۔ انکار۔ نکر۔ تمام وہ لوگ جو آپس میں بالکل تھوہ ہو گئے ہوں۔ کہا جاتا ہے "بنو فلان جمرۃ" فلان کی اولاد تھوہ ہے۔
 الجمار: جماعت۔ متعلق لوگ۔
 جمازی و جماری بالتونین و بلونہ: بمعنی کل۔ کہا جاتا ہے "جاء القوم جمازی" سب لوگ آئے۔ جاء القوم (جمازا) سب لوگ آئے۔
 الجمار والجمامور: درخت خرابا کا گوندہ جو چہلی کی طرح سفید ہوتا ہے۔
 الجمیور: قوم کے جمع ہونے کی جگہ۔ ابن جمیور: تاریک رات۔ جمیور الشمر: بالوں کی گندھی ہوئی چوٹی۔
 الجمیورۃ: بالوں کی گندھی ہوئی چوٹی۔
 المجمرة والمجمز: اگلیشی۔ عود سوز۔ ج۔
 مخامر۔
 حافر: (مجمور و مجمز) سخت کھر۔
 جمز (ض) جمزاً: تیز دوڑنا۔ صفت (جمزاً) جمزۃ: لھلھا کرتا۔
 الجمزی: تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے "یغدو الجمزی" وہ تیز دوڑتا ہے۔ "جمازاً جمزی" تیز رفتار گدھا۔
 الجمزۃ: پہلی جس میں داند ہوتا ہے۔
 الجمیور والجمیوری: گول کار درخت۔
 جمس و جمس (ک ن) جموشا۔

السمن: جم جانا۔
 الجامیض: قہ۔ نبات جامیض: پھروہ گھاس۔
 دم (جمیض) شگ خون۔
 الجفصۃ: آگ۔
 الجفصۃ: اونٹوں کا گلہ۔
 لیلۃ (جمابیۃ) بنت سعتری رات۔
 الجمافوس: ایک قسم کی سانپ کی چمتری۔
 الجمست: ایک قسم کا قیمتی پتھر۔
 الجمافوس: بیخس۔ ج جو امیس۔
 جمش (ن ض) جمشاً: الرأس: مونڈنا اور اسی سے ہے مکان (جمیش) نباتات سے خلی جگہ۔ جمش النالۃ: انگلیوں سے دوہنا۔
 جمشۃ: محبت سے چنگی لینا۔ یا رومیت کا کھیل کھیلتا۔
 العفش: آہستہ آواز۔
 الجموش والجمیش: بیل صاف کرنے کی مرکب دوا۔
 جمع (ف) جمعاً: المتفرق: اکٹھا کرنا۔ جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے۔ "جمعت الجمعۃ" جمع کی نماز قائم کی گئی۔
 جمع: جمع کرنا (تشدید مبالغہ کے لیے ہے)۔
 المسلم: جمع کی نماز میں حاضر ہونا۔
 جامعۃ للجامعۃ و جماعاً: علی کذا: اتفاق کرنا۔ موافقت کرنا۔ جامعاً: ہم بستری کرنا۔
 أجمع: القوم علی کذا: اتفاق کرنا۔ ماکان متفرقاً: اکٹھا کرنا۔ الامر و علی الامر: پختہ ارادہ کرنا۔ الابل: اکٹھے ہانکنا۔
 إجمع: الغلام: جوان وقوی ہونا۔ (اس کا استعمال عورتوں کے لیے نہیں ہے)۔
 وجمع: القوم: اکٹھا ہونا۔ الشئی المتفرق: تفریق چیز کا اکٹھا ہونا۔
 إجمع: الشئی: اکٹھا ہونا۔
 إستمجمع: له الامر: فشا کے مطابق ہونا۔
 القوم: سب کا چلنا۔ البقل: خشک ہونا۔
 الفرض جزئياً: پوری طاقت سے دوڑنا۔
 الجمع: سہ: لوگوں کی جماعت۔ ج جموع۔
 یؤم الجمع: قیامت کا دن۔
 جمع: الکف: طس۔ کہا جاتا ہے "مترینہ

یجمع کفی" میں نے اس کو گھونٹنے سے مارا۔
 شعی بھر جزیر ج أجمع۔
 الجمعۃ: پختہ۔ کہتے ہیں "استاجر الأجمز منجمعۃ" اس نے مزدور کو پختہ داری پر رکھا۔
 اجمع: دوستی۔ جمعۃ من قمر: مٹی بھر بھور۔
 والجمعۃ: پختہ کا ساتواں دن ج جمع و جمعات۔
 الجمعۃ: آدمیوں کا گروہ۔ ج جماعات الجماعات والجماعات: چنگی وغیرہ کا رجسز۔
 الجماع: سہ۔ جماع الشئی: کسی چیز کی جمع۔ کہا جاتا ہے "جماع الخباء الأخبیہ" خباء کی جمع اخبیہ ہے۔ "والجمع جماع الإلم" شراب ہر قسم کے گناہوں کا جامع ہے۔ قندو جماع: بڑی ہاضمی بڑی دیک۔
 الجماع: قہ۔ جامع مسجد۔ ج جماع (الکلام الجماع) کلام جس کے الفاظ کم اور معنی بہت ہوں۔ ج جماع: ألبوم الجماع: روز جمعہ۔ قندو جماع: دیک۔ أبو جماع: دسترخوان کی کنیت۔
 الجماعۃ: الجماع کا مؤنث۔ تعلق۔ طوق۔ قندو جماعۃ: بڑی دیک۔
 الجمیع: لوگوں کی جماعت۔ جمع شدہ۔ نظر اور تاکید کے موقع پر بولا جاتا ہے "جاؤوا جمیعہم" سب لوگ آئے۔ اور کہا جاتا ہے "رأی جمیع" ٹھیک رائے۔
 الجمیوعۃ: اجماع۔ ج جماع۔
 أجمع: الفاظ تاکید میں سے ہے۔ اس لفظ سے ہر اس چیز کی تاکید لاتے ہیں جس کا التزام کسی یا حکمی طور پر جائز ہو۔ کہا جاتا ہے "جاؤوا اجمعہم و اجمعہم" سب لوگ آئے۔ مؤنث جماع ج اجمعون۔
 المجمع: قہ۔ کہا جاتا ہے "رجل مجتمع" جو ان "ومشی مجتمعاً" ہاتھ پیر ہلاتے ہوئے وہ تیز تیز چلا۔
 المجمع: جمع کرنے یا جمع ہونے کی جگہ۔ اکیڑی۔ کہا جاتا ہے۔ "اخذت محبہ بمجامع فلسی" اس کی محبت میرے دل پر چھا

المُخْتَمِرَات: زمانہ جاہلیت کے طبقہ ثانیہ کے سات قصیدے جن کا مرتبہ سبع معلقات کے بعد ہے۔

الجَمَا وَالْجَمَا: اجمرا ہوا پتھر۔ جسم کا بھرا ہوا حصہ جیسے پستان۔

جَمَى (ض) حَفِيْنَا الْمَاءُ: بَست ہونا۔

تَجَمَّى الْقَوْمُ: اکٹھا ہوا۔

جَمَاءٌ وَجَمَاءٌ وَجَمَاءَةٌ: الشئی: چیز کی دیانت۔

جَنَّ (ن) جَنَّوْا جَنَّوْنَا: دیوانہ ہونا۔ پاگل ہونا۔ صفت (مخفون) جن مخالفین۔ عنہ: چھپنا۔

الارض: پھول آگاہا۔ النسب: لہا ہوا اور گتھ جانا۔ الذہاب: بست بھنجانا۔ کہا جاتا ہے "جَنَّ الذَّهَابُ بِالرَّوْحِ" ہریالی کو دیکھ کر کھیاں بھنجانا ہی ہیں۔

أَجَنَّ: عنہ: چھپنا۔ أَجَنَّهُ اللَّيْلُ: چھپانا۔ ذُحَاتٍ لَيْلًا: أَجَنَّ الْمَيِّتُ: کفن دینا، دفن کرنا۔ (أَجَنَّهُ وَجَنَّهُ) دیوانہ بنانا۔

تَجَنَّنَ وَاسْتَجَنَّنَ: دیوانہ ہونا۔

تَجَنَّانٌ وَتَجَنَّانٌ: بخلف دیوانہ بنا۔

إِجْتَنَّ: الشئی: چھپانا () وَاسْتَجَنَّ () چھپنا۔ وَاسْتَجَنَّ فَلَانَا: کسی کو طرب کی طرف بلانا۔ (مَا أَجَنَّهُ) وہ کتنا جنوں ہے فعل تعجب ہے اور شاذ ہے اس لیے کہ یہ مفعول کے معنی میں ہے اور فعل تعجب فاعلی معنی میں ہوتا ہے۔

الجنِّ والعجَّة: جن۔ پری۔ دیو۔ واحد (جنِّ) مؤنث (عجَّة) الجنَّة: دیوانگی۔ الجنَّة من الجنِّ من الشباب: آغاز جوانی۔ من التبت: کلی۔ پھول۔ جنِّ اللیل: رات کی تاریکی۔ جنِّ الناس: لوگوں کی بڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے "لَا جَنَّ بِهَذَا الْأَمْرُ" یعنی اس معاملہ میں کوئی پریشانی نہیں۔

العجان (فا) جن کا اسم جمع۔ جنِّان: العجان: ایک قسم کا سفید سانپ۔

الجنَّة: بلغ بشت۔ جنِّان و جنَّات۔

الجنَّة: پردہ جنِّان () وَالْمِجَنُّ وَالْمِجَنَّةُ: بھیاڑوں سے بچاؤ کی چیز۔ ڈھال۔ جنِّ مَجَانٌّ: اور کہتے ہیں "قَلْبٌ مَجْنُونٌ" یعنی وہ بے

کا دودھ یا۔ جمل الیہود: گرگت۔ جمل الماء: ایک آبی پرندہ جس کی چوڑی لمبی ہوتی ہے۔ جمل البحر: ویل چھلی۔ کہا جاتا ہے "اتخذ اللیل جَمَلًا" وہ ساری رات چلا۔

الجَمَلُ وَالْجَمَلُ وَالْجَمَلُ وَالْجَمَلُ وَالْجَمَلُ: مولیٰ رسی۔ حساب الجَمَلُ: حروف ابجد کا حساب جو تاریخ ولادت یا وفات وغیرہ نکالنے میں کام آتا ہے اور اس کو حساب الابیجدی بھی کہتے ہیں۔

الجامل (فا) اونٹوں کا ریوڑ جمع چرواہوں کے۔ اونٹوں کا مالک۔

الجَمَلُ: اونٹوں کا مالک یا ساریا۔ جنِّ جَمَلًا۔ الجَمَلُ: خوبصورت۔ یا زیادہ خوبصورت۔

الجَمَلُ (مص) خوبصورتی۔ کہتے ہیں "جَمَالُكَ اِنْ لَا تَفْعَلُ كَذَا" تمہارے لیے مناسب ہے تم ایسا نہ کرو۔

الجَمَلَةُ: مجموعہ: جو مسند اور مسند الیہ سے مرکب ہو۔ جنِّ جَمَلُ۔

الجَمَلُ: لوگوں کی جماعت۔ الجَمَلُ: احسان۔ نیکی۔ کھلی ہوئی چربی۔

الجَمَلَاءُ: خوبصورت عورت (اس لفظ کے لیے أَفْعَلُ کاسینہ نہیں جیسے دِئِمَةٌ هَظْلَاءٌ میں أَهْظَلُ کاسینہ نہیں)

الجَمَلُ: بلبل۔ جنِّ جَمَلَانُ۔ الجَمَلَانُ وَالْجَمَلَانَةُ: بلبل۔

الجَمَانُ: موتی۔ واحد جَمَامَانَةٌ۔ جَمَهْرٌ جَمَهْرَةٌ: الشئی: جمع کرنا۔ اکثر حصہ لینا۔

عَلَيْهِ الْخَبِيرُ: تھوڑی سے خبر دینا اور مراد کو چھپایا لینا۔ وَتَجَمَّرَ الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَجَمَّرَ عَلَيْنَا" اس نے ہمارے اُوپر دست درازی کی اور قہارت کی۔

الجَمَهْرُ: ریت کا تودہ۔ قوم کے بڑے اور اشراف لوگ۔ قوم کی جماعت۔ ہر چیز کا بڑا حصہ۔ جنِّ جَمَاهِيرُ۔

الجَمَهْرِيُّ: جمہوری کی جانب منسوب نشہ آور شراب۔

الجَمَهْرِيَّةُ: رہنمائی۔ وہ سلطنت یا قوم جو اپنا صدر ایک عجمین عدت کے لیے بناتی ہے۔

گئی۔ ارض (مختصة) وجميعه (مختصة) وہ زمین جس میں قافلہ اکٹھا ہو جائے اور بھٹکنے کے خوف سے علیحدہ نہ ہو۔

امو (مختص) قطعی معاملہ۔ المختص: ہر کتاب جس میں مختلف چیزیں جمع کی گئی ہوں۔ جیسے اشعار قصص وغیرہ۔ جن مجامیع اور تحویلوں کے نزدیک جمع پر اطلاق کیا جاتا ہے۔

الجامیکیہ: جن جامکیات و (الجوامک) جن جوامک: شامی نوکر و فوجوں کی تنخواہ۔

جمل (ن) جَمَلًا: الشئی: جمع کرنا۔ () واجتمعت (الشخم: کھلانا۔

جَمَلُ (ک) جَمَلًا: خوبصورت ہونا۔ خوش خلق ہونا۔ صفت (جمیل) مؤنث (جميلة) جَمَلَةٌ: خوبصورت بنانا۔ جَمَلُ الشخم: کھلانا۔ الخیش: دیر تک روک رکھنا۔

جَمَلُهُ: اچھا معاملہ کرنا۔ تواضع سرزدی کرنا۔ أَجَمَلُ: الشئی: جمع کرنا یا مجمل ذکر کرنا۔ کہا جاتا ہے "اجمل الحساب والكلام ثم فضله ويسته" اس نے حساب اور کلام کو مجمل کیا پھر اس کی تفصیل کی۔ الشئی: خوبصورت بنانا۔ زیادہ کرنا۔ الشخم: کھلانا۔ فی العمل: عمر کی سے کام کرنا۔ فی الطلب: تلاش میں استعمال اختیار کرنا۔ القوم: لوگوں کے پاس اونٹوں کی کثرت ہونا۔

تَجَمَّلُ: آراستہ ہونا۔ خوبصورت ہونا۔ مصائب زمانہ پر صبر کرنا اور زنت ظاہر نہ ہونے دینا۔ حیاء کی وجہ سے مصیبت میں کھلی ہوئی چربی کھانا۔ فی الکلام: لطف و مریانی سے باتیں کرنا۔

الْمُتَجَمَّلُ: البعیر: اونٹ کا جوان ہونا۔ الشئی: خوبصورت کھانا۔

الجَمَلُ: اونٹ۔ جنِّ جمال و اجمال و جَمَلُ و جمالة۔ بتثلیث الجیم و جنِّ جمالات۔ بتثلیث الجیم و جمائل۔ اور جمل کا اطلاق اونٹنی پر شاذ ہے۔ کہا جاتا ہے۔ "شربت لبن جملی" میں نے اپنی اونٹنی

(الْأَجْنَبُ وَالْأَجْنَبِيُّ) مسافر۔
 الْمُجْتَنِبُ: بخت خیر ہوا شر۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ
 عِنْدَنَا خَيْرًا مِّنْجَنَابٍ وَشَرًّا مِّنْجَنَابٍ" ہمارے
 نزدیک بخت خیر اور بخت شر ہے۔
 الْمُجْتَنِبُ: پردہ ڈھال۔
 الْمُجْتَنِبَةُ: فوج کا ہراول۔
 الْمُجْتَنِبَاتَانُ: مِنَ الْعِيْشِ: فوج کا یمین
 ویمین۔
 الْجُنْبُدُ: انار کی کٹی۔ غنچہ یا گنفتہ۔
 الْجُنْبُلُ: کبوتری کا پالہ۔
 تَجَنَّبْتُ الرَّجُلَ: غیر قوم میں سے ہونے کا
 دعویٰ کرنا۔ عَالِيَهُ: نَجَبْتُ کرنا۔ مریائی کرنا
 الطَّائِرُ: پر پھیلا کر بیٹنا۔
 الْجُنْفِيُّ: عمدہ لوہا۔ گوار۔ جِ جُنْفِيَّةٌ: زرہ
 ساز۔
 جَنْحٌ (ف ن ض) جُنْحٌ حَا-الِيه، مائل ہونا
 السَّفِينَةُ: کمر پالی میں بیچ کر زمین سے لگ
 جانا۔ اللَّيْلُ: آنا (ض) جَنْحًا
 الطَّائِرُ: بازو پر مارنا۔
 جَنْحَهُ: بازو بنانا۔ الرَّجُلُ: گناہ کی
 نسبت کرنا۔
 أَجْنَحٌ وَاجْتَنَحَ وَاسْتَجْنَحَ-الِيه: مائل
 ہونا۔ جھکانا۔
 أَجْنَحُهُ وَاسْتَجْنَحَهُ: جھکانا۔
 تَجَنَّبَ وَاجْتَنَّبَ: ایک پہلو پر جھکانا۔
 الْجَنْحُ: جانب۔ پناہ۔ کنارہ۔
 الْجَنْحُ وَالْجَنْحُ: مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک
 حصہ۔ جَنْحُ الطَّرِيقِ: راستہ کا کنارہ۔
 الْجَنْحُ: پرنندے کا بازو۔ من
 الانسان: ہاتھ اور بھل اور بازو اور پہلو۔ پناہ۔
 اور اسی سے ہے "انفاهي جَنْحَ فُلَانٍ" میں
 فلاں کی پناہ میں ہوں۔ کنارہ۔ ہر چیز کا ایک حصہ۔
 جِ اجْنَحٌ وَأَجْنَحَةٌ کہتے ہیں "زَكِيكُو اجْنَحِي
 الطَّائِرُ" لوگ اپنے وطن سے جدا ہو گئے "و
 زَكَبَ جَنْحِي السَّمَاعَةَ" اس نے معاملہ میں
 کوشش کی اور جلدی کی "و هو مَقْضُوضُ
 الْجَنْحِ" وہ عاجز ہے۔
 الْجَنْحُ: گناہ۔ اور اسی سے ہے "لَا جَنْحَ

الْجَنْبِ-سہ۔ جِ اجْنَابٌ وَجُنُوبٌ: پہلو۔
 جنت۔ جانب۔ تم کہتے ہو "قَعَدْتُ اِلَى جَنْبِ
 فُلَانٍ وَاِلَى جَانِبِهِ وَجَنْابِهِ" میں فلاں کے پہلو
 میں یا اس کی جانب میں بیٹھا۔ جازِ الْجَنْبِ:
 ہمسایہ جو پہلو میں ہو۔ ذاتِ الْجَنْبِ: نمونہ۔
 الْجَنْبِ: ہمہ۔ کچھ لنگڑا ہیں۔
 الْجَنْبُ: غیر فرماں بردار۔ اجنبی۔ مسافر۔ دور
 ناپاک (واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لیے
 مستعمل ہے) الْجَارِ الْجَنْبِ: ہمسایہ جو غیر قوم کا
 ہو۔
 الْجَنْبِ: گوشہ نشین۔ اجنبی۔ مسافر۔ بھیڑیا
 رَجُلٌ جَنْبٌ: مسلمانوں کے ڈر سے راستہ میں کترا
 کر چلنے والا۔
 الْجَنْبِيَّةُ: گوشہ نشینی۔ جانب۔ الْجَنْبِيَّةُ مِنَ
 النِّبَاتِ: ہر وہ درخت سے چھوٹا اور بیل سے
 بڑا ہو جِ جَنْبٌ- جَنْبًا الْاِنْفِ وَجَنْبَتَاهُ
 وَجَنْبَاتَاهُ: ناک کے دونوں طرف۔
 الْجَنْبِيَّةُ: وہ چیز جس سے پرہیز کیا جائے۔
 الْجَنْبَابِ: نا۔ غیر فرمانبردار۔ مسافر۔ گھوڑا۔ جس
 کے دونوں قدم کا فاصلہ دور ہو جِ جَنْبَابِ- انسان کا
 پہلو۔ گوشہ۔ جانب۔ جِ J
 لَيْنُ الْجَنْبَابِ: وہ معیشت کے لحاظ سے نرم ہے۔
 "هُوَ رَقِيْقُ الْجَنْبَابِ" وہ لطیف ہے۔
 الْجَنْبَابِ: حمن۔ گوشہ۔ قوم کے حملہ سے جو
 قریب ہو۔ کہا جاتا ہے "أَخْصَبَ جَنْبَابُ الْقَوْمِ"
 قوم کا مقام سرسبز و شاداب ہے۔ و "فُلَانٌ
 خَصِيْبُ الْجَنْبَابِ أَوْ جَدِيْبِهِ" فلاں سرسبز ہے یا
 قطرہ زدہ ہے۔ جِ اجْنَبِيَّةٌ۔
 الْجَنْبَابِ: جَنْبَابٌ كَالصَّوْدَرِ: کہا جاتا ہے "فُورُسُ
 طُولُ الْجَنْبَابِ" آسانی سے تابع ہونے والا
 گھوڑا۔
 الْجَنْبَابِ: نمونہ کی بیماری۔
 الْجَنْبُوبُ: دکھن۔ دکھنی ہوا۔ جِ جَنْبَابِيَّةٌ۔
 الْجَنْبِيَّةُ: نمونہ کی بیماری میں جھلا۔ فرما بردار۔
 ایک قسم کی عمدہ گھوڑ۔
 الْجَنْبِيَّةُ: کونٹ گھوڑا۔
 الْجَنْبَابِ: پہلو میں چلنے والا ساتھی۔
 الْأَجْنَبِ: جِ اجْنَابِ: غیر فرمانبردار۔

حیا و خورائے ہو گیا۔ "و قَلْبٌ لَهُ ظَهْرُ الْمِجَنِّ"
 یعنی وہ اس کی دوستی سے دشمنی کی طرف پلٹ
 گیا۔
 الْجَنْجَنُ: قبر میت۔ کفن۔ جِ اجْنَانُ۔
 الْجَنْجَانُ وَالْجَنْجَانَةُ: ڈھال۔
 الْجَنْجَانُ: دل۔ رات یا اس کی شدت تاریکی۔
 پوشیدہ معاملہ۔ من کل شیء: ہر چیز کا
 جوف۔ جِ اجْنَانُ۔
 الْجُنُونُ وَالْجُنُنُ وَالْجُنَّةُ: دیوانگی۔
 الْجَنْجِينُ: ہر پوشیدہ چیز۔ قبر مرد فون۔ پتھر جو ابھی
 رحم مادر میں ہو۔ جِ اجْنَتَةٌ وَأَجْنُنٌ۔
 الْجَنْجَتَةُ: جنوں والی زمین۔ دیوانگی۔ کہا جاتا
 ہے "بِهَمْجَتَةٍ" وہ دیوانہ ہے۔ چھپنے کی جگہ۔
 جَنْجِي (س) جَنْجًا: کبڑا ہونا۔ صفت (اجْنَانًا)
 مَوْتٌ جَنْجَانًا)
 جَنْجًا (ف) جُنُوًّا وَاجْتَنًا اجْنَانًا وَجَانًا
 مَجَانًا وَأَوَّاجْتِنًا وَجَانًا تَجَانًا وَعَالِيَهُ: کسی کو
 مارے پجانے کے لیے اس پر چھایا جانا۔
 جَنْبَتُهُ (ن) جَنْبَتًا: دفع کرنا۔ علیحدہ کرنا۔ دور
 کرنا۔ پہلو پر مارنا۔ تم کہتے ہو "ضَرِبَهُ فَجَنْبَتُهُ"
 اس نے اسے مارا اور پہلو پر مارا" وَجَنْبَتُهُ الشَّيْءُ:
 کسی سے کوئی چیز دور کرنا (ض) جَنْبًا
 وَمَجْنَبًا) الْبَهِيْزُ: کونٹ یا کتا۔ صفت مفعولی
 (جَنْبِيٌّ وَمَجْنَبٌ وَمَجْنُوبٌ) مَوْتٌ جَنْبِيَّةٌ۔
 کہا جاتا ہے "فُورُسُ جَنْبِيٌّ وَخِيْلُ جَنْبَابِ"۔
 جُنُوبًا الرِّيْحُ: جنوبی ہوا چلانا۔
 جَنْبٌ (ن) جَنْبًا وَجَنْبٌ (س) جَنْبًا-الِيه:
 مائل ہونا۔ مشتاق مضطرب ہونا۔
 جَنْبٌ (ن س ض) جَنْبَانَةُ- الرَّجُلُ: ناپاک
 ہونا۔
 جَنْبٌ: پہلو میں درد والا ہونا۔ نمونہ لاحق ہونا
 صفت (مَجْنُوبٌ) - (وَاجْتَنِبُ وَأَجْنَبُ)
 الْقَوْمُ: جنوبی ہوا لگنا۔
 جَنْبُهُ وَجَنْبَتُهُ وَجَنْبَانَتُهُ وَاجْتَنَبَتُهُ: دُور
 ہونا۔ جَنْبَتُهُ الشَّيْءُ: کسی سے کوئی چیز دور کرنا۔
 جَنْبَانَتُهُ: پہلو میں چلانا۔
 اجْنَبِيَّةٌ: دُور کرنا۔ اجْنَبُ الرَّجُلُ: دُور ہونا۔
 اسْتَجْنَبَ: ناپاک ہونا۔

ملک "تمارا کوئی گناہ نہیں۔ حج کا ایک حصہ۔
 الجناح: طا۔ جانب۔ ج: جوائج۔
 الجوائج: پہلیاں۔ واحد (الجواحیة)
 جَنَدٌ: الجنود: فوج جمع کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ" جمع شدہ لشکر۔
 تَجَنَّدَ: فوجی سپاہی بنا۔ فوج تیار کرنا۔
 للامر فارغ ہونا۔
 الجُنْدُ: لشکر۔ ج: أجناد و جنود واحد
 (جُنْدِي) الجُنْدُ: شرج: أجناد۔ الشَّامُ:
 دمشق، "مصر، حرمین، اردن اور فلسطین۔
 الجند: تخت زمین۔ پتھر جو مٹی کے مشابہ ہو۔
 الجندار: بلائی گارڈ۔ محافظ فوج۔ ج: جنادرة
 (جدید)
 جَنْدَرٌ: کتاب: سنے ہوئے پر قلم پھیر کر
 روشن کرنا۔
 الجُنْدُبُ والجَنْدَبُ: ایک قسم کی بڑی۔
 عوام اسے قَبُوطَ کہتے ہیں۔ ج: جنادب۔ أم
 جُنْدَبُ: بلا۔ نذر۔ ظلم۔ کہا جاتا ہے "وقھوا فی
 أم جُنْدَبٍ" یعنی ان لوگوں پر ظلم کیا گیا۔
 الجُنْدُخُ: بڑی بڑی۔
 الجُنْدُخَةُ: بارش کے پانی کا بلبل۔ ج: جنادع۔
 الجنادع: حشرات الارض: زمین کے کیڑے
 کوڑے۔
 جَنْدَلَةٌ: پھاڑا۔
 الجَنْدَلُ: بڑی چٹان۔ واحد جَنْدَلَةٌ ج
 جندال۔
 جَنْزَرٌ (ض) جَنْزَرًا: بھپانا۔ جمع کرنا۔
 جَنْزِرٌ: مرنا اور تابوت میں رکھا جانا۔
 جَنْزَرٌ: المیت: تابوت میں رکھنا۔
 الجَنْزَرُ: مٹی کا چھوٹا سا گھر۔
 الجَنْزَارَةُ والجَنْزَارَةُ: میت۔ میت کا تابوت۔
 میت کے دفن میں جانے والے۔ مجلس ماتم۔
 شراب کی منگ۔ ج: جَنْزَارَتُ۔
 الجَنْزَارِيُّ: مُردوں کے آگے آگے پڑھنے
 والا۔
 الجَنْزَارُ والجَنْزَارِيُّ: تانبے کا زنگار (جدید)
 الجَنْزَارِيُّ: زنجیر۔
 جَنْسٌ (ان) جَنْسًا: التمر: بالکل پک جانا۔

جَنْسٌ (س) جَنْسًا: الماء ونحوہ: جم جانا
 جَنْسَةٌ: بہ: مشابہ ہونا۔
 جَنْسَةٌ جَنْسًا ومُجَانَسَةٌ: مشابہ ہونا۔ ہم
 جس ہونا۔ اور اسی سے ہے "فلان يُجَانِسُ
 البہائم" فلاں چوپاؤں کے مشابہ ہے۔ یعنی اسے
 عقل و تیز نہیں۔
 مُجَانَسًا: ہم جس ہونا اور اسی سے ہے "ومع
 التَّجَانُسِ التَّنَائِسُ" ہم جس کے ساتھ انسیت
 ہے۔
 الجَنْسُ: ماہیت جو انواع متعددہ کو شامل ہو
 جیسے انسان اور گھوڑے کے لیے حیوانیت۔ قسم۔
 ج: أجناس۔
 الجَنْسُ: جما ہوا پانی۔
 الجَنْسِيُّ: اپنے جس کے اندر اصل۔
 الجَنْسِيَّةُ: جس کی حالت یا ماہیت۔
 الجَنْسُ: فی البدیعی: علم بدیع کی اصطلاح
 میں دو قسموں کا کلا یا بعضاً مشابہ ہونا۔
 جَنْشٌ (ن) جَنْشًا: الیہ: کودنا۔ متوجہ ہونا
 مُنہ: گھبرانا۔
 جَنْشٌ: خوف سے ہماگنا۔ بَصْرہ: گھورنا۔ تیز
 نظر ڈالنا۔ جَنْشُ الطریقِ بالناس: تنگ ہونا۔
 جَنْشٌ: مرنا۔
 الجَنْشُ: مرنا۔
 جَنْشٌ (ض) جُنُوفًا وجَنْشٌ (س) جَنْشًا: عن
 الطریق: راستے سے علیحدہ ہونا۔ (واجْتَنَفَ) فی
 وصیئہ: ظلم کرنا۔ صفت (جَنْشٌ وَاَجْتَنَفَ)
 جَانَفٌ جَنْفًا: اَهْلُه: مُتَعَمِدٌ کی وجہ سے علیحدہ
 ہونا۔
 تَجَانَفٌ: للانتم: مائل ہونا۔ عن
 الطریق: الگ ہونا۔
 الجَنْفُ: ظلم۔ حق و انصاف سے تملوز۔
 الأَجْنَفُ: خیرہ پشت۔ مؤنث جَنْفَاءُ ج
 جَنْفُ۔
 المِجْنَفُ: طباق سے اعراض کرنے والا۔
 جَنْقٌ (ض) جَنْقًا وجَنْقٌ: المعجر: گوجن
 سے پھینکا۔
 المَنْجَبِيُّ: گوجن۔ ظن۔ لڑائی کا ایک آلہ
 جس سے پتھر پھینکا کرتے تھے۔ ج: مَجَابِقُ

ومَجَابِقُ ومَنْجَبِيَّاتُ۔
 الجَنْكُ: ایک قسم کا باہا۔ ج: جَنْوُكُ۔
 جَنْیٌ (ض) جَنْيًا وجَنْیٌ: الشمر: درخت
 سے پھل توڑنا۔ کہا جاتا ہے "جَنْیُ الشمرِ لہ
 وجَنْأُ أَيَاہَا" (جَنْيًا) الذهب: کان سے نکالنا۔
 (جَنْيَا) گناہ کرنا۔ صفت (جان) ج: جَنْأُ
 وَاَجْنَاءُ وجَنْأٌ۔ مؤنث جَانِيَةٌ ج: جَوَانٍ
 وجَانِيَاتُ
 أَجْنَى۔ الشجر: پکنا۔ أَجْنَبُ الارضُ:
 زیادہ پھل یا زیادہ پیر اور والی ہونا۔
 جَانِيٌ مُجَانَأَةٌ وجَنْيٌ: علیہ: ناکردہ گناہ کی
 نسبت کرنا۔ (تَجَنَّى وَاَجْتَنَى) الشمر: پھنا۔
 توڑنا۔ "اجتنی ماء المطر" گھاٹ پر آکر پانی پینا۔
 الجَنْيُ: پینا ہوا پھل ہو یا سونا یا شہد وغیرہ ج
 أَجْنَاءُ وَاَجْنٌ: شمر (جَنْيٌ) تازہ چنا ہوا پھل۔
 الجَنْيَةُ: برہہ حج جو چلتی جائے۔
 الجَنْيَةُ: گناہ۔ رُغْمٌ کا کثیر۔
 المَنْجَنِيُّ: مصدر میں بمعنی پھنا۔ چننے کی جگہ
 جس سے پھل وغیرہ چنا جائے جیسے درخت ج
 مَنجَانُ۔
 الجَهْدُ: برکھنے والا۔ دان۔ ج: جَهْدَابَةٌ
 الجَهْدِيُّ: شیرنی۔
 الجَهْبُ: بد صورت چہرہ۔
 المِجْهَبُ: بے حیا۔
 الجَهْدِيُّوقُ: چوہے کی میٹھی۔
 جَهْدَةٌ: بالسبع: روکنے کے لیے چھنا چھانا۔
 تَجَهَّدَ: عنہ: بازار ہونا۔
 المَجْهَدُ: شیر۔
 جَهْدٌ (ف) جَهْدًا: فی الامر: بہت کوشش
 کرنا۔ بالرجل: اِحتمان کرنا۔ جَهْدَةٌ
 المرض: لاغر کرنا۔ جَهْدُ اللین: سارا کھن
 نکال لینا۔ (وَأَجْهَدُ) الطعام: خواہش کرنا۔
 جَهْدٌ وَاَجْهَدُ الدابة: طاقت سے زیادہ لادنا۔
 أَجْهَدُ المالَ: بکیرا۔ فَاكْرًا: أَجْهَدُ الحقَّ:
 ظاہر ہونا۔ أَجْهَدُ فیہ الشیْبُ: اجمعی طرح بڑھاپا
 ظاہر ہونا۔ أَجْهَدُ فی الأمرِ: احتیاط کرنا۔ أَجْهَدُ
 عَلَيْنَا العَلُوُّ: دشمنی میں پوری کوشش کرنا۔
 أَجْهَدُ الأمرِ لزيد: ممکن ہونا۔

جُہِدٌ: پوری کوشش کرنا۔ تمکین ہونا۔ لاغر ہونا۔

جُہِدٌ (س) جُہِدًا۔ عیشۃ: زندگی کا کدر ہونا۔

جَاهِدْ مُجَاهِدَةً وَجِهَادًا: پوری طاقت صرف کرنا۔ کہا جاتا ہے "جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ" اللہ کے راست میں پوری طرح کوشش کرو جیسا کہ کوشش کا حق ہے۔ الْعَدُوُّ: جنگ کرنا۔

تَجَاهَدْ وَاجْتَهِدْ۔ فی الامر: کوشش کرنا اور پوری طاقت صرف کرنا۔ اِسْتَجْهَدْ۔ فی الامر: غور کرنا۔

الْجُهْدُ وَالْجِهْدُ وَالْمُتَجَهِّدُ: طاقت۔ استطاعت۔ کہا جاتا ہے "بَدَلْ جُهِدَهُ وَمَتَجَهِّدُهُ" اس نے اپنی طاقت صرف کی۔ مشعت۔ قرآن میں ہے "أَلْقَسْمُوا بِاللَّهِ جِهْدَ آيْمَانِهِمْ" انہوں نے بہت زور لگا کر قسم کھائی۔ الجہاد۔ ف۔ بے خوابی والا۔ کہا جاتا ہے "جُهْدٌ جَاهِدٌ" جیسے "أَيْلٌ لِأَيْلٍ" و "شعر شاعر"

الجُہاد: سخت زمین جس میں پیداوار نہ ہو ج جُہِدٌ۔

الجُہاد۔ س۔ دین کی حفاظت اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جنگ۔

الجُہْدَانُ: وہ شخص جس کو مشعت لاحق ہو۔ الجُہْدُ: جانوروں کی پسندیدہ چراگاہ۔ کہا جاتا ہے "مَرَعَى جُهْدًا"

الجُہْدَانِيُّ: انتہائی۔ کہا جاتا ہے "جُہَادَاك ان تَفْعَلْ كَذَا": تمہاری انتہائی کوشش ہے کہ تم یہ کیا کرو۔

الجُہْدِيُّ: کوشش۔ پوری کوشش۔ کہا جاتا ہے "لَا يُلْهِنُ جُهِدِي فِي الْأَمْرِ" میں محالہ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔

جَهْرٌ (ف) جَهْرًا وَجَهْرًا: جَهْرًا: الامور وبالامر: اعلان کرنا۔ بِالْقَوْلِ: آواز بلند کرنا۔ الصوت: بلند کرنا۔ الرجل: بے پردہ دیکھنا اور آنکھوں میں برا معلوم ہونا۔ تَسْلِيمٌ کرنا۔ القوم: دیکھ کر زیادہ سمجھنا

الشئى: کسی چیز کو محول کرنا اندازہ کرنا۔ الارض: بغیر جانے ہوئے چلنا۔ الشئى فُلَانًا: بیعت و جمال سے حیرت میں ڈال دینا۔ الامور: ظاہر و آشکارا ہونا۔ السقاء: منگھڑیہ میں بلو کر کھن نکالنا۔

جَهْرٌ (س) جَهْرًا۔ العین: سورج سے چند سیما جانا۔

جَهْرٌ (ک) جَهْرًا۔ الصوت: بلند ہونا۔ صفت (جہیر و جہر)۔ الرجل: دیکھنے والے کی آنکھ میں برا معلوم ہونا۔

جَاهِرَةٌ مُجَاهِرَةٌ وَجَهْرًا: بالشئى: کلمہ کلام ظاہر کرنا۔ بالقرأة: بلند آواز سے پڑھنا۔ القوم بالامر: غلبہ کی کوشش کرنا۔

أَجْهَرٌ۔ الامور: اعلان کرنا۔ بالقرأة: بلند آواز سے پڑھنا۔ الرجل: جیسے بچے یا صاحب جمال تپوں کا لب ہونا۔

تَجَاهَرٌ: بالامر: ظاہر کرنا۔ اجتهز۔ القوم: تعداد میں بہت سمجھنا۔ الرجل: کلمہ کلام دیکھنا اور برا سمجھنا۔ البؤ: صاف کرنا۔ الشئى فُلَانًا: بیعت و جمال سے حیرت میں ڈال دینا۔

الجَہر۔ س۔ چوڑا ٹیلہ۔ زمانہ کا ایک حصہ۔ تم کہتے ہو "کلمتہ جہڑا و بالجہر" میں نے اس سے کلمہ کلام گفتگو کی۔ "و لَقَيْتُهُ جَهْرًا" میں نے اس سے رودر ملاقات کی۔

الجَہر: بیعت۔ حسن منظر۔ الجَہار۔ س۔ تم کہتے ہو "لَقَيْتُهُ جَهْرًا" میں نے اس سے رودر ملاقات کی۔

الْأَجْهَرُ: سورج کی روشنی سے چند سیانے والا۔ خریصورت و بیعت والا۔ مؤنث (جَہْرَاءُ) ج جَہْرٌ۔

جَهْرٌ۔ الصوت: بلند و قوی آواز والا۔ ج جَهْرٌ۔

الجَہر: خریصورت۔ بھلائی اور نیکی کے لائق۔ من اللہ: بے یالی کا درود۔ کلام جَہْرٌ: بلند گفتگو۔ امرأة جَہْرَةٌ: بلند آواز والی عورت۔ کہا جاتا ہے "هو عَقِيْفُ السَّرِيْرَةِ وَالجَہْرَةِ" وہ ظاہر و باطن کے لحاظ سے پاک و نامن ہے۔

الجَہْرِيُّ: بلند آواز کی صفت میں واضح ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "صَوْتُ جَہْرِيٍّ" بلند آواز۔ اور بلند آواز والے کو کہتے ہیں۔ "رجلٌ جَہْرِيٌّ"

المَجْهَرُ وَالمَجْهَرُ: وہ شخص جس کی عادت بلند آواز سے گفتگو کرنے کی ہو۔

المَجْهَرُ: خوردبین (Microscope) جَهْرٌ (ف) جَهْرًا وَاجْهَرٌ۔ علی الجریح: مار ڈالنا۔

جَهْرَةٌ: بتا کرنا۔ میا کرنا۔ المیت: کفن رخن کا سامان کرنا۔ العروش: جینز کا سامان تیار کرنا۔

تَجَهَّرٌ۔ اللسفر: سامان میا کرنا۔ (وَاجْهَانِيٌّ لِلامر: آباد ہونا۔

الجَہاز وَالجَہاز۔ للبيت او للمسافر او للعروس: ضروری سامان۔ من جسم الانسان: اعضائے انسانی جن کی کوئی خاص غرض ہو۔ جیسے اعضائے تنفس۔ یا آلات ہضم۔ جَہْرَةٌ وَاجْهَرَاتُ الجَہْرَاءُ: بلند زمین۔

الجَہْرِيٌّ۔ من الخيل: ہلکا ہلکا۔ موت (جَہْرِيٌّ وَجَہْرِيٌّ): ناگمانی موت۔

جَہْرَةٌ: ایک عورت کا نام ہے۔ ایک شغل ہے "قَطَعْتُ جَہْرَةَ قَوْلِ كَلِّ خَطِيْبٍ" اس کا واقعہ یوں ہے کہ کچھ لوگ دو قبیلوں کے درمیان ایک خون کے معاملہ میں صلح کرانے کے لیے تقرر کر رہے تھے تاکہ اولیاء متقول کو دست لینے پر راضی کر دیں کہ اتنے میں جیزو نے کہا کہ متقول کے ولی نے قاتل کو پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ قَطَعْتُ جَہْرَةَ قَوْلِ كَلِّ خَطِيْبٍ" یعنی اب دست اور مقدار دست کے بارے میں گفتگو کی ضرورت نہیں کہ قاتل کے قتل کے بعد دست نہیں۔

جَہْشٌ وَجَہْشٌ (س) جَہْشًا وَجَہْشًا وَجَہْشَانًا۔ الیہ: روتے ہوئے یا روانسا ہو کر کسی سے فریاد کرنا۔

جَہْشٌ (س) جَہْشَانًا۔ منہ بڑھانا اور بھگانا۔ اَجْهَشٌ۔ الیہ: روتے ہوئے یا روانسا ہو کر

البيوت، بغیر نعت والامکان۔ مؤنث جَهْوَاء۔
خِصَاءٌ مُّجَبِّ: بغیر پردے کا خیمہ۔ سَمَاءٌ جَهْوَاءٌ:
کھلا ہوا آسمان۔

بيت (جَهْوَان): بے پردے کا مکان۔

جَاب (ن) جَوْنَا وَتَجَوْنَا: البلاد: طے
کرنا۔ جَابَ الثَّوْبَ جَوْنَا: کاٹنا۔ الصخره:
چٹان کو تراشنا۔

جَابَ (ن) جَوْنَا وَجَوَّبَ: الثوب: گریبان
بنانا۔ جَوَّبَ الشَّيْءَ: سچ سے کاٹنا۔

جَاوَبَهُ مَجَاوَبَةً: گفتگو کرنا جواب دینا۔

اَجَابَهُ اِجَابَةً وَاِجَابًا وَاَجَابَ سؤَالَهُ وَعَنْ
سؤَالِهِ وَالِى سؤَالِهِ: جواب دینا۔ کہا جاتا ہے
”اَجَابَهُ اِلَى حَاجَتِهِ“ اس کی حاجت پوری
کرنے کے لیے خوشی سے آگے بڑھا۔ وَاَجَابَتْ
الارض: آگاتا۔

تَجَاوَبْنَا: ایک دوسرے کو جواب دینا۔ یا ہم
گفتگو کرنا۔

اِنجَاب: الثوب: پھینا۔ السحابة:
کھل جانا۔

اِنجَاب: البلاد: طے کرنا۔ الصخره:
چٹان کو تراشنا۔ البئر: کھودنا۔
القميص: پھینا۔

اِسْتَجَابَهُ وَاِسْتَجَابَ لَهُ اِسْتِجَابَةً
وَاِسْتَجَوَّبَهُ وَاِسْتَجَوَّبَ لَهُ اِسْتِجَوَابًا: جواب
دینا۔ اللہ فلانا ولفلان ومن فلان: دعا
قبول کرنا۔

الجَوَّب: من: عورت کی قمیص۔ بڑا ڈول۔
انگلیشی: ج: اَجْوَاب () وَاِمِجْوَاب
ڈھال۔

الجَوْنَةُ: بڑھا۔ گھروں کے درمیان خالی جگہ۔
ج: جَوْب۔

الجَوَاب: جواب۔ ج: اَجْوَبَةٌ وَاِجْوَابَات۔
العجابه: قیولیت۔ کہا جاتا ہے ”اَسَاءَ سَمْعًا
فَاَسَاءَ جَابَةً“ اس نے بڑے طریقے سے سناور
بڑے طریقے سے قبول کیا۔

الجَوَاب: بنت طے کرنے والا۔ حریری کا قول
ہے ”جَوَابٌ اَفَاقِي تَوَامَتْ مَسْفُوتُهُ“ اَفَاقِ کو
طے کرنے والا ہے اس کا سفر اس کو پھینکتا رہتا

الجَهْوَالُ: نا تجربہ کار جلال۔ ج: جَهْلَاء۔
المِجْهَلُ وَاَلْمِجْهَلَةُ: انگاری بلانے کی
لکڑی۔ کرہ۔ بلٹی۔

المِجْهَلَةُ: سبب نادانی۔

المِجْهَلُ: بغیر نشان کا جنگل۔ ج: مِجَابِل۔
المِجَابِل: نادانیاں۔ واحد مِجَال۔ اور اسی سے
ہے ”اِنَّا لَنُصَفِّحُ عَنْ مِجَابِلِ قَوْمِنَا“ ہم اپنی قوم
کی نادانوں سے درگزر کرتے ہیں (الفعل
المجہول): فعل جس کا ماضی معلوم نہ ہو۔ ناقہ
(مِجْهُولَةٌ) بے داغ والی اونٹنی۔

جَهْمٌ (ک) جَهَامَةٌ وَاَلْجُهْمَةُ: ترشرد ہونا۔
تیوری پڑھانا۔ صفت (جہم)

جَهْمَةٌ وَاَلْجُهْمَةُ (ف س) جَهْمًا وَاَلْجُهْمَةَ
وَالْجُهْمُ لَه: ترشروٹی سے پیش آتا۔ کہا جاتا ہے
”جَهْمَةٌ اَمْلَةٌ“ جبکہ اپنی آرزو میں کامیاب نہ
ہو۔

اَجْهَمَ: الجَوُّ: بے بارش کے ہاؤں والا ہونا۔
اِجْتَهَمَ: رات کی آخری چوتھائی کی ابتدا میں
داخل ہونا یا چلنا۔

الجُهْمَةُ وَاَلْجُهْمَةُ: رات کے آخری حصوں
کی ابتداء۔ الجُهْمَةُ: بڑی دیگ۔
الجُهْمُ وَاَلْجُهْمُومُ: عاجز و ضعیف۔ الجُهْمُ:
شیر۔

الجُهْم: بے بارش کا ہاؤں۔

الجُهْمَان: زعفران۔

جَهْن (ن) جَهْوْنَا: قریب ہونا۔

الجَهْن: ترش روٹی۔

جَارِبَةٌ جُهَانَةٌ: نوجوان لڑکی۔

جَهْمٌ: روزخ (غیر مصرف)

جَهْمِي (س) جَهْمَا: البيت: اُجَاڑ ہونا۔ ویران
ہونا۔ صفت (جَاو)

جَهْمِي: الجُرْح: کشادہ کرنا۔

جَاهِي مَجَاهَاةً: فَلَانًا: فخر میں مقابلہ کرنا۔

اَجْهَى اِجْهَاءً: الطريق: واضح ہونا۔
السَّمَاءُ: ہاؤں کھل جانا۔ علیہ: کھل کرنا

الطريق: واضح کرنا۔ البيت: بے پردہ
بنانا۔ المرأة علی زوجها: حاملہ نہ ہونا۔

الْاَجْهِي: مَجْحَا () وَاَلْمَجْهِي: من

فراہ کرنا۔ ”اَجْهَشْتِ النَفْسَ“ اَلْمَتَا۔
اَجْهَشَةٌ: جلدی کرنا۔

الجَهْشَةُ: اَنَسُو () وَاَلْجَاهِشَةُ)
لوگوں کی جماعت۔

الجَهْوَشُ: تیز رفتار۔

جَهْضَةٌ (ف) جَهْضًا: غالب ہونا۔ عن
کذا: دور کرنا۔ منع کرنا۔

اَجْهَضَهُ: عن الامر: دور کرنا۔ علیحدہ کرنا
_____ عن مکانہ: اَمْتًا _____ فَلَانًا: پھسلانا۔

اَجْهَضَتِ الْمَرْأَةُ: حمل گرا دینا۔

جَاهِضَةٌ: بازرگنا۔ جلدی کرنا۔

الجَاهِضُ: تیز طبیعت۔ مؤنث (جَاهِضَةٌ)
ج: جَوَاهِضُ۔

الجَاهِضَةُ: گدھے کا ایک سالہ مادہ پیتہ۔

الجَهْوُضَةُ وَاَلْجَهَاضَةُ: تیزی طبیعت
الجَهْضُ وَاَلْمَجْهَضُ وَاَلْجَهْضُ: ساقط
شدہ پیتہ۔

الجَهَاضَةُ: غمزدہ مادہ حیوانات۔

المِجْهَاضُ: من الاناث: اسقاط کی عادت
والی عورت۔ ج: مِجَاهِضِيص۔

جَهْلٌ (س) جَهْلًا وَاَلْجَهَالَةُ: نہ جاننا۔ اَن پڑھ
ہونا۔ _____ علیہ: بیوقوف بننا۔ بیوقوف ہونا۔ اُجْهَدُ

پن کرنا۔ صفت (جاہل) ج: جَهْلٌ وَاَلْجَهَالُ
وَاَلْجَهَالَةُ وَاَلْجَهْلُ وَاَلْجَهْلَةُ: جَهْلٌ
الْحَقُّ: ضائع کرنا۔ جَهْلَتِ الْقِدْرُ: بَست ایلنا۔
جَهْلَةٌ: جہل کی نسبت کرنا۔

جَاهِلَةٌ: نادانی میں مقابلہ کرنا۔ بدسلوکی کرنا۔
اور اسی سے ہے ”رَايْتُ مِنْهُمَا مَجَاهِلَةً ثُمَّ

اِنْقَلَبْتُ مَجَاهِلَةً“ میں نے ان دونوں سے
خوش معاملگی دیکھی پھر وہ بد معاملگی ہو گئی۔

تَجَاهَلٌ: بکلف نادانی ظاہر کرنا۔

اِسْتَجْهَلْتُ: جَاهِلٌ کَیْمًا۔ حقیر سمجھنا۔
”اِسْتَجْهَلْتُ الرِّيحَ الْعَصْنَ“ ہلانا۔

الجَهْلَةُ: نادانی۔

الْجَاهِلِيَّةُ: نادانی کی حالت۔ نلک عرب میں
اسلام سے پہلے کی بت پرستی۔ جاہلیت کا اطلاق
عرب کے اُن احوال پر ہے جو اسلام سے پہلے
تھے۔

وَأَجَاوِدُ وَجُودٌ وَجُودَةٌ وَجُودَاءٌ۔ فرس
جَوَادٌ: تیز رفتار گھوڑا۔ جِ جَوَادٌ وَأَجْوَادٌ
وَأَجَاوِيدٌ کہا جاتا ہے "سبڑتُ إِلَيْهِ جَوَادًا" میں
اس کی طرف دوڑتا ہوا چلا۔ "وَسَبْرًا عَقِبَةً
جَوَادًا وَعَقِبَتَيْنِ جَوَادَتَيْنِ وَعَقَابًا جَوَادًا" ہم
ذور کی گھاٹی یادو گھاٹی یا گھاٹیوں پر چلے۔
الجَوَادُ: بیانیاض۔
الْأَجْوَدُ: اسم تفضیل۔ مؤنث جَوْدَاءُ
(خلاف قیاس) جِ جَوْدُوٌّ وَأَجْوَادِيدُ۔
الجَوَادِيُّ: زعفران۔
التَّجْوِيدُ: فی القِرَاءَةِ: قواعدُ فُنِّ قِرَاءَتِ
مطابق پڑھنا۔
التَّجَاوِيدُ: مفید بارشیں (جمع ہے اس کا واحد
نہیں)
رجلٌ أو شاعرٌ (مُجَوِّدٌ وَمَجْوَدٌ) عمدہ کام
کرنے والا مرد۔ جید اشعار کہنے والا شاعر۔
المَجْوُودُ: پیاسا قریب ہلاکت۔
الجَوْدِيُّ: کبیل۔
جَاوِدٌ (ن) جَوْرًا۔ عن الشَّيْءِ: ہٹ جانا۔ کہا
جاتا ہے "جَاوِدٌ عَنِ الْمَطْرِقِ" وہ راستہ سے ہٹ
گیا۔ علم: ہٹ کرنا۔ صفت (جائز) جِ
جَوْرَةٌ وَجَوْرَةٌ وَجَوْرَةٌ (جَوْرًا) فریاد
رسی پانا۔
جَوْرَةٌ: ظلم کی طرف منسوب کرنا۔ پچھاڑنا۔
جَوْرُ الْبِنَاءِ: گرا دینا۔
جَاوِرٌ مُجَاوِرَةٌ وَجَوَافًا وَجَوَازًا: پڑوس
میں رہنا۔ المسجِدُ: اختلاف کرنا۔
أَجَاوِرَةٌ إِجَارَةٌ۔ من العذاب: پچانا۔ پچھڑانا۔
پناہ دینا۔ فلَانًا: فریاد رسی کرنا۔ ہ عن کلمًا:
ہنا دینا۔ المتاع: حفاظت کے لیے برتن
میں رکھنا۔
تَجَوَّرَ: الزَّجْلُ: پچھاڑ جانا۔ علی
الفراس: پہلو پر لیٹنا۔ البناء: گرجانا۔ کہا
جاتا ہے "تَجَوَّرَ عِبَادُ اللَّيْلِ" یعنی تاریکی چھٹ
گئی۔
تَجَاوَرٌ وَاجْتَوَرٌ۔ القَوْمُ: ایک دوسرے


إِلَى لاجاد الی لقانک" میں تمہاری ملاقات کا
مشتاق ہوں (جَوْدًا وَجَوْرًا) العین:
بنت آنسوؤں والی ہونا۔ المطر: بنت
بارش ہونا۔ صفت (جائز) جِ جَوْدُ۔
جِوْدَتُ۔ الارض: زمین پر کثیر بارش ہونا۔
جِوْدَةُ الزَّجْلِ: ہلاکت کے قریب ہونا۔ پیاسا ہونا۔
جَوْدُ۔ الشئ: خوبصورت بنانا۔ عمدہ بنانا۔
فی عدوہ: تیز دوڑنا۔ القارئ: فُنِّ تجوید
کے لحاظ سے پڑھنا۔
جَاوِدَةٌ مُجَاوِدَةٌ: بخشش کرنے پر فخر کرنے
میں مقابلہ کرنا۔
أَجَادَ: اچھا بنانا۔ بالولد: فیاض بچہ کا باپ
ہونا۔ أَجَادَةُ النِّقْدِ: کھرنے کے دینا۔ (۔
وَأَجْوَدُ) الشئ: عمدہ بنانا۔ أَجَادَ الرَّجُلُ: قتل
کرنا۔ أَجَادَتِ الْأَرْضُ: زمین پر کثیر بارش ہونا۔
تَجَوَّدَ: عمدہ چیز کا انتخاب کرنا۔ فی
صنعتہ: صنعت میں عمدگی سے کام کرنا۔
تَجَاوَدَ۔ القَوْمُ: یہ دیکھنا کہ حجت کے لحاظ سے
کون بہتر ہے۔ کہا جاتا ہے "ہم يَتَجَاوَدُونَ
الْحَدِيثَ" وہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کے لحاظ سے
کون بہتر ہے۔
إِسْتَجَادَهُ: عمدہ سمجھنا۔ اسْتَجَادَ الْأَمِيرُ:
بخشش طلب کرنا۔
الجَادُ: باطل۔ کہا جاتا ہے "وقموا فی ابی
جاد" وہ لوگ باطل میں چلا ہو گئے۔
الجَوْدُ: بھوک۔
الجَوْدُ۔ م۔ الجَوْدُ وَالْمَطَرُ الجَوْدُ: بنت
بارش۔
الجَوْدَةُ الجَوَادَةُ: پیاس۔
الجَوَادُ: پیاس کا انتہائی مرتبہ جو باعث ہلاکت
ہو۔
الجَوْدُ: عمدہ۔ جِ جَوَادُ۔ و جِ جَوَادَاتُ وَ
جَوَادَاتُ (جَوَادَاتُ) اصل میں جَوَادُ ہے۔ واو کو ہمزہ
سے بدل لیا گیا ہے اور یہ شاذ ہے)
الجَوَادُ: فُنِّ (تذکرہ مؤنث) کہا جاتا ہے رجُلٌ
جَوَادٌ وَامْرَأَةٌ جَوَادَةٌ۔ جِ أَجْوَادٌ وَأَجَاوِيدٌ

ہے۔
الجَوْدَةُ: جواب کی کیفیت۔
المَجَالِبُ نَا۔ جَائِبُ الْعَيْنِ: شہر۔
الجَوَائِبُ: پھیلنے والی خبر۔ کہا جاتا ہے۔ "هَلْ
عندک من جَائِبَةِ خَبْرٍ" کیا تمہارے نزدیک
کوئی ایسی خبر ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں
نقل ہوتے ہوئے تمہارے پاس پہنچی ہو۔
المَجْوُودَةُ: جواب۔
المَجْوُوبُ: بڑھال۔
المَجْوُوبُ: پھاڑنے والا۔
جَوْتُ (س) جَوْرًا: اوپر سے بڑے اور نیچے
سے لگے ہوئے بیٹ والا ہونا۔ صفت (أَجْوَتْ)
مؤنث جَوْرًا جِ جَوْتُ۔
الجَوْتُ وَالْمَجْوُودَةُ: بکری کا وجہ۔
جَاخٌ (ن) جَوْحًا: راہ راست سے ہٹ جانا
(جَاخَهُ جَوْحًا وَجَاخَهُ وَأَجَاخَهُ وَاجْتَاخَهُ)
جز سے اُکھیرنا۔ ہلاک کرنا۔
الجَوَائِحُ: بلا۔ ہلاکت۔ بڑی مصیبت۔ سنہ
جائحہ: خشک سال۔ جِ جَائِحَاتُ وَجَوَائِحُ
الْأَجْوَحُ: کشادہ۔ مؤنث جَوْحَاءُ۔ جِ جَوْحُ
الجَوْحُ: تیز۔
الجَوْحَةُ: فُنِّ مصیبت۔
جَاخٌ (ن) جَوْحًا وَجَوْحًا: السبیل
الوادی: کناروں کو ہمالے جانا۔ جَوْحَهُ:
پچھاڑنا۔ اُکھیرنا۔
تَجَوَّحَ: پچھاڑ جانا۔ اُکھیرنا۔ تَجَوَّحَتِ الْبِئْسُ:
گرجانا۔ الفرحَةُ: زخم کا پھڑکا اور برہ پڑنا۔
الجَوْحُ: اون کا پناہ ہوا کپڑا۔ جِ أَجْوَاخُ۔
الجَوْحَةُ: اولی کپڑے کا ٹکڑا۔ گڑھا۔
جَادٌ (ن) جَوْدَةٌ وَجَوْدَةٌ: عمدہ ہونا۔ اچھا بنانا۔
(۔ جَوْدٌ وَأَجْوَدٌ) الفرس: تیز رفتار
ہو۔
جَادَةٌ (ن) جَوْدًا: بخشش میں غالب ہونا
۔ ہ الهوی: غالب ہونا۔ (۔ جَوْدًا)
علیہ: بخشش کرنا۔ صفت جَوَادٌ۔ بالمعال:
خرچ کرنا۔ بنفسیہ: جان دینا۔ کہا جاتا ہے

<p>جَوْلَةٌ: بکلت کھانے کے بعد حملہ کرنا۔ جَوْلُ الْأَرْضِ: زمین میں بہت پکڑ لگانا۔</p>	<p>تَجَوَّفٌ: کھوکھلا ہونا۔ (تَجَوَّفَهُ وَاجْتَأَفَهُ) جوف میں داخل ہونا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ الوحشی کناسہ و تَجَوَّفَهُ" وحشی جانور اپنے بھٹ میں داخل ہو گیا۔</p>	<p>جوش من الليل "رات کا گلا حصد یا کچھ حصہ گزر گیا۔</p>
<p>جَاوِلَةٌ مُجَاوِلَةٌ: ایک دوسرے کو دھکنارنا۔ ایک دوسرے کو ہٹانا۔</p>	<p>اجْتَأَفَ: اِسْتَجَوَّفَ و اِسْتَجَوَّفَ: اِسْتَجَأَفَ الشَّيْءُ: کشارہ ہونا۔ الشَّيْءُ: کھوکھلا پانا۔</p>	<p>الجَوْشَنُ: سینہ۔ زرہ ___ من الليل: رات کا وسط یا ابتدائی حصہ۔ ج جَوَّاشِنُ۔</p>
<p>أَجَالٌ۔ الشَّنُّ وَبِ الشَّنِّ: گھمانا۔ السَّيْفُ: کتوارے کیلئے اور ادھر ادھر گھمانا۔</p>	<p>الجَوَّفُ۔ م۔ بیٹ ___ من البيت: اندرونی حصہ۔ ج أجواف۔</p>	<p>جَاوِلًا (ن) جَوَّوِلًا وَجَوَّوِلًا: کبیر سے چلنا۔ جَوَّوِلٌ: نوج ہونا بے مبر ہونا۔ (وَجَوَّوِلٌ): کوشش کرنا۔</p>
<p>تَجَاوَلٌ۔ القَوْمُ فِي الحَرْبِ: ایک دوسرے کے مقابلہ میں پکڑ لگانا۔</p>	<p>الجَوَّفُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>الجَوَّوِلُ: کبیر سے چلنے والا۔ اجو۔ بخت کھانے والا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا: گھومنا ___ القوم: ارادہ سے پھیرنا ___ مِنْهُمْ جَوْلًا: پسند کرنا ___ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>الجَوَّوِلَةُ: بمعنی جَوَّوِلٌ۔ تاہم لفظ کے لیے ہے۔</p>
<p>اجْتَأَفَ۔ العَبَازُ بِلِنْدٍ وَهَوَّارٍ وَجَمَلًا۔ اِسْتَجَأَفَ اِسْتَجَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِلًا (ن) جَوَّوِعًا وَجَوَّوِعًا: بھوکا ہونا۔ صفت (جَوَّوِعَانٌ وَجَوَّوِعَانٌ) مَوْتٌ جَوَّوِعًا وَجَوَّوِعِيًّا جَوَّوِعًا وَجَوَّوِعٌ ___ اليه: مشتاق ہونا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>
<p>اجْتَأَفَ اجْتَأَفًا۔ اَمَوَالَهُمْ: لے جانا۔ الجَوَّوِلُ۔ م۔ گھونڈوں یا چمبایوں کا لگا۔ رشی۔ ج أجواف (___ والجَوَّوِلُ) مٹی جس کو ہوا رخ زمین پر ادھر ادھر کرے۔</p>	<p>الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔ الجَوَّافُ۔ م۔ کشارگی۔</p>	<p>جَوَّوِعًا تَجَوَّوِعًا وَاجْتَأَفًا اجْتَأَفًا: بھوکا رکھنا۔ خوراک روکنا۔ کہا جاتا ہے "اجْتَأَفَ قَلْبُهُ" اس نے اس کی ہانڈی کو نہیں ہیرا۔</p>

<p>جَبَب: الْقَبِيضُ: گریبان بنانا۔ الجبب - من القميص: گریبان۔ دل وسینہ۔ کہا جاتا ہے "ناصح الجبب" امین وصارق جبب الارض: زمین میں داخل ہونے کی جگہ۔ ج۔ جیؤب۔ الجبب والجببیتہ۔ عند العوام: حیل۔ پاکت۔ ج۔ جیباب۔ جباخ یجیبخ جبحنا۔ السبل الوادی: کناروں کو بہا لے جانا۔ جبادو جید یجبادو جیدنا: خوبصورت اور لمبی گردن والا ہونا۔ صفت (أجید) مؤنث جیداء و جیدانة۔ ج۔ جیؤد۔ اور کبھی جید گردن کی صفت میں بھی واقع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "عنق أجید" الجبید: گردن۔ ج۔ جیؤاد و جیؤد۔ جیحیر۔ الحوض: گچ کرنا۔ جیحیر: حزیب ايجاب بمعنی نعم۔ یعنی ہاں۔ العیشر: گچ۔ الجیحار: بے بجا چرند۔ (____ والجالیر) غضہ یا بھوک کی وجہ سے سینہ کی سوزش۔ حوض (مخیر) گچ کیا ہوا حوض۔ گمراہ حوض۔ جیاشٹ (ض) جیشا و جیشاٹا و جیؤشا۔ القدز: ابلنا۔ البعز: جوش مارنا۔ الصدز: غصہ سے جوش میں آنا۔ الحرب یتنهيم: گھسان کی جگہ شروع ہونا۔ العین: آنسو بہانا۔ الوادی: موج مارنا۔ المیزاب: پرنالہ کا خوب اچھی طرح بہ پڑنا۔ النفس: بی حلائیہ۔ نفس العیبان: بھاگنے کا ارادہ کرنا۔ جیشش۔ الخیوش: فوجوں کو جمع کرنا۔ تجیشش۔ القوم: اکٹھا ہونا۔ تجیشش نفسہ: بی حلائیہ۔ استجاشش۔ الجیشش: جمع کرنا۔ الامیز: امیر سے مدد اور لشکر طلب کرنا۔ القوم: مدد دینے پر برا بیعت کرنا۔ الجائشة: نس۔ الجیششة۔ جاش کلام مؤنث۔ ج۔ جیششات۔</p>	<p>وادی۔ کشادہ میدان۔ جؤ النیت: گھر کا اندرونی حصہ جؤ الماء: زمین کا وہ حصہ جو پانی کے لیے کھودا جائے۔ جؤ کل شیئ: اندرونی حصہ۔ ج۔ جؤاء و آجؤاء۔ الجؤائی۔ جؤ کی جانب منسوب۔ اس کا تعین پڑاتی ہے۔ دیکھئے لفظ پڑائی۔ الجؤة: ملک کا بیوند۔ زمین کا سخت ٹکڑا۔ پہاڑ وغیرہ کا گڑھا۔ لوہے کا رنگ۔ گندم گوں رنگ۔ جؤی (س) جؤی: حشش یا تم کی وجہ سے جلن لاحق ہونا۔ الماء: بدبودار ہونا۔ الشئی: ناپسند کرنا۔ جؤیت نفسہ من البلد عن البلد: ناواقف ہونا۔ جؤوی فجؤاة۔ لابل لابل پانی پر بلانا۔ اجئوی۔ البلد: اقامت ناپسند کرنا۔ (____ وامتجئوی) الطعام: ناپسند کرنا۔ الجؤوی۔ سہ: تم یا حشش کی وجہ سے سوزش سینہ کا ایک مرض۔ مرض کی طوالت۔ جملائے سوزش حشش۔ الجؤاء۔ کشادہ وادی۔ زمین کا اندرونی حصہ۔ چرواہے کا تھیلا۔ وہ چیز جس پر ہانڈی رکھی جائے۔ الجؤوی: بدبودار۔ عاشق۔ جملائے سوزش حشش۔ الجؤوی: جگہ دل۔ مؤنث جؤیة۔ الجؤیة: پانی وغیرہ جبکہ بدبودار ہو جائے۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ ج۔ جیؤ۔ جاء یجین ویجؤء متجینا و متجینة و جینا وجینة۔ آنا۔ یہ۔ لانا۔ جاء ء و جاء الیہ۔ آنا۔ الشئی: صفت (جاء) مؤنث جانیة جآئی و جآیائی فجئنة: کثرت آمد میں متاثر کرنا۔ أجاء ء لانا۔ آنے کو لازم و ضروری ٹھہرانا۔ الجؤئنة۔ سہ۔ ایک مرتبہ کی آمد۔ پیپ و خون۔ کھڑا جس سے جوندہ بیوند لگایا جائے۔ الجؤیة: آنا۔ ج۔ جیات۔ جآب (ض) جیتبا۔ البلاد: طے کرنا القمیص: گریبان بنانا۔</p>	<p>جاء (ن) جؤفا: اچھی یا بُری چیز کا طلب کرنا۔ العجم: پیالہ۔ ج۔ جیامات و آجؤام و آجؤم و جؤم۔ الجؤیمة: جام کی تصویر۔ جان (ن) جؤفا: کالا ہونا۔ تجؤن۔ باب العروس: دولہن کے دروازہ پر سفیدی پھیرنا۔ باب المیت: سیاہ کرنا۔ التجؤن۔ سہ۔ سفید۔ سیاہ۔ سرخ خالص بزی جس کی بزی سیاہی مائل ہو۔ دن من الخیل والابل: بنت کالا۔ ج۔ جؤن۔ الجؤنة: غروب کے وقت کا آفتاب۔ تار کول لاہو اٹکا۔ کولتہ۔ الجؤنة: چڑے سے منظمی ہوئی نوکری۔ ج۔ جؤن۔ الجؤناء: آفتاب۔ ہانڈی۔ سیاہ اور سفید۔ الجؤئی: ظاہر اندہ کی ایک قسم جس کا سینہ اور بازو کالا ہوتا ہے۔ جآء (ن) جؤفا۔ الرجل بالمکروه: ناپسند طریقہ سے پیش آنا۔ جؤة تجؤفها و آجآة إجآة: صاحب مرتبہ بنانا۔ تجؤة: بڑا ہونا۔ تکلف پڑانا۔ الجآہ و الجآة: تدر۔ شرف۔ بندی۔ مرتبہ۔ الجؤھر: وہ چیز جو قائم بالذات ہو اور عمل کا تحتاج نہ ہو۔ اس معنی میں یہ عرض کا مقابل ہے۔ ہر وہ چیز جس سے سفید چیز نکلی جائے۔ واحد (جؤھرة) ج۔ جؤاھر۔ جوہر الشئی: چیز کی اصلیت۔ جوہر السیف: کھوار کا جوہر۔ الجوہر الفرد: وہ چیز جو قابل انقسام نہ ہو۔ الجوہر العلویة: الطاک۔ ستارے۔ ارواح۔ الجؤھوی: جوہر کی جانب منسوب۔ لازم و ضروری۔ اس معنی کے لحاظ سے اس کا مقابل عرض ہے۔ جوہر کلیمان والاور بیچنے والا۔ جؤی تجؤیة۔ السقاء: جگہ میں بیوند لگانا۔ الجؤ: آسمان و زمین کا درمیانی حصہ۔ کشادہ</p>
--	--	--

<p>الجینل: لوگوں کا ایک گروہ۔ صدی۔ ایک زمانہ کے لوگ۔ ج۔ اخیال و خیالان۔</p> <p>الجینلم: چاند۔</p> <p>الجینہو: ایک قسم کی کھس۔</p> <p>الجینہل و الجینہلہ: انگارہ ہلانے کی کڑی۔</p> <p>کرمانی۔ صفحۃ الجینہل: بڑا پتھر۔</p> <p>الجینم: حروفِ ہجاء کا پانچواں حرف۔ (فد کرو مؤنث) ایک قسم کا ریشی کپڑا۔</p>	<p>صفت (جیاط) بحملہ: بوجھل پانا۔</p> <p>الجینقر: بحر۔</p> <p>الجینعم: بحر کا۔</p> <p>جافت (ض) جینفا و جینقت و تینقت و اجتافت و انجافت۔ الجفہ: بدروار ہونا۔</p> <p>الجینفہ: میت کا بدروار ہونا۔ ج جینف و انجاف۔</p> <p>الجینقر: قوی شیر۔</p> <p>جینفل: نام ماہزی القعدہ۔</p>	<p>الجینش: مد: لکھنوج جیوش۔</p> <p>الجینش: ایک قسم کی لمبی نباتات کا نام ہے۔</p> <p>الجیناش: متحرک و مضطرب۔</p> <p>جاص (ض) جینضاً و جینضاً تینضاً۔</p> <p>عہ: منحرف ہونا۔ ہٹ جانا۔</p> <p>جالتضہ: نخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔</p> <p>الجینضہ: دائیں بائیں جھکاؤ۔</p> <p>الجینض و الجینضی: تکبیر و غرور کی مجال۔</p> <p>جاط (ض) جینطاناً: چلنے میں تکبر کرنا۔</p>
--	---	--



حَبَّةُ (ض) حَبًّا وَجَبًّا. — أَلْسُنٌ : رغبت کرتا۔

حَبِّ (س) حَبِّبَ (ك) إِلَيْهِ : محبوب ہونا۔
حَبِيْبَةٌ : النِّسَاءُ : محبوب بنانا۔ اور کہا جاتا ہے
”حَبِيْبِيْ إِلَيَّاهُ“ اس نے مجھ کو اس کا محبوب بنایا۔
حَبِّبَ الْقُرْبِيَّةَ : بھرتا (حَبِّبَ وَأَحَبَّ) الزَّرْعُ :
دانے دار ہونا۔

حَابَهُ مَحَابَةً وَجَبَاتًا : ہام رغبت کرتا۔ رغبت
ظاہر کرتا۔

أَحَبَّهُ : رغبت کرتا۔ یہ حب سے زیادہ مستعمل
ہے۔ صفت قاطعی۔ (مُحِبِّبٌ) اور صفت مفعولی
(مُحَبِّبٌ وَمُحَبَّبٌ)

تَحَبَّبَ : إِلَيْهِ : رغبت و دوستی ظاہر کرتا۔
تَحَبَّبَ مِنَ الشَّرَابِ : بھرنے سے ٹھکے کی مانند
پھول جانا۔

تَحَابَ : الْقَوْمُ : ایک دوسرے سے رغبت
کرتا۔

إِسْتَحَبَّهُ : رغبت کرتا۔ اچھا سمجھنا۔ کہا جاتا ہے
”إِسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيْمَانِ“ اس نے کفر
کو ایمان پر فضیلت دی۔

الْحَبُّ ج حَبُّوْبٌ وَحَبَّانٌ : دانہ۔ واحد
(حَبَّةٌ) ج حَبَّاتٌ : حَبُّ الْعَصَامِ : اولہ۔ حبة
الْقَلْبِ : دل کا دانہ یا روح۔ الْحَبَّةُ : دو (۲) جو
کے برابر ایک وزن کا نام۔ دینار کا سولہواں حصہ۔
الْحَبَّةُ الْخَضْرَاءُ : بُن (ایک دو کا نام) الْحَبَّةُ
السَّوْدَاءُ : کلونگی۔

الْمَحَبَّةُ : مرغوب چیز کی طرف طبیعت کا
میلان۔

الْحَبِّبُ : مہ : دوست۔ عاشق۔ محبوب۔ ج
أَحْبَابٌ وَحَبَّانٌ وَحَبِيْبَةٌ وَحُبٌّ وَحُبُوْبٌ۔

الْحَبُّبُ : مہ : بڑا گڑا یا مٹکا۔ ج حَبَابٌ وَحَبِيْبَةٌ
وَأَحْبَابٌ۔

الْحَبِيْبَةُ : انگور کا بیج۔ معشوق۔ معشوقہ۔ ج حَبِيْبٌ۔
کہا جاتا ہے ”هَذَا حَبِيْبُكَ“ یہ وہ چیز ہے جس کا دل
جانا تمہیں محبوب ہے۔ ”وَنَعْمَ وَحَبِيْبَةٌ وَكِرَامَةٌ“
جیسا کہ کہا جاتا ہے ”حَبَابٌ وَكِرَامَةٌ“

الْحَبِيْبُ : دانوں کی ہمواری۔ () —
وَالْحَبَابُ : بلبہ۔ حَبَّبَ الْمَاءَ أَوْ الرَّمْلَ وَ
جَبَبَهُ : پانی یا ریت کا بڑا حصہ۔

الْحَبِيْبَاتُ : ایتنا۔ کہا جاتا ہے۔ ”حَبَابِكُ اِنْ
تَفَعَّلَ كَذَا“ تمہاری ایتنائی کو شش یہ ہے کہ تم
ایسا کرو۔

الْحَبَابُ : دوستی۔ محبت۔ محبوب۔ سانپ۔ اُمُّ
حَبَابٍ : دنیا۔

الْحَبَابَةُ : ایک قسم کا سیاہ آبی کیزان۔ حَبَابُ
الْحَبِيْبِ : عاشق۔ معشوق۔ ج أَحْبَابٌ وَأَحْبَاءُ
وَأَحْبَابٌ۔ اَبُو حَبِيْبٍ : بھتا ہوا بکری کا بیچہ۔ اُمُّ
حَبِيْبٍ : برگٹ۔

الْحَبَابُ : حب : کا اسم مبالغہ : گھڑوں اور
مٹکوں کا بنانے والا۔ یا بیچنے والا۔

الْمَحَبَّةُ : ۔ فا۔ کہا جاتا ہے ”إِمْرَأَةٌ مَحَبَّةٌ
لِزَوْجِهَا وَمَحَبَّةٌ لَّهُ“

اُمُّ مَحَبُّوْبٍ : سانپ۔
الْمَحَبُّوْرُ : لومڑی، گھٹے بدن کا پستہ۔ قد۔ ج
حَبَابِيْرٌ

الْحَبِيْبَةُ : کل یا زنج ہونے کی وجہ سے تنگ
دلی۔

الْحَبِيْبُكَ وَالْحَبِيْبَاتِكُ : کہہ۔
الْمَحَبُّوْلُ وَالْمَحَبُّوْلَاتُ : کم ہوش۔
الْحَبِيْبُ : ایک قسم کا سانپ جس کی دم نہیں

ہوتی۔

حَبِيْبُهُ (ض) حَبِيْبًا۔ بِالْعَصَاءِ : لاشعری سے
مارنا۔ () — وَأَحْبَابُ (الْأَمْرُ) : اچانک ظاہر ہونا۔
قريب ہونا۔ ظاہر ہونا۔

حَبِيْبٌ (س) حَبِيْبًا وَحَبِيْبٌ (ف) حَبَابًا :
سوچے ہوئے بیٹ والا ہونا۔ صفت (حَبِيْبٌ)

الْحَبِيْبُ : مہ : بیگلیاں جو سدہ کی شکل میں ہو
جائیں۔ اُونٹ کی کمر کا داغ۔

الْحَبِيْبُ : لوگوں کا گروہ۔ لوگوں کے جمع ہونے
کی جگہ۔

حَبَبَتْ حَبِيْبَتَهُ الْمَاءُ : پانی کا آہستہ بہنا۔
النَّازُ : آگ جھڑکانا۔

الْحَبَبَاتُ : پستہ۔ بد نما۔ بد شکل۔
حَبَابٌ۔

الْحَبَابُ : اُمُّ حَبَابٍ وَ اُمُّ حَبَابٍ : جگنو۔ وہ چیز جو
جگنو کی دم میں آگ کی مانند گھلائی رہے۔ اور اسی

سے نازِ الْحَبَابِ ہے جس کو ضعف و کمزوری
میں بطور مرض کے استعمال کرتے ہیں۔ نازِ

الْحَبَابِ : چنگاری جو گھوڑے کے مہ سے پھڑ
وغیرہ پر ٹھوکر گرنے سے نکلے۔

الْمَحَبَّةُ : بد غذا۔
الْحَبِيْبَةُ : تیزوزن۔ حَبِيْبٌ۔

الْحَبَابُ : گھٹے بدن کا پستہ۔ قد۔
حَبَبًا : حَبٌّ اور ذَا اِسْمِ اِمْرَاةٍ سے مرکب

کلمہ ہے جو مدح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور
ہر صورت میں یہی معنی بولا جاتا ہے۔ (حَبَبَةٌ)

کسی سے ”حَبَبًا“ کہنا۔
حَبِيْرٌ (ن) حَبِيْرًا : الشَّقِيُّ : مزین کرتا۔ منتقل
کرتا۔

حَبِيْرَةٌ (ن) حَبِيْرًا وَحَبِيْرَةٌ وَحَبِيْرَةٌ : خوش

الحَبَائِسُ: أوْثٌ، جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھری میں باندھ کر رکھے جائیں۔ امور خیر میں وقف شدہ چیز (حبیسہ) کی جمع ہے۔
 الحَبِيسُ: قیدی — من العَیْلِ: جملہ کے لیے وقف شدہ گھوڑا۔ ج حبس دینا سے بے تعلق آدمی۔ ج حبساء
 الحَبِيسَةُ: قید خانہ۔ عابدوں زاہدوں کے رہنے کی جگہ ج حبسائیس۔
 حَبَسَ (ن) حَبَسًا وَ حَبَاسَةً حَبَسَ وَ اِحْتَبَسَ الشَّيْءُ: جمع کرنا۔
 اَحْتَبَسَتِ المَراةُ: جمعی پختہ بنا۔
 تَحَبَسَ القومُ: اکٹھا ہوا۔
 الحَبَاسَةُ ج حَبَاسَاتٍ وَ (الأَحْبُوسُ) وَ الأَحْبُوسَةُ ج أَحْبَاسٍ: مختلف قبیلوں کے لوگ۔
 الحَبَشِ وَ الحَبَشَةُ: نلک جش کا بشہ واحد (حَبَشِي) ج حَبَشَانٌ۔ الحَبَشَةُ: نلک جش جس کو آج کل ابی سینیا کہتے ہیں۔
 الحَبَشِيَّةُ: سخت کالا اونٹ۔ سیاہ رنگ کی بڑی چوٹی۔
 الحَبَاشِيَّةُ: عقاب۔
 الأَحْبَسُ: جمعی۔ ج أَحْبَاسٍ۔
 الحَبَشَانُ: بڑی کی ایک قسم۔
 حَبَسَ (ض) حَبَسًا وَ حَبِصًا (س) حَبِصًا۔ القلبُ: دل کا سخت دھڑکنے کے بعد ساکن ہونا۔
 الزَّجَلُ: مرنا۔ السَّهْمُ: تیر۔ تیر کا بھینکنے والے کے سامنے ہی گرتا اور سیدھانہ جانا۔
 "لَمَّا لَانَ الوَترُ" آواز نکلنے کے لیے حرکت دینا۔
 حَبِصَ (ن) (ض) حَبِصًا۔ ماء البِشْرِ: کم ہونا۔
 حَقَقَهُ: باطل ہونا۔ السَّهْمُ: تیر کا بھینکنے والے کے سامنے ہی گرتا اور سیدھانہ جانا۔
 الغَلامُ: لوگوں کے نیک گمان کے خلاف ہونا۔
 أَحْبَصَ: حَقَقَهُ: باطل کرنا۔ البِشْرُ: پانی شرم کرنا۔
 الحَبِصُ: سہ: رگ کی تیز حرکت۔ کہا جاتا ہے "ماہہ حبص ولا نبص" یعنی اس کے اندر حرکت نہیں۔

جموٹ۔
 الحَبِيزُ ج: ایک قسم کا آبی پرندہ۔ ج حَبَاوِجُ وَ حَبَاوِجُ۔
 الحَبَاوِجُ: زرشراب۔
 الحَبِيزُ جَل: موٹے ہونٹ والا۔
 الحَبِيزُ: کینہ۔
 الحَبِيزُوفُ: بال بچوں کے لیے کمائی کرنے والا۔
 الحَبِيزُ قَس: بڑی پتی لڑکیاں۔ ڈبلے پتلے بکری کے بچے۔
 الحَبِيزُ قَس: زراونٹ۔ جموٹا اونٹ۔
 الحَبِيزُ قَص: جموٹا اونٹ۔ پست قد۔ گھٹے بدن والا۔
 الحَبِيزُ كُمِي: چمچڑی۔ غلیظ بادل۔ بتدریت۔ کہا جاتا ہے "قوم حَبِيزُ كُمِي" ہلاک شدہ قوم۔
 حَبِيزُومَةُ حَبِيزُومَةُ: اتار کے دانوں کا رس نکالنا۔
 المَحَبِيزُومُ: اتار کے دانوں کا رس۔
 حَبِيسَهُ (ض) حَبِيسًا وَ مَحَبِيسًا: قید کرنا۔
 عَنِ الشَّيْءِ: روکنا۔ الشَّيْءُ: پورے طریقے سے حفاظت کرنا۔ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ڈھانپنا یا احاطہ کرنا۔ المالُ عَلَي كَذَا: وقف کرنا۔
 أَحْبَسَ وَ حَبَسَ: المالُ: اللہ کے راستہ میں وقف کرنا۔
 حَابِسَةٌ مَحَابِسَةٌ: روک رکھنا۔
 تَحَبَسَ وَ اِحْتَبَسَ: فِي الكَلَامِ: رک جانا۔
 عَلِي كَذَا: محدود رکھنا۔ و اِحْتَبَسَهُ: روک رکھنا (لازم و متعدی) اِحْتَبَسَ الرَّجُلُ: قیدی بنانا۔
 الحَبَسُ: ج حَبُوسٍ وَ (المَحْبِسُ) ج مَحَابِسٍ: قید خانہ۔
 الحَبِيسُ: پنگ پوش۔ وہ لکڑی یا پتھر جو پانی کے بہاؤ کے روکنے کے لیے رکھا جائے ج أَحْبَاسُ۔
 الحَبِيسُ: واحد حَبَائِسٍ وَ (الحَبِيسُ) واحد حَبِيسٍ: یا حَبِيسٍ: بنیادے۔ وقف شدہ چیز۔
 الحَبِيسَةُ: ہنگو کرنے میں دشواری۔
 الحَابِيسَةُ: الحَابِيسُ کا مؤنث۔ اونٹ جو شریف النسل ہونے کی وجہ سے گھری میں باندھ کر رکھے جائیں۔

کرنا۔ أَحْبَرَتِ الأَرْضُ: پیداوار کا زیادہ ہونا۔
 حَبِيرٌ (س) حَبِيرٌ وَ حَبِيرًا: خوش ہونا۔ (— حَبِيرًا) الجَوْحُ: زخم کا اچھا ہونا اور کچھ اثر باقی رہنا۔ الاسنانُ: زرد ہونا۔ الارضُ: پیداوار کا زیادہ ہونا۔
 حَبِيرٌ: الدَّوَاءُ: روشنائی ڈالنا۔ الكَلَامُ: او الخطا والشعر: عمدہ بنانا۔
 حَبِيرٌ: پھوسوں کے کاٹے کا نشان والا ہونا۔
 تَحَبِيرٌ: مزین ہونا۔ عمدہ ہونا۔ المسحابُ: ظاہر ہونا اور پھیلنا۔
 الحَبِيرُ وَ الحَبِيرُ: نیک عالم۔ خوشی و نعمت الحَبِيرُ الاعظمُ: پوپ۔ یودیوں کے نزدیک کاتبوں کا سردار۔ ج أَحْبَارٌ وَ حَبِيرٌ۔ الحَبِيرُ: روشنائی، خوبصورتی۔ نقش و نگار۔ دانتوں کی زردی ج حَبِيرٌ۔ کہا جاتا ہے "فلان حسن الحَبِيرِ والسَّيْرِ" یعنی فلاں خوبصورت اچھی دانت والا ہے۔ "و فلان ليس له حَبِيرٌ" یعنی فلاں کا کوئی ٹیل و نظیر نہیں "و ذهب حَبِيرُهُ وَ سِيئُهُ" یعنی اس کی رونق و ہیئت جاتی رہی۔
 الحَبِيرُ: سہ۔ اثر۔
 الحَبِيرَةُ: مثلثة الحاء: دانتوں کی زردی۔
 الحَبِيرَةُ وَ الحَبِيرَةُ: ایک قسم کی بینی جادرج حَبِيرَاتٌ وَ حَبِيرَاتٌ وَ حَبِيرٌ۔
 الحَبِيرَةُ: خوشی۔ نعمت۔ ہر عمدہ راگ۔
 الحَبِيرُ وَ الحَبِيرُ: من الغياب: بنیاد نرم منقش چادر۔ حَبِيرٌ کی جمع حَبِيرٌ ہے۔
 الحَبَارُ: ج حَبَارَاتٌ وَ (الحَبِيرُ) ج حَبِيرٌ: وارغ۔ نشان۔ اثر۔ کہا جاتا ہے "بجَلْدِهِ حَبَارٌ الضَّرْبُ" اس کی کھال میں مار کا اثر ہے "و فِي يَدِهِ حَبَارٌ العَمَلِ" اس کے ہاتھ میں کام کرنے کا اثر ہے۔
 المِخْبَرَةُ وَ المِخْبَرَةُ وَ المِخْبَرَةُ: دوات۔ ج مَحَابِرُ۔
 الحَبِيرَةُ: امامت۔
 الحَابِيزُ: بیدکاروں کی مجلس۔
 الحَبَارِيُّ: سرخاب۔ ج حَبَارَاتٌ۔
 الحَبِيرُ وَ الحَبِيرُ وَ الحَبِيرُ: سرخاب کا پختہ۔ ج حَبَارِيٌّ۔ كَذِبٌ (جبریت) خالص

جنت والا ہوتا۔ صفت (حَابِنٌ وَمَحْبُونٌ وَأَحْبِنٌ) عَلَيَّہُ فَمَسَّہُ سے مرثا۔

أَحْبِنَةُ الدَّاءِ: سوئے ہوئے پیٹ والا کرنا۔
العَظْبِنُ وَالعَظْبِينُ: کبوتر کا درخت۔

أَمَّ حَبْنِينَ وَالْحَبْنِيَّةَ: گرجک کے مشابہ ایک جانور۔

الْحَبْنِ: بندر۔ پیپ سے بھرا ہوا پھوڑا۔ ج حُبُونٌ۔

حَبْنَا (ان) حَبْنًا: قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے

"حَبْنَتُ الْمِي الخَمْسِينَ" میں پچاس سال کے قریب ہو گیا۔ الْوَالِدُ: چوتروں کے بل

گھسنا۔ السَّفِينَةُ: جاری ہونا۔ حَبْنَا مَا حَوَّلَهُ: حفاظت کرنا اور منع کرنا۔ الشَّيْءُ

لَهُ: پیش آنا۔ السَّهْمُ: نشانہ۔ حَبْنَا مَا كَلَّدَا: بغیر کسی بدلہ کے دینا۔ هَعَنَ كَلْدًا: منع کرنا۔

حَبْنَاهُ: حفاظت کرنا اور منع کرنا۔

حَابِنِي فُحَابَانَةً وَجَبَانَةً: الرجلُ: مدد کرنا۔ دوسروں کے علاوہ مخصوص کرنا۔ هَفِي

الْبَيْعِ: سہولت برتنا۔ الْقَاضِي زَيْدًا فِي الْحَكْمِ: انصاف سے ہٹ کر اکل ہونا۔

أَحْبِنِي: الرامِي: نشانہ سے خطرناک کرنا۔ کہا جاتا ہے "زَمِي لَأَحْبِنِي" اس نے تیر پھینکا اور نشانہ سے خطرناک۔

إِحْتَبِنِي: إِحْتَبَانَةً: بالثوبِ: کسی کپڑے میں لپٹ جانا۔ پینہ اور پنڈلیوں کو کسی کپڑے سے

باندھ لینا۔

الْحَبْنَاءُ وَالْحَبْنَةُ وَالْحَبْنَةُ وَالْحَبْنَةُ: عطية۔ الْحَبْنَاءُ: عورت کا سر۔

الْحَبْنَةُ وَالْحَبْنَةُ: وہ کپڑا جس سے پینہ اور پنڈلیوں کو باندھ لیا جائے۔ ج حُبْنِي وَجَبْنِي۔

الْحَبْنِي وَالْحَبْنِي: گھرا بادل جو زمین سے قریب ہو۔

الْحَبَابِي: فَا: گردن تک باندھ کنہوں والا۔

حَبْنَا (ن) حَبْنًا: الشَّجَرُ: بچے بھاڑنا۔ جھال آتارنا۔ الشَّيْنُ عَنِ الثَّوْبِ: رگڑ کر دور

کڑنا۔ عَنِ الشَّيْنِ: بھاڑنا۔ الْوَرْدِيُّ: اوالقشڑ عن الشجر: بچے بھاڑنا جھال کرنا۔

نَحَاتٌ نَحَاتًا وَأَنْحَتٌ وَأَنْحَتًا: الْوَرْدِيُّ مِنْ الشَّجَرِ: جھڑپانا۔ شَغْرَةٌ عَنِ رَأْسِهِ: کرنا۔ الْأَمْتَانُ: کھوکھلا ہو کر کرنا۔

الْحَبْتُ: سہ: غمرہ بڑی۔ الْفَرَسُ الْحَبْتُ: تیز رفتار گھوڑا۔ ج أَحْبَاتٌ: کہا جاتا ہے "تَوَكُّؤُهُمْ حَبَاتًا أَوْ حَبَاتًا" یعنی انہوں نے ان کو ہلاک کر

دیا۔ "وَمَا لِي بَدَيْتُ مِنْهُ حَبْتُ أَوْ حَبَاتَةً" یعنی اس میں سے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں۔

الْحَقَّتْ: درختوں کی ترابی جس سے بچے جھڑپ جاتے ہیں۔

الْحُنَاتُ: بگھری ہوئی چیز۔ چورہ۔ ریزہ۔

الْحُنَاتُ: شوروغوا۔

الْحَنْوُتُ وَالْمَحْنَاتُ: مِنَ النَّخْلِ: کھجور کا درخت جس سے کچی ہی کھجوریں گر جائیں۔

حَتَّى: حَرْبٌ جَارٌ ہے۔ اتنا پر دلالت کرتا ہے جیسے "أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا" یعنی میں نے مچھلی کو اس کے سر تک کھالیا۔ اور "ان"

بمصدر یہ کی تقدیر سے فعل مضارع پر داخل ہوتا اور غایت کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے "مِيَزْتُ حَتَّى أَدْخَلْتُ الْمَدِينَةَ" یعنی میں چلا یہاں تک کہ شہر میں داخل ہو گیا۔ اور یا بیان علت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے جیسے "تَوَهَّبْتُ حَتَّى اتَّوَبَ" یعنی میں نے توبہ کرنے کے لیے ذیبا سے بے رنجی اختیار کی۔ اور کبھی حرف عطف بمعنی داو ہوتا ہے جیسے "أَكَلْتُ السَّمَكَةَ حَتَّى رَأْسِهَا" میں نے مچھلی کو اور اس کے سر کو کھالیا۔ اور کبھی حرف ابتدا ہوتا ہے۔ جیسے "فَوَاعَجِبْنَا حَتَّى كَلَّمْتُ نَسِيئِي" بڑا تعجب ہے کہ کلیب مجھے گالی دینے لگیں۔

حَتَّامٌ: کب تک اس کی اصل حتی ما ہے۔ "مَا" استہتمایہ کا الف حذف کر دیا گیا ہے۔

حَتَّاءُ (ف) حَتَّاءٌ وَأَحْتَأُ: الْعَقْدَةُ: گرہ باندھنا۔ الثَّوْبُ: کپڑا سینا۔ الْجَدَّازُ: دیوار

مضبوط کرنا۔ الشَّيْءُ: لگاتار دیکھنا۔

الْحِفْلُ عَنِ الدَّابَةِ: بوجھ آتارنا۔ الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔ الرَّجُلُ: بارنا۔

حَفَّحْتُ: جلدی کرنا۔

نَحَفَحْتُ: الْوَرْدِيُّ: جھڑپا۔

حَبَدَ (س) حَبَدًا: خالص الاصل ہونا۔ صفت (حَبَدٌ)

حَبَدًا (ض) حَبَدًا: بِالْمَكَّانِ: اقامت کرنا۔ حَبَدًا: الشَّيْءُ: خالص اور نہیں ہونے کی وجہ سے ہونا۔

الْحَبْدُ وَالْحَبْدُ: مِنَ الشَّيْءِ: اصل دھو کر کہا جاتا ہے "عَيْنُ حَبْدٍ" پانی ختم نہ ہونے والا چشمہ۔

الْمُحَبَّدُ: اصل۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ كَرِيمٌ الْمُحَبَّدُ" فلاں کریم الاصل ہے۔

حَبْتَهُ (ن ض) حَبْتًا وَحَبْتًا: باندھنا۔ مضبوط کرنا۔ تیز نگاہ سے دیکھنا۔ تھوڑا تھوڑا خوراک دینا۔ حشر لہ شینًا: تھوڑا دینا۔

الْهَلَّةُ: نَانٌ وَقَعْدَةٌ مِثْلِي كَرْنَا: کہا جاتا ہے "مَا حَبَّتْ الْيَوْمَ شِينًا" میں نے آج کچھ نہیں کھالیا۔ مجھے آج کچھ حاصل نہیں ہوا۔

أَحْبَتَ: الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔ الرَّجُلُ: تھوڑی بھلائی یا تھوڑی بخشش والا ہونا۔

عَلَيْنَا الرُّوقُ: کم کرنا یا روک لینا۔

حَقَرُ: نَانٌ وَقَعْدَةٌ مِثْلِي كَرْنَا: التَّيْبَتُ: گھر کے گرد گھیرا لینا۔

الْحَقْرُ وَالْحَقْرُ وَالْحَقْرَةُ: تھوڑی چیز یا تھوڑی بخشش۔

حَتَّازُ: الشَّيْءُ: کنارہ۔ گھیرا۔ جیسے "حَتَّازُ الْأُذُنِ" کان کا کنارہ۔ "حَتَّازُ الظُّلْمِ" ناخن کے ارد گرد کا گوشت۔ "حَتَّازُ الْمُشْجَلِ وَالْفَرْجَالِ" چھلی کا گھیرا۔ ج حَتَّوْرُ۔

الْحَتَّوْرَةُ: ایک بار پینے کا روہ چوسنا۔

الْحَتَّوْرَةُ: عِنْدَ الْمَعْضِ الْحَتَّوْرَةُ: کھانا جو عمارت کی تیاری پر کھلایا جائے۔

الْمُحْتَوْرُ: اہل و عیال پر نان نقد میں تنگی کرنے والا۔

حَتَّوْرُ حَتَّوْرَةَ الْجَرَادِ: کھانے میں آواز نکالنا۔

تَحَفَّرُ: الْقَوْمُ: اکٹھا ہونا۔

الْحَتَّوْرُشُ: ہلکا ہلکا پست لڑاکا۔

الْحَتَّارُشُ: بچے کی حرکتیں۔ کہا جاتا ہے "مَا أَحْسَنَ حَتَّارُشَ هَذَا الصَّبِيِّ" اس بچے کی

العشيق: آشوب چشم کی وجہ سے مولے پونے والی ہونا۔ العسقل: خراب ہونے کی وجہ سے دانہ دار ہونا۔ صفت (خالی و خیر)۔ العشی: کشادہ ہونا۔ صفت (خیر و حش)۔ حشور: الدواء: گولی پانا۔

أحشرو و تحشرو: النحل: دانہ ظاہر ہونا۔ الحشور: دمہ، تھمت۔ انکور کا دانہ جبکہ ابتداء ظاہر ہو۔

الحشیر: پھنسی والا۔ طعام حشیر: بکرا ہوا کھانا۔ جس میں کوئی برکت نہ ہو۔ فؤاد حشیر: دل جو کچھ محفوظ نہ رکھ سکے۔ لسان حشیر: زبان جس کو کچھ مزہ معلوم نہ ہو۔

الحشور: تھوڑا کھانا۔ الحشازة: بھوسہ کے ریڑے۔ الحشيرة: بنی عمارت کی تقریب کا کھانا۔

حشوب: الماء: گدلا ہونا۔ البشور: گدلے پانی والا ہونا۔ الحشوب: گدلا پانی۔ نرم زمین میں اگنے والی

ایک قسم کی گھاس۔ ہانڈی کی تل کی پکتائی۔ حشیل (س) حشلاً: بڑے پیٹ والا ہونا۔

أحشلت: الامم و لدها: خراب غذا دینا۔ صفت مفعول (حشیل)۔ الدهر فلانا: بڑا حال کرنا۔ تباہ حال کرنا۔

الحشيل: بڑے طریقہ سے دودھ پلانا۔ تباہ حال۔ الحشيل: لاغر۔ كزور۔

الحشلة: حوض کا بقیہ پانی۔ الحشال و الحشالة: چاول جو وغیرہ کا چھلکا۔

حشالة الدهن: تیل کا تھمت۔ الناس: ادنیٰ درجہ کے لوگ۔

الحشيل و الحشيل: تیل اور کھن کا تھمت۔

حشم (ن) حشما له: دینا۔ العش: ملنا۔ رکڑنا۔

الحشمة و الحشمة: چھوٹا ٹیلہ۔ و الحشمة: ناک کا بانسہ۔ ج حشام۔

الحشمة: بند کے نزدیک پانی کے گرنے کی جگہ۔

الحشامة: دسترخوان کا چورہ۔

حشون (س) حشونا: الحشور: تیز ہونا۔

أحشون: الرجل: سارے تھیرا ایک سی جگہ پڑنا۔

حشون: القوم فی الامر: برابر ہونا۔ کہا جاتا ہے "حشون الذمغ" دو دو قطرے آنسو کے گرنے۔ "و حشانت الرباخ" ہوائیں پے در پے ملیں۔

أحشون: بالکل برابر ہونا۔ الحشون و الحشون: برابر۔ ہمسر۔ کہا جاتا ہے "هنا حشون" وہ دونوں برابر ہیں۔ الحشون: باطل۔ یوم حشون: گرمی میں اول آخر برابر ہونا۔

الحشون: پہاڑ کے کنارے۔ حشون حشون حشون: تیز روڑنا۔

حشاة (ض) حشياً و أخشاة: سینا۔ مضبوط کرنا۔ الحبل: پٹنا۔

فروس (مخضاة) الخلق: مضبوط بدن کا گھوڑا۔ حش (ن) حشاً و حشفت تخفيفاً و أخصت إخصاناً و إخصت إخصاناً و إخصت إخصاناً: الرجل علی الامر: برا گیندہ کرنا۔ آسانا۔

حشاه: برا گیندہ کرنا۔ آسانا۔ تحاش: القوم: ایک دوسرے کو برا گیندہ کرنا۔

إحش: برا گیندہ ہونا (لازم و متعدی) حشفت تخفيفاً: سونا۔

العش: بھوسے کے ریڑے۔ خشک روٹی۔ چچھا تا ہوا ریت۔

الحشيت و الحشوت: تیز۔ کہا جاتا ہے "وئی حشيتاً" وہ تیز بھاگا۔

الحشات و الحشات: جلدی۔ تھوڑی ٹیڑ۔ کہا جاتا ہے "ما اکتحل فلان حشاً" یعنی وہ ذرا بھی نہیں سویا۔

حشفت: البرق: بادل میں کوئوڑنا۔

فلان: کسی چیز پر برا گیندہ کرنا۔ العیل فی العين: سرمہ کی سلائی کو آگھ میں حرکت دینا۔

تحشفت: القوم: آمادہ ہونا۔ الحشفات و الحشفات: تیز جس میں کسی قسم کی سستی نہ ہو۔

حشور (س) حشور: الجلد: پھنسی والا ہونا۔

حشیر: کس قدر اچھی ہیں۔

تحشرف: الشئ: بکرا جانا۔ کہا جاتا ہے "تحشرف الشئ من یدی" چیز میرے ہاتھ سے بکری۔

الحشرفة: آگھ کی سرخی۔ حشی۔ حشش (ن) حششا: آگھ کی کے ساتھ جمع ہونا۔ النظر الیه: لگا کر دیکھنا۔

الحشف: موت۔ کہا جاتا ہے "مات حشفت آفیه" او حشفت لیه" وہ اپنی موت سے مراج حشوف۔

الحشفل: شوربے کا بقیہ۔ تیل کا تھمت۔ رومی و گھیا مال۔ و یک میں گوشت کے کلڑے۔

حشک (ض) حشکاً و حشکاً و حشکاً: چھوٹے قدموں سے تیز چلنا۔ الحشک و الحشوک: شتر مرغ کے بچے۔

حشلة (ن) حشلاً: روٹ۔ الحشال و الحشال: شل و مشابہ۔ الحشال: عطیہ۔ گھٹیا چیز۔

الحشال: جنون۔ دیوانگی۔ حشم (ض) حشماً: الشئ: مضبوط کرنا۔

الشئ علیہ: واجب کرنا۔ بالشئ: کسی چیز کا حکم لگانا۔

تحشم: خوش ہونا۔ اظہار شادمانی کرنا۔ دسترخوان کے بقیہ کو کھانا۔ الزجاج بقضه علی بعض: شیشہ کا بعض بعض پر گرتا ہوا۔

و الحشم: الامر: واجب ہونا۔ تحشم الشئ علی نفسه: لازم کر لینا۔ واجب کر لینا۔

الحایم: - فا - حاکم۔ کہا جاتا ہے "حشم الحاتم بکذا" حاکم نے فلاں چیز کا فیصلہ کیا۔ کالا کوا۔

الحتم: -ه - خالص۔ کہا جاتا ہے "هو الاخ الحتم" وہ حقیقی ہوائی ہے۔ "وهذا ولد حتم" یہ حقیقی لڑکا ہے جس کے نسب میں کوئی شبہ نہیں۔ فیصلہ۔ ج حشوم۔

الحشومة: ترشی۔ الحشمة: سیاہی۔ الحشمة: شیشے کے چھوٹے چھوٹے کلڑے۔

الأحتم: سیاہ۔

نیزھا کرنا۔ () واخْتَجَنَ الشَّيْءُ نُيْرُهُ
مگر کے ڈنڈے سے کھینچنا۔ کہا جاتا ہے اخْتَجَنَ
الْعَمَانُ اس نے بال کو جمع کیا۔ نیز اس نے منتشر
بال کو اکٹھا کیا اور اس کی اصلاح کی۔ اخْتَجَنَ
عَلَيْهِ رُوكِيتًا۔

خَجَنَ (س) خَجَنًا بِاللِّدَارِ اقامت کرنا
عَلَيْهِ وَيَبِيءُ بِحَلِّ كَرْنَا۔

خَجَنَ مَرْجَانًا نُيْرُهُا هُوَ جَانًا۔
الخَجَنُ وَالخَجْنَةُ: کبکی۔ نُيْرُهُا يَنْ
الخَجْنَةُ: اپنے لیے مخصوص طریقہ سے جمع کی
ہوئی چیز۔ الخَجَنُ: بیچڑی۔

الْاَخَجَنُ: نُيْرُهُا۔ کہا جاتا ہے "صقور
اَخَجَنُ الْمُخَالِبِ" شکر نُيْرُهُا چنگل والا۔
مؤنث خَجْنَاءُ ج خَجْنٍ۔

الْحَبْجُونُ: کلال۔ کہتے ہیں "مِيزْنَا عَقَبَةَ
خَجُونًا" ہم لمبی اور درو درواز گھائی پر چلے۔

المِخَجَنُ وَالْمِخَجْنَةُ: نُيْرُهُا سِرْوَالَا
وَنِزَا۔ نُيْرُهُا سِرْوَالَا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِخَجَنُ
مَالٍ" وہ مال کا یعنی اونٹوں کا بہترین تنظیم ہے۔
مَخَجَنُ الطَّائِرِ: چوچ۔

خَجَانُ (ن) خَجْوًا: نُفْرًا بِالْمَكَانِ:
اقامت کرنا بِالشَّيْءِ بِحَلِّ كَرْنَا بِه
خِيْرًا: گمان کرنا السُّو: حفاظت کرنا
خَجَاهُ: قصد کرنا۔ بھروسہ کرنا۔ منع کرنا
القَوْمُ: بدلہ دینا۔ الامو: گمان کر کے
دعویٰ کرنا۔

خَجِي (س) خَجِي: بِه: فریفتہ ہو کر لازم
ہوتا۔

اَخَجَاهُ اِخْجَاءً: بِكَلْبًا: لَانْقِ بِنَانَا۔ کہا جاتا
ہے "مَا اَخَجَاهُ بِكَلْبًا" وہ اس کے کس قدر
لاائق ہے۔

خَاخَاهُ مُخَاخَاةً: پہلی پیش کرنا۔ یا عقل
وزیر کی میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَاخَيْتَنِي
فَخَجَوْتُهُ" میں نے زیر کی میں اس کا مقابلہ کیا
اور میں غالب رہا۔

تَخَجَّى بِالشَّيْءِ: فریفتہ ہو کر لازم ہوتا
بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ کہا جاتا ہے
"تَخَجَيْتُمْ لِي هَذَا الْمَكَانَ" میں تم سے

پہلے اس جگہ میں پہنچ گیا اور وہاں پر جم گیا۔
الشَّيْءُ: قصد کرنا۔

اِخْتَجَيْتُ الشَّيْءَ: چھپانا۔
تَخَاخَاوَا: آپس میں پہلی پیش کرنا۔

الْمِخَجِيُّ: عقل وزیر کی جمع اَخَجَاءُ۔
الْمِخَجِيَّةُ: کنارہ گوشہ۔ ج اَخَجَاءُ۔ پر وہ۔

الْمِخَجِيَّةُ: وادی کا موڑ۔ زمین کا بلند حصہ۔ ج
اَخَجَاءُ وَخَجَا۔ الشَّيْءُ: کنارہ۔

الْمِخَجِيَّةُ: بارش کا پانی پڑنے کی وجہ سے ہلکا۔
ج خَجَا۔

المِخَجِيُّ وَالْمِخَجِيَّةُ: لائق۔
الْاَخَجِيَّةُ: بیعتاں۔ پہلی۔ ج اَخَجِي وَأَخَجٍ

۔ کلمة (مُخَجِيَّةٌ وَ مُخَجِيَّةٌ) پہلی دار کلمہ کہ
جس کے الفاظ بظاہر معنی کے مخالف ہوں۔ کہا جاتا

ہے "اللَّهُ (الْمُخَجَاةُ) اِنْ يَفْعَلُ كَذَا" یعنی وہ یقیناً
اس لائق ہے کہ ایسا کرے۔

خَدَّ (ن) خَدًّا وَ خَدًّا۔ الدَاؤُ: حد مقرر کرنا
_____ الْمَذْنِبِ: حد جاری کرنا _____ الشَّيْءِ عَنِ

الشَّيْءِ: جدا کرنا _____ اللَّهُ عَنَّا الشَّرَّ: روکنا۔ یاز
رکنا۔ بھیرنا۔

خَدَّتْ (ن) خَدًّا وَ خَدًّا۔ المَرْأَةُ:
سوگ منانا۔ صفت (خَادَّةٌ) ج حَوَادٍ۔

خَدَّ خَدًّا وَ خَدًّا وَ خَدًّا۔ التَّسْكِيْنُ: تیز کرنا۔
خَدَّتْ (ض) جَدَّةً وَ اِخْتَدَّتْ۔ التَّسْكِيْنُ: تیز

ہونا _____ بَارِكْ وَ حَارَ هُوَانَا۔
خَدَّ (ض) خَدًّا وَ خَدًّا وَ جَدَّةً۔ عَلَيْهِ: غضب

ناک ہونا۔
خَدَّدَ - الارضَ: حدود قائم کرنا _____ اَلْيَهُ

وَلَهُ: قصد کرنا _____ الامو: معلوم کرنا _____
عَلَيْهِ: غھبناک ہونا _____ الزورغُ: بارش مؤخر

ہونے کی وجہ سے پیچھے آگنا۔
خَادَّةٌ: دشمنی کرنا۔ باہم غھبناک ہونا۔ خَادَّتْ

ارضه ارضی: پڑوس میں ہونا۔
أَخَدَّ - اَلْيَهُ النِّظْرَ: گھورنا۔ تیز نظر کرنا۔ أَخَدَّتْ

المَرْأَةُ: شوہر کے مرنے پر سوگ کرنا۔ صفت
(مُخَدِّوَةٌ) جَدَّةً

تَخَدَّدَ: بہیم: دور ہے ہونا۔
تَخَادَّأَ: باہم غھبناک ہونا۔

اِخْتَدَّ: قوی ہونا _____ عَلَيْهِ: غھبناک ہونا۔
اِسْتَخَدَّ: دھار تیز کرنا۔ شرمگاہ کے بال

موڑنا۔
الْحَدُّ: دو چیزوں کے درمیان کی روک۔

تم کہتے ہو "حَاذَةُ حَدِّ دَارِي" اس کا گھر میرے
گھر کے پڑوس میں ہے۔ وَالْحَدُّ: کسی چیز کی

اتنا۔ اَلْحَدُّ مِنَ الشَّيْءِ: تلوار کی دھار _____
مِنَ الشَّرَابِ: شراب کی تیزی مِنَ الْاِنْسَانِ:

بدبہ اور غضب کی بنا پر جو کیفیت پیدا ہو۔ من
کل شئی: تیزی۔ حَدُّ الشَّيْءِ: جامع مانع تعریف۔

سراج خُدُوْدٌ وَ خُدُوْدُ اللّٰهِ: طاعت الہی
واحکام شریعہ۔

الْحَدُّ: منع۔ کہا جاتا ہے "هذا امر
خَدَّدٌ" یعنی یہ امر ممنوع ہے اس کا کرنا جائز نہیں

"وهذا خيرٌ خَدَّدٌ" یہ خیر باطل و جھوٹ ہے "و
ذُوْنُ هَذَا خَدَّدٌ" اس کے ورے ممانعت ہے "و

خَدَّدَا اِنْ يَكُوْنُ هَذَا" اللہ کی پناہ کہ ایسا ہو۔
الجَدَادُ: حَدَّتِ الْمَرْأَةُ كَامْصِرَ - سیاہ ماتی

لباس۔
الجَدَادُ: تیزی والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ

خَدَّادٌ" تیزی والا مرد۔ سکیں خَدَّادٌ: تیز
چھری۔ ج اَحَدَّةٌ اور کہا جاتا ہے "خَدَّادٌ كَأَنَّ

تَفْعَلَ كَذَا" تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم
ایسا کرو۔

الْحَدَاةُ: بیوی۔
الجَدَاةُ: بولہاری۔

الْحَدِيْدَةُ: لوہا۔ مضبوط اور سخت لوہے کو
"ذَكَوْرٌ" اور نرم کو "اَنْثِي" اور "اَنْثِي" سے

تعبیر کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے "ہو حدیدی" وہ
میرا پڑوسی ہے۔ "و داری حَدِيْدَةٌ دَارِي" میرا

گھر اس کے گھر کے پڑوس میں ہے۔
الْحَدِيْدَةُ: ج اَجْدًا وَ جَدَادًا: کائنے والا۔ کہا

جاتا ہے "سَيِّفٌ حَدِيْدٌ" کائنے والی تلوار۔
رَجُلٌ حَدِيْدٌ: تیز فہم یا سریع الغضب۔

الْحَدِيْدَةُ: لوہے کا ٹکڑا۔ ج حَدَائِدُ وَ
حَدِيْدَاتُ وَ ج حَدَائِدَاتُ۔ حَدِيْدَةٌ

الْحَزْنُ: بل کی بیماری۔ حَدِيْدَةٌ: بچہ۔
الْحَدَّادُ: بولہار۔ لُوہا بچنے والا۔ دربان۔ جیلر۔ زور

الحَدَات: گفتگو کرنے والی جماعت۔
 الحدیثی: خبر حدیث۔
 الحدَث: ہنر کتب و سنت و اجماع کے خلاف نئی بات۔ جحد حَدَات۔ نیا۔
 مَنَحَدَث: القوم: قوم کے گفتگو کرنے کی جگہ۔
 حَدَج (ض) حَدَجَا۔ البعیر: اُونٹ پر کجاوہ باندھنا۔ الاحمال: باندھنا۔ الابل: داغ لگانا۔ ہ۔ مارا۔ حَدَجَهُ بالسهم: تیر اندازی کرنا۔ ہ۔ بالذنب: حسرت لگانا۔ کہا جاتا ہے "حَدَجَهُ ببيع سوء" اس نے ایسی بیچ اس پر لازم کر دی جس میں گناہ ہے۔
 حَدَج وَحَدَج: بعصرہ: گھوڑا۔ تیز دیکھنا۔
 أَحَدَج۔ البعیر: اُونٹ پر بوجھ لادنا۔ اُونٹ پر کجاوہ کرنا۔
 الحدج: بوجھ۔ ج حَدَج وَ حَدُوج وَ أَحَدَج۔ (جحد) الحداجہ) حداجہ کی مانند عورتوں کی ایک سواری۔ ج حَدَجَانِج۔
 الحدج: کجاوہ تخت اندرائن۔ کچا خوبوہ۔
 أَبُو حَدَیج: تعلق پرندہ کی کنیت۔
 المَحْدَج: اُونٹوں کے داغ لگانے کا اوزار۔
 حَدَر وَ حَدَر (ن و ک) حَدَرَا وَ حَدُرُوا وَ حَدَارَةَ الرجل: مضبوط موٹا ہونا۔
 الجلد: سوجنا۔ حَدَرُوا وَ حَوَلَفُوہ: گھیر لیا۔
 حَدَر (ن و ض) حَدَرُوا وَ حَدُرُوا: نیچے اترنا۔ الشئ: نیچے اترنا۔ اللغام عن حَتَكِه: بھکانا۔ العین الدعغ: آنسو بمانا۔ القرواة فی القرواة: تیزی سے پڑھنا۔
 الدوائء بظنہ: اسامی لانا۔
 حَدَر وَ حَدَار وَ حَدَار: اترنا۔ کہا جاتا ہے "زایث الذمغ یَنَحَدِرُ عَلَی لِحَیْبِه" میں نے دیکھا کہ آسوس کی داڑھی پر ہمہ رہا تھا۔
 الحَدَر: نیچے۔ کہا جاتا ہے "إِن حَدَرْتُ مِنْ الجَبَلِ الِی المَدِیْنَةِ" میں پیڑ سے شمر کی طرف اترنا۔ الجلد: سوجنا۔
 الحدَر: ڈھلوان جگہ۔ وہ جگہ جہاں سے اترنا جائے۔ آنکہ کاجینگان۔

کے مقابلے میں بولتے ہیں تو میں کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں جیسے "أَحَدُنِی مَا قَدَّمُوا مَا حَدَثَ" یعنی مجھ کو نئے پرانے غموں نے گھیر لیا۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ ضمہ نہیں دیتے۔
 حَدَثٌ: عن فلان: روایت کرنا۔ ہ۔ كَذًا وَ بَکَدًا: خبر دینا۔ بیان کرنا۔
 حَدَاذٌ: گفتگو کرنا۔ حَدَاثُ السیف: کٹوار کو جلا دینا۔ اور اسی سے ہے "کنصل السیف حُودُثٌ بِالصَّفَالِ" مانند کٹوار کی پھل کے کہ میٹھل کرنے سے جلا دیا گیا ہو۔
 أَحَدَاثٌ: ایجاد کرنا۔ پیدا کرنا۔ أَحَدَثَ الرجل: پاخانہ کرنا۔ السیف: کٹوار کو جلا دینا۔
 تَحَدَّثَ: بالشئ عن الشئ: گفتگو کرنا۔ خبر دینا۔
 تَحَادَثُوا: باہم گفتگو کرنا۔
 اسْتَحَدَثَهُ: پیدا کرنا۔ الخیر: نیا پانا۔ رجل (جدث) بلوک: بادشاہوں کا تھمہ کو۔
 الحدیث والحدَث: اچھی گفتگو کرنے والا۔
 الحدَث: نئی چیز۔ خلاف سنت۔ نئی بات۔ دین میں نئی بات۔ پائکانہ۔ ج أَحَدَاثٌ وَأَحْدَاثُ الدهر: زمانہ کے مصائب۔ الحدَث: جوان۔ ج أَحَدَاثٌ وَ حَدَثَانُ۔
 الحدَثُ: آواز۔ آواز اور ابتداء الحدَثی: نئی۔
 الحدَثُ: آواز اور ابتداء الحدَثَانُ: آواز اور ابتداء الحدَثَانُ الدهر وَ حَدَثَانُه: زمانہ کی سختیاں۔
 الأَحْدَاثُ: بہت افسانہ۔ کہانی۔ ج أَحَادِیثُ۔ الحدایث: نوید چیز۔ قدیم کی ضد۔ ج حَوَادِثُ وَ حَدَاتُ۔ حَوَادِثُ الدهر: زمانہ کے مصائب۔
 الحدیث: ج حَدَاثٌ وَ حَدَثَانُ: نیا۔ الحدیث ج أَحَادِیثٌ وَ حَدَثَانٌ وَ حَدَثَانُ: خبر۔ کہا جاتا ہے "صَارُوا أَحَادِیثٌ" یعنی وہ لوگ ختم ہو گئے صرف ان کی بات ہی بات باقی رہ گئی۔
 علم الحدیث: نئی کریم حکیم کے اقوال افعال و احوال بتانے والا علم۔
 الحدیث: بہت گفتگو کرنے والا۔

سلا۔ شراب فروش۔ سنذر۔
 المَحْدُوْد: حد بندی کیا ہوا۔
 حَدَا (ف) حَدَا الشئ عنہ: پھیرنا۔ ہانا۔
 حَدِی (س) حَدَا۔ بِالْمَنَکَانَ: کسی جگہ میں جم کے رہ جانا۔ الیہ: پناہ لینا۔ إِلَیْہِ وَعَلِیْہ: مہربانی کرنا۔ مدد کرنا۔ ظلم سے بچانا۔ عَلَیْہ: غصبتاک ہونا۔
 الحدَاةُ: دو سو الی کدال۔ ج حَدَا وَ حَدَاءُ۔ الحدَاةُ: خیل۔ عوام حَدِیةً کہتے ہیں۔ ج حَدَا وَ حَدَاءُ وَ حَدَانُ۔
 حَدِب (س) حَدِبًا وَ أَحَدِب۔ الرجل: کبڑا ہونا۔ صفت (حَدِبٌ وَ أَحَدَاب) مؤنث حَدِیْبَةٌ وَ حَدَبَاءُ۔ ج حَدِبٌ وَ أَحَدَاب۔ وَ حَدِیْبَاتٌ۔ حَدِبٌ عَلَیْہ: مہربان ہونا۔
 حَدِبٌ وَ أَحَدِب: کبڑا ہونا۔ حَدِبُ الشئ: کسی چیز کو ابھرا ہونا۔
 تَحَدَّبٌ: کبڑا ہونا۔ عَلَیْہ: مہربان بہ: تعلق رکھنا۔ المرأة: بچوں پر مہربانی کی وجہ سے دو سرا لگانے کرنا۔
 إِحْدَوْدِبٌ وَ تَحَادِبٌ: کبڑا ہونا۔
 إِحْدَوْدِبُ الرمل: لہا اور ٹیڑھا ہونا۔
 الحدب: ہ۔ کبڑا ہونا۔ موج۔ لہر۔ کھال کے اندر نشان۔ زمین کی اونچی جگہ۔ ایک قسم کی گھاس۔
 الحدَبَاءُ: قط کاسال۔ دشوار امور۔ لاش۔
 الحدبۃ: کبڑا ہونا۔ پیٹھ میں کبڑا ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "فی ظہرہ حَدَبۃ" اس کی پیٹھ میں کبڑا ہونا ہے۔ من الارض: بلند و سخت جگہ۔
 الأحَدَب: کٹوار۔ ہاتھ کی ایک رگ کا نام۔ امر أَحَدِب: دشوار کام۔
 المَحْدَب: کبڑا۔ من الخطوط: ابھری ہوئی کپڑوں میں (حدبہ) ہماہور اوزدہ۔
 الحدَبَار: ڈبلی پٹی اونی۔ قط کاسال۔ پشت یا بلند زمین۔ ج حَدَابِیْرُ۔
 الحدیبیر: بڑی پرچرا لگی ہوئی اونی۔
 الحدیبی: ٹھسے بدن کا پست قدم۔
 حَدَث (ن) حَدَرُوا۔ الامو: واقع ہونا۔
 حَدَاةٌ وَ حَدُوْدًا: نوید ہونا اور جب قدم

حَدَلٌ (شاذ) و (حَدَلان) ج حَدَالِيٌّ - حَدَلِيٌّ
عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔
حَادَذَهُ: بچھلانا۔
تَحَادَلُوا: بکلیں پر جھکتا۔
الْحَدَلُ: ازار یا بندھنے کی جگہ۔ گردن کا درد۔
الْحَدَلُ سہ۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَكَ حَدَلٌ" وہ غیر
عادل ہے۔

الْحَدَالُ: چکنا چور۔
الْحَدَوَلُ: زنگور۔
الْحَدَوَلَةُ: پشتہ۔ نیلہ۔
الْحَدَلُ: والی الخدلان۔ پست قدم۔
حَدَمَةٌ (ض) حَدَمًا: تیز گرم کرنا۔ الدم: گھرا
سرخ کرنا۔
إِحْتَدَمَ: نہاڑا۔ سخت گرمی والا ہونا۔
الشَّرَابُ: تیزی بڑھ جانا۔ إِحْتَدَمَتِ الْقَدْرُ:
سخت جوش والی ہونا۔

إِحْتَدَمَ وَتَحَدَمَ: الرجلُ: فُتْرَہ سے بھڑک
اُصْحَا۔ سخت غصبناک ہونا۔ إِحْتَدَمَ الدَّمُ: گھرا
سرخ ہونا۔ عَلَيْنِهِ غَيْظًا: فُتْرَہ سے رات بیتا۔
الْحَدَمَةُ: آگ کے بھڑکنے کی آواز۔
الْحَدَامُ: فُتْرَہ۔ غضب۔

حَدَانٌ (ان) حَدَوًا و حَدَاةً و حَدَاةً حَدِيٌّ پڑھنے
میں آواز بلند کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَمْلَحَ حَدَاةً
ه" اس کا حدی پڑھنا کس قدر عمدہ ہے۔۔۔ الابل
وبالابل: گا کر ہانکنا۔ صفت (خاد) ج حَدَاةً
الريح السحاب: ہانکنا۔ چلانا۔ خداه
على كذا: برا بھلا کرنا (واختدأ) الليل
النهار: پیچھے آنا۔

الْحَادِيٌّ و حَدَاةً التَّجْمُ: دو ستاروں کے
نام اور لفظ حاوی معترض میں حاوی واحد کا مقلوب
ہے۔

الْحَدَاءُ: حاوی کا مبالغہ۔ اور حاوی اس کو کہتے
ہیں جو اوٹوں کو کا کرہائے۔
الْحَدَوَاءُ: شالی ہوا۔

الْحَوَادِي: ہر چیز کے آخری حصے کا۔
الأخدوة والأخوية: اونٹوں کے ہانکنے کا
گیت۔

حَدِيٌّ (س) حَدِيٌّ: بالمكان: کسی جگہ میں

دریافت کرنے کی کوشش کرنا۔
الْحَدِيثُ وَالْمَحْدُوسُ: زمین پر بچھاڑا ہوا۔
الْحَدُوسُ: اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے
والا۔

الْحَدَسُ سہ: دانائی۔ زیرکی۔
الْحَدَمِيَّاتُ: دانائی اور زیرکی سے معلوم کی
ہوئی باتیں۔

الْحَدَسُ: غایت۔ انتہاء۔ کہا جاتا ہے "بَلَفْتُ
بِهِ الْحَدَسَ" میں اس کی انتہاء کو پہنچ گیا۔
الْمَحْدُوسُ: مطلب۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ بَعِيذٌ
الْمَحْدُوسِ" فلاں کا مطلب پڑا ہے۔

حَدَقَ (ض) حَدَقًا: القَوْمُ: گھیر لینا۔ حَدَقَةً
بَعَيْنِهِ: کسی کی طرف دیکھنا۔ ه: آگھ کی سیاہی
پر بارنا۔ المریضُ حَدَقًا: بیمار کا آگھ کھولنا اور
دیکھنا۔

أَحْدَقَ: القَوْمُ بِهِ: گھیر لینا۔ أَحْدَقَتِ
الرَّؤْيَةَ: باغ میں چار دیواری ہونا۔

حَدَّقَ: اليه: گھورنا۔ تیز نظر سے دیکھنا حَدَّقَ
بِهِ: چاروں طرف سے گھیر لینا۔

تَحَادَقُوا: ایک دوسرے کو گھیر لینا۔
إِحْدَاقًا: القَوْمُ بِهِ: گھیرنا۔ احاطہ کرنا۔

الْحَدَقَةُ: آگھ کی سیاہی۔ ج حَدَقَ وَحَدَقَاتُ
وَإِحْدَاقًا وَحْدَاقًا: کہا جاتا ہے "هَمُّ فِي مَعَلِ
حَدَقَةِ الْبَيْضِ" وہ لوگ فراموشی میں ہیں اور ان کے
پاس پانی بہت ہے۔ "وهم زمامة الحدق" یعنی وہ
لوگ تیر اندازی میں بڑے ماہر ہیں۔ وَتَكَلَّفَتْ
عَلَى حَدَقِ الْقَوْمِ: میں نے قوم کی نگاہ کے
سامنے تھک گئی۔

الْحَدَقُ: بگین۔
الْحَدَيْقَةُ: باغ جس کی چار دیواری ہو۔ ج
حَدَائِقُ۔

الْحَدَيْقَةُ وَالْحَدَيْقَةُ: آگھ کی سیاہی۔
حَدَقَلُ حَدَقَلَةً: دیکھنے میں آگھ پھرنا۔
حَدَلٌ (ض) حَدَلًا وَحَدَلًا: عَلَيْنِهِ: کسی پر
ظلم کرنے کے لیے مائل ہونا۔

حَدَلٌ (س) حَدَلًا: بہ نسبت دوسرے کندھے
کے ایک بلند کندھے والا ہونا۔ الرجلُ: بگھمیوں
سے دیکھنا۔ صفت أَحْدَلُ مؤنث حَدَلَاءُ ج

الْحَدَوْرُ وَالْحَدَوْرَاءُ وَالْحَادَوْرُ: وہ جگہ
جہاں سے آڑا جائے۔ الْحَادَوْرُ: اسال لائے
والی دروغ خوادیں۔

الْحَدَوْرَةُ: بچنے کے اندر کا زخم۔ عَيْنٌ
حَدَوْرَةٌ: پُرکوشت آگھ۔
الْحَدَوْرَةُ: اونٹوں کا ریوڑ۔

الْحَادِرُ: قَا: موٹا خوبصورت جَبَلٌ حَدِيرٌ:
بلند پہاڑ۔ حَبَلٌ حَدِيرٌ: مضبوط بنی ہوئی رسی۔
حَبِيٌّ حَدِيرٌ: بیچ بندہ قبیلہ۔ الْحَادِرُ: شیر۔ کہا جاتا
ہے "نَاقَةُ حَدِيرَةَ الْعَيْثِيَّ" پُرکوشت
خوبصورت آنکھوں والی اونٹنی۔

الْأَحْدَرُ: مِنَ الْخَيْلِ: پُرکوشت گھوڑا۔ مِنَ
الرِّجَالِ: ایک چیز کو دو (۲) دیکھنے والا۔ مؤنث
حَدَوْرَاءُ۔

الْحَدَوْرَةُ وَالْحَدَوْرَةُ وَالْحَادَوْرَةُ:
آنسوؤں کا بہاؤ۔

الْحَدَرُ وَالْحَدَرُ وَالْحَدَرُ وَالْحَدَرُ
وَالْحَدَرَةُ: آگھ کی سیاہی۔ ج حَدَرًا: کہا جاتا
ہے "جَعَلْتَهُ عَلَى حَدَرٍ عَيْنِي وَجَدَيْتُهُ
عَيْنِي" میں نے اس کو اپنے نصب العین بنایا۔

الْحَدِيرُ: شیر پست قدم۔
الْحَدِيرَةُ: شیر۔ ہلاکت۔ کہا جاتا ہے "زَمَاهُ
اللَّهُ بِالْحَدِيرَةِ": اللہ اس کو مصیبت و ہلاکت
میں مبتلا کرے۔

الْحَدِيرُ: سخت ٹکڑیاں۔
الْمُحْدَرُ: بڑھلواں جگہ۔
الْحَدَارُ: تیز نگاہ والا۔

حَدَرَجَ: الْحَبَلُ: مضبوط بنا۔ کہا جاتا ہے "مَا
بَالِدَارٍ مِنَ (حَدَرَج) گھر میں کوئی نہیں رَجَلٌ"
(جَدَرِجَان) پست قدم۔

الْحَدَرُ: پست قدم۔
حَدَسَ (ن) ض) حَدَسًا: فِي الْأَمْرِ: گمان
کرنا۔ تخمینہ کرنا۔ وہم کرنا۔ الشَّقِيُّ بِرَجْلِهِ:
روندہ۔ زَيْدًا: بچھاڑنا۔ الشَّاةُ وَالشَّاةُ: ذبح
کرنے کے لیے لانا۔ فِي الْأَرْضِ: اٹکل سے

چلنا۔ فِي السَّبْرِ: تیز چلنا۔ حَدَسَ بِهِ
الْأَرْضَ: پکد دینا۔

تَحَدَسَ: الْأَخْبَارَ وَعَنِ الْأَخْبَارِ: چھپ کر

یعنی سخت غضبناک۔ ح حوزئی و حوب الرجل
دوہل دہلاکت کو پکارنا اور آخر بناؤ کہنا۔

حوزئہ: غضبناک بنانا۔ حوزب السنان: تیز
کرنا۔

حازئہ حوزائہ و حازئہ لڑائی کرنا۔

أحوزب: الحوزب: جنگ بھڑکانا۔ فلاناً:
دشمن کے مال کے لوٹنے کیلئے رہنمائی کرنا۔
الصحل: بھگوتہ لگانا۔

قحازب و احوزب: القوم: جنگ کی آگ
بھڑکانا۔

إحوزئی احوزئہ: آدہ غضب ہونا۔ آدہ
شرارت ہونا۔ چت لیٹ کر آسمان کی طرف
ٹانگیں اٹھانا۔ المسکان: کشادہ ہونا۔

الحوزب: لڑائی۔ تم کہتے ہو "وقفٹ بینہم
حوزب" ان کے درمیان لڑائی واقع ہوتی کلمہ

مؤنٹ ہے کبھی مذکر استعمال کرتے ہیں اس کی
تفسیر حوزب۔ ح حوزوب۔ رجل حوزب: ہمار

بھگبو۔ کہا جاتا ہے "انا حوزب لمن یحارنی"
میں اس کا دشمن ہوں جو مجھ سے جنگ کرے۔

ذاز الحوزب: مشرکین کا ٹلک۔ اور وہاں کے
رہنے والوں کو (الحرہ یوں) کہتے ہیں۔

الحوزئہ: چھوٹا تیز۔ ح حوزاب۔ الحوزئہ: تیز
مارنا۔ مال چھیننا۔ فلو دین۔ جمع کا دن۔ ح

حوزبات و حوزبات
الحوزاب: چھوٹے تیزے کو اٹھانے والا چھوٹا

تیزہ بنانے والا۔
الحوزئہ: بنت جنگ۔

الحوزئہ: گون یا بورے کی مانند ایک برتن
چرواہے کا قھیلا۔

الحوزئہ و الحوزئہ: گرجت۔ اس کو تکون
مزاج کے لیے بطور مثال کے بولا جاتا ہے۔ ح

حوائح:
الحوزباء: زرہ کا حلقہ۔ پشت کا گوشت۔

الحوزب: ہلاکت و ہل۔
و احوزبنا: کلمہ ہے جو میت پر رونے کے موقع

پر بولا جاتا ہے اور افسوس کیلئے استعمال کیا جاتا
ہے۔

المحوزب و المحوزب: بھگبو۔ ہمار۔

المحوزاب: گھر کی صدر کی جگہ۔ گھر کی اچھی
جگہ۔ صدر مجلس۔ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔

کچھار۔ و محوزاب المنسجد: امام کے کھڑے
ہونے کی جگہ۔ قبلہ۔ ح محازب: کہا جاتا ہے

"إنہ یکرہ المحازب" وہ صدر مجلس میں
لوگوں سے ممتاز ہو کر بیٹھنے کو کمرہ سمجھتا ہے۔

المحوزب و المنحوزب: شیر۔
الحرث: ایک قسم کی نباتات۔ ح حوزابٹ۔

الجزیش و الجزیش: بڑا سانپ اڑوہا۔
حوزبص: الارض پانی دینا یا بل چلا کر پانی دینا۔

حوزبظ حوزبظا: القوس: سخت چلہ کھینچنا۔
حوزب (ن) حوزبنا الشئ: سخت ملنا۔

حوزب (س) حوزبنا الرجل: بد خلق ہونا۔
الحوزب: سہ۔ جانوروں کے چارہ کھانے کی

آواز۔
الحرث: ایک قسم کی پھلی۔

الحوزئہ: رائی کی چر پر اہٹ جس کا اثر ناک میں
محسوس ہو۔

الحوزئہ: بہت کھانے والا۔
الحوزات: آگ کے بھڑکنے کی آواز۔

الحوزتک: ڈلے جمہ والا۔
حوزب (ن ض) حوزبنا الارض: بل چلانا، کھیتی

کرنا۔ صفت (حارث) ح حوزابٹ۔ حوزب
المال: کمانی کرنا۔ جمع کرنا۔ الناز: کریدنا۔

الشئ: اچھی طرح مطالعہ کرنا۔ الامن: یاد کر کے
بھڑک اٹھنا۔ الحوزب: کلڑے کلڑے کرنا

(و احوزب و احوزب) الذابئہ: تھکانا۔ دلا کرنا۔
صفت مفعولی (حوزئہ) ح حوزابٹ۔

احوزبٹ: الارض: کھیتی کرنا۔ المال: کمانی کرنا۔
الحوزب: سہ۔ کھیتی۔

الحارث: نا۔ ح حوزابٹ۔ الحارث: و
ابو الحارث: شیر کی کنیت۔

الحوزئہ: کمانی۔ ح حوزابٹ۔
الحوزائہ: کھیتی۔ کاشتکاری۔

المحوزبٹ: ح محازبٹ و (المحوزب) ح
محازبٹ: بل۔ کر۔ یعنی۔

حرج (س) حوزبنا الشئ: تنگ ہونا۔
الرجل: بھگنا ہونا۔ العین: اندر دھن

جانے کی وجہ سے بیٹائی کم ہونا۔
عَلَيْهِ الشئ: حرام ہونا۔ الیہ: پناہ لینا۔

العباز: تنگ جگہ میں ٹھکانا۔
حرج (ن) حوزبنا: انباتہ: غصہ سے دانت

پینا۔
حوزبہ: تنگ کرنا۔ حرج عَلَيْهِ: کسی سے یہ

کہنا کہ تو تنگی میں ہے۔
أحوزبہ: گناہ میں مبتلا کرنا۔ تنگی میں ڈالنا۔ تنگ

جگہ کیلئے مجبور کرنا۔ فلاناً الیہ: مضطر کرنا۔
أحوزب عَلَيْهِ الامن: حرام کرنا۔

فحوزب: گناہ سے بچنا۔
الحوزج: گناہ۔ بہت درختوں والی تنگ جگہ۔

مردہ لے جانے کا سخت۔ حرمت۔ کہا جاتا ہے "لا
حوزب عَلَیْک" تمہارا کوئی قصور نہیں، یا

تمہارے اوپر کوئی اعتراض نہیں۔
و حَدِثَ عَنِ البَحْرِ و لا حوزج۔ سمندر کے

متعلق بیان کرنا اور تمہارے اوپر مبالغہ وغیرہ کا
کوئی اعتراض نہیں۔

الحوزج: گناہ۔ گوڑی۔ شکار میں سے کتے کا
حصہ۔ درندوں کے شکار کے لیے پھندا۔ بکریوں کا

ریوڑ۔ ح حوزج و حوزج۔
الحوزج: تنگ۔ وہ شخص جو لڑائی سے منہ نہ

پھیرے۔ بہت درختوں والی تنگ جگہ۔ وہ شخص
جو کسی معاملہ میں پیش قدمی کرنے سے خوف

کھائے۔
الحوزبہ: درختوں کا جھنڈ۔ بکریوں کا "اؤنٹوں

کا گھ۔ ح حوزج و حوزجات۔
الحوزبہ: ڈوبی۔

الحوزبج: تنگ۔
المحوزج: بین اللیالی: بہت سردرات۔

المحوزج: تنگ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے
"خلف بالمحوزجات" اس نے تنگی میں مبتلا

کرنے والی تسمیں کھائیں۔
الحوزب: ٹھنڈی ہوا جو تیز چلے۔ ح

حوزب۔
حوزب حوزبہ: لہبا ہونا۔ دائیں بائیں دوڑنا۔

الحوزبہ: سہ۔ لنگڑا پن۔ ()
و الحوزب: گھوڑوں کا گھ۔ کہا جاتا ہے "جاءوا

<p>الخوضان - رات دن الحوضانة - حفاظت الحوضنة - بکریوں کا باڑہ - رات میں چوری کی ہوئی بکری - چوری - حج حوضائیں الاحوض - پراٹا - جس پر ایک زمانہ گزر گیا ہو - الحوضان - بڈی کی ایک قسم - الحوضم - گوشہ - الحوضیم - زہر موت - الحوضین - ایک قسم کی چھلی - الحوضین - ڈبلے اونٹ (اس کا واحد نہیں) قط والے سال - حوش (ض) حوشا و تحوشا - الضب : شکار کرنا - البھیر : تیز چلنے کیلئے رشتی سے پیٹھ کو گزرتا - الرجیل : خراش لگانا - حوش (س) حوشا - سخت ہونا - صفت (آخرش) - الرجیل : دھکارنا - حوش - بین القوم و بین الکلاب و السباع یا ایک کوند سرے کے خلاف برا بھلا کرنا - تحوش - بہ : ورپے ہونا - تحوش الضب و بالضب : شکار کرنا - احوش - الشئ : جمع کرنا - القوم : اکٹھا ہونا - الرجیل : دھکارنا - احیالہ : کمانی کرنا - الضب : شکار کرنا - الحوش - ہم - اثر : دھوکا قریب - جماعت - حج جزاؤں - الحوش - کمزور - وہ شخص جس کو نیند نہ آئے - الحوشة و الحوشین - کمزور ہیں - الحوشین - کشتائی - حج حوش - کن مجورا - الحوش : ایک دریائی جانور - گینڈا یا ایک قسم کا بچن دار سانپ - الحوشة - ایک قسم کی نباتات - کہا جاتا ہے "أحوش جئت له حوشيشي" میں نے اس کیلئے مناسب کچھ جو میرے قبضے میں تھا نکل دیا - الحوش من الحیات : پراٹیا سانپ - الاحوش کمزوری گوہ - دینار احوش : نئے</p>	<p>حوز (ان) حوزا - المان حفاظت کرنا اکتھا کرنا - حوز (س) حوزا - پر ہیز گار ہونا - حوز (ک) حوزا و حوزا - المکان : مضبوط ہونا - حوز - الشئ : حفاظت میں مقابلہ کرنا - () و احوز المکان الرجل : جائے پناہ ہونا احوز الشئ : جمع کرنا - حفاظت کرنا - ذخیرہ کرنا - تحوز و احوز - منہ : بچنا - استحوز - محفوظ جگہ میں آجانا - الحوز - مضبوط جگہ - کہا جاتا ہے "حوز حوز و حاز" بہت محفوظ مقام - حصہ - کہا جاتا ہے "أخذ حوزه" اس نے اپنا حصہ لے لیا - ہر وہ چیز جس میں اشیاء کی حفاظت ہو سکے جیسے صندوق وغیرہ - ہر وہ چیز جو ضائع اور تلف ہونے سے بچائے - فی اصطلاح المعوذین : تمویذ - حج احوزا - الحوز - ہم - بچوں کا ایک قسم کا کھیل جو اُخروش سے کھیلتے ہیں - ہر وہ چیز جو محفوظ کی گئی ہو - حج احوزا - الحوز : جمع کی ہوئی چیز - کہا جاتا ہے "لا حوز من تیغ" یعنی اگر اس نے خراش کے مطابق قیمت دے دی تو میں بچ دوں گا - الحوزة - من الابل : اونٹ جن کو خوبی کی وجہ سے فروخت نہ کیا جائے - حج حوزاؤں - حوزة - الله : لعنت کرنا - الاناء : ہیرا - حوزة (ان) حوشا - حفاظت کرنا - صفت (حارص) حج حواس و حوزة و حوص و أحراس - حارص السماء و حارص السماک : دوستاروں کے نام - حوص (ض) حوشا و احوص - الشئ : رات میں چوری کرنا - حوص (س) حوشا - نیک و راست گزرتا رہنا - أحوص - بالمکان : حفاظت کیلئے قیام کرنا - حوص و احوص - منہ : محفوظ رہنا - حج کر رہنا - الحوص - ہم - زمانہ - کہا جاتا ہے "مغنی علیہ حوص" اس پر ایک زمانہ گزر گیا - حج أحراس - الحوص : حفاظت کرنے والے - و حوص الملک : شاہی محافظ - فوج (واحد حوصی)</p>	<p>حرجلة "وہ اپنے گھوڑوں پر آئے - الحرجل و الحرجل - لمبا - حرجم - الابل : اونٹوں کو ایک دوسرے پر گرتے ہوئے واپس کرنا - احرجم - القوم او الابل : اکتھا ہونا - عن الامر : ارادہ کے بعد ہٹ جانا - الحرج - اندام نمائی - حرد (س) حردا و حردا - علیہ : غضبناک ہونا - صفت (حارد و حرد و حردان) - الوتر : کمان کی تاروں میں سے بعض کا بعض سے لمبا ہونا - صفت (حرد) حردہ (ض) حردا - منع کرنا - ارادہ کرنا - المخشب : سوراخ کرنا - (حردا) قوم سے علیحدہ و اکیلا ہونا - صفت (حرد و حرد) حج جواد (خرید) حج حرداء - حرد - جموں پڑی میں پناہ لینا - الشئ : ایک بل کا تھا انا : ہ - روکنا - حرد الخیل : بٹنے سے گول ہو جانا - الشئ : ٹیڑھا کرنا - أحرد - الگ کرنا - اکیلا کرنا - أحرد فی المشى : تیز چلنا - تحرد - الادیم : بالوں سے پاک صاف ہونا - حارذ - الناقة : کم دودھ والی ہونا - صفت (حرد و حارد) - السنة : کم بارش والا ہونا - حارذ الرجل : دیر رہنے کے بعد بند کر رہنا - احرد - اکیلا ہونا - العجم : ٹوٹنا - الحرد - ہم - اونٹ کی اگلی ٹانگ کے پٹھے کا ڈھیلا پن - الحرد : کم دودھ والی اونٹنی - الحرد - دور - خشک کی ہوئی چھلی - بہت میں سے تموزی چیز - الحرد - اگلی ٹانگ کے پٹھے کے ڈھیلا پن والا ہونا - بخیل کبوتر - زرہ کے بوجھ سے اچھی طرح نہ چل سکے والا - حج حرد - المخرد - بے بارش کا سال - حج - حرد - الحردية - سکی بے عقلی - الحردون - زرگوہ - یا گرگٹ کے مشابہ ایک جانور -</p>
--	---	---

ہونے کی وجہ سے کمزور یا نارنج خورض۔
 الحَوْضُف۔ مچھلی کا سفنا۔ چھوٹے پرندے۔
 مڈی کہ ابھی پرندے لگے ہوں۔ زورہ کی کڑیاں۔ کمزور
 بوڑھے۔ کہا جاتا ہے "ایسی فتنہ غیر حَوْضُف
 و جبال" وہاں پر سوائے کمزور بوڑھے لوگوں کے کوئی
 نہیں۔ پیادوں کی جماعت۔ سمندر کے کنارے کے چترج
 حَوْضُف۔ سخت زمین۔
 حَوْضُف (ن) حَوْضًا۔ الجلد: مچھلیا۔
 القصار العوب: دھومنے یا کونے میں پھاڑنا۔
 حَوْض (ض) حَوْضًا (س) حَوْضًا
 اختِصَّص۔ علی الشَّيْءِ: لالچ کرنا صفت
 (حویض) ح حَوْضًا و حَوْضًا و حَوْضًا
 مؤنث حَوْضًا ح حَوْضًا و حَوْضًا
 حَوْض۔ العرضی: حج کے بالکل صاف کیا جانا۔
 حَوْضًا۔ علی الشَّيْءِ: لالچ دلانا۔
 حَوْضًا۔ بتکلف لالچ کرنا۔ وقت کا انتظار کرنا
 اور اسی سے ہے ہو یقیناً حَوْضًا غَدَاهُمْ و
 عَشَانَهُمْ وہ ان لوگوں کے صبح شام کے کھانے
 کے وقت کا انتظار کرتا ہے۔
 الجَوْضُف۔ لالچ۔
 الحَوْضَةُ و الحَوْضَةُ و الحَوْضَةُ۔ زخم جو
 کچھ کھال کو پھاڑ دے۔ الحَوْضَةُ و
 الحَوْضَةُ: سخت بارش جو زمین کو صاف کر
 دے۔
 حَوْضُف (ن) حَوْضًا و حَوْضًا (س)
 حَوْضًا و حَوْضًا (ک) حَوْضًا۔ مرض نامند
 میں مبتلا ہو کر رہنا ہونا۔ صفت (حَوْضُف و حَوْضُف
 و حَوْضُف و حَوْضُف) کہا جاتا ہے "ناقعة
 حَوْضُف" وہی اونٹنی۔
 حَوْضُف (ض) حَوْضًا۔ نفسہ: خراب کرنا
 بگاڑنا۔
 حَوْضُف۔ علی الامر: برا گیند کرنا۔ فلائنا:
 کسی کے بدن یا عقل کی خرابی کو زور کرنا۔
 الشَّيْءِ: خراب کرنا بگاڑنا۔
 حَوْضُف کرنا۔ الحَوْضُف و الحَوْضُف:
 بدن کو گھلا دینا۔ علی الشَّيْءِ: برا گیند
 کرنا۔ الرجل: بالکلیف اولاد کا لاپ ہونا۔

حَاوَضَ۔ علی العمل: مداومت کرنا۔ فلائنا:
 تیری کچھڑے سے ایک دوسرے کو مارنا۔
 حَاوَضُوا۔ علی العمل: ایک دوسرے کو
 برا گیند کرنا۔
 الحَوْضُف۔ مد۔ بدن یا مذہب یا عقل کی خرابی
 حَوْضُف الثوب: کپڑے کا کنارہ۔
 الحَوْضُف: قریب بملاکت۔ نے فیض آدمی۔ وہ
 شخص جس کو غم یا عشق گھلا دے۔ گرا ہوا جو اٹھنے
 کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ بڑی گفتگو۔ ح حَوْضُف و
 حَوْضًا و حَوْضًا۔
 الحَوْضُف و الحَوْضُف۔ ایشان جس سے کھانے
 کے بعد ہاتھ دھوئے تھے۔
 الحَوْضَةُ۔ جوئے بازوں کا امین۔ وہ شخص جو
 گوشت نہ خریدے، نہ کھائے مگر اس صورت
 میں کہ مفت مل جائے۔
 الحَوْضَةُ۔ گھنیا قسم کا آدمی جس کو کوئی شہ نہ
 لگائے۔ ح حَوْضُف۔
 الحَوْضُف۔ ایشان کا برتن۔
 الحَوْضُف۔ حج یا چمن بنانے کیلئے پتھر کو آگ میں
 جلائے والا۔
 الحَوْضَةُ۔ ایشان کا بازار۔
 الحَوْضُف۔ وہ شخص جس کو غم گھلا دے)
 _____ و الحَوْضُف۔ گرا ہوا شخص جو اٹھنے کی
 طاقت نہ رکھتا ہو۔
 حَوْضُف (ض) حَوْضًا۔ الشَّيْءِ عن وجه: پھیرنا
 جھکانا۔ _____ عن الشَّيْءِ: ناکل ہونا۔
 لعیالہ: داہرا دھر سے کمالی کرنا۔
 حَوْضُف۔ فی مالہ حَوْضُف۔ کچھ ضائع ہو جانا۔
 حَوْضُف۔ القول: قول کو اس کے موقع سے پھیر
 دینا۔ _____ القلم: ٹیڑھا خط لگانا۔
 _____ الشَّيْءِ: کنارہ بنانا۔ جھکانا۔
 حَاوَضَ۔ معاملہ کرنا۔ اور اس سے ہے "فَقَدْ
 عَلِمُوا لِمَى الْغَزْوِ كَيْفَ حَاوَضُوا" انہوں نے
 یقیناً جان لیا کہ ہم جنگ میں ان کے ساتھ کیسا
 معاملہ کرتے ہیں۔ الرجل: شریا خیر کا بدلہ
 دینا۔ _____ الجرح: سلائی سے اندازہ کرنا۔
 حَوْضُف۔ فقیری کے بعد مستحق ہونا۔ اہل و عیال
 کے لیے مشقت برداشت کرنا۔

الناقعة: لاغر کرنا۔ الرجل: خیر و شر کا بدلہ
 دینا۔
 حَوْضُف عنہ و الحَوْضُف و الحَوْضُف۔ ایک
 جانب کو جھکانا۔ حَوْضُف یقیناً: ہریشہ سے کمالی
 کرنا۔
 حَوْضُف۔ پیشہ اختیار کرنا۔ تلاش کرنا۔ جیلہ کرنا
 _____ لاہلہ: کمالی کرنا۔
 الحَوْضُف۔ ح حَوْضُف: کنارہ، دھار۔ جانب
 "حَوْضُف الجبل" پہاڑ کا تیز سرا۔ کہا جاتا ہے
 "فلان علی حَوْضُف من آفروہ" فلاں شخص
 معاملہ کے ایسے موقع پر ہے کہ اگر پسند خاطر نہ ہو
 تو ہٹ جائے۔
 الحَوْضُف: پانی بننے کی جگہ۔ حَوْضُف السَّيْفِيَّةِ
 او النہر: کشتی یا دریا کا کنارہ۔ الحَوْضُف ح
 حَوْضُف و الحَوْضُف: حروف جمعی میں سے ایک
 اور اس کا نام "حروف المعنی" ہے _____
 فی النحو: وہ کلمہ جو بغیر دوسرے سے ملے
 ہوئے معنی نہ دے اور اس کا نام حروف
 المعنی ہے۔ کلمہ جیسے یہ حرف قاموس میں
 نہیں یعنی یہ کلمہ نہیں۔
 الحَوْضُف۔ رائی واحد (حَوْضُفہ)
 الحَوْضُف: بحروی بد بختی۔
 الحَوْضُف۔ پیشہ۔
 حَوْضُف۔ الرجل: ہمیشہ ح حَوْضُفہ
 الحَوْضُف۔ بحروی۔ کم لیبی۔ بد بختی۔
 الحَوْضُف۔ چرپاہٹ۔
 الحَوْضُف۔ چرپاہٹ والی چیز۔ کہا جاتا ہے
 "هذا یصل حَوْضُف" یہ تیزیاز ہے۔
 الحَوْضُف۔ پیشہ ور۔
 الحَوْضُف و الحَوْضُف۔ زخم کی گہرائی
 معلوم کرنے کی سلائی۔
 الحَوْضُف۔ وہ شخص جس کا لال ضائع ہو گیا ہو۔
 الحَوْضُف۔ محروم۔ کم نصیب۔
 الحَوْضُف۔ برت سے اصیل اونٹ۔
 الحَوْضُف۔ اصیل لاغرا اونٹنی۔
 حَوْضُف۔ اکٹھا ہونا۔ کہا جاتا ہے۔
 "حَوْضُفُوا اللزواج" جانے کیلئے اکٹھا ہونے
 "حیات حَوْضُفَات" مہرہ اشعار۔

لفحرم" میں دونوں معنی جمع ہو گئے ہیں۔ یعنی
ذروعت ورنہ خیر سے محروم رہو گے۔

استحرم۔ الشئ: حرام سمجھنا۔

الجزم۔ ہ۔ حرام ایسا واجب جس کا ترک کرنا
جائز نہ ہو۔ ج حزم۔ احرام کا زمانہ۔

الجزم۔ ہ۔ حج کا حرام۔

الحزم۔ ہ۔ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے
اور جس کی طرف سے مداخلت کی جائے۔

مقدس۔ ج احزام۔ الحزم الاقصى: بیت
المقدس

الحرمات۔ نکتہ مکرمہ مدینہ منورہ۔

الجزمات۔ محرومی۔

الحزمۃ مقولہ الحزمۃ مقولہ الحزمۃ ذمہ نسبت ہر
وہ چیز جس کی ادائیگی ضروری ہو اور جس کے

اندر کو تاسی حرام ہو۔ حصہ۔ قابل حفاظت چیز جس
کی پردہ وری حرام ہو۔ حزمۃ الرجل: بیوی۔ ج۔

حزمۃ حرمات و حزمۃ حرمات۔

الحزمۃ۔ حفاظت۔

الحرمیم۔ ہ۔ ہر وہ چیز جو حرام ہونے کی وجہ
سے چھوئی نہ جائے۔ محرم کا پڑا۔ حرمیم

الرجل: جس کی طرف سے مداخلت اور اس کی
حفاظت کی جائے اور اسی وجہ سے بیوی کو حرمیم

کہتے ہیں۔ قمر شاہی کے ارد گرد وسیع جگہ ہر وہ
جگہ جس کی حفاظت واجب ہو۔ ج حزمۃ و حزمۃ

و احرام۔

الحزم۔ ایک شخص کی بیویاں۔ الاظہر
الحزمۃ نعمة: ذوالنعمہ و ذوالحجہ و محرم و رجب

کہ ان بیٹوں میں عرب قبل و قبال کو حرام سمجھتے
تھے۔

الحرمۃ۔ ہ۔ ہر مرغوب چیز سے جو فوت ہو
جائے۔

الحزام۔ ہ۔ ضد حلال۔ ج حزم۔ کہا جاتا ہے
"حرام اللہ لا الفعل" "تم کیلئے جیسے "بھینٹ

اللہ لا الفعل" احرام باندھنے والا۔ کہا جاتا ہے
"رجل حرام و قوم حرام" احرام باندھنے والا

مرد احرام باندھنے والی قوم۔ دونوں صورتوں میں
واحد ہی مستعمل ہے اس وجہ سے کہ یہ مصدر

ہے۔ الشہرۃ الحزام بلہ محرم۔ البلد الحرام:

نکتہ مکرمہ۔ المسجد الحزام: مسجد کعبہ۔

الحزامیۃ۔ حرام کام کرنے والا۔

مخزم۔ قمری سال کا پہلا مہینہ۔ المحزم: جس
کے لیے ذمہ ہو۔ جلد محزم: بے کمائی ہوئی

کمال موقوفہ محزم: کوڑا جو نرم نہ کیا گیا ہو۔
آخر ای محزم: آجدرہائی۔

المخزم۔ حرام۔ ج مخاریم۔ معاریم اللیل:
رات کے فطرات۔

المخرم۔ احرام باندھنے والا۔ صلح کرنے والا۔ ہر
وہ شخص جو تمہاری حفاظت میں ہو۔ کہا جاتا ہے

"انہ لمخرم عنک" یعنی اس کی تکلیف
تمہارے اوپر حرام ہے۔

المخزم۔ خیر سے روکا ہوا۔ وہ شخص جس کے
مال میں زیادتی نہ ہو۔ وہ بد نصیب جو کمال نہ کر سکتا

ہو۔

المخزومۃ و المخزومۃ۔ ہر وہ چیز جس کی پردہ
وری جائز نہ ہو۔ ج مخاریم۔

المخزومۃ۔ چھوٹا ٹیلا جس پر کھنہ نہ آگے۔

المخزم۔ گائے۔ واحد (مخزومۃ)

المخزم۔ بست مال۔

مخزمۃ۔ ہی الامر: احرام کرنا۔

الجزمۃ و الجزمۃ۔ رنگ و بول پر لاہو اور بقول
بعض سیاہ بچھڑ

مخزمۃ۔ نعمت کرنا۔

مخزمۃ۔ ذکی ہونا۔

الجزمۃ۔ جگنا۔ کہا جاتا ہے "بلد جزمۃ و
أرض جزمۃ" یعنی تخت۔ "سنون

جزمۃ" تخت قحط کے سال۔ اس کا واحد
جزمۃ ہے۔

الحزمۃ۔ کالا دانہ۔

حزون و حزن (ان وک) حزن و حزن
و جزالۃ البغل: اڑ جانا۔ صفت مذکر و مؤنث

(حزون) ج حزن۔ و حزن فی البیع: ٹھیک
قیمت پر بیچنا۔ حزن (ک) حزنۃ۔ بالمکان: جگہ

سے نہ ہٹنا۔ العسل فی الخلیۃ: شہد کا
چھت میں چپکے کی وجہ سے نکالنے میں دشواری

ہونا۔ و حزن القطن: ڈھنڈا۔

المخزن۔ ڈھنڈے کی کمان۔

المخزان: شہد۔ ج مخاریم۔

المخاریم۔ بنولے۔

الحزا۔ گھر کا صحن۔ کہا جاتا ہے "تزلزلت
بَحْرَاءُ" میں اس کے صحن میں آڑا۔ آواز۔ گرہ۔

ہرن کے چھینے کی جگہ۔ ج اخزاء۔ الحزا: لائق۔
کہا جاتا ہے "بالحزا ان یکون ذاک"

الحزاۃ۔ رائی وغیرہ کی بیوی۔

الحزوة۔ گلے یا سینے میں یا سر میں غصہ یا درد
کی وجہ سے جلن۔ بدلو کے ساتھ چہ پراہٹ۔

حزوی (ض) حزوۃ الشئ: گھٹانا کم ہونا۔

أحزوی الشئ: گھٹانا کم کرنا۔

تحزوی۔ قابل استعمال کو طلب کرنا۔ دو چیزوں
میں سے اولیٰ کو طلب کرنا۔ الأثر: قصد

کرنا اور فضیلت دینا۔ بالمکان: ٹھہرنا۔

المخزوی و المخزوة۔ لائق سزاوار۔ کہا
جاتا ہے "هذا الامر محزوی او محزوة"

لذلک او بذالک" یعنی یہ کام اس کے لائق
ہے۔

الحری۔ ج حریون و آخریاء مؤنث حریۃ
ج حریات و حرایا (الحری) ج اخراء

(الحری) لائق سزاوار۔ مناسب: کہا جاتا ہے۔
"انہ لخری او حری او حری بکذا بان یفعل

کذا" یعنی وہ فلاں چیز کے لائق ہے اور فلاں کام
کرنے کے لائق ہے۔ (آخر کلمہ کے تشبیہ و جمع

نہیں آتے)

الحاریۃ۔ بہت زہریلا سانپ جو پرانے ہونے
کی وجہ سے چھوٹا ہو گیا ہو۔

الأحری۔ زیادہ لائق زیادہ مناسب زیادہ بہتر۔
حزۃ (ن) حزوا و احتزۃ۔ کاٹنا۔ حز العود:

شکاف ڈالنا۔

بَحْرَاءُ۔ شکاف پڑنا۔

حزوا۔ حزوۃ علی کوم فلان: بڑھ جانا۔

حزوا۔ آسانہ: کناروں کو تیز کرنا۔

حازۃ۔ محازۃ و جزاؤا۔ پوری کوشش کرنا۔
انچی طرح سے تلاش و جستجو کرنا۔

الحزۃ۔ ہ۔ وقت۔ تخت گنگو والا۔ کزوی وغیرہ
میں شکاف۔ واحد (حزۃ)

الحزۃ۔ درودل۔ وقت۔ کہا جاتا ہے "انہ حزۃ"

<p>تھوڑے۔ "وہذا الحزب" یہ دھواں رہے۔ الحزب۔ لوگوں کی جماعت۔ تھیما۔ پارٹی۔ حصہ۔ ورد۔ وظیفہ۔ ج. الحزاب۔ ہر وہ قوم جس کے خیالات و افکار ایک ہوں اگرچہ آپس میں ملاقات نہ ہو۔ الحزایین والحزایین۔ من الرجال: گھٹے بدن والا۔ بہت قد۔ الحزینون والحزینون۔ کھوسٹ بڑھیا۔ حَزْر (ن ض) حَزْرًا و حَزْرَةً۔ الشَّقُّ: اندازہ کرنا، تخمینہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "حزرو قدمہ یوم کذا" اس نے اپنے آنے کا فلاں دن اندازہ کیا حَزْر (ک) حَزْرًا و حَزْرًا (النَّبِیُّذُ) او اللہن: کٹھن۔ صفت (حازر) الحزرة۔ ج. حَزْرَاتٍ و (الحزیرة) جن کل شی: عمدہ حصہ۔ الحازر۔ جو کائنات میں بوسیدہ ہو گئی ہو۔ الحازرة: حازر کا مؤنث: مشہود قوی آنکھی۔ الحزور والحزور۔ طاقتور لڑکا۔ ج حزاوڑة: کمزور مرد۔ طاقتور مرد۔ الحزوزة۔ معہ۔ پستیاں۔ پھیلی (عوام کی لغت ہے۔ فصیح لفظ "الاحجیة" ہے۔ الحزور۔ ٹھنکنا۔ الحزوزة۔ چھوٹا ٹیلہ۔ ج. حزاوڑو حزاوڑة الحزوزة۔ چھوٹا ٹیلہ۔ ج. حزاوڑو حزیران۔ ماہ جون۔ شمسی سال کا چھٹا مہینہ۔ حزیر۔ القوم للقوم: جنگ کیلئے آمادہ ہوتا۔ حزیر الإفاء: بھرتا۔ المتاع: باندھنا۔ الحزیرة۔ چھری، ہوار زمین۔ حزقی (ض) حزقًا۔ القوت اور الریاض: خوب کھینچ کر باندھنا۔ الشئی: دیا کر چھڑنا۔ الحماز: گوز کرنا۔ بالجبل: رشتی سے باندھنا۔ الحزقة۔ منع کرنا۔ روکنا۔ حزقی۔ سکرنا۔ الحزق والحزقة والحزقة والحزقة والحزقة۔ آری وغیرہ کی جماعت۔ حزقیقہ کی جمع حزایق و حزینق و حزینق۔ ہر چیز کا</p>	<p>آکھنٹی قضیت حاصتک میں نے اس وقت تیری حاجت پوری کی جب تم میرے پاس آئے۔ دشوار حالت الحزاز والحزازة۔ سرکی بھوسی۔ عوام حزاز کو دار کے معنی میں استعمال کرتے ہیں مگر فصیح لفظ اس کیلئے قویا ہے۔ الحزازة: غمہ وغیرہ کی وجہ سے دل کا درد گفتگو میں بے راہ روی۔ ج. حزازات۔ الحزاز والحزاز۔ ہر وہ چیز جو دل یا سینہ میں باعث تکلیف ہو۔ حزاز۔ القلب: دل کو آلم پہنچانے والے امور۔ واحد (حازة) الحزیز۔ سخت عمل کرنے والا ج. حزوز حزان وحزان وأحزرة۔ الحزازی۔ سخت عمل کرنے والا۔ تیز ہانکنے والا۔ الحزوز۔ کانٹے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے۔ "قطع فاصاب الحزوز" اس نے قطع کیا اور درست قطع کیا۔ الحزوز۔ کانٹے کا آلہ۔ ج. محاز۔ سخت گفتگو والا۔ الحزوز۔ سختی۔ الحزوزة۔ بھڑکا کرنا۔ جمع کرنا۔ اکٹھا کرنا السراب الشخص: نمایاں کرنا المرأة: جماع کرنا۔ الحزوزا۔ الطائر۔ پروں کو سمیٹ کر اڑوں سے علیحدہ ہونا۔ الابل: اکٹھا ہونا۔ حزوتہ (ن) حزوتًا۔ الویل الغم: بچھڑنا۔ لاحق ہوتا۔ سخت ہوتا۔ حزاب القرآن: ایک حصہ مقرر کر کے پڑھنا۔ حزاب۔ القوم: پارٹی پارٹی کر کے جمع کرنا۔ حزابہ۔ کسی کی پارٹی میں داخل ہونا۔ مدد کرنا۔ قوت پہنچانا۔ حزاب۔ القوم: اکٹھا ہونا۔ پارٹی پارٹی ہونا۔ الحزاب۔ ج. حزاب و (الحزب) ج حزاب و حزاب: امر شدید۔ تم کہتے ہو "نزلت یہ حزاب الخطلوب" اس پر سخت حادثے واقع</p>
--	---

کرنا۔ افسوس کرنے پر برا لگینے کرنا۔ تکلیف دینا۔
خاترت کرنا۔

أَحْسَرُ - الدابة: چلا کر تھکانا۔

تَحْسَرُ - عليه: افسوس کرنا۔ الشَّعْرُ

او الریش: گرنا۔ جھڑنا۔ تَحْسَرُ الطائر: پروں

کا گرنا۔ تَحْسَرَتِ المرأةُ: برہنہ زوہو کر بیٹھنا۔

إِنْحَسَرَ الشَّيْءُ: کھلنا۔ الطیورُ: پڑانے پڑے

گر کر کے لگانا۔

اِسْتَحْسَرَ: جھٹلانا۔

أَلْحَابِسُ: قا۔ بغیر عمد یا بغیر زور یا بغیر خود والا۔

عورت جس نے اپنے چہرہ سے اوزنی کو ہٹا دیا

ہو۔

الْحَبِيسُ: تھکانے والا۔ افسوس کرنے والا۔

الْحَبِيسُ: تھکا ہوا۔ کزور۔ افسوس کرنے والا۔

تھکانے والا۔ حَسْرَى:

الْحَسْرَانُ: فوت شدہ چیز پر زیادہ افسوس و

صرت کرنے والا۔

التَّحَابِيسُ: مصیبتیں۔ بلائیں۔ واحد

(تَحْسِيرُ)

الْمَحْسِرُ وَالْمَحْسَرُ: چہرہ۔ کہا جاتا ہے

"فَلَانٌ مَلِيحٌ الْمَنْظَرُ وَكَرِيمٌ الْمَحْسَرُ"

فلاں دیکھنے میں خوبصورت اور باطن کے لحاظ

سے کریم ہے۔ طبیعت: ح محاسب۔ کہا جاتا ہے

"أَرْضٌ عَارِيَةٌ الْمَحَابِسُ" بغیر نباتات والی

زمین۔

الْمَحْسُورَةُ: جھاڑو۔

الْمَحْسُورُ: البصر: جھل ہوئی نگاہ والا۔

حَسَفْتُ (ض) حَسَفًا وَحَسِنُفًا الْحَيْثُ:

پھکارنا: حَسَفْتُ (ض) حَسَفًا السَّحَابُ: چلنا

_____ الغنم: ہانکنا التمر: صاف کرنا القرحة:

چھیلنا۔

(حَسَفًا وَحَسَفًا) الزَّرْعُ: کاٹنا۔

حَسَفْتُ (س) حَسَفًا: لہ: کینہ رکھنا۔

غضبناک ہونا۔

أَحْسَفُ: التمر: عمدہ کھجوروں میں رومی

کھجوریں ملا دینا۔

حَسَفْتُ: التمر: عمدہ کھجوروں میں رومی

کھجوریں ملا دینا۔

وَالْمَحْسَبَةُ: چھوٹا کتے۔

مَحْسَبٌ: التلذذ: شرمیں حاکم کی طرف سے

اوزان وغیرہ کی دیکھ بھال کے لیے جو مقرر ہو۔

حَسْبَلُ: حسبی اللہ کرنا۔

حَسْحَسْ: لہ: درود مند ہونا۔ اللحم:

گوشت کو انگاروں پر ڈال کر لٹائینا۔

تَحْسَحَسْ: للقیام: حرکت کرنا۔

اوبار الاہل: متفرق و پراگندہ ہونا۔ گر جانا۔

حَسَدْتُ (ان ض) حَسَدًا وَحَسَادَةً وَ

حَسَدْتُ: فلانا نعمته وعلی نعمته: زوال

نعمت کی تمنا کرنا یا دوسرے سے نعمت کے زوال

اور اپنے لیے حصول کی تمنا کرنا۔

صفت (حایب) ح حَسَادٍ وَحَسَدَةٍ وَحَسَدٌ:

أَحْسَدٌ: حاسد پانا۔

تَحَاَسَدًا: ایک دوسرے کے زوال نعمت کی

تمنا کرنا۔

الْحَسُودُ: وہ شخص جو طبعاً حاسد ہو (فد کرد

مؤنث) ح حَسُودٌ:

الْحَسَادُ: بہت حد کرنے والا۔

الْمَحْسُودَةُ: باعث حد۔

الْحَسْدَلُ: چیڑی۔

حَسْرَانُ (ض) حَسْرًا: البصر: نگاہ کا تھک

جانا۔ الشَّيْءُ: کھل جانا۔ الماءُ: نیچے آنا جانا

_____ حَسْرًا: الرجل والداية: جھٹلانا۔

حَسْرَانُ (ض) حَسْرًا: الشَّيْءُ: کھلنا۔ کہا جاتا

ہے "حَسْرٌ كُفْمٌ عَنِ ذِرَاعِهِ" یعنی اس نے

آستین چڑھائی۔ "وَحَسْرَتِ الْجَارِيَةِ حَمَازٌ هَا

عَنْ وَجْهَيْهَا" یعنی لڑکی نے اپنی اوزنی اپنے چہرہ

سے ہٹا دی۔ صفت مؤنث (حایب) ح حَسْرٌ وَ

حَوَابِسٌ:

الْحَسْرُ: میدان جنگ کے پیادے جن کے سر

اور چہرے کٹے ہوئے ہوں یا جن کے جسم پر زور

اور سر پر خود نہ ہوں _____ الفصن: چھیلنا

_____ البيت: جھاڑو دینا۔ الدابة: چلا کر

تھکانا۔

حَسِرُ (س) حَسْرًا: تھکانا۔ (_____ حَسْرًا وَ

حَسْرَةً) افسوس کرنا۔

حَسْرٌ: الطیورُ: پروں کا گرنا حَسْرَةً: افسوس

بچہ مر جائے تو اس کے لیے افرطہ آتا

ہے۔ عند اللہ خیرُ الثواب کی امید رکھنا۔

کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يُحْتَسِبُ بِهِ" یعنی فلاں

اس کے مقابلہ میں کسی شرمیں نہیں و "فَلَانٌ

اسْتَعْطَانِي فَأَحْسَبْتُهُ" فلاں نے مجھ سے

علیہ مانگا اور میں نے اس کو کافی دیا۔

الْحَابِسُ: حاب داں۔ ح حَسْبَةُ

الْحَسْبُ: مد۔ کافی ہونا۔ کہا جاتا ہے

"حُسْبُكَ دَرْهَمٌ" اور باغ کی زیادتی سے

"بِحُسْبِكَ دَرْهَمٌ" بھی کہا جاتا ہے یعنی

تمہارے لیے ایک درہم کافی ہے۔ و ہذا رجلٌ

حَسْبُكَ مِنْ رَجُلٍ" یہ مرد تمہارے لیے اس

مرد سے کافی ہے و "زَيْدٌ صِدْقِي فَحَسْبِي" او

فَحَسْبٌ" زید میرا دوست ہے اور میرے لیے

کافی ہے۔

الْحَسْبُ: حَسْبٌ كَامِدٌ: عدد۔ اندازہ کہا

جاتا ہے "هَذَا بِحَسْبِ ذَاكَ" یہ اس کے

موافق ہے و اَعْمَلُ عَلِيٍّ حَسْبُ مَا أَمَرَكَ"

یعنی کر اس کے موافق جیسا میں نے تم کو حکم دیا

ہے۔ "وَحَسْبُ مَا ذَكَرُ" موافق اس کے جو ذکر کیا

گیا۔ خاندانی شرافت: آباء و اجداد کے مفاخر۔

الْحَسْبُ: شمار کیا ہوا۔

الْحِسَابُ: مد۔ شمار۔ کافی۔ کہا جاتا ہے

"أَعْطَاهُ عَقْلًا حَسَابًا" اس نے اس کو کافی دیا۔

لوگوں کی بڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے "انابی

حَسَابٌ مِنَ النَّاسِ" جیسا کہ کہا جاتا ہے "جَاءَ

نَبِيٌّ عَدَدٌ مِنْهُمْ وَيَرْزُقُ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ

حَسَابٍ" اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر کسی دنگی کے

رزق دیتا ہے۔ حَسَابٌ الْجُمَّلُ: حروف ابجد کا

حساب۔ يَوْمَ الْحِسَابِ: قیامت کا دن۔

الْحِسَابِيُّ: حساب داں۔

الْحَسْبَةُ: مد۔ میت کو پتھروں میں یا کفن کر دینے

کرنا۔ ثواب: جزا۔ ح حَسِبُ:

الْحَسِيبُ: خاندانی شرف والا۔ حساب جانچ کر

کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا"

الْحُسَيْنَانُ: حساب۔ چھوٹے تیز۔ واحد

(حُسَيْنَانَةٌ)

الْحُسْبَانَةُ: کڑک۔ باول۔ اولے۔ چوٹی)

الاسماء الحسنى: اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام۔

الحسنيان: فتح مندی و شادیت۔ کہا جاتا ہے "حُسَيْنًا وَ حُسَيْنًا ؕ اَنْ يَفْعَلَ كَذَا" اس کیلئے انتہا ہے اور جن کاموں کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے ان میں بہتر یہ ہے کہ ایسا کرے۔ الحشون: ایک خوبصورت خوش آواز چھوٹا سا پرندہ۔

المحسنان: بہت بھلائی کرنے والا۔ التحاسين: اچھی چیزیں۔ کہا جاتا ہے "ما اَبْدَعَ تَحَاسِينِ الظَّوْءِ وَ تَرَائِيهِ" مور کی خوبی اور زینت کس قدر نادر اور عجیب ہے۔ المحسنة: سبب حسن۔ کہا جاتا ہے "هذا طعامٌ مُحَسَّنٌ لِلجَنِينِ" یہ خوراک جسم کیلئے باعث حسن ہے۔

الحسنة: پہاڑ کا ٹکڑا ہوا گوشہ۔ حَمَا (ن) حَسْوًا وَ تَحْسَى وَاحْتَسَى المرق: تھوڑا تھوڑا پینا۔ الطائر الماء: چرچ سے پانی پینا۔

حَسَى وَاحْتَسَى وَ حَسَى الرجل المرق: تھوڑا تھوڑا پلانا۔ تحاسنیا: ایک دوسرے کو شہر پلانا۔

الحسوة والحسا والحساء والحسوة: ہر رقیق چیز جو پی جا سکے۔ اور اسی سے ہے "يَوْمٌ كَحَسْوِ الطير" یعنی بہت چھوٹا دن۔ ایک قسم کا کھانا جو آکا اور پانی ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ الحسوة: بہت گھونٹ گھونٹ پینے والا۔ الحسوة: حسا کا اسم مرہ۔ گھونٹ۔ ح حسوات۔

الحسوة: ایک مرتبہ گھونٹ لگانے کا اندازہ۔ کہا جاتا ہے "في الاناء حسوة" برتن میں ایک گھونٹ کی مقدار ہے۔ ح أَحْسِيَّةٌ وَ أَحْسُوَّةٌ وَ ح أَحْسَانٌ۔

الحسوة: وہ چیز جو پی جا سکے۔ حَسَى (ض) حَسِيًا وَ احْتَسَى: نرم دلدلی زمین۔ المحساة: پانی کھینچنے کا تیل۔ حَشَّ (ن) حَشًّا: العشب: کاٹا۔

النار: سلگان اور کریدنا۔ الحرب: بھڑکانا۔ الفرس: گھاس ڈالنا۔ اور اسی سے حش ہے۔ "أَحْشَكَ وَ قَرَوَيْسِي" میں تیرے لئے گھاس ڈالتا ہوں اور تیرے اوپر لیر ڈالتا ہے یعنی میں تیرے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور تیرے ساتھ بڑائی سے پیش آتا ہے۔ المان: بڑھانا۔ زیادہ کرنا۔ الصيد: دونوں جانب سے گھیرنا۔ حَسْبُ البئذ: شل ہونا۔ الولد في بطن الناقة: بیٹ میں خشک ہونا۔ الفرس: تیز دوڑنا۔

أَحَشَّ: الكلاء: کاٹنے کا وقت قریب آنا۔ الارض: گھاس والی یا بہت گھاس والی ہونا۔ أَحَشَّةٌ: گھاس کاٹنے میں مدد دینا۔ أَحْسَبُ الناقة: او المرأة: پیٹ میں پختہ خشک ہونا۔ صفت (ضعف) أَحْسَبُ عن حاجته: جلدی کرنا۔

احشش: الحشيش: گھاس جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ احشش الرجل: پیاسا ہونا۔ العصف: لمبی ہونا۔ البئذ: شل ہونا۔ العظم: باریک ہونا۔

الحشيش: خشک گھاس۔ واحد (حَشِيشَةٌ) الحشيشة: بھنگ۔ الحشاشة والحشاش: مریض یا زخمی کی بقیہ روح۔ کہا جاتا ہے "حشاشا ک ان تفعل کذا": تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔ الحش والحشن والحش: بارغ۔ گھجروں کا جھنڈ پانچمانہ۔ ح حشوش وحشون۔ الحش بالضم: ہال کے پیٹ میں مرہ پختہ۔ الحش بالكسر: کچھ۔ الحش بالفتح: چھوٹا مرہ یا ہوا گھجور کا پودہ۔ ح حششان۔ الحشنة: بڑا قبہ۔ الحشاش: گھاس کی گون۔ ہر چیز کا کنارہ۔ ح أحشة۔

الحشاش: گھاس کا جمع کرنے والا یا بیچنے والا۔ بھگ پینے والا۔ ح حشاشون وحشاشه۔ الأَحْشُوشُ وَ المَحْشُوشُ: ہال کے پیٹ میں خشک پختہ۔

المحش وَ المحشنة: بہت گھاس والی جگہ۔

ح محاش: المحشنة: دور۔

المحش: گھاس کاٹنے کی دانتی۔

(۔۔۔ وَ المحشنة) آگ ہلانے کی لوہے کی کرہ۔ مٹی۔ المحشش: دلاور۔

حشأف (حششأ النار: روشن کرنا۔

ہ ہسہم: کسی کے جوف میں تیر مارنا۔

ہ بسوط: پیٹ یا پھلو پر کوڑا مارنا۔ المرأة: جماع کرنا۔

المحشأ: موٹا کبل۔ ح محشاشی۔

أَحْشَبَهُ: غھمبناک کرنا۔

إَحْشَبُوا: اکتھا ہونا۔

المحشوبة: لوگوں کی جماعت۔

المحشوب: خرگوش۔ مچھرا۔ زلومڑی۔

ڈبلا۔ چھوٹے ہوئے پہلوؤں والا (ضد)

حشششوا وَ حششششوا: اٹھنے کیلئے حرکت کرنا۔ حششششة: النار: جلاتا۔

تحششش القوم: متفرق ہونا۔

حششد (ن ض) حششدا: الشئ: جمع کرنا۔

(حششودا) الزئغ: پوری طرح اٹنا۔

الناقة: تھن میں دودھ جمع کرنا۔ القوم: پکار کا جلدی جواب دینا۔

حششدا: الشئ: جمع کرنا۔

أَحْشَدٌ وَ تَحْشَدٌ وَ تَحَاشَدٌ وَ احْتَشَدَ القوم: ایک مقصد کیلئے جمع ہونا۔ کہا جاتا ہے "إِحْتَشَدَ لِنَافِي الضَّيَالَةِ" اس نے مہمانی میں دریا دلی سے کام لیا۔ "وَ احْتَشَدَ لِفُلَانٍ فِي كَذَا" اس نے فلان کیلئے تیار کیا۔

الحششد: ہ۔ (۔۔۔ وَ الحششد) جماعت۔ کہا جاتا ہے "عندى حششد من الناس" میرے پاس لوگوں کی جماعت ہے۔ ح حششود۔

الحشاشد: قا۔ بغیر کو تابی کے اونٹنی کا دودھ دینے والا۔ بہت دانوں والا گھجور کا کھما۔ مستعد و تیار۔ کہا جاتا ہے "فلانٌ حَاشِدٌ" لاس خدمت میں پوری کوشش کرنے والا ہے۔

الحششد: وہ شخص جو مدد کرنے اور مال خرچ کرنے اور کوشش کرنے میں درلج نہ کرے۔ ح حششد: عين حششد: چشمہ جس کا پانی خشک نہ ہو۔

یَا کَم بَالٍ وَالْاِهْوَا - صفت (احصص)
 حَصَصَ - الامور: ظاہر ہونا۔
 اَحْصَهُ: حصہ دینا۔ اَحْصَهُ الْمَكَانَ: جگہ میں
 آتا رہا۔
 حَاصٌّ مَحَاصِةٌ الْفَرَمَاءُ: حصے تقسیم کرنا۔
 قَحَاصٌ - الْقَوْمِ الشَّيْءِ: آپس میں حصے تقسیم
 کرنا۔
 اِنْحَصَّ - الشَّعْرُ: جھڑنا، گرنا
 اللحية: ٹوٹے ہوئے بالوں والی ہونا
 الذَّنْبُ: بکٹ جانا۔
 اَلْحَصَصُ - سر کے بالوں کی کمی۔ سر کے بالوں
 کا چھوٹا ہونا۔
 اَلْحِصَّةُ - حصہ۔ ج۔ حَصَصَ۔
 اَلْحِصْ - زعفران۔ موتی۔ ج۔ حَصُوصٍ و
 اَحْصَاصٍ۔
 اَلْحِصَاصُ - دوڑنے کی تیزی۔ خارش۔ گوز۔
 اَلْحِصَاةُ - انگوڑ کائے کے بعد ٹٹی میں جو
 باقی رہ جائے۔
 اَلْحِصَاةُ - خاک۔
 اَلْحِصَاةُ - ایک بیماری جس سے سر کے بال گر
 جاتے ہیں۔
 اَلْاَحْصُ - سر میں کم بالوں والا۔ وہ شخص جس
 کے سینہ میں بال نہ ہوں۔ من الطیور:
 پرندہ جس کے بازو کے پر گر گئے ہوں۔ مؤنث
 حَصَّاءُ - بَیْزٌ اَحْصُ: بغیر بدلے کے سخت سردی کا
 دن۔ سَبَفٌ اَحْصُ: بغیر جوہر کے کوار۔ سَنَّةٌ
 حَصَّاءُ: خشک سال جس میں پیداوار نہ ہو۔ ریح
 حَصَّاءُ: بغیر غبار کے صاف ہوا۔
 اَلْحِصْبِیْنِ - عدد: کہا جاتا ہے "حَصْبِیْنِمْ
 کَذَا" ان کی تعداد اتنی ہے۔ گدھے، اونٹ کے
 گرے ہوئے بال۔
 اَلْحِصْبِیَّةُ - مؤنث: گریا اُکھڑ کر حصے کئے ہوئے
 بال۔ کان کے بال۔
 حَصَّاءُ وَحِصْبِیٌّ (س) حَصَّاءُ: الرضیع: حکم
 سیر ہو کر دودھ پینا۔ من الماء: سیراب
 ہوتا۔
 اَحْصَاءُ: سیراب کرنا۔
 حَصْبَةٌ (ن) حَصْبًا: لکڑی سے مارنا تو

اَلْمَحْضِی - پیٹ میں کھانے کی جگہ۔
 اَلْمَحْضِی - گدی جس کو عورتیں بدن کے کسی
 حصہ کو نمایاں ہونے کے لئے باندھتی ہیں۔ ج
 مَحَاضِیٌّ۔
 اَلْمَحْضَاةُ - مِنَ الْبِطْنِ: پیٹ کا وہ نچلا حصہ
 جس میں کھانا رہتا ہے اور جو مخرج تک پہنچتا ہے۔
 حَشِیٌّ (س) حَشِیٌّ - الرَّجُلُ: ضیق النفس کی
 بیماری میں مبتلا ہونا۔ السِّقَاءُ: مہلک کے
 اندرونی حصہ میں دودھ کی بند جم جانا۔
 حَشِیٌّ - النَّوْبُ: گوت لگانا۔ الْکِتَابُ: حاشیہ
 لکھنا۔ صفت قاضی (مَحْشٍ) اور مفعولی
 (مَحْشِیٌّ)
 حَاشًا مَحَاشَاةً: زیداً مِنَ الْقَوْمِ: اشتاء کرنا۔
 تَحَشَّى: فَلَانًا: اشتاء کرنا۔ تَحَشَّى مِنَ
 الشَّيْءِ: وَ (تَحَاشَى) عَنِ الشَّيْءِ: بچنا، ڈور رہنا۔
 وَ تَحَشَّى فَلَانًا: بذمت سے بچنا۔
 اَلْحَشِی - ضیق النفس کی بیماری۔ پیٹ کے
 اندر کی چیزیں جیسے کبھی، تلی، اوجھری وغیرہ ج
 اَحْشَاءُ۔
 حَاشًا: کلمہ اشتاء جس کے زبیر مستحی کو مستحی
 مذ کے حکم سے تنزیہاً خارج کیا جاتا ہے جیسے
 صریت الْقَوْمِ حَاشًا زیداً: یہی وجہ ہے کہ صلی
 النَّاسِ حَاشًا زیداً کہا مستحی نہیں اس لئے کہ
 تنزیہ کے معنی نہیں بنے۔ اگر حَاشًا فعل ہو تو
 نصب ہو گا اور اگر حرف جر ہو تو مابعد حاشا پر جر
 آئے گا۔
 اَلْحَاشِیَّةُ - گوٹ۔ کنارہ۔ اہل و عیال اور خاص
 اپنے لوگ۔ کتاب کا حاشیہ۔ ج۔ حَوَاشِی۔ کہا جاتا ہے
 "رَجُلٌ رَاقِبٌ اَلْحَوَاشِی" اچھی صحبت کا مرد۔
 "وَ كَلَامٌ رَاقِبٌ اَلْحَوَاشِی" نرم گفتگو۔
 اَلْحَشِی - مؤنث حَشِیَّةٌ و (اَلْحَشِیَّانِ)
 مؤنث حَشِیَّاءُ: ضیق النفس کی بیماری میں مبتلا
 ہونے والا۔
 حَصٌّ (ن) حَصَّاءُ: الشَّعْرُ: موڑنا۔
 اَلْجَلِیذُ النَّیْتُ: پالے کا بنا تکت کو جلادینا۔
 حَصْنِی مِنَ الْمَالِ کَذَا: مال میں سے حصہ مقرر
 کرنا۔ الشَّيْءِ: لگانا۔ کات لینا۔
 حَصٌّ (س) حَصَّاءُ: گرے ہوئے سر کے بال

حَشْمَاءُ۔
 حَشِیٌّ (س) حَشِیَّاءُ: السِّقَاءُ: دیر تک دودھ
 رہنے کی وجہ سے بدبودار ہونا۔
 اَحْشَنُ - السِّقَاءُ: بدبودار کرنا۔
 حَاشِنَةٌ: باہم گال گلوچ کرنا۔
 قَحْشَنٌ - سیلا ہونا۔ کمائی کرنا۔
 اَلْحَشْنُ - دودھ کی چکنائش کی وجہ سے
 میل پکین۔
 اَلْحِشْنَةُ - کینہ۔
 حَشَانًا (ن) حَشَوًا: اَلْوَسَادَةُ بِالْفُطْنِ: نکیہ
 میں روٹی بھرنے۔ الرَّجُلُ: کسی کے حاشا پر
 مارنا۔ (دیکھئے لفظ الحشا)
 حَاشَاءُ: تھوڑی چیز ہونا۔
 اِحْشَی اِحْشَاءً: بھر جانا۔ کہا جاتا ہے
 "اِحْشَیْتُ الرُّمَانَةَ بِالْحَبِّ" انار دانوں سے
 بھر گیا۔ و اِحْشَی مِنَ الطَّعَامِ: وہ کھانے سے
 آسودہ ہو گیا۔ "اِحْشَیْتُ الْمَرْأَةَ اَلْحَشِیَّةَ
 وَبَهَا" عورت نے حَشِیَّةً کا استعمال کیا۔ (دیکھئے لفظ
 اَلْحَشِیَّةُ)
 اَلْحَاشِیَّةُ - مِنَ النَّاسِ وَالْاِهْلِ: چھوٹے
 چھوٹے جن میں بڑے نہ ہوں۔
 اَلْحِشَاءُ - بیلوں کے اندر کی چیزیں۔ پیٹ کے
 اندر کی چیزیں۔ ج۔ اَحْشَاءُ: کہا جاتا ہے "اِنْفَی
 حَشًا - فَلَانًا" میں فلاں کی پناہ میں ہوں۔ "وَ
 فَلَانًا خَیْرٌ هُمْ حَشًا" فلاں ان میں سے حفاظت
 کے لحاظ سے بہتر ہے۔
 اَلْحِشْوُ - دودھ چھوٹے چھوٹے آدمی یا اونٹ
 کلام کی زیادتی۔ رذیل لوگ وہ چیز جس سے کوئی
 چیز بھری جائے۔ سالہ جو بکری کے بیچ کے پیٹ
 میں بھرا جائے۔ ج۔ مَحَاشِی (خلاف قیاس)
 اَلْحِشْوَةُ وَ اَلْحِشْوَةُ - مِنَ الْبِطْنِ: آنتیں
 ردی چیز۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنَ حِشْوَةِ بَنِي
 فَلَانًا" وہ بنو فلاں کے رذیل لوگوں میں سے
 ہے۔
 اَلْحِشْوَةُ: توشک۔ گدی جس کو عورتیں
 بدن کے کسی حصہ کو نمایاں ہونے کے لئے
 باندھتی ہیں۔ ج۔ حَشَايَا۔
 اَلْحِشْوِيُّ: بک بک کرنے والا۔

<p>الحِصَانُ - موتی۔ الحِصَانُ - اسیل گھوڑا۔ ہر ز گھوڑا۔ ج أَحْصِنَةُ وَحُصْنٌ - الحِصِينُ - مِنَ الْأَمَاكِنِ : مضبوط۔ کہا جاتا ہے "دِئِجُ حِصِينٍ" مضبوط زرہ۔ و "حِصْنٌ حِصِينٌ" مضبوط قلعہ۔ أَبُو الحِصِينِ - مُضَفَّرًا : بومڑی۔ المِحْصِنُ - زنجیل۔ کالا۔ عمل۔ حِصَانٌ (ن) - حِصُونًا : ہرکانا۔ مع کرنا۔ الحِصْوَانُ - پیٹ کا دورہ۔ حِصِيٌّ (ض) - حِصِيَّتًا : الرجل : ننگری سے بارنا۔ حِصِيٌّ - مٹانہ میں پتھری کی پیاری والا ہونا۔ صفت (مَحْصِيٌّ) حِصِيَّتٌ (س) - حِصَا - الارض : بہت ننگری والی ہونا۔ صفت (مَحْصَاةٌ) حِصَاةٌ تَحْصِيَةٌ - بچانا۔ أَحْصَى - الشَّيْءَ - شمار کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْأَمْرُ لَا أَحْصِيهِ" یہ ایسا امر ہے جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ تَحْصِيٌّ - بچنا۔ الحِصْيُ - ننگری۔ واحد (حِصَاةٌ) ج حِصِيَّاتٌ وَ حِصِيٌّ وَ حِصِيٌّ وَ طَرْقُ الحِصْيِ : کہانت اور چادو کے اعمال میں سے ایک عمل۔ والحِصَاةُ : عدد۔ عقل و رائے۔ کہا جاتا ہے "فَلَا تَنْبِثُ الحِصَاةُ" فلاں عاقل ہے۔ الحِصِيٌّ - بڑا عقلمند۔ أَرْضٌ حِصِيَّةٌ - بہت ننگریوں والی زمین۔ نمر۔ (حِصْيُونٌ) بہت ننگری والی ندی۔ حِصَاةٌ (ن) - حِطَاوٌ حِصِيَّةٌ - علمی الامر : آگسا۔ برا گینڈہ کرنا۔ تَحَاصُّ - القَوْمُ : ایک دوسرے کو برا گینڈہ کرنا۔ إِحْتِصَانٌ - نفسہ : اپنے آپ سے زیادتی کا طالب ہونا۔ الحِطْصُ - چیز (اس کا استعمال بیشہ نفی کے تحت میں ہوتا ہے) جیسے کہا جاتا ہے "مَا عِنْدَهُ</p>	<p>ج حِصَائِلٌ - کہا جاتا ہے "مَا حِصَيْتَلَعَكَ وَمَا حِصَائِلُكَ" تمہارا حاصل کر وہ کیا ہے۔ المَحْصُولُ - حاصل۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَحْصُولٌ كَلَامِي" یہ اس کے کلام کا نتیجہ ہے "وَمَا الْفُلَانُ مَحْصُونٌ وَلَا مَغْفُونٌ" یعنی فلاں کے لئے رائے و تیز نہیں ہے۔ المِحْصَلُ - چھٹی۔ الحِصْيَلُ - بیگن۔ الحِصْيَلُ وَ الحِصْيَلُ - مٹی۔ حِصَمٌ (ض) - حِصْمًا - گوز کرنا (بقول بعض گھوڑوں کے لئے مخصوص ہے) إِنْ حِصَمَ العَوْدُ - ٹوٹنا۔ أَلْحِصِيمُ - چھوٹی ننگریاں۔ الحِصَامُ - گوز۔ الحِصَامُ وَ الحِصْمُ - گوز کرنے والا۔ الحِصْمَاءُ - گوز کرنے والی گدھی۔ المِحْصِيَّةُ - لوہے کا تھوڑا۔ حِصْنٌ (ك) - حِصَانَةٌ - مضبوط و استوار ہونا۔ صفت (حِصِينٌ) حِصْنَتٌ حِصْنًا وَ حِصْنًا وَ حِصَانَةٌ المَرْأَةُ : پاکدامن ہونا۔ صفت (حِصَانٌ) ج حِصْنٌ وَ حِصَانَاتٌ وَ حِصَانٌ وَ حِصَانِيَّةٌ ج حِوَاصِنٌ وَ حِصَانِيَّاتٌ وَ (حِصْنَاءُ) حِصْنَةٌ (ن) (ض) - حِصْنًا - مضبوط جگہ میں محفوظ کرنا۔ حِصْنٌ وَ أَحْصَنٌ - المَكَانُ : مضبوط بنانا۔ أَحْصَنُ : المَرْأَةُ : شادی کرنا۔ أَحْصَنَتْ المَرْأَةُ : شادہ شدہ ہونا۔ پاک دامن ہونا۔ صفت (مُحْصِنَةٌ) بفتح الصاد - أَحْصَنُ الرَّجُلُ : شادی شدہ ہونا۔ صفت (مُحْصِنٌ) تَحْصَنٌ - اپنے لئے قلعہ بنانا۔ تَحْصَنَتْ المَرْأَةُ : عقیقہ پاکدامن ہونا _____ الفُرْسُ : اسیل ہونا۔ الحِصْنُ - محفوظ و بلند جگہ۔ قلعہ۔ ہتھیار ج حِصُونٌ وَ أَحْصَانٌ وَ حِصْنَةٌ۔ الحِصَانِ وَ الحِصَانِيَّةُ - پاکدامن یا شادی شدہ عورتیں۔ ج حِوَاصِنٌ وَ حِصَانِيَّاتٌ۔ الحِوَاصِنُ - حاملہ عورتیں۔</p>	<p>حِصْفَةٌ (ن) - حِصْفًا - ڈور کرنا۔ أَحْصَفٌ - تیز روڑنا۔ صفت (مُحْصِفٌ وَ مُحْصِفٌ وَ مَحْصَافٌ) أَحْصَفُهُ : دور کرنا۔ الامر : مضبوطی سے کرنا _____ التَّسْبِيحُ : گف بنا _____ الحِجْلُ : مضبوط بنا : الحِرُّ فَلَانًا : ننگل غار میں جتلا کر دینا۔ إِسْتَحْصَفَ - الشَّيْءَ : مضبوط ہونا۔ _____ القَوْمُ : اکٹھا ہونا _____ الدهر عليه : خت ہونا _____ الحِجْلُ : مضبوط بنا۔ الحِصْفِيُّ - ہرے عیب مضبوط چیز۔ الحِصْفُ - ننگل غار۔ حِصَلٌ (ن) حِصُولًا وَ مَحْصُولًا۔ الشَّيْءُ : حاصل ہونا۔ ثابت ہونا۔ باقی رہنا۔ کہا جاتا ہے "حِصَلٌ عَلَيْهِ مِنْ حَقِّي كَذَا" اس کے اوپر میرے حق میں سے اتنا باقی رہا _____ لَهُ كَذَا : واقع ہونا _____ عِنْدَهُ كَذَا : پایا جانا _____ على الشَّيْءِ : جمع کرنا اور مالک ہونا _____ لِي عَلَيْكَ كَذَا : ثابت ہونا۔ واجب ہونا۔ حِصَلَتْ (س) - حِصَالًا - الدَابَّةُ : جانور کا مٹی یا ننگری کھانے کی وجہ سے پیٹ کے درد میں جتلا ہونا۔ حِصَلٌ - الشَّيْءُ او العِلْمُ : حاصل کرنا۔ _____ الكَلَامُ : نتیجہ اور مفاد کی جانب پھیرنا۔ _____ الذِّينُ : جمع کرنا۔ تَحْصَلُ - الشَّيْءُ : اکٹھا ہونا۔ ثابت ہونا۔ _____ مِنَ الْمَسْئَلَةِ كَذَا : کسی مسئلہ سے دوسرا مسئلہ نکالا جانا۔ الحِصَالُ - فا۔ کان سے نکالی ہوئی خالص چاندی _____ مِنْ كَلِّ شَيْءٍ : بقیہ _____ عند المُحَاصِبِينَ : حاصل ضرب۔ مخزون۔ (مولدہ) اور اسی سے ہے "حِصَالُ عَيْنِ المَاءِ" پانی کی نیکی۔ ج حِوَاصِلٌ۔ الحِصَلُ وَ الحِصَالَةُ - کلیان میں غلہ اٹھانے کے بعد جو کوزا کرکٹ باقی رہ جائے۔ الحِصِيلُ - حاصل کیا ہوا مال۔ ایک قسم کی نبات۔ الحِصِيلَةُ - تحصیل کا اسم۔ حاصل کر وہ بقیہ۔</p>
--	---	---

المُحْضَر والمُحْضِر. مِنَ الخَيْلِ
وغيرها: جَزُوْرُةٌ وَالرَّجْمُ مَحْضِرٌ.
المُحْضِرُ: شَرِيٌّ. شَرِيٌّ أَسْرَعُ وَالرَّجْمُ
المُحْضِرُ: قَرِيْبُ الرِّجْلِ. كَتَبَ فِي "الْبَيْتِ"
مُحْضِرٌ لَفِظُ اِنَاءِ كَ "وَدُوْدُ كَ لَفِظُ بَسْتِ"
آفَتْ بِهٖ اِسْمُ اِسْمِ بَرْتَنِ كُوْمِحَاوِ.
حَضْرَبَ: المَحْبَلُ اَوِ الوُتْرُ: بِاِيْدِ هِنَايَا مَضْبُوْبٍ
بُنَا.
المُحْضَرُ: مَجْرَاهُ اَوِ اِسْمُ
حَضْرَمٌ: فِي الكَلَامِ: اِعْرَابِيٌّ غَلَطِيٌّ كَرِهَ.
الشَّيْءُ: لَمَّا نَاحَ اِلْحَاءُ الشَّجَرِ:
جَمَالٌ اَتَارَتَا.
القَوْمُ: مَكَانٌ كُوْمَضْبُوْبٌ كَسَا.
الحَضْرَمِيَّةُ: مَشْكُوْمِيْسُ كَلْتِ.
حَضْرَمُوتُ: فِي جَانِبِ مَسُوْبٍ.
المُحْضَرُ: بِمَعْنَى المُحْضَرُومِ (رَبِّكَ لَفْظُ
المُحْضَرِ)
الحَضْرَفُ: سَابِقٌ.
حَضَلْتُ (س) حَضَلًا: المَخْلَةُ: دَرَجَتُ
تُرْبَاكُ وَنَحْلُ كَ جَزَاكَ اَتْرَابُ هُوَا.
حَضَنْ (ن) حَضْنًا وَحَضَانَةً وَاحْتَضَنْ.
الصَّبِيُّ: كُوْدٌ فِي لِيْمَا. پُرُوْرَشُ كَرِهَ. سِيْنَةُ
لَكَتَا: حَضَنْتُهُ عَن كَذَا: عَلِيْمُهُ كَرِهَ. دُوْرُ كَرِهَ.
حَضَنْ (ن) حَضْنًا وَحَضَانَةً وَحَضَانًا وَ
حَضُونًا وَاحْتَضَنْ. الطَّبِيْرُ يَبِضُّهُ وَ عُلَى
بَيْضُهُ: اَنْزَعُ سِيْنَا.
حَضَنْتُ (ك) حَضَانًا: المَرَاةُ اَوِ الشَّافَاؤُ
الثَّقَاةُ: اِيْكُ جَمُوْرُةٌ اَوِ اِيْكُ بُوْرُةٌ اَوِ اِيْكُ
تَمْرِنُ وَاِيْكُ هُوَا: صَفَتُ (حَضُوْنٌ)
أَحْضَنَ: الرِّجْلُ وَبِالرِّجْلِ: تَخَارَتُ كَرِهَ
أَحْضَنَ بِحَقِيْقَةٍ: جَنُّ اَبْرَأِيْنَا.
الحَضْنُ: كُوْدٌ اَتَمَّتْ مَقْدَارُ جُوْدُوْمِيْسُ اَسْكُ. كَمَا
جَاةٌ بِ"أَعْظَاهُ حَضْنًا مِّنَ التَّمْرِ" اِسْمُ
اِسْمُ كُوْدُوْمِيْسُ كَرِهُوْرِيْسُ وِيْسُ: كَسِيٌّ جَزَاكَ اَتَارَهُ.
بِهَاؤُ كِي جَزَاكَ: كَمَا جَاةٌ بِ"عَشَّشَ الطَّائِرُ فِي
جِصْنِ الجَبَلِ" پُرْدَسُ لَفِظُ اِيْكُ جَزَاكَ
كُوْمِسَا: جَاةٌ اَحْضَانًا وَحَضُوْنًا: الحَضْنُ
وَالْحَضْنُ: جُوْدُوْمِيْسُ.

المُحْضَنَةُ: حَضَنْ الطَّائِرُ كَالسَّمْرِ.
الحَاضِنَةُ: بِيْدُ كُوْدُوْمِيْسُ كَرِهَ وَاِيْكُ دَايَةُ: ج.
حَوَاضِنٌ: كَمَا جَاةٌ بِ"حَمَامَةُ حَاضِنٌ وَ
حَمَامٌ حَوَاضِنٌ".
الحَضَانَةُ: دَايَةُ كَرِهَ: پُرُوْرَشُ.
الحَضَانُ: وَهُوَ عَمَلٌ جَسْمَانِيٌّ خَصِيْبٌ دُوْرُ
سَ بُوْرُ اَوِ
المُحْضَنَةُ: بِهَالِ كِي مَانِدُ مَثِي كَا اِيْكُ بَرْتَنِ.
المُحْضَنُ: كُوْدُ.
حَضَا (ن) حَضُوًّا: النَّازِلُ: كَرِهَتِي سَ اَتَارَتَا.
المُحْضَنُ وَالمُحْضَنَاءُ: اَلْكُ اَتَارَتَا كِي
كَرِهَتِي.
المُحْضَنِيُّ: مَثِي كِي بِنِي هُوَتِي اَتَارَتِي.
حَضَلَّ (ن) حَضَلًا: اَتْرَا نَازِلُ هُوَا.
(حَضَلًا وَحَضُوْلًا) السَّمْرُ: سَتَا هُوَا
(حَضَلَّ ن) حَضَلًا: البَعِيْرُ: اِيْكُ جَانِبُ كَمِيْلُ كُو
وِيَا (حَضَلَّ وَاحْتَضَلَّ) الرَّجُلُ: مَسَا لَمَّا اَتَارَتَا
(ن) حَضَلًا وَاحْتَضَلَّ اِحْتَضَلًا) الشَّيْءُ: جَمُوْرَتَا.
رَكْنَا: الحَضَلُ: جَاوَرُ كِي بِيْدُ سَ اَتَارَتَا: كَمَا
جَاةٌ بِ"حَضَلَّ رَحْلُهُ" اِسْمُ اَتَارَتَا كِي
الحَضَلُ: بِاِيْدِ كَرِهَ: لُوْبُ سَ جَزَاكَ پُرُوْرَشُ
نَقَشُ كَرِهَ.
اِحْتَضَلَّ اَتْرَا: الثَّقَاةُ لِي سَبِيْحَا: تَمْرُ
دُوْرَتَا: السَّمْرُ: سَتَا هُوَا: كَمَا جَاةٌ بِ
"الْاَسْعَارُ حَاظِلَةٌ مِّنْ حَضَلَّةٍ" بِهَاؤُ سَتَا.
اِحْتَضَلَّ: نِيْعُ اَتْرَتَا كُو كَرِهَ: كَمَا جَاةٌ بِ
"اِسْتَحَضَلَّ فُلَانًا وَرُزَّةً" اِسْمُ لَمَّا سَ اَتَارَتَا
كَمَا رِيْعُ كُو كَمَا: مِّنَ التَّمْرِ شِيْنَا: كَمُوْمِيْسَا
كُو كَرِهَ.
الحِطَّةُ وَالحِطِّيْبِيُّ: اِسْتَحَطَّةٌ وَرُزَّةٌ كَالسَّمْرِ
هِيَ:
الحِطِّيْبِيُّ: جَمُوْرَتَا.
الحِطِّيْبَةُ: قِيْمَتُ كِي كِي.
الحِطِّيْبَةُ: كَمَا سِي.
الحِطَّاطُ: مَسَا: دُوْدُ كَ جَمَاكُ: وَاحِدُ
(حِطَّاطَةٌ)
الحِطَّاطُ: بُوْرُ.
الحِطَّاطُ: زَمُوْمَا نَاكُ اَجْسَامُ.

الحِطَّانُ: كَرِهَ.
الحِطُّوْبُ: اِسْمُ تَمْرٍ رَقِيْقًا رَاوَتِي.
الحِطُّ: زَمُوْمِيْسُ بِيْدُ اَوِ
المَحْطُ وَالمَحْطَةُ: اَتْرَتَا كِي جَدُ: تَمْرُ
كِي جَدُ: جَ مَحَاطٌ وَ مَحْطَاتٌ: المَحْطَةُ:
رَبُوْعُ اِسْتِيْنُ (جَدِيْدَا)
المَحْطُ وَالمَحْطَةُ: كَلْبِيٌّ اَوِ اَبُو جُوْمَلُ
نَقَشُ كَرِهَ كَ لَفِظُ مَنَا اَبُو اَبُو.
المَحْطُوْبُ: مَدَا اِيْمُ مَحْطُوْبُ: بِاِيْدِ كَمَا
هُوَ اَبُو: سَيْفٌ مَحْطُوْبٌ: تَمْرُ كِي هُوَتِي كُوَارُ.
حِطَّ (ف) حِطًّا: اَلرَّضُ بِهٖ: جَمَاؤَتَا.
بِهٖ عَن كَذَا: دَفَعُ كَرِهَ: مَنَا: جَمَاؤَتَا.
بِالشَّيْءِ: بِمَعْنَى.
الحِطِّيْبَةُ: بِصُوْرَتِ بَسْتِ تَمْرُ.
الحِطَّةُ: بَرْتَنِ كَا بَرْتَانِي: كَمَا جَاةٌ بِ"حِطَّةُ
مِنَ تَمْرِ" بِيْدُ پُرُوْرَشُ كَ لَمَّا نَقَشُ كَرِهَ.
الحِطِّيْبِيُّ: مِّنَ النَّاسِ: ذَمِيْلُ اَدُوْمِي: كَمَا جَاةٌ بِ
"هُوَ حِطِّيْبِيُّ بَطْنِي" وَهُوَ ذَمِيْلُ هِيَ: بَطْنِي لَمَّا نَقَشُ
هِيَ:
حِطَّبُ (ض) حِطْبًا وَاحْتِطَّبَ وَاحْتِطَّبَ
كَلْبِيٌّ هِنَا: صَفَتُ (حَاظِلُ) كَمَا جَاةٌ بِ"هُوَ
حَاظِلُ اَيْلِ" وَهُوَ مَشْكُوْمِيْسُ وُطْبُ وِيَا سَ لَمَّا
وَالاَبُ:
حِطْبَةُ: كَلْبِيٌّ اَتَارَتَا.
حِطْبٌ وَاحْتِطْبٌ: المَكَانُ: بِمَتِ كَلْبِيْوِيْسُ
وَاِيْكُ جَدُ هُوَا: صَفَتُ (حِطْبِيْبٌ) مَوْثُ
(حِطْبِيْبَةٌ)
حِطْبٌ: بِهٖ وِ عَلِيْهِ: جَمَلٌ كَمَا: حَمَتُ لَكَ: كَمَا
جَاةٌ بِ"حِطْبٌ لِي حَبْلُهُ" اِسْمُ اَسْمُ اَسْمُ اَسْمُ
وَاَمَاتُ كِي: "وَ حِطْبٌ عَلِيْهِ بِخَيْرٍ" اِسْمُ اَسْمُ
كِي اَسْمُ اَسْمُ اَسْمُ اَسْمُ.
اِحْتِطَّبَ وَاسْتَحْتِطَّبَ: الكَرَمُ: اَتَمْرُ كِي تَمْلُ
سَ شَاخِصٌ تَرَا شَيْءٌ كَاوَتُ اَتَا.
الحِطْبُ: اَبُو مِّنْ جَ اَحْتِطَّبَ: اِيْكُ كَرِهَ
كُوْحِطْبِيْبَةُ كَتَبَ هِيَ:
الحِطْبُ: مَوْثُ حِطْبِيْبَةٌ وَ (اَلْحِطْبُ)
مَوْثُ حِطْبِيْبَةُ: جَ حِطْبُ: بِمَتِ وَا.
الحِطَّابُ: كَلْبِيٌّ بِمَعْنَى اَتَارَتَا: كَلْبُ اَبُو.

حَفَفَ - القَوْمَ حَوْلَهُ وَحَفَفُوهُ : احاطہ کرتا۔
گھیرتا۔ الرَّجُلُ : جٹائے مہیبت و کم ہال
والا ہوتا۔ هُكَيْدًا : احاطہ کرتا۔
اِحْتَفَفَ القَوْمُ بِهِ : احاطہ کرتا۔

التَّبْتُ : کٹا۔ الشَّقُّ : چمکا کرتا۔ کما جاتا
ہے۔ اِحْتَفَفَ جميع فاهي القدر : اس نے
پہلی میں کاسب کچھ کما لیا۔

اِمْتَحَفَ العمان : سارا لے لیتا۔
الحَفَافُ : فہ تیز نظریہ لگانے والا۔ سو بقی
حَفَافٌ : جنگ ستو۔ حَبِيْبٌ حَفَافٌ : سو بقی
بغیر سائین کے روئی۔ کما جاتا ہے "مالہ حَفَافٌ وَ
لاراف" اس کے لیے کوئی نہیں جو اس کے امور
کی دیکھ بھال کرے اور اس کی خدمت کرے۔

الحَفَافُ : ہ۔ جانب۔ نشانِ قدم۔ کما جاتا ہے
"جَاءَ عَلَى حَفَافِهِ" وہ اس کے نشانِ قدم پر آیا۔
مجھے کے سر کے گرد گرد کے ہال۔ جِ اَحْفَافٌ : کما
جاتا ہے "كَانَ الطَّعَامُ حَفَافًا مَا اَكَلُوْا" کمانا
انہی تھا بہتا انہوں نے کما لیا۔

الحَفُّ : ہ۔ (و الحَفْلُ) گوشہ۔ نشانِ
قدم۔ کما جاتا ہے "جَاءَ عَلَى حَفْوِهِ وَ عَلَى
حَفْوِهِ" وہ اس کے نشانِ قدم پر آیا۔ "و فلان
حَفٌّ عَلَى نَفْسِهِ"۔

الحَفَفُ : ہل کی کن۔ کما جاتا ہے "طعام
حَفَفٌ تَمَرًا كَمَا وَ مَيْسَةً حَفَفٌ" جنگ
زندگی۔
الحَفُّ : رانچہ ڈھڑکی۔
الحَفَافَةُ : گرے ہوئے ہال وغیرہ۔ بھوسہ کا

بقیہ۔

الحَفَّانُ : شتر مرغ کے چوزے۔ واحد حَفَّانَةٌ)
نوکر چاکر۔ بھرا ہوا برتن۔ کما جاتا ہے "إِنَاءٌ
حَفَّانٌ" بھرا ہوا برتن۔ وَ حَفَّانُ العمام : شتر مرغ
کے پر۔

الحَفَّةُ : پوری فیاضی۔ بچنے وقت کپڑا پینے کی
کڑی۔ اونٹ کی مقدار خوراک۔ الحَفَّةُ :
گڑے کے کنارے کی زمین (مولدہ)
المَحْفَةُ : عورتوں کی پالکی۔ تخت رواں۔
اشتر مرغ۔

المَحْفُوفُ : ہ۔ جنگ۔

الحَفِيْفُ : سانپ کے پٹے کی سرسراہٹ۔
حَفَافًا (ف) حَفَافًا : بچاڑنا۔

الحَفَافُ : ایک قسم کا پورہ جس کی چھال کو قدام
مصر کتابت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ واحد
حَفَافَةٌ۔

حَفَفَتَهُ (ان) حَفَفًا : ہلاک کرتا۔ گردن توڑ دیتا۔
حَفَّتِ الشَّقِيُّ : کونٹا۔

الحَفْفُ وَ الحَفِيْفُ : جِ اَحْفَافُ : و
(الحَفَّافَاتُ) جِ حَفَافِيْفَاتُ : ایک قسم کا پتلا سانپ
جس میں زہر نہیں ہوتا (الحَفْفُ الحَفِيْفُ :
الحَفِيْفَةُ) آنت کا ایک حصہ جس میں ہمت خالی
ہوتے ہیں۔

حَفَفَ الحَفْلُ : الرجلُ : جنگ روزی والا ہوتا
الشَّقِيُّ : پرندے کے اڑنے یا تیر کے پھینکنے یا آگ
کی بھڑک میں آواز ہوتا۔

حَفَدَ (ض) حَفَدًا وَ حَفُوْدًا وَ حَفْدَانًا
وَ اِحْفَدَ : فی العمل : جلدی کرتا۔ وَ حَفَدَةٌ :
خدمت کرتا۔

أَحْفَدَ الظِّلْمُ : تیز دوڑنا۔ دوڑنے پر برا بھلا
کرتا۔

الحَفِيْدُ : پوتا۔ جِ حَفْدَاءُ :
الحَفَالِدُ : خادم۔ تالغ۔ مدگار۔ پوتا۔ جِ حَفْدُو
حَفْدَةُ الحَفْدَةِ : قفل بھٹا کر کے ڈالا۔

المَحْفِيْدُ : اصل۔ کہان کی بڑ۔ کپڑے کا قماش
نکار۔ جِ مَحْفَالِدُ (و المَحْفَدُ) جالوروں کو
بھوسہ کھلانے کا برتن۔ المَحْفَدُ : چاند کرنے کا
پالہ۔ کپڑے کا کنارہ۔

المَحْفُوْدُ : محذوم۔
المُحْفَدُ : من السبوف : جلدی کانٹے والی
کھوار۔

حَفَرُوْا (ض) حَفَرُوا وَ اِحْتَفَرُوْا : گڑھا کھودنا حَفَرُ
الظَّرْفِيُّ : چھل کر نشان ڈالنا۔ حَفَرُ الشَّقِيُّ : تہ تک
معلوم کرتا۔ العَفْرُ : ذیلی کرتا۔

حَفَرُ (ض) حَفَرُوا وَ حَفِرُوْا (س) حَفَرُوا وَ حَفِرُوْا :
زردی کی وجہ سے دانوں کی بڑوں کا تراب ہوتا۔
أَحْفَرُ الصَّبِيُّ : دودھ کے دانت گراٹا۔

هَبْتُوا : کھودنے میں مدد دیتا۔
حَفَرُوْا التَّيْرُوْعُ : جنگل جو ہے کا پتہ ڈھونڈنے

والوں پر سوراخ کو مٹی سے کھدوا دیا ہے مثل
ہے "فَلَا تَأْتِيْكَ مِنْ تَوْبُوْعِ مَحْفَالِيْبٍ"
تھپور۔ السبيلُ : گڑھے ڈالنا۔
اِسْتَحْفَرُوْا : التَّيْرُوْعُ : کھودنے کا وقت قریب
پہنچنا۔

الحَفَرُ وَ الحَقْرُ : کشادہ کنواں۔ دانوں کی
زردی۔ الحَقْرُ : مٹی جو کھودی ہوئی جگہ سے
لٹال جائے۔ جِ اَحْفَارُ وَ جِ اَحْفَالِيْبُ :
الحَفْوَةُ جِ حَفْرُ وَ (الحَفِيْفَةُ) جِ حَفَالِيْبُ وَ
(الحَفِيْفُ) گڑھا۔ قبر۔

الحَفَالِيْبُ : فہ جالور کا کھرج حَفَالِيْبُ : اور
"التَّفَدُّ عِنْدَ الحَفَالِيْبِ" کا مطلب یہ ہے کہ جب
تم کسی جالور کو خریدو تو بغیر دام ادا کر کے ہونے وہاں
سے جدا مت ہو۔

الحَفَالِيْبَةُ : الحافلہ کا بونٹ۔ کھودی ہوئی
زمین۔ ابتدائی حالت۔ کما جاتا ہے "الآن قَدْ
تَعَشَّفَ وَ قَدْ كَانَ نَجِيْبًا فِي الحَفَالِيْبَةِ" اب وہ
راہ راست سے ہٹ گیا ہے ابتدا میں شریف تھا۔
کسی چیز کی طرف لوٹنا۔ اور اسی سے ہے "و جَمِيعٌ
عَلَى حَفَالِيْبِهِ وَ فِي حَفَالِيْبِهِ" یعنی وہ اسی راستہ
سے لوٹا ہر سر سے آیا تھا یا ایک کام میں تھا پھر اس
سے علیحدہ ہو گیا اور پھر دوبارہ اسی میں چلا ہو گیا۔
"و جَمِيعٌ فِي حَفَالِيْبِهِ" یعنی بڑھا ہو گیا۔
"وَ النُّفُوسُ القَوْمُ فَالْتَمَسُوْا عِنْدَ الحَفَالِيْبَةِ" یعنی
قوم نے بڑھنے ہوئے ہی جنگ کی۔

الحَفْرِيُّ : ایک قسم کی ریختل نباتات جو ہمیشہ
بہتر ہوتی ہے۔

الحَفَارُ : کھودنے والا۔ عموماً گورکن کیلئے
مستعمل ہے۔

المَحْفَرُ وَ المَحْفَرُ وَ المَحْفَرُ : کدال۔
المَحْفُوْرُ : ہ۔ زرد دانوں والا۔

حَفْرَةُ (ض) حَفْرًا : پیچھے سے دکھانا۔ کما جاتا
ہے "حَفْرَةُ اللَّيْلِ النِّهَارُ" یعنی رات نے دن کو
ہٹایا۔ وَ "حَفْرُوا عَلَيْنَا العَيْبُ وَ الرِّكَابُ"
انہوں نے ہمارے اوپر گھوڑوں اور سواروں کو
جنگ کر دیا۔ هُ : بالو مچ : تیز مارنا۔ هُ
عن كذا : دور کرنا اور جلدی کرنا۔
المرأة : جملع کرتا۔

حافظہ۔ زانویرا نویشناور قریب ہوتا۔

تَحْفَظُوْا وَ اِحْتَفِظُوْا۔ زانویرا سرین کے بل بیٹنا۔
کرنے کیلئے آادہ ہوتا۔ کہا جاتا ہے۔ "اِحْتَفِظُوْا
مَشِيْهَةً" اس نے چلنے میں کوشش کی۔

الْحَفِظُ۔ مدت۔ کہا جاتا ہے "جَعَلْتُ بِنِيْ
وَيْتِكَ حَفْظًا" میں نے اپنے اور تمہارے
درمیان مدت مقرر کی۔

الْحَفِظُ۔ مِنَ الْقَيْسِيَّةِ تَمْرٌ كَوْمَتٌ تِيْزِيْ
چھینکنے والی کمان۔

حَفِظَ (ض) حَفِظًا۔ کہا۔

تَحْفِظُ۔ بَسْرٌ تَمْلَانُ۔

الْحَفِظُ وَالْحَفِظُ۔ مَوْتًا جَسَّ سَے کسی چیز
کی امید نہ ہو۔ بے وجہ غصہ اور راضی ہونے
والا۔ الْحَفِظُ۔ مَغْبِيْطًا۔

حَفِظَ (ض) حَفِظًا۔ چمکا آتا رہا۔

حَفِظَ السَّبِيْلَ الْوَادِيَّ : بَمَرٍ رَتًا۔ الْمَطَرُ
الْاَرْضَ : رَوْنِيْدِيْ كِي تَظَاهِرُ كَرْنَا : فَلَانًا : دَوْحًا
رَتًا۔

السَّبِيْلُ : اِيْكَ جَدِّ مِيْن سَارِ اِيْطَانِيْ مَجَّ هُوْنَا۔

القَوْمُ عَلَيْهِ : اَكْتَمَا هُوْنَا۔ حَفِظَ لِي
الْاَمْرُ : كُوْشِشُ كَرْنَا : الْفَرْشُ : اَرْمَارُ
دُوْرًا اَوْرُ هَرْمَرْتِيَا اَتَجِيْ طَرِحَ سَے دُوْرًا۔

حَفِظَ (س) حَفِظًا۔ السَّحَابَةُ : اِيْكَ اَرْمَارِيْ
زُوْرُ كِي اُوْچھار بَرَسَا رُكْرُكُ جَانَا۔

حَفِظَ وَ تَحْفِظَ۔ الرَّجُلُ : جَمُوْنِيْرُ سَے مِيْن
رَهْنَا۔

الْحَافِظَةُ۔ پَانِي بِيْنِيْ كِي جَدِّ۔ ج حَافِظَاتُ وَ
حَوَافِظُ۔

الْحَفِظُ۔ تُوْرِيْ۔ جَمُوْنِيْرًا۔ اِيْلُوْ كَا بَا هُوَا

خِيْمَةٌ۔ كُوْبَانُ بُو سِيْدَه جِيْرُ ج حَافِظَا وَ حَفِظَا۔
اَحْفَظُ الْبَيْتِ : گھر کی معمولی چیزیں۔ اَحْفَظُ
الْاَرْضَ : سِیْ۔ جَنگلی چوہا۔ گُو دُوْغِيْرَه۔ الْحَفِظُ :
اِنْدَامِ نَمَلِيْ۔

حَفِظَ (ض) حَفِظًا۔ الشَّيْءُ : مَجَّ كَرْنَا۔

الشَّيْءُ مِّنْ يَدِهِ : ذُوْلُ رَتًا۔ كَرْنَا۔

الْحَفَافَةُ۔ مَجَّ كِي هُوْنِيْ جِيْرُ۔

الْحَفِظُ۔ سَے۔ جِزے کا تھمنا۔ جَمُوْنَا گھر۔ شِيْرُ كَا

بِجِّ۔ ج حَافِظَا وَ حَفِظَا۔

الْحَفِظُ۔ سِيْرُوْ فِيْرُوْ كِي مَحْمَلِيْ۔

الْمَحْفِظَةُ۔ جِزے کا تھمنا۔

الْحَفِظَةُ۔ جُو۔ (الْحَفِظَةُ وَ اُمُّ حَفِظَةَ) اِيْكَ
تَمَّ كَا گِدَه۔ (اُمُّ حَفِظَةَ) مَرْمِيْ۔

حَفِظَ (ن) حَفِظًا۔ الْعُوْدُ : مَوْرَثًا : وَ

حَفِظَ الشَّيْءُ : ہاتھ سے گرانے

الْاَرْضَ : شُكَّ كَرْنَا : الْقَوْمَ : اِيْچھے

چھوڑنا۔ اللّٰهُ عَنهُ : تَخْفِيْفُ كَرْنَا۔

الْحَفِظُ۔ گھر کا سامان جو بار کرنے کے لیے تیار

کیا گیا ہو۔ گھر کا سامان اٹھانے والا۔ اُوْنُث۔ بُوْرَا

جس میں قوم کا سامان ہو۔ خِيْمَةٌ كَا سَتُوْنُ۔ اِيْلُوْ كَا

خِيْمَةٌ۔ كَزُوْرُ اُوْنُث۔ كَمَا جَانَا سَے "اِنَّ لِحَفِظِ

عِلْمٌ" وہ کم علم ہے (اس قول میں عِلْمُ كُوْ حَفِظِ

سَے قَلْتُ كِي بِنَا پَر تَقْسِيْمَه دِي گئی ہے) اور كَمَا جَانَا

ہے۔ "بِعَمِّ حَفِظِ الْعِلْمِ هَذَا" یہ علم کاجاننے والا

اچھا ہے۔ ج حَافِظَا وَ حَفِظَا۔

حَفِظَ (س) حَفِظًا۔ الشَّيْءُ : ضَاعَ هُوْنِيْ سَے

بِجَانَا۔ خَرَابُ وَخَسَتْ هُوْنِيْ سَے بِنَانَا۔

الْكِتَابُ : زَبَلِيْ اِيْدُ كَرْنَا : السُّوْرُ

بِجَانَا۔

الْعَمَالُ : خَعَلَتْ كَرْنَا۔ تَكْبِهَانِيْ كَرْنَا۔

حَفِظَةُ الْكِتَابِ : اِيْدُ كَرْنَا۔

حَافِظَةُ حَفِظَا وَ مَحَافِظَةُ۔ عَلِيْ الْاَمْرِ :

مَدَامَتُ كَرْنَا۔ تَكْبِهَانِيْ كَرْنَا : عَنهُ : مَدَامَتُ

كَرْنَا۔ بَنَانَا۔ كَمَا جَانَا سَے "اِنَّ لَلَّذُوْ حَفِظَا وَ ذُوْ

مَحَافِظَةَ" اس شخص کے حق میں جس کے اندر

خودداری ہو۔

اَحْفَظُهُ غَصَةً وَاِنَا۔

اِحْتَفِظُ۔ مَغْبِيْطًا ہونا : بَہ اِيْدُ كَرْنَا۔

الشَّيْءُ وَ يَهْ لِنَفْسِهِ : اِيْچھے لیے خاص کَرْنَا۔

تَحْفِظُ۔ عَنهُ وَ مَنهُ : بِنَانَا۔ بَہ الْكِتَابِ :

تَمُوْرًا تَمُوْرًا اِيْدُ كَرْنَا۔

اِمْتَحَفِظُهُ۔ مَالًا اُوْ سِيْرًا : مَحْفُوْظُ رَكْنِيْ كُو كَرْنَا۔

الْحَفِظُ۔ سَے۔ اِيْدُ۔ بُو سِيَارِيْ۔

الْمَحْفِظَةُ۔ تَكْبِهَانِيْ۔ تَمُوِيْزُ۔ جس کو بچنے کے گئے

وغيرو میں ڈالتے ہیں۔ ج حَفِظَا۔ اَهْلُ
الْحَفِظَا : عَمَارَمُ كِي تَكْبِهَانِيْ كَرْنِيْ دَالِيْ۔
الْمَحْفِظَةُ وَ الْحَفِظَةُ۔ قَبْلُ خَعَلَتْ جِيْرُ كِي

لِيْ غَضَبِ وَ مَحِيْتِ۔

الْحَافِظُ۔ نَا۔ كُيْ جِيْرُ پَر مَقْرَرُ۔ الطَّرِيْقُ

الْحَافِظُ : دَاخِجُ سِيْدَه رَا سَتَه جُوْ شَمَّ نَه۔ كَمَا

جَانَا سَے "رَجُلٌ حَافِظُ الْعَيْنِ" مَرْمِيْدَارُ جِيْمُ

جس پر نیند کا غلبہ نہ ہو۔ ج حَفَظَا وَ حَفِظَةُ وَ

حَافِظُوْنُ۔

الْحَافِظُ وَ الْحَفِظَةُ۔ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ : نَمَلِيْ

بِيْرِيْ كَلِيْئِيْ دَالَا فَرَشَتَه۔ الْحَفِظُ : مَحْفُوْظُ۔ يَزِيْرُ اللّٰهَ

تَعَالَى كِي اَسْمَاءُ حَسْبِيْ مِيْن سَے ہے۔

الْحَافِظَةُ۔ الْحَافِظُ كَا مَوْرَثُ۔ اِيْدُ وَاَسْتِ كِي

قُوْتُ۔

الْمَحْفِظَةُ۔ غَصَةً دَالِيْ وَ اِلَا مَحَالِهَ۔ ج

مَحْفِظَاتُ۔ الْمَحْفِظَاتُ۔ مَحْمِيْجِيْ۔

حَفَلُ (ض) حَفَلًا وَ حَفَلًا وَ حَفِيْلًا الْعَمَاءُ :

كَثْرَتُ سَے مَجَّ هُوْنَا : الْقَوْمُ : اَكْتَمَا هُوْنَا

الدَّمْعُ : مَتَّ هُوْنَا : الْوَادِي

بِالسَّبِيْلِ : لِبَا لِبُ بَمَرْنَا : السَّمَاءُ : مَتَّ

بِرَسَانَا : الشَّيْءُ : مَحْمِيْلُ كَرْنَا۔ كَمَا جَانَا سَے

"مَا حَفَلَهُ وَ مَا حَفَلُ بِهِ" اس نے اس کی پروا

نہیں کی۔

حَفَلَهُ۔ اَتَجِيْ طَرِحَ مَجَّ كَرْنَا۔ زَمِنْتُ رَتًا

الشَّيْءُ : مَحْمِيْلُ كَرْنَا : النَّاقَةُ : تَمَنُّ مِيْن

دُوْدَه مَجَّ هُوْنِيْ سَے لِيْچھے چھوڑنا۔

تَحْفَلُ۔ اللَّهِيْ : اَكْتَمَا هُوْنَا : فَلَانُ :

آرَا سَتَه هُوْنَا : الْمَجْلِسُ : مَجَّسُ كَا بَمَرُ

جَانَا۔

اِحْتَفَلُ۔ الْقَوْمُ : مَجَّ هُوْنَا : الْمَجْلِسُ

بِالنَّاسِ : بَمَرْنَا : الْوَادِيَّ بِالسَّبِيْلِ : لِبَا

لِبُ بَمَرْنَا : الطَّرِيْقُ : دَاخِجُ هُوْنَا

الشَّيْءُ : رُوْشَنُ هُوْنَا : بِالْاَمْرِ : اَتَجِيْ طَرِحَ

اِنْتِظَامُ كَرْنَا : لِي الْاَمْرِ : مَبَاهِلُ كَرْنَا۔ كَمَا جَانَا

ہے "مَا اِحْتَفَلُ بِهِ" اس نے اس کی پروا نہیں

کی۔

الْحَافِظُ۔ نَا۔ حَفِظَ حَافِظًا : بَمَرَا هُوَا تَمَنُّ۔

وَ اِيْدُ حَافِظًا : سِيَابُ سَے بَمَرِيْ هُوْنِيْ وَادِيْ۔

جَمْعُ حَافِظًا : بُوِيْ جَمَاعَتُ۔ نَاقَةٌ اَوْ شَاةٌ
حَافِظًا : مَتَّ دُوْدَه دَالِيْ اُوْ نَمَلِيْ اِيْكَ بَمَرِيْ۔ ج حَفَلُ
وَ حَوَافِظًا۔

<p>الرجل: وسط سر یا موڑھے کے گڑھے پر مارنا الطریق: وسط راستہ چلنا۔</p>	<p>الْحَفْنَدُ: مالک مال جو مال کا بھرتہ منتظم ہو۔ الحفینس: بے حیا بعد زبان عورت۔</p>	<p>الْحَاثِلَةُ: الْحَاثِلُ كَامْوَنْث - ذَا الْحَاثِلَةِ هِيَ بمرآة كمر سونق حائلہ۔ بمرآہ ہوا بازار۔</p>
<p>حَقٌّ (ض) حَقًّا: عَلِيهِ اِنْ يَفْعَلُ كَذَا: وَاجِب ہونا۔ کہا جاتا ہے "حَقٌّ لَكَ اِنْ تَفَعَّلَ كَذَا" و حَقَّقْتُ اَنْ تَفَعَّلَ كَذَا" یعنی اس کا کرنا تمہارے لائق ہے اور تم اس کے کرنے کے لائق ہو۔</p>	<p>حَقًّا (ن) حَقْوًا - فَلَانًا: رِيَا - حَقَّاهُ مِنْ الشَّيْءِ: رَوَّكْنَا - مَنَعْنَا - حَقَّاهُ اللَّهُ بِهِ: عَزَّتْ رِيَا - حَقَّاهُ النَّبِيُّ: آهَسَتْ آهَسَتْ بَادِلُ كَيْ اطْرَافِ مِنْ چمکنا۔ شاریہ: خوب اچھی طرح موڑنا۔</p>	<p>حَقْلٌ مِنَ النَّاسِ: اس کے پاس لوگوں کی جماعت ہے۔ جَمْعُ حَقْلٍ: بِيْءُ جَمَاعَتٍ - الحَقِيْلُ: بَسْتُ - جِيْسِيْ جَمْعُ "حَقِيْلٍ" بَسْتُ جماعت "مَكَانٌ حَقِيْلٌ" بھری ہوئی جگہ "رَجُلٌ حَقِيْلٌ" ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا۔</p>
<p>حَقٌّ (ن) ض) حَقًّا وَ حَقْفَةً: الْاَمْرُ: ثَابِتٌ وَ وَاجِبٌ ہونا۔ الْحَاجَةُ: بَسْتٌ پُوش آنا۔</p>	<p>حَقِيٌّ (س) حَقْفًا: زِيَادَةً يَحْتَلِيْ مِنْ سِوَاكَ كَمَا تَحْتَلِيْ پاؤں چلنا۔ صَفَتْ (حَفِيٌّ وَ حَافِيٌّ) رَجُ حَقْفَاةٍ الفرش: گھسے ہوئے کھروالا ہونا ()</p>	<p>"رَجُلٌ حَقِيْلٌ" ہر چیز میں مبالغہ کرنے والا۔ الحَقْفُوْلُ: خَرِيْمٌ عَوْرَتُ عَوْرَتِ جِ حَقْفَانِ - الحَقْفَالُ: بِيْءُ جَمَاعَتٍ - جَمْعُ شَرْدِ بَسْتُ دَوْدِه - رَدِيْ كَبُوْرٍ -</p>
<p>حَقٌّ (س) حَقْفًا: الْفَرَشُ: دَوْدُوْنِيْ مِنْ اَكْلِي ٹانگوں کی جگہ پھیلے پاؤں رکھنا۔ صَفَتْ (أَحَقُّ) حَقْفَةً: تَأَكِيْدُ كَرِيَا - وَاجِبٌ كَرِيَا - حَقَّقِي الْقَوْلِ اَوْ الظَّن: تَعَدِيْقُ كَرِيَا -</p>	<p>حَقْفًا وَ حَقْفَاةً وَ حَقْفَاةً وَ حَقْفَاةً وَ حَقْفَاةً وَ حَقْفَاةً یہ: عَزَّتْ وَ اَكْرَامُ كَرِيَا مِنْ مِبَالِدِ كَرِيَا - كَسِيْ كَيْ ساتھ خوشی ظاہر کرنے میں مبالغہ کرنا۔ حَفِيٌّ عِنْدَ: حالت بہت پوچھنا۔</p>	<p>الْحَقْفَالَةُ: بَرَكْمِيَا جِيْز - فَرُوْدِيْ لَوَك - حَقْفَالَةُ الطَّعَامِ: كَمَا لِيْ مِنْ سِيْ جُوْنِكِيْ اَوْر پیکر دیا جائے حَقْفَالَةُ اللَّيْنِ: جَمَاعٌ - الحَقْفَلَةُ: اِسْمُ الْمَرْءِ - اَوْرُ كَمَا جَاتَا سِيْ "اِعْزَدُ لِلْاَمْرِ حَقْفَلَةً" اس نے معاملہ میں کوشش کی۔ وَجَاءَ وَابِحَقْفَلِيْهِمْ وَبِحَقْفَلِيْهِمْ" وہ سب کے سب آئے۔</p>
<p>حَاثِلَةٌ مُخَاثِلَةٌ وَ حَقْفَالَةٌ: اَلْحِي الْاَمْرُ: جَمْعُ كَرِيَا - اِسِيْ حِنْدَارُ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ کہا جاتا ہے "اِنَّ لَكَ كَذَا وَ كَذَا" اَلَا اِيْحَاثَلُ لِيْهِ اَحَدٌ" یعنی اس کیلئے ایسا اور ایسا ہے کوئی اس بارے میں اس سے جھگڑ نہیں کر سکتا۔</p>	<p>حَاثِلَةٌ اِحْقَاءَةً: گھسے ہوئے کھروالے جانور کا نالک ہونا۔ الشُّوْآنُ: بَارِ يَارِدُ پَرَاثُ ہ: اصرار کرنا۔ خَبْرِي تَقِيْسِيْ پَرَا اِيْجِيْتِيْ كَرِيَا اِنِّيْ لِي الْوَسِيْةُ: مِبَالِدِ كَرِيَا۔ یہ: حَسِبُ لَكَ شَارِيَه: كَرِيَا فِيْ مِبَالِدِ كَرِيَا -</p>	<p>الْحَقْفَلِيُّ: عَامٌ دَعُوْتِ - المَحْقِلُ: جَمْعُ حَقْفَالِ (وَ الْمَحْقِلُ) جمع ہونے کی جگہ۔ مَحْقِلٌ الْاَمْرُ: مَعَالِمٌ كَابِيَا حَسْرَةٍ -</p>
<p>أَحَقٌّ: حِنْدَارُ كَرِيَا حَقْفَةً: حِنْدَارُ مِبَالِدِ اَنَا اَحَقُّ الْاَمْرُ: ضَرُوْرِيْ وَ وَاجِبٌ مَهْرَاثُ: كَمَا جَاتَا سِيْ "أَحَقُّ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ" یعنی تمہارا اس کے ذمہ واجب کیا۔ اِحْقُ الرُّمِيَّةُ: تَبِيْرَانْدَارِيْ كَيْ وَ قَتِ ہی بار ڈالنا۔</p>	<p>تَحَاثَلْنَا: اَلْحِي السُّلْطَانُ: فَيَسَلُ كَيْلِيْ جَاتَا - اِحْتَفَى: نَكِيْ پاؤں چلنا۔ جُوْتَا اَتَارَا البَقْلُ: جَمُوْنِيْ ہونے کی وجہ سے اَللَّيْلِيْ مِنْ اَكِيْرِيَا القَوْمِ الْمَرْعِيْ: جَرَا گھاس میں کچھ نہ چھوڑنا۔</p>	<p>حَقْلٌ حَقْلَجَةٌ: چلنے میں بدن ہلانا۔ الحَقْفَالِيْجُ: وَهْ مَخْسٌ جُوْلِيْ فِيْ پاؤں كَيْ اَكْلِي حَسْرَةٍ كُو قَرِيْبِ اَوْر اِيْزِيْوِيْ كُو دُوْر كَرِيَا - الحَقْلَجُ: جَمُوْنَا اَوْثُ - جَمْعُ حَقْفَالِيْجِ - الحَقْلَجُ: مَعْنِي حَقْفَالِيْجِ - الحَقْفَالِيْجِ: بَسْتُ تَد - الحَقْفَلِيُّ: كَبُوْر - يُوْرُوْف -</p>
<p>تَحَقَّقِي: الْحَبِيْرُ: ثَابِتٌ ہونا۔ الرَّجُلِي الْاَمْرُ: يَبِيْنُ كَرِيَا - تَحَاثَلْنَا بِاَمْرٍ: جَمْعُ نَاوْرُ فَيَسَلُ كَيْ لِيْ جَاتَا - اِحْقِي: الرِّبَاظُ: بِنْدِه جَاتَا -</p>	<p>اِسْتَحْفَى: هِ عِن كَذَا: كَسِيْ مَخْسٌ سِيْ كَسِيْ جِيْز كَيْ مَتَلَقُ مِبَالِدِ سِيْ رِيَاثِتُ كَرِيَا - الحَقْفَاءُ: كَمِيَا پاؤں كَيْ كَسَاثِيْ - الحَقْفَاةُ وَ الحَقْفُوْتَةُ وَ الحَقْفِيَّةُ: مَعْنِي الحَقْفَاءُ - الحَقْفِيُّ: كَسِيْ جِيْز كَيْ مَتَلَقُ پُوْرِي طَرَحِ عِلْمِ رَكْنِيْ وَ اَلَا - عَزَّتْ وَ اَكْرَامُ وَ اَنطَارُ خُوْشِيْ فِيْ مِبَالِدِ كَرِيَا وَ اَلَا - كَسِيْ مَخْسٌ كَيْ حَالَاتُ كَيْ مَتَلَقُ بَسْتُ سَوَالُ كَرِيَا وَ اَلَا - سَوَالُ كَرِيَا فِيْ بَسْتُ اِحْرَارِ كَرِيَا وَ اَلَا - جِ حَقْفُوَا -</p>	<p>حَقْنٌ (ن) حَقْفًا: الشَّيْءُ: لِبِ بَمَرِيَا لِبِ بَمَرِيَا - اِحْتَفَنُ: الشَّجَرَةُ: جِز سِيْ اَكِيْرِيَا - الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ: لِيَا _____ مِنْ الشَّيْءِ: بَسْتُ لِيَا الرَّجُلُ: دُوْدُوْنِيْ ہاتھ زانو کے نیچے ڈال کر اُتَمَاثُ -</p>
<p>اِحْتَقَّقِي: الْفَرَشُ: دَبَا ہونا۔ اِحْتَقَّقْتِ الطَّلْعَةَ یہ: فُوْر اَمَارَا اَلَا - اِحْتَقَّقِي الْقَوْمُ: ہر ایک کا یہ کہنا کہ حق میرے پاس ہے۔</p>	<p>حَقَّةٌ (ن) حَقْفًا: حِنْدَارُ مِبَالِدِ ہونا۔ حَقُّ الْاَمْرُ: ثَابِتٌ كَرِيَا _____ الْحَبِيْرُ: حَقِيْقَتُ پَر مَطْلَعُ ہونا _____ الْعَقْدَةُ: بَانْدِه مَنَا _____</p>	<p>الحَقْفَةُ وَ الحَقْفَتَةُ: لِبِ بَمَرِ - وَ الحَقْفَتَةُ: مَرَا حَارِجُ حَقْنِ - الحَقْفَلِيُّ: بَسْتُ تَد -</p>
<p>النَّاقَةُ: مَوْنِي ہونا۔ کہا جاتا ہے "اِحْتَقَّقَةُ اَلْحِي كَذَا" یعنی اسے سزا عطا کیا اور اس پر غلے ڈالی۔ اِسْتَحَقَّقَةُ: ضَرُوْرِيْ وَ وَاجِبٌ مَهْرَاثُ: الدِّيْنُ: اَوْدَا اِيْجِيْ كَا وَ قَتِ قَرِيْبِ اَنَا -</p>	<p>حَقَّةٌ (ن) حَقْفًا: حِنْدَارُ مِبَالِدِ ہونا۔ حَقُّ الْاَمْرُ: ثَابِتٌ كَرِيَا _____ الْحَبِيْرُ: حَقِيْقَتُ پَر مَطْلَعُ ہونا _____ الْعَقْدَةُ: بَانْدِه مَنَا _____</p>	<p>الحَقْفَةُ وَ الحَقْفَتَةُ: لِبِ بَمَرِ - وَ الحَقْفَتَةُ: مَرَا حَارِجُ حَقْنِ - الحَقْفَلِيُّ: بَسْتُ تَد -</p>
<p>النَّاقَةُ: مَوْنِي ہونا۔ الرَّجُلُ: مَسْتَقِنُ سَزَا ہونا۔ الْحَقِّي: هِ - سِتْجَانِيْ - رَاسْتِيْ يَبِيْنِ - اِنصَافِ - ثَابِتٌ شَرْدِ حَسْرَةٍ - نَالُ اَوْرُ مَلِكِ - ہُو شِيَارِي - فَيَعْمَلُ شَرْدِ مَعَالِمِ - مَوْتِ - جِ حَقْلُوْقِيْ اَوْرُ كَمَا جَاتَا سِيْ</p>	<p>حَقَّةٌ (ن) حَقْفًا: حِنْدَارُ مِبَالِدِ ہونا۔ حَقُّ الْاَمْرُ: ثَابِتٌ كَرِيَا _____ الْحَبِيْرُ: حَقِيْقَتُ پَر مَطْلَعُ ہونا _____ الْعَقْدَةُ: بَانْدِه مَنَا _____</p>	<p>الحَقْفَةُ وَ الحَقْفَتَةُ: لِبِ بَمَرِ - وَ الحَقْفَتَةُ: مَرَا حَارِجُ حَقْنِ - الحَقْفَلِيُّ: بَسْتُ تَد -</p>

"هو حق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔ "ولحق لا آتیک" بغیر توین کے یعنی تم ہے حق اللہ کی میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ "وحقا لا آتیک" توین کے ساتھ بغیر لام کے حقوق الدار: گھر کے منانے۔

الحقۃ: حق۔ حق یہ لفظ حق سے خاص ہے اس وجہ سے کہ حصہ معین پر دلالت کرتا ہے۔ تم کہتے ہو "ہذہ حقینی" یہ میرا خاص حصہ ہے۔ حقیقت امر: تم کہتے ہو "ولفت علی حقیقۃ ذلک الأمر" میں اس امر کی حقیقت پر مطلع ہو گیا۔ معیت۔

الحق: موزن سے کسرے کا گڑھا۔ شرین کا سرا۔ بازو کا سرا۔ گول زمین۔ پابست زمین۔ کڑی کا جلا۔ حق الطیب: خوشبو کی ذبیحہ۔ حق حقیقی: الحقۃ۔ چھوٹا ترن۔ معیت۔ عورت۔ حق حق وحق وحق حقیقی۔

الحق: من الابل: چوتھے سال والا اونٹن ہو یا مادہ۔ اور یہ اس لیے کہ اب وہ بار برداری کے قابل ہو گیا۔ اونٹنی جس کے دانت پودھا پے کی وجہ سے گر گئے ہوں۔

الحقۃ: حق وواجب۔ الحق: لائق سزاوار کہا جاتا ہے۔ "هو حقنی ان یفعل کذا" وہ فلاں کام کرنے کے لائق ہے۔ "هو حلیق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔ والحقیق علی الشئ: حریص۔ لالچی۔ حق۔ اجقاء۔

الحقیقۃ: وہ چیز جس کی حمایت واجب ہو کہا جاتا ہے۔ "هو خاصی الحقیقۃ" وہو من حقائق الحقیقی: یعنی وہ اس چیز کی حالت کرتا ہے جس کو واقع اس کے ذمہ لازم ہے۔

حق: وہ لفظ جو اپنے موضوع لہ میں مستعمل ہو۔ حقیقۃ الشئ: چیز کا حقیقی اور اصل۔ حق حقیقی۔

الحق: فا۔ وسط۔ کہا جاتا ہے "سقط علی حقانی ذابہ" اس کے وسط سر گر گیا۔ "وجلفہ فی حقانی الشفاء" میں اس کے پاس جالے کے وسط میں آہو۔ "وزکب حقانی الظرفی" وہ وسط راستہ پر چلا۔ کسی چیز میں کال۔ کہا جاتا ہے

"وَجَلَّ شَجَاعَ حَقَائِ الشَّجَاعِ" وہ شجاعت و بہادری میں کال ہے۔ و "أَحَدُنِي حَقَائِ الشَّجَاعِ" مجھے خالص بہوک لگی۔

الحقۃ: الحاق کا مؤنث۔ معیت۔ قیامت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ جَلَّ حَقَائِةَ التَّوَجُّلِ" وہ مرواگی میں کال ہے۔ و "هُوَ شَجَاعٌ حَقَائِةَ الشَّجَاعِ" وہ بہادری میں کال ہے۔

الأحق: اسم تفضیل۔ "هُوَ أَحَقُّ مِنْ فُلَانٍ" کا مطلب یہ ہے کہ وہ فلاں سے زیادہ حق دار ہے اور کبھی بغیر شرکت کے صرف خصوصیت کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے "زیلنا حق بمالہ" زید اپنے مال کا حق دار ہے کسی دوسرے کا اس میں حق نہیں۔

المحقق: ضم۔ کلام شحقی: معظم کلام۔ ثوب محقق: مضبوط بنا ہوا کپڑا۔

المحققون: ضم۔ لائق۔ سزاوار۔ کہا جاتا ہے "هو محقوق بكذا" وہ اس کے لائق ہے۔ "هو محقوق ان یفعل کذا" وہ ایسا کرنے کے لائق ہے۔

الحقانی: حق کی جانب منسوب۔ جیسے ربانی رب کی جانب منسوب۔

حقب (س) حقبیا وأحقب: المعطر: رکنا العام: بارش نہ ہونے سے خشک سال ہونا المعطن: ختم ہونا۔ دائل فلان: کم اور منقطع ہونا۔ الامز: خراب ہونا۔ أحقب: پیچھے سوار کرنا۔

أحقب: الائم: مرکب گناہ ہونا۔ زیدنا علی نالیہ پیچھے سوار کرنا () واستحقب: الشئ: ذخیرہ کرنا۔ کجاہہ یا بالان کے پیچھے ہانڈنا۔

الحقب: ج حقباب و(المحقب) ج احقاب وأحقب: اتنی سال یا اس سے زائد کا عمر۔ زمانہ۔ ایک سال یا بست سے سال۔

الحقب: اونٹ کا گھ۔ وہ چیز جس کو عورت اپنی کرہ بانڈ سٹی ہے اور اس میں زیور کو لٹکانی ہے۔

الحقینۃ: مدت۔ سال۔ ج حقب وحقوب۔ الحقینۃ: ہوا۔

الحقاب: عورت کیلے کرہ بانڈ کرہ زیور لٹکانے کی چیز۔ ناخن کے جڑی سفیدی ج حقب۔ الحقینۃ: وہ چیز جس کو سوار گھوڑے پر اپنے پیچھے رکھے۔ مسافر کیلے خوراک وغیرہ کا بیگ یا تھیلا۔ ج حقباب۔

الحقائب: وہ شخص جو پانچا نہ روکے ہوئے ہو۔

الأحقب: گور خر۔ مؤنث حقبناہ۔

المحقب: لومڑی۔

حَقْدٌ (ض) حَقْدًا وَحَقْدًا وَحَقْدِيَّةٌ وَحَقْدٌ (س) حَقْدًا وَتَحَقَّدَ۔ علیہ: کینہ رکنا۔ صفت (حاقید) ج حَقْدَةٌ۔ حَقْدٌ المعطر: رکنا۔ المعطن: کان کا ختم ہونا اور کچھ نہ مانا۔ العاقۃ: چرخی سے بھر جانا۔

أحَقْدَةٌ: کینہ دور بنانا۔ القوم: کان میں تلاش کرنا اور کچھ نہ بنانا۔

تَحَقَّدَ۔ القوم: ایک دوسرے سے کینہ رکنا۔

إحْتَقَدَ۔ المعطر: رکنا۔ علی فلان: کینہ رکنا۔

الحَقْدُ: ج أحقاد وحقود و(الحقینۃ) ج حَقَائِد: کینہ۔

الحَقْوَد: بست کینہ دور۔

حَقْرٌ (ض) حَقْرًا وَحَقْرًا: ہموٹا ذیل کھنا۔ حَقْرُ الشئِ وَالتَّوَجُّلِ: ذیل ہونا۔ بے قدر ہونا۔

حَقِرٌ (س) حَقْرًا وَحَقْرًا: حَقْرًا ذیل ہونا۔ صفت (حقور وحقنور وحقنر) حَقْرَةٌ: ذیل کرنا۔

أحَقْرَةٌ وَاحْتَقْرَةٌ وَاسْتَحَقْرَةٌ: ہموٹا ذیل کھنا۔

تَحَقَّرَ: اپنے آپ کو ذیل کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَحَقَّرْتُ إِلَيْهِمْ" یعنی ذیل ہو گیا۔

الحَقَارَةُ وَالحَقَارَةُ وَالحَقَارَةُ وَالحَقَارَةُ: ذلت و بے قدری۔ کہا جاتا ہے "هذا الامر محقر فک" یہ امر تمہارے لیے باعث ذلت ہے۔

المحقرات: ہموٹے ہموٹے۔

الحقفة والحقفة - ازار یا ازار ہا مریض کی جگہ گوشت کھانے سے بیٹ کارور۔
 حَقَّ (ن) حَقَّكَ - الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ اَوْ عَلَيْهِ رَكِبًا - كَسَا الشَّيْءُ يَهْلِكُ اَتَارًا -
 (_____ وَأَحَقَّ وَاحْتَكَّ) الكلامُ فِي صدره: دل میں اثر کرتا۔ اور کہا جاتا ہے "ما حَقَّ فِي صدری كذا" میرے دل میں یہ بات نہیں آتی۔
 حَقَّكَ وَأَحَقَّكَ إِحْتَكَّا وَإِخْتَكَّا وَإِسْتَحَقَّكَ: راسه: کھلانا۔ وإِخْتَكَّ بِالشَّيْءِ: کسی چیز کے ساتھ لازم ہونا۔
 حَالًا مُتَحَاكًا وَحِكَاكًا: الرجلُ: ہماری کرتا۔ متقابلہ کرتا۔
 تَحَكَّكَ: یہ: درپے برائی ہونا۔ اشدھ عرب میں سے ہے "تَحَكَّكَ الْعَقْرَبُ بِالْحَيْثُ" اس کے حق میں بولتے ہیں جو اپنے قوی سے جھگڑا کرتے۔
 تَحَاكًا: ایک دوسرے کو کھلانا۔ ہام متقابلہ کرتا۔
 الحَكُّ: حَكَّكَ (_____ وَالْحِكَاكُ) خارشنی اونٹ کے کھلانے کے لیے درخت کا سہ۔ کہا جاتا ہے "لَلانِ حَكُّ اَوْ حِكَاكُ شَيْءٍ" لٹاں شر کے اوپر غالب ہے وہ بہت اس سے متقابلہ کرتا ہے۔
 الحَكُّ: جہاز رانوں کا لقب (لما ولد) الحَكَاكَاَت: دوسرے (واحد حَكَاكًا)
 الحَكَّكَ: رخام کی مانند سفید پتھر۔ سوڑھے ہلاتے ہوئے چلنے والی عورت کی مانند رفتار۔
 الحَكَّكَ: نرم پتھروں والی زمین۔
 الحَكَّكَ: برائی والے۔ حاجات کے طلب کرنے میں اصرار کرنے والے (واحد حَكَّكَ)
 الحَكَّكَ: حَكَّكَ كَالسَّمِ: خارش۔ کھلی۔ حَكَّةُ الانْفِ: ایک قسم کی سوزش جو ناک میں ٹھہری ہوا کے پتھنے سے ہوتی ہے اور اس کا اثر داغ تک ہوتا ہے اور آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں۔
 حَكَّكَ: الحَاكَاةُ: دانت۔ کہا جاتا ہے "عَابِقِي فِي فَيْهٍ حَاكَاةٌ" اس کے دُش من دانت نہیں۔

دَقَّه: گرانے سے چپا _____ مَاءٌ وَجْهَهُ: آبرو کی حفاظت کرنا _____ اللبِنُ: مَکْن لکالنے کے لیے ٹھیکرہ میں جمع کرنا _____ المریض: حنہ سے علاج کرتا۔
 أَحَقَّنَ: مزیدار ہونے کے لیے تلف قسم کے دودھ جمع کرتا۔
 إِحْتَقَّنَ: المریض: پیشاب رکنا۔ حَقْنَه: استعمال کرنا _____ الدَّمُ: بدن کے اندرونی حصہ میں تیز ہارنے سے خون جمع ہونا۔
 الحَقْنَةُ: ہر دو جو مریض کی مقدمہ سے بیٹ صاف کرنے کے لیے چڑھائی جائے۔ حَقْنُ: الحَقْنَةُ: بیٹ کارور جمع أَحَقَّانُ۔
 الحاقان: فا۔ پیشاب روکنے والا۔ اور اسی سے حش ہے۔ "لا زَانِي لِحَاقَانٍ" یعنی پیشاب روکنے والے کی رائے کا اظہار نہیں۔ اس لیے کہ وہ اس وقت اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہ حش منظر کے لیے بولتے ہیں۔
 الحاقانة: الحاقان کا مؤنث۔ صدہ (اس معنی میں صفت غالبہ ہے اس وجہ سے کہ وہ کھانے کو روکتا ہے) نسل کی دونوں ہڈیوں کے درمیان کا حصہ اور اسی سے حش ہے "لا لِحَقْنٍ حَقْوًا اَنْكُ يَدًا وَانْكُ" اس حش کو تمدید کے موقع پر بولتے ہیں۔
 الحَقْنين: روکا ہوا۔ کہا جاتا ہے "سَفَاةُ اللَّبَنِ الحَقْنين" اس نے اس کو ٹھیکرہ میں جمع کیا ہوا دودھ پلایا۔ حَقْنِي۔
 المِخْفَنُ وَالمِخْفَنَةُ: حنہ کی پکاری المِخْفَنُ: وہ ٹھیکرہ جس میں دودھ جمع کیا جائے۔ المِخْفَانُ: پیشاب روکنے والا۔ عوام المِخْفَنُ اور المِخْفَانُ کو پانی کی ٹیگی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
 حَقَّاهُ (ن) حَقَّوْا: کو کہہ رہا۔
 حَقِي: دودھ کروا لانا ہونا۔ گوشت کھانے سے دودھ ہم کروا لانا ہونا۔ صفت (مُخَقِّوٌّ وَمُخَقِّقِي) حَقِي: دودھ کروا لانا ہونا۔
 الحَقْفُو: کوکہ۔ ازار۔ ہماز کا کنارہ۔ حَقْفَاءُ وَأَخْفِي وَأَحْقَاءُ وَحَقِي: کہا جاتا ہے "لاذَّ بِحَقْفُو" اس نے اس سے فریاد ہی کی۔

الحَقْفَةُ: پست قدر یا سبک جسم والی عورت۔
 الحَقْفُطُ وَالحَقْفِطَانُ: تیز۔ اور بقول بعض تیز۔ مؤنث الحَقْفِطَانَةُ۔
 حَقْفُ (ن) حَقْفُوْا: الطَّبِيُّ: ہرن کا رنگ کے تودہ میں بیٹھنا یا سونے کی حالت میں سڑک رنگ کے تودہ کے مانند ہونا _____ الشَّيْءُ: تیز چھا ہونا۔ صفت (حَاقِفٌ) إِحْقَافٌ: لہو تیز چھا ہونا۔
 الحَقْفُ: دراز و بچیہ تودہ ریت۔ رَجِ أَحْقَافٌ وَحَقْفُوفٌ وَجَقَافٌ وَحَقْفَةٌ وَرَجِ حَقَافِي۔
 المِخْقَفُ: وہ شخص جو نہ کھائے نہ پئے۔
 حَقِيلٌ (س) حَقَلًا وَحَقْلَةً: البَعِيرُ اَوْ الفَرَسُ: مٹی کھانے سے دردِ حش میں مبتلا ہونا۔
 حَاقِلَةٌ مِخْقَالَةٌ: کھیتی کو خوش بینی میں بچنا۔
 أَحْقَلْتُ: الارضُ: قابل زراعت ہونا۔
 أَحْقَلُ الزَّرْعُ: پتے پھوٹا _____ الرجلُ فِي الرِّكْبِ: سواری کی پیٹ پر جم کر بیٹھنا۔
 الحَقْلُ: عمدہ قابل کاشت زمین۔ کھیتی جب تک سبز ہے۔ حَقْلُوْلٌ: واحد حَقْلَةٌ۔
 الحَقْلُ: ہورج۔ (_____ وَالْحَقْلَةُ) گھوڑے یا اونٹ کے بیٹ میں مٹی کھانے کی وجہ سے درد۔
 الحَقْلَةُ: مغلطہ۔ الحاء۔ دودھ یا پانی کا بقیہ۔ روی گھوڑے کا بچا کھچا۔ الحَقْلَةُ: بالفتح۔ حوض کا پانی یا نہرہ سال پانی۔
 الحَقْلَةُ: بالکسر: پیالہ بھر سے کم۔ الحاقیل۔ فا۔ کاشکار۔
 المِخْقَلَةُ: کھیتی جمع مِخْقَالِي۔
 الحَقِيْلَةُ وَالحَقْلَانُ: روی گھوڑے۔
 الحاقول: ایک قسم کی سبز رنگ کی لمبی پھولی۔ الحاقيل: بے خبر آدمی۔
 الحَقْلِيْدُ: بد خو۔
 الحَقْمُ: کبوتر یا کبوتر کی مانند ایک پرندہ۔
 الحَقِيْمَتَانُ: کپٹی کی طرف کے دونوں گوشہ چشم۔
 حَقْنَه (ن) حَقْنًا: روک لینا۔ اور اسی سے ہے "حَقْنٌ بُوْلُهُ" اس نے پیشاب کو روک لیا۔

الحُكَاكُ. سوزا۔ ایک قسم کا مرض جس میں کھلی ہوتی ہے۔
الحُكَاكَةُ۔ وہ جو کسی چیز کے رگڑنے سے گرے۔

الحُكَيْكَةُ: پہلی سچ حکایت۔
الْأَحْكَاکُ: ہم قول لوگ۔ کہا جاتا ہے "لَنْتَسْتَمِيزَ مِنْ أَحْكَاکِهِ" یعنی تو اس کے مردوں میں سے نہیں۔

الْأَحْكَاءُ: دماغوں سے خالی منہ والا۔ ترشا ہوا کمر۔
الحُكَاكُ: بہت رگڑنے والا۔ احمقانہ کے لیے سونے کو رگڑنے والا۔
المُحْكَلُ: کسوٹی۔

المُحْكَكُ: ضم۔ الجِدْلُ المُنْحَكُ: غار شی آؤنٹ کے کھلانے کے لیے درخت کا حصہ۔ کہا جاتا ہے "أَنَا جُدُّيْهَا المُنْحَكُ وَعُدَّةُهَا المُرْجَبُ" یعنی میری رائے سے شفا حاصل کی جاتی ہے جیسے آؤنٹ سے شفا حاصل کرتا ہے۔

حُكَاؤُف (حُكَاؤُف) حُكَاؤُف وَاَحْكَاءُ وَاَحْكَاءُ: العقدة: باندھنا۔ اِحْتِكَاتُ العَقْدَةِ: سخت ہونا۔ کہا جاتا ہے "اِحْتِكَ الشَّيْءُ فِي صَدْرِي" میرے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ پس مجھے شک نہیں۔
الحُكَاؤُفُ وَاَحْكَاءُ: بڑا گرم۔

حُكَّذُ (ض) حُكَّذًا: الی اصلہ: رجوع کرنا۔
أَحْكَذُ وَاَحْكَذُ: الیہ: واپس ہونا اور بھروسہ کرنا۔
حُكَّزُ (ض) حُكَّزًا: گھمانا۔ ظلم کرنا۔ بری معاشرت اختیار کرنا۔ زندگی بسر کرنے میں عقل و شفقت ڈالنا۔

حُكَّزُ (س) حُكَّزًا: اصرار کرنا۔ صفت (حُكَّزُ)۔ بالامر: خود سر ہونا۔
حُكَّزُ وَاَحْكَزُ: جھگڑا کرنا۔

تَحْكُزُ وَاَحْكُزُ: الشَّيْءُ: منگانیچے کے لیے روک رکھنا۔ تَحْكُزُ عَلَیْهِ: السُّوسُ کرنا۔
الحُكَّزُ: ضم۔ (وَالْحُكَّزُ) تَمَوَّزًا پانی یا کھانا پھونکنا۔

الحُكُّوُ وَاَحْكُوُ: گراں بیچنے کیلئے روکی ہوئی چیز۔ تَمَوَّزًا کھانا یا دودھ۔

الحُكَّوُ: قَلْدُ کی بندش۔
الْحَاكُؤُةُ: پائیں باغ۔ (عامیہ)
حُكَّشُ (ض) حُكَّشًا: الرجُلُ: مشنہ۔
الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ الرجُلُ: ظلم کرنا۔
الحُكَّيْصُ: وہ شخص جس سے لوگ بدگمان ہوں۔

حُكَّفُ (ض) حُكَّوُفًا: الرجُلُ: کام میں شت ہونا۔

حُكَّكِلُ (ن) حُكَّكًا وَاَحْكُكَلُ وَاَحْكُكَلُ: الامرُ عَلَیْهِ: دشوار و مشتبہ ہونا۔
تَحْكُكَلُ: جرات سے اصرار کرنا۔

الحُكَّكِلُ: وہ جس کی آواز سنائی نہ دے۔ کہا جاتا ہے "تَكَلَّمَ كَلَامَ الحُكَّكِلِ" اس نے غیر معلوم گفتگو کی۔

الحُكَّكِلُ: فی الفرس: گھوڑے کے ٹخنوں کا ڈھیلہ۔
الحُكَّكَلَةُ: کلام میں لکت۔ کہا جاتا ہے "فِي لِسَانِهِ حُكَّكَلَةٌ" اس کی زبان میں لکت ہے۔
جرات کی وجہ سے اصرار۔

حُكَّكَمُ (ن) حُكَّكَمًا: لوٹنا۔ واپس ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَحْكَمَهُ لِحُكْمِ" اس نے اس کو واپس کیا اور وہ واپس ہو گیا۔
الْفَرَسُ: گھوڑے کے منہ میں مکہ لگانا (دیکھئے لفظ حُكْمَهُ)۔
عَنْ كَذَا: منع کرنا۔ باز کرنا۔
حُكَّكَمُ (ك) حُكَّكَمًا: واپس ہونا۔

حُكَّكَمًا: حاکم بنانا۔ حکمہ فی الامر: فیصلہ کرنے کیلئے سپرد کرنا۔
عَنْ كَذَا: لوٹنا اور منع کرنا۔

حُكَّكَمًا: جھگڑا کرنا۔ حُكَّكَمَهُ الی الْحَاكِمِ: جھگڑے کو حاکم کے سامنے لے جانا۔

أَحْكَمُ: الشَّيْءُ: مضبوطی سے کرنا۔
أَحْكَمْتُهُ: التَّجَارِبُ: واناؤں کا تجربہ کرنا۔
أَحْكَمُ السُّفِيَّةِ: کسی برے کام کے کرنے سے ہاتھ پکڑ لینا یا بڑے انجام کو بتا دینا۔
عَنْ الامرِ: رو کرنا۔
منع کرنا۔
الْفَرَسُ: گھوڑے کے منہ میں حکمہ لگانا۔ (دیکھئے الحُكْمَهُ)

تَحْكَمُ: فی الامر: بغیر وجہ ظاہر ہوئے اپنی رائے سے فیصلہ کرنا۔ حکم جاری کرنا۔ خواہش کے مطابق تصرف کرنا۔

اِحْتَكَمُ: فی الامر: شیخ منظور کرنا۔
النَّاسُ الی الْحَاكِمِ: مقدمہ لے جانا۔
عَلَى فُلَانٍ: ارادہ کے موافق طلب کرنا۔
فِي الشَّيْءِ: خواہش کے مطابق تصرف کرنا۔
الامرُ: مضبوط ہونا۔

تَحَاكَمُوا الی الْحَاكِمِ: مقدمہ لے جانا۔
اِسْتَحْكَمُ: الامرُ: مضبوط ہونا۔
عَلَيْهِ الْكَلَامُ: مشتبہ ہونا۔

الحُكْمُ: ضم۔ فیصلہ۔ ج۔ اَحْكَامُ۔
الحُكْمُ: حکم جاری کرنے والا۔ حاکم۔ فیصلہ کرنے والا۔ سرخ (مفرد و جمع دونوں کیلئے مستقل ہے) رجُلُ حُكْمٍ: فہر سیدہ مرد۔
الحُكْمَةُ: انصاف۔ علم۔ بیاداری۔ فلسفہ۔ حق کے موافق گفتگو۔ کام کی درستی۔ ج۔ حُكْمٌ۔

الحُكْمَةُ: لگام کا وہ حصہ جو گھوڑے کے دونوں جیزوں کی جانب ہو۔
اللسان: چہرے کا سامنے کا حصہ۔ قدر و منزلت۔

الحُكْمَةُ: گورنمنٹ۔
الْحَاكِمُ: قاضی۔ حکم نافذ کرنے والا۔ ج۔ حُكْمًا وَاَحْكَامًا۔

الحُكْمِیُّ: دانا، عالم۔ ج۔ حُكْمَاءُ۔ مؤنث حُكْمِیَّةٌ۔
قَصِیْدَةُ حُكْمِیَّةٌ: دوائی آمیز قصیدہ۔
الحُكْمِیُّ: اللہ تعالیٰ کے اس لئے حشی میں سے ہے۔

الأَحْكَمَةُ: تَحْكَمُ فی الامر کلام۔
المُحْكَمَةُ: کچھری۔ ج۔ حُكْمًا حُكْمًا۔

المُحْكَمُ: ضم۔ آرزو (وَالْمُحْكَمِ) اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنے والا۔

حُكَّي (ض) حُكَّيَةً: عنہ الْكَلَامُ: نقل کرنا۔
الحَمِیْرُ: بیان کرنا۔
فَلَانًا: مشابہ ہونا۔
الشَّيْءُ: مشابہ بنانا۔ حکمی علیہ:

چٹل خوری کرنا۔
العَقِیْدَةُ: باندھنا۔
أَحْكَيْ اِحْتَكَاةً: باندھنا۔
حَاكَيْ مُحَاكَاةً: مشابہ ہونا۔

إِخْتَلَىٰ أَخِيكَ أَلَا مَرْءٌ مَّعْبُودٌ هُوَ -
الْحِكْمِيُّ - جَمَلٌ غُورٌ - (مَدْرُومُونْت)
حَلٌّ (ن) حَلًّا - الْعَقْدَةُ - كَمَوَانٍ -
إِنْ حَلَّتْ - الْعَقْدَةُ - كَمَلٌ جَاءَ -
حَلٌّ (ن ض) حُلُولًا - عَلَيْهِ امْرَأُ اللَّهِ - وَاجِبٌ
هُوَ -

حَلٌّ (ن ض) حَلًّا وَحَلَلًا وَحُلُولًا الْمَكَانَ
وَبِالْمَكَانِ : نَازِلٌ هُوَ - يَهْفِي الْمَكَانَ :
أَتَارَتْ -

حَلٌّ (ض) حَلًّا - الشَّيْءُ : حَلَالٌ هُوَ -
الدَّيْنُ : أَدَانَتِي كَأَوْقَاتٍ يَهْتَمُّ -

الْيَمِينُ : حَمٌّ پُورِي هُوَ - الرَّجُلُ : إِحْرَامٌ
سَ لَفَنًا -

حَلٌّ - الْجَامِدُ : يَهْلَأُ يَأْتِي - الْمَكَانُ :
أَبَادٌ هُوَ -

حَلٌّ (س) حَلًّا - يَأْتِي يَأْتِي فِيهِ وَيَهْلَأُ
هُوَ - صَفْتٌ (أَحَلُّ) حَلٌّ -

حَلٌّ تَحْلِيلًا وَتَجَلَّةً وَتَجَلًّا - الشَّيْءُ :
حَلَالٌ مُهْرًا - النَّبِيُّ : كَفَّارَةٌ أَدَاكَرَتْ -

حَلَّةٌ بِالْمَكَانِ : أَتَارَتْ -
أَحَلُّ إِخْلَالًا - عَمِدٌ وَمِشَاقٌ سَ أَدَارٌ هُوَ

الْمُحْرَمُ : إِحْرَامٌ سَ نَهْلٌ جَاءَ - شَهْرٌ حَرَمٌ
كَ عِلَافَةٍ مَيْمُونٍ فِيهِ دَاخِلٌ هُوَ - بِنَفْسِهِ :

مُسْتَقِيمٌ سَرَا هُوَ - أَحَلَّةٌ بِالْمَكَانِ أَوْ الْمَكَانِ :
أَتَارَتْ - الشَّيْءُ : حَلَالٌ كَرْنَا - عَلَيْهِ

الْأَمْرُ : وَاجِبٌ كَرْنَا - النَّالِقَةُ عَلَى وَلِدَهَا :
دُودٌ جَارِيٌ هُوَ -

إِنْ حَلَّ - كَمَلٌ جَاءَ -
تَحَلَّلَ - فِي يَمِينِهِ : شَرْطِيَّةٌ حَمٌّ كَمَا نَا - جِيئَ

وَاللَّهُ لَا يَفْعَلُنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ - يَا أَلَا أِن
يَكُونُ كَذَا - مِنْ يَمِينِهِ : كَفَّارَةٌ أَدَاكَرَكَ

أَزَادٌ هُوَ جَاءَ - حَلَّةٌ : حَلَالٌ كَرُوْبِيَّةٌ كُوْجَابِنَا -
إِخْتَلَى - الْمَكَانَ وَبِالْمَكَانِ : أَتَارَتْ - أَدَارِيْنَا

هُوَ كَمَا جَاءَ - إِخْتَلَى الْقَوْمُ وَبِالْقَوْمِ : دَهْ قَوْمٌ
كَهْ يَأْتِي -

إِسْتَحَلَّ - الشَّيْءُ : حَلَالٌ كَمَا يَأْتِي حَلَالٌ كَرِيْنَا -
إِسْتَحَلَّتْ الشَّيْءُ : حَلَالٌ مُهْرًا كَ إِجَازَتِ

جَاءِنَا -

الْحَالُ - فَاحِلٌ وَحُلُولٌ وَحَلَالٌ - وَ
(الْحَلَالُ) حَالٌ كَلَامٌ مَبَالِغٌ - كَمَا جَاءَ - "فَلَا يَنْ
حَلَالٌ لِلْعَقْدِ كَمَا فِي الْمَشْهُدَاتِ" فَلَا مَرْهُوسٌ كَا
بِنَا كُوْنُكَ وَالْأَدَارُ مَشْكَاتٌ كِيْلَهُ كَانِي هُ -
الْحَلُّ - تَلُّ كَاتَمَلٌ -

الْحَلُّ - نَم - حَلَالٌ - عَمْدٌ كَمَرَمُ كَ أَرْدُ كَرُودِ حَرَمِ
مَحْرَمٌ كَ عِلَافَةٍ كَمَك - كَسِي كَمَكٌ فِي أَتَرْتِ وَالْأَجِيئِ

"مَازَلْتُ جَلًّا بِهَذَا الْبَلَدِ" فِيهِ بِيئِئِ اسْ شَهْرِي فِي
أَتَرْتِ وَالْأَهْوِي -

وَالْأَشْهُرُ الْجَلُّ : بِشَهْرٍ حَرَمٌ كَ عِلَافَةٍ مَيْمُونِ -
الْحَلُّ : نَشَانٌ - جَسٌ بِرَ حَمْدِ أَدَارِي كِي جَاءَ - حَمٌّ

سَ هَرِي هُوَ -
الْحَلُّ وَالْحُلُّ : إِحْرَامٌ سَ نَهْلَهُ كَأَوْقَاتٍ - كَمَا جَاءَ

هُوَ "فَعَلَهُ فِي حَلِّهِ وَحُزْمِهِ" اسْ نَ اسْ كُو
إِحْرَامِي فِي أَدَارِ إِحْرَامِي سَ نَهْلَهُ كَ وَقَاتِ كِيَا -

الْحَلَّةُ - طُولٌ كَلَامٌ مَرَه - نَزَلٌ كَابِنَا هُوَ إِذَا نَوَكِرَا -
(ه) وَالْحَلَّةُ : أَتَرْتِ كِي كَمَك - مَجْلِسٌ - جَمْعٌ

هُوَ كِي كَمَك - مِنْ الشَّيْءِ : حَمَّتْ وَجَانِبٌ -
رَجٌ حَلٌّ وَجَلَالٌ - أَدَارٌ كَمَا جَاءَ "فِيهِ حَلَّةٌ أَوْ

حَلَّةٌ" اسْ فِي كَمْرُورِي هُ - الْحَلَّةُ : أَتَرْتِ كِي
بِيئَتِ - نَازِلٌ هُوَ فِي قَوْمٍ جُوْبَتِ زِيَادَةٌ هُوَ - كَمَا

جَاءَ "جِيئَ حَلَالٌ" أَتَرْتِ وَالْأَقْبِيلَةُ جَن كَ
أَنْدَرِيئَتِ كَمْرُورِي هُ -

الْحَلَّةُ - نِيَا كِيْرَا - كِيْرُوْنٌ كَ جُوْرَا - اِتْصِيَارٌ - كَمَا جَاءَ
هُوَ "نَيْسَتِ الْمَحَارِبُ حَلَّتْهُ وَبَرَّقَتْ" جَنَكٌ

كَرْنَا وَآلِي نَ اِنْبَابِيْنَا أَدَارِ اِتْصِيَارِ اِسْتِمَالِ كِيَا -
رَجٌ حُلٌّ وَجَلَالٌ -

الْحَلَّةُ - جَرَحَةٌ (مَوْلِدَةٌ)
الْحَلَالُ - ضِدُّ حَرَامٍ - إِحْرَامٌ سَ نَهْلَهُ وَالْأَجِيئِ

وَالْبِسْعُورُ الْحَلَالُ : تَعْبٌ أَكْبِيْرٌ أَمُورٌ جَن سَ
مَحَلٌّ جَرَانٌ هُوَ جَاءَ - الْحَلُولُ الْحَلَالُ : كَلَامٌ جَسٌ

فِي شَكِّ نَدِ هُوَ -
الْحَلَالُ - ضِدُّ حَرَامٍ - كَبَادٌ كَ سَامَانٍ - مَحْرُورِي كِي

أَكْبِيْرٌ سَوَارِي -
الْحَلِيلُ - حَلَالٌ - شُوْبَرٌ () وَالْحَلِيلَةُ

بِيُوِي - الْحَلِيلُ : كَمْرِيْنَا أَكْبِيْرٌ سَاطِرٌ رَسْنُ وَالْأَجِيئِ
أَجِيْلًا مَوْثٌ حَلِيلٌ وَحَلِيلَةٌ رَجٌ حَلَالِيَلٌ -

الْأَحَلُّ - نَاغَمُوْنٌ فِي كَمْرُورِي وَالْأَجِيئِ مَوْثٌ حَلَاءٌ

رَجٌ حُلٌّ -

الإِخْلَالُ - اِفْتِصَالٌ جَ سَ فِرَاغَتِ -
الإِخْلِيْلُ - بِيئِشَابٌ نَهْلَهُ كَ سَوَارِخٍ لِبَتَانِ فِي

دُودِهِ نَهْلَهُ كَ سَوَارِخٍ رَجٌ أَحَالِيَلٌ -
الشُّجْلَةُ - حَمٌّ كَ كَفَّارَةٍ بِحَمٍّ فِي اِسْتِمَالِ

التَّخْلِيْلِ - بِمَعْنَى اِلْحَالِيَلِ -
المُحَلُّ - اِتْرَا - اَتْرَتِي كِي كَمَك - رَجٌ مَحَلٌّ -

وَحَلٌّ - الدَّيْنُ : أَدَانَتِي قَرَضٌ كَأَوْقَاتٍ -
المُحَلُّ - فَارِجٌ مُجَلٌّ : حَرَمٌ كِي بِرُودِ وَرِي

كَرْنَا وَالْأَجِيئِ -
المُحَلَّةُ - اَتْرَتِي كِي كَمَك (المُحَلِّيَانِ) بَانِيُوِي وَ

بَجِي (المُحَلَّلَاتِ) بَانِيُوِي وَبَجِي وَوُؤُولٌ - مَهْكٌ وَ
بِيَالِهِ وَجَمْرِي - كَمَا يُوِي - اسْ لِيْلَهُ كَ جَسٌ كَ سَاسِ

بِي سَبْ جِيئِي هُوِي كِي دَهْ بِرُجْمَةٍ اَتْرَسَكَا هُ -
المُحَلَّلُ - نَم - مَاءٌ مُحَلَّلٌ : أَوْتُنُوِي كَ

اَتْرَتِي سَ كَمَلَا بَانِي - مَكَانٌ مُحَلَّلٌ : دَهْ كَمَك
جَمَالٌ كَمْرُورِي سَ لُوْكَ اَتْرِيْنَا - رُوضَةٌ أَوْ مَكَانٌ

وَمَحَلٌّ : بَلُغٌ يَامَكَانٌ جَمَالٌ كَمْرُورِي سَ لُوْكَ
اَتْرِيْنَا -

حِلَاةٌ (ف) حَلَا - بِالسَّيْفِ : تَمَارٌ سَ مَارِنَا
هُوَ هَالِسُوطٌ : كُوْرِي سَ مَارِنَا - يَهْ

الْأَرْضُ : بِيْجَارِيْنَا - حِلَاةٌ الشَّيْءِ : رُوضَةٌ حَلَا
الْحِلَّةُ : كَمَلٌ اَتَارَتْ (حِلَاةٌ وَأَخْلَاهُ) كَسِي كُو

سَرْمَدِيْنَا جَن لَكَانَا - حِلَاةٌ حَلُولَةٌ : كَسِي كَ لِيْلَهُ
شَرْمَدِيْنَا جَن رُجْمَتَا -

حَلِيٌّ (س) حَلَا - الْاَدِيْمُ : كَمَلٌ اَتَارَتْ
هُوَ شَهْرِي لُكٌ كَرُخَابٌ هُوَ - حَلِيْبَةٌ

الشُّفَّةُ : هُوْنْتُ بِرُجْمَالِ رُجْمَانَا -
حِلَاةٌ تَحْلِيْبَةٌ وَتَحْلِيْقَةٌ - عِن الْمَاءِ :

وَحِكَارَتَا - بَانِيُوِي اَتْرَتِي سَ رُوكِنَا - ه
الشَّيْءِ : رِيْنَا -

الْحَلْوَةُ وَالْحَلَاةُ - سَرْمَدٌ - هِيئَةٌ بِرُكِي جَمَلِي
جَسٌ كُوْدِيْلُغٌ اَتَارَتْ هُ - هَرُودٌ جِيئِي جَسٌ كُوْرُكُوْرِي

أَكْمَكٌ فِي لَكَانِي جَاءَ -
الْحَلَا وَالتَّحْلِيْبُ وَالتَّحْلِيْقَةُ - هِيئَةٌ كَ

بَالٍ - يَاهِيئَةٌ كَامِلَةٌ وَسِيَايِي - النُّحْلِي : جَمْرِي لُكَا
هُوَ هِيئَةٌ - الْحَلَاةُ : نَجَارٌ كَ بَعْدِ هُوْتُوِيْنَا بِرُجْمَتِي

وَالْأَجْمَالِ -

الخَالِقَةُ: بت زہریلا ساپ۔

الْيَخْلُفَةُ: بوجھل۔ کہا جاتا ہے "رجلٌ يَخْلُفَةُ" بوجھل مرد۔

الْمِخْلَا وَالْمِخْلَاةُ: چڑھا صاف کرنے کی چھری۔

حَلَبٌ (ن ض) حَلْبًا وَ حَلْبًا وَ جَلَابًا الشَّاةُ: دوہنا۔ کہا جاتا ہے "حَلَبُ الدَّهْرِ اشْفَاؤُهُ" اس نے زمانے کے امور خرد و شرک و آزادی (اشطر او نثی کے قہن کے ہاک کو کہتے ہیں) اور "حَلَبْتُ بِالسَّاعِدِ الْأَشَدِّ" جبکہ تم ایسے آدمی سے مدد لو جو تمہارے کام کو اچھی طرح انجام دے۔

وَمَا لَهُ حَلَبٌ وَلَا حَلَبٌ اس کیلئے نہ اونٹیاں ہیں نہ اونٹ۔ حَلَبُ الرَّجُلِ: زانو کے بل پینٹنا۔

حَلَبْتُ وَأَخْلَبْتُ: الرَّجُلُ دوسرے کے لیے دوہنا۔ حَلَبْتُ وَأَخْلَبْتُ النَّاقَةَ: دوہنے کے لیے دینا۔ حَلَبُ الْقَوْمِ حَلْبًا وَ حُلُوبًا وَأَخْلَبُوا: ہر طرف سے مدد کیلئے جمع ہونا۔

حَلَبٌ (س) حَلْبًا الشَّعْرُ: کالا ہونا۔ خَالِبٌ: ساتھ مل کر دوہنا (وَأَخْلَبَهُ) مدد کرنا۔

تَحَلَّبَ وَالْحَلَبُ: العرق او الدمغ: بے عینہ: آنسو بنانا۔ لَمَهُ: ٹھوک پڑانا۔

إِسْتَحَلَبَ وَاسْتَحَلَبَتْ: دوہ کر لانا۔ اسْتَحَلَبَ النَّاقَةَ: دوہنا۔ اسْتَحَلَبَ الْقَوْمَ: مدد کے لیے جمع ہونا۔

الْحَلَبُ: ب۔ (وَالْحَلْبُ) دوہا ہوا دوہ۔ کہا جاتا ہے "شربت حَلْبًا" میں نے تازہ دوہ پیا۔ کجور کی شراب۔ حَلَبُ الْكُزْمِ وَ حَلَبُ الْقَصِيرِ: شراب۔ کہا جاتا ہے "ذالوا حَلَبَ امْرُؤِهِم" یعنی انہوں نے اپنے کام کے دیال کا مزہ چکھا۔ "ذَمَّ حَلَبًا" تازہ فون۔ کہا جاتا ہے "ناقةٌ (حَلْبِي) رَكْبِي" او (حَلْبَانَةٌ) زَحْبَانَةٌ" دوہ دینے والی اور سواری کے قاتل اور نثی۔

الْحَلْبَةُ: ایک بار دوہنا۔ ایک دفعہ کی گھوڑوں

کی دوڑ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَرْكُضُ فِي كُلِّ حَلْبَةٍ مِنْ حَلْبَاتِ الْمَسْجِدِ" وہ مسجد و بزرگی کی ہر دوڑ میں دوڑتا ہے۔ الخَلْبَةُ: گھوڑے جو دوڑانے کے لیے جمع کئے جائیں۔ ح حَلْبَاتٍ وَ حَلَابٍ۔

الْحَلْبَتَانُ: صبح شام۔ (چونکہ یہ دونوں اوقات دوہ دہنے کے ہیں)۔

الْحَلْبَةُ: بیٹی۔ زچہ کی خوراک۔ الخَلْبَةُ: زچہ کی خوراک۔ بکریوں کا ایک حصہ جو ریوڑ سے علیحدہ ہو جائے۔

الْحَالِبُ: فارح۔ حَلْبُهُ: الخَالِبَةُ: قہن کے ارد گرد کی رگیں۔ ح حَوَالِبُ حَوَالِبِ الْبَيْتِ: کنوئیں کا سوت۔ حَوَالِبُ الْعَيْنِ: آنکھ کی وہ رگیں جن سے آنسو نکلتے ہیں۔

الْحَالِيَانُ: دو رنگوں کا نام جن سے پیشاب گردے سے مٹانے کی طرف آتا ہے۔

الْحَلَابُ: دوہ دہنے کا برتن۔ الخَلَابُ: بت دوہنے والا۔ "يَوْمَ حَلَابٍ" نناک دن۔

الْحُلُوبُ وَالْحُلُوبَةُ: مِنَ الْأَبْلِ أَوِ الْغَنَمِ: دوہ دینے والی اونٹنی یا بکری۔ دوہی ہوئی۔ ح حَلْبٌ وَ حَلَابٌ۔

الْحَالِبُ: بھانسی۔ کسی شخص کے مددگار لوگ جو بچا کی اولاد سے ہوں۔ الخَلْبُوبُ: کالا رنگ۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ حَلْبُوبٍ" بت کالا۔

الْحَلْبَابُ: عشق۔ بچہ کی تیل۔ الخَلْبُ وَالْحَلْبَانُ وَالْحَلْبَابُ وَالْحَلْبُوبُ: لطف دہات کے نام۔

شاةٌ (يَخْلَبُ) وَ تُخْلَبُ وَ يُخْلَبُ وَ تُخْلَبُ وَ يُخْلَبُ: حاملہ ہونے سے پہلے دوہ دینے والی بکری۔

الْمِخْلَبُ: دوہ دہنے کا برتن۔ ح حَمَالِبُ: الخَلْبُ: دوہ دہنے کی جگہ۔ ح حَمَالِبُ: ایک قسم کا درخت جس کے بیج سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے۔

الْمِخْلَبُ: قہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَ مِخْلَبٌ مِخْلَبٌ" یعنی فلاں شخص کے اونٹ بیچے ہوئے

جس میں سے وہ ماہ سے دوہ دہتا ہے اور نر کو بیچنے کے لیے لے جاتا ہے۔ الخَلْبُ: بعض مددگار جو اپنی قوم کا نہ ہو۔ الخَلْبَةُ: چھوٹا اونٹ۔ مَوْنُثٌ حَلْبِدَةٌ۔ الخَلْبَسُ: بارود۔ الخَلْبَسُ: بہادر۔ کسی شے کو لازم ہو کر رہنے والا۔ شیر۔ الخَلْبَسُ: شیر۔ حَلَبْتُ (ض) حَلْبًا: الراض: موہنا۔

الصُّوفُ: تمک لگائے ہوئے چمڑے سے بال اکھیرنا۔ الذَّنْبُ: ادا کرنا۔ ظہر الخَلْبِ: بچٹ کے رہنا۔ بِسَلْبِهِ: پانسانہ کرنا۔ الخَلْبَةُ: اون کا اکھیرتے وقت گر اہوا۔ الْأَخْلَبُ: وہ جس کا بال یا اون اکھیر دیا گیا ہو۔ الخَلْبَةُ: صبح اولہ پالا۔ الخَلْبَةُ وَالْحَلْبَةُ: بیگ۔ الخَلْبَةُ: بیگ۔ حَلْبٌ (ن ض) حَلْبًا: العَصِيَّةُ: بیلن سے بڑھانا اور گول کرنا۔ فِي الْمَشْيِ: آہستہ آہستہ چلنا۔ دوڑنے میں قدم کشادہ رکھنا۔ الْقَوْمُ يَلْقَبُهُمْ: چلنا۔ کہا جاتا ہے "بَاتَتِ الْقَوْمُ يَخْلَبُونَ لَيْلَتَهُمْ" قوم ساری رات چلتی رہی۔ حَلْبٌ الْقَطْلُ: دھن کر بولے لگانا۔ صفت (حَلَابُ) اور صفت مفعول (حَلْبِي) وَ مَخْلُوجٌ: الخَبْلُ: بٹنا۔ الرَّجُلُ بِالْقَصَا: لاٹھی سے مارنا۔ تَخْلَجُ: الخَلُوجُ: ہاول کا چکنا۔ فی صدرہ: چکنا۔ إِسْتَخْلَجَ: حَقَّهُ: لینا۔ الخَلْبُ وَالْحَلْبَةُ: مسات۔ الخَلْبَةُ: دھن کا پتھر۔ الخَلُوجُ: چمکنے والا ہاول۔ الخَلْبُ: بت کمانے والے۔ الخَلْبَةُ: دوہ جس میں کجور ترکی مٹی ہو۔ ح حَلْبُجُ: الحُجُّ وَالْحَلَابُ: روٹی دھننے کا آلہ۔ بیلن۔ ح حَلْبُجٌ وَ مَخْلَبُجٌ: الخَلْبُجُ: کلاوی

حلس

حلف

حلق

۱۷۱

حزبہ: قوم کا لازم ہونا۔ تخالفوا: باہم حمد و بیان کرنا۔ الخلفوا الخلف والاختلاف: قوم۔ الخلف: ہم۔ حمد و بیان۔ دوستی۔ دوست جو یونانی نہ کرنے کی قوم کھائے۔ حج اختلاف۔ کہا جاتا ہے "فلان خلیف کذا" یعنی فلاں اس سے ہدا نہیں ہوتا۔ الخلفاء: ایک بولی تو کبھی جیسے کجور کی شاخ پالی بننے کی جگہ آتی ہے۔ وادع خلفتو خلفاء۔ الخلفاء: بہت پیچھے والی لڑائی۔ حج خلف و خلف۔ ارض (خليفة و تخليفة) خلفاء کھاس والی زمین۔ الخلائی: وہ جگہ جس میں خلفاء کھاس بہت آگے۔ الخلاف و الخلفة: بہت قسمیں کھائے والا۔ الخلیف: حمد و بیان کرنے والا۔ لازم۔ ساحی۔ کہا جاتا ہے "فلان خلیف الخوذ" فلاں جو رو بخش کا خلیف ہے، یعنی بڑا فیاض۔ "فلان خلیف الیسان" فلاں چرپ زبان فصیح ہے حج خلفاء۔ المخلف: حکم کی چیز جس کے ثابت کرنے کے لیے قوم کی ضرورت ہو۔ کہا جاتا ہے "هذا سلام مخلف" یہ ایسا لڑاکا ہے جس کے احکام میں حکم ہے۔ الجلس: بہت گوشت والی کبری۔ الخلقی: جنگ۔ خَلَقَ (ض) خَلَقًا وَتَخَلَّأَ: الراض : مویڑنا۔ خَلَقَ (ن) خَلَقًا: الرجل : خلق پر مارنا _____ الحوض : بحرنا _____ الشئ : چھینا۔ الشئ القوم : معیبت میں ڈالنا۔ صفت (خلفی) _____ القوم بغضہم بعضا : ایک دوسرے کو قتل کرنا۔ خَلَقَ (س) خَلَقًا: خلق کے رو روا ہونا۔ خَلَقَ: الراض : مویڑنا (تشریح کثرت کے لیے ہے) _____ الطائر : اڑنے میں پکر لگانا	آخَلَشَ: سرخ مائل بیسیا ہونا۔ صفت (اخلس) مَوْنَتْ (خَلَسَتْ) استخَلَسَتْ: الارض : سرسبز ہونا۔ _____ النبت : زمین کو ڈھانپ لینا _____ اللیل : سخت تاریک ہونا _____ الخوف فلاں: خوف کا لازم رہنا۔ الجلس والجلس: زمین یا کجاوہ کے نیچے بچھائے کا کپڑا۔ قیمتی فرش کے نیچے بچھائے کا کپڑا۔ حج أَخْلَسَ وَخَلَّوَسَ وَجَلَسَ: أَخْلَسَ الخيل: گھوڑوں پر ہی سوار ہونے والے اور کہا جاتا ہے "فلان جلست بینه" فلاں ہمیشہ اپنے گھر ہی میں رہتا ہے اور یہ عربوں کے نزدیک قابل ذمت ہے۔ "وهو جلست من أخلاص البلاد" یعنی وہ صاحب عزت و قوت ہے (اور یہ قابل مدح ہے) و "كولوا أخلاص بیوتکم" تم ہمیشہ خانہ نشین رہو و "هذا لیس من أخلاص فلان" یہ فلاں کا گھر نہیں ہے۔ "وَقَفَضَتْ كَذَا وَنَقَضَتْ" اخلاصہ" یعنی میں نے اسے پھوڑ دیا۔ الجلس : حمد و بیان۔ جوئے کا چوتھا۔ سردار۔ بہادر۔ ام جلس: گدھی۔ الجلس: ہم۔ حمد و بیان۔ الجلس: بہادر۔ حریص جو اپنی جگہ سے ہدانا ہو۔ سرخ یا بی مائل۔ الجلوس: حریص لالچی۔ ارض (مخليفة) وہ زمین جس میں کھاس بہت آگے ہوئی ہو۔ الجلوس: لالچی۔ حریص۔ خَلَقًا (ن) خَلَقًا: قوم کھانا _____ فی الامر : اصرار کرنا اور جلدی کرنا۔ غضبناک ہونا۔ خَلَقًا (س) خَلَقًا وَخَلَقًا: عليه : غضبناک ہونا _____ منہ : زنج ہونا۔ أَخَلَطَ: بسمی خَلَطَ _____ ہ : غضبناک کرنا _____ بالمکان : اقامت _____ فی الیوم : کوشش کرنا۔ خَلَفَ (ض) خَلَفًا وَجَلَفًا وَخَلَفًا وَخَلَفًا وَمَخَلَفًا وَخَلَفًا: بالله : قسم کھانا۔ أَخَلَفًا وَخَلَفًا: استخلفه : قسم کھانا۔ خَالَفًا وَخَالَفًا: معاہدہ کرنا۔ حالف فلاں	جس پر چٹنی گھومتی ہے۔ المخلج والمخلجة: وہ چیز جس پر روٹی دھنی جائے۔ خَلَعَلَ: الشئ : حرکت دینا۔ ہٹانا _____ القوم : قوم کو ان کی جگہ سے علیحدہ کر دینا۔ تَخَلَّلَ: عن مکانہ : حرکت کرنا۔ دور ہونا۔ ہٹ جانا۔ الخلاجل: سردار۔ بہادر۔ کال۔ حج خلاجل (اسی معانی میں مَخَلَّلَ وَخَلَّلَ وَخَلَجَ بھی ہیں)۔ خَلَزَ (ن) خَلَزًا: الجلد و القود : چھینا۔ تَخَلَّزَ: الشئ : ہاتی رہنا _____ القلب : دور مند ہونا _____ للامر : تیار ہونا _____ بالمکان : اقامت کرنا۔ إِخْتَلَزَ: عنہ حلقہ لینا۔ الجلز: بچل۔ بدخلق۔ پست قد۔ الو۔ ایک قسم کالڈ۔ وادع (حزبہ) الخلزون: ایک قسم کا آبی جالور جو پتلی میں ہوتا ہے۔ سکھ۔ الخلزونة: فی عرف الحدادين والتجارين: لوہاروں اور پویموں کے عرف میں حج دار کیل کو کہتے ہیں۔ شکل اوخط (خلزونی) گھونٹنے کی میت کی مثل۔ خَلَسَ (ض) خَلَسًا: البصر : ثابت سے ڈھانچا _____ الرجل بالشئ : بہت حریص ہونا _____ السماء : لگا کار نرم رہنا۔ خَلَسَ (س) خَلَسًا وَتَخَلَّسَ: بالمکان : کسی جگہ میں جم کے رہنا _____ للآمر : کسی کام کے لیے پکر لگانا۔ کہا جاتا ہے "ما تَخَلَّسَ منہ بشئ و ما تَخَلَّسَ شیئا" اس نے اس میں سے کچھ نہیں پھینکا۔ أَخْلَسَ: الرجل : غلط ہونا _____ فلاں فی البیع : نقصان پہنچانا _____ ہ : حمد و بیان کرنا۔ أَخْلَسَتْ السماء : لگا کار بلی بارش ہونا _____ الارض : سرسبز ہونا۔ أَخْلَسَهُ الخوف : خوف کا لازم کرنا۔ خَالَسَهُ: لازم ہونا۔ خالست البعیر : ثابت سے ڈھانچا۔
---	--	---

اِحْلَمَ وَاِحْتَلَمَ فِی نَوْمِهِ: خواب دیکھنا۔
 الْحَلْمُ: صبر و استقامت۔ بروہاری اور کبھی حمل و
 بیوقوفی کے مقابلہ میں آتا ہے جیسے "وَأِنْ سَفَاةَ
 الشَّمِخِ لِاحْلَمَ بَعْدَهُ" عقل۔ ح اَحْلَام و
 حَلْوَم۔ کہا جاتا ہے "تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا"
 ان کی عقلیں اس کا حکم دیتی ہیں۔

الْحَلْمُ: ص۔ خواب۔ ح اَحْلَام۔ اور کہا جاتا
 ہے "هَذِهِ اَحْلَامُ نَالِمٍ" یہ جھوٹی آرزوئیں
 ہیں۔

الْحَلْمَةُ: سرپتیاں۔ ایک قسم کا کبیرا جو چڑے
 میں لگ جاتا ہے اور اس کو خراب کرتا ہے۔ ح
 حَلْم۔

الْحَلِيمُ: اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے
 ہے۔ موناہ کی چربی۔

الْحَلَامُ: کبیری کا بیڑہ۔

الْحَالُومُ: ایک قسم کا کبیرا یا گاڑھا دودھ جو تازہ
 پیر کے مشابہ ہو جائے۔

الْحَيْنَمُ: چھوٹے چالور۔

التَّحْلِيمَةُ: بسمت کبیرے والا۔ ح تَحَالِم۔

الْاَحْلَامُ: اجسام (جمع ہے بغیر مفرد کے)

حَلَا (ن) و حَلْوَا (ک) و حَلِي (س) حَلَاوَةٌ
 و حَلْوَانَا۔ بیٹھا ہونا۔ الفاکھتہ: بیٹھتا ہونا

حَلَاوَةُ الشَّيْءِ: لذیذ ہونا۔ صفت (حَلْو) اور کہا
 جاتا ہے۔ حَلِي فِی عَيْنِي و بَعِينِي "وہ میری

آنکھوں میں بھلا معلوم ہوا۔ حَلَامَنہ بخیر: خیر
 و منفعت حاصل کرنا۔

حَلَاةُ (ن) و حَلْوَا و حَلْوَانَا: تھوڑا یا پورا امر
 وصول کرنے کی شرط پر لڑکی یا بچہ کی شادی کرنا

حَلَاةٌ كَثْرًا اَوْ بَعْدًا: رہنا۔ کہا جاتا ہے "حَلَاةُ
 حَلْوَانِهِ" اس نے اسے بدل دیا۔

(حَلِي و حَلِي الشَّيْءِ (تَحْلِيَةً) بیٹھا بنانا۔
 (حَالِي مَحَلَاةً اِلَى حَلِي) خوش طبع کرنا۔

اَحْلَاةُ اِحْلَاةً: بیٹھا پانا یا بیٹھا بنانا۔ کہا جاتا ہے
 "مَا يَبْرُؤُ وَلَا يَحْلِي" یعنی وہ نہ کڑوی باتیں کرتا

ہے نہ میٹھی یا نہ اچھا کام کرتا ہے نہ بُرا۔
 تَحَلَّتْ: المرأَةُ: زبیر پھنسا۔ کہا جاتا ہے

"حَلِي فُلَانٌ بِمَا لَيْسَ لِيْنِه" فلاں نے اپنے
 آپ کو ایسی چیزوں سے آراستہ کیا جو اس کے

الْحَالِقَةُ: الحالق کامؤنث۔ موت۔ بڑا قول۔
 مَحْت سال۔ ح حَوَالِق۔

الْحَالِقُ: موت۔

الْحَالِقَةُ: مِنَ السِّبُوفِ اَو الرِّجَالِ: تیز۔
 الْحَوَالِقُ و الْحَوَالِقُ: بلاد مصیبت۔

الْحَوَالِقَةُ: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ" کہنا۔
 الْحَالِقِي: مونڈا ہوا۔ کہا جاتا ہے "شعر حَلِيقِ

و لِحَبْتِهِ حَلِيقٌ" مونڈا ہوا بال مونڈی ہوئی
 دارمی۔ ح حَلْفِي۔

المِخْلِقُ: استرو۔ مَحْت کبیل۔

المِخْلَقُ: بدخو۔

حَلْفَمُه: گلا کاٹنا۔

الْحَلْفُومُ: گلا۔ ح حَلَا قِيم۔

حَلِكٌ (س) حَلْوَكَةٌ و حَلْوَكَا و حَلْوَكَا
 وَاِحْلُوْلُوكَ وَاِمْتَحَلِكُ: مَحْت سیاہ ہونا۔ صفت

(حَالِك و حَلِك)

الْحَلِكُ و الْحَلِكَةُ: مَحْت سیاہی۔

الْحَلِكَةُ و الْحَلِكَا و الْحَلِكَا و الْحَلِكَا
 و الْحَلِكَا و الْحَلِكَا: مَحْت سیاہی۔

الْحَلِكُوكَا و الْحَلِكُوكَا: مَحْت سیاہ۔

الْحَلِكُمُ: سیاہ۔

الْحَلِكَمُه: سیاہی۔

حَلْم (ن) حَلْمًا و حَلْمًا: فِی نَوْمِهِ: خواب
 دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "حَلْمَمُو حَلْمَمًا" اس نے اس

کو خواب میں دیکھا۔ حَلْمُ الصَّبِيِّ (وَاحْتَلَمَ) بِالْبَلْغِ
 ہونا۔ (حَلْمًا) المِجْلَدُ: کبیرے نکالنا۔

حَلْمٌ (ک) جَلْمًا: درگزر کرنا۔ بروہاری ہونا۔
 صفت (حَلِم) ح حَلْمَاءُ و اَحْلَامُ: مؤنث

حَلِيمَةُ۔

حَلِمٌ (س) حَلْمًا: المِجْلَدُ: خراب ہونا اور
 کبیرے پڑنا۔ صفت (حَلِم و حَلِيم)

اَحْلَمْتُ: المرأَةُ: علم و بروہاری بچے جانا۔

حَلْمَةٌ تَحْلِيْمًا و جَلْمًا: بروہاری بنانا۔ حَلْمٌ
 المِجْلَدُ: کبیرے نکالنا۔ القزبہ: بھرتا۔

تَحَلْمٌ: بروہاری بننا۔ الوِجْلُمُ: بروہاری
 سے کام لیتا۔ الرَّجْلُ: موٹا ہونا۔ تَحَلْمْتُ

القزبہ پانی سے بھر جانا۔

تَحَلْمٌ: مَحْت سے بروہاری بنا کر کرنا۔

القَمْرُ: بالہ پڑنا۔ الشَّيْءُ: حلقہ کی
 مانر بنانا۔

الاناءُ مِنَ الشَّرَابِ: بھرتا۔

الحَوْضُ: خشک ہونا۔ عَيْنُ الحَيْوَانِ:
 و حَسَنُ جَانَا۔ النَجْمُ: بلند ہونا۔

ضَرْغُ التَّفَاةِ: دودھ کا خشک ہو جانا۔

اَحْلَقِي: الاناءُ اَو الحَوْضُ: بھرتا۔

تَحَلَّقُ: القَوْمُ: حلقہ بنا کر بیٹھنا۔
 القَمْرُ: بالہ پڑنا۔

اِحْتَلَقِي: الراسُ: مونڈنا۔

الْحَلْقُ: ص۔ گلا۔ ح اَحْلَاق و حَلْوَق و
 حَلْقُ: حَلْوَق۔ الارضُ: ٹالیاں۔ وادیاں۔ کہا

جاتا ہے "اَحْلُوا لِي حَلْوَقِ الطَّرِيقِ" انہوں
 نے گھر راستے اختیار کئے۔ الْحَلْقُ: بد بختی۔

الْحَلْقَةُ: ہر گول چیز۔ زہ۔ رستی۔ ح حَلْقِ و
 حَلْقَاتُ: و حلقۃ القوم: قوم کا دائرہ۔

کہا جاتا ہے "سَأَلْتُ لِي حَلْقِي" اس نے اس
 سے مانگا جبکہ وہ مانگنے والوں کے حلقہ میں تھا۔

حلقۃ الحوض: حوض کا بھرتا۔

حَلْقَةُ: البابُ اَو القَوْمُ: دروازہ کا حلقہ یا قوم
 کا دائرہ۔

الجَلْقُ: بادشاہ کی انگوٹھی۔ بغیر ہمینہ کی
 انگوٹھی۔ بسمت موسیٰ۔

الْحَلْقِي: بے بال کا۔ راسِ حَلْقِي: بے بال کا
 سر۔

الْحَلَّاقُ و حَلَّاقٌ: بروہاری نظام بنی علی الکسر
 معدول از حَالِقَةُ: موت۔

الْحَلَّاقُ: گلا۔

الْحَلَّاقُ و الْحَوَالِقُ: گلے کا درد۔

الْحَلَّاقُ: نالی کا جام۔

الْحَلَّاقَةُ: مونڈے ہوئے بال۔

الْحَلَّاقَةُ: نالی کا بیڑہ۔

الْحَالِقُ: نالی۔ ح حَلْقَةُ: مِنَ الْجَبَالِ:
 بلند پہاڑ جس میں پیدادار نہ ہو۔ کہا جاتا ہے "جاء

مِنَ حَالِقِي" وہ بلند جگہ سے آیا و "هَوَى مِنْ
 حَالِقٍ" وہ اونچی جگہ سے گرا یعنی ہلاک ہو گیا۔

"ضَرْعُ حَالِقٍ": بھرا ہوا تھن۔ بیٹھ سے سٹھا
 ہوا تھن (ضد) ح حَلْقُ و حَوَالِقُ۔

اس لیے کہ اس میں "ح" تانیف کیلئے نہیں بلکہ تائید وحدت ہے اور بسا اوقات حمام مفرد کے لیے بھی بولتے ہیں۔ حج حَمَائِم و حَمَائِمَات حَمَامُ الزَّاجِلِ اَوْ الزَّجَالِ: پیغام و مخلوط لے جانے والے کبوتر۔

سَائِقُ الْحَمَامِ و رَعِي الْحَمَامِ: دو قسم کی گھاس کے نام۔ بَيْضُ الْحَمَامِ: انگوڑی ایک قسم جس کے دانے بڑے ہوتے ہیں۔ حَقِ الْحَمَامِ: ایک قسم کارنگ جو سرخ اور نیلے کے درمیان ہوتا ہے۔

الْحَمَامُ: موت۔

الْحَمَامُ: جانوروں خصوصاً گھوڑوں کا بخار۔ سردار شریف۔

الْحَمَامِيُّ: ایک قسم کی گھاس۔ کھال کی سرفی۔

الْحَمَامُ: غسل کرنے کی جگہ۔ یہ بکھرت موٹہ مستعمل ہوتا ہے اور بھیڑ کر بھی حج حَمَائِمَات۔

الْحَمَامِيُّ: حمام والا۔ حمام کا نگہبان۔

الْحَمَامَةُ: اپنے خاص لوگ۔ عمدہ اونٹ۔

الْحَمِيمُ: قرعہ ریشہ دار۔ دوست۔ حج أَحِمَاءُ: گرم پانی۔ ٹھنڈا پانی۔ چنگاری جس سے دعویٰ دی جائے۔ حج حَمَائِمِ: الْحَمِيمُ: گرمی۔ بید۔ سخت گرمی کے بعد بارش۔ کہا جاتا ہے "ہو حَمِيمٌ بِالْحَاجَةِ" وہ حاجت پر فریفت ہے۔

الْحَمِيمَةُ: حمیم کا موٹہ۔ گرم پانی۔ گرم کیا ہو اور وہ۔ عمدہ نسل کا اونٹ۔ حج حَمَائِمِ:

الْأَحْمُ: بہت خاص و بہت قرعہ۔ کالا۔ سفید (خدا) بے پھل کا تھمن خُم۔

الْمَحْمُ: پانی گرم کرنے کا برتن۔

الْمَحْمُ: قریب۔

الْمَحَامُ: ثابت۔

الْمَحْمُومُ: بخار والا۔ مقدر۔ کہا جاتا ہے "نَزَلَ بِهِ الْقَضَاءُ الْمَحْمُومُ" اس پر قضاء مقدر کا نازل ہوا۔

الْمُسْتَحْمُ: غسل کرنے کی جگہ۔

الْيَحْمُومُ: کالا۔ وحوال۔

حَمًا (ف) حَمًا: البئر: کنوئیں سے

قریب ہوتا۔ الرجل: بخار زدہ ہوتا۔ لَهْ كَذَا: مقدر کیا جانا۔

حَمَّ (س) حَمَمًا: کالا ہونا۔ الماء: گرم ہونا۔

حَمَمٌ: الغلام: سبز آغاز ہونا۔ الراس: مونڈنے کے بعد بال لگنا۔ المكان: روئیدگی ظاہر ہونا۔ الشئ: کالا کرنا۔

الماء: گرم کرنا۔ الرجل: کونکے سے منہ کالا کرنا۔

المراة: طلاق کے بعد منہ کے کپڑے دینا۔

أَحَمَّهُ: اللہ: بخار میں مبتلا کرنا۔ أَحَمَّ الشئ: قریب ہونا۔ المكان: بہت بخار والی جگہ ہونا۔ الماء: گرم کرنا۔ اللہ له كَذَا:

مقدر کرنا۔ الشئ: کالا کرنا۔ الامور: فلانا: غم میں ڈالنا۔

تَحَمَّمٌ: کالا ہونا۔

إِحْتَمَمٌ: تمکین ہونا۔ غم کی وجہ سے نہ سونا۔ العين: بغیر روڑے کے بیدار رہنا۔

انْتَحَمَمَ: پانی سے غسل کرنا۔ حمام میں داخل ہونا۔ بیدار والا۔

الْحَمَمُ: حَمُّ الظَّهْرِيَّةِ: دو پہری سخت گرمی۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُ حَمٌّ عَنْ ذَلِكَ اَوْ مِنْهُ" اس کے لیے اس سے کوئی چارہ نہیں۔ حَمُّ الشئ و (حَمُّهُ) چیز کا بڑا حصہ۔

الْحَمِيُّ: بخار حج حَمِيَّات۔

الْحَمَّةُ: گرم پانی کا پتھر۔

الْحَمَّةُ: سیاہی۔ سبزی اور سیاہی کے درمیان رنگ۔ بخار۔ ہر مقدر و لعیل شدہ چیز۔ اور اسی سے ہے "حَمَّةُ الْفِرَاقِ" کہا جاتا ہے "عجلت بناذيقكم حَمَّةَ الْفِرَاقِ" مقدر شدہ فراق لے تمہاری مجلس کے ساتھ جلدی کی۔ حج حَمَمٌ و حمام۔

الْحَمَمُ: حَمَّةُ كَيْ جَمْعٍ كَوَلَدٍ: راگ۔ ہر وہ چیز جو آگ میں جل جائے (واحد حَمَمَةٌ) الجحمة: موت۔ بیدار۔

الْحَمَامُ: کبوتر۔ واحد (حَمَامَةٌ) اور کہا گیا ہے کہ حمامة کا اطلاق زود ماہ دونوں پر ہوتا ہے۔

اندر نہیں ہیں۔ تَحَلَّى وَاخْلَوْلَى وَاِسْتَحَلَّى: الشئ: بیٹھا پانا۔ وَاخْلَوْلَى الشئ: بیٹھا ہونا۔

تَحَالَى: حلاوت کا ہر کرنا۔ الخلو: بیٹھا۔ لذیذ۔ خوشگوار۔ خوبصورت۔

الْمُخْلَوَانُ: دلال و کاہن کی اجرت۔ مہربان۔

الْحَلَاةُ وَاَلْحَلَاةُ وَاَلْحَلَاةُ: مِنَ الْقَفَاءِ: گدی کا درمیانی حصہ۔ حج حَلَاوِي۔

الْحَلَاةُ وَاَلْحَلَاوِي۔ حلوا۔ بیٹھا۔ میوہ۔ حج حَلَاوِي۔

الْحَلَاوِي: حلوا فروش۔ حلوا ہانے والا۔ الخَلَاوِيُّ: مِنَ الرَّجَالِ: دیکھنے میں اچھا معلوم ہونے والا۔

الْحَلِي: لذیذ اور بیٹھا۔ نَالَه حَلِيَّةٌ: خَلَّى (ض) خَلِيًا: المراة: عورت کیلئے زیور بنانا۔ آراستہ کرنا۔

خَلِيَّتٌ (س) خَلِيًا: المراة: زیور پہننا۔ صفت (حال و خالیة) حج خَوَالٍ: کہا جاتا ہے "شجرة حالية" پتے والا پھل دار درخت۔

حَلِيٌّ مِنْهُ بَخِيرٌ: خَيْرٌ مِنْهُ تَبَخَّرًا: حَلَّى خَلِيَّةً: المراة: زیور پہننا یا زیور بنانا۔ وَاخْلَى الشئ: آراستہ کرنا۔

تَحَلَّى: آراستہ ہونا یا زیور پہننا۔ الخلی: پھنسیاں جو بچوں کے منہ میں لٹکتی ہیں۔

الخَلِيُّ: حج خَلِيٌّ و خَلِيٌّ و (الْخَلِيَّةُ) حج جَلِيٌّ و خَلِيٌّ (غلاف قیاس) زیور۔ خَلِيَّةُ الْاِنْسَانِ: انسان سے جو رنگ اور ہیئت دکھائی دے۔

الخَلِيٌّ: خشک۔ حَمَّ (ن) حَمَمًا: التَّنَوُّرُ: گرم کرنا۔

الشحمة: پگھلانا۔ الماء: گرم کرنا۔

الارحمان: جلدی کرنا۔ حَمَّ اللہ له كَذَا: مقدر کرنا۔ الامور فلانا: غم میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "حَمَّ حَمَمَهُ" اس نے اس کے ساتھ اس جیسا قصد کیا۔

حَمَّ الامور: فیصلہ کیا جانا۔ الشئ:

کچھ نکالنا
 حَمِيْمٌ (س) حَمًا وَحَمًا. الماءُ: پانی میں کچھ
 ملی ہوئی ہوتی ہے۔ صفت: حَمِيْمٌ۔
 أَحَمًا. البز: کنوئیں میں کچھ ڈالنا۔
 الحَمَمُ ء والحَمَمُ. والحَمُو والحَمَا
 بلا همزة: عورت کا سر۔ شوہر کی جانب سے
 عورت کا رشتہ دار جیسے دیور۔ جیٹھ۔ سر۔
 الحَمَا والحَمَاءُ: کچھ۔
 حَمَمَةٌ (ض) حَمَمًا. اللہ علیہ:
 حَمِيْتٌ (س) حَمَمًا. الجوزُ وغیرہ:
 اخروٹ وغیرہ کا ثراب ہوتا۔
 حَمَمٌ (ک) حَمُوْتَةٌ. اليومُ: دن کا سخت
 گرم ہونا۔
 تَحَمَّتْ. اللونُ او الطعمُ: رنگ یا مزہ
 صاف اور خالص ہونا۔
 الحَمَمْتُ. -ہ۔ یؤمُّ حَمَمٌ: سخت گرم دن۔
 تمر الحَمَمْتُ وحمایت) بہت شیشی کھجور۔
 الحَمِيْمِيْتُ. مِن اللونِ او الطعمِ: خالص و
 صاف رنگ یا مزہ۔ کہا جاتا ہے "تمر حمیت و
 عَسَلٌ حَمِيْمٌ" اتنے رنگ والی کھجور۔ خالص
 شد۔ غَضْبٌ حَمِيْمٌ: سخت غصہ۔
 الحَمِيْمِيْتُ: بال دار ملک جس میں کبھی شدید یا
 زحیم کا تیل رکھتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ
 حَمِيْمٌ وہ ملک ہے جس میں بال نہ ہوں۔
 حَمَمَتِ. العينُ: آنکھ کا اندر کو دھس جانا۔
 حَمَجُ الوَجْهِ: چہرہ کا غصہ وغیرہ سے بدلنا۔
 حَمَجُ اليه: تیز نظر سے دیکھنا۔ عینہ:
 گھور کر دیکھنا۔
 الحَمُوُجُ: ہرن وغیرہ کا چھوٹا بچہ۔
 حَمَمٌ و حَمَمَةٌ. البردونُ او الفرسُ:
 ہنسانہ۔ حَمَمٌ حَمٌ: کالا ہونا۔
 الحَمَاجِمُ: چڑے سے کا پودہ۔ واحد
 (حَمَاجِمَةٌ)
 الحَمَجِمُ والحَمَجَمُ. ایک قسم کا پرندہ گاؤ
 ڈیان۔ واحد: حَمَجِمٌ و حَمَجَمَةٌ)
 حَمِيْدَةٌ (س) حَمِيْدًا و حَمِيْدًا و حَمِيْمًا و
 مَحْمِيْدَةٌ و مَحْمِيْمَةٌ. فضیلت کی بنا پر تعریف کرنا
 ہ۔ علی امر: بدلہ دینا۔ الشُّيْ: _____

قابل تعریف ہونا۔ اور کہا جاتا ہے "حَمِيْدٌ اليك
 اللہ" یعنی تم سے ساتھ اللہ کی تعریف کرتا ہوں یا
 تیرا شکر یہ ادا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اللہ کی
 نعمتوں کا بھی۔
 حَمَمَدُ. اللہ: بار بار تعریف کرنا اور الحمد للہ کہنا۔
 أَحَمَدُ. قابل تعریف کام کرنا۔ الشُّيْ: _____
 قابل تعریف ہونا۔ الشُّيْ: قابل تعریف ہونا
 ہ۔ فعل پر راضی ہونا۔ تعریف کا اقرار ظاہر
 ہوتا۔
 تَحَمَّدَ. بالشُّيْ علی فلان: احسان جانا۔ اور
 کہا جاتا ہے "بِتَحَمُّدِ النَّاسِ يَقْضِيهِ" یعنی ان
 کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ وہ محمود ہے۔
 اسْتَحَمَّدَ. اللہ الی خلقہ۔ مخلوق کو انعام و
 احسان کر کے اپنی حمد کی جانب بلانا۔
 أَحَمَمَدُ. -ہ۔ تعریف۔ تعریف کیا ہوا۔ کہا جاتا ہے
 "رجل حَمِيْدٌ و امْرَأَةٌ حَمِيْدَةٌ" تعریف کیا ہوا مرد
 تعریف کی ہوئی عورت۔
 حَمَادٌ. لہ: بمعنی حمد اللہ۔
 الحَمَادُ. عاقبت۔ انتہائی کوشش۔ کہا جاتا ہے
 "حَمَادٌ اَوْ حَمَادًا كَأَنْ تَفْعَلَ كَذَا"
 تمہاری انتہائی کوشش یہ ہے کہ تم ایسا کرو۔
 الحَمَادُ والحَمِيْمَةُ. بہت تعریف کرنے والا۔
 المَحْمَمَدَةُ. قابل تعریف کام۔ ج مَحَامِدُ۔
 المَحْمَمَدُ. بہت عمدہ خصلتوں والا۔
 نبی کریم ﷺ کا اسم گرامی۔
 الحَمِيْمِدُ والحَمِيْمُوْدُ. تعریف کرنے والا۔
 تعریف کیا ہوا۔ مؤنث حَمِيْمِيْدَةٌ۔
 الحَمِيْمَةُ. بہت تعریف کرنے والا۔
 حَمَمَدَةُ. النارُ: آگ کے شعلہ کی آواز۔
 حَمَمَدٌ. الحمد للہ کہنا۔
 الحَمَامِيْدِيُّ. گرمی کی سختی۔
 حَمِيْمٌ (س) حَمَمًا. الفرسُ: بد ہنسی والا ہونا یا
 بد دیوار منہ والا ہونا۔ صفت (حَمِيْمٌ) _____
 الرجلُ: غصہ سے بھڑک اٹھنا۔
 حَمَمَرُ. الجلدُ: بڑی دماغت دینا۔ الشُّيْ: سرخ
 رنگنا۔ ہ۔ کسی کو اسے گدھے کہنا۔
 أَحَمَمَرُ. سرخ بچہ والا ہونا۔ الدابةُ: ہمارہ
 دینا یہاں تک کہ غضب دار ہو جائے۔

حَقَق

والمُحْمَض) کثرت سے نمکین اور کڑوے
پودوں والی زمین۔

المُسْتَحْمَض: مِنَ اللَّبَنِ: دیر میں جیسے والا
دودھ۔

حَمَطَةٌ (ض) حَمَطًا: چمکا اتارنا۔

حَمَطُ الكَرْمِ: انگور پر درخت کا سایہ کرنا۔

الشَّيْءُ: چھوٹا کرنا _____ الرجلُ: ہلکا

مارنا۔ اور اسی سے مثل ہے "إِذَا حَمَرْتُمْ فَلَا

تُحَمِّطُ" جب بارو تو ہلکا مت مارو۔

الحَمَاطَةُ: گلے کی سوزش۔ انجیر کے مشابہ

ایک درخت اور بقول بعض گولر۔ دل کا نطفہ۔

ول کاخون۔ ج حَمَاطُو حَمَاطٍ۔

حَمَطَظَر: القِرْبَةُ: بھرتا _____ القوسُ: چلہ

کھینچنا۔

حَمَطَظَر (ان) حَمَطًا: چھوڑنا۔

حَمَطَظَل: اندر آئے چنانہ۔

الحَمَطَظَل: اندر آئے۔

حَمِيقٌ (س) وَ حَمِيقٌ (ك) حَمِيقًا وَ حَمِيقًا

حَمَاقَةً: یوقوف ہونا۔ صفت (أَحْمَقُ) مؤنث

حَمَقَاءُ۔ ج حَمِيقٌ وَ حَمِيقٌ وَ حَمِيقٌ وَ حَمَاقٌ

وَ حَمَاقِيٌّ وَ حَمَاقِيٌّ۔ (ك حَمَاقَةُ) السَّوْفِيُّ:

منہا پڑنا۔

حَمَقَةٌ: یوقوف کرنا۔

أَحْمَقَةٌ: یوقوف پانا۔ أَحْمَقَتِ المَرَأَةُ:

یوقوف بیچ چنانہ۔ صفت (مُحَمِّقٌ وَ مُحَمِّقَةٌ)

حَامِقَةٌ: یوقوفی میں مدد دینا۔

تَحَامَقٌ وَ تَحَمَّقٌ: تکلف یوقوف ہونا۔

إِنْحَمَقَ: یوقوف ہونا _____ السَّوْفِيُّ: منہا

پڑنا _____ الثَّوْبُ: بوسیدہ ہونا۔

إِسْتَحَمَقَ: یوقوف ہونا _____ ه: یوقوف

کہنا۔

الحَمِيقُ: نہ۔ کم عقلی۔ یوقوفی۔ شراب۔ نَوْمَةٌ

الحَمِيقُ: ظہر کے بعد کی نیند۔

الحَمِيقُ: یوقوف۔ کم راڑھی والا۔

الحَمَاقُ وَ الحَمَاقُ وَ الحَمِيقُ

وَ الحَمِيقِيُّ وَ الحَمِيقَاءُ: ایک بیماری جو بچک

کے مشابہ ہوتی ہے۔

الْبَقْلَةُ الحَمَقَاءُ وَ بَقْلَةُ الحَمَقَاءُ: حرف کا

حَمَل

سَاك-

الحَمُولَةُ وَ الحَمِيْقَةُ وَ الأَحْمُولَةُ: بہت

بیوقوفی والا۔

المُحَمِّقَاتُ: وہ راتیں جن میں اول سے آخر

تک چاندنی رہے۔

المُحَمِّقَاتُ: وہ عورت جس کو بیوقوف بچے جتنے

کی عادت ہو۔

المُحَمِّقُ: حاتم بیماری والا۔

تَحَمَّقَسُ: غمیٹ پیدا ہونا۔

الحَمَاقِيْسُ: سختیاں۔ بلائیں۔

حَمَكٌ (س) حَمَكًا: ہی الدلالة: رہنمائی

میں چلنے رہنا۔

الحَمَكُ: چھوٹی دردی چیزیں۔ معمولی لوگ۔

بیچے۔ واحد (حَمَكَةٌ)

حَمَلٌ (ض) حَمَلًا وَ حَمَلَانًا: الشَّيْءُ عَلَى

ظہرہ: اٹھانا _____ الغَضَبُ: غصہ ظاہر کرنا

_____ عَلَى نَفْسِهِ فِي السَّبْرِ: چلنے میں مشقت

اٹھانا۔ حَمَلَهُ عَلَى الأَمْرِ: اگسا۔ برا گیند کرنا۔

حَمَلُ عَنهُ: بردبار ہونا _____ الشَّيْءُ عَلَى

الأَخْرِ: ایک کا حکم دوسرے پر لگانا _____

المَرَأَةُ: حاملہ ہونا _____ الشَّجَرَةُ: پھل دار

ہونا _____ القرآنُ: یاد کرنا _____ العلمُ:

روایت کرنا۔ نقل کرنا۔ (_____ حَمَلَةً) فِي

الحَرْبِ عَلَيْهِمُ: حملہ کرنا (_____ حَمَالَةً) بِهِ:

ضامن ہونا۔

حَمَلَةٌ وَ أَحْمَلَةٌ: الجَمَلُ: بوجھ اٹھانے میں

مدد کرنا۔

حَمَلَةٌ تَحْمِلُهَا وَ جَمَالًا: الشَّيْءُ: اٹھوانا۔

تَحْمَلُهُ تَحْمَلًا وَ تَحْمَلَانًا: اٹھانا _____

الأَمْرُ: برداشت کرنا _____ القَوْمُ: کوچ کرنا

_____ الرَّجُلُ: بہادر رہنا۔

تَحَامَلَ: ہی الامر و بالامر: باوجود مشقت

کے اپنے ذمہ لینا _____ عَلَى فُلَانٍ: ظلم کرنا۔

طاقت سے زیادہ کام کو کرنا _____ عَنهُ: اعراض

کرنا۔

أَلَيْهُ: متوجہ ہونا _____ الشَّيْخُ فِي مَشْيِهِ:

چلنے میں گرا ہوا ہونا _____ عَلَى نَفْسِهِ: باوجود

مشقت کے برداشت کرنا۔

حَمَل

۱۷۶

إِنْحَمَلَ عَلَيْهِ: اگسا جانا۔

إِنْحَمَلَ: الشَّيْءُ: اٹھانا _____ الأَمْرُ: کسی

امر کی طاقت رکھنا اور اس پر صبر کرنا _____

مَا كَانَ مِنْهُ: چشم پوشی کرنا _____ عَافَ كَرْنَا

_____ الصَّبِيْقَةُ: شہرہ دار کرنا۔

أَحْمَلُ: غصبتاک ہونا _____ لَوْنُهُ: رنگ

پدانا۔

إِسْتَحْمَلَ: اٹھانے کی طاقت رکھنا۔

_____ فَلَانًا: اٹھانے کو کرنا۔

الحَمَلُ: نہ۔ بیٹ کا بچہ۔ پھل۔ ج حَمَالٌ وَ

أَحْمَالٌ وَ حَمُولٌ۔

الجَمَلُ: بوجھ۔ ج أَحْمَالٌ وَ حَمُولَةٌ۔

الجَمَلُ: ہودج یا ہودہ والے اونٹ۔ ج

حَمُولٌ۔

الحَمَلُ: بکری کا بچہ۔ ج حَمَلَانٌ وَ أَحْمَالٌ۔

بہت پانی والا بادل۔ آسمان کے برسوں میں سے

ایک برج۔ لسان الحَمَلُ: بارنگ (ایک دروا کا

نام)

الحَمَلَةُ: نہ۔ ایک مرتبہ کا بوجھ۔ لڑائی کا حملہ۔

الحَمَلَةُ وَ الجَمَلَةُ: ایک جگہ سے دوسری

جگہ منتقل ہونا۔

الخَاوِلُ: قا۔ ج حَمَلَةٌ۔ حَمَلَةُ القرآنُ:

قرآن کے یاد کرنے والے۔ قرآن کی روایت

کرنے والے۔ مؤنث حَامِلَةٌ: اُمْرَأَةٌ حَامِلَةٌ وَ

حَامِلَةٌ: بیٹ والی عورت۔ ج حَوَامِلُ۔

الخَوَامِلُ: انگور وغیرہ اٹھانے کی ٹوکری۔

الخَوَامِلُ: قدم ہاتھ اور قدم کے بیچے۔

الحَمَالُ: بہت۔ تاوان۔ ج حَمَلٌ۔

الحَمَالَةُ: خنایت۔ ویت۔ تاوان۔

الجَمَالَةُ وَ الحَمِيْقَةُ: ج حَمَائِلُ وَ

(المُحَمِّلُ) ج حَمَائِلُ: تلوار کا پتلا۔ کہا جاتا ہے

"هُوَ حَمِيْقَةٌ عَلَيْنَا" وہ ہمارے ذمہ بار ہے۔

الجَمَالَةُ: مزدور کا پیشہ۔

الحَمَالُ: قلی مزدور۔ بوجھ اٹھانے والا۔ عوام

اس کو عقال کہتے ہیں۔ الحَمَالُ: جزدوان۔ فصیح

لفظ القِمَطَرُ ہے۔

الخَمُولُ: صابر۔ بردبار۔ حَمُولُ البَحْرِ:

دریا کی بنائات۔

اوتھ کہ جس کے بہت سے بچے ہو گئے ہوں تو اس کو آزاد چھوڑ دیتے تھے کہ جہاں چاہے چلے اور اس کے اوپر سوار نہیں ہوتے تھے اور نہ اس کے بال کھرتے تھے۔

الْحَمِيَّةُ - وہ شخص جو ظلم برداشت نہ کر سکے۔ ہر محفوظ کی ہوئی چیز۔ مریض جو معجزہ جلد سے روک دیا گیا ہو۔

الْحَامِيَّةُ - الحامی کا مؤنث۔ حمایت کرنے والا (اس صورت میں تا مباہلہ کے لیے ہے) جماعت جو حمایت کرنے والی ہو۔ جِ الْحَوَامِيَّةُ - الحامیة: پایہ دیکھان۔ پھر جس سے کنوئیں کا من بنایا جائے۔

حَقٌّ (ض) حَقِيصًا، خوشی یا غم سے آواز نکالنا القوم: کمان سے آواز نکالنا إِلَيْهِ: مشتاق ہونا (حَقَّةٌ وَحَقَانًا عَلَيْهِ: مہربان ہونا۔ صفت (حَقْنُون)

حَقَّةٌ (ن) حَقًّا - پھیرنا۔ باز رکھنا۔ تم کہتے ہو "حَقٌّ عَنِّي شَوْكٌ" مجھ سے اپنے شر کو روک لو۔ حَقْنٌ - الشجر: شگوفہ دار ہونا۔

أَحَقُّ - القوم: کمان سے آواز نکالنا الرجل: غلٹی کرنا۔ فَحَقْنٌ عَلَيْهِ: رحم کرنا۔

حَقَانٌ وَاسْتَحَقَّنَ - إِلَيْهِ: مشتاق ہونا۔ اسْتَحَقَّنَ الشَّوْقُ فَلَانًا: طرب کو بڑھا کرنا۔ الحان: نا۔ بہت خوش ہونے والا۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُ حَانَةٌ وَلَا آتَهُ" اس کے پاس نہ اونٹنی ہے نہ بکری۔

التحنان: رحمت و مہربانی۔ الجحج: جتوں کا ایک گروہ۔

الحنان: روزی۔ برکت۔ دل کی نرمی۔ کہا جاتا ہے "حنانیک وحنانک یارب" یعنی اے پروردگار تیرے رحم کی التجا کرتا ہوں۔ "وَحَنَانُ اللَّهِ" اللہ کی پناہ۔

الحنآن: مہربان۔ رحیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ایک۔ کسی چیز کا مشتاق۔ مہم حنآن: آواز نکالنے والی کلن۔ ظریفی حنآن: واضح راستہ۔

الجحآن: مہندی۔

حُمُوَّةُ - الالم۔ بور کی شدت و تیزی۔

حُمِيٌّ (ض) حَمِيًّا وَ حَمِيَّةٌ وَ حَمَاهَةٌ وَ مُحَمِيَّةٌ الشَّقِيٌّ مِنَ النَّاسِ: روکنا۔ بچانا۔ (حَمِيَّةٌ) المریض مایضرفو عمایضرفو: پرہیز کرنا۔

حَمِيٌّ (س) حَمِيَّةٌ وَ مُحَمِيَّةٌ - مِنَ الشَّقِيِّ: کسی کام کے کرنے سے ناک چڑھانا۔

حَمِيٌّ (س) حَمِيًّا وَ حَمِيًّا وَ حُمُوًّا - النَّازِلُ: تیز گرم ہونا۔ علیہ: غھبناک ہونا۔

حَامِيٌّ مُحَامَاةً وَ حِمَاةً - عِنْدَهُ: حمایت کرنا۔ مدافعت کرنا۔ علی الضیف: اچھی طرح میزبانی کرنا۔

أَحْمِيٌّ إِحْمَاءً - الْمَكَانُ: حمی بنانا۔ التحلیدیہ: بہت گرم کرنا۔

تَحْمِيٌّ وَ إِحْتَمِيٌّ - الْمَرِيضُ: روکنا۔ پرہیز کرنا۔ احتمی منہ: بچنا۔

تَحَامِيٌّ: بچنا۔ پرہیز کرنا۔ إِحْتَمَمِيٌّ إِحْمِيْمَاءً - كَالْمَاءِ: ہلکا۔

الحمی: چراگاہ کہ جس میں دوسروں کے جانور کو چرانے کی ممانعت ہو۔ ہر وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے۔

حَمِيٌّ - الشَّمْسُ: آفتاب کی گرمی۔ الجماء: بھائی ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "ہو حِمَاةٌ لِّكَ" وہ تمہاری طرف سے ندید ہے۔

الجحیة: بھائی ہوئی چیز۔ پرہیز۔ کہا جاتا ہے "المَعْدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ وَ الْجَحِيَّةُ رَأْسُ الدَّوَاءِ" معدہ بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز روکی اصل ہے۔

الجحیة: نفرت۔ مزوت۔ نفرت۔ العشمی: بخار۔ ج حَمِيَّاتٍ۔

الْحَمِيَّةُ - عُقْرَةُ كَابِتْدَانِيٍّ جَوْشٍ - كَمَا جَاتَا فِي تَكْلِمِهِ فِي حَمِيَّةٍ غَضَبِهِ "اس سے عُقْرَةُ کے ابتدائی جوش کی حالت میں گفتگو مت کرو۔ شراب کی تیزی۔ شراب۔ مین کل شی: شدت و تیزی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ شَدِيدُ الْحَمِيَّةِ" وہ بہت خوددار ہے۔

الْحُمَّةُ - زَبْرٌ - ذُكْبٌ - جِ حُمَاتٍ وَ حُمِيٌّ - حُمَّةُ الْبُرْدِ: سردی کی شدت۔

العَامِيٌّ - فَاءٌ - شِيرٌ - كَلْبٌ - جِ حُمَاةٌ وَ حَامِيَّةٌ - نر

الْحَمُوَّةُ - بار برداری کا جانور۔ جِ حَمُوَّلَاتُ الْحَمْلَانِ - بار برداری کا جانور جو کسی کو بیہ کیا جائے۔ مزور کی اجرت۔

الْحَمِيْلُ - اٹھایا ہوا۔ اجنبی۔ ضامن۔ ہیٹ کا پتہ۔ تسمہ۔ سیلاب کا کوڑا کرکٹ۔ اٹھایا ہوا پتہ جس کی کوئی پرورش کرے۔ مند بولا بیٹا۔

الْحَامُوَّةُ - تیز بارش کے وقت نالے میں اُٹھنے والا پانی (مولد جِ حَمُوَائِيْلُ)۔

الْمَحْمِيْلُ - وہ چیز جس میں کوئی چیز اٹھائی جائے۔ ہر وہ جِ مَحَامِيْلُ۔

الْمَحْمُوْلُ - ضم۔ الْمَحْمُوْلُ وَ الْمَوْضُوْعُ عِنْدَ الْمُنْطَقِيِّينَ: اصطلاحِ علمِ منطِق میں قضیہ حملیہ کے دونوں اجزاء جو نحووں کے نزدیک بنزلہ مند و مستدالیہ کے ہیں۔ جیسے زَيْدٌ كَرِيْمٌ میں زید موضوع ہے اور کریم محمول۔

خَمْلُجٌ - الْحَبْلُ - مَضْبُوْبٌ بِنَاءٌ - الْجَمْلَاجُ وَ الْخَمْلُوجُ - سناروں کی دھونکی۔ گائے کا سینگ۔ جِ خَمَالِيْنِجٌ - خَمْلَقٌ - آنکھیں پھاڑ کر تیز نظر سے دیکھنا۔

خَمْلَاقِيٌّ الْعَيْنِ وَ جَمْلَاقِيٌّ هَا وَ خَمْلُوْقُهُا - پتوں کا اندرونی حصہ۔ جِ خَمَالِيْتِيْنِ۔

الْحَمْنُ وَ الْحَمْنَانُ - چھوٹی چیچریاں۔ وَاحِدٌ - حَمْنَةٌ وَ حَمْنَانَةٌ - اصمعی نے کہا کہ چیچری جب بہت ہی چھوٹی ہوتی تو اس کو مقامہ کہتے ہیں۔ پھر حَمْنَانٌ پھر فَرَادٌ پھر حَمْلَةٌ پھر عَلٌّ وَ طَلْحٌ۔

ارضِ مَحْمَنَةٌ وَ مَحْمِيَّةٌ (کثرت سے چھوٹی چیچریوں والی زمین۔

الْحَمُوُّ وَ الْحَمَاءُ وَ الْحَمُوُّ وَ الْحَمُّ - خَسْرٌ - خَاوِدٌ كِي جَانِبِ سَعُوْرَتِ كَاتَرِيْسِي رَشْتِ دَارِيَةِ اسائے ست۔ کبرہ میں سے ہے اس کا اعراب

حَالَتِ رَفْعِيٍّ فِي وَادٍ وَ اِدْوَارِ حَالَتِ نَفْسِيٍّ فِي الْفِ وَ اِدْوَارِ حَالَتِ جَرِيٍّ فِي يَأْسِ آتَا بِرِيَةِ بِمِشْرِ مَضْفٍ مُسْتَعْمَلٌ هُوَ تَابٌ - تَشْبِيْهُ حَمُوَانٍ وَ حَمَانِ جِ - اِحْمَاءٌ۔

حِمَاةٌ - الرَّجُلُ: خوش دامن۔ حِمَاةُ الْمَرْءِ: ساس۔ جِ حَمُوَاتٍ - الْحَمَاةُ: پتلی کا مصل۔

حَقْوٌ - الشَّمْسُ: آفتاب کی گرمی۔

<p>حنث (س) حنثا۔ دلیری سے وسط معرکہ میں ڈٹے رہنا۔ الحنث۔ پر تیز گار لوگ۔ حنثہ (ض) حنثا۔ جانا۔ علیحدہ کرنا۔ حنثناک کرنا۔ العیذ؛ شکار کرنا۔ حنثت الحیة فلانا؛ ڈسنا۔ حنثتہ؛ شکار کرنا۔ عن الامر؛ جلدی کرنا۔ الحنث۔ سانپ کی ایک قسم۔ ہر وہ جانور جس کا سر سانپ کی مانند ہو جیسے گرگت۔ چھپکلی وغیرہ ج احناس وحنشان۔ حنث (ن) حنثا۔ الرجل؛ کزور ہونا۔ الحنثاء۔ باریک پٹوں اور بڑے پیٹ والے۔ الحنثال والحنثالة۔ بڑے پیٹ والے۔ الحنثیخ۔ ست آدمی کہ جس سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے۔ الحنثیل۔ چھوٹا تالاب۔ الحنثیلة۔ بڑی چٹان میں جمع شدہ پانی۔ بڑی چٹان میں گڑھا۔ حنظ (ن) حنظا وحنظ۔ الزرع؛ کٹائی کے قابل ہونا۔ الشجر؛ پھل پکانا۔ حنظ (ض) حنظا۔ الجلد؛ سرخ ہونا۔ صفت (حایط) حنظا وحنظ۔ المعیت؛ مردہ پر حوط ملنا۔ حنظا۔ حوط استعمال کرنا۔ حنظ۔ جان دینے کے لیے دلیری کرنا۔ الحنایط۔ قاب۔ بہت گیوں والا۔ گیوں والا۔ کچے ہوئے پھلوں والا درخت۔ احنو حایط؛ بہت سرخ۔ الحنظة۔ گیوں۔ ج حنظ۔ الحنظی۔ بہت گیوں کھانے والا۔ پھولا ہوا۔ الاحنظ۔ بڑی اور گھنی واڑھی والا۔ الحنظالة۔ گندم فروشی۔ مردوں پر حوط لگانے کا پیشہ۔ الحنایط۔ مردوں پر حوط لگانے والا۔ (و الحنایطی)۔ گیوں بیچنے والا۔ الحنط والحنوط۔ ایک قسم کی مرکب خوشبو جو مردوں کے جسم اور کفن پر لگاتے تھے۔ الحنطی۔ وہ شخص جس کی خوراک گیوں</p>	<p>مضبوط بنا۔ لحنجت حاجة؛ پیش آنا۔ احنج۔ الشئ؛ جگانا۔ الخبز؛ پوشیدہ کرنا۔ الکلام؛ رخ پھیر دینا۔ الشئ؛ جگانا۔ الرجل؛ تیز چلنے والے بچے کی طرف نظر ڈالنا۔ احنج۔ الشئ؛ جگانا۔ حنجزت۔ العین؛ اندر کو دھنا۔ حنجزة؛ زن کرنا۔ الحنجزة۔ الخنجزور؛ نر خرہ۔ حنحون۔ علیہ؛ خوف کھانا۔ عوام بولتے ہیں حنحون البندق او الخوزون نحوهما؛ جبکہ گرمی خراب ہو جائے۔ نفع لفظ حیت ہے۔ حنذس وحنذس۔ اللیل؛ تاریک ہونا۔ الحنذس۔ سخت تاریک رات۔ تاریکی۔ ج حناوس۔ الحناوس؛ مینے کی بائیسویں تیسویں پچوبیسویں راتیں۔ الحنذقوق والحنذقوقی والحندقوقی والحندقوقی۔ ایک قسم کی نباتات کا نام۔ لبا ترنگا ہر دو دیوانہ کے مشابہ ہو۔ الحنذل۔ پست قدم۔ حنذ (ض) حنذا وحنذاذا۔ اللحم؛ بھونا۔ صفت مفعول (حنینذ) () حنذا وحنذاذا۔ الفرض؛ بھیند لانے کے لیے دوڑانا۔ صفت مفعول (محنذو وحنینذ) حنذتہ الشمس؛ جھلس دینا۔ احنذ۔ شراب میں زیادہ پانی ملانا یا کم ملانا۔ اللحم؛ پکانا۔ احنذ۔ دھوپ میں لیٹ کر بھیند لانا۔ الحنذة۔ سخت گرمی۔ حناذ۔ برون نظام؛ آلتاب۔ الحنیل۔ بھونا ہوا گوشت۔ گرم پانی۔ سرد ہونے کی خوشبودار چیز۔ الحنیل۔ بہت بھیند والا۔ الحنیلوی۔ بہت گل دینے والا۔ حنر (ض) حنرا۔ الحنیرة۔ محراب بنانا؛ طاق میں خمرار جگانا۔ الحنیرة۔ طاق میں خمرار جگانا۔ کلن؛ دھنکے کلن۔ ہر وہ چیز جو خمرار ہو۔ ج حنیر وحنایر۔</p>	<p>حنأ (ف) حنأ۔ المكان؛ سرسبز ہونا۔ صفت (حانی) اور حانی کا کلمہ اخصر کے لیے بلور تاکید کے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے۔ اخصر حانی جیسے اسنوہ خالک۔ اخصر فافع۔ ابيض ناصیع۔ احنر قانی۔ حنأه تحینقا و تحینة۔ مندی سے رنگنا۔ حنأا بالحناء۔ مندی سے رنگنا۔ الحنأ۔ مندی واحد حنأة۔ ج حنأان۔ ابو الحنأ۔ ایک سرخ سینے والا چھوٹا پرندہ۔ حنب (س) حنبا وحنب وحنب وحنب الشیخ؛ کبڑا ہونا۔ حنیبہ الکبیر؛ جگانا۔ حنأ علیہ۔ مہربان ہونا۔ حنبر حنبرة۔ البرد؛ سخت ہونا۔ الحنبر۔ پست قدم۔ حنبل۔ لوبیا کھانا۔ موزہ یا پرانی پوستین پینا۔ حنبل۔ سر جگانا۔ الحنبل۔ لوبیا۔ الحنابل۔ من الاوتار؛ مضبوط اور موٹی ہانت۔ الحنبل۔ موزہ یا پرانی پوستین۔ بڑے پیٹ والا پست قدم۔ الحنبال۔ فریہ پر گوشت۔ بہت بولنے والا۔ الحنبالة۔ سندر۔ بہت بولنے والا۔ الحانوت۔ دکان۔ شراب بیچنے والے کی دکان۔ (قد کروموت) ج حوانیت۔ نسبت کے لیے (حانی و حانوی) الحنتم۔ سبز رنگ کی ٹھلیا کہ جس میں نیبڑیا کرتے تھے۔ حنث (س) حنثا۔ باطل کی طرف مائل ہونا۔ فی بمعنی؛ قسم توڑنا۔ احنثہ۔ قسم توڑنا۔ حنثت۔ گناہ سے نفرت کرنا۔ عبادت کرنا۔ بتوں سے علیحدہ ہونا اور ان کی پرستش چھوڑنا۔ کذا؛ توڑنا۔ الحنث۔ گناہ۔ ج احنثا۔ کہا جاتا ہے "بلغ العلام الحنث" لڑکا بلوغ گیا۔ الحنایث۔ گناہ کے مواقع۔ حنجة (ض) حنجا۔ جگانا۔ الحنبل؛</p>
--	---	---

<p>چلانا۔ الحَنَكَلَيْس۔ ایک قسم کی پھلی۔ نضج عربی الجَبْرِی ہے۔</p>	<p>اور جب غمبناک ہوتا ہے تو اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ ح حَنَائِش و حَنَائِش۔ الحنْفَص۔ ڈبلا پتلا۔</p>	<p>ہو۔ الجِنْفَطِي۔ پست قد۔ الجِنْفَطَا و الجِنْفَاوَة۔ بڑے پیٹ والا۔ پست قد۔</p>
<p>حَنَان (ن) حَنَوٌ و حَنِي (ض) حَنَانِيَّة۔ الشَّيْءُ: موثرًا۔ حَنَا الحَيَاتِيَّة اى القَوَسُ: کمان بنا۔</p>	<p>حَنِيْق (س) حَنَفًا۔ منہ و علیہ: سخت غمبناک ہونا۔ صفت (حَنِیق و حَنِیق) ح حَنَقٌ اهل حَنَقٌ و محالِیق: ہوئے اُدت۔</p>	<p>الجِنْفَطْرِيَّة۔ بادل۔ الجِنْفَطْبَاعُو الحَنْفَطْبَاع۔ نرڈی۔ زرگمیرا۔ الجِنْفَطُوْب۔ بڑے ڈیل ڈول کی ناکارہ عورت۔</p>
<p>حَنَان (ن) حَنَوٌ و اَحْنِي علیہ: نائل ہونا۔ حَنِي نَحِيْبِيَّة۔ الشَّيْءُ: موثرًا۔ تَحْنِي۔ ٹیڑھا ہونا _____ علیہ: ہمریلی کرنا۔ اِنْحَنِي۔ ٹیڑھا ہونا۔ مڑنا۔</p>	<p>اَحْنَفَةٌ۔ غمبناک بنا۔ اَحْنَقُ الدَابَّةُ۔ دولا کرنا۔ اَحْنَقُ الرَّجُلُ: سخت کینہ رکھنا۔ اِحْنَقِي۔ موٹا ہونا۔ الجِنْفَطُوْب و الحَنِیق۔ سخت غم۔</p>	<p>الجِنْفَطَاب۔ پست قد بدخو۔ الجِنْفَطَل۔ اندرائن جو کڑوا ہونے میں ضرب العسل ہے۔</p>
<p>الحَايِيَّة۔ ج الحَوَالِي و (الحَايَاة و الحَاوِيَات) دکان۔ مالک دکان۔ الحَايِيَّة: بکری جس کی گردن بغیر کسی علت کے مڑی ہوئی ہو۔</p>	<p>حَنَك (ن) حَنَكًا۔ الشَّيْءُ: کھٹا۔ _____ واِحْتَنَك۔ الغرض۔ گھوڑے کے منہ میں رستی لگانا۔</p>	<p>حَنَفَلْت۔ الشَّجَرَةُ: کڑوے پھل والا ہونا۔ حَنَفٌ۔ (ض) حَنَفًا۔ جھکتا _____ رجلہ: پاؤں ٹیڑھا کر دینا۔</p>
<p>الحَاوِي و الحَايِي سب سے لمبی پھلی۔ الحَايِيَّة۔ شراب۔ الحَايِي كَامُوْنْت۔ شراب پیچنے والے۔</p>	<p>حَنَك و حَنَكٌ۔ چاکر زمہ بنا۔ حَنَك (ن) حَنَكًا و حَنَكًا و حَنَكٌ و اَحْنَكٌ و اِحْتَنَك۔ الدهرُ الرَّجُلُ: نا تجربہ کار بنا دینا۔ صفت (حَنِیق) ج حُنَك۔ حَنَكٌ العَصِي: مہذب بنا۔</p>	<p>حَنَف (س) حَنَفًا و حَنَفٌ (ک) حَنَافَةٌ: ٹیڑھے پاؤں والا ہونا۔ صفت (اَحْنَف) حَنَفَةٌ۔ ٹیڑھے پاؤں والا کر دینا۔ تَحْنَفٌ۔ حِشِي ہونا۔ حَنِي ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَاْفِي تَحْنَفٌ" شافعی حنفی ہو گیا _____</p>
<p>پلو۔ و حَنَوُ السَّنَج: زین کا اگلا اور پچھلا حصہ ج اَحْنَاء و حَنِي و حِنِي و اَحْنَاءُ الأَمْوَالِ: تشابہات امور۔</p>	<p>تَحْنَكٌ۔ گڑی کو ٹھوڑی کے نیچے سے لاکر باندھنا۔ اِحْتَنَكُ۔ الجِرَادُ الاَرْضِ: کہا کر صاف کر دینا۔ اِحْتَنَكُهُ: غالب ہونا۔ اِحْتَنَكُ۔ کم خوراک کے بعد زیادہ خوراک والا ہونا۔</p>	<p>الجِنْفَاءُ ٹیڑھا پاؤں۔ کمان۔ استرا۔ گرجن۔ کچرا۔ الجِنْفِيْف۔ سیدھا۔ اسلام کے احکام پر چلنے والا۔ سیدنا ابراہیم ؑ کے دین کا شیخ۔ موحد۔ کلیات میں ہے کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں لفظ (حنیف) کے ساتھ ﴿مسلم﴾ ہے وہاں حابی مُراد ہے جیسے ﴿ولیکن کان حَنِيفًا مِّنْسَلْمًا﴾ اور جہاں بغیر لفظ ﴿مسلم﴾ کے تھا ﴿حنیف﴾ ہے وہاں ﴿مسلم﴾ مراد ہے جیسے ﴿حَنِيفًا لِلّٰهِ﴾ ج حَنَفَاء۔ ادیانِ باطلہ کو چھوڑ کر دین حق کو اختیار کرنے والا۔</p>
<p>الحَيَاتِيَّة۔ کمان _____ مِنَ البِنَاء: کمان کی مانند رقم دار۔ ج حَنَائِيَا و حَنِی۔ الأَحْنِي۔ کبڑا۔ مَوْنَت حَنَوَاء۔ کہا جاتا ہے "فَلان احسنی الناس ضلوعًا علیک" فلاں تمہارے اوپر لوگوں میں بہت مہربان ہے۔</p>	<p>حَنَك (ن) حَنَكًا۔ الشَّيْءُ: کھٹا۔ حَنَكٌ الغُرَاب: کوسے کی چوڑی یا اس کی سیاہی۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ مِین حَنَكِ الغُرَاب" کوسے کی چوڑی سے کالا۔ ج اَحْنَاك۔ الحَنَك: وہ لوگ جو کسی دوسری جگہ چارہ کی تلاش میں جائیں۔ چھوٹے ٹیلے جہاں کے پتھر سفید اور نرم ہوں۔ واحد (حَنَكَةٌ)</p>	<p>الجِنْفِيْفِي۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کا تابع۔ ج اَحْنَاف و حَنَفِيَّة۔ الجِنْفِيْفِيَّة۔ فی الاسلام او الدین: اسلام کی طرف میلان اور دین کے ساتھ تمسک۔</p>
<p>المَصْحُوْبِيَّة و المَصْحُوْرَة و المَصْحَاة۔ ج محبان: داوی کلاموڑ۔ المَصْحُوْبِي۔ داوی کلاموڑ۔ حَاْب (ن) حَوْنًا و حَوْنًا و حَوْنِيَّة و حَاْبًا و حَيَانِيَّة بکلا: گنہگار ہونا۔</p>	<p>حَنَك (ن) حَنَكًا۔ الشَّيْءُ: کھٹا۔ حَنَكٌ الغُرَاب: کوسے کی چوڑی یا اس کی سیاہی۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ مِین حَنَكِ الغُرَاب" کوسے کی چوڑی سے کالا۔ ج اَحْنَاك۔ الحَنَك: وہ لوگ جو کسی دوسری جگہ چارہ کی تلاش میں جائیں۔ چھوٹے ٹیلے جہاں کے پتھر سفید اور نرم ہوں۔ واحد (حَنَكَةٌ)</p>	<p>الجِنْفِيْفِي۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کا تابع۔ ج اَحْنَاف و حَنَفِيَّة۔ الجِنْفِيْفِيَّة۔ فی الاسلام او الدین: اسلام کی طرف میلان اور دین کے ساتھ تمسک۔</p>
<p>أَحْوَبُ اِحْوَابًا۔ کتلہ کی طرف نائل ہونا۔ تَحْوُوب۔ کتلہ سے بچنا _____ منہ: دور مند ہونا _____ فی دُعَاة۔ گڑا گڑا کر دھا کرنا۔ اِسْتَحْوُوبٌ۔ دور مند ہونا۔ الحَوُوب و الحَوُوب۔ فم و دشت (الحَوُوب و الحَوُوب و الحَوُوبَة و الحَاب و الحَايَاة) کتلہ۔</p>	<p>حَنَك (ن) حَنَكًا۔ الشَّيْءُ: کھٹا۔ حَنَكٌ الغُرَاب: کوسے کی چوڑی یا اس کی سیاہی۔ کہا جاتا ہے "أَسْوَدُ مِین حَنَكِ الغُرَاب" کوسے کی چوڑی سے کالا۔ ج اَحْنَاك۔ الحَنَك: وہ لوگ جو کسی دوسری جگہ چارہ کی تلاش میں جائیں۔ چھوٹے ٹیلے جہاں کے پتھر سفید اور نرم ہوں۔ واحد (حَنَكَةٌ)</p>	<p>الجِنْفِيْفِي۔ امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب کا تابع۔ ج اَحْنَاف و حَنَفِيَّة۔ الجِنْفِيْفِيَّة۔ فی الاسلام او الدین: اسلام کی طرف میلان اور دین کے ساتھ تمسک۔</p>

کرتا۔ حَاوَزَ الشَّيْءُ: صحرا پڑنا۔ کہا جاتا ہے "حَاوَزَ بَعْدَ مَا كَانَتْ" زیادہ ہونے کے بعد گھٹ گیا۔ (بعو ذ باللہ من الحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ) ہم زیادتی کے بعد نقصان سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔

حَوْرَت (س) حَوْرًا۔ العین: سفیدی اور سیاہی کا ست سفید و سیاہ ہونا۔ صفت (حَوْرَاء)

حَوْرٌ۔ القرض: بیلن سے بیٹا۔ الثوب: سفید کرنا۔ واللہ: محروم کرنا۔

حَاوَرَةُ مُحَاوَرَةٌ وَحَوَارَا وَحَوَارًا۔ مَنكُو حَرْنَا۔ جواب دینا۔ أَحَارَ إِحَارَةً۔ الجواب:

جواب دینا۔ اور اسی سے ہے "لم يَخْرُجُوا أَهْلًا" اس نے جواب نہیں دیا۔ اور کہا جاتا ہے

"طَحَسَتِ الطَّاحِنَةُ لَهَا أَحَارَاتٌ شَيْئًا" چکی پیسنے والی نے چکی پیسا اور آٹا کچھ بھی نہیں دیا۔

أَحَارَتِ النَّاقَةَ: چبڑ والی ہونا۔ أَحَارَ البعير: ذنگ کرنا۔

تَحَاوَرَوُ القَوْمُ: ایک دوسرے سے منگنو کرنا۔ ایک دوسرے کو جواب دینا۔

إِحْوَارًا حَوْرًا۔ سفید ہونا۔ إِحْوَرَتِ العَيْنُ: بہت سیاہی اور سفیدی والی ہونا۔

إِسْتَحَارَةً۔ منگنو کرنا۔ الحور: ہلاکت۔ کی۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَمِنَ حَوْرٍ وَبُؤْرٍ" یعنی وہ نہ تو کسی صفت میں ہے اور نہ کسی قسم کی آمدنی میں۔

الحور: گرائی۔ کہا جاتا ہے "بَعَيْذَ الحَوْرِ" یعنی تلخ۔ وَمَا أَصْنَبْتَ حَوْرًا مِثْلَ نَبِيٍّ

پایا۔ الحور: سفید پتلے چڑے۔ سرخ رنگا ہوا چڑو۔ گائے۔ ایک مشہور درخت جس کے گوند سے کرباب تیار ہوتا ہے۔ حِجْ أَحْوَارٍ۔

الخوار والحوار: اونٹنی کا پتھر جس کا دودھ ابھی نہ چھڑایا گیا ہو۔ حِجْ أَحْوَرٌ قَوْحِيزَانٍ۔ الحارة: گول چوک۔ محلہ۔ کہا جاتا ہے "تَوَلَّفْنَا لِي حَارَةً نَبِيٍّ فَلَانٍ" ہم لوگ بنو فلان کے محلہ میں آئے۔

الخائير: فالساغرو بلا چٹا۔ الحائزة: الخائير کا نمونہ۔ کہا جاتا ہے "مَا هُوَ الا خَائِرَةٌ مِنَ الخَوَارِ" یعنی اس کے اندر

إِحْتِاجٌ۔ إِلَيْهِ: محتاج ہونا۔

الحاج: ایک قسم کا لٹا۔ ایک قسم کا ترش پودہ۔ الحوج: سہ۔ سلامتی۔ کہا جاتا ہے "حَوْجًا لَكَ" یعنی تمہارے لیے سلامتی ہو۔

الحوج: قہر و قاتل۔ الحوجاء: حاجت، ضرورت۔ اور اسی سے ہے۔

مَا كَانَ فِي نَفْسِهِ حَوْجَاءٌ وَلَا لَوْجَاءٌ وَبِالنَّصْفِ حَوْجَاءٌ وَلَا لَوْجَاءٌ" یعنی اسے کوئی حاجت نہیں۔ "وَكَلِمَةُ لَمَّا زَادَ حَوْجَاءٌ وَلَا لَوْجَاءٌ" میں نے اس سے منگنو کی اس نے اچھا بڑا کوئی جواب نہیں دیا۔

الحاجة: ضرورت۔ سوال۔ حِجْ حَاجٍ وَحَوْجٍ وَحَاجَاتٍ وَحَوَائِجٍ الخیری جمع حاجت کی تقدیر پر ہے۔ مبالغہ کی غرض سے حاجۃ خالیجۃ کہا جاتا ہے۔

المخاوئج: محتاج لوگ۔ حَادِدٌ (ن) حَوْدًا عنہ: ہٹ جانا۔ حَاوَدَهُ العجمی: بخار کا بار بار آنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَحَاوِدُنَا بِالرِّيَاةِ" وہ ہم لوگوں کے پاس ملاقات کے لیے بار بار آتا ہے۔

حَادَةٌ (ن) حَوْدًا۔ حماقت کرنا۔ علی الشئ: گمبالی کرنا (_____ وَأَحْوَدٌ) الدابة: حیر ہانگنا۔ أَحْوَدٌ ثوبه: کپڑے سیٹنا۔ أَحْوَدٌ السَّيْرُ: تیز چلنا۔ أَحْوَدٌ الشَّاعِرُ قصيدة: عمدہ قصیدہ کہنا۔

إِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِ: غالب ہونا۔ الحاذ: ایک قسم کا درخت۔ واحد (الحاذة) حِجْ أَحَاذٍ۔ پیچھے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ حَوْفِيْفٌ الحَاذِ" وہ تھوڑے مال والا ہے۔

الجوؤد: زوری جدائی۔ الحوؤدان: ایک خوش مزہ نباتات کا نام جس کا پھول سرخ رنگ کا اور اس کی بڑ میں زردی ہوتی ہے۔

الأخوؤد: ماہر ہر کام میں دست و پھر چٹا۔ الخوؤد: کوچان۔ گاڑی بن۔ عوام العزیمی کہتے ہیں۔

حَاوَرٌ (ن) حَوْرًا وَحَوْرًا وَحَاوَرًا وَحَاوَرَةً۔ لوثا: تھیر ہونا (حَوْرًا) الثوب دھونا۔ سفید

الحوؤنة: بل باپ۔ بن بیٹی۔

الحوؤنة والحيؤنة والحوؤنة۔ بل کی جانب سے قرابت۔ کہا جاتا ہے "لَمِ لِيهِمْ حَوْرَةٌ" میری ان سے نامی رشتہ داری ہے۔ حاجت۔ حالت۔

کہا جاتا ہے "مَا تَ بَحْوْرِيَّةٌ شَيْءٌ" اس نے میری حالت میں رات گزاری۔ الحوؤنة: بل کی ماستا۔ بیوی۔ بائمی۔

الحوؤنة: کمزور مرد۔ کہا جاتا ہے "إِنَّمَا فَلَانٌ حَوْرِيَّةٌ" فلاں محض کمزور ہے، نہ اس سے خیر کی امید ہے نہ شر کا خوف۔ و "إِنَّ لِي حَوْرِيَّةً أَحْوَرًا" میرے عیال ہیں جن کی میں کفالت کرتا ہوں۔

الأحوب: گنہگار۔ مؤنث حَوْبَاءٌ۔ الحوْبَاءُ: نفس۔ حِجْ حَوْبَاءُ ات۔ المُتَحَوِّبُ وَالمُتَحَوِّبُ: وہ شخص جس کلام صلح ہو جائے پھر مل جائے۔

حَاتٌ (ن) حَوْرًا حَوْرًا ثَانًا۔ الطير او الوحش علی الشئ: منزلت۔ حَاوَرَةٌ: کمزور فرب سے کام لینا۔ و حوا کرنا۔

_____ ه عن كَذَا: بدافعت کرنا۔ الحوؤت: چھلی۔ عموماً بڑی چھلی پر المطلق ہوتا ہے۔ حِجْ حِيشَانٍ وَأَحْوَاتٍ وَحِوَةٌ آسَمَانَ کے ایک برج کا نام۔

الحوؤتاء: موٹی کردالی عورت۔ أَحَارَاتٌ إِحَارَةً۔ الارض: زمین کو حور کر لانا پلٹنا۔ الشئ: لٹانا۔ کہا جاتا ہے "تَرَ كَهْمِ حَوْرٌ بَوْرٌ أَوْ حِيشٌ يَنْتِ أَوْ حَارَاتٌ بَابٌ أَوْ حَوْرًا بَوْرًا" یعنی اس نے ان کو متفرق چھوڑا۔ الحوؤلاء: جگرا اور اس کے آس پاس کے حصے۔ موٹی عورت۔

الحوؤت: جگر کی رگ۔ حَاوِجٌ (ن) حَوْجًا۔ محتاج ہونا۔ حَوْجٌ۔ بہ عن الشئ: کسی چیز کی وجہ سے کسی سے ہٹ جانا۔

أَحْوَجٌ إِلَيْهِ: محتاج ہونا۔ _____ ه: محتاج بنانا۔ تَحْوَجٌ۔ حاجت طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَرَجَ فَلَانٌ يَحْوَجُ" فلاں حاجت طلب کرنے کے لیے نکلا۔

<p>حاض (ن) حَوْضًا۔ الابل: جمع کر کے ہانکنا (وَأَحَاشٍ) إِحَاشَةً وَأَحْوَشٌ إِحْوَاشًا وِ اسْتَحْوَشَ اسْتِحْوَاشًا الصید: گھیر کر پھندے کی طرف لانا۔ حاض و أحوش و أحاش علیہ الصید و أحوضه إناهة: شکار کرنے میں مدد کرنا۔</p> <p>حَوْضَةٌ: بہت جمع کرنا۔ حَوْضُ الرَّجُلِ: ڈیری دکھانا تیار کرنا۔</p> <p>حَاوِشَةٌ عَلَی الْأَمْرِ: آسان۔ براگینہ کرنا۔</p> <p>تَحْوِشٌ: عنہ: علیحدہ ہونا۔ مینہ: شرم کرنا۔</p> <p>المرأة فین زوجها: بیوہ ہونا۔</p> <p>إِنْحَاشٌ: انکشا ہونا۔ عنہ: بھگانا۔ بدکھانا۔</p> <p>لہ الصید: شکار کا خود آنا۔</p> <p>تَحَاوِشًا حَلِيَّةً: اپنے درمیان میں کر لینا۔</p> <p>إِحْتَوَشَ الْقَوْمُ الصید: قوم کا شکار کو ایک دوسرے کی طرف بدکھانا۔</p> <p>إِحْتَوَشَ الْقَوْمُ الرَّجُلُ وَعَلِيه: گھیر لینا اور اپنے درمیان میں کر لینا۔</p> <p>الحَوْشُ: بازو کے مشابہ گھر کے ارد گرد۔</p> <p>الحَوْشَةُ: باعث شرم۔ رشتہ داری۔ ایسا کلام جس میں گناہ و قطع رحمی ہو۔</p> <p>الحَايِشُ: قا۔ حَايِشُ الشَّجَرِ: درخت کا تنہا حصہ۔ رجل (حَوْش) الْفَوَادِ: ذکی و تنہا قسم مرد۔</p> <p>الحَوْشِيُّ: مین الکلام: نادر و غریب کلام رجل حَوْشِيٌّ: لوگوں سے نہ ملنے والا۔ لیل حَوْشِيٌّ: تاریک رات۔</p> <p>حَاوِشٌ (ن) حَوْصًا و حِوَاصَةً: الثوب دور دور سینا۔ حَوْزَةٌ مَنَازِلًا: بہنہما: تنگ کرنا۔</p> <p>حَوْصٌ (س) حَوْصًا تنگ گوشہ چشم والا ہونا۔ صفت (أَحْوَصٌ) مَوْنَتٌ حَوْصًا عَج حَوْصٌ وَأَحَاوِصٌ۔</p> <p>حَاوِصَةٌ: چپکے سے گوشہ چشم سے دیکھنا۔</p> <p>إِحْتَاوِصٌ: احتیاطی صلی امرہ: احتیاط کرنا۔</p> <p>الحَوْصُ: بد۔ بیٹ کا مروڑ۔ کہا جاتا ہے "لَا ظَلَعْتُ لِي حَوْصِيكٌ" جو تم نے سیاہ اس کو میں اُو میروں کا گارو جس کو تم نے درست کیا ہے</p>	<p>تنگ کرنا۔</p> <p>الحَوْزَةُ: گوشہ کنارہ، طبیعت۔ حَوْزَةٌ المملکة: ایک مملکت کی سرحدوں کا درمیانی حصہ۔</p> <p>الحَوْزُ: وہ جگہ جس کے ارد گرد دیوار وغیرہ کھڑی ہو۔ حَوْزُ الدار: مکان کے منافع جو اس کے ساتھ وابستہ ہوں۔ لیلَةُ الحَوْزِ: پانی کی طرف اونٹوں کے جانے کی پہلی رات۔</p> <p>الحَوْزِيٌّ: اونٹ کا کھاننے والا۔ قوم سے علیحدہ ہو کر تھمتا ترے والا۔ کالا۔</p> <p>الحَوْزِيُّ والحَوْزِيَّةُ: جگہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا لِي حِوِزُ النَّوْأِ" یعنی یہ چیز تو اسے ثابت ہے۔</p> <p>الحَوْزَاءُ: لڑائی۔</p> <p>الحَوْزَاءُ: ساتھیوں سے پوشیدہ رکھا ہوا ذخیرہ۔</p> <p>الأَحْوِزِيُّ: ماہر۔ ہر کام میں پھرتلا۔ ہنر کار گزار۔</p> <p>الحَوْزَاءُ: الحائز کا مبادلہ۔ اور اسی سے ہے "الْأَهْمُ حَوْزَاءُ الْقَلْبِ" گناہ دلوں پر غالب آنے والا ہے یہاں تک کہ آدم خیر پندیدہ کام کر بیٹھتا ہے۔</p> <p>الحَوْزَاءُ: بڑے بڑے گھیر لینے۔</p> <p>حَاوِشٌ (ن) حَوْصًا۔ القوم: میل تلاب کرنا۔ روندنا۔ ذیل کرنا۔ اللُّبُّ القنم: درمیان میں آکر پراگندہ کرنا۔ حَاوِشَتِ الْمَرْأَةُ ذَيْلَهَا: دامن کھینچے ہوئے چلنا۔ الحَوْزَاءُ الإِهَابُ: قضائی کا کمال کو اتارنا۔</p> <p>حَوْصٌ (ن) حَوْصًا۔ ذیل و ہمار ہونا۔ صفت (أَحْوِصٌ)</p> <p>تَحْوِصٌ۔ ڈیری دکھانا۔ فی الکلام: گفتگو کیلئے تیار ہونا۔ للشئی: رورمند ہونا۔</p> <p>اسْتَحْوَشَ اسْتِحْوَاشًا: لڑکنا۔ دیر کرنا۔</p> <p>الأَحْوِصُ: ذیل و ہمار۔ وہ شخص جو اپنی جگہ سے جدا نہ ہو جب تک کہ اپنی حاجت پوری نہ کر لے۔</p> <p>بھیرنا۔ عَج حَوْصٌ۔</p> <p>الحَوْصُ: لوگوں کو بہت قتل کرنے والا۔ ہمار۔</p> <p>الحَوْصَةُ: غنیمت۔ حاجت ()۔</p> <p>وَالْحَوْصِيَّةُ: قرابت۔ رشتہ داری۔</p>	<p>کوئی ضرورت نہیں۔</p> <p>الأَحْوِزِيُّ: پید۔ نازک۔</p> <p>الحَوْزَاوِيٌّ: میدہ۔ گھریا مٹی۔ ہر وہ چیز جس سے سفیدی کی جائے۔</p> <p>الحَوْزَاوِيٌّ: طبیعت کرنے والا۔ خیر خواہ۔</p> <p>وَحَوِيٌّ: رشتہ دار۔ مددگار۔ اور بقول بعض انبیاء (علیہم السلام) کے مددگار اور اسی سے ہے (الحَوْزَاوِيُّونَ) سیدنا عیسیٰ علی نبیہا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے انصار و اعموان۔</p> <p>الحَوْزَاوِيَّةُ: الحَوْزَاوِيٌّ کا مؤنث۔ شہری عورت۔ حَوْزَاوِيَّاتٌ۔</p> <p>المَحْوُورُ: وہ کڑی یا لوہا جس پر چرچی گھومتی ہے۔ المحور فی الهندسة: علم ہندسہ کی اصطلاح میں وہ سیدھا خط جو کہ کے دونوں قطبین کے درمیان ہوتا ہے۔</p> <p>المَحْوُورُ: روٹی پکانے والے کا یلین۔ وہ کھڑا جس پر کوئی چیز گھومے۔ حَوْصًا حَوْصًا: کہا جاتا ہے "لَقَلَّتْ مَحْوَاوِزُهُ" یعنی اس کا معاملہ بگڑ گیا۔</p> <p>المَحْوَاوِيَّةُ: واپس۔ کسی۔ لوٹنے کی جگہ۔ اونٹ کا گھر۔ تالو۔ ہر وہ بڑی جو پھٹی کی مانند ہو۔ محارہ الاذن: کان کاڑھا۔</p> <p>المَحْوُورَةُ و المَحْوُورَةُ: جواب۔ خُفٌّ (مَحْوُورٌ) موزہ جس کا اسٹریچ چھڑے کا ہو۔</p> <p>حَاوِزٌ (ن) حَوْزًا و حِوَاوِيَّةً و إِحْتَاوِصًا: حِوَاوِيَّةً: بھگانا۔ جمع کرنا۔</p> <p>الابیل: نری سے ہانکنا (حَاوِزٌ حَوْزًا) الرَّجُلُ: نرم چلنا۔</p> <p>حَوْزٌ تَحْوِيزًا۔ الابل: پانی کی طرف لیلۃ الحوز میں اونٹوں کو ہانکنا (دیکھئے لیلۃ الحوز) حَاوِزَةٌ مَحْوَاوِيَّةً: باہم زندگی بسر کرنا۔ میل تلاب کرنا۔ روندنا۔ ایک دوسرے کو دھتکارنا۔</p> <p>تَحْوِيزٌ: علیحدہ ہونا۔ الحجة: کٹھنل بارنا۔</p> <p>کہا جاتا ہے "ذَخَلَ عَلَيَّه فَمَا تَحْوِيزَةً" وہ اس کے پاس آیا اور اس کے لیے علیحدہ نہیں ہوا۔</p> <p>تَحَاوِزٌ: الفریقان: ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا۔</p> <p>إِنْحَاوِزٌ: حِوَاوِيَّةً۔ عنہ: بہت چلنا۔ اَلَيْهَ: بائیں ہونا۔ القوم: مرکز کو چھوڑ دینا۔</p>
---	--	--

ماکل ہوتا۔

خَوَّلَتْ (س) خَوَّلًا عَيْنُهُ۔ بھیجی ہوئی۔

خَوَّلَهُ تَخْوِيلًا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ

نقل کرنا۔ زائل کرنا۔ خَوَّلَهُ الْيَتِيمُ پلٹ دینا۔

خَوَّلَ الزَّجَلُ: نخل ہونا۔ خَوَّلَ الْأَرْضَ: ایک

سال کے نام سے کاشت کرنا۔ الشَّيْءُ:

عمل بنا (س) وَأَخَالَ الْعَيْنَ: بھیجا کرنا۔

خَاوِلَةٌ مُخَاوَلَةٌ وَخَوَالٌ: جیلہ سے طلب کرنا

لَهُ الْبَصَرُ: تیز کرنا۔ الشَّيْءُ: ارادہ

کرنا اور جیلہ سے طلب کرنا۔

أَخَالَ: اللَّهُ الْحَوْلُ: پورا کرنا۔

بِالْمَكَانِ: ایک سال قیام کرنا۔ الزَّجَلُ:

محل بات کرنا۔ الشَّيْءُ: چند سال گزرتا۔

أَخَانَ الْغَرِيمَ بِدَيْبِهِ عَلِيُّ أَحْمَرُ: قرض کو

دوسرے کے حوالہ کرنا۔ صفت فاعلی (مُجْتَلٍ)

صفت مفعول (مُخَالَ) اور دوسرے غریم کو (مُخَالَ)

علیہ) مال کو (مُخَالَ) بہ) اور اس فعل کو

(الحوالہ) کہتے ہیں۔ أَخَانَ عَيْنَهُ: بھیجی کر دینا۔

أَخَانَ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الدَّلْوِ: اُتْرے ملنا۔ کہا جاتا

ہے "أَخَانَ عَلَيْهِ بِالسُّوْطِ يَضْرِبُهُ" وہ اس کو

کوڑے سے مارنے پر متوجہ ہوا۔ أَخَالَ فِي

ظَهْرِ الدَّابَّةِ: کوڑ کر سوار ہونا۔ أَخَانَ الْأَمْرَ عَلَيَّ

فُلَانٌ: کسی پر کسی کام کو منحصر کر دینا۔

أَخَوْلَ: الصَّبِيُّ: ایک سالہ ہونا اور کہا جاتا ہے

"مَا أَخْوَلَهُ وَمَا أَخْوَلَهُ" وہ کتنا بڑا جیلہ ساز ہے۔

"وَهُوَ أَخْوَلُ مِنْكَ وَأَخْوَلُ مِنْكَ" وہ تم سے

زیادہ جیلہ کرے۔

تَخَوَّلَ عَنْهُ: پھر جانا۔ الزَّجَلُ: ایک

جگہ سے دوسری جگہ نخل ہونا۔ فی

الامر: جیلہ و کمر سے کام کرنا۔

إِخْتَالَ إِخْتِيَالًا: جیلہ کرنا۔ الشَّيْءُ:

ایک سال کا ہونا۔ عَلَيْهِ بِالذَّيْنِ:

دوسرے کے ذمہ ڈالنا۔

إِخْوَلَهُ الْقَوْمُ: گھیر لیا۔

إِخْوَلَتْ عَيْنُهُ: بھیجی ہوئی۔

إِخْوَالَتِ: الْأَرْضُ: سرسبز ہونا اور ہموار

آگیا۔

إِسْتَحَالَ إِسْتِحَاةً: ایک حال سے دوسری

حالت کی طرف بدلنا۔ حال ہونا۔ القَوْسُ:

درستی کے بعد کج ہونا۔ فُلَانٌ الشَّيْءُ: کسی

چیز کی طرف دیکھنا کہ آیا اس میں حرکت ہے یا

نہیں۔

الْحَالُ: کیفیت۔ بَيْتُ: صفت (مذکر مؤنث)

گرم راکھ۔ کالی مٹی۔ حَالٌ مَتْنِ الْفَرَسِ:

گھوڑے کی پشت کا درمیان۔ جِ أَخْوَالٍ

وَأَخْوَلَةٌ.

حَاةً: الشَّيْءُ: کیفیت۔ حالت۔ جِ حالات۔

حَالَاتِ الدَّهْرِ: زمانہ کی گروہیں۔

الْحَوْلُ: نہ۔ قدرت۔ کہا جاتا ہے "لَا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" یعنی نہ تو حرکت ہے نہ قوت ہے مگر

اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ ہوشیاری۔ دُور بِنِي:

سال۔ جِ حَوُولٍ وَأَحْوَالٍ.

الْحَوَالِيُّ: ایک سالہ بچہ۔ جِ حَوَالِيَاتِ: اور اسی

سے ہے "حَوَالِيَاتُ زُهَيْرٍ" یعنی زہیر کے وہ قصائد

جن کی نظم و ترتیب اور تزیین اور لوگوں کے

سامنے پیش کرنے میں ایک سال کی مدت لگتی تھی۔

الْحَوْلُ: ہوشیاری۔ دُور بِنِي: قدرت، تصرف

زوال۔ اِسْتَحَالَ: کہا جاتا ہے "لَا حَوْلَ عَنْهُ"

الْحَوْلُ: بھیجا پن۔

حَوْلٌ وَحَوْلِي وَحَوَالٍ وَحَوَالِي: الشَّيْءُ او

الشَّخْصَ: گردا گرد۔ کہا جاتا ہے "فَعَدَّ حَوْلَهُ وَ

حَوْلِيَهُ وَحَوْلَهُ وَحَوَالِيَهُ"

الْحَوَالُ وَالْحَوَالَانُ وَالْحَوَالِيَانُ: تفسیر و

اِثْقَابُ.

الْحَوَالِيِيُّ وَالْحَوُولُ وَالْحَوَالِيُّ: جیلہ ساز۔ بہت

خفت جیلہ کر۔

الْحَوَالُ: ہر وہ چیز جو دو چیزوں کے درمیان

ماکل ہو۔

حِيَالٌ: الشَّيْءُ: مقابل۔ سامنے اور کہا جاتا ہے

"فَعَدَّ كُلَّ عَلِيٍّ حِيَالَهُ" ہر ایک علیہ علیہ بیجا۔

الْحِيَالَةُ وَالْحَوَالَةُ: ہوشیاری۔ دُور بِنِي: تصرف

کی قوت۔ جِ حِيَالٍ وَحَوْلٍ.

الْحَوَالَةُ: توجہ۔ امر مکر۔ مصیبت۔ کہا جاتا ہے

"رَجُلٌ حَوْلَةٌ" یعنی بہت جیلہ کر مرد۔

"وَهَذَا مِنْ حَوْلَةِ الدَّهْرِ" یہ عجائباتِ زمانہ سے

ہے۔

الْحَوْلُ: بھیجا۔ بہت جیلہ کر۔

الْحَوَالِيُّ: گواہ۔ ضامن۔

الْأَحْوَالُ: بھیجا۔ مؤنث خَوَّلَاءُ۔ جِ حَوْلٌ.

الْحَائِلُ: تھ۔ رنگ بدلا ہوا۔ یکسالہ۔ ہر وہ ماہ جو

حاملہ نہ ہوتی ہو۔ کہا جاتا ہے "إِمْرَأَةٌ حَائِلٌ وَ

تَخْلَةُ حَائِلٌ" جِ حَوْلٌ وَ حَوْلٌ وَ حِيَالٌ وَ

حَوَالِي.

الْحَائِلَةُ: الْحَائِلُ كَالْمَوْثِقِ: جیلہ۔ کہا جاتا ہے "مَا

فِيهَا حَائِلَةٌ" اس میں کوئی جیلہ نہیں۔

الْمُحَالُ: مشکل۔ باطل۔ ٹیڑھا۔ غیر ممکن۔

الْمُحْوَلُ: ایک سالہ بچہ۔

الْمُجْتَلُ: مِنَ النِّسَاءِ: لڑکی کے بعد لڑکا یا

لڑکے کے بعد لڑکی جننے والی عورت۔

الْمُفْحَالَةُ: ہوشیاری۔ تصرف کی قدرت۔

رہٹ۔ بیٹھ کادر میان۔ جِ مَحَالٍ وَ مَحَاوِلٍ: کہا

جاتا ہے "لَا مَحَالَةَ مِنَ الْأَمْرِ" ضروری۔ اس

میں کوئی شک نہیں۔ الْمُحَالَةُ: رہٹ۔ بڑی

چرخی۔

الْمُحْوَالُ: بہت محال باتیں کہنے والا۔

الْمُسْتَحِيلُ: بیہودہ و لغو بات۔ بھرا ہوا۔

الْمُسْتَحِيلَةُ وَالْمُسْتَحَالَةُ مِنَ الْقِسْمِ:

ٹیڑھی کمان۔ مِنَ الْأَرْضِ: ایک سال یا

چند سال چھوڑی ہوئی زمین۔

حَامٌ (ن) حَوْمًا وَ حَوْمَانًا: عَلِيُّ الشَّيْءِ وَ

حَوْلُهُ: مَثَلًا لَنَا۔ الزَّجَلُ: پیاسا ہونا۔

صفت (حَائِمٌ) جِ حَوْمٌ: مؤنث حَائِمَةٌ: جِ

حَوَائِمٌ وَ حَوْمٌ (س) حَوْمًا وَ حِيَالًا وَ

حَوْمًا حَوْلًا غَرَضُهُ عَلَيْهِ: طلب کرنا۔

حَوْمٌ: فِ الْأَمْرِ: کام میں لگا رہا۔

الْحَوْمُ: اَوْثُنٌ كَابِرًا كَلِمَةً.

الْحَوْمُ: شراب جو سر کو پکرا دے۔

حَوْمَةٌ: الْقِتَالُ او الْبَحْرُ او الرَّمْلُ وَ غَيْرِ

ذَلِكَ: بِرَاحِصَةٍ: حَوْمَةٌ الْمَوْتِ: موت کا جھوم۔

الْحَوْمَةُ: بلور۔

حَوْمَلٌ حَوْمَلَةٌ: پانی اٹھانا۔

الْحَوْمَلُ: صاف سیلاب۔ کلابادل۔

تَحْوَلٌ: الزَّجَلُ: ذلیل ہونا۔ ہلاک ہونا۔

حَوِيٌّ (س) حَوِيٌّ وَ أَحْوَوِيٌّ إِحْوَوَاءُ وَ

بتانا۔ کہا جاتا ہے "جینس حیشہم" ان کی ہلاکت قریب ہوئی۔
الحینس۔ ایک قسم کا کھانا جو کھجور، بھٹی اور ستوسے تیار کیا جاتا ہے۔ کپا کام۔ رومی کام۔
المحیض۔ وہ جس کے ماں باپ دونوں غلام ہوں۔

حاشۃ (ض) حیشا۔ گھبراہٹ میں ڈالنا۔
حاشۃ بنتہ: گھبرانا۔ الزحیل: جلدی کرنا۔
الوادی: دروازہ ہونا۔
تحیش: گھبرانا۔
الحیشان: بہت گھبرانے والا۔

خاص (ض) حیضاً وحیضاً وحیضاً
مَحِيضًا وَحِيضًا وَنَحِيضًا عَنْ
كَذًا: الگ ہونا۔ ہٹ جانا کہتے ہیں۔ "من خاص
عَنِ الشَّوْسَلِيمِ" جو حیرانی سے الگ رہا محفوظ رہا۔
وَوَقَعَ فِي حَيْضٍ يَبِيضُ أَوْ فِي حَيْضٍ يَبِيضُ"
وہ ایسی گزری میں پڑ گیا جس سے نکلنے کا کوئی
راستہ نہیں۔

حَالِصَةٌ: قریب رہنا اور غلبہ کرنا۔
الأحیص۔ وہ شخص جس کی ایک آنکھ دوسری
سے چھوٹی ہو۔

دَابَّةٌ (حیضوں میں) بدکنے والا جانور۔
المحیض۔ علیحدہ ہونے کی جگہ۔ بھاگنے کی
جگہ۔

الحیضاء والمحیضات۔ وہ عورت جس کی
اندام نہائی تک ہو۔

حَاصِتٌ (ض) حَيْضًا وَحِيضًا وَنَحِيضًا
وَ تَحِيضًا۔ المرأة: ماہواری خون جاری
ہونا۔ صفت (حائض و حائضہ) ح حیض و
حَوَائِض۔

حَيْضٌ: الماء پانی بہانا۔
الحیضات۔ حیض کا خون۔
الحیضۃ والمحیضۃ۔ حیض کا چھوڑنا۔
حَيْغَلٌ: المؤذن: حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى
عَلَى الْفَلَاحِ کرنا۔

حَافٌ (ض) حَيْفًا: علیہ: ظلم کرنا۔ صفت
(حائف) ح حَيْفٌ وَحَيْفٌ وَحَافَةٌ۔
تَحْيِفُ: الشَّيْءُ: کم کرنا۔ اطراف سے گھمانا۔

إِحْوَاؤِي إِحْوَاؤِي: سبزی مال یا سرفی مال
سیاہ ہونا۔ صفت (أحوی) مؤنث حَوَاوِعِ حَوَّاءِ حَوَّاءِ
حَوَّاءِ (ض) حَوَايَةٌ وَحَوَّاءُ: الشَّيْءُ: جمع کرنا۔
حَوَّاءٌ تَحْوِيَةٌ: تہنہ کرنا۔
تَحْوِيٌّ: سنا۔ گول ہونا۔ الحیثۃ: کنڈلی مارنا۔
الشَّيْءُ: تہنہ کرنا۔

إِحْتَوَى إِحْوَاؤَهُ: الشَّيْءُ: علیہ: جمع کرنا۔
الحاوی۔ قا۔ ساپ کا منتر کرنے والا۔ مؤنث
حَاوِيَةٌ حَاوِيَاتٌ وَحَاوِيَةٌ
الحَاوِيَاءُ۔ کئی ہوئی آنتیں حَاوِيَاءُ ات
وَ حَاوِيَةٌ۔

الحَوَاوِعُ وَ الحَوَاوِعُ: آواز۔
الحَوِيٌّ: استحقاق کے بعد مالک ہونے والا
چھوٹا حوض۔

الحَوَاوِعُ: قریب قریب گھروں کا مجموعہ۔ ح
أَحْوِيَةٌ۔

أَحْوِيَةٌ: الحوی کا مؤنث۔ کئی ہوئی
آنتیں۔ چھوٹا حوض۔ کبیل کہ جس میں گھاس
بھوسہ وغیرہ بھر کر اونٹوں کے کوبان کے ارد گرد
رکتے ہیں۔ ح۔ حَوَايَا۔ اور اسی سے مشت ہے
"الصَّنَا يَا عَلِيَّ الحَوَايَا" اس شخص کیلئے جو
موت کو خودی تلاش کرے۔

الحَوَاوِعُ: ساپوں کا جمع کرنے والا۔
حَيْثٌ: طرف مکان۔ مٹی برضہ۔ اور کہا جاتا
ہے مِنْ هَذِهِ (الحَيْثِيَّةِ) یعنی اس اعتبار سے۔ اور
کبھی حیث زمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔

حَاوَجٌ (ض) حَيْجًا: محتاج ہونا۔
أَحَاوَجٌ وَأَحْوَجٌ: المکان: کلنے آگاہ۔
الحَاوَجُ: کاٹنا۔ ایک قسم کا ترش پودہ۔

حَادٌ (ض) حَيْدًا وَحَيْدًا وَأَنَا وَحَيْدًا وَحَيْدَةً
وَ حَيْوُودًا وَحَيْوُودَةً: عَنِ الظَّرِيقِ: الگ ہونا۔
ہٹ جانا۔

حَيْدَةٌ: گرہ پر کرنا۔ حَيْدُ السَّيْرِ: قسم میں
گرہ لگانا۔
حَايِدَةٌ حَايِدَةٌ وَ حَيَاةٌ: علیحدہ ہونا۔

الحیثہ۔ چیز کا ابھرا ہوا حصہ۔ پہاڑ کا ٹکڑا ہوا
کنارہ۔ پہاڑی بکرے کے سینک کی گرہ۔ ح
حَيْوُودٌ وَ حَيْوُودٌ (و۔ والجد) ح و

تَحْيِرٌ۔
الحیثہ۔ پہاڑی بکرے کے سینک کی گرہ۔

الحیثی۔ ٹکڑی کی چال۔
الحیثان۔ ٹکڑی جو جانور کے چلنے سے اڑے۔

المحیثہ۔ حاد کا اسم طرف۔

حَاوَزٌ (س) حَيْوَةٌ وَ حَيْوَةٌ وَأَنَا وَ حَيْوَةً
الماء: پانی کا اس طرح آنا جانا کہ یہ نہ معلوم ہو کہ
کیسے جاری ہے۔ الزحیل: چکا چوند ہونا۔ راستہ کم
کہا۔ فی امرہ: حیران ہونا۔ صفت (حیران) مؤنث
حَيْرِيٌّ حَيْرِيٌّ وَ حَيْرِيٌّ
حَيْرَةٌ: حیرانی میں ڈالنا۔

تَحْيِرٌ: الماء: یعنی حَاوَزُ الماءِ۔
_____ المکان: بالماء: بھر جانا ()

وَإِسْتَحَاوَزَ حَيْرَانًا فِي بَرْدٍ: إِسْتَحَاوَزَ المکانَ
وَ بالمکان: چند دن کے لیے آرتنا _____
السحاب: کسی جانب میں متوجہ نہ ہونا۔

الحیثہ۔ جنسی۔ بالغ۔
الحیثہ والحیثہ۔ بہت اہل مال۔ کہا جاتا ہے

"لَا آتِيهِ حَيْوَةٌ دَهْرٌ" میں اس کے پاس کبھی
نہیں آؤں گا۔
الحَاوَزَةُ: جملہ۔

الحَاوِرُ: قا۔ پانی جمع ہونے کی جگہ۔ بلند کناروں
والی ٹہنی جگہ۔ ح حَوَزَانٌ وَ حَوَزَانٌ

المَحَاوَزَةُ: بیجی۔ ح مَحَاوِرُ: پانی جمع ہونے کی
جگہ۔ المَحَاوِرَاتُ: سرین کے دونوں گول سرے
جن سے ران کے سرے لے ہوئے ہیں۔

المحیثار۔ بہت حیران۔
المُتَحَيِّرَاتُ: کوآکب۔ سیارہ۔ واحد
(متحیرہ)

المُتَحَيِّرُ: قا۔ وہ راستہ جو جنگل کے عرض میں
ہو اور یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں نکلا ہے۔ ہماری بابل
جس کے لیے ہوانہ ہو جو کہیں لے جائے۔

حَاوَزٌ (ض) حَيْوَةٌ: الابل: ہانکنا۔
تَحْوِيٌّ: الشَّيْءُ: کسی ایک ہی جگہ میں منحصر ہونا
_____ الحیثۃ: کنڈلی مارنا۔

الحیثہ۔ دیکھنے والوں کو۔
حَاوِسٌ (ض) حَيْسًا: الشَّيْءُ: بلانا
الحَيْبِلُ: بٹھا (_____ وَ حَيْسٌ) الحَيْسُ: جس

الْحَاخِيفُ - فَاحْتَفِئِ الْجَبَلِ: پہاڑ کا کنارہ۔
الْحَيْفَةُ: گوشہ۔ کپڑے کا ٹکڑا جو قمیص کے
دامن میں پیوند لگایا جائے۔ فکار کے واسطے پتکایا
ہوا جانور۔ جحف: حیض۔
الْأَحْيِفُ: مِنَ الْأَهْكِيَةِ: وہ جگہ جہاں بارش
نہ ہو۔ مؤنث حَيْفَاءُ۔

حَاقٍ (ض) حَيْقًا وَحَيْقًا وَحَيْقَانًا وَآحَاقٍ
إِحَاقَةً: یہ: احاطہ کرنا۔ گھیرنا۔ حَاقٍ يَهْمُ الْأَمْرَ:
لازم ہونا۔ واجب ہونا۔ يَهْمُ الْعَذَابَ:
نازل ہونا۔ فِيهِ السَّيْفُ: اثر کرنا۔ نشان
ڈالنا۔ آحَاقٍ السَّيْفُ بَكَدَا: گھیر کرنا۔
حَاقِيَهُ مَحَاقِيَةً: حسد کرنا۔ دشمنی کرنا۔
بعض رکنا۔

إِحْتِاقٌ: علی السنی: احتیاط کرنا۔
الْحَيْقِيُّ: بڑے فصل کی وجہ سے جو کچھ انسان کو
لازم ہو۔

الْحَيْقِيلُ: بے فیض آدمی۔
حَاكٌ (ض) حَيْكًا وَحَيْكَانًا: ٹھیکراندہ چال
چلنا۔ صفت (حَاكِيًا وَحَيْكًا): سوت حَيْكَاةٌ
وَحَيْكَاةٌ وَحَيْكِي () وَآحَاكٌ)
السَّيْفُ: کانا السیف اور الکلام فیہ: اثر کرنا۔
إِحْتَاكٌ إِحْتِيَاكًا: بقویہ: پلٹنا۔ مِثْنَةٌ
(حَيْكِي) ٹھیکراندہ چال۔

حَاَلٌ (ض) حُيُولًا: السنی: بدلنا الماء:
وادی میں جمع ہونا۔

الحَيْلُ: قوۃ۔ وادی میں جمع شدہ پانی۔ ح
أَحْيَالٌ وَحُيُولٌ۔

الْأَحْيَالُ وَالْأَحْيُولُ: بہت جلد کرنے والا۔
الحَيْلَةُ: ہوشیاری۔ دور بینی۔ تصرف کی

قوت۔ ح حَيْلٌ۔
الحَيْلَةُ: کبریوں یا بھیمروں کا ریوڑ۔
جلد گری۔

الجَيْلَانُ: غلہ گانے کا دوزار۔

حَانَ (ض) حَيْثًا وَحَيْثُوتَةً: السنی: وقت
قریب ہونا۔ فلان: ہلاک ہونا۔ رَجٌّ وَ
تکلیف میں پڑنا۔ توفیق سے محروم ہونا۔ حَانَ لَهُ أَنْ
يَفْعَلَ كَذَا: وقت قریب آنا۔ السَّنْبِيلُ: خشک ہو
کر کٹائی کا وقت قریب آنا۔

حَيْثَةً: وقت و ميعاد مقرر کرنا۔ اللہ
فلانا: ہدایت کے لیے توفیق نہ دینا۔

حَايَهُ: وقت معین کیلئے معاملہ کرنا۔
أَحْيَنُ إِحْيَانًا: الزُّحْلُ او السنی: وقت آنا
بالمکان: کچھ وقت کے لیے قیام کرنا۔

أَحَاةَ: اللہ: ہلاک کرنا۔
تَحْيَنٌ: مِنْهُ غَفْلَةٌ: انتظار کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
يَتَحَيَّنُ طَعَامَ النَّاسِ" وہ لوگوں کے کھانے کے
وقت کا انتظار کرتا ہے۔ توفیق و ہدایت سے
محروم رہنا۔

إِسْتَحْيَنَ: وقت مناسب کی آرزو رکھنا۔
الحَانُ وَالْحَاةُ: شراب فروشی کی دکان۔

الحَيِّنُ: ہلاکت۔ رَجٌّ وَحَمْتٌ۔
الحَيِّنُ: وقت۔ ح حَانٌ۔ ح حَايِنٌ۔ ح حَايِنٌ۔

الحَيْثَةُ وَالْمِحْيَانُ: وقت۔
الحَايِنُ: نا۔ بے وقوف۔

الحَايِنَةُ: مہینت۔ ح حَوَائِنٌ۔
حَيٌّ (س) حَيَاةً: زندہ رہنا۔ اس میں ایک لغت

ادغام سے بھی ہے۔ کہا جاتا ہے حَيٌّ يَحْيَى ()
حَيَاةً مِنْهُ: متقبض ہونا۔

الطَّرِيقُ: ظاہر ہونا۔
حَيَّاهُ وَنَحْيَةً: حَيَاةُ اللہ کسا یعنی اللہ

تمہاری عمر دراز کرے) سلام کرنا۔ حَيَّاهُ اللہ: باقی
رکھنا۔ کہا جاتا ہے "حَيَّاهُ الْخَمْسِينَ مِنْ غُفْرِهِ"
وہ اپنی عمر کے پچاسویں سال کے قریب پہنچا۔

حَايَاةً حَايَاةً: الصبی: غذا دینا۔ زَيْدًا:
شرم دلانا۔ النَّازُ: بھڑکانا۔

أَحْيَاةً: زندہ کرنا۔ النَّازُ: چھوٹ کر سناٹا

الارض: سرسبز ہونا۔

الرَّائِدُ الْأَرْضَ: گھاس پانی طلب کرنے والے کا
زمین کو سرسبز بنانا۔ اللَّيْلُ: بیدار رہنا۔
(أَحْيَاهُ وَإِسْتَحْيَاهُ) زندہ چھوڑنا۔

إِسْتَحْيَا وَإِسْتَحْيَى: مِنْهُ: شرم کرنا۔
إِسْتَحْيَاهُ وَإِسْتَحْيَاهُ مِنْهُ: متقبض ہونا۔
باز رہنا۔

سَحَى وَسَحَى هَلَا وَحَيْهَلٌ: اسم فعل بمعنی
أَقْبَلَ وَعَجَلَ: کہا جاتا ہے سَحَى عَلَى
الصَّلَاةِ یعنی نماز کے لیے آؤ۔ (سَحَى هَلًا)
بفلان: فلان کو بلاؤ۔

الحَيَاةُ وَالْحَيَاةُ: بارش۔ ترو تازگی۔ نباتات۔
الحَيَاةُ: شرم دہنا۔ کسی چیز سے متقبض ہونا اور
سلامت کے خوف سے چھوڑنا۔ بارش و
ترو تازگی۔ توبہ۔

الحَيَاةُ: زندگی۔
الحَيُّ: زندہ۔ نسبت کے لیے (حَيْوِيٌّ)
مؤنث حَيَّةٌ: أَزْهَى حَيَّةٌ: سرسبز زمین۔ کہا جاتا

ہے "لَا يَعْرِفُ الْحَيُّ مِنَ اللَّيْلِ" یعنی وہ بیوقوف
ہے۔ الحَيُّ: عملہ۔ عرب کے قبیلوں میں سے
چھوٹا قبیلہ۔ ح حَايَاءُ۔

الحَيْثَةُ: سناپ (مذکر و مؤنث) ح حَيَاتٌ
و حَيَاتٌ۔

الحَيْوَاتُ: نرسناپ۔
الحَيِّيُّ وَالْحَيِّيَّةُ: شرم دلانا۔

الحَيْوَانُ: جاندار۔ ح حَيْوَانَاتٌ۔
السُّنْبِيَّةُ: چھوٹی موٹی۔

المَحْيَاةُ: وہ موقع جہاں شرم کی جائے۔ ح
مَحَايَ: زندگی۔

المَحْيَاةُ: چہرہ۔
ارض (مَحْيَاةً) بہت ساتھیوں والی زمین۔

خَبَّ (ن) خَبًّا۔ النبات: بلند ہونا۔ بڑھنا
الزَّجَلُ: اٹلی چیز کو روکنا۔ بھل کی وجہ سے
بے نشان ہونے کیلئے پست زمین میں اتر آنا
خَبًّا و خَبِيحًا و خَبِيحًا وَاخْتَبَّ (الفرض
فی غَدْوِه: گھوڑے کا دوڑنے میں کبھی اگلی
ٹانگوں پر گمراہ ہونا اور کبھی پچھلی پر۔) خَبًّا و
خَبِيحًا (البخو: جوش مارنا۔

خَبَّ (س) خَبًّا و خَبًّا مَكَارَ ہونا۔
خَبِيحًا: دھوکا دینا۔ خراب کرنا۔ کہا جاتا ہے
”خَبَّبَ عَلَيَّ فَلَانَ صَدِيْقَهُ“ اس نے
فلاں کے دوست کو بگاڑ دیا۔ خَبَّبَ لَحْمُهُ:
گوشت کے جالے رہنے سے مہراں پڑنا۔

أَخَبَّ: الفرس: گھوڑے کو خَبَّبَ جَالٌ چلانا
(دیکھئے صدر خَبَّبَ)

الْخَبَّبُ: سہ۔ دغا باز۔ فرجی۔ فساد۔ ریت کی
دھاری۔ نرم زمین جو دو سخت زمیوں کے
درمیان ہو۔ جُ خَبُّوبٌ۔ کہتے ہیں ”أَصَابَهُمْ
الْخَبَّبُ“ یعنی ہوائیں ان پر بچھیرے ہو گئیں اور
سوجوں میں اضطراب ہو گیا۔

الْخَبَّبُ: پست زمین۔ درخت کی پھال۔ ج
خَبُّوبٌ وَاخْتَبَابٌ۔

الْخَبَّةُ: مُتَلَبِّدَةُ الْخَمَاءِ: ریت یا بدلی کی
دھاری۔ بٹی کی طرح دھجی۔ الخَبَّةُ: پانی کے جمع
ہونے کی جگہ۔ وادی کا درمیانی حصہ۔ گوشت کا
پارچہ۔

ثَوْبٌ (جَبَبٌ و خَبَابٌ وَاخْتَابٌ) پھنے
پڑنے کیلئے (تعداد اجزاء کی وجہ سے صفت
میں جمع لانا جائز ہے)

الْخَبِيْبُ: زمین میں لہلاہ گاف۔
الْخَبِيْبَةُ: ریت یا بدلی کی دھاری۔ گوشت کا

پارچہ۔ وادی کا درمیانی حصہ۔ ج خَبَابٌ۔
الْمَخْبِيْبَةُ: وادی کا درمیانی حصہ۔
خَبًّا (ف) خَبًّا و خَبًّا: الشَّمْنُ: چھپانا۔ پوشیدہ
کرنا۔

خَبَابًا: کسی سے چیتاں و پھیلی کرنا۔
اِخْتَبَا: منہ: چھپنا۔ الشَّمْنُ: چھپانا۔ کہا
جاتا ہے ”اِخْتَبَا لَهُ خَبِيْبًا“ اس نے اس سے ایک
چیز پوشیدہ کی اور پھر اس سے دریافت کیا۔

الْخَبُّ وُ الْخَبِيْبُ: پوشیدہ۔ خَبُّ وُ
الارض: نباتات۔ خَبُّ وُ السَّمَاءُ: بارش۔
کہتے ہیں ”أَنْفَجَّ خَبُّ وُ السَّمَاءُ خَبُّ وُ
الارض“ بارش نے نباتات کو آگایا۔

الْخَبَابُ: اُون یا بالوں کا شہ۔ ج اَخْبِيْبَةُ۔
الْخَبِيْبَةُ: پوشیدہ رکھی ہوئی چیز۔ ج خَبَابٌ۔

الْخَبَابِيَّةُ وَالْخَبَابِيَّةُ: مٹکا۔ ج الْخَوَابِي
وَالْخَوَابِي: بھٹا۔ الخَبَابِيَّةُ: شراب۔

الْخَبَابَةُ: سمت پوشیدہ رہنے والی عورت۔
الْمَخْبِيْبَةُ: چھپنے کی جگہ۔ ج مَخْبِيْبٌ۔

خَبَّبَ (ض) خَبَّبًا: دُكُوْهُ: پوشیدہ ہونا۔ مخفی
ہونا۔

أَخْبَبَ: القَوْمُ: کشادہ دست زمین میں آنا
— الی اللہ: عاجزی و فروتنی کرنا۔

الْخَبَّبُ: کشادہ دست زمین۔ ج اَخْبَبَاتٌ
وَاخْبَبُوْتُ۔

الْخَبِيْبَةُ وَالْخَبِيْبَةُ: تَوَاضِعٌ: عاجزی۔ فروتنی۔
الْخَبِيْبَةُ: حقیر و فرمایہ و خمیٹ۔ کہا جاتا ہے
”هُوَ خَبِيْبٌ لِنَفْسِهِ“ وہ شکستہ دل ہے۔

خَبَّبَ (ن) خَبَّبًا و خَبَابًا و خَبَابًا و خَبَابًا
ناپاک ہونا۔ صفت (خَبِيْبٌ) ج خَبُّوْتُ و خَبَّبًا
وَاخْبَابًا و خَبَبَةً: خَبَّبْتُ نَفْسَهُ: جی مٹلانا

— بِالْمَرْأَةِ: زنا کرنا۔

خَبَّبْتُ (ك) خَبَّبًا: روی ہونا۔ مکار ہونا۔
— وَاخْبَبْتُ: بڑے لوگوں کے ساتھ رہنا۔
وَاخْبَبْتُ: بُرَائِي سَكَلَانًا: خراب کرنا۔ بُرَائِي كِي
طرف منسوب کرنا۔

خَبَّبْتُ: خَبِيْبٌ بَنَانًا: الطَّعَامُ: کھانے کو
ناگوار کر دینا۔

تَخَبَّبْتُ: بُرَائِي ظَاهِرًا و رَاوَسًا پَر عَمَلٍ کرنا۔
تَخَبَّبْتُ: بِخَلْفٍ شَرَارَاتٍ کرنا۔

اِسْتَخَبَّبْتُ: بُرَائِي کرنا۔ شَرَارَاتٍ کرنا —
ہ: بُرِئَانًا۔

الْخَبِيْبُ: وَنِ الْحَدِيْدِ وَنَحْوِهِ: لوہے کا میل
سونے یا لوہے کا کھوٹ۔ بے فائدہ چیز۔

خَبَابٌ: بِمِوْزَانٍ لِقَطَامٍ: خَبِيْبَةُ سے معدول
ہے اور صرف ندا کی صورت میں عورت کو گالی
دینے کے لیے آتا ہے جیسے ”يَا خَبَابُ“ اے
بدکار عورت۔

خَبَّبْتُ: خَبِيْبٌ سے معدول ہے اور یہ بھی
صرف ندا ہی کے موقع پر مرد کو گالی دینے کے لیے
آتا ہے۔ جیسے ”يَا خَبِيْبُ“ یعنی اے بدکار مرد۔

الْخَبِيْبُ: بِنَاكٍ: گھٹیا۔ ناپسندیدہ چیز۔ ہر حرام
چیز۔ ہر خراب چیز۔ ج خَبُّوْتُ وَاخْبَابًا وَاخْبَابًا
وَ خَبَبَةً: مَوْزَنٌ خَبِيْبَةٌ: ج خَبِيْبَاتٌ و
خَبَابَاتٌ۔

الْخَبَابَاتُ: بڑے افعال۔ وہ چیزیں جن کو عرب
گندمی سمجھتے تھے اور کھاتے نہیں تھے۔ جیسے
سانپ و گھریلا وغیرہ۔

الْأَخْبَابِيَانِ: پویشاب یا پاشانہ۔
الْخَبِيْبِيْنِ: بواہد کار۔ بواہد شریہ۔

الْخَبِيْبِيْنِي: بُرَائِي: پلیدی۔

الخَبْنُ - في العروض: علم عروض کی اصطلاح میں سب خفیف سے ساکن کو حذف کر دینا۔ جیسے فاعلین سے فاعلین۔ رجل (خبن) مرو کہ جس کے اعضاء مٹے ہوئے ہوں۔

خَبَا (ن) خَبُوا و خَبُوا۔ خبت الناز او الحدة: بھٹنا۔ دھما پڑنا۔ کہا جاتا ہے "خبا لهُنہ" اس کے غصہ کا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔

أخبى الناز: آگ بجھانا۔

خبى الشئ: چھپانا۔

أخبى وخبى و تخبى واستخبى۔ الخباء: خیمہ لگانا۔ استخبى الخباء: خیمہ میں داخل ہونا۔

الخباء: اون یا اونٹ کے ہالوں کا خیمہ۔ بلی میں جو یاگیوں کا چمکلا۔ کلی کا خلاف ج اخبیۃ۔

خَتَّ (ن) خَتَّأ۔ الخسان الیہ: بچا پے تیز مارنا۔

أخْتَه حتر کم کرنا۔ أخت الزجل: باپ کے ذکر پر شرمندہ ہونا۔

الختت بدن کی سستی۔

الخبیت: گھٹیا ناقص۔

خَتَّاء (ف) خَتَّأ۔ عن كذا: روکنا۔ منع کرنا۔

أخْتَأ: خوف و تیرہ سے رنگ بدل جانا۔

مِنْ فُلَانٍ: شرم ڈر یا زلت کی وجہ سے چھپنا۔ لهُ: فریب دینا۔ الشئ: ایک لینا۔

مفازة (المختنئة) بیابان جس میں راستہ نہ ملتا ہو۔

خَتْرَه (ض) خَتْرَا۔ بڑی طرح سے خوفناکی کرنا۔

صفت (خاترو و ختار و ختیر و ختور و ختیر)۔

(ن ض) خترو او ختور۔ انفسہ نبی بگڑنا۔

ختر (س) خترو۔ زہرا داد و فیرو پینے کی وجہ سے بے حس ہونا۔

خترو: ست و ڈھیلا ہونا۔ مرض و تیرہ کی وجہ سے ست ہونا۔

خترو الشرب: بے حس کر دینا۔

ختروہ کائنا اور کلکے کلکے کرنا۔

ختروشد۔ العجراؤ: ڈیلوں کے کھانے کی آواز۔

خَبَقَ (ض) خَبَقَا۔ گوز کرنا۔ اپنے سے حقیر جانا۔

تَخَبَّقَ الشئ: بلند ہونا۔

الخبیق: بست کو نئے والا مرو۔ تیز رفتار گھوڑا۔

خَبَلَهُ (ن) خَبَلَا و خَبَلَهُ۔ خراب کرنا۔ بگاڑنا۔

ه الحزن: عقل کو تباہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَبَلُ الحُبِّ قلبه" محبت نے اس کے دل کو تباہ کر دیا۔ یدہ: لچا کرنا۔ ه عن كذا: روکنا۔ منع کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَبَل عن فعل آیتہ" اس نے اپنے باپ کے رویے سے کوتاہی کی۔

خَبَل (س) خَبَلَا و خَبَلَا۔ جنون لائق ہونا۔

صفت (خبل و أخبیل) خَبَلْتُ البئذ: لچا ہونا۔

أخبلة: ناقصہ۔ عارت پر دینا۔

أخبلتہ: عقل کو خراب کرنا۔ أخبلت الذابئہ: جانور کا اپنی جگہ میں نہ ٹھہرنا۔

تخبأت البئذ: لچا ہونا۔

استأخبلة: الابل۔ عارت پر لگانا۔

الخبیل۔ م۔ قرض۔ مکتبی۔ قند ()۔

والخبیل: ہاتھ پاؤں کی تباہی ج خبیل۔

الخبیل: ایک پرندہ جس کی آواز الو کی آواز کے مشابہ ہے۔ دھڑ (خبل) بگڑا ہوا زمانہ۔

الخبیل: فساد۔ نقصان۔ ہلاکت۔ زہر قاتل۔ کہا جاتا ہے "هو خبیل علی اہلبہ" وہ اپنے لوگوں کے لیے بوجھ ہے۔

الخبایل۔ فسادی۔ شیطان۔ جن۔ کہا جاتا ہے۔ "مئسۃ الخبایل" اس کو جن نے دیوانہ بنا دیا۔

الخبیلان: رات دن۔

المخبیل: فاقہ خبیل۔ بغیر ارف لام کے زمانہ کے ناموں میں سے ہے۔

المخبیل: دیوانہ۔ تھوڑا سا۔ وہ شخص جو وردی وجہ سے اچھی طرح چل نہ سکا ہو۔

خبن (ض) خبنا و خبنا۔ الثوب: موڈ کرینا۔

الشاعر: شہر میں خبن واقع کرنا (دیکھئے الفین) () و آخبن) الطقام: کپڑے کی تہ میں چھپانا۔

أخبنت الشئ: کپڑے کی تہ میں چھپانا۔

الخبنتہ: کپڑے کی تہ۔ خوراک جو دامن کی تہ میں لے جائے۔ ج خبن۔

کون ہے۔

الشيطان زليلاً: دیوانہ کرنا۔ ه بخير: بخیر جان پہچان کے دینا۔ البعير: منہ کی چوڑائی میں لسبا داغ لگانا۔ الشجرة: پتے جماڑنا۔

خبط زکام ہونا۔ صفت (مخبوط)۔

تخبطة: زور سے مارنا۔ الشيطان زليلاً: دیوانہ کرنا۔ البلاد: قند و فساد و لوٹ مار واقع ہونا۔ تخبط الشئ: رو دینا۔

أخبطة: زور سے مارنا۔ زليلاً: بغیر کسی وسیلہ کے مانگنا۔ أخبط البلاد: قند و فساد واقع ہونا۔

الخبط و رشت کے پتے جو ڈنڈے سے مار کر گرائے جائیں۔

الخبطة: زکام۔ تلاب یا برتن کا تیرہ پانی۔

مٹک میں بقیہ دودھ۔ حقیر زلیلا لگی۔ ج خبط و خبط۔ کہا جاتا ہے "علیه خبطة من الخمال" اس کے اوپر جمال و خوبصورتی کا کچھ اثر ہے۔

الخبطة: ہر چیز کا کچھ حصہ۔ کہا جاتا ہے۔ "كان ذلك بعد خبطة من الليل" یہ رات کے کچھ حصہ کے بعد ہوا۔ الخبطة من الماء: پانی کا گھونٹ۔ ج خبط۔

الخباط: غبار۔

الخباط: چرے کی چوڑائی میں لسبا داغ۔ ج خبط۔

الخباط: دیوانگی۔

الخبوط و الخبیط و الأخبط: من الخبيل: زمین پر پاؤں مارنے والا گھوڑا۔

الخبیط: حوش جس کو اونٹوں نے پاؤں مار مار کر گرا دیا ہو۔ وہی جس میں تازہ دودھ ڈال کر ملا جلا دیا گیا۔

المخبط و المخبطة و المخباط: پتے جماڑنے کا ڈنڈا۔ و حوی کی موگری۔

خبت (ف) خبتا۔ فی المكان: داخل ہونا۔

الشئ: چھپانا۔ کہا جاتا ہے "جارية غيبة طلعة" کبھی اپنے آپ کو چھپانے والی اور کبھی ظاہر کرنے والی لڑکی۔ () خبوتها الصبی: روتے روتے سانس رکنا۔

<p>خَوَاتِنٌ (کلمہ عجمی ہے) خَوَاتِنٌ خَوَاتِنٌ خَوَاتِنٌ۔ غم یا بیماری سے شکستہ دل ہوتا۔ خنخہ، روکنا۔</p>	<p>ناہے یعنی اس نے تم سے اعراض کیا۔ اللہ لہُ بِالْعَبْرِ: اچھا انجام کرنا۔ علی قلبہ: بے کجھ کر دینا۔ الزَّوْعُ وَعَلِيهِ: پکلی مرتبہ سیراب کرنا۔</p>	<p>خَوَاتِنٌ خَوَاتِنٌ خَوَاتِنٌ۔ بار بار اور کانا۔ خَوَاتِنٌ خَوَاتِنٌ۔ ماہری یا گہرا سٹ کی وجہ سے چپ رہنا۔</p>
<p>أَخْشَى: المتعاض: ایک ایک کر کے بچنا۔ إِخْتِشَى إِخْتِشَاءً: مرض یا غم کی وجہ سے شکستہ دل ہونا۔</p>	<p>خَشَمَ: اچھی طرح ختم کرنا۔ خَشَمَةُ: انگوٹھی پہنانا۔</p>	<p>خَشَعٌ (ف) خَشَعُوا خَشُوعًا: الدليل بالقوم: اندھیرے میں راہبری کرنا۔ علی القوم: اچانک آجانا۔ (و) إِخْتَشَعٌ لِمَى الْأَرْضِ: دور تک نکل جانا۔</p>
<p>خَشَفَ الشَّيْءُ: جمع کرنا اور درست کرنا۔ إِخْتَشَفَ: شرم کرنا۔ الْعَشْفُ: سیلاب کا کوڑا کرکٹ۔ یا خشک شدہ کالی۔</p>	<p>أَخْشَمَ: خاتمہ پر پہننا۔ تَخَشَّمَ: الخاتمہ پہ: انگوٹھی پہننا۔ کہا جاتا ہے "تَخَشَّمَ بِالْعَقِيقِي" اس نے عقیق کی انگوٹھی پہنی بامروہ: بچپنا۔ عنه: غفلت برتنا اور چپ رہنا۔ عمامہ باندھنا۔ کہا جاتا ہے "تَخَشَّمَ بِعَصَائِمِهِ" اس نے اپنا عمامہ باندھا۔ إِخْتَشَمَهُ: پورا کرنا۔ أَلْخَشَمَ: مرنہ۔ الْخَاتِمَاتِمُ: انگوٹھی۔ مرنج۔ خَوَاتِمَاتِمُ: الخاتمات والخاتيم: ریح خواتیم و خشم: انگوٹھی۔ مرنہ۔ انجام۔ گدی کا گڑھا۔ ناگھوں کی تھوڑی سی سفیدی۔ الخاتيمۃ۔ الخاتيم کا مؤنث۔ انجام۔ نتیجہ خَوَاتِمُ وَخَاتِمَاتُ: الخشم۔ انگوٹھی۔ الخضام: مُر لگانے کی مٹی یا ہر وہ چیز جس سے مر لگائی جائے۔ ریح خشم۔ المُخْشَمُ: مِنَ الْعَيْلِ: گھوڑا جس کی ناگوں میں تھوڑی سی سفیدی ہو۔ خَشَنَ (ض) خَشَنًا: الشَّيْءُ: کانا۔ الصَّبِيءُ: ختمہ کرنا۔ صفت مفعول۔ (خَوَاتِنٌ وَمُخْشَوْنَ) عَامٌ مُخْشَوْنَ: خشک سال۔ و خَشَنَ الرَّجُلُ: فریب دینا۔ خَشَنَةُ (ن) خَشُونًا وَخَشُونَةً وَخَشَانَةً: دانا دینا۔ خاتن الرجل: فریب دینا۔ إِخْتَشَنَ الصَّبِيءُ: ختمہ شدہ ہونا۔ الخشان والخشانة: ختمہ۔ الخشانة: ختمہ کرنے کا پیشہ۔ الخشن: عورت کی طرف سے رشتہ جیسے سسر سالہ داماد۔ ریح اخشان۔ الخشنة۔ الخشن کا مؤنث۔ ساس۔ الخاتون۔ بیگم۔ معزز عورت کا لقب۔ ریح</p>	<p>الخَوَاتِنُ وَالْخَشَعُ وَالْخَشَعُ: ماہر راہبر۔ الخَوَاتِنُ: خرگوش کا بچہ۔ الخشع: بچو۔ الخشعة: مادہ چیتا۔ الخضاع: چڑے کا دستانہ جو باز پالنے والے باز کے بچوں کے خوف سے ہاتھ میں پھینکتے ہیں۔ خَشَعُوا خَشَعًا: نیست و نابود ہونا۔ الْعَشْفُ: بد خو عورت۔ جتنی ہوئی ریت۔ ہر وہ چیز جو ایک حالت پر قائم نہ رہے اور نیست و نابود ہو جائے۔ ترمس (یعنی وہ جو سخت گرمی کے زمانے میں مٹتی کے جالے کی مانند فضا میں اترتا ہوا معلوم ہوتا ہے) بے وفا۔ دنیا۔ بھیڑیا۔ بھوت۔ ختن۔ شیطان۔ شیر۔ مصیبت۔ دور کی مسافت۔ ایک قسم کا کیزا جو پانی پر ہر وقت ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے۔</p>
<p>الخَشَّةُ وَالْخَشَّةُ: آگ سلکانے کیلئے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ٹکڑا۔ خَشْرٌ (ن) خَشْرًا وَخَشْرًا وَخَشْرًا: خَشْرًا وَخَشْرًا (س) خَشْرًا وَخَشْرًا (ک) وَتَخَشَّرَ اللَّبْنُ: گاڑھا ہونا۔ ہنی بننا۔ صفت۔ (خاتون)</p>	<p>خَشْرٌ (ن) خَشْرًا وَخَشْرًا وَخَشْرًا: خَشْرًا وَخَشْرًا (س) خَشْرًا وَخَشْرًا (ک) وَتَخَشَّرَ اللَّبْنُ: گاڑھا ہونا۔ ہنی بننا۔ صفت۔ (خاتون)</p>	<p>خَشَلَةٌ (ن) خَشَلًا وَخَشَلًا وَخَشَلَةً مُخَشَلَةً: فریب دینا۔ کہا جاتا ہے "خَشَلُ الصَّيْدِ" یعنی آہستہ آہستہ چلا تاکہ شکار کو احساس نہ ہو۔ صفت۔ (خاتون و خَشَلٌ) تَخَشَلُوا: باہم ایک دوسرے کو فریب دینا۔ إِخْتَشَلُوا: لِأَسْرَائِلَ الْقَوْمِ: چوری سے سنا۔ إِخْتَشَلُ الرَّجُلُ: فریب دینا۔ الخشل: چھینے کی جگہ۔ خرگوش کا سوراخ۔ الخوشل: خوش طبعی دانا مرو۔ الخشل: بڑا فریبی۔ مؤنث خَشَلَةٌ۔ خَشَلَةُ الرَّجُلِ خَشَلَةٌ: رہات کی طرف لگانا۔ خَشَلَمَ الشَّيْءُ: بخیہ طریقہ سے لینا۔ خَشَمَ (ض) خَشَمُوا خَشَمًا: الشَّيْءُ وَعَلِيهِ: مر لگانا۔ العمل: ختم کرنا۔ الكتاب: پوری پڑھ لینا۔ الاناة: مٹی و غیر وہ سے بند کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَشَمَ غَلْيَتَكَ</p>
<p>خَشْرَتٌ (ض) خَشْرًا: نفس الرجل: جی مٹلانا۔ مضطرب ہونا۔ کہا جاتا ہے "إِسْتَبَقَطَ فَلَانٌ خَاتِمَةَ النَّفْسِ" فلاں شخص بیدار ہوا اس حال میں کہ وہ ست تھا۔ خَشْرٌ (س) خَشْرًا: شرم کرنا۔ خَشْرًا وَخَشْرًا: اللَّبْنُ: گاڑھا کرنا۔ أَخْشَرَ الزَّبَدُ: بھمن کو بغیر پکھلائے ہوئے چھوڑ دینا۔ اور اسٹک عرب میں سے ہے "ما يدري أين خيبر ام يذئب" اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو ضرور مدعی ہو۔ الخشيرة: برامت۔ الخشار: دست خوان کا باقی ماندہ۔ الخشارة: چیز کا باقی ماندہ حصہ۔ دودھ کا گاڑھا گاڑھا حصہ جو باقی رہ جائے۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَتْ خَشَارَتُهُ" اس کا خالص حصہ ختم ہو گیا اور بچھٹ باقی رہ گیا۔ تَخَشَّمُ: خون سے آلودہ ہونا۔ الخشم والمخشم: شیر۔ الخشمعة: جانور کو زخم کرنا اور اسے ہو کر کھانا پھرا سی جانور کے خون میں خوشبو ملا کر ہاتھ ڈال کر۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ کرنا۔ الخَشَلَةُ وَالْخَشَلَةُ: مِنَ الْبَطْنِ: بیڑو۔ کہا جاتا</p>	<p>خَشْرَتٌ (ض) خَشْرًا: نفس الرجل: جی مٹلانا۔ مضطرب ہونا۔ کہا جاتا ہے "إِسْتَبَقَطَ فَلَانٌ خَاتِمَةَ النَّفْسِ" فلاں شخص بیدار ہوا اس حال میں کہ وہ ست تھا۔ خَشْرٌ (س) خَشْرًا: شرم کرنا۔ خَشْرًا وَخَشْرًا: اللَّبْنُ: گاڑھا کرنا۔ أَخْشَرَ الزَّبَدُ: بھمن کو بغیر پکھلائے ہوئے چھوڑ دینا۔ اور اسٹک عرب میں سے ہے "ما يدري أين خيبر ام يذئب" اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو ضرور مدعی ہو۔ الخشيرة: برامت۔ الخشار: دست خوان کا باقی ماندہ۔ الخشارة: چیز کا باقی ماندہ حصہ۔ دودھ کا گاڑھا گاڑھا حصہ جو باقی رہ جائے۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَتْ خَشَارَتُهُ" اس کا خالص حصہ ختم ہو گیا اور بچھٹ باقی رہ گیا۔ تَخَشَّمُ: خون سے آلودہ ہونا۔ الخشم والمخشم: شیر۔ الخشمعة: جانور کو زخم کرنا اور اسے ہو کر کھانا پھرا سی جانور کے خون میں خوشبو ملا کر ہاتھ ڈال کر۔ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ کرنا۔ الخَشَلَةُ وَالْخَشَلَةُ: مِنَ الْبَطْنِ: بیڑو۔ کہا جاتا</p>	<p>خَشَلَةٌ (ن) خَشَلًا وَخَشَلًا وَخَشَلَةً مُخَشَلَةً: فریب دینا۔ کہا جاتا ہے "خَشَلُ الصَّيْدِ" یعنی آہستہ آہستہ چلا تاکہ شکار کو احساس نہ ہو۔ صفت۔ (خاتون و خَشَلٌ) تَخَشَلُوا: باہم ایک دوسرے کو فریب دینا۔ إِخْتَشَلُوا: لِأَسْرَائِلَ الْقَوْمِ: چوری سے سنا۔ إِخْتَشَلُ الرَّجُلُ: فریب دینا۔ الخشل: چھینے کی جگہ۔ خرگوش کا سوراخ۔ الخوشل: خوش طبعی دانا مرو۔ الخشل: بڑا فریبی۔ مؤنث خَشَلَةٌ۔ خَشَلَةُ الرَّجُلِ خَشَلَةٌ: رہات کی طرف لگانا۔ خَشَلَمَ الشَّيْءُ: بخیہ طریقہ سے لینا۔ خَشَمَ (ض) خَشَمُوا خَشَمًا: الشَّيْءُ وَعَلِيهِ: مر لگانا۔ العمل: ختم کرنا۔ الكتاب: پوری پڑھ لینا۔ الاناة: مٹی و غیر وہ سے بند کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَشَمَ غَلْيَتَكَ</p>

ہے "طَلْعَتُهُ فِي خَيْفَةٍ بَطْلِيَّةٍ" اس نے اس کے بیڑوں پر نیزہ مارا۔ ج خفلات و خفلات: الخَيْفَةُ: موٹی عورت۔

خَهِيم (س) خَشَمًا: موٹی یا چوڑی ناک والا ہونا۔ صفت (خَهِيم و أَخْشَم) خَشِيمَتٌ أَخْشَافٌ النِّقَافَةُ: اونٹنی کے تھن کا بند ہونا۔

خَشَمَ (ن) خَشَمًا: آنفہ: پگھل رہا۔ خَشَمَ الشَّيْءَ: چوڑا کرنا۔

الخَيْفَةُ: ناک کی چوڑائی یا موٹائی۔ خَشَى (ض) خَشِيئًا: البقر: گویا کرنا۔ الجَفْنَى: گویا۔

خَيْفَةٌ (ن) خَيْفًا: ہٹانا۔ دفع کرنا الخَطْبُ: پھاڑنا۔ چیرنا۔ بوجلہ: پاؤں سے خاک اُڑانا۔ پَسْلَجُهُ: پانسٹانہ کرنا۔

سَاعُدُهُ: گھٹا ہوا ہونا۔ المرأة: جماع کرنا۔

اخْتَجَّ: الجمَلُ: بیچ کھاتے ہوئے تیردوڑنا۔ ریح (خَجْجُوج) تیز ہوا۔

خَجَجًا (ف) خَجَجًا: الزَّجْلُ: چھپ کے گھر میں داخل ہونا۔ اللَّيْلُ: ہارنا۔ المرأة: جماع کرنا۔

خَجَجِي (س) خَجَجًا: شرم کرنا۔ بیودہ کہنا۔ أَخْجَاهُ: سوال میں اصرار کرنا۔

تَخَجَّجًا: دیر لگانا۔ الخَيْفَةُ: موٹاؤست۔ بیوقوف۔ الخَجْجُ: کمالی کی بدبو۔

الخَجْجِيُّ: ہمت کھانے والا۔ بزول۔ الخَجْجُ: دامن پھاڑیں پائی بیٹنی کی آواز۔

الخَجْجُفُ: اوچھاپن۔ خَجَجَل (س) خَجَجَلًا: شرم سے سرگشتہ ہونے

خورد ہونا۔ صفت (خَجَجَل و خَجَجَلَان) الثَّوْبُ: کپڑے کے نیچے کا حصہ پھٹنا اور کشادہ ہونا۔

التَّبَاتُ: ہمت اور گنجائش ہونا۔ صفت (خَجَجَل) البَعِيرُ: بالحقفل: بوجھل ہونا

بِأَمْرِهِ: مشتبه ہونا۔ مِن كَثَدًا: نزع ہونا۔ فی طلب الرزق: ست ہونا۔

خَجَجَلُهُ وَاخْجَجَلُهُ: شرمندہ کرنا۔ وَاخْجَجَلُ التَّبَاتُ: لہذا و گنجائش ہونا۔ الخَجَجَلُ: شرم۔

خَجَجِي (ض) خَجَجِيئًا: العَرَابُ: بوجھلہ: پاؤں سے خاک اُڑانا۔ خَجَجِي (س) خَجَجِيًا: شرم کرنا۔

خَدَّ (ن) خَدًا: فِيهِ العُضْرُ: بدھی پڑنا۔ الارضُ: کھودنا۔ خَدَّدَ تَخْدِيئًا: لَحْمُهُ: ڈبلا ہو کر جھری پڑنا۔ لَحْمُهُ: ڈبلا کرنا۔

خَادَمَةٌ عَادَةٌ: کام میں مزاحم ہونا۔ تَخَادَدًا: ایک دوسرے کی مزاحمت کرنا۔ تَخَدَّدَ: لَحْمُهُ: لاغری سے جھری دار ہونا۔ القَوْمُ: فرقتے فرقتے ہونا۔

الخَدُّ: جموٹی نری۔ طریقہ۔ لہذا رکھا۔ لوگوں کی جماعت۔ ج أَخْدَةٌ وَاخْدَادٌ وَاخْدَانُ: الخَدْمِيُّ: الوجهُ: رخسارہ۔ ج خَدُّودُ: الخَدَّةُ: لہذا رکھا۔ ج خَدَّدَ: الأَخْدُودُ: لہذا رکھا۔ ج أَخْدَانِدُ: الأَخْدَانِدُ: کوڑے کے مارنے کے نشانات۔ اور اسی سے ہے أَخْدَانِدُ الأَرَشِيَّةِ فِي البَيْرِ: کونئیں میں رشی کھینچنے کے نشانات۔

المِخْدَةُ: چھوٹا ٹکیہ جس پر سوتے ہوئے رخسارہ رکھتے ہیں۔ سرانہ۔ ہل کا پھار۔ المِخْدَانُ: دونوں کچلیاں۔

خَدَبَ (ن) خَدَبًا: جموٹ ہونا۔ ہالسنیف: گوار سے مارنا۔ هَالْسِنِيَّةٌ: بڑھانا۔

تَخَدَّبَ: درمیاں چال چلانا۔ الخَدَبُ: لہائی۔ کہا جاتا ہے "لہی لہسانہ خدب" اس کی زبان میں اوچھاپن اور حماقت ہے۔

الخَدْبُ: بیوقوف۔ لہذا۔ جلد باز۔ سَيْفُ خَدْبٍ: گوار قاطع۔ طَعْنَةُ اوْحَرِيَّةٌ خَدِيبَةٌ وَاخْدَبَاءٌ: سخت یا کشادہ زخم والی نیزہ کی ہار۔

الخَدْبَةُ: لہائی۔ الخَدَابُ: پڑا جموٹ۔ دِزْعٌ (خَدْبَاءٌ) کشادہ

زردہ الخَدْبَاءُ: ہرودہ جانور جو کٹ کٹا ہوا۔ خَدَجَتْ (ن ض) خَدَجًا وَاخْدَجَتْ الدَابَّةُ: ناتمام پتہ کرنا۔ صفت (اخداج و مُخْدَجٌ) و صفت مفعولی خَدِيبٌ و خَدُّوْجٌ و مُخْدَجٌ (ج) اور خَدُّوْجٌ کی جمع خَدُّوْجٌ و خَدَجٌ و خَدَائِجٌ۔ أَخْدَجَ الشَّيْءَ: گھٹنا۔ صلواتہ نمازیں کچھ کی کرنا۔

خَدَجَتْ النِّقَافَةُ: ناتمام پتہ کرنا۔ الخَدَجُ: نقصان۔ خَدِرَ (س) خَدَرًا: العَضْوُ: سُن ہونا۔ العَيْنُ: غارش یا جھکا پڑ جانے کی وجہ سے آنکھ کا بھاری ہونا۔ الخَدْرُ: البُزْبُ: سخت ہونا۔ النِّهَازُ: ہوا بند اور تیز گرمی ہونا۔

خَدِرَ (ن) خَدَرًا: تھمیر ہونا۔ الطَّبِيُّ: ریوڑ سے پیچھے رہ جانا۔ الأَسَدُ فِي عَرِينِهِ: ماند میں رہنا۔ بالمكان: اقامت کرنا۔ وَخَدِرَ وَاخْدَرَنَ: النِّبْتُ: پردہ میں رکھنا۔ خَدِرَ وَاخْدَرَنَ العَضْوُ: سُن و بے حس کرنا۔ أَخْدَرُ: بالمكان: اقامت کرنا۔ مع اہلہ: اپنے لوگوں کے ساتھ قیام کرنا۔ الأَسَدُ: جھاڑی میں رہنا۔ الأَسَدُ عَرِينُهُ: کچھار کا شیر کو چھاپنا۔

تَخَدَّرَ وَاخْتَدَرَ: چھپنا۔ الخَادِرُ: ست کمال۔ حیران۔ الخَدِرُ: پردہ جو لڑکی کے لیے مکان کے گوشے میں لگا دیا جائے۔ لڑکی کیلئے مکان کا مخصوص حصہ۔ شیر کی جھاڑی۔ رات کی تاریکی ج أَخْدَارٌ وَاخْدَارٌ: ج أَخْدَارٌ۔ الخَدَرُ: عَضْوٌ بے حس۔ کالی، سستی۔ تاریکی۔ اندھیری جگہ۔ الخَدِيرُ: بے حس عضو والا۔ لَيْلٌ خَدِيرٌ: تاریک رات۔ مکان خَدِيرٌ: پوشیدہ اندھیری جگہ۔ نہاڑ خَدِيرٌ: ہنناک دن۔ الخَدَلُ: شیر کی جھاڑی۔ الخَدْرَةُ: سخت تاریکی۔ الأَخْدَرُ: الخَدْرِيُّ: کالا ہول۔ الخَدَارِيَّةُ: عقب۔

خَدَجَتْ (ن ض) خَدَجًا وَاخْدَجَتْ الدَابَّةُ: ناتمام پتہ کرنا۔ صفت (اخداج و مُخْدَجٌ) و صفت مفعولی خَدِيبٌ و خَدُّوْجٌ و مُخْدَجٌ (ج) اور خَدُّوْجٌ کی جمع خَدُّوْجٌ و خَدَجٌ و خَدَائِجٌ۔ أَخْدَجَ الشَّيْءَ: گھٹنا۔ صلواتہ نمازیں کچھ کی کرنا۔

خَدَجَتْ النِّقَافَةُ: ناتمام پتہ کرنا۔ الخَدَجُ: نقصان۔ خَدِرَ (س) خَدَرًا: العَضْوُ: سُن ہونا۔ العَيْنُ: غارش یا جھکا پڑ جانے کی وجہ سے آنکھ کا بھاری ہونا۔ الخَدْرُ: البُزْبُ: سخت ہونا۔ النِّهَازُ: ہوا بند اور تیز گرمی ہونا۔

خَدِرَ (ن) خَدَرًا: تھمیر ہونا۔ الطَّبِيُّ: ریوڑ سے پیچھے رہ جانا۔ الأَسَدُ فِي عَرِينِهِ: ماند میں رہنا۔ بالمكان: اقامت کرنا۔ وَخَدِرَ وَاخْدَرَنَ: النِّبْتُ: پردہ میں رکھنا۔ خَدِرَ وَاخْدَرَنَ العَضْوُ: سُن و بے حس کرنا۔ أَخْدَرُ: بالمكان: اقامت کرنا۔ مع اہلہ: اپنے لوگوں کے ساتھ قیام کرنا۔ الأَسَدُ: جھاڑی میں رہنا۔ الأَسَدُ عَرِينُهُ: کچھار کا شیر کو چھاپنا۔

تَخَدَّرَ وَاخْتَدَرَ: چھپنا۔ الخَادِرُ: ست کمال۔ حیران۔ الخَدِرُ: پردہ جو لڑکی کے لیے مکان کے گوشے میں لگا دیا جائے۔ لڑکی کیلئے مکان کا مخصوص حصہ۔ شیر کی جھاڑی۔ رات کی تاریکی ج أَخْدَارٌ وَاخْدَارٌ: ج أَخْدَارٌ۔ الخَدَرُ: عَضْوٌ بے حس۔ کالی، سستی۔ تاریکی۔ اندھیری جگہ۔ الخَدِيرُ: بے حس عضو والا۔ لَيْلٌ خَدِيرٌ: تاریک رات۔ مکان خَدِيرٌ: پوشیدہ اندھیری جگہ۔ نہاڑ خَدِيرٌ: ہنناک دن۔ الخَدَلُ: شیر کی جھاڑی۔ الخَدْرَةُ: سخت تاریکی۔ الأَخْدَرُ: الخَدْرِيُّ: کالا ہول۔ الخَدَارِيَّةُ: عقب۔

خَدِرَ (س) خَدَرًا: العَضْوُ: سُن ہونا۔ العَيْنُ: غارش یا جھکا پڑ جانے کی وجہ سے آنکھ کا بھاری ہونا۔ الخَدْرُ: البُزْبُ: سخت ہونا۔ النِّهَازُ: ہوا بند اور تیز گرمی ہونا۔

خَدِرَ (ن) خَدَرًا: تھمیر ہونا۔ الطَّبِيُّ: ریوڑ سے پیچھے رہ جانا۔ الأَسَدُ فِي عَرِينِهِ: ماند میں رہنا۔ بالمكان: اقامت کرنا۔ وَخَدِرَ وَاخْدَرَنَ: النِّبْتُ: پردہ میں رکھنا۔ خَدِرَ وَاخْدَرَنَ العَضْوُ: سُن و بے حس کرنا۔ أَخْدَرُ: بالمكان: اقامت کرنا۔ مع اہلہ: اپنے لوگوں کے ساتھ قیام کرنا۔ الأَسَدُ: جھاڑی میں رہنا۔ الأَسَدُ عَرِينُهُ: کچھار کا شیر کو چھاپنا۔

تَخَدَّرَ وَاخْتَدَرَ: چھپنا۔ الخَادِرُ: ست کمال۔ حیران۔ الخَدِرُ: پردہ جو لڑکی کے لیے مکان کے گوشے میں لگا دیا جائے۔ لڑکی کیلئے مکان کا مخصوص حصہ۔ شیر کی جھاڑی۔ رات کی تاریکی ج أَخْدَارٌ وَاخْدَارٌ: ج أَخْدَارٌ۔ الخَدَرُ: عَضْوٌ بے حس۔ کالی، سستی۔ تاریکی۔ اندھیری جگہ۔ الخَدِيرُ: بے حس عضو والا۔ لَيْلٌ خَدِيرٌ: تاریک رات۔ مکان خَدِيرٌ: پوشیدہ اندھیری جگہ۔ نہاڑ خَدِيرٌ: ہنناک دن۔ الخَدَلُ: شیر کی جھاڑی۔ الخَدْرَةُ: سخت تاریکی۔ الأَخْدَرُ: الخَدْرِيُّ: کالا ہول۔ الخَدَارِيَّةُ: عقب۔

خَدِرَ (س) خَدَرًا: العَضْوُ: سُن ہونا۔ العَيْنُ: غارش یا جھکا پڑ جانے کی وجہ سے آنکھ کا بھاری ہونا۔ الخَدْرُ: البُزْبُ: سخت ہونا۔ النِّهَازُ: ہوا بند اور تیز گرمی ہونا۔

خَدِرَ (ن) خَدَرًا: تھمیر ہونا۔ الطَّبِيُّ: ریوڑ سے پیچھے رہ جانا۔ الأَسَدُ فِي عَرِينِهِ: ماند میں رہنا۔ بالمكان: اقامت کرنا۔ وَخَدِرَ وَاخْدَرَنَ: النِّبْتُ: پردہ میں رکھنا۔ خَدِرَ وَاخْدَرَنَ العَضْوُ: سُن و بے حس کرنا۔ أَخْدَرُ: بالمكان: اقامت کرنا۔ مع اہلہ: اپنے لوگوں کے ساتھ قیام کرنا۔ الأَسَدُ: جھاڑی میں رہنا۔ الأَسَدُ عَرِينُهُ: کچھار کا شیر کو چھاپنا۔

تَخَدَّرَ وَاخْتَدَرَ: چھپنا۔ الخَادِرُ: ست کمال۔ حیران۔ الخَدِرُ: پردہ جو لڑکی کے لیے مکان کے گوشے میں لگا دیا جائے۔ لڑکی کیلئے مکان کا مخصوص حصہ۔ شیر کی جھاڑی۔ رات کی تاریکی ج أَخْدَارٌ وَاخْدَارٌ: ج أَخْدَارٌ۔ الخَدَرُ: عَضْوٌ بے حس۔ کالی، سستی۔ تاریکی۔ اندھیری جگہ۔ الخَدِيرُ: بے حس عضو والا۔ لَيْلٌ خَدِيرٌ: تاریک رات۔ مکان خَدِيرٌ: پوشیدہ اندھیری جگہ۔ نہاڑ خَدِيرٌ: ہنناک دن۔ الخَدَلُ: شیر کی جھاڑی۔ الخَدْرَةُ: سخت تاریکی۔ الأَخْدَرُ: الخَدْرِيُّ: کالا ہول۔ الخَدَارِيَّةُ: عقب۔

خَدِرَ (س) خَدَرًا: العَضْوُ: سُن ہونا۔ العَيْنُ: غارش یا جھکا پڑ جانے کی وجہ سے آنکھ کا بھاری ہونا۔ الخَدْرُ: البُزْبُ: سخت ہونا۔ النِّهَازُ: ہوا بند اور تیز گرمی ہونا۔

خَدِرَ (ن) خَدَرًا: تھمیر ہونا۔ الطَّبِيُّ: ریوڑ سے پیچھے رہ جانا۔ الأَسَدُ فِي عَرِينِهِ: ماند میں رہنا۔ بالمكان: اقامت کرنا۔ وَخَدِرَ وَاخْدَرَنَ: النِّبْتُ: پردہ میں رکھنا۔ خَدِرَ وَاخْدَرَنَ العَضْوُ: سُن و بے حس کرنا۔ أَخْدَرُ: بالمكان: اقامت کرنا۔ مع اہلہ: اپنے لوگوں کے ساتھ قیام کرنا۔ الأَسَدُ: جھاڑی میں رہنا۔ الأَسَدُ عَرِينُهُ: کچھار کا شیر کو چھاپنا۔

تَخَدَّرَ وَاخْتَدَرَ: چھپنا۔ الخَادِرُ: ست کمال۔ حیران۔ الخَدِرُ: پردہ جو لڑکی کے لیے مکان کے گوشے میں لگا دیا جائے۔ لڑکی کیلئے مکان کا مخصوص حصہ۔ شیر کی جھاڑی۔ رات کی تاریکی ج أَخْدَارٌ وَاخْدَارٌ: ج أَخْدَارٌ۔ الخَدَرُ: عَضْوٌ بے حس۔ کالی، سستی۔ تاریکی۔ اندھیری جگہ۔ الخَدِيرُ: بے حس عضو والا۔ لَيْلٌ خَدِيرٌ: تاریک رات۔ مکان خَدِيرٌ: پوشیدہ اندھیری جگہ۔ نہاڑ خَدِيرٌ: ہنناک دن۔ الخَدَلُ: شیر کی جھاڑی۔ الخَدْرَةُ: سخت تاریکی۔ الأَخْدَرُ: الخَدْرِيُّ: کالا ہول۔ الخَدَارِيَّةُ: عقب۔

خَدِرَ (س) خَدَرًا: العَضْوُ: سُن ہونا۔ العَيْنُ: غارش یا جھکا پڑ جانے کی وجہ سے آنکھ کا بھاری ہونا۔ الخَدْرُ: البُزْبُ: سخت ہونا۔ النِّهَازُ: ہوا بند اور تیز گرمی ہونا۔

خَدِرَ (ن) خَدَرًا: تھمیر ہونا۔ الطَّبِيُّ: ریوڑ سے پیچھے رہ جانا۔ الأَسَدُ فِي عَرِينِهِ: ماند میں رہنا۔ بالمكان: اقامت کرنا۔ وَخَدِرَ وَاخْدَرَنَ: النِّبْتُ: پردہ میں رکھنا۔ خَدِرَ وَاخْدَرَنَ العَضْوُ: سُن و بے حس کرنا۔ أَخْدَرُ: بالمكان: اقامت کرنا۔ مع اہلہ: اپنے لوگوں کے ساتھ قیام کرنا۔ الأَسَدُ: جھاڑی میں رہنا۔ الأَسَدُ عَرِينُهُ: کچھار کا شیر کو چھاپنا۔

تَخَدَّرَ وَاخْتَدَرَ: چھپنا۔ الخَادِرُ: ست کمال۔ حیران۔ الخَدِرُ: پردہ جو لڑکی کے لیے مکان کے گوشے میں لگا دیا جائے۔ لڑکی کیلئے مکان کا مخصوص حصہ۔ شیر کی جھاڑی۔ رات کی تاریکی ج أَخْدَارٌ وَاخْدَارٌ: ج أَخْدَارٌ۔ الخَدَرُ: عَضْوٌ بے حس۔ کالی، سستی۔ تاریکی۔ اندھیری جگہ۔ الخَدِيرُ: بے حس عضو والا۔ لَيْلٌ خَدِيرٌ: تاریک رات۔ مکان خَدِيرٌ: پوشیدہ اندھیری جگہ۔ نہاڑ خَدِيرٌ: ہنناک دن۔ الخَدَلُ: شیر کی جھاڑی۔ الخَدْرَةُ: سخت تاریکی۔ الأَخْدَرُ: الخَدْرِيُّ: کالا ہول۔ الخَدَارِيَّةُ: عقب۔

<p>اِخْتَدَمَ - اپنی خدمت کرنا _____ ہ : خادم مانگنا۔ خادم بنانا۔</p> <p>اِسْتَخْدَمَهُ - خادم بنانا _____ الرجل : خادم مانگنا۔</p> <p>الخَدَمَةُ - وقت خواہدن کا ہواہرات کا۔</p> <p>الخَدَمَةُ پازیب۔ بیڑی۔ لوگوں کا حلقہ۔ کہا جاتا ہے۔ "فَصَّ اللَّهُ خَدَمَتَهُمْ" اللہ ان کی جماعت کو متفرق کر دے۔</p> <p>(_____ والخَدَمَةُ) حلقہ کی مانند مضبوط چیزے کا مونا تمہ جس کو اونٹ کے گئے پر باندھا جاتا ہے۔ ج خَدَمٌ و خَدَامٌ و خَدَمَاتٌ۔</p> <p>الخَدَامِيَّةُ - نوکری۔</p> <p>الخَدْمَةُ وَبِيَّةٌ - آقا کی۔</p> <p>الخَدَامُ - نوکر۔</p> <p>الخَدِيمُ - نوکر۔ غلام۔</p> <p>الْأَخْدَمُ - گھوڑا جس کے پیر کی سفیدی کم ہو کر کھر کے کچھ اوپر گول سا ہو۔ مؤنث خَدَمَاءٌ۔ الخَدَمَاءُ : بکری جس کی ایک ٹانگ سفید اور باقی سیاہ ہوں۔</p> <p>الْمَخْدُومُ - غم آقا۔ مولیٰ۔ كِتَابٌ مَخْدُومٌ : وہ کتاب جس کی بکھرت شروع و خواتمی ہوں۔</p> <p>الْمَخْدُومُ وَالْمَخْدُومَةُ - پازیب پسننے کی جگہ۔</p> <p>تمہ۔ عورت کے پاجامہ میں نیچے باندھنے کا رھاگا۔ قوم مَخْدُومُونَ : بہت نوکر چاکر والے لوگ۔</p> <p>خَادِمَةٌ مَخْدُومَةٌ - دوستی کرنا۔ ساتھی بننا۔</p> <p>الخَدْمَنُ - دوست۔ یار ساتھی (فکر و مؤنث) ج اخْدَانٌ۔</p> <p>الخَدْمِيْنُ - دوست یار ساتھی۔</p> <p>الخَدْمَةُ - لوگوں سے بہت دوستی کرنے والا۔</p> <p>خَدَى - (ض) خَدَيَا و خَدَيَاتَا - الفرض ام البعير : تیز دوڑنا۔</p> <p>أَخْدَى - اخْدَاءٌ - آہستہ آہستہ چلنا۔</p> <p>الخَدَا - کیرا جو گوبر میں سے نکلتا ہے۔ واحد (خَدَاةٌ)</p> <p>الخَدْيُ بِيئٌ - عزیز معر کا لقب۔ فارسی لفظ ہے بمعنی بادشاہ۔ وزیر۔ سردار۔</p> <p>خَدَا و خَدَى (س) خَدَا و خَدَوَةٌ او خَدَاةٌ</p>	<p>الخُدْعَةُ وَالخُدَاعُ وَالخَيْدَعُ - بہت دھوکا دینے والا۔ سَنَّةٌ خُدَاعَةٌ : کم بید اور والا سال۔</p> <p>الخُدَاعُ - ظاہری طریق خُدَاعٌ - راستہ جو بھی ظاہر ہو اور کبھی پوشیدہ ہو جائے۔ دینار خُدَاعٌ : گھوٹا رہتا۔</p> <p>الخُدَاعَةُ - مؤنث۔ بڑے دروازہ میں چھوٹا دروازہ۔ مکان کے اندر کو ٹھری۔</p> <p>الأخْدَعُ - اسم تفضیل۔ الأخْدَعَانُ : گردن کی دونوں پہلوؤں پر دو پوشیدہ رگوں کا نام اور کہا جاتا ہے "لَا يَمِينُ أَخْدَاعِيكَ" میں تمہارے تکبر کو زور کروں گا۔ "فَلَانٌ شَدِيدُ الأَخْدَعِ" فلاں بڑا گردن کش ہے۔ ج أَخْدَاعٌ۔</p> <p>الخَيْدَعُ - وہ شخص جس کی دوستی پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ راستہ جو مقصد کے مخالف ہو۔ چمکتی ہوئی ریت۔ فریب دینے والا بھیرا۔</p> <p>الخُدُوعُ - بہت فریب دینے والا۔</p> <p>ظَلَمٌ خُدُوعٌ : راستہ جو بھی ظاہر اور کبھی پوشیدہ ہو جائے۔ ج خُدُوعٌ۔</p> <p>المُخْدَعُ وَالْمُخْدَعُ وَالْمُخْدَعُ - کو ٹھری جو بڑے کھر کے اندر ہو۔ ج مَخْدَاعٌ۔</p> <p>المُخْدَعُ - تجربہ کار جو بار بار دھوکا کھا چکا ہو۔</p> <p>الخُدْعُوْلَةُ - کدو کا ٹکڑا۔</p> <p>خَدَفٌ (ض) أَخْدَفًا - تیز چلنا۔</p> <p>خَدَفَتِ السَّمَاءُ بِالنَّجْمِ - برف گرانا (_____ وَاخْتَدَفَ الشَّيْءُ : اچک لینا۔</p> <p>الخُدْفُ - بہ۔ کشتی کا پتار۔</p> <p>الخَدْفُ - پڑانے کی پڑے۔</p> <p>خَدْفَلٌ - پڑانے کا پھنسا۔</p> <p>الخَدْفَالُ - پڑانے کی پڑے (اس کا واحد خَدْفَالٌ) خَدَلَتْ (س) خَدَلًا و خَدَالَةً و خَدْوَلَةً۔</p> <p>السَّاقُ - بزرگوشٹ ہونا۔</p> <p>سَاقٌ خَدَلَةٌ - بزرگوشٹ بیڑی۔</p> <p>خَدَمَهُ (ض) ان خِدْمَةً و خِدْمَةً - خدمت کرنا۔ صفت (خادم) ج خَدَامٌ و خَدَمٌ - مؤنث خادم و خَادِمَةٌ۔</p> <p>أَخْدَمَةٌ - خادم رہتا۔</p> <p>خَدَمٌ - الرجل امرأَةٌ - پازیب پسانا۔</p> <p>تَخْدَمَةٌ - خدمت لینا۔ خادم پسانا۔</p>	<p>الأخْدَرُ وَالخُدْرِيُّ وَالْأخْدَرِيُّ - ایک قسم کا جنگلی گدھا۔</p> <p>هَوْدَجٌ (مخْدُورٌ) پر وہ پڑا ہوا ہو۔</p> <p>الخُدْرِيُّ - کڑی۔</p> <p>الخُدْرِيُّ - نر کڑی۔ اور بقول بعض بڑی کڑی۔ ج خَدَارِيْنُ۔</p> <p>خَدَشَةٌ (ض) خَدَشًا و خَدَشَهُ - خراش لگانا۔ کٹڑے کٹڑے کرنا۔ عیب لگانا۔</p> <p>الخَدَشُ - بہ۔ خراش۔ ج خُدُوشٌ و خِدَاشٌ وَاخْدَاشٌ۔</p> <p>الخُدُوشُ - بہت خراش لگانے والا۔ پیو۔ کبھی۔</p> <p>المُخْدِشُ وَالْمُخْدِشُ - بلی۔</p> <p>المُخْدِشُ - انسان کی گردن میں کٹنے کی جگہ۔</p> <p>خَدَعَهُ (ف) خَدَعًا و خَدَعًا - دھوکا دینا۔</p> <p>فَرِيْبٌ رَيْتَا _____ الضَّبُّ فِي خُجْرِهِ : داخل ہونا _____ المعطَّرُ : کم ہونا _____ الرَّجُلُ : کم مال والا ہونا۔ داد و دہش سے رکتا _____ السوقُ : بازار کا نام پڑتا۔ رائج ہونا (ضد) _____ الامورُ : مختلف ہو جانا _____ الشمسُ : غائب ہونا _____ الطَّرِيقُ : غیر معلوم ہونا۔</p> <p>_____ الشَّيْءُ : خراب ہونا _____ الثَّوْبُ : موڑنا۔</p> <p>_____ الرَّجُلُ : اخْدَعُ رُكْ كَاثِرِيَا۔</p> <p>أَخْدَعَهُ - دغا بازی پر آسانا _____ الشَّيْءُ : چھپانا پوشیدہ کرنا۔</p> <p>خَادِعَةٌ مَخْدَاعَةٌ و خِدَاعًا وَاخْتَدَعَهُ و تَخْدَعَهُ - دھوکا دینا۔ خَادِعٌ الْعَيْنُ : دیکھی ہوئی چیز میں شک ڈالنا۔ تَخْدَعُكَ : بتکلف مدد کرنا۔</p> <p>تَخَادَعٌ - فریب خوردہ ظاہر کرنا _____ القومُ : ایک دوسرے کو فریب دینا۔</p> <p>إِنْخَدَعٌ - فریب خوردہ ہونا۔ دھوکے پر راضی ہونا _____ يَهْ : دھوکا کھا جانا _____ السوقُ : بازار کا نام پڑ جانا۔</p> <p>الخَدِيْبَةُ - ج خَدَائِعٌ و (الخُدْعَةُ وَالخِدَاعُ) فریب۔ دھوکا۔ کھوجیلہ۔</p> <p>الخُدْعَةُ - لوگوں کو دھوکا دینے والا۔</p>
---	---	--

خَذَف

خَدِم

خَرِب

۱۹۲

وَاسْتَخَذَ أَلَهُ: فروتنی کرنا۔ تابعدار ہونا۔

أَخَذَهُ: زبیل کرنا۔ تالچ بنانا۔

الْخَذَأُ: نس کی کمزوری۔

تَخَذَلْنَ (خَذَلْنَ): خذیلنا۔ الجرح: پیپ برنا۔

الْخَذْرَةُ: پھرکی۔

تَخَذُوفٌ: جلدی چلنا۔ ءُبالسيف: جسم

کے اطراف کانٹا۔ الاناء: بھرتا۔

تَخَذَرَفَتْهُ: النوى: پھینک دینا۔ تَخَذَرَفَ

الثوبُ: پھٹنا۔

الْخَذْرُوفُ: تیز چلنے والا۔ پھرکی۔

اس کو خُزْرَاہ بھی کہتے ہیں۔ اونٹوں کا گلہ۔ اونٹ

جو گلہ سے علیحدہ ہو گیا ہو۔ "تَرَكَتِ السِّيُوفُ

وَأَمْسَهُ خَذًا رَيْفٌ" کھاروں نے اس کے سر کو

کھلے کر دیا۔ رجلٌ (مُتَخَذِرُوفٌ) ایسے اخلاق

والا مرد۔

خَذَعٌ (ف) خَذَعًا وَخَذَعٌ: اللحم او

القرع: بغیر مدائکے ہوئے قاشیں تراشنا۔

تَخَذَعٌ: کٹنا۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبُوا خِذَعِ

وِإِذَعِ" لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔

الْخَذْعَةُ: زمین وغیرہ کا کھلا۔

الْخَذْيَةُ: ایک قسم کا کھانا جو تیرہ سے تیار کیا

جاتا ہے۔

المِخْذَعَةُ: چھری۔

الْمِخْذَعُ: عیب۔

خَذَعَبٌ وَخَذَعَلٌ: البَلْبَلُغُ وَنَحْوُهُ:

پھانسیں کرنا۔

الْخَذْعُوثَةُ وَالْخَذْعُوثَةُ: پھانک۔ قاش۔

خَذَفٌ (ض) خَذَفًا: بالخصاصة ونحوها:

انگلیوں سے پھینکنا۔ گرجھن سے پھینکنا۔

تَخَذَفْتُ: عیناہ بالدموع: جلدی آنسو

بنانا۔

الْخَذَالَةُ: دیر۔

المِخْذَفَةُ: گوجھن۔ غلیل۔

الْخَذُوفُ: مِنَ الدَّوَابِّ: تیز رفتار جانور جو

دوڑنے میں کھری اڑائے جو چلنے میں پیروں کو

پیٹ تک اٹھائے۔ ج خَذُوفٌ۔

الْخَذَالَانُ: تیز رفتاری۔

خَذَقٌ (ن) ض) خَذَقًا: الدابة: تیز چلنے کیلئے

چھوٹا۔ البازي: بیٹ کرنا۔

الْخَلْقُ: گوبر۔ لید۔

تَخَذَلْنَ (ن) خَذَلًا وَخَذَلًا نَاوُ خَذَلْنَا: فلانناو

عنه: مرد چھوڑنا۔ صفت (خَذِلٌ) ج خَذَلَالٌ۔

صفت مفعولی (مَخْذُولٌ) ج مَخْذُولٌ: خذلت

الطَّبِيئَةُ: برابوڑے علیحدہ ہو جانا۔ صفت (خَذِيلٌ وَ

خَذُولٌ)

تَخَذَلْ عَنْهُ أَضْحَابُهُ: مرد چھوڑنے پر آگستا۔

ه: ہسپالی اور ترک جنگ پر آمادہ کرنا۔

تَخَذَلْتُمْ خَذَلْتُمْ: مرد چھوڑنا۔

تَخَذَلْنَ: القومُ: باہم مرد چھوڑنا۔ وَجَلَاهُ:

ٹانگوں کا کمزور ہونا۔

الْخَذَالُ: زیادہ مرد چھوڑنے والا۔

الْخَذَلَةُ: وہ شخص جس کی مدد ہمیشہ چھوڑ دی

جاتے۔

الْخَذُولُ: بہت مرد چھوڑنے والا۔

رجلٌ خَذُولٌ الرَجُلُ: وہ مرد جس کی ٹانگوں نے

کمزوری یا کسی آفت یا شرکی وجہ سے جواب دے

دیا ہو۔

خَذَمٌ (ض) خَذَمًا وَخَذَمٌ: الشئُ: جلدی سے

کانٹا۔

خَذِمَ (س) خَذَمًا: نشہ میں ہونا۔ صفت

(خَذِيمٌ) کٹنا۔

خَدِمَ (س) خَذَمًا: تیز چلنا۔ کھلے کھلے

ہونا۔

أَخَذَمَ: زلت کا اقرار کرنا۔ ه الشرابُ:

مست کروانا۔

تَخَذَمَ الشئُ: کھلے کھلے ہونا۔

الشئُ: کلف سے کانٹا۔

إِخْتَذَمَ: طالع ہونا۔ الشئُ: کانٹا۔

الْخَذْمُ ج خَذَمٌ وَ (الْخَذِمُ وَ الْمِخْذَمُ

وَ الْمِخْذَمُ)۔ مِنَ السِّيُوفِ: کاشے والی

کھوار۔

الْخَذَامَةُ: چیز کا کھلا۔

المِخْذَمُ: کاشے کا دوزار۔

خَذَا (ن) خَذَا وَ خَذِي (س) خَذِي وَ هِيْلًا

ہونا۔ لَحْمُهُ: گھسا ہونا۔ الاذنُ: کانٹا

ہوا ہونا۔

إِسْتَخَذَنِي: تابعدار ہونا۔ فرمانبردار ہونا۔

الْأَخَذِيُّ: ڈھیلے کان والا۔ الاذنُ (خَذْوَاءٌ) کھلے

ہونے کان۔

خُزْرَانٌ (ض) خُزْرَانًا: المَاءُ وَ الرِيحُ: پانی کے

پہننے اور ہوا کے چلنے میں آواز ہونا۔ صفت

(خُزْرَانٌ) النَّايِمُ: خراسا لے لیا۔

خُزْرَانٌ (ض) خُزْرَانًا وَ خُزْرَانًا: اوپر سے نیچے گرنا

خُزْرًا لِلَّهِ سَاجِدًا: سجدہ میں گر پڑنا۔

لِيُوجِبَهُ كَرَمًا۔ الرَّجُلُ: مرنا۔

عليه: غیر معلوم جگہ سے اچانک آ پڑنا۔

أَخْرَجَهُ أَخْرَاجًا: گرانہ۔ کہا جاتا ہے "مَضْرَبَةٌ

بِالشَّيْبِ فَأَخْرَجَهُ" اس نے اسے کھوار مار کر گرا

دیا۔

إِنْخَرَّ: ڈھیلا ہونا۔

الخُزْرُ: کان کی جڑ۔ زمین کا وہ حصہ جس میں

سیلاب شگاف ڈال دے۔ ج حِجْرَةٌ

(۔ وَالْخُزْرِيُّ) بچل کا سوراخ۔

الخُزُورُ: بلی کی آواز۔ جگہ جس میں پانی اور

گڑھے ہوں۔

الخُرَيْرُ: مد۔ سونے والے کا خراٹا۔ دو ٹیلوں

کے درمیان پست جگہ۔ ج أَخْرَجَةٌ۔

الخُرَّارُ: بہت خراسا لے لینے والا۔ مؤنث

خُرَّارَةٌ: الخُرَّارَةُ: پھرکی۔

خُرَيْيٌ (س) خُرَاً وَ خِرَاءَةً وَ خُرَّاءَةً

وَ خُرُوءًا: پانسٹانہ کرنا۔ بیٹ کرنا۔ کہا جاتا ہے

"خُرَيْيٌ يَتَّبِعُهُمُ الضَّبُّ" یعنی ان کے درمیان

دشمنی ہو گئی۔

الخُرَّاءُ: ج خُرُوءٌ وَ (الخِرَاءُ) پلیدی۔ پانسٹانہ۔

بیٹ۔

الْمَخْرَاقَةُ وَ الْمَخْرَاقَةُ وَ الْمَخْرَاقَةُ: پانسٹانہ کی

جگہ۔ ج مَخْرَاقٌ۔

خُرِبٌ (س) خُرْبًا وَ خُرَابًا: البيئُ: آجاڑ

ہونا۔ صفت (خُرِبٌ) مؤنث خُرْبَةٌ۔ (۔

خُرْبَانًا) الرَّجُلُ: پھٹے ہوئے یا چمڈے ہوئے

کان والا ہونا۔ صفت (أَخْرَبٌ) مؤنث خُرْبَاءُ۔

ج خُرْبٌ۔

خُرْبَةٌ (ض) خُرْبَانًا: ڈھانا۔ ہلاک کرنا۔ پھاڑنا۔

سوراخ کرنا۔

<p>کرتی ہیں۔ اس کا مفرد تُخْرِبُ (مخرب) نخرانہ (بناؤں) ہے۔ الخنزیر۔ کھانا ہمارا اور وہ۔ الخنزیر۔ خنزیر۔ ارض (خنزیرینس) سخت زمین۔ کہا جاتا ہے ”هو ما یفیلک خنزیرینسا“ وہ کسی چیز کا مالک نہیں۔ خنزیرینس خنزیرینسہ کتاب او العمل بگاڑنا۔ خنزیرینس۔ الخیظ۔ خنزیر بگاڑی گئی ہو۔ خنزیرینس۔ الاشیاء۔ الگ الگ کرنا المال۔ لے کر چھینا ہوا۔ الخنزیرینس۔ خنزیر پر گوشت عورت۔ خنزیرینس۔ چلنے میں جلدی کرنا۔ الشقی۔ کلے کلے کرنا۔ العمل بگاڑنا۔ الثوب۔ بھاڑنا۔ البیت۔ ایک دوسرے سے متعلق ہونا۔ الخنزیرینس۔ ایک قسم کی گھاس جس کی پتیاں بارگھ کے مشابہ ہوتی ہے اور وہ قسم کی ہوتی ہیں سیاہ و سفید۔ الخنزیرینس۔ سرخ گھاس۔ زمین سے پھینکا۔ خورت (ان) خورتا۔ الأذن۔ سوراخ کرنا۔ الارض۔ راستوں سے واقف ہونا۔ خورت (اس) خورتا۔ ہوشیار رہا ہونا۔ الخورت و الخورت۔ سوئی وغیرہ کا سوراخ۔ کہا جاتا ہے ”أخزنی من خورت الإیوة“ و ”أخزنی الفؤد فی خورت الفاس“ سینہ کے نزدیک ایک چھوٹی ہڈی۔ ج خورتات و خورتات ذنب خورت: خورت بھڑکا۔ الخورت۔ ماہر راہر جو بھگن دیا ہوا کے عملی راستوں سے بھی واقف ہو۔ ج خورتات و خورتات۔ الخورت۔ واضح راستہ۔ الخورت۔ پھینے ہوئے کان یا ناک یا ہونٹ والا۔ الخورتاء۔ بڑی کوکھ والی اور ڈھیلے گوشت والی عورت۔ الخورتاء۔ سرخ چھوٹی۔ الخورتاء۔ رومی دگھلیا مسلمان۔ خورتین الکلام:</p>	<p>خورت (ض) خورائے و خورائے و خورتا و خورتا۔ چور ہونا۔ صفت (خورت) برج خورت۔ خورت۔ البیت۔ ویران کرنا۔ اذعاناً المزادۃ۔ سوراخ کرنا۔ الخورت۔ البیت۔ غیر آباد کرنا المکان۔ خالی ہونا۔ الخورت۔ الذؤذۃ الشجرۃ۔ سوراخ کرنا۔ الخورت۔ الرجل۔ مصیبت سے نجات دل ہونا۔ الیہ۔ مشتاق ہونا۔ الشقاء۔ سوراخ دار ہونا۔ الخورت۔ ویران جگہ۔ بھاڑنا یا ہر کو نکلا ہوا کنارہ۔ بزدل۔ کہا جاتا ہے ”هو خورت العظام“ یعنی اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں ہے۔ ”وهو خورت الخوف“ یعنی وہ خالی پیٹ ہوا ہے۔ ”وهو خورت الامانة“ یعنی وہ امانت دار نہیں ہے۔ رجل (خنزیرین) بزدل مرد۔ الخورت و الخورائے و الخورائے۔ سرین کا کھانا۔ سوئی کا ناک اور بوتل بعض ہر گول سوراخ جیسے کان کا سوراخ۔ ج خورت و خورتا و خورت۔ الخورت و الخورائے و الخورائے۔ چرواہے کا تھیلا۔ دین کی خرابی۔ الخورائے۔ چھٹی۔ عیب۔ لغزش۔ باعث شرم چیز۔ دینی خرابی۔ کہا جاتا ہے ”هو صاحب خورائے“ یعنی اس کے دین میں خرابی ہے اور اسی سے ہے ”لحمی اللہ اذنانا الی کل خورائے“ اللہ تعالیٰ لعنت کرے کہ اس نے ہم کو دین کی ہر خرابی کے قریب کر دیا۔ ”وما زآیتنا من فلان خورائے فی ذنوبہ“ ہم نے فلاں کے دین میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ ج خورتات۔ الخورائے و الخورائے۔ ویران جگہ۔ ج خورتات و خورت و خورت و خورتا و الخورائے۔ چور کی صفت۔ الخورت۔ ویران۔ ج خورتا و خورت۔ خورتا و خورائے۔ الخورائے۔ سوئی کا ناک۔ الخورت و الخورت۔ ایک درخت کا نام و احد خورتا و خورتا۔ الخورت۔ بزدلوں کے چمٹے کے سوراخ۔ شہد کے چمٹے کے سوراخ جس میں کھیاں شہد جمع</p>
--	---

الخُرْج - مقلعة الخاء : تبن کا محصول۔
 جزیرہ ج الخُرْج و آخر جة و ج اخاريج۔
 الخُرْج - پھوڑا پھنسی۔ واحد (خُرْجَة) ج
 خُرْجَات۔
 خُرْج و لَاج و خُرْجَة و لُجَة بہت نکلنے
 والا۔ بہت داخل ہونے والا۔ بڑا ہوشیار۔ جیلہ گر۔
 الخارِج - ہر چیز کا ظاہر۔ نکلنے والا۔
 الخَارِجَة - الخارج کا مؤنث۔ ج
 خَارِجَات و خَوَارِج - الخَوَارِج : باقی لوگ۔
 جماعت سے نکلے ہوئے لوگ۔
 الخَارِجِي - بیرونی۔ وہ شخص جو بذات خود
 سرداری حاصل کرے بغیر اس کے کہ پہلے سے
 اس کے خاندان میں سرداری ہو یا ایسا شخص جو
 ڈیر اور باپ اس کا بزدل ہو اور اسی طرح اس
 گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے جو سابق ہو جائے اور
 اس کے ماں باپ ایسے نہ ہوں۔ بادشاہ کا باغی۔
 جماعت کا مخالف۔ مذہب خوارج کا مستحق۔
 الخَارِجِيَّة - الخارِجی کا مؤنث۔ وہ منصب
 جس کے تعلقات دوسری حکومتوں سے ہوں۔
 المَخْرَج و المَخْرِج و المَشْخَرَج - تربیت
 یافتہ۔
 المَخْرُوج - مد۔ یوم الخروج۔ عید کا دن۔
 قیامت کا دن۔
 المَخْرَج - مد۔ نکلنے کی جگہ۔ پانچواں مقام۔ ج
 مَخَارِج - و المَخْرُوج عند الفراء
 و الصرفین : منہ سے نکلنے کی جگہ۔
 المَخْرَج - منہ نکلنے کی جگہ۔
 خُرْج - التام : خراٹے لینا۔ النَمْرُؤ
 البَسْمُؤر : آواز کرنا۔
 خُرْج - بطنہ : بڑے ہونے کی وجہ سے
 پتہ کا پتہ۔
 الخُرْج - پانی پینے یا ہوا پلنے کی آواز۔
 الخُرْج - گھرت سے برتا ہوا پانی۔
 خُرْدَت (س) خُرْدَاو خُرْدَت - الجارية :
 باکہ ہونا۔ دو شیر ہونا۔
 خُرْد و خُرْدَة - الزجْل : زیادہ خاموش رہنے
 والا ہونا۔ کم گفتگو ہونا۔ زلت کی وجہ سے شرم کرنا۔
 خُرْدَالِي اللَّهْو : ناسل ہونا۔

الخُرَيْد و الخُرَيْدَة و الخُرْؤد - باکہ دو شیر۔
 شرمیلی۔ زیادہ خاموش رہنے والی لڑکی۔ ج خُرْؤد
 و خُرْد و خُرْد - صوت خُرَيْد : نرم آواز جس
 میں شرم و حیاء کی آمیزش ہو۔ لؤلؤة خُرَيْد : ناستہ
 موتی۔
 الخُرَيْدَة - ناستہ موتی۔ ج خُرْؤد و خُرْد و
 خُرْد۔
 الخُرْدَة - معمولی اسباب تجارت۔
 الخُرْدِجِي - خردہ بیچنے والا۔ معمولی تاجر۔
 بساطی۔
 الخُرْدَاذِي - شراب۔
 خُرْدَق - العمل : بگاڑنا۔ کلمہ عامیہ ہے۔ فصیح
 خُرْبِق ہے۔
 الخُرْدَق - پہرہ خُرْدَق (دخیل)
 خُرْدَل - الطعام : اچھا حصہ کھانا۔
 اللحم : چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کا ٹکڑا۔
 الخُرْدَل - گوشت کے ٹکڑے۔
 لحم خُرْدَل (دخیل) ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا گوشت۔
 الخُرْدَل - رائی۔ واحد (خُرْدَلَة)
 خُرْدَان (س) خُرْدَا - المجلد : ستالی ہے سینا۔
 خُرْدَا (س) خُرْدَا - کمزوری کے بعد مضبوط کرنا۔
 الخُرْدَا - پوتھ جس کو لڑی میں پرو لیا جائے۔
 شیشہ کے چھدے ہوئے دانے پتھر کے ٹکڑے کا واحد
 (خُرْدَة) خُرْدَة الظھر : ریڑھ کی ہڈی کے ٹکڑے۔
 خُرْدَات المملک : شاہی تاج کے جواہر۔
 الخُرْدَة - سوراخ اور اس کا وہاگا۔ ج - خُرْد۔
 الخُرْدَاة - موچی کا پیشہ۔
 الخُرْدَاة - موچی۔
 طائر (مَخْرُؤ) پر عمرہ جس کے بازوؤں پر نعلے
 ہوں۔
 المِخْرُؤ - ستالی۔ ج مَخَارِؤ۔
 خُرْس (س) خُرْسَا - گونگا ہونا۔ خُرْسَا : نکلنے
 سے چینا۔
 أَخْرَسَة اللّٰه : گونگا کرنا۔ أَخْرَسَت الارض
 و امتخَرَسَت : ناقابلِ زراعت ہونا۔
 خُرْس - علی النفساء : زچہ کو اس کی خوراک
 کھانا۔
 تَخَارَس - گونگا ہونا۔

تَخْرَسَت - النفساء : زچہ کو اپنے لئے کھانا
 تیار کرنا۔ اور اسی سے مش ہے "تَخْرَسِي یا
 نفس لا مَخْرَسَة لك" یعنی تو اپنا کام خود ہی کر
 کوئی اور کرنے والا نہیں۔
 الخُرْس و الخُرْسَا - بچہ کی پیدائش کا کھانا۔
 الخُرْسَة و الخُرْسَة - زچہ کا کھانا۔ اچھوانی۔
 الخُرْس و الخُرْسَا - مٹکا۔ ج خُرْس و
 الخُرْس : ناقابلِ زراعت زمین۔
 الخُرْسَا - مٹکا پانے والا یا بیچنے والا۔
 الخُرْس - زچہ کہ جس کے لئے اچھوانی تیار
 کی جائے۔
 الأَخْرَس - گونگا۔ ج خُرْس و خُرْسَان و
 أَخْرَس مؤنث خُرْسَاء۔ لَبَن أَخْرَس : جتا ہوا
 دودھ کہا جاتا ہے۔ "وَأَلْمِي خُرْسًا أَخْرَسًا
 أَمْرَس" یعنی اُس نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور
 گفتگو نہیں کی۔
 الخُرْسَاء - مصیبت۔ بغیر گرج و چمک کے
 بادل۔ رجل (خُرْس) رات کو نہ سونے والا خرد۔
 خُرْسَة (س) خُرْسَا و خُرْسَة و خَارْسَة
 مُخَارْسَة و خِرْسَا و اِخْرَسَة - خراش لگانا
 ہ الذباب : کاٹا۔ خُرْس و خُرْس
 الفصن : شئی کو ڈھرنے سے کھینچنا۔
 خَارْس الكلب : برا گینگتہ کرنا۔ خُرْس
 و اِخْرَس لِعَالِيه : بل بچوں کے لئے کمانی کرنا۔
 اِخْرَسَت الجوزاء : ایک دوسرے پر حملہ
 کرنا۔ خَارْسَة الشَّيْ و اِخْرَسَت منہ
 الشَّيْ : زبردستی لینا۔
 تَخَارَسَت - الكلاب : ایک دوسرے پر
 حملہ کرنا اور نوجنا۔
 الخُرْس - کھسی۔ واحد (خُرْسَة) گھر کا روی
 سامان۔ ج خُرْس و خُرْس۔
 الخُرْسَاء - براہ۔
 الخُرْسَاء - سناپ کی کینچلی۔ انڈے کا چمکلا۔
 غبار۔ خُرْسَاء الفسئل : موم۔ شد کہ جس میں
 مڑھ کھیاں پڑی ہوں۔ ج خُرْسَاء۔
 المِخْرُؤ و المِخْرُؤش - مڑے ہوئے سرکا
 ڈنڈا۔ عوام اس کو بَعْمُؤرَة کہتے ہیں۔

<p>خوڑع کا چرکی شکل کا بئر مخروطہ: تک منہ کانواں۔ الخوڑطین: منقش پروں والا پروانہ۔ خوڑاطین۔ الخوڑطل: ایک قسم کا لہ۔ الخوڑظوم و الخوڑظم: سوڑ۔ جلدی نشہ لانے والی شراب۔ انگور کا پانی جو تلے سے پہلے نکلے۔ خوڑاطیم القوم: سرداران قوم۔ خوڑظمہ: سوڑ پرانا۔ خوڑنظم: ناک بلند کرنا۔ غضبناک ہونا۔ تکبر کرنا۔ الخوڑطمان: لمبا۔ الخوڑطمانی: لمبی ناک والا۔ الخوڑاطین: کینچڑا۔ خوڑعہ (ف) خوڑعہ: پھاڑنا۔ خوڑع (س) خوڑعہ: الشئی: ٹوٹنا۔ و الخوڑع و خوڑع: الزجل: ست ہونا۔ ناقص رائے ہونا۔ کمزور جسم ہونا۔ انخوڑعت القناة: پھٹنا۔ کھڑے کھڑے ہونا۔ خوڑع (ک) خوڑعہ و خوڑعہ و خوڑعہ و خوڑعہ جوڑوں والا ہونا۔ صفت خوڑع و خوڑع۔ خوڑع: الثوب: حعفر (کم) سے رکنا۔ خوڑع: الشئی: پھاڑنا۔ پیدا کرنا۔ ایجاد کرنا اور اس سے (الخوڑعہ) ہے۔ فلانا: خیانت کرنا۔ دھوکا دینا۔ الدابة: دوسرے کے جانور چند دن کام میں لانا اور پھر واپس کر دینا۔ الخوڑعہ: سبے باکی۔ الخوڑع: ارغزی کا پودہ جس سے کسٹرائل تیار ہوتا ہے۔ ہر وہ پودہ جو نرمی سے دہرا ہو جائے واحد خوڑعہ۔ الخوڑع: اونٹنی کی دیواگی۔ اونٹنی کی بیٹی کی شکل۔ الخوڑع و الخوڑع و الخوڑع: من النساء: نرکت سے جھک جھک جانے والی عورت۔ ج خوڑع و خوڑع۔ خوڑع خوڑع۔</p>	<p>الامر: کسی کام میں لگانا۔ الزجل: جموٹ بولنا۔ الذلوفی البشر: لٹکانا۔ الابل فی الرعی: چرنے کے لئے چھوڑنا۔ جاریتہ: جماع کرنا۔ پانسیہ: گوز کرنا عبڈہ علی الناس: ایذا رسانی کیلئے مقرر کرنا۔ خوڑطہ (ن) و خوڑطہ: الدواء: اسال لانا۔ خوڑطت (س) خوڑط و خوڑطت: الشاقہ و التاقہ: بکری یا اونٹنی کو خرط کی بیماری لاحق ہونا خوڑط الطعام: پھندا لگانا۔ نخوڑط: فی الامور: دلیری وغورسری کرنا۔ انخوڑط: الجسم: لاغر ہونا۔ انخوڑطت الخوڑطہ فی السبلک: پروا جانا۔ انخوڑط فی المتکان: جلدی سے داخل ہونا۔ من لکنا الصقر: شکار پر ٹوٹ پڑنا۔ بطن الانسان: پیٹ چلنا۔ کہا جاتا ہے۔ "انخوڑط علینا بالبیع" وہ ہمارے اوپر بخش گوئی کے ساتھ متوجہ ہوا۔ انخوڑط: السیف: سونتا۔ العنقود: انگور کے گٹھے کو منہ میں رکھ کر بغیر دانہ کے نکالنا۔ استخوڑط: فی البکاء: چھوٹ چھوٹ کے رونا۔ الخوڑط: خراہ کا کام کرنے والا۔ بڑا چھوٹا۔ الخوڑط: سارے جسم کی کمزوری۔ جانوروں کی ایک بیماری جو ان کے تھن میں ہوتی ہے اور اس سے جنا ہو اور وہ لکتا ہے۔ الخوڑط: منہ زور جانور۔ ج خوڑط: بے عقلی و نادانی سے کاموں میں دخل دینے والا۔ الخوڑطہ: خراہ کے کام کا پیشہ۔ الخوڑطہ: برادہ۔ الخوڑطہ: خمیلا۔ تلک کا نقشہ۔ ٹیس۔ خوڑطہ کو خراہ ظہ بھی کہتے ہیں اور عربی مضمور یا مخفط ہے۔ الخوڑط: وہ بکری یا اونٹنی جس کو خرط کی بیماری لاحق ہو۔ ج مخوڑط۔ الخوڑطہ: خراہ کرنے کا اوزار۔ ج مخوڑط۔ الخوڑطہ: کم ڈاڑھی والا۔ لمبا چہرہ جس میں عرض کم ہو۔ عند اهل المساحه: گاؤ</p>	<p>خوڑط۔ العمل: کام کو اچھی طرح نہ کرنا۔ الخوڑطہ: پھاڑکی چھوٹی چوٹی۔ ج خوڑط و خوڑط۔ الخوڑطہ: گنگو کی گڑبڑی۔ حرکت۔ _____ (و الخوڑط) سخت زمین کہ جس میں چلنا دشوار ہو۔ الخوڑطہ: ایک قسم کی نباتات۔ الخوڑطہ: وادی یا ہموار زمین پر نکل ہوئی پھاڑکی ٹوک۔ بڑا پھاڑ۔ ج خوڑطہ۔ خوڑط (ن ض) خوڑطہ: جموٹ بولنا۔ فی الامر: نکل سے کرنا۔ قیاس کرنا۔ اندازہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "خوڑط الخوڑطہ" اس نے درخت خرما کے پھلوں کا نکل سے اندازہ کیا۔ خوڑط (ن) خوڑطہ: الشئی: درست کرنا۔ خوڑط (س) خوڑطہ: بھوک و سردی والا ہونا۔ صفت (خوڑط و خوڑط) خوڑط و خوڑط: صحت لگانا۔ جموٹ بولنا۔ تو شہ دان میں رکنا۔ الخوڑط: اندازہ۔ تم کہتے ہو "کم خوڑط ارضک" تمہاری زمین کا کیا اندازہ ہے۔ تو شہ دان۔ چھوٹا تیزہ۔ بھلا۔ دکا۔ ٹوکری۔ الخوڑط و الخوڑط: ج خوڑط و خوڑط۔ سوئے چاندی وغیرہ کا حلقہ۔ ج خوڑط و خوڑط: درخت خرما کی شاخ۔ الخوڑط و الخوڑط و الخوڑط: شدت نکلنے کی لکڑی۔ ج خوڑط۔ الخوڑطہ: حصہ۔ زچہ کا کھانا۔ الخوڑط: ٹھنڈا پانی۔ درختوں کی جڑوں میں جمع شدہ پانی۔ نہر کی ایک جانب۔ الخوڑط: جموٹا۔ الخوڑط: تیزہ۔ ج مخوڑط۔ خوڑط (ن ض) خوڑطہ: الوردی: ہاتھ سے مارکر پتے جھاڑنا۔ العنقود: انگور کے گٹھے کو منہ میں رکھ کر بغیر دانہ کے نکالنا۔ الشجره: کھینچ کر پتے جھاڑنا۔ العود: خراہ سے ہموار کرنا۔ الخدیہ: عمومی کا منہ لمبا کرنا۔ الخوڑط: تھیلے میں جمع کرنا۔ البازی: شکار پر چھوڑنا۔ الزجل: فی</p>
--	---	--

خروف

خروق

خروق

۱۹۶

آسودہ زندگی۔ وجہ خروغ: کمزور فرد۔ ناقص خروغ و مخزوعۃ: اونٹنی جس کو پوراگی لاحق ہو۔

الخزعب والخزوب والخزوبۃ۔ یک سالہ درخت کی نرم و نازک شاخ۔ جوان خوبصورت نازک عورت یا سفید نازک اندام پڑ گوشت عورت۔ الخرعوب: لمبا پڑ گوشت فرد۔ الخرعوب: لمبی۔ بڑی۔ زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی۔

خروف (س) و خروف (ک) خروفا۔ بڑھاپے کی وجہ سے قاسد المصل ہوتا۔ صفت (خروف) مؤنث (خروف)۔

خروف (ن) خروفا و خروفا و خروفا و مخروفا۔ السمز بہتا۔

خروفۃ الارض: موسم خریف کی بارش ہوتا۔ صفت (مخزوفۃ)۔ التہائم: موسم خریف کا آنا یا ان کے چرنے کے لائق کھاس آگاہ۔

خروفۃ: خروف (سار مصل) کی جانب نسبت کرتے۔

خزوفۃ مخزوفۃ و خزوفۃ: موسم خریف میں مٹلہ کرتے۔

خزوفۃ: بگاڑنا۔ قاسد کرنا۔ اخزوفۃ الشاة: موسم خریف میں بچے دینا۔ اخروف الرجل: موسم خریف میں راضل ہونا۔ السمز: پھل توڑنے کی ہوت آہنچا۔

اخزوف۔ السمز: چٹنا۔ فی مکان: موسم خریف میں اقامت کرتے۔

الخروف والجزاف: بھلوں کے چپنے کا زمانہ۔

الخزوفۃ: بے مصلیٰ کی ہنسی لانے والی باتیں۔ الخزوف: کبریٰ کا پتھر۔ جزاف و مخزوفۃ و جزوفان۔

الخزوفۃ: کبریٰ کا مہر پتھر۔ درخت خرما جس کا پھل توڑا جائے۔

الخزوفۃ: چٹا ہوا میوہ۔

الخزوف: موسم خریف۔ گرمی اور چالے کے درمیان کا زمانہ۔ موسم خریف کی بارش اور

نسبت کے لئے (خروفیقہ و خروفیہ و خروفیہ) حتی ہوئی کجور۔

الخزوفۃ: درخت خرما جس سے تر کجوریں جتی جائیں۔

الخزوفۃ: باطل بات۔ ج خروافات۔ چٹا ہوا پھل۔

المخزوف: چھوٹی ٹوکری۔ جس میں عمدہ کجوریں جن کے رکھی جائیں۔

المخزوفۃ: درخت خرما کی دو قطاروں کے درمیان کا راستہ۔ ج مخاروف۔ بڑھاپے کی وجہ سے عقل کی خرابی۔

المخاروف: عین الرجال: محروم۔ خزوفۃ: بست لینا۔

الخزوفۃ و الخزوفۃ و الخزوفۃ و الخزوفۃ: فراشی زندگی۔ الخزوفۃ: ترو تازہ و نرم۔

الخزوفۃ: موٹا۔ خزوفۃ: الشن: بلانا۔ غلط لفظ کرتے۔

خزوف (ن) خزوفۃ: اللوب: پھاڑنا۔

فلانا بالرمح: نیزہ مارنا۔ الکذب: جھوٹ گھڑنا۔ المغازاة: ملے کر کے اتنا تک پہنچانا۔ العادۃ: عادت کے خلاف کرنا۔

البناء و فی البناء: روشندان کھولنا۔ الریح: تیز چلنا۔ الرجل: جھوٹ بولنا۔

خزوف (ن) خزوفۃ: فی البیت: لگا تار قیام کرتے۔

خزوف (س) خزوفۃ: خوف یا شرم سے وحشت زدہ ہونا۔ صفت (خزوف)۔ فی البیت: لگا تار قیام کرنا۔ الغزائل او الطائر: اٹھنے یا اڑنے سے عاجز ہونا۔

خزوف (س) خزوفۃ: خوف ہونا۔ خزوفۃ: یوقوف ہونا۔ اور حوراکام کرتے۔ صفت (خزوف) مؤنث خزوفاء۔

خزوفۃ: پھاڑنا۔ خزوف الرجل: جھوٹ بولنا۔

خزوفۃ: وحشت زدہ کرتے۔

خزوفۃ و الخزوفۃ و الخزوفۃ: حشاش و خزوفۃ الکذب: جھوٹ گھڑنا۔ خزوفۃ فی الکرم: بے

حد فیاض کرنا۔ خزوفت و انخزوفت الریح: تیز چلنا۔

الخزوفۃ: الارض: زمین میں ایک طرف کو بغیر راستہ کے چلنا۔ القوم: قوم کے درمیان سے چلنا۔ الکذب: جھوٹ گھڑنا۔

الخزوفۃ: سوراخ۔ کشادگی۔ بغیر کھاس پانی کا بیابان۔ کشادہ زمین جس میں ہوا میں تیز چلیں۔ ج خزوف۔

الخزوفۃ: ج اخواق و خزواق و خزوق و (الخزوفۃ) فیاض۔ جی۔

الخزوف و الخزوف و الخزوفۃ: رائے کی کمزوری۔ نادانی و بیوقوفی۔ حتی۔ نومۃ الخزوف: حاشت کے وقت کی نیند۔ اس کو نومۃ الخزوف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس وقت سونے سے عبادت بڑھتی ہے۔

الخزوفۃ: کپڑے کا ایک ٹکڑا۔ ج خزوف۔ جی۔

الخزوفۃ: فہ۔ وہ چیز جو مختلف عادت کے خلاف ہو۔ ج خزوفۃ۔

الخزوفۃ و الخزوفۃ: محضی تیز ہوا۔

الخزوفۃ: نرم ہوا۔ ج خزوف: وادی کا کشادہ حصہ۔ پانی بننے کی جگہ۔

الخزوفۃ: اخزوف کا مؤنث۔ کشادہ زمین۔ تیز ہوا۔

الخزوفۃ: بے کھاس پانی کا بیابان۔ ج مخزوف۔ مخزوف کا استعمال عام طور پر بدن کے منافذ جیسے منہ، ناک و فیروہ ہوتا ہے۔

الخزوفۃ: جھوٹ۔

الخزوفۃ: خوبصورت بدن والا۔ فیاض۔ تجربہ کار۔ ج مخزوف۔ المخزوفیق: وہ کپڑا جس کو بت کر کے پھینکا کرتے ہیں۔

المخزوف: تیز رفتار۔

المخزوف: گزر گاہ۔ مخزوف الریح: ہوا کے چپنے کی جگہ۔ اور کہا گیا ہے "مکان خاویٰ المخزوف" یعنی ایسی جگہ جہاں کوئی گلے والا نہ ہو۔

الخزوف: ایک چھوٹا سا پرندہ۔ ج خزوفۃ۔

خزور الشقی: تک کرنا۔ خزاور: نگاہ تیز کرنے کے لئے پلکوں کو سینٹنا۔ الخزور: آنکھ کی غمگی۔ ایک قوم جن کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں اور اسی سے ہے "بخر الخزور" یعنی بحر کیسین۔ الخزورۃ و الخوزرة: پیٹھ کا درد۔ الخزورۃ: بدترین قسم کا ہیجان جس میں آنکھ کاؤ جیلا کھینچنے والے گوشے کی جانب الٹ جاتا ہے۔ الخزوزان: ہنس۔ نیزے۔ نرکل۔ ہر نرم کلزی۔ کلزی جس سے ملاں کشی کو چلاتا ہے۔ واحد الخوزورۃ الخوزور۔ الخزوزور: نرکل۔ الخوزوزی و الخوزوزی: ایک قسم کی چال ناز و انداز کے ساتھ۔ خزوزیہ و خزوزیہ: بیودہ بکنا۔ الخوزوزج: ٹھنڈی ہوا۔ جنوبی ہوا۔ شیر۔ خزوزف: فی مشیتہ ہاتھوں کو ہلانے ہوئے چلنا۔ الخوزوزق: کلزی۔ الخوزوزیق: کڑیا سفید کپڑے۔ خزوع (ف) خزوعا و خزوع: الشقی: کانٹا عن القوم: پیچھے رہ جانا۔ خزوع وئہ شقیًا لیتا۔ خزوعوا الشقی: باہم تقسیم کرنا۔ خزوع الشقی: کانٹا الشقی بینہم: تقسیم کرنا۔ الخزوع الحبل: نصف سے کٹ جانا۔ الزجل: بڑھاپے یا کمزوری کی وجہ سے جھکا۔ الخزوعۃ: لینا۔ عن القوم: جدا کر لینا۔ الخزوع: موت۔ الخزوعۃ: ایک پاؤں سے لنگڑاہیں۔ الخزوعۃ: گوشت کا ٹکڑا۔ الخزوعۃ: کھرا جو کسی چیز سے کاٹا جائے۔ الخزوع: بڑھیا۔ الخزوعۃ: ریگ کا تودہ جو بڑے تودے سے جدا ہو۔ الخزوع: وہ شخص جو لوگوں کے بل کو اترا	بڑھیا۔ لوگوں کا گروہ۔ الخزامل: پراسے کپڑے۔ الخزوص: سور کا پچھتہ۔ خزوقۃ: بالسیف: گوار سے مارنا۔ الخزولف: روٹی بہت دودھ والی اونٹنی۔ الخزولف: لبنا۔ الخزولق: جوان خرگوش۔ ج خزولق۔ الخزولق: بادشاہ کے کھانے پینے کی مجلس۔ نعمان اکبر ابن امر القیس کے محل کا نام جو عراق میں تھا۔ ایک نہایت۔ خزوان (ن) خزوان: الحانظ: دیوار پر کائے رکھنا۔ خز التمزو یخزوز: کچھ کٹا ہوا۔ صفت (خازن) (خزوان) و اختزوا: بالومع: نیزہ مارنا۔ کما جاتا ہے "خزوا و اختزوا بیصرہ: اس نے اس کو اپنی نگاہ میں رکھا۔ الخزور: رشیم۔ رشیم اور آن کا بنا ہوا کپڑا۔ ج خزوز۔ الخزوز: نر خرگوش۔ ج خزوزان و اختزوا۔ الخزوز: بہت ہی خشک مروج (مروج ایک کانٹے کا نام ہے) الخزوز: رشیم فروش۔ الخزوزۃ: خرگوش کی جگہ۔ خزوب (س) خزوبوا و خزوب: الجلد: بغیر درد کے سو جانا۔ صفت (خزوب) الشاقۃ: سوچے ہوئے تنوں والی ہونا۔ صفت (خزوب و خزوباء) الخزوب و الخزوبان: نرم گوشت۔ ایک ٹکڑے کو (خزوب و خزوبان) کہتے ہیں۔ الخزوبان: شتر مرغ کا پچھتہ۔ الخزوبۃ: سونے کی کان۔ الخزوبان و الخازبان: مہنی علی الکسوة: ایک قسم کی کھیاں جو لافوں میں ہوتی ہیں۔ بلع کی کھینوں کی جھنڈا ہٹ۔ خزوز (ن) خزوزا: کھینوں سے دیکھنا۔ چالاک ہونا۔ صفت (خزوز) خزوز (س) خزوزا: عیله: تک آنکھ والا ہونا۔ صفت (خزوز) مؤنث خزوزاء ج خزوز۔ خزوز الزجل: بھانگنا۔	خزومۃ (ن) خزوما: شکاف ڈالنا۔ سوراخ کرنا۔ عوم الخوزرة: توڑنا۔ تاک کی درمیانی بڑی چھاڑنا۔ الایزرة: تاک توڑنا۔ عن الطریق: ہٹ جانا۔ کما جاتا ہے "خزومۃ الخوزارم" یعنی وہ مرگیا۔ و "ماخزومت وئہ شقیًا": میں نے اس میں سے کچھ کم نہیں کیا۔ خزوم (س) خزوما: تنوں کے بیچ کی چھدی ہوئی بڑی والا ہونا۔ صفت (خزوم) خزوم (ک) خزومۃ: شوخ و بیباک ہونا۔ صفت (خزوم و خزوم) خزوم: الخوزرة: سوراخ کرنا۔ خزوم: ٹوٹنا۔ خزومۃ و اختزومۃ: ہلاک کرنا۔ جڑ سے اکھیرنا۔ اختزومۃ المرض: لاخر کرنا۔ خزومۃ و اختزومۃ: اس کو موت لے لیا۔ اختزومۃ: مرنا۔ الخزوم: انفہ: تنوں کے بیچ کی بڑی کا چھدنا۔ کما جاتا ہے "الخزوم ذلک القرن": یہ زانہ ختم ہو گیا۔ الخزوم: ہ۔ پہاڑ کی ٹپھی ہوئی ٹوک۔ ج خزوم۔ الخزومان: جموت۔ الخزومۃ: تاک میں چھدنے کی جگہ۔ الخزوماء: چھدا ہوا کان۔ عنزة خرماء: بکری جس کا کان عرض میں پھاڑا گیا ہو۔ الخزومۃ: انسان کی تاک کا بانس یا دونوں تنوں کا درمیانی حصہ۔ الخزوم: موزے کا کنارہ۔ شاہ روم کا لقب۔ الخزومان: اوپر کے جڑے میں دو سوراخ دار پٹیاں۔ الخزوم: پہاڑ کی ٹوک کا آخری سرا۔ ج مخارم: مخارم اللیل: رات کے ابتدائی حصے۔ الخزومس: اندھیری رات۔ خزومش: الکتاب: جٹانا۔ بگاڑنا۔ اخزومص: خاموش ہونا۔ خزومل: الثوب: پارہ پارہ ہونا۔ الخزومل: بیوقوف عورت۔ جوان عورت۔
--	---	---

۱۔ الخَزْعُجْبَلُ وَالخَزْعُجْبَلُ وَالخَزْعُجْبَلُ۔
خوش طبعی کی باتیں۔ باطل باتیں۔
الخَزْعُجْبَلُ۔ خوش طبعی و مذاق۔
خَزْعُلٌ۔ فی مشبہ: لنگرانا۔
الماشی: یاڈں کو جھاڑنا۔
الخَزْعُجَلُ۔ بجز۔
الخَزْعُجَالَةُ۔ خوش طبعی و کھیل کود۔
خَزْفٌ (ض) خَزْفًا۔ فی مشبہ: ہاتھ ہلانے
ہوئے چلنا۔ الثوب: پھاڑنا۔
الشئی: پھیرنا۔
الخَزْفُ۔ واحد (خزفة) خمیری۔ مٹی کے کپے
ہوئے برتن۔
الخَزْفَانُ وَالخَزْفِيُّ۔ مٹی کے برتن بنانے
والا یا بیچنے والا۔
خَزْفَةٌ (ض) خَزْفًا۔ آہستہ نیزہ مارنا۔
خَزْفَةٌ بِالسَّهْمِ: تیر مارنا۔ خَزْفُ الطَّائِرِ:
بیٹ کرنا۔ الشئی فی الارض: گاڑنا۔
تَخَزَفُ وَالخَزْفُ۔ چھدنا۔
إِخْتَزَفَ السَّبْفُ: نکل ہوا۔ میان سے نکل
پڑنا۔
الخَزَاقُ۔ نا۔ نیزے کا پھل۔
الخَزَاقِيُّ۔ نیزہ سے کا ایک لہاؤں جس کو
بجرم کی درپس داخل کرتے تھے اور وہ اس پر مر
جایا کرتا تھا۔ ج خَزَاقِي۔ مولدین نے اسی سے
فعل "خَزَقُوا" بنایا ہے۔
المَخَزَقَةُ۔ چھوٹا نیزہ۔
الخَزَقَةُ۔ ایک زرکاری کا نام۔
خَزَقٌ (س) خَزَقًا۔ اصرار کرنا۔
خَزُولٌ (س) خَزُولًا۔ شکستہ پشت ہونا۔ صفت
(أَخْزَلَ وَمَخْزُولٌ)
خَزُولٌ (ض) خَزُولًا۔ الشئی: کاٹنا۔ عین
حاجتہ: روکنا۔
تَخَزَّلَ۔ کتنا۔ بوجھل چلنا۔ السحابُ:
إِخْتَزَلَ۔ گرانباری سے چلنا۔ فی
کَلَامِهِ: رک جانا۔ عین الجواب:
لا پرواہی کرنا۔ مِنَ الْمَكَانِ: علیحدہ ہونا۔
إِخْتَزَلَ الشئی: کسی چیز کو کھٹ لیا۔

۲۔ ع: عیب لگانا۔ بواہ: علیحدہ رائے
رکھنا۔ ع: عِن قَوْلِهِ: علیحدہ کرنا۔
الْوَدِيعَةُ: واہسی سے روک کر خیانت کرنا۔
الخَزَلَةُ۔ گھٹکتی پشت۔
الخَزَلَةُ۔ مراد سے روکنے والا۔
الخَزُولِيُّ وَالخَزُولِيُّ۔ ایک قسم کی چال جس
میں ناز و انداز ہو۔
خَزَمٌ (ض) خَزَمًا۔ اللاتکی: پھوٹنا۔
(و خَزَمٌ) البعير: ناک میں حلقہ ڈالنا۔
کما جاتا ہے "خَزَمَ أَنْفَ فُلَانٍ" یا "جَعَلَ فِي
أَنْفِهِ الخَزَامَةَ" فلان کی ناک میں ہاتھ ڈال دی۔
یعنی تابع و مسخر کر لیا۔
خَزَامَةٌ مُخَازِمَةٌ۔ الطريق: دو مختلف راستوں
سے چل کر ایک جگہ ملنا۔
تَخَزَمَ الشوكُ فِي وَجْهِهِ: جھپٹنا۔
تَخَزَمَ الجِيشَانِ: دو فوجوں کا ایک دوسرے
کے مقابل ہونا۔
الخَزَمُ۔ ایک درخت جس کی چھال سے رسی
بناتے ہیں۔
الخَزَامِيُّ وَالخَزَامُ۔ ایک قسم کی نباتات جس کا
پھول بہت خوشبودار ہوتا ہے۔
الخَزَامَةُ۔ باریک چھڑا جس سے دو تسموں کو
باندھا جائے۔ ج خَزَامٌ۔
الخَزَامَةُ۔ گائے۔ یا چھوٹے قد اور زیادہ عمر والی
گائے۔
الأخْزَامُ۔ زربا۔
المَخَزَمُ۔ پہاڑی راستہ۔ ج مَخَزِمٌ۔ شراک
(مَخَزِيمٌ) کٹا ہوا تسمہ۔
خَزُونٌ (س) خَزُونًا وَخَزُونٌ۔
المالُ: ذخیرہ کرنا۔ جمع کرنا۔ السَّرُّ: چھپانا۔
اللسانُ: زبان روکنا۔ إِخْتَزَنَ الظَّرْفِيُّ: قریب
ترین راستہ اختیار کرنا۔
خَزْنٌ (ن) إِخْتِزَانٌ وَخَزْنٌ (س) إِخْتِزَانٌ
خَزْنٌ (ك) خَزْنًا۔
اللحمُ: بدبودار ہونا۔ صفت (خَزِينٌ)
أَخْزَنَ: حجاجی کے بعد مال دار ہوا۔
إِسْتَخْزَنَ: ذخیرہ کرنے کو کہنا۔
إِسْتَخْزَنَ الْمَالُ: ذخیرہ کرنا۔

الخَزَائِنُ وَالخَزَائِنَةُ۔ ذخیرہ رکھنے کی جگہ۔ ج
خَزَائِنِ الخَزَائِنِ: خزانہ: خزانہ: خزانہ: خزانہ: خزانہ:
خزانہ: خزانہ: خزانہ: خزانہ: خزانہ:
الخَزَائِنُ وَالخَزَائِنَةُ۔ خزانہ: ذخیرہ کیا ہوا مال۔
الخَزَائِنُ۔ زبان۔
المَخْزُونُ۔ ذخیرہ کرنے کی جگہ۔ ج مَخْزَانٌ۔
مَخْزَانُ الطَّرِيقِ۔ مقصود کی طرف قریب ترین
راستہ۔
خَزَاهُ (ن) خَزَوًا۔ غالب آنا۔ سیاست کرنا۔
خَوَاهِشَ نَفْسَانِي سَے روکنا۔ دشمنی کرنا۔ خَزَى
الذَّهَابَ: بدھانا۔
خَزَى (س) خَزِيًا وَخَزَى۔ ذلیل ہونا۔
معیبت میں مبتلا ہونا۔ خَزِيَهُ وَخَزِيَتْهُ وَخَزِيَتْهُ
وَخَزِيَتْهُ: شرم کرنا۔ صفت (خَزِيٌّ) مؤنث خَزِيَةٌ وَ
(خَزِيَانٌ) مؤنث خَزِيَةٌ عَجْ خَزِيَا۔
خَزِيٌّ (ض) خَزِيًا۔ ہ: شرمندگی میں ڈالنا۔
زسوا کرنا۔ بہت زیادہ زسوا ہونا۔
خَزَاةٌ مُخَازِمَةٌ۔ شرمندگی میں ڈالنا۔
أَخْزَاهُ إِخْزَاةً۔ شرمندگی میں ڈالنا۔ ذلیل کرنا۔
اہانت کرنا۔ اور جب کوئی شخص کوئی پسندیدہ فعل
کرتے تو کہا کرتے ہیں "أَخْزَاهُ اللَّهُ مَا أَشْهَرُهُ"
مجھے کہہ کتے ہیں "قَاتَلَهُ اللَّهُ مَا أَشْجَعُهُ" ان
بھئی دعاؤں میں معنی کا اعتبار نہیں ہوتا۔
إِسْتَخْزَى۔ شرم محسوس کرنا۔
الخَزَى۔ ذلت۔ رسوائی۔ عذاب۔ دوری۔
الخَزِيَّةُ وَالخَزِيَّةُ۔ باء۔ معیبت۔ ذلیل کن
عادت۔
المَخْزَاةُ۔ باعث رسوائی و شرمندگی۔
خَسٌ (س) خَسَانَةٌ وَخُسُوفَةٌ وَخَسَةٌ۔
رذیل ہونا۔ وزن یا اندازہ میں کم ہونا۔ صفت
(خَسِيئٌ) ج خَسِيئًا وَخَسِيئًا۔
خَسٌ (ن) إِخْسَانٌ وَخَسِيئٌ۔
نصیبہ: حصہ کم کرنا۔
أَخْسَنَ۔ گھٹیا کام کرنا۔ ع: رذیل پانا۔
خَارَتَ كَرِيًا أَخْسَنَ خَطْفَةً: حصہ کم کرنا۔
فَخَاسُوا الشئی: کسی چیز کو آپس میں لینا دینا
اور اس کی طرف سبقت کرنا۔

<p>اچھی طرح نافذ نہ ہوتا۔ الخساق۔ بڑا جموٹا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ذُو خَسَقَاتٍ فِي التَّبَعِ" وہ کبھی بیچ کو جاری کرتا ہے۔ کبھی فتح کرتا ہے۔ خَسَلَةٌ (ن) خَسَلًا۔ رُزِئِلَ كَرًا۔ دُور كَرًا۔ الخَسَالَةُ وَالخَسَالَةُ۔ ہر چیز کا رومی حصہ۔ الخسبیل۔ فرومایہ۔ رُزِئِلَ۔ ج خَسَالٍ و خَسَائِلٍ۔ الخَسَلُ وَالخَسَالُ۔ کینے و کمزور لوگ۔ المَخْسَلُ وَالْمَخْسُولُ۔ رُزِئِلَ۔ حَیْر۔ خَاسِيٌ مُخَاسَاةً وَأَخْسَى اِخْتِسَاءً خَسِيً تَخْسِيَةً ۵۔ اَعْرُوثٌ سَ باہم طاق و مَفْت کھیلنا۔ الخَسَا۔ طاق۔ ج الأَخْصَاسِي (خلاف قیاس) کہا جاتا ہے "خَسَا أَوْزُكَا" یعنی طاق یا بخت۔ الخِيسِي۔ اُون کا پھر ایسا خیر۔ خَسَّ (ن) خَسًّا۔ فِه: داخل ہونا السحاب: تھوڑی بارش برسا۔ زَيْدًا: نیزہ مارنا۔ البعير: اونٹ کی خشاش ڈالنا۔ (رکھے لفظ "خشاش") اِنخَسَّ۔ فِه: داخل ہونا۔ بَيْنَ الْقَوْمِ: گھل مل جانا۔ الخَسَّ۔ مد۔ تھوڑی بارش۔ شگاف۔ کھردری چیز۔ پیارے۔ الخس۔ نیلہ۔ الخَاش۔ قا۔ الخَسُّ کا واحد بمعنی پیارے۔ الخِشَاش۔ کینے کوڑے۔ پہاڑی سانپ۔ ایک قسم کی گلڑی جس کو اونٹ کی ناک میں ڈالتے ہیں۔ واحد (خِشَاشَةٌ) غضب۔ کہا جاتا ہے "حَوَّكٌ خِشَاشَةٌ" یعنی وہ غصیبناک ہوا۔ خِشَاشًا الشَّيْءُ: چیز کے دونوں کنارے۔ ج اِحْسَةٌ۔ الخِشَاش۔ رومی۔ گھٹیا۔ بہادر۔ الخِشَاء۔ گارے اور نگر والی زمین۔ ج خِشَاوَاتٍ وَخِشَاشِيَةٍ۔ الخِشَاء۔ کان کے نیچے ابھری ہوئی بڑی۔ الخِشَاش۔ ڈیر مردوج رات کی ہولناکیوں میں کام کرے۔ ڈیر گھوڑا۔</p>	<p>ترین فرد۔ خَسَفَ (ض) خُسُوفًا۔ المکان: دھنس جانا القمير: کمن گنا۔ العنق: آنکھ کا جاتا رہنا یا اندر کو دھنس جانا۔ السقف: گرتا۔ الشئ: اکہ ہونا۔ الرجل: ڈیلا ہونا۔ خَسَفَ فِي الأَرْضِ وَخَسَفَ بِهِ: زمین میں دھنسا (خَسَفًا) الشئ: کاشا۔ العين: چھوڑنا۔ اللہ الارض: مع ساری چیزوں کے دھنسا رہا۔ اللہ الارض بفلان: زمین میں دھنسا رہا۔ البئر: پتھر کی زمین میں کنواں کھودنا جو ہمیشہ جاری رہے۔ فلائنا: ڈیل کرنا۔ ناپسندیدہ امر پر مجبور کرنا۔ خَسَفَ الشئ فَخَسَفَ هُوَ: پھاڑنا اور پھنسا۔ (لازمی و متعدی) اَخْسَفَتْ وَاِنْخَسَفَتْ۔ عینہ: اندھی ہونا الارض: مع ساری چیزوں کے دھنس جانا البئر: گرجانا۔ الخسف۔ مد۔ عیب۔ زلت۔ کہا جاتا ہے "سَامَهُ خَسْفًا وَخُسْفًا" اس نے اس کو ڈیل کیا اور اس کو مشقت کی تکلیف دی۔ الخسف: کنوئیں کا سوت۔ الخِصَاف۔ قا۔ دھنس ہوئی آنکھ۔ ڈیلا۔ بیماری کی وجہ سے لاغر۔ جھوکا۔ ج۔ خُسْف۔ الخَسْفُ وَالخُسْفُ اَعْرُوثٌ وَاحِدٌ (خَسْفَةٌ) کہا جاتا ہے "بِتَأْتِي اَعْلَى الخَسْفِ" انہوں نے فاتح سے رات گزاری۔ و "شَرِبْنَا عَلَي الخَسْفِ" بغیر کچھ کھائے ہوئے ہم نے پیا۔ الخِيسِيْف۔ ج اَخْسِيفَةٌ وَخُسْفُ وَ (الخُسُوف) ج خُسُوفٍ۔ مِّنَ الأَبَارِ: کنواں جو چٹان میں کھودا جائے اور اس کا پانی ختم نہ ہو۔ وَالخِيسِيْفُ مِّنَ العَيُونِ: دھنس ہوئی آنکھ مِّن الثَّوْقِ: بہت دودھ والی اونٹنی جس کا دودھ جائے میں جلدی ختم ہو جائے۔ مِّنَ السَّحَابِ: بہت پانی کالے کر اٹھنے والا بادل۔ الأَخْصَافُ وَالأَخْصَافِيْف۔ نرم زمینیں۔ الخِيسِيْفُ ج وَالخِيسِيْفُ جَعَةٌ۔ چھوار۔ الخِيسِيْفُ ج: بولہ۔ پڑانی گلڑی۔ خَسَقَ (ض) خَسَقًا وَخُسُوفًا۔ النهم:</p>	<p>اِسْتَخَسَهُ۔ رُزِئِلَ بِانَا۔ حَقَارَتٌ كَرًا۔ الخَسُّ۔ خس۔ خَسَّ الحِمَارُ وَخَسَّ البَقَرُ: روچنگلی گھاس کے نام۔ الخَسَاس۔ ہر وہ چیز جس کو لوگ آپس میں دیر لیں۔ الخَسَاسَةُ۔ تھوڑا مال۔ الخِيسِيْسَةُ۔ الخِيسِيْسِ کا مؤنث۔ ج خَسَائِسُ وَخَسَائِسُ الأُمُور: حقیر باتیں۔ شَيْءٌ (خَسَاسٌ وَمَخْسُوسٌ) معمولی گھٹیا چیز۔ الخَسَان۔ ستارے جو غالب نہ ہوں۔ جیسے بنات النعش۔ خَسَأَ (ف) خَسَأًا۔ الكلب: دھکارنا۔) خَسَأًا وَخُسُوفًا (1) البصر: چندھیما جانا۔ لگاہ کا تھک جانا۔ وَخِيسِيٌّ (س) خَسَأَ وَ اِنخَسَأَ الكلب: دُور ہونا۔ دھکارا جانا۔ خَاسَا مُخَاسَاةً وَتَخَاسَا وَتَخَاسُؤًا۔ القوم: آپس میں ایک دوسرے کو پتھر مارنا۔ الخِيسِيٌّ۔ گھٹیا اُون وغیرہ۔ الخِصَاسِي۔ قا۔ مِّنَ الخِصَاسِيْرِ وَالکِلَابِ: دھکارے ہوئے کتے و سور جو لوگوں کے قریب نہ آئے دیے جائیں۔ الخِيسِيْبِج۔ خیر۔ اُون کا نا ہوا کھیل۔ خِيسِيْرُ (س) خَسْرًا وَخُسْرًا وَخُسْرًا وَخَسْرًا وَخَسْرًا وَخُسْرًا اَنفَاسًا اَمَّانًا۔ گمراہ ہونا۔ ہلاک ہونا۔ صفت (خِيسِيْرٌ وَخِيسِيْرٌ خِيسِيْرِي) خَسْرَ (ض) خَسْرًا وَخُسْرًا اَنًا۔ المِيزَان: کم کرنا۔ گھانا۔ المَالُ: ضائع کرنا۔ خَسْرَةٌ وَأَخْسَرَةٌ۔ نقصان کرنا۔ گمراہ کرنا۔ ہلاک کرنا۔ أَخْسَرُ الرَّجُلُ: نقصان میں پڑنا۔ أَخْسَرُ المِيزَان: گھانا۔ کم کرنا۔ الخِيسِرُ۔ قا۔ تکرۃ خِيسِيْرَةٌ: غیر مفید حملہ۔ الخِيسِرُ وَالخِيسِرِيٌّ۔ وہ شخص جو نقصان میں ہو۔ ج خِيسِرَةٌ۔ خِيسِيْعٌ خَسَعًا۔ عنہ کڈا: کسی سے کسی چیز کو دُور کیا جانا۔ خِيسِيْعُ الْقَوْمِ وَخِيسِيْعَتُهُمْ۔ قوم کا خیس</p>
--	---	---

الخشخش والخشخش - ہرن کا پتہ جو چلے گئے۔

خَشَبَ (ض) خَشِبًا. الشئ بالشئ: ملانا الشئ: چھاٹنا۔ صاف کرنا۔

السيف: صیقل کرنا () والخشخش: الشعر: آدم کے مطابق بغیر نتیج کے اشعار کرنا۔

إخشب السيف: تلوار کو کڑی جیسا بنانا۔ خشب الشئ: موٹائی میں کڑی کی مانند ہونا۔

تخشب: چراگاہ سے سوکھی گھاس چرنا۔ السيف: تلوار کو کڑی جیسا بنانا۔

إخشوب: کڑی کی مانند سخت ہونا۔ افی عيشه: شہقت پر صبر کرنا۔

العشيب: موٹی کڑی۔ ج خشب و خشب و خشبان۔

العشيب والأخشيب: موٹا کھرورا۔ عيش خشب: ناپسندیدہ زندگی۔

العشباب: کڑی بیچنے والا۔ ج خشبہ الخشباب: سخت زمین جس میں پتھر، ٹنگراور گارہ ہو۔

العشيب: من السيف: تلوار جو ابھی ڈھالی گئی ہو۔ صیقل کی ہوئی تلوار۔ روی۔ گھٹیا۔

صاف کی ہوئی چیز۔ من القسي: تراشی ہوئی کمان۔ ج خشب و خشائب۔

المخشوب: غلو و تب والا۔ وہ شخص جس کی تعلیم و تربیت اچھی نہ ہوئی ہو۔ وہ شخص جو اچھے طریقے سے کام نہ کرتا ہو۔

المخشاب: موٹا۔ پست قدم۔ الخشيل: سخت ٹیلہ۔

العشيق: کٹاں۔ رشیم۔ جو بظلمہ۔ خشخش خشخشة و خشخش: السيلخ أو الخليل: جھنکار ہونا۔ فلان بين الشجر وبين القوم: داخل ہو کر غائب ہو جانا۔

العشعاش: پوست کا پودہ۔ واحد (عشعاشة)

خشخ (ض) خشخا۔ دسترخوان پر روی چیز چھوڑنا۔ الشئ: کسی چیز سے اس کے

روی حصہ کو دور کرنا۔

خشبو (س) خشوا۔ بزدلی سے بھاگنا۔ حریص ہونا۔

العشبار والعشازة: ہرچیز کا روی حصہ۔ دسترخوان کا بچا کھپا۔ جو کاوانہ جس میں گوانہ ہو۔

زویل لوگ۔ خاشبزة: الناس: زویل لوگ۔ واحد (الخاشبر)

خشوب خشوبة: ادھر اور اقام کرنا۔ خشوبت: الضيق: کمانے میں چھچھوڑ کرنا۔

العشوم: شد کی کھیموں یا بھڑوں کی جماعت۔ شد کی کھیموں کی ملکہ۔ شد کی کھیموں کا چھت۔ نرم پتھر جس سے چونہ بناتے ہیں۔ ج خشاومة۔

العشارم: موٹی آواز۔ بڑی تاک۔ خشع (ف) خشوعا۔ لہ: فروتنی کرنا۔ عاجزی کا اظہار کرنا۔ صفت (خاشع) ج خشع و خشعة و خاشعون۔ بظنہ: پست کرنا۔

بصرة: نگاہ کا پست ہونا۔ الصوت: آواز کا پست ہونا۔ الشمس: ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الوزق: پتے مرجھا جانا۔

الارض: بارش نہ ہونے سے خشک ہونا۔ إخشعة: کسی کو فروتنی کرنے پر براگینت کرنا۔

تخشع: فروتنی کرنا۔ () و تخشاع: فروتنی دکھانا۔

إخشع: کسی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے فروتنی کرنا۔ الخاشيع: نا۔ مکان خاشيع: وہ جگہ جس کا راستہ نہ لے۔ بلدعة خاشعة: وہ شہر جس میں اترنے کی کوئی جگہ نہ ہو۔ جذاذ خاشيع: دیوار جو گر کر زمین کے ہموار ہو گئی ہو۔

الخاشعة: پتہ جو مردہاں کے پیٹ کو پھاڑ کر نکالا گیا ہو۔ الخاشعة: پست ٹیلہ۔ ج خشع۔ خشف (ن ض) خشفوا و خشفانا۔ نلک میں جانا اور غائب ہو جانا۔ رات میں چلنا۔ الماء: جنا۔ البرود: تیز ہونا۔ () و إخشف: لہ الشئ: داخل ہونا۔

خشف (ض) خشفوا۔ دسترخوان پر روی چیز چھوڑنا۔ الشئ: کسی چیز سے اس کے

راہبری کرنا۔ () خشفا و خشفة: الخليل: برف چلنے سے آواز نکالنا۔ لہ الشئ: تیز چلنا۔

خشف (س) خشفا: البعير: پورے بدن پر خارش والا ہونا۔ صفت (أخشف) مؤنث خشفاء۔ ج خشف۔

خشف: راستہ بتلانا۔ خاشف: الی الشئ: برائی کی طرف سبقت کرنا۔ کہا جاتا ہے "خاشف لہ یذبحہ" اس نے بد عہدی کرنے میں جلدی کی۔

خاشف السهم: سنناٹہ سنائی دینا۔ أخشفت الظلمة: پتہ والی ہونا۔

الخاشيف: نا۔ سيف خاشيف: تیز تلوار۔ ماء خاشيف و خشف: جھاہو پانی۔

الخشف: بثلیث الغاء: ہرن کا نورا سیدہ پتہ۔ ج خشفة () و الخشف: سبز رنگ کی کھس۔ واحد خشفة)

الخشف والخشفة والخشفة: آواز۔ حرکت۔ آہٹ۔ الخشف: ذلت۔ الخشف والخشف: گھٹیا قسم کا آدمی۔

الخشف والخشيف: سخت برف۔ نرم برف۔ الخشوف: مجالات میں دخل دینے والا۔

من الرجال: رات کے وقت چلنے میں دلیر۔ تیز۔ من الشئوف: تیز تلوار۔ الخشاف: چگاڑو۔

المخشف: وہ جگہ جہاں پانی جم گیا ہو۔ المخشف: راہبر۔ مجالات میں دخل دینے والا۔ رات کے وقت چلنے میں دلیر۔ تیز۔

خشلة: (ن) خشلا و خشلة: حقیر بنانا۔ خشل الشراب: صاف کرنا۔

خشيل (س) خشلا۔ الثوب: بوسیدہ ہونا۔ تخشيل: زویل ہونا۔ سر جھکانا۔ روی چیز لانا۔

الخشل والخشل: روی۔ الخشل: ہر جو نڈار چیز۔ خالی کیا ہوا اٹرا۔ واحد خشلة) کہا جاتا ہے۔ رجل (خوشل فقتل و خوشل فقتل) کمزور مرد۔

خشمة (ض) عشما: تاک کی بڑوڑنا۔ خشم (س) عشما و عشوما: چوڑی تاک

درخواست کرتا۔

الْخَصْبُ - بانس یا لکڑی کا مجموعہ۔ شراب پیچھے والے کی دکان۔ جِ الْخَصَاصِ وَخُصُوصِ وَخِصَاصِ - شہر (خصص) ناقص مینہ۔ الْخِصَاصُ - قاحام کی ضد۔ بیکلا۔

الْخِصَاصَةُ - عَامَّةٌ كِي خُصْدٍ وَهِيَ جِزْس كُو تَمِ اِنِجِي لِي عَاصِ كِر لَو۔ خَاصَّةُ الْمَلِكِ : بادشاہ کے مقرب لوگ۔ خَاصَّةُ الثَّيْبَاتِ : نباتات كِي قوت و اثر۔ جِ خَوَاصُّ () وَالْخَوَاصُّ وَالْخُصَّانُ وَالْخِصَّانُ) مِنَ الْقَوْمِ : برگزیدہ اور بڑے لوگ۔ كَمَا جَاتَا فِي "لِنَمَا يَفْعَلُ هَذَا الْخِصَّانُ الْفَاصِ" اس كُو بڑے بڑے لوگ عي كرتے هِيں۔

الْخِصَاصِيَّةُ - خاصہ كِي جانب نسبت۔ جِ خَاصِيَّاتِ وَخِصَاصِيَّاتِ

الْأَخْصُ - اطفال۔ كَمَا جَاتَا فِي "لَمْ يَكُنْ لِي أَطْفَالِيهِ أَخْصُ مِنْ هَذَيْنِ"

الْخِصَاصَةُ - انور توڑنے كے بعد تيل ميں چھونے هونے والے۔ تھوڑا۔ قليل۔ جِ خِصَاصِ

الْخِصُوصِ وَالْخِصُوصِ - عليم كِي اس كے مقابلہ ميں عوم هے۔ انحصار اس كے مقابلہ ميں اطلاق هے۔ اور كَمَا جَاتَا فِي "عَلَى الْخِصُوصِ وَالْخِصُوصِ" يَتِي خاص طور پر جيسے حريري كا قول هے۔ لَنْ يَنْفَعَلَ الْخَاطِرُ وَيَنْفَعِلُ الْقَاتِرُ كَقَائِلَةِ الْهَوَاجِرِ وَخِصُوصًا فِي شَهْرِي نَاجِرِ

الْخِصَاصِ - دروازہ كِي جھري۔ برقع وغيرہ كا سوراخ۔ كَمَا جَاتَا فِي "بَدْرُ الْقَمَرِ مِنْ خِصَاصِ الْغَيْمِ" چاند بادل كے درميان سے ظاہر ہوگا۔ وَلَمْخُتْهِ مِنْ خِصَاصِ الثَّيَابِ" ميں سے اس كُو دروازہ كِي جھري سے ديكھا۔ مكان وغيرہ ميں شگاف۔ واحد (خِصَاصَةٌ) اور كَمَا جَاتَا فِي "سَدَدْتُ خِصَاصَةَ فَلَانٍ" ميں نے فلاں كِي ختم كِي ذور كړدي۔

خَوَيْفَةُ الْإِنْسَانِ : وہ هض جو خدمت كرتے كے ليے مخصوص هو۔

خُصِبَ (ض) وَخُصِبَ (س) خِصْبًا

الْعَيْشِيُّ وَالْعَاشِيُّ وَالْعَشْيَانُ وَالْعَشْيِيُّ - ڈرنے والا۔ مَوْتٌ خَاشِيَةٌ وَخَشْيَةٌ وَخَشْيَانَةٌ وَخَشْيَانًا۔ جِ خَشْيَانًا۔ الْعَيْشِيُّ وَالْعَشْيِيُّ مِنْ الثَّيَابِ : شگل گھاس۔ كَمَا جَاتَا فِي "هَذَا الْمَكَانُ أَحْشَى مِنْ ذَالِكِ" يه جگہ اس سے زيادہ خوفناك هے۔

الْخِشْيَةُ - خوف۔ ڈر۔ كليات ميں هے كہ خَشْيَةٌ ميں خوف سے زيادہ سالف هے اس وجہ سے كہ خَشْيَةٌ "شَجَرَةٌ خَاشِيَةٌ" سے ماخوذ هے جس كے معني هِيں سو كھادرخت اور خوف "نَاقَةٌ خَوْفَاءُ" سے ماخوذ هے جس كے معني هِيں تيار اُونِشِي اور ظاہر هے كہ سو كے درخت ميں درخت كيا بالكل خاتمہ ہو جاتا هے بخلاف تيار اُونِشِي كے كہ اس ميں اُونِشِي كا خاتمہ نهيں هوتا نقصان هوتا هے اور خوف كے معني نقصان هِي كے هِيں۔ اور خوف خائف كِي كزوري كِي وجہ سے هو جاتا هے بخلاف خَشْيَةٌ كے كہ جس سے ڈرا جائے اس كِي عظمت كِي وجہ سے هوتا هے۔

خِصْ (ن) خِصَاً وَخِصُوصًا وَخِصُوصَةً وَخِصُوصِيَّةً وَتَخِصُّهُ وَتَخِصِّيَّةً وَتَخِصِّيَصِيٌّ وَتَخِصِّيَصَاءُ - فَلَانًا بِ الشَّيْءِ : خاص كرتا۔ اس نے اسي كے ساتھ محبت كِي () خِصُوصًا الشَّيْءِ : خاص هونا۔ الشَّيْءِ لِتَفْسِيهِ : اپنے ليے چھانٹ لينا۔

خِصْ (س) خِصَاصَةً وَخِصَاصًا وَخِصَاصَةً - محتاج هونا۔

خِصَصَ - الشَّيْءِ : خاص كرتا۔ ه بِالشَّيْءِ : كسي كُو كسي چيز كے ساتھ خاص كرتا۔ الْفَلَامُ : لکڑی كے سرے پر آگ لے كر گھمانا۔ بيشي گھمانا۔

اخْتَصَّ - محتاج هونا۔ بِالشَّيْءِ : خاص هونا۔ ه بِالشَّيْءِ : خاص كرتا اور اسي سے هے۔

"الْأَلَّةُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ" اللّٰهُ جِس كُو چاہتا هے اپني رحمت كے ساتھ خاص كر لينا هے۔

تَخَصَّصَ - بِالشَّيْءِ : خاص هونا۔ تَخَصَّصَ الرَّجُلُ : خاص لوگوں ميں سے هونا۔

اِسْتَخَصَّ - الشَّيْءِ : مخصوص هونے كِي

والا هونا۔ الْاَنْفُ : بدبودار هونا۔

تَخَشَّمَ (س) خَشْمًا وَخَشِمًا وَأَخْشَمَ وَتَخَشَّمَ - اللُّحْمُ : بدبودار هونا۔ خَشْمُهُ الشَّرَابُ : ناك كِي جڑ ميں شراب كِي بوجھج كر مست كرتا۔

الْأَخْشَمُ - چوڑی ناك والا۔ بوجھوس نہ كرنے والا۔ اَنْفٌ أَخْشَمٌ : بدبودار ناك۔ مَوْتٌ خَشْمًا جِ خَشْمِ

الْعَيْشِيُّوم - ناك كِي جڑ۔ جِ خَيْبَانِيْم - الخَيْبَانِيْم : ناك كے اندر كِي رگيں۔ خَيْبَانِيْم الْجِبَالِ : پہاڑوں كِي چوٹياں۔ كَمَا جَاتَا فِي "أَضْرَفْتُ خَيْبَانِيْمَ الْجِبَالِ" الْخِشَامُ - شير۔ بڑی ناك والا۔ بڑا پہاڑ جس كِي بڑی چوٹی نكل هوي هِي۔

رَجُلٌ (مَخْشُومٌ) مست مرو۔ خَشْنٌ (ك) خُشْنَةٌ وَخَشَالَةٌ وَخُشُونَةٌ وَخُشُونَةٌ - سخت و كھردرا هونا۔ صفت (خوشين) جِ خِشَانِ

خُشْنَةٌ - سخت و كھردرا هونا۔ كَمَا جَاتَا فِي "خَشْنٌ صَدْرُهُ" اس نے اس كُو عمرہ والا كر بھركاريا۔

خَاشَةٌ - خشي كيا رتا و كرتا۔ تَخَشَّنَ - سخت كھردرا هونا۔ سخت زمين كِي بسر كرتا۔ مونا كھردرا پھنسا۔

تَخَاشَنَ - بخل كھي برتا۔ اِسْتَخَشَنَ - الشَّيْءِ : كھردرا پانا۔

اِخْشَوْشَنَ - سخت كھردرا هونا۔ عَلَيْهِ صَدْرُهُ : غضبناك هونا۔

الْخِشْيَانِ - سخت طبيعت والا۔

الْأَخْشَنُ - سخت و كھردرا۔ مَوْتٌ خَشْمًا جِ - خَشْنٌ كَمَا جَاتَا فِي "رَجُلٌ أَخْشَنٌ" بڑے صل والا۔ "هُوَ أَخْشَنُ الْجَايِبِ" وه زخوار طاقت سے زيادہ هے۔ "كَيْبِيَّةٌ خَشْمَاءُ" بست اختيار والي فوج۔

خَشِيَّةٌ (س) خَشْيًا وَخَشْيَانًا وَخَشْيَةً وَخَشَاةً وَخَشْيَانًا وَخَشْيَةً وَمَخْشَاءَةً - ذرنا۔ خَشَاءٌ تَخَشِيَّةٌ وَخَشَاءٌ - ذرنا۔ خَشَاءٌ فَلَانًا : كسي سے خوف دلانا۔

<p>المِخْصَفُ - السَّائِلُ - ج. مَخَاصِفٌ - شَاةٌ (مَخْصُوفَةٌ) سفید و سیاہ رنگوں والی بکری۔ خَصْل (ن) خَصْلًا - الشَّيْءُ: کاٹنا۔ جدا کرنا۔ (خَصْل (ن) خَصْلًا وَ خِصَالًا) القَوْمُ: قَاتِلٌ ہونا۔ مرتبہ میں بڑھ جانا۔ خَصَلَةٌ: ٹکڑے کرنا۔ الشَّجَرُ: چھانٹنا۔</p>	<p>حصہ جو زمین سے نہ لگے۔ ج. خَصُوفٌ۔ الخَصْرُ - سردی۔ الخَصِيرُ - ٹھنڈا۔ الخِصَارُ - ازار۔ الخِصَاوَةُ - من الانسان: پہلو۔ ج. خَوَاصِرُ - پہلو کا درد۔</p>	<p>المَكَانُ: سرسبز ہونا۔ زرخیز ہونا۔ صفت (خَصِبٌ وَ خَصِيْبٌ وَ مُخْصِبٌ وَ مُخْصَابٌ) أَخْصَبَ - المَكَانُ: سرسبز ہونا۔ اللّٰهُ المَكَانُ: سرسبز کرنا۔ الشَّاةُ: سرسبزی میں پہنچنا۔ القَوْمُ: سرسبز ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَخْصَبَ جَنَابُ القَوْمِ" قوم کا مقام سرسبز شاداب ہے۔</p>
<p>خَاصِلَةٌ خِصَالًا وَ مُخَاصِلَةٌ تیر اندازی میں شرط لگانا۔ أَخْصَلَ - الزَّوْمِيُّ: نشانہ پر ٹھیک لگانا۔ خَاصِلٌ - القَوْمُ: تیر اندازی میں باہم شرط لگانا۔</p>	<p>المِخْصُوفَةُ - ٹیک لگانے کی چیز جیسے لاشمی، چمڑی وغیرہ۔ عمامے شامی جس کو بادشاہ تقرر کے وقت اپنے ہاتھ میں لے۔ ج. مَخَاصِرُ - مَخَاصِرُ الطَّرِيقِ: اقرب ترین راستہ۔ المِخْصَرُ - باریک کر والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مُخْصَرُ القَدَمَيْنِ" وہ ایسا شخص ہے جس کا ٹوکرا زمین سے نہیں لگتا۔</p>	<p>الخَصْبُ - شگوفہ خرما۔ بہت پھل دار درخت خرما واحد (خَصْبَةٌ) الخِصْبُ - سبز گھاس کی کثرت۔ فراخی زندگی۔ ج. أَخْصَابٌ - کہا جاتا ہے "تَلَدٌ خَصِبٌ وَ أَخْصَابٌ" (جگ کا سینہ مائدہ کے لئے) یعنی سرسبز شہر اور کہا جاتا ہے "أَرْضٌ خَصِيْبَةٌ وَ أَرْضٌ خَصْبٌ وَ أَرْضٌ خِصْبَةٌ وَ خَصْبَةٌ"</p>
<p>الخَصْلُ - مہ۔ تیر کا نشانہ پر لگانا۔ شرط جو تیر اندازی میں مقرر ہو۔ جس پر جو اٹھایا جائے۔ کہا جاتا ہے۔ "أَخْوَزَ خَصْلُهُ وَ أَصَابَ خَصْلُهُ" یعنی وہ غالب رہا۔ ج. خَصُوفٌ۔</p>	<p>رَجُلٌ (مَخْصُوفٌ) کرا پہلو میں درد والا۔ أَخْصَرَ - مختصر۔ اِخْتَصَرَ کاسم تفضیل ہے اور شاذ ہے۔</p>	<p>الخَصْبُ - جانب۔ ایک قسم کا پہاڑی سفید ساپ۔ الخِصَابُ - بہت پھل دار درخت خرما۔ واحد (خِصَابَةٌ) (رجل خَصِيْبٌ) بہت فیض والا مرد۔ خِصْرٌ (س) خِصْرًا - القَوْمُ: ٹھنڈا ہونا۔</p>
<p>الخِصْلَةُ - عادت (حسنہ یا قبیحہ) غالب استعمال حسنہ کیلئے ہے) تیر کا نشانہ پر لگانا۔ ج. خِصَالٌ (و الخِصْلَةُ) کچھا۔ کالنے دار کٹری۔ ترکیبی کا کنارہ۔ ج. خِصْلٌ - الخِصْلُ: لگنے ہوئے درخت کا کنارہ۔ الخِصْلَةُ - بالوں کا کچھا گوشت کا عضو۔</p>	<p>خَصَفَ (ض) خَصَفًا وَ أَخْصَفَ وَ اِخْتَصَفَ - النعلُ: جوتا سینا۔ جوتے پر ایک اور چھڑا چھانا۔ الشَّيْءُ عَلَى الشَّيْءِ: چپکانا۔ کہا جاتا ہے "هُمْ يَخْصِفُونَ أَقْدَامَ القَوْمِ بِأَقْدَامِهِمْ" وہ لوگ قوم کی قدم بہ قدم چوری کرتے ہیں۔ خِصِفَ - پہ پیچھے کیا جانا۔ لاحق کیا جانا۔ خَصَفَ - بدخلق ہونا۔ جو کچھ اپنے پاس نہ ہو اس کے تکلف میں کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَصَفَةُ الشَّيْءِ" بڑھاپے نے اس کے نصف ہال سفید کر دیئے۔</p>	<p>الخَصْبُ - ایک قسم کا پہاڑی سفید ساپ۔ الخِصَابُ - بہت پھل دار درخت خرما۔ واحد (خِصَابَةٌ) (رجل خَصِيْبٌ) بہت فیض والا مرد۔ خِصْرٌ (س) خِصْرًا - القَوْمُ: ٹھنڈا ہونا۔ الزَّجْبُلُ: ٹھنڈک کی وجہ سے اطراف اعضاء میں تکلیف پہنچنا۔ أَخْصَرَ - القَوْمُ أَنَامِلُهُ: سردی کا انگلیوں کو ٹھنڈا کر دینا۔</p>
<p>الخِصِيْلَةُ - بالوں کا کچھا گوشت جس میں پھما بھی ہو۔ ج. خِصِيْلٌ وَ خِصَالٌ۔ کہا جاتا ہے "إِنْ تَعَدَّتْ قَرْنَيْهِ وَ اضْطَرَّتْ خِصَالُهُ" اس کے شانہ کا گوشت کا پنے لگا اور پٹھے والا گوشت تھر تھرانے لگا۔</p>	<p>خَصَفَ - بدخلق ہونا۔ جو کچھ اپنے پاس نہ ہو اس کے تکلف میں کوشش کرنا۔ کہا جاتا ہے "خَصَفَةُ الشَّيْءِ" بڑھاپے نے اس کے نصف ہال سفید کر دیئے۔ الخَصْفُ - مہ۔ جوتا۔ الخَصْفُ - سیاہ اور سفید سے مرکب رنگ۔ الخِصْفَةُ - کجگور کے چوں کی بنی ہوئی ٹوکری۔ مَوْنَا كِبْرًا - ج. خَصْفٌ وَ خِصَافٌ۔</p>	<p>خَاصِرَةٌ مُخَاصِرَةٌ - ہاتھ پکڑ کر چلنا۔ کسی کے پہلو میں چلنا یا کسی کے گرد ہاتھ رکھ کر چلنا۔ اِخْتَصَرَ - اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔ الکلام: مختصر کرنا۔ الطَّرِيقُ: قریب کا راستہ چلنا۔ فِي الشَّيْءِ: زائد چیزیں حذف کرنا۔ الزَّجْبُلُ: ہاتھ میں لاٹھی وغیرہ لینا۔ بِالْعَصَا: ٹیک لگانا۔</p>
<p>المِخْصَلُ - شمشیر بڑاں (مفصل میں ایک ضعیف لغت) المِخْصَالُ - دار تکی۔ خِصْنَةُ (ض) خِصْنًا - جھگڑے میں غالب آنا۔</p>	<p>الخَصْفُ - مہ۔ جوتا۔ الخَصْفُ - سیاہ اور سفید سے مرکب رنگ۔ الخِصْفَةُ - کجگور کے چوں کی بنی ہوئی ٹوکری۔ مَوْنَا كِبْرًا - ج. خَصْفٌ وَ خِصَافٌ۔ الخِصْفُ وَ الخِصْفَةُ - چڑے کا کھڑا جس سے جوتے کو سیاہ جائے۔ الخِصْفَةُ - جوتے وغیرہ کا سوراخ۔ الخِصَافُ - بڑا جموٹا۔ موچی۔</p>	<p>تَخَاصَرُ - اپنی گرد ہاتھ رکھنا۔ القَوْمُ: ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کٹھے چلنا۔ تَخَصَّرَ - اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔ بِالْمِخْصِرَةِ - لاٹھی کو ہاتھ میں لینا۔ الخِصْرُ - کر۔ خِصْرُ القَدَمِ: ٹوکے کا گھرا</p>
<p>خَاصِمَةٌ خِصَامًا وَ مُخَاصِمَةٌ - جھگڑا کرنا۔ اسم (المُخْصِمَةُ) ہے۔ أَخْصَمَةٌ - جھگڑا کرنے کیلئے دلیل سمجھانا۔ تَخَاصَمَ وَ اِخْتَصَمَ - القَوْمُ: ایک دوسرے سے جھگڑنا۔ الخِصْمُ - مہ۔ درمقابل۔ مخالف۔ جھگڑا کرنے</p>	<p>الخِصْفُ - مہ۔ جوتا۔ الخِصْفُ - سیاہ اور سفید سے مرکب رنگ۔ الخِصْفَةُ - کجگور کے چوں کی بنی ہوئی ٹوکری۔ مَوْنَا كِبْرًا - ج. خَصْفٌ وَ خِصَافٌ۔ الخِصْفُ وَ الخِصْفَةُ - چڑے کا کھڑا جس سے جوتے کو سیاہ جائے۔ الخِصْفَةُ - جوتے وغیرہ کا سوراخ۔ الخِصَافُ - بڑا جموٹا۔ موچی۔ الخِصْفُ - سیاہ اور سفید سے مرکب رنگ۔ الخِصْفَةُ - کجگور کے چوں کی بنی ہوئی ٹوکری۔ مَوْنَا كِبْرًا - ج. خَصْفٌ وَ خِصَافٌ۔ الخِصْفُ وَ الخِصْفَةُ - چڑے کا کھڑا جس سے جوتے کو سیاہ جائے۔ الخِصْفَةُ - جوتے وغیرہ کا سوراخ۔ الخِصَافُ - بڑا جموٹا۔ موچی۔</p>	<p>تَخَاصَرُ - اپنی گرد ہاتھ رکھنا۔ القَوْمُ: ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کٹھے چلنا۔ تَخَصَّرَ - اپنے پہلو پر ہاتھ رکھنا۔ بِالْمِخْصِرَةِ - لاٹھی کو ہاتھ میں لینا۔ الخِصْرُ - کر۔ خِصْرُ القَدَمِ: ٹوکے کا گھرا</p>

خَضْرُوس (خَضْرُوسِز ہونا۔ الزُّرْعُ: سربز و شاداب ہونا۔
 خَضْرُون (خَضْرُوانِ الخَلِّ: کانا۔
 أَخْضَرُ الرِّئِیِّ النِّبَاتِ: سربز و شاداب کرنا۔
 خَضْرُ الشَّیْ: سبز کرنا۔
 خَاضِرَةٌ مُخَاضِرَةٌ: درخت کے اوپر ہی کچا پھل پھینچ دینا۔
 إِخْضَرُوْا وَخْضَرُوْا: سبز ہونا۔ وَخْضَرُوْا اللَّیْلُ: سیاہ ہونا۔
 إِخْتَضَرَ: الفَاکِہَةُ: وقت سے پہلے کچا کھانا
 العِشْبِ: سبز رہنے ہوئے کانا۔
 الجَارِیَةِ: بلوغ سے پہلے بکارت زائل کرنا۔
 أَخْضَضَ: جوان مرنا۔
 الْخَضْرُ وَالْخَضْرُ: اس ذات گرامی کا نام جن سے سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ اور اس کی کچھ تفصیل سورۃ کف میں ہے۔
 الْخَضِرُ: سبز۔ شئی۔ کھیتی۔ سبز ترکاری۔ سبزہ زار۔
 الْخَضَارُ: نئی سبزی۔ زیادہ پانی ملا ہوا دودھ۔
 الْخَضِیْرُ: سبز۔ سبز ترکاری۔
 الْخَضْرَۃُ: سبز رنگ۔ ترکاری۔ زری و نازکی۔ کہا جاتا ہے۔ "خَضْرٌ فِیْہِ خَضْرَۃٌ" شئی جس میں زری ہو۔ ج خَضْرُ و خَضْرُ و "خَضْرَۃٌ الدِّیْنِ" کوڑے کی سبزی (ایسی چیز جس کا ظاہر اچھا اور باطن خراب ہو اس کیلئے بطور کنایہ استعمال کرتے ہیں) وَالْخَضْرَۃُ فِی الْوِاٰنِ الْاِبْلِیِّ وَالْخِیْلِ: نیلا جس میں سیاہی ملی ہوئی ہو۔
 فِی الْوِاٰنِ الثَّاسِیِّ: گندم گولنی۔
 الْخَضَارُ: سبزی فروش۔
 الْخَضَارَۃُ: سبز ترکاریاں۔ خَضْرَاۃُ: سمندر کیلئے علم ہے اور تانیہ اور معرفہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔
 الْخَضَارِیُّ وَالْخَضِرِیُّ: ایک قسم کا پرندہ جس کا رنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے اور اس کو اخیل بھی کہتے ہیں۔ ج خَضْرَاۃُ۔
 الْخَضْرَاءُ: أَخْضَرَ کا مؤنث۔ الْفِئۃُ الْخَضْرَاءُ: آسمان و خَضْرَاءُ الْقَوْمِ: قوم کا پنا

الْخَاضِبِ شَرْمِغِ جَسْ کے بیخ پر اور جس کی ٹانگیں موسمِ ربیع کی گھاس کھانے سے سرخ ہو گئی ہوں۔
 الْخَضْبُ: سرخ۔ درخت کی سبزی۔
 بَارِشُ کے بعد ترقی آئی ہوئی سبزی۔ ج خَضْرُوب۔
 الْخِضَابُ: رنگ۔ رنگ کرنے کی چیز۔
 الْخِضْبَةُ: بہت خضاب لگانے والی عورت۔
 الْخَضْرُوبُ: بَارِشُ کے بعد ترقی لگی ہوئی سبزی۔
 الْخِضْبُ: رنگا ہوا۔ کہا جاتا ہے "کَفَّ الْخِضْبُ وَامْرَاۃٌ خِضْبٌ" رنگی ہوئی تھیلی۔
 خِضَابُ لَکَاۃِی ہوئی عورت۔ ج خَضْبُ۔ الْکَفُّ الْخِضْبُ: ایک ستارے کا نام۔
 الْمِخْضَبُ: کپڑے دھونے یا رنگنے کا برتن۔ لگن۔
 خَضَّضَ خَضَّضَ: المَاءُ وَ لِحْوہ: ہلانا۔
 تَخَضَّضَ: ہلانا۔
 الْخَضَّاضُ: مِنَ الْاَمَاکِنِ: جگہ جس میں پانی و درخت زیادہ ہوں۔ بڑے پیٹ والا موٹا مرد) وَالْخَضَّضُ: پچھوئی اور پروائی کے درمیان کی ہوا۔
 خَضَدَ (ض) خَضَدًا: العود: بغیر جدا کئے ہوئے ٹوٹا۔ موڑنا۔ الشَّجَرُ: کانٹے کا ٹانہ
 الزَّجَلُ: کھڑکی گاڑ وغیرہ کی مانند تریز
 کھانا۔
 خَضَدَةُ: کانا۔
 تَخَضَّدُوْا وَخَضَدُوا: العود: ٹوٹا۔ اِنْخَضَدَتِ السَّمَاۃُ: بھلون کا پارہ پارہ ہونا۔
 الْخَضَدُ: کائی ہوئی یا ٹوٹی ہوئی کھڑکی۔ پھلون کی پروردگی۔ نباتات کی کمزوری۔
 خَضَدَ الْبَدَنُ: کالی کے ساتھ بدن کا درد اور ٹوٹا۔ خَضَدَ الشَّفْرُ: ٹکانا سفر (۔
 وَالْخَضَادُ: اعضاء کا درد۔
 الْخَضَدُ وَالْمَخْضُوْدُ: اٹھنے سے عاجز کمزور۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ مَخْضُوْدٌ" ریل سے عاجز مرد۔
 الْاِخْضَادُ الْمُتَخَضِدُ: دوہرا ہونے والا۔
 الْمِخْضَدُ: بہت کھانے والا۔

والا۔ تثنیہ جمع اور مؤنث کے لیے بھی مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "هُمَا وَهُمَا وَہِیْ خَضِیْمٌ" ج خَضُوْمٌ وَخِضَامٌ وَخِضَامٌ" الْخَضْمُ: جانب۔ گوشہ۔ ج أَخْضَامٌ وَخَضُوْمٌ۔
 الْخِضْمُ: جھگڑا۔ ج أَخْضَامٌ وَخِضْمَاءُ وَخِضْمَانٌ۔
 الْخِضْمُ: ج أَخْضَامٌ وَخِضْمُوْنَ وَ (الْخَضُوْمُ): جھگڑا۔ مخالف۔ بد مقابل۔
 الْخِضْمِیْنُ: کھاڑی۔ ج خَضْنٌ وَخِضْنٌ (مؤنث ہے کبھی مذکر بھی استعمال کیا جاتا ہے)
 خَضِی (ض) خِضَاءُ: ہ: خضی کرنا۔
 الْخِضِی: فوطوں میں درد والا۔
 الْخِضِیُّ: وہ شخص جس کے فوطے نکال لیے گئے ہوں۔ آختہ۔ ج خِضِیۃٌ وَخِضِیَانٌ۔
 الْخِضِیۃُ: فوطہ۔ ج خَضِی۔ خِضِیۃُ الْبِخْرُو خِضِی الثَّقَلَبِ وَخِضِیۃُ الدَّیْبِکِ وَخِضِیۃُ الْکَلْبِ: مختلف نباتات کے نام۔
 خَضَّضَ: الجَارِیۃُ: سفید مہرے پر سنا کر سنوارنا۔
 خَاضَۃٌ مُخَاضَۃٌ: بیخ بالعرض کرنا۔
 الْخَضَّضُ: سفید مہرے۔ رنگ برنگ کے کھانے۔ بیودہ گفتگو۔ کہا جاتا ہے "منطق خضض"
 الْخَضَّاضُ: کم حیثیت زورور۔ روشنائی۔ قیدی کی بیڑی۔ کتے یا بلی وغیرہ کے گلے کا پٹا۔ رَجُلٌ خَضَّاضٌ وَخَضَّاضَةٌ: بیوقوف مرد۔ مکان (خِضْبِیض) پانی سے تر جگہ۔
 خَضَبَ (ض) خَضَبًا وَخَضَبٌ: الشَّیْ: رنگین کرنا۔
 خَضَبَ (ض) وَخَضَبَ (س) خَضْبُوْنَا وَخَضَبَ وَخَضَبَ الشَّجَرُ وَالْمِکَانَ: سر سبز ہونا۔
 تَخَضَّبَ وَخَضَّبَ: بِالْحِجَاءِ: رنگین ہونا۔ صفت (خِضْبِی) ج خَضَبٌ وَ (مَخْضُوْبٌ وَمَخْضَبٌ)
 إِخْضَرُوْا خَضِبَ إِخْضِیْبًا: الشَّجَرُ: سر سبز ہونا۔

خضع

خضف

خط

۲۰۴

<p>الخَضَلُ والخَضَلُ - صاف موتی - ایک قسم کے ہرے - واحد (خَضَلَةٌ)</p> <p>الخَضَلَةُ - تروازگی - آسودگی - نعمت - زندگی کا آرام و آسودگی -</p> <p>الخَضِيلَةُ - سرسبز و شاداب باغ -</p> <p>المُخَضَّلُ والمُخَضَّلُ - آسودہ زندگی والا -</p> <p>الخَضَلَاةُ - گوگل کلارٹ -</p>	<p>أخضع - عاجز ہونا - عاجز کرنا - کہا جاتا ہے "أخضعنني إليك الحاجبة" تمہارے سامنے حاجت نے مجھ کو عاجز بنا دیا -</p> <p>الخبز فلافا: بڑھاپے کا کسی کو پست گردن بنا دینا - خاصۃً نری سے منگوا کرنا -</p> <p>تخضع وإخضو ضع - بخلاف عاجزی ظاہر کرنا -</p>	<p>حسد - ج خضرواوات - الخضرواوات: ترکاریاں - میوے -</p> <p>الأخضرون - گھاس و درخت -</p> <p>الأخضير - سونہ گوشت و شراب -</p> <p>الأخضير - کسی - آنکھ کی ایک بیماری -</p> <p>المُخَضَّرَةُ - بڑھو زار -</p> <p>خَضْرَب خَضْرَبَةً - الماء: لہریں - ماء (خضراب - لہریں والا پانی)</p> <p>المُخَضَّرِب - فصیح و بلیغ مرد -</p> <p>الإخضير - بچ - کڑی خربوزہ وغیرہ کی قالیچ -</p> <p>الخضراوع والمُخَضَّرِع - بچل جو تکلف سے سادگی کرتے -</p>
<p>خَضَم (ض) و خَضِم (س) خَضَمًا - الطعام: انتہائی داڑھ سے کھانا - نہ بھر کے کھانا -</p> <p>أخضم - لہ فی العطاء: زیادہ دینا -</p> <p>الخَضْمُ: بڑا سمندر - سردار - بڑا فیاض (عورت کی صفت میں یہ نہیں آتا) بڑی جماعت -</p> <p>سار رکھنے کا پھر سَتِيف خَضْمُ: ہشیر پڑاں -</p> <p>الخَضَام والخَضَامَةُ - وہ چیز جو انتہائی داڑھ سے کھالی جائے -</p>	<p>إخضع - عاجز ہونا - الصلوة: لوٹ پڑنے کیلئے سر جھکانا - فی سبوتہ: تیز چلنا -</p> <p>الخضع - سہ پیدائشی گردن کی پستی -</p> <p>الأخضع: ذلت پر راضی - وہی ہوئی گردن والا -</p> <p>المُخَضَّة - ہر ایک سے عاجزی ظاہر کرنے والا - اپنے ہمسرے غالب آنے والا - ج خضع -</p> <p>الخَضَّة والخَضَّة - تلواریں - کوڑے -</p> <p>تلواروں اور کوڑوں کی آواز - کہا جاتا ہے "سبغت للسياط خضعة" میں نے کوڑوں کے پڑنے کی آواز سنی -</p>	<p>خَضْرَم - الأذن: کان کا کچھ حصہ کاٹ لینا -</p> <p>الإخضرم - بہت پانی والا کنواں - بہت بڑا سمندر - کہا جاتا ہے "بخضرم" بہت پانی والا سمندر - و "رجل إخضرم" بہت فیاض مرد -</p> <p>ج - خضرم مؤن (و الخضارم) - ج - خضرم مؤن و خضارم و خضارمة:</p> <p>الخَضْرَم: بیٹھے اور کھاری کے درمیان کا پانی گودہ کا پتہ -</p>
<p>الخَضِيمَةُ - سبز نباتات - بہت نباتات والی زمین - اُبلأوا گیوں -</p> <p>الخَضِيمَةُ - درمیان - چیز کا بڑا حصہ -</p> <p>المُخَضِّم والمُخَضِّمَةُ - آسودہ زندگی والا -</p> <p>خَطَّ (ن) خَطًا بِالْقَلَمِ: لکھنا -</p> <p>الخِطَّةُ لتقسيم: نشان لگا کر اپنے لیے مخصوص کرنا -</p>	<p>الخَضِيمَةُ - آواز جو جانور کے پیٹ سے سنائی دے - سیلاب کی آواز -</p> <p>الخَضِيمَةُ - لڑائی کا شور - میدان جنگ اور اس کا غبار -</p> <p>الخِضْيَع - مِن الرِّجَالِ ذلت پر راضی ہونے والا -</p>	<p>المُخَضَّرَم - غیر مشنون - وہ شخص جو خود کلاہ ہو اور اس کا باپ سفید رنگ کا ہو - وہ شخص جو حسب کے لحاظ سے ناقص ہو - وہ شخص جس نے جاہلیت و اسلام کے زمانوں کو دیکھا ہو - مُخَضَّرَمُ الدُّوْلَتَيْنِ: وہ شاعر جو بنو امیہ اور بنو عباس دونوں کی حکومتوں میں رہا ہو - نَالَهُ مُخَضَّرَمَةٌ: اونٹنی جس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو "مَاءٌ مُخَضَّرَمٌ: بیٹھے اور کھاری کے درمیان کلاہی -</p>
<p>الشَّي: کلمہ وغیرہ سے لکھا - عَلَى الشَّي: نشان لگانا - علامت لگانا - العلام: سبز آغاز ہونا - عداوة: رخسار پر پال لگانا - القبر: کھودنا - الرياح الرمل: دھاری ڈالنا - فی الأرض: لکیر کھینچنا - کہا جاتا ہے "جَارَاهُ فَمَا خَطَّ غَبَارُهُ" اس نے اس کا مقابلہ کیا اور گرد و کوئی نہ پچھا اور کہا جاتا ہے "فلاان يُخَطُّ فِي الأَرْضِ" لہاں اپنے معاملہ میں غورو فکر کر رہا ہے - خَطَّ الطَّعَامُ فِي الطَّعَامِ: تھوڑا کھانا - فِي نَوْبِهِ: خزانہ لینا -</p>	<p>خَضَف (ض) خَضَفًا و خَضَفًا: گوز کرنا - صفت (خَضَيْفٌ و خَضُوفٌ و خَضَافٌ) الخَضَفُ: چھوٹا کڑوا یا کڑوی یا خربوزہ -</p> <p>الأخضف - ساپ -</p> <p>المُخَضَّفَةُ - شراب -</p>	<p>خَضَع (ف) خَضَعًا و خَضَعًا و خَضَعًا - عاجزی کرنا - فروتنی کرنا - سر گنبد ہونا - صفت (خاضع) ج خُضِعَ و (خُضِعَ) ج خُضِعَ - لُ: تابع و فرمانبردار ہونا - النجم: ناکل بخروب ہونا - الرجل: ساکن کرنا -</p>
<p>خَضَلٌ و أخضَلٌ - الشئ: تر کرنا -</p> <p>أخضَلٌ و أخضَلٌ - تر ہونا -</p> <p>الشجر: بہت نشی اور بکھرتا ہے ہوتا -</p> <p>خَضَلٌ و أخضَلٌ - الشئ: تر کرنا -</p> <p>أخضَلٌ و أخضَلٌ - تر ہونا -</p> <p>الشجر: بہت نشی اور بکھرتا ہے ہوتا -</p>	<p>خَضَلٌ و أخضَلٌ - الشئ: تر کرنا -</p> <p>أخضَلٌ و أخضَلٌ - تر ہونا -</p> <p>الشجر: بہت نشی اور بکھرتا ہے ہوتا -</p>	<p>خَضَع (س) خَضَعًا - الرجل: جھکا ہوا ہونا - صفت (أخضع) مؤنث خَضَعَاءُ - خَضَعَةٌ - عاجز کرنا - اللحم: کلنے کلنے کرتا -</p>

الخطا۔ فا۔ جاروگر۔
 الخط۔ تحریر۔ کتابت۔ لہا راستہ۔ خط
 الاستواء: وہ فرضی خط جو کرۂ زمین کو دو حصوں
 شمال و جنوبی میں تقسیم کرتا ہے۔ ج خطوط۔
 وخطوط الکفیف: ہاتھ کی لکیریں۔
 الخط والخط۔ راستہ۔ سڑک۔ محلہ۔
 الخط والخط۔ وہ زمین کہ جس پر سب سے
 پہلے تم آئے اور تم سے پہلے کوئی نہیں آیا۔ زمین
 کا وہ حصہ جو کوئی اپنے لیے خاص کر لے۔ ج
 الخط۔
 الخط۔ کہا جاتا ہے "بَلِّغْ خُطْبَةَ لَيْسْتِ
 مِنْ بَالِي" یہ کام میری شان کا نہیں ہے۔ "وہی
 زامبہ خُطْبَةُ" اس کے سر میں کوئی خیال ہے۔
 ضلت۔ جالت۔ مشکل معاملہ جس کا کوئی حل نہ
 ملے۔ ج خطوط۔ کہا جاتا ہے "فلا تَبْنِي خُطُوطَ
 الْمَكَارِمِ" فلاں شرافت اور بزرگی کے مقامات
 کی بنیاد نہ رکھتا ہے۔
 الخطی۔ نیزہ جو خط کی جانب منسوب ہے۔
 اور بحرین کی ایک بندرگاہ کا نام ہے جہاں نیزے
 پکتے تھے۔ خُطْبَانَةٌ
 الخطوط۔ زمین پر پاؤں کا نشان چھوڑنے
 والا۔ عورت کے ایوروں کی چیز۔ جنگلی گائے۔
 الخطاط۔ بہت لکھنے والا۔
 الخطاط۔ کپڑے پر دھاری ڈالنے کی لکڑی۔
 الخطاط۔ دھاری دار۔ خوبصورت۔
 خطی (س) خطاً۔ غلطی کرنا _____ فی
 ذبیحہ: قصہ آیا بلا قصد غلطی کے راستہ پر چلنا۔
 _____ بخطاً وخطاً: گناہ کرنا۔ صفت (خطاطی)
 ج خطاطہ۔ مؤنث خطاطۃ ج خوطاطی۔
 خطاط (ف) خطاً۔ القِدْرُ بِذَبْحِهَا: جھاگ
 پھینکنا۔
 خطاطۃ تخطیثا وخطیثۃ: غلطی کی طرف
 نسبت کرنا۔
 الخطا الخطا وخطیثۃ۔ غلطی کرنا _____
 الطریق: چوک جانا _____ الرجل: غلطی میں
 ڈالنا _____ الراسی الغرض: نشان پر نہ لگنا
 _____ فی عتبہ: راہ راست سے ہٹ جانا۔
 تخطأً وخطأً: غلطی کرنا۔ تخطأً

وخطأً: غلطی میں ڈالنا _____ السهم
 الزمیۃ: نشانہ سے ہٹ جانا۔ تخطأً لہ فی
 المسئلۃ وبہا: کسی کی غلطی ڈھونڈنے کے
 درپے ہونا۔
 الخطاء۔ گناہ۔
 الخطاء والخطا والخطاء۔ گناہ اور بقول
 بعض غیر ارادی گناہ۔ غلطی۔
 الخطاء۔ بہت غلطی کرنے والا۔ بہت گناہ کرنے
 والا۔
 الخطیثۃ۔ گناہ اور بقول بعض ارادی گناہ۔ ج
 خطایا وخطیثات۔
 خطب (ن) خطبۃ وخطباً وخطابۃ۔ وعظ
 کہا۔ تقریر کرنا۔ پیکرنا۔ حاضرین کے سامنے خطبہ
 پڑھنا۔ کہا جاتا ہے "خطب القوم و فی القوم"
 اس نے قوم کے سامنے تقریر کی۔
 خطب (ک) خطابۃ۔ واعظ ہونا۔ مقرر ہونا۔
 پیکر ہونا۔
 خطب (ن) خطباً وخطبۃ وخطیبی
 الفتاۃ: مگنی کرنا۔ صفت (خطاب) کہا جاتا ہے
 "خطب الفتاۃ علی فلان" اس نے فلاں کے
 لیے لڑکی کی مگنی کی۔
 خطب (س) خطباً۔ الشئی: تیرہ ماں سرخ
 زرد ہونا۔
 خطبۃ خطباً وخطابۃ وخطابینا: باہم
 گفتگو کرنا۔ کہا جاتا ہے "خطبۃ فی فلان" اس
 نے اس سے فلاں کے بارے میں گفتگو کی۔
 الخطب: الصید فلاناً: قریب ہونا _____
 الخطبۃ: رنگین ہونا _____ الخطب: زرد
 ہونا اور سبز دھاریاں پڑنا۔
 الخطب۔ الفتاۃ: مگنی کرنا _____ القوم
 فلاناً: قوم کی لڑکیوں میں سے کسی لڑکی سے
 شادی کرنے کے لیے کسی کو بلانا علی المنبر:
 خطبہ دینا۔
 الخطب۔ م۔ حالت۔ کہا جاتا ہے "ما
 خطبیک" تمہاری کیا حالت ہے اور کس چیز نے
 تم کو اس پر برا سمجھتے کیا ہے۔ معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا
 عموماً بڑے اور پائیدار معاملہ کے لیے مستعمل
 ہے۔ ج خطوب۔

خطل (س) خَطَلًا وَاخْطَلَ. فی کَلَامِهِ: بست بولنا اور نش بولنا۔ فی مَنْطِقِهِ اَوْرَاہ: غلطی کرنا۔ جیسے "إِصَالَةُ الزَّوای صَانِقِي مِنْ الْخَطَلِ" رائے کی اصالت نے مجھ کو غلطی سے بچایا۔

تَخَطَّلَ فِي الْمَشْيِ: تازا انداز سے چلنا۔ الخاطِلُ: باطل۔

الخطل۔ سہ۔ بیوقوفی۔ سکی۔ سرعت۔ بست رومی گفتگو۔ کہا جاتا ہے۔

"أَزَى فِي مَشْيِهِ خَطَلًا" میں اس کی حال میں ضعف محسوس کرتا ہوں۔ گفتگو پریشان۔

الخطیل۔ بیوہ گفتگو والا۔ بیوقوف۔ سہم خطل: نشانہ سے خطا کرنے والا تیر۔ قُوْبُ خطل: موٹا کھردرا کپڑا لہبائی کی وجہ سے زمین پر کھینچے۔ ج خطل اور کہا جاتا ہے "رجل خطل الیدین" سخت ہاتھوں والا مردو "ذمخ خطل" بے ذول لہبائیزہ۔

الخطیل: تیز اور جلدی تیزہ مارنے والا۔ جیسے "أَحْوَسُ فِي الْهَيْجَاءِ بِالذَّمْحِ خَطْلٌ" شجاع و بہادر لڑائی میں تیز اور جلدی تیزہ مارنے والا ہوتا ہے۔ خطل بالمعروف: دوادوہش میں جلدی کرنے والا۔

الخطل۔ لمبے اور نلکے ہوئے کانوں والا۔ بیوہ گفتگو والا۔ سوت خَطَلًا ج خطل۔ الخطیطل: کتا۔ ملی۔ مصیبت۔ عطر فروش۔ بُدِي دِل۔

خَطْمَةٌ (ض) خَطْمًا وَاخْطَمَتْهُ. بِالْخَطْمِ: کھیل لگانا۔ خَطْمَةٌ بِالْكَلامِ: خاموش کرنا۔ مغلوب کرنا۔ خَطْمُ الزَّجَلِ: ناک پر مارنا۔ (

خَطْمًا وَاخْطَمًا) الْقَوْسُ بِالْوَتْرِ: کمان پر تانت چڑھانا۔

اِخْطَمَ الْخَطْمُ: کھیل لگانا۔ اِخْطَمَ وَالْمَغْطَمُ: ناک۔

الخطم۔ سہ۔ ناک کا اگلا حصہ۔ چونچ _____ مِنَ الدَّابَّةِ: چوپایہ کی ناک اور منہ کے سامنے کا حصہ۔ اَمْرٌ عَظِيمٌ: بھاری چوٹی۔

الخطم۔ مہار۔ کھیل۔ کمان کی تانت۔ ج۔ خطم۔

رجبہ چیز کا مثل۔ کہا جاتا ہے "أَيْتَسُ لَمْ خَطِطُوا" اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔

المخاطب: خطرے (اس کیلئے مقرر نہیں) الخطوب والخطار: افسر پر داز۔ جموٹا۔

خطوف و خطوف: چلنے میں جلدی کرنا۔ صفت (خطوف و خطوف): خطوفہ بالشیف: تلوار سے مارنا۔

خطف (س) خطفًا۔ الشئ: اچک لینا البزق البصر: چندھا کر دینا _____ السمع: چوری سے سنا۔

خطف (س) و خطف (ض) خطفًا: تیز چلنا۔ صفت (خطیف و خطيف) خطف: اچک لینا (شدید مبالغہ اور تکثیر کے لیے ہے)

أخطف: خطا کرنا _____ المرص: بیماری کا ہلکا ہونا یا بالکل زائل ہونا _____ الرجل: کچھ تیار ہونا اور جلدی سے ٹھیک ہونا۔

تخطف واخطف: الشئ: چھین لینا۔ کھینچنا۔ کال لینا۔ اچک لینا۔ الخطف والخطف: لاغری اور پہلوؤں کا ڈبلا پن۔

الخطفة: چھپنا۔ عضو جس کو درندہ چھپانا کر آتا رہے یا انسان کسی زندہ جانور سے کاٹ لے۔

الخطاف: نا۔ بھینڑیا۔ تیر جو زمین پر پڑ کر نشانہ پر لگے۔ ج خواف: اخطف الخس: ڈبلا۔

الخطوف: درآتی کی مانند جس کو جال میں باندھ کر ہرن وغیرہ کا شکار کرتے ہیں۔

الخطاف: الخطاف کا اسم مبالغہ۔ چور۔ شیطان۔ ابابیل کی مانند ایک پرندہ۔ الخطاف: آگس کی مانند ایک قسم کا ٹیڑھا لہب جس سے کسی چیز کو اچک لیا جائے۔ ج خطاطيف و خطاطيف السباع: درندوں کے چنگل۔

الخطفي والخطفي: تیز رفتاری۔ کہا جاتا ہے "هو يمشي الخطفي" وہ تیز چلتا ہے۔ الخطيفة: ایک قسم کا مہار جو آنے میں دو دوہلا کر نکلتے ہیں اور پھر چوچے سے جلدی جلدی کھلتے ہیں۔

ہونا۔ صفت (خطي) ج خطوف: مخاطف مخاطفة۔ بتقسیم: خطرہ میں ڈالنا۔

ہ علی کذا: شرط لگانا۔ أخطف الشئ فی او علی او ببالہ: یاد دلانا۔

ہ: پلند مرتبہ میں ہم مثل ہونا _____ المال: مال کو شرط پر رکھنا _____ التریض: خطرہ میں ہونا۔ صفت (مخطو) تخطوی۔ چھانڑنا۔ تجاوز کرنا۔ کہا جاتا ہے "تخطو انی خس فلان" فلاں کا شر مجھ سے تجاوز کر گیا۔

تخطو القوم علی الشئ: شرط لگانا۔ الخطر: غلہ کا ایک بڑا پیانا (_____ والخطر) اونٹ کے سرہوں پر بٹنگی اور پیشاب مل کر جموا ہوا۔ ہادل جو سامنے ظاہر ہو۔

الخطر۔ بست پانی ملا ہوا دو دوہ۔ بست سے اونٹ۔ شرح: ایک قسم کی گھاس جس کو بطور خضاب کے استعمال کرتے ہیں۔ ج أخطار۔

الخطر۔ قریب ہلاکت ج أخطار۔ کہا جاتا ہے "تکینوا الاخطار" وہ لوگ خطروں میں پڑ گئے۔ شرافت۔ بلندی۔ رجبہ۔ مثل۔ ہم پلہ (اور ذی رجبہ چیز ہی میں استعمال ہوتا ہے) جیسے فی ظل عیش خطیب مآلة خطر۔ شرط جو گھوڑوں میں لگا لیا جائے۔ ج خطار۔ ج خطور۔

الخطوة: ایک بار۔ تم کہتے ہو "مألقته الأخطوة" میں اس سے ایک بار ملا۔

الخطاير: نا۔ امر یا تدبیر جو دل میں گزرے خیال اور بھی دل اور نفس پر بھی مجازاً اطلاق کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے "وقع فی خطايری" میرے دل میں واقع ہوا۔ و "فلاں سرفیع الخطاير" فلاں تیز طبیعت ہے۔ و "جاش الشئ فی خطايری" میرے دل میں شہری آمد ہوئی۔ ج خواف۔

الخطار۔ الخطار کا اسم مبالغہ۔ عطر فروش۔ تیزہ مارنے والا۔ تیزہ۔ کوچمن۔ زیتون کا خوشبودار تیل۔ شیر۔

الخطارة: اونٹوں کا یاڑہ۔ الخطور: صلی مرتبہ۔ شریف۔ مہار۔ رتی۔

ترمرے۔ رات کی تاریکی۔ دھکی۔ شادمانی۔ پلند

پڑھنا۔ خَفَفَتْ: پست ٹنگو کرنا۔ تَخَافَتْ: بگلف ضعف وسکون ظاہر کرنا۔
 الخُفْفَت: ایک قسم کی نباتات۔
 الخَفْفَتَان: چلتے (جنگ میں پہننے کا ایک لباس) (دخیل)
 الخِافَت: بے پانی کا بادل۔ زرع خِافَت: کزور پودہ جو ابھی لمباندہ ہوا ہو۔
 الخَفْفَلُ وَالخَفْفَالِيل: کم عقل۔ ضعیف البدن۔ ج خفقال۔
 خَفِج (س) خَفَفَجَا۔ البعیر: خفج کی بیماری لاحق ہونا۔
 الخَفِيفِج: کزور۔ رشت۔
 الأَخْفَج: خفج کی بیماری والا۔ ٹیرھے پاؤں والا۔ عموماً خفج: ٹیرھا ستون۔
 الخَفِيج: ناگموں میں لاکڑاٹھ ہونا۔
 خَفَفَ خَفْفَةً الخَنْزِيرُ أو الصَّبْغُ: آواز کرنا۔ الزَّجَلُ قَبِيضَةُ الجَدِيدِ أو القَرْطَاسُ: حرکت دینے سے آواز نکلتا۔
 الخَفَفَخَاف: وہ شخص جس کی آواز ناک سے نکلتی ہوئی معلوم ہو۔
 خَفَدَ (ن) خَفَدًا وَخَفَدَانًا وَخَفِدَ (س) خَفَدًا: تیز چلنا۔
 الخَفْدُ دَو الخَفْدُود: چگڑا یا چگڑاڑکی مانند ایک دو سرا پرندہ۔
 الخَفِيدُود: تیز چلنے والا۔ شتر مرغ۔ ج خَفَادُود وَخَفَادِيدُود خَفِيدَات:۔
 خَفَر (ن) خَفَرًا وَخَفَرًا: وہ وہو عَلَيَّو: پناہ دینا۔ خِافَتْ کرنا۔ اَمِنَ دِنًا: ہ پناہ دینے کی اجرت لینا۔ خَفَرًا بِالْمَهْدِ: وفکارنا۔ عَمِدَ پورا کرنا۔ () خَفَرًا وَخَفَرًا: فَلَائًا: عَمِدَ تَوَزُّعًا۔ بیوقوفی کرنا۔
 خَفِيرَات (س) خَفَرًا وَخَفَرًا: الجَارِيَةُ: بت شرمیلی ہونا۔ صفت (خَفِرٌ وَخَفِيرَةٌ وَمِخْفَار) خَفِرَهُ: اَمِنَ دِنًا۔ خِافَتْ کرنا۔ شرمندہ کرنا۔ کسی کے ساتھ رہ رہ کر بھیجنا۔
 خَفِرَ: پہ: پناہ دینا۔ پناہ لینا۔ رہ رہنے کو کہنا۔ تَخَفَّرَتِ الجَارِيَةُ: بت شرمیلی ہونا۔

خَفَفَ: الشَّيْءُ: ہلکا کرنا۔ الحرف: مشدود کرنا۔ الثوب: باریک بنا۔
 أَخَفَّ: کم سالن والا ہونا۔ سبک حال ہونا۔
 الرجل: جمالت پر آکسانا۔ عیب لگانا۔
 تَخَفَّفَ: چری موزہ پہننا۔ جلدی کرنا۔
 تَخَافٌ: ہلکا چمکا ہونا۔
 اسْتَخَفَّفَهُ: ہلکا سمٹا۔ جاہل سمٹا۔ حق و صواب سے ہٹانا۔ ه الغناء: طرب و نشاط میں ڈالنا۔ ه القلوب:۔
 اسْتَخَفَّفَ بِهِ: حقیر بنانا۔
 الخُفُّ: ہلکا۔ تھوڑی جماعت۔ کہا جاتا ہے "خروجَ فِينِ خِفِّ مِنْ أَصْحَابِهِ" وہ اپنے تھوڑے سے ساتھیوں کے ساتھ نکلا۔
 الخُفُّ: اللَّبِيْبِرِ وَالتَّعَامِ: اُونٹ اور شتر مرغ کی ٹاپ۔ چری موزہ۔ ج أَخْفَافٌ وَخِيفَافٌ: کہا جاتا ہے "خَفُّ صَاحِكٌ" پٹنا ہوا موزہ۔ الخُفُّ: قدم کا وہ حصہ جو زمین سے لگے۔ سخت زمین۔
 الخِفَّةُ: ہلکا پن (جسم میں ہو یا عقل میں یا عمل میں)
 الخَفِيفُ: ہلکا۔ پھرتلا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خَفِيفُ الرُّوحِ" وہ لطیف اچھی صحبت والا ہو۔ "خَفِيفُ القَلْبِ" ذکی و "خَفِيفُ العَقْلِ" بیوقوف و "خَفِيفُ الظُّهْرِ" کم اولاد والا و "خَفِيفُ اليَدِ" پھرتلا و "خَفِيفُ العَارِضِيْنَ" دائرگی میں کم بال والا۔ ج أَخْفَافٌ وَخِيفَافٌ وَخَفِيفٌ: علم عروض کی اصطلاح میں ایک بحر کا نام۔ الخِفَاف: ذکی تیز فہم۔ الخِفَاف: چری موزوں کا بیچنے والا۔ الخُفُوف: بجز۔
 خَفَا (ف) خَفَاً: الشَّيْءُ: اُكْبِرَ كَرِزِمِیْنِ پرنکنا۔ البيت: ڈھا کر گردنا۔ القُرْبَةُ: سٹک کو پھاڑ کر زمین پر بچھارنا تاکر پانی جذب نہ ہو۔ خَفَّتَ (ن) خَفَفَتْ: الصَوْتُ: پست ہونا۔ صفت (خِافَتٌ وَخَفِيفَةٌ): () خَفَفَاتًا: اچانک مرنا۔ () وَخَفَفَاتًا وَخِافَتٌ وَخِيفَتٌ: بکلامیہ و بصویہ: پوشیدہ رکھنا۔ پست کرنا۔ آہستہ کرنا۔ بِالْقِرَاءَةِ: آہستہ

الخِافِطِم: فا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ خِافِطِمٌ أَمْرٌ يَبِيْنُ فَلَانٍ" فلاں ہونا فلاں کا نام ہے اور ان کے معاملات کا تنظیم ہے۔
 الخِطَامُ: اسم مبالغہ۔ مِسْكٌ خِطَامٌ: ناک کو خوشبو سے بھر دینے والی کستوری۔
 الأَخْطَمُ: لمبی ناک والا۔ کالا۔ مَوْنَتْ خِطْمَاءُ: ج خُطْمٌ۔
 الخِطْمِيُّ: ایک قسم کی نباتات جو دو اونس میں کام آتی ہے۔ واحد (خِطْمِيَّة) خِطَا (ن) خَطَطُوا: قدموں کے درمیان کشادہ کر کے چلنا۔
 خَطَا وَأَخْطَى: الرجلُ: قدموں کو کشادہ کر کے چلانا۔ خَطَى عَنَهُ الشَّيْءُ: زائل کیا جانا۔
 تَخَطَّى تَخَطُّيًّا وَخِطَطَى: اِخْتِطَاءً: ه إلى كَذَا: بجانڈنا۔ تجاوز کرنا۔ آگے بڑھ جانا۔
 الخُطْوَةُ: چلنے کے وقت دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ۔ عوام اسے فسخہ کہتے ہیں۔ مسافت۔ کہا جاتا ہے۔ قَوْبَ اللّٰهِ عَلَيكَ الخُطْوَةُ: اللّٰهُ تعالیٰ مسافت کو تمہارے لیے قریب کر دیں۔ ج خَطَى وَخُطَوَاتٌ وَخُطَوَاتٌ وَخُطَوَاتٌ۔
 الخُطْوَةُ: بمعنی خُطْوَةُ خَطَاكَ اِسْمُ مَرَّةٍ لِي الْمَسَاحَةِ: چھ قدم۔
 الخُطْيَةُ: گناہ۔
 خَطَايَا خُطُوًا خِطْوَةً: اِسْمُ مَرَّةٍ مَرَّتَا: الخُطَى: الرجلُ: مونا ہونا۔ أَخْطَاه: مونا کرنا۔
 الخَطِي: گھٹے بدن والا۔ کہا جاتا ہے "اِمْرَاةٌ خَطِيَةٌ بَطِيَّةٌ" گھٹیل بدن کی عورت۔
 الخِيفَلُ: بھیڑیا۔ چلاوہ۔ بغير آستينوں کی قيس۔ کہا جاتا ہے "خَيْفَلَةٌ" یعنی اس نے اس کو بغير آستينوں کی قيس پہنائی۔ اور (تَخَيْفَلٌ) اس نے بغير آستينوں کی قيس پہنی۔
 خَفَّ (ض) خَفًّا وَخَفْفَةً وَخَفَّةً: ہلکا ہونا۔ خِفِيفٌ العَقْلُ: ہونا۔ کم سال والا ہونا۔
 المَطَرُ: کم ہونا۔ () خَفًّا وَخَفْفَةً وَخَفَرًا: إلى العَدُوِّ: جلدی کرنا۔ القَوْمُ: جلدی کوچ کر کے کم ہونا۔

کا گھوڑا (خَفِيفَةٌ اور خَفِيفَةٌ) میں آسانی کی نہیں
مبالغہ کی ہے۔) ج خَفِيقٌ وَ خَفِيقَاتٌ وَ
خَفِيقَاتٌ۔

الخَفِيقُ - نا۔ مکان خَفِيقٌ: انیس سے خالی
جگہ۔ زَجَلٌ خَفِيقٌ الْعَيْنِ: دھنسی ہوئی آنکھ
والا۔

الخَفِيقُ - اسم مبالغہ - خَفِيقُ الْقَدَمِ: وہ شخص
جس کے قدم کا گلا حصہ چوڑا ہو۔

الخَفِيقَةُ - ذریعہ امرؤَةٌ خَفِيقَةُ الْحَشَا: پتلی کر
والی عورت۔

الخَفِيقَانُ - پورب و پچیم۔

الخَوَافِقُ وَالْخَفِيقَاتُ - خافقه کی جمع۔
جمنڈے - خَوَافِقُ السَّمَاءِ: ہوا چلنے کی چاروں
سمتیں۔

الخَفِيقُ - مہمیت۔ بہت تیز رفتار گھوڑا یا
اونٹنی۔ وسیع بیان جس میں سراب چمکتا ہوا
معلوم ہو۔

المُخَفِقُ - ہموار زمین جس میں سیراب
حرکت کرتا ہو۔

المُخَفِقُ - چوڑی گھوڑا۔

المُخَفِقَةُ - کوڑا جس سے مارا جائے۔ اور
بقول بعض کڑی کا کوڑا۔

مخافیق - النجم: ستاروں کے غروب ہونے
کی جگہیں۔

المُخَفِقُ - مغرب - پاکل - دیوانہ۔

الخَفِيفُ - بھاگنے والا۔

الخَفِيفُ - پیٹ کلاھیلا ہونا۔

الخَفِيفَانُ - بُدِيٌّ واحد (خفیفانہ)

الخَفِيفَانُ - شرمخ کے چوزے۔

الخَفِيفَانُ - ایک قسم کا نرم پتھر۔ یہ استعمال عوام
سے ہے فصیح لفظ "الرخفة" ہے۔

خَفَا (ن) خَفُوا وَ خَفُوا: اليرق: چمکتا
_____ الشئ: ظاہر ہونا۔

خَفَى (ض) خَفِيَا وَ خَفِيَا: الشئ: ظاہر کرنا۔

کما جاتا ہے "خَفِي الْمَطَرُ الْفَازَ" بارش نے

چوہے کو ٹیل سے نکال دیا۔ چھپا ہوا۔ پوشیدہ کرنا۔

(ضد)

خَفَى (س) خَفَاءٌ وَ خَفِيَةٌ وَ خَفِيَةٌ: پوشیدہ

تَخَفَضَ - الامرؤ: آسان ہونا۔

انْتَفَضَ - بلندی کے بعد پست ہونا _____

الصوت: پست ہونا۔

انْتَفَضَ - السمور: بھاڑ گرنے۔

الخَفِيفُ - نا۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں

سے ہے۔ اور کہا جاتا ہے "هُوَ خَفِيفُ الطَّبِيرِ

وَ خَفِيفُ الْجَنَاحِ" وہ باوقار اور تحمل الزناج

ہے۔ مؤنث خَفِيفَةٌ - المَخْفِضَةُ: لڑکیوں کی

تندر کرنے والی۔

الخَفِيفُ - مد () وَ الخَفِيفَةُ: آسودگی۔

فراخی کی زندگی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لِي خَفِيفٌ مِنَ

الْعَيْشِ" وہ آسودہ زندگی میں ہے۔

خَفَعَ (ف) خَفَعًا: بھوک وغیرہ سے چکرا کر

گرا۔ خَفَعَهُ بِالسَّيْفِ: تلوار سے اڑا۔ (خَفَعًا

وَ خَفَعَانًا) السستز: بلنا۔

أَخَفَعَهُ الْجُوعُ: چکرا کر گرا دیا۔

انْتَفَعَ: بیہوشی کے قریب ہونا۔

المُخَفِقُ - دیوانہ۔

خَفَقَهُ (ن) خَفَقًا بِالسَّيْفِ: آہستہ تلوار

سے مارنا _____ التَّغْلُ: جوتے سے آواز لگانا

خَفَقُوا وَ خَفِقُوا وَ خَفِقَانًا) الفؤاد: دھڑکنا

_____ الزَّايَةُ: پھڑپھڑانا _____ التَّبْوُقُ: کوندنا

خَفِقُوا) النجم: غروب ہونا _____

الليل: اکثر حصہ گزر جانا _____ الطائِرُ: اڑنا

_____ الرجلُ لهُ البلادُ: سفر کرنا _____

المكان: خالی ہونا۔

أَخْفَقَ - مضرب ہونا۔ حاجت میں ناکام رہنا۔

مردم ہونا _____ القومُ: قوم کے گوشہ کا تم ہو

جانا _____ بزایبہ: اونگھ سے سر ہلانا _____

بشؤبہ: کپڑے کو حرکت دے کر اشارہ کرنا _____

النجمُ: غروب ہونا _____ الطائِرُ: بازو پھڑپھڑانا

_____ ہ: پھاڑنا۔

إخْتَفَقَ - العلمُ او السرابُ: جمنڈے کا یا

سراب کا بلنا۔

الخَفِيفَةُ - خَفِقٌ كاسم مرؤ۔

الخَفِيفَةُ - کوئی چیز جس سے ارا جائے۔ جیسے تسمہ

وغیرہ۔

الخَفِيفُ وَالْخَفِيفَةُ وَالْخَفِيفُ وَالْخَفِيفَةُ: پتلی کر

الخَفَاةُ - (بتثلیث الخاء) رہبری۔ عمد۔

الخَفَاةُ - راہبری اُجرت۔

الخَفْوَةُ - خفارة کے معنی میں اسم ہے۔ کہا

جاتا ہے "هو في خفوة الله" وہ اللہ کے ذمہ ہے

"هَذَا خَفْوَتِي" یہ میرا رہبر ہے۔

الخَفْوَةُ - پناہ دیا ہوا۔ پناہ دینے والا۔ حمایت و

حماکت کرنے والا۔ ج خَفْوَاءُ۔

الخَفْوَةُ - پناہ دینے والا۔

خَفَسَهُ (ن) خَفَسًا: ٹھٹھا کرنا۔

خَفَسَ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ: تموڑا کمانا پینا۔

البناء: عمارت ڈھانا۔

خَفَسَ (ض) خَفَسًا وَ أَخْفَسَ - بہت بد زبانی

کرنا۔

انْتَفَسَ - الماء: پانی کا خنجر ہونا۔

تَخَفَسَ - الرجلُ: لیشا۔

شراِبٌ (مُخَفِضٌ) جلد مست کرنے والی

شراِب۔

خَفَسَ (ن) خَفَسًا: بہ: پھینکنا _____

البناء: ڈھانا۔

خَفِيشُ (س) خَفِيشًا - کمزور ہونا۔ پیدائشی

کمزور نظر والا ہونا۔ تنگ آنکھ والا ہونا۔ روتوند والا

ہونا۔ صفت (خَفِيشٌ وَ أَخْفَشُ)

خَفِيشُ - البدنُ: بدن کا کمزور ہونا۔

_____ البناء: عمارت ڈھانا _____ الرجلُ:

پچھاڑ کر کچل دینا _____ بالارض: زمین سے

چننا۔

الخَفِيشُ - چگاوڑ۔ ج خَفِيشٌ

خَفِيفَةٌ (ض) خَفِيفًا: پست کرنا۔ الصوت:

آہستہ کہنا _____ الكلمةُ: زبردیا۔ خَفِيفٌ

الصوتُ: آہستہ ہونا _____ بالمكان:

اقامت کرنا _____ الرجلُ: مرنا _____

الابلُ: آہستہ چلنا _____ الحارِبَةُ: خند کرنا۔

خَفِيفٌ (ک) خَفِيفًا: العيشُ: آسودہ و

خوشحال ہونا۔ صفت (خَفِيفٌ وَ خَفِيفٌ وَ

خَفِيفٌ وَ مَخْفُوفٌ)

خَفِيفُ الشئِ: آسان کرنا۔ نرم کرنا اور اسی

سے ہے "خَفِيفٌ عَلَيْكَ" یعنی اپنے اوپر نرمی

کرنا۔

الخلل - سستی - فساد - رائے میں اشتکار و پراگندگی - شگاف - دراز سوج خجلال -

الخلل - دانتوں کے درمیان خوراک کا بقیہ - واحد (خجلۃ) کہا جاتا ہے "هو خجلل القوم" وہ قوم کے درمیان ہے -

الخللۃ - عادت - سوراخ - تھوڑا سرکہ تھوڑی سی کھٹی شراب - حاجت - محتاجی - ج خجلال و خجلل - الخللۃ - بھلی پھٹکی عورت -

الخللۃ - گھاس جس میں مٹھاس ہو - ج خجلل - دوستی - عادت - بیوی - محبوبہ - دوست (واحد تشبیہ جمع مذکر مؤنث سب کے لئے) تم کہتے ہو "هو وهی وهن خلیتی"

الخللۃ - دوستی - بھائی بندی - تلوار کی میان جس پر چمڑا منڈھا ہوا ہو - چمڑا جو منقش ہو - ج خجلل و خجلال -

الجلال - سوراخ کرنے کا آلہ - لکڑی جو اونٹ کے بچے کی زبان میں لگادی جاتی ہے تاکہ دودھ نہ پی سکے - ج آجلۃ (___) والجللۃ) دانت صاف کرنے کا تکانا -

الجلال والجللۃ - دانتوں کے درمیان خوراک کا بقیہ - و جللال الیدیار - شہروں کا ارد گرد - گھروں کے درمیان - کہا جاتا ہے هو جللالہم: وہاں کے درمیان ہے -

الجللۃ والجللۃ والجللۃ - سچی دوستی - الخلیل - خالص دوست - ج آجلۃ و خلان - لاغر بدن - فقیر - مؤنث خلیلۃ - ج خلیلات و خلیل - سنی خلیل: چھدی ہوئی چیز -

الجلال - سرکہ پیچنے والا - سرکہ بنانے والا - الأجل - محتاج - دوسرے سے زیادہ محتاج - رجل (مخل) محتاج مرد - خلال (ف) خلوة - ا - جگہ سے نہ لٹنا - خللات النافۃ: آڑ جانا -

خاللا مخلالۃ - القوم: ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری میں مشغول ہو جانا -

خلبۃ (ن ض) خلبنہ - بظفرہ: خراش لگانا - رضی کرنا ___ السنیع الفریسۃ: جنگل سے چلانا ___ الفنی: جوان کے دل کو چھین لینا -

خَوَافِن - کہا جاتا ہے (خَفَنَهُ) القوم علی انفسہم: لوگوں نے اس کو اپنا بار شاہ بنالیا -

خَل (ن ض) خَلًا و خُلُولًا - لَحْمُهُ: ڈبلا ہوتا - کم گوشت ہونا (ن خَلًا) الشئی: سوراخ کرنا -

الفصیل: زبان کو چیر کر دودھ سے روکنے کیلئے لکڑی ڈالنا ___ فی دُعَابِهِ: خاص کرنا -

خَلَّ: إِلَیْهِ: محتاج و فقیر ہونا - خَلَّل - العَصِیْر: سرکہ بنا کرنا -

العَصِیْر: سرکہ بنانا ___ الأستنان: خلال کرنا - خَلَّلَ فی دُعَابِهِ: خاص کرنا -

خَالَةٌ مُخَالَةٌ و خِلَالًا و خِلَالًا: دوستی کرنا - بھائی بندی کرنا -

أَخَلَ: محتاج ہونا ___ بالشئی: کوتاہی کرنا - چھوڑ دینا ___ الوالی بالثغور: لشکر کم کر دینا

بمؤکڑہ: مرکز کو چھوڑ دینا ___ یقومہ: عاقب ہو جانا ___ بالزجل: پورا حق نہ دینا - بالامر ہرے طریقے سے انجام دینا - لگاڑ دینا - آخلۃ اللہ: محتاج کر دینا - آجل بالرجل:

محتاج ہونا - تخلل - القوم: قوم میں مل جانا ___ ہ بالزومع: پاپے نیزے مارنا ___ الشئی فیہ: نشوونہ کرنا ___ المنظر: مخصوص جگہ میں برسا ___ الزجل: خلال کرنا -

أختل - الامر: کمزور و فاسد ہونا ___ عقلہ: خراب ہونا ___ إِلَیْهِ: محتاج ہونا ___ العَصِیْر: سرکہ بنا کرنا ___ العَصِیْر: سرکہ بنانا ___ لَحْمُهُ: لاغری کی وجہ سے کم ہونا ___ الزجل: اپنے لیے سرکہ بنانا -

تَخَالَفَ اِتِّخَالَأ: باہم دوستی کرنا - الخلل - سرکہ - ریگستانی راستہ - ذیلے جسم والا - لاغر - موٹا - بوسیدہ کپڑا - کپڑے کی بچھن - ج

أخَّل و خجلال - کہا جاتا ہے "قاله خَلَّ وَلَا خَمْرٌ" اس کے پاس نہ جید ہے نہ روی "و لَسْتُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ فِی خَلٍّ وَلَا خَمْرٍ" مجھ کو اس معاملہ کے نہ خیر سے مطلب نہ شر سے کام - أَمَّ الخَلَّ: شراب -

الجل و الغل - دوست - مؤنث خَلَّ و خَلَّة - ج آجلال - الخاف - خوف - خفی - پوشیدہ کرنا - چھپانا - کہا جاتا ہے "أَخْفَ عَنَّا" ہمارے متعلق جو تم سے دریافت کرے اس سے ہماری حالت چھپاؤ -

وَأَخْفَى الرَّجُلُ: چھپانا - پوشیدہ ہونا - أَخْفَى الشئی: سرپوش بنانا - تَخْفَى و اسْتَخْفَى: چھپنا - پوشیدہ ہونا -

إخْتَفَى الشئی: ظاہر کرنا - نکالنا ___ مِنْ فُلَانٍ: چھپنا ___ البئر: کھودنا - الخفاء - مہ - پوشیدگی - کہا جاتا ہے "بوح الخفاء" یعنی معاملہ واضح ہو گیا - پردہ - چادر - لباس کو چھپالے - پوشیدہ چیز - ج أَخْفِیۃ - أَخْفِیۃ الکوزی: آنکھیں - أَخْفِیۃ الزھرة: کلی کے خلاف -

الخفیفی: لوگوں سے علیحدہ - مخفی جگہ میں رہنے والا - کہا جاتا ہے "رجلٌ خَفِی البطن" بچکے ہوئے پیٹ کا مرد -

الخافی والخافیاء - جن - الخافیۃ - الخافی کا مؤنث - پوشیدہ چیز پوشیدگی - جن - ج خواف - اور کہا جاتا ہے "أَرْضٌ خَافِیۃ" جنوں کی سرزمین -

الخوافی - پرندے کے بازوؤں کے نیچے چھپے ہوئے پر - اور امثال عرب سے ہے "لینس القوادیم کالخوانی" سچ پر چھوٹے پروں کی مانند نہیں -

الخافیۃ - الخافی کا مؤنث - گنجان - جھاڑی - کنواں جس میں پانی ہو - ج خفایا و خفیات کہا جاتا ہے - "بہ خفیۃ" اس پر کچھ جنوں دیا گئی کا اثر ہے -

المُخْفِی: فافکن چور - خَفَّت (ن ض) خَفَّوْا خَفَقًا و خَفِیْقًا: القدر: جوش سے سنسانا - حَقَّ السَّیْلُ فِی الْأَرْضِ: گہرا گڑھا کر دینا (___) و أَخْفَتْ:

البکوة: چرخی کے سوراخ کا چوڑا ہونا - الخقی - ج أَخْفَاقٌ و شَقُوقٌ و الْأَخْفَاقُ و الْأَخْفِیْقُ: زمین کا شگاف - تالاب جبکہ خشک ہو جائے -

خَاقَان - ترکوں کے بادشاہ کا لقب - ج

خلج

خلج

خلس

۲۱۰

اور فتنہ میں جھٹا کرنا۔ خَلَبَهُ (ن) خَلَبًا وَخَلَابًا وَخَلَابَةً وَخَالِبَهُ مُخَالِبَةً وَخَلَبَهُ وَاخْتَلَبَهُ : نرم کلامی سے فریفتہ کرنا۔ صفت (مخالب و مخلوب و خلاب و وخلبوت) مؤنث خالِبَةٌ وَخَلِبَةٌ وَخَلْبُوت وَخَلَابَةٌ وَخَلْبُوت۔ خَلِبَتْ (س) خَلَبًا۔ المرأة: بیوقوف ہونا۔ صفت خَلِبَاء۔ اخْتَلَبَ۔ الماء: کچھ والا ہونا۔ صفت (مخلب) اسْتَخَلَبَهُ۔ بظفرہ: خراش لگانا۔ الخَلْبُ۔ جگر کے اوپر کی جھلی۔ انگوڑ کے پتے۔ ج اخْتَلَبَ (___ و المخلب) چنگل۔ ج مخالب۔ المخلب: دار رتی۔ الخَلْبُ و الخَلْبُ۔ کچھ بھور کے درخت کا گودا۔ بھور کے درخت کی چھال اور اس کی ٹٹی ہوئی رتی۔ الخَلْبُ۔ بے بارش کا بادل۔ و التبرق الخَلْبُ و تبرق الخَلْبُ: بے بارش کے بادل کی بجلی۔ ”انما أنت كبرق خلب“ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو وعدہ کرے اور پورا نہ کے۔ الخَلْبِيُّ فریب۔ المخلب۔ من الثياب: بہت نقش و نگار والا کپڑا۔ الخَلْبُوب۔ فرجی۔ خَلْبَسَهُ او خَلَسَ قلبه: فریفتہ کرنا۔ الخَلَابِس۔ نرم بات۔ الخَلَابِس و الخَلَابِس و الخَلَابِس : باطل و جھوٹی باتیں۔ الخَلَابِس : کینے و فرومایہ لوگ۔ الخَلْبُوس۔ چھتیاں۔ خَلْبَسَ۔ بھانگنا۔ الخَلْبُوس۔ چڑیا کا ہم رنگ اس سے چھوٹا ایک پرندہ۔ خَلَجَهُ (ن) خَلَجًا۔ کھینچنا۔ کھینچ کر نکالنا ہے یعنی: آگہ سے اشارہ کرنا الشئ: حرکت دینا ___ ہاں السیف: تلوار	سے مارنا ___ الولد: دودھ چھڑانا ___ ہ الامر: مشغول کرنا۔ کہا جاتا ہے ”خَلَجْتَهُ أَمْرًا الدنيا“ اس کو دنیا کے دھندوں نے پھنسا لیا۔ خَلَجَتْ (ن) خَلَجًا وَ خَلُوجًا وَ خَلَجَانًا۔ العين: پھڑکانا۔ خلج (س) خَلَجًا۔ چلنے یا تھکنے کی وجہ سے پڑیوں کا درد کرنا ___ الشئ: گلانا۔ خراب ہونا۔ خَالَجَ۔ قلبه امر: کسی معاملہ کا دل کو سوچ بچار میں ڈال دینا۔ اخْلَجَ۔ حاجتہ: دیکھنا۔ تَخَلَجَ۔ لڑکھانا۔ بلنا، بھگانا ___ الشئ: کھینچنا۔ تَخَالَجْتَهُ۔ المهموم: کہا جاتا ہے ”تخالج فی صدری شیء“ یعنی میرے دل میں کچھ تلخیاں ہوں۔ اخْتَلَجَ۔ جھڑکانا ___ العين: پوٹوں کا نمیر ارادی طور پر پھڑکانا ___ الشئ فی صدره: تلخیاں ہونا ___ الشئ: کھینچ کر نکالنا الولد: دودھ چھڑانا۔ اخْتَلَجَ۔ من بینہم: مرنا۔ الخَالَجَ۔ ما۔ موت۔ الخُلَجُ۔ کانپنے والے بدن کے لوگ۔ مٹھوک نسب کے لوگ۔ الأخْلَجُ۔ رتی۔ الخَلْبِج۔ من البحر: کھاڑی۔ ندی۔ چھوٹی کشتی۔ رتی۔ ج خَلَجَان و خُلَجُ۔ خَلْبِجًا النهر: دریا کے دونوں جانب۔ الخَلَج۔ ایک قسم کی دھاری دار چادر۔ الخَلُج۔ اونٹنی جس کا دودھ پیتے جدا کرنے کی وجہ سے کم ہو گیا ہو۔ تیز رو اونٹنی۔ پرانہ بادل۔ بست پانی والا بادل۔ الإخْلِج۔ ایک قسم کی گھاس ___ من الخَلِج: تیز رفتار گھوڑا۔ خَلَجَل۔ العظم: گوشت چھڑا کر صاف کرنا ___ المرأة: پازیب پستانا۔ تَخَلَجَل۔ الشئ: کسی چیز کے اجزاء کا ٹکڑا ہونا ہونا۔ ج میں خالی ہونا ___ من مکانہ: جگہ	سے بلنا ___ المرأة: پازیب پستانا ___ الثوب: بوسیدہ ہونا۔ الخَلَجَال۔ ج خَلَاخِيل و (الخَلَجَل و الخَلَجَل) ج خَلَاخِل۔ پازیب۔ ثوب (خَلَجَال و خَلَجَل) باریک کپڑا۔ المُخَلَجَل۔ پنڈلی پازیب پہننے کی جگہ۔ عسکر (مُخَلَجَل) بھری ہوئی فوج۔ خَلَدًا (ن) خَلُوْدًا۔ ہمیشہ رہنا۔ (___ خَلَدًا خَلُوْدًا) باوجود زیادتی عمر کے کمزوری و بڑھاپہ نہ آنا۔ صفت (خالد و مُخَلَد و مُخَلِد و مُخَلَد) ___ الى المکان و بالمکان: اقامت کرنا ___ الى الارض: چلنا۔ خَلَدَ و أَخَلَدَ۔ الى المکان و بالمکان: اقامت کرنا ___ ہ: ہمیشہ کیلئے رکھنا۔ أَخَلَدَ بصاحبه: ہمیشہ ساتھ رہنا۔ أَخَلَدَ إِلَيْهِ: مائل ہونا۔ بھگانا۔ الخَلْدُ۔ بیگنی۔ دوام۔ بقا۔ الخَلْدُ: چھوٹا در۔ مُتَخَلِد الخَلْدُ: گلن۔ بالی۔ ج خَلْدَةٌ۔ الخَلْدُ۔ دل۔ ہمیشہ رہنے والا۔ الخَلْدَةُ۔ بالی۔ گلن۔ الخَالِدُ۔ نا۔ اَبُو خَالِد۔ کتا۔ الجَزَائِر الخَالِدَات۔ جزائر کناری۔ الخَوَالِد۔ و گدوان کے پائے۔ پاز۔ پتھر۔ الخَلَرُ۔ ایک قسم کی نباتات۔ بقول بعض لوبیا یا ماش۔ خَلَسَ (ض) خَلَسًا وَ خَلَسِي۔ الشئ: فریب سے چھینا مار لینا۔ أَخْلَسَ۔ النسب: سب اور خنک ملا جلا ہونا ___ الراس: باؤں کا کھجڑی ہونا۔ صفت خَلَسَ و خَلَسِي و مُخَلَسِ أَخْلَسَتِ الارض: کچھ ہریالی ہونا۔ خَالَسَهُ مُخَالَسَةً۔ جلدی کرنا۔ تَخَالَسَ۔ القوم الشئ: ایک دوسرے سے چھیننا۔ کہا جاتا ہے ”هُمَا يَتَخَالَسَانِ أَنْفُسَهُمَا“ وہ دونوں ایک دوسرے کے قتل کا ارادہ کرتے ہیں۔ إخْتَلَسَ۔ الشئ: فریب سے چھینا مار لینا ___ القارئ الخوكة: پڑنہ پڑھنا۔ اس کے
---	---	---

مقابلہ میں اشباع ہے جس کے معنی پر پڑھنے کے ہیں کہ جس سے بجائے حرکت کے حرف علت پیدا ہو جائے۔

الْخُلْسَةُ: جھپٹی ہوئی چیز۔ مناسب فرصت۔ اور اسی سے ہے "الْخُلْسَةُ سُرْعَةُ الْفُوتِ بِطِينَةِ الْعُزْدِ" فرصت جلد ختم ہو جانے والی اور دیر میں آنے والی ہے۔

الْخُلَيْسُ وَالْخُلَاسُ: چونکا ہمار۔ الْخُلَيْسَةُ: ورنہ کے منہ سے چھڑایا ہوا جانور جو زخ سے پہلے مر جائے۔

الْخِلَاسِيُّ: وہ بچہ کہ جس کے ماں باپ میں سے ایک گور ایک کالا ہو۔

خَلَصَ (ن) خُلُوْصًا وَخَلَاصًا: خالص ہونا _____ مِنَ الْهَلَاكِ: نجات پانا۔ محفوظ رہنا _____ الْمَاءِ مِنَ الْكَبْرِ: صاف ہونا _____ إِلَى الْمَكَانِ وَبِالْمَكَانِ: پہنچنا _____ مِنَ الْقَوْمِ: جدا ہونا۔

خَلَصَ (س) خَلَصًا: اللَّحْمُ: گوشت میں بڑی کچور رہا ہونا۔

خَلَصَهُ: من کذا: نجات دینا۔ خَلَصَ الشَّيْءُ صَافَ كَرًا: خالص کرنا۔ خلاصہ لینا۔ خَلَصَ الزُّجْلُ: مثل شی دینا۔

خَالَصَهُ مُخَالَصَةً فِي الْعَشْرَةِ أَوْ الْمَوْدَّةِ: خلوص برتنہ۔ خَالَصَهُ الْوَدُّ: خالص دوستی کرنا۔

تَخَالَصًا: باہم خالص دوستی کرنا۔ أَخْلَصَ الشَّيْءُ: خلاصہ لینا۔ چن لینا۔ _____ هِ اللّٰهُ: عیوب سے خالی کرنا _____

الطَّاعَةِ وَفِي الطَّاعَةِ: بے نام و نمود کے کرنا _____ لَهُ الْحَبُّ أَوْ الْقَوْلُ: کھوت سے خالی کرنا۔

تَخَلَّصَ مِنْهُ: نجات پانا۔ جدا ہونا _____ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا: منتقل ہونا۔

اسْتَخَلَصَهُ: چن لینا _____ الشَّيْءِ مِنْهُ: اپنے لیے حاصل کرنا۔

الْخِلَاصُ: سہ (_____ وَالْخِلَاصُ) کھوت سے خالی کیا ہوا۔ (سونا چاندی وغیرہ)

الْخُلَاصَةُ وَالْخِلَاصَةُ: خالص گئی۔ پھر اس کا عام طریقہ سے استعمال ہر اس چیز ہونے لگا جو

دوسرے سے خالص کر لیا گیا ہو۔ اور اسی سے ہے "خُلَاصَةُ الْكَلَامِ"

الْإِخْلَاصُ وَالْإِخْلَاصَةُ: کھن جو چھٹ سے جدا کر لیا جائے۔ "كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ" لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ

الْخُلْصُ: ہر سفید چیز۔ الْخُلْصَاءُ وَ (الْخُلْصَانُ) یاریا

خالص دوست۔ خُلْصَانٌ مُفْرَدٌ وَجَمْعٌ وَتَوْنٌ كَلِمَةً لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ: کما جاتا ہے "هُوَ خُلْصَانِي وَ هُم خُلْصَانِي"

الْخَالِصُ: نا۔ بے کھوت۔ صاف رنگ۔ کما جاتا ہے "هَذَا نُزْثٌ خَالِصٌ" یہ صاف رنگ کا کپڑا ہے۔ ج خُلْصُ

الْخَالِصَةُ: خالص کامونٹ۔ کما جاتا ہے "هُوَ خَالِصَتِي" وہ میرا دوست ہے و "هَذَا الشَّيْءُ خَالِصَةٌ لَكَ" یہ چیز تمہارے لیے مخصوص ہے۔

الْخُلُوصُ: زب جو کچور سے تیار کی جائے۔ تپجھٹ جو خالص گھی کی تیں پیٹھ جائے۔ بلائی الْمُخْلِصُ: فا۔ نجات دہندہ۔

خَلَطَ (ض) خَلَطًا وَخَلَطَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ: ملانا۔ کما جاتا ہے "خَلَطَ الْمَرِيضُ" بیمار نے مضر چیزیں کھائیں۔ و "خَلَطَ فِي الْكَلَامِ" اُس نے کجواں کی۔ خَلَطَ فِي الشَّيْءِ: خراب و فاسد کرنا۔

أَخْلَطَ: الفرس: دوڑنے میں کوتاہی کرنا۔ خَالَطَهُ مُخَالَطَةً وَخِلَاطًا: ملنا۔ میل ملاپ

کرنا۔ ساتھ رہنا _____ الدَّاءُ فَلَانًا: بیماری لاحق ہونا۔

خَوَّلَطَ فِي عَقْلِهِ: مجبوظ الحواس ہونا۔ اِخْتَلَطَ: ملنا _____ الظَّلَامُ: تاریکی کا چھا جانا _____ الزُّجْلُ: خراب عقل والا ہونا۔

الفرس: دوڑنے میں کوتاہی کرنا۔ تَخَالَطُوا: باہم ایک دوسرے کے ساتھ گتھ

جانا۔ الْخَلَطُ: سہ۔ لوگوں سے لٹنے والا اور چالوسی کرنے والا۔

الْجَلَطُ: ٹیڑھا تیز۔ ٹیڑھی کمان۔ بیوقوف۔ کما جاتا ہے "هُوَ خَلَطٌ بَيْنَ الْخِلَاطَةِ" وہ بیوقوف ہے جس کی بیوقوفی ظاہر ہے۔ ہر وہ چیز جو دوسری چیز

سے لے۔ ج اَخْلَاطُ: حرامی۔ اور کما جاتا ہے "رَجُلٌ خَلَطٌ مَلَطٌ" مخلوط نسب کا مرد۔

الْأَخْلَاطُ: ملی جلی قسمیں۔ أَخْلَاطُ الْجَسَدِ فِي عَرْفِ الْأَقْدَمِينَ: خون۔ بلغم۔ سودا۔ صفرا۔ وَأَخْلَاطُ الْقَوْمِ: قوم کے معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ۔

الْخِلَاطُ: بیوقوف۔

الْمُخَلَّطَةُ: شرکت۔

الْخِلَاطُ: آدمیوں اور جانوروں کا ملا جلا ہونا۔

الْمُخَلَّطَةُ: عقل کی خرابی۔ بیوقوفی۔

الْمُخَلَّطُ: ج خَلَطٌ وَخُلْطًا: خلط نظر رکھنے والا۔ شریک۔ وہ لوگ جن کا معاملہ ایک ہو۔ شوہر۔ بیوی۔ ساتھی۔ بھوسہ ملی ہوئی مٹی۔ خَلَيْطٌ الزُّجْلُ: میل جول رکھنے والا۔ کما جاتا ہے "خَلَيْطٌ مِنَ النَّاسِ" معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ۔

الْمُخَلَّطُ وَالْمُخَلَّطَةُ: معمولی اور گھٹیا درجہ کے لوگ۔ کما جاتا ہے و "قَعُوْا فِي خُلَيْطِي" وہ لوگ گڑبڑی میں پڑ گئے۔

الْمُخَلَّطُ وَالْمُخَلَّطَةُ: بہت میل جول رکھنے والا۔ جمل (مُخْتَلِطًا) موٹا اونٹ کہ جس کی چربی گوشت کے ساتھ لگی ہو۔

خَلَعَ (ف) خَلَعًا: الشَّيْءُ: آٹارنا _____ كَتَفَهُ أَوْ رُكْبَتَهُ: عضو کو جگہ سے ہٹا دینا _____ الْقَائِدُ: معزول کر دینا _____ الدَّابَّةُ: بندش سے آزاد کر دینا _____ الْعِدَارُ: اپنے مرتبہ کو گرا دینا (کنا یہ ہے بے حیائی سے) _____ عَلَيْنَهُ نَوْتًا: خلعت دینا۔ خَلَعَ الشَّجَرُ: پتے جھڑنا۔ نئے پتے لگانا۔

خَلَعَ (ف) خَلَعًا وَخُلْعًا: ابنہ: عاق کرنا۔ صفت مفعولی (خَلِيعٌ) زمانہ جاہلیت میں ایسا کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے بیٹا باپ کے جرم میں

ماخوذ نہیں ہوتا تھا۔ _____ امْرَأَتَهُ: مال کے عوض میں طلاق دینا

صفت مفعولی (خَالِعٌ) اسم (الْمُخَلَّعَةُ) خُلِعَ: الميثُ: کفن جدا کیا جانا۔

خَلَعَ (ك) خَلَاعَةً: خواہشات نفسانی کا تابع ہونا۔ بے حیاء ہونا۔

صفت مفعولی (خَالِعٌ) اسم (الْمُخَلَّعَةُ) خُلِعَ: الميثُ: کفن جدا کیا جانا۔

خَلَعَ (ك) خَلَاعَةً: خواہشات نفسانی کا تابع ہونا۔ بے حیاء ہونا۔

خلف

خَالِعٌ مُخَالَعَةٌ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا. مال کے شرط پر جدائی اختیار کرنا۔

خَالِعُ الرَّجُلِ: جو اٹھ گیا۔

خَالِعَةٌ: جدا جدا۔ خالص کرنا۔

أَخْلَعَ: السنبُلُ: خوشہ میں دانے بیٹھنا۔ الشجرُ: نئے پتے لگانا۔

تَخَلَّعَ: فِي الْمَشْيِ: چلنے میں پیروں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا۔ فِي الشَّرَابِ: مہمک ہونا۔ الْقَوْمُ: چپکے سے کھک کر چلنا۔

تَخَالَعَ: الزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ: مال پر جدائی اختیار کرنا۔ الْقَوْمُ: باہم عمد توڑنا۔

إِنْخَلَعَ: ہٹ جانا۔ اُكْهَرُ جانا۔ زائل ہو جانا۔ اِنْخَلَعَ الشِّيْ: نکال لینا۔ کھینچ لینا۔

اِنْخَلَعُوا الرَّجُلُ: مال لے لینا۔ اِنْخَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا: مال دے کر جدائی اختیار کرنا۔ اِسْمُ الْخُلْعِ:

الْخُلْعَةُ: کپڑے جو عزت کے طور پر ملیں۔ اُنارہوا کپڑا۔ عمدہ مال۔

الْخُلْعَةُ: عمدہ مال۔ کمزوری۔ کہا جاتا ہے ”فِيهِ خُلْعَةٌ“ اس میں کمزوری ہے۔

الْخُلَاعُ: اِيكُ تِسْمٍ كِي دِيَاغِي جِي اِنْسَانِ كِي لَاتِحِ ہوتی ہے۔

الْخُلَيْعُ: بے حیائی کا کام کر کے اپنے مرتبہ کو گرا دینے والا۔ معزول شدہ۔ غیبت۔ جوئے باز۔

رَجُ خُلْعَاءُ: بھیڑیا۔ بھوت۔ ثوبُ خُلَيْعٍ بُو سِيدِه كِيڑا۔

الْخُلَيْعَةُ: بے حیائی۔ الخلیع کا موٹ۔ من مانی عورت۔

الْخَوْلُجُ: يُو قُوفُ: اِيكُ تِسْمٍ كَا كِهَاتَا جِي آتَنِي سے تیار کیا جاتا ہے۔ سرکہ میں جوش دیا ہوا گوشت۔ بھیڑیا (والْخُلَيْعُ) خوف جو دل پر طاری ہو۔ الخلیع: بے آستینوں کی قمیص۔

زَجَلٌ خُلَيْعٌ: کمزور مرد۔ الْمُخْلَعُ: سقم۔ من الرجال: کمزور ست۔ اکھڑے ہوئے جوڑوں والا۔ وہ شخص جس کا سارا بدن یا کچھ بدن بے حس ہو۔

الْمُخْلَعُ وَالْمُخْلَعُ: بچو۔ خَلَفَهُ (ان) خِلَافَةً وَخَلِيفِي: جانشین ہونا۔

خلف

رَبُّهُ فِي قَوْمِهِ: جانشین بنانا۔ الرَّجُلُ: قائم مقام ہونا () خَلَفًا وَخِلْفَةً: الفاتحہٗ

بَعْضُهَا بَعْضًا: ایک دوسرے کے قائم مقام ہونا۔ خِلَافَةٌ وَخِلْفًا: الْعِلَامُ: بیوقوف ہونا۔

صِفَتُ (خَالِفِ خَالِفَةً) عَنْ خُلُقِي أَبِيهِ: باپ کے عادات و اخلاق سے بدل جانا ()

خُلُوفًا وَخِلْفَةً: فَمِ الضَّائِمُ: مُنَدِّ كِي بُو كَا مَحْتَضِرُ ہونا (خَلَفَ (ض) خَلَفًا) الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ: اپنے گھروالوں کے لیے پانی لانا۔ الْبَيْتُ: پچھلے

حصہ میں ستون لگانا۔ آباه: باپ کے قائم مقام ہونا۔ کہا جاتا ہے ”خَلَفَ الْمَلَأُ لَكَ وَ

عَلَيْكَ“ اللہ تعالیٰ تم کو بدلہ دیں۔ الثوب: مرمت کرنا۔

عَنْ اصْحَابِهِ: پیچھے رہ جانا۔ فَلَانًا: پیچھے سے پکڑنا۔ جانشین ہونا۔ اور کہا جاتا ہے ”خَلَفَ لَهُ بِالْمَسِيْفِ“ اس کے پیچھے سے

آکر اس نے اسے گوار ماری۔ ”خَلَفَ لَهُ بِخَيْبِرِ اَوْ شَيْ“ اس کی غیر موجودگی میں اس نے اس کا پہلا یا بڑا کر لیا۔

خَلِيفَ (س) خَلَفًا: بامیں ہمتا ہونا۔ بھیگا ہونا۔ يُو قُوفُ ہونا۔ خِلْفَتِ النَّاقَةِ: حاملہ ہونا۔ صِفَتِ (خِلْفَةٍ)

خَلْفِ الشِّيْ: پیچھے چھوڑنا۔ سو خر کرنا۔

جانشین بنانا۔ خَالِفَةٌ خِلَافًا وَ مُخَالَفَةً: ناموافق کرنا۔ خَالِفٌ عَنْ كَذَا: پیچھے رہنا۔ بَيْنَ رَجُلَيْنِ: آگے پیچھے کرنا اور تم کہتے ہو ”خَالِفِنِي عَنْ كَذَا“

جبکہ وہ اعراض کر رہا ہو اور تم قصد کر رہے ہو۔ اور ”خَالِفِنِي اِلَى كَذَا“ جبکہ وہ قصد کر رہا ہو اور تم اعراض کرتے ہو۔

أَخْلَفَ: بُو كَا بَدَلَا يَا خِرَابِ ہونا۔ الثوب: مرمت کرنا۔ لِأَهْلِهِ: اپنے لوگوں کیلئے پانی کھینچنا۔ وَعَدَةٌ وَبُوْعَدُهُ: پورا نہ کرنا۔

وَعَدَهُ خِلَافَ پَانَا: الْغَيْثُ: امید کے بعد نہ برسا۔ الشجرَةُ: کئی ہوئی شاخ کے بدلے دوسری شاخ لگانا۔

الْقَاتِرُ: پہلے پروں کے بعد دوسرے پر لگانا۔ الْغِلَامُ: قریب البلوغ ہونا۔

نَفْسُهُ: اِيكُ جِيْ ضَالِعٍ ہونے کے بعد دوسری کو

خلف

اس کے قائم مقام کرنا۔ ہ: پیچھے ڈالنا۔ الدَّوَاءُ فَلَانًا: کمزور کرنا۔ اللہ

عليه: ضائع شدہ کا بدلہ دینا۔ تَخَلَّفَ: عنهم: پیچھے رہنا۔ القوم: پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھ جانا۔

تَخَالَفُوا وَ اِنْخَلَفُوا: اِخْتِلَافُ كِرَا: ناموافق ہونا۔ اِنْخَلَفَهُ: جانشین ہونا۔ پیچھے کرنا۔ پیچھے سے

پکڑنا۔ اِنْخَلَفَ اِلَى الْمَكَانِ: بار بار جانا۔ اِسْتَخْلَفَهُ: اِنَا جَانِشِينِ بِنَانَا: فَلَانًا مَن

فَلَانٌ: قائم مقام کرنا۔ اِسْتَخْلَفَتِ الْاَرْضُ: گرمی کی گھاس کو اگانا۔ اِسْتَخْلَفَ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ: اپنے لوگوں کیلئے پانی یا مٹھاپا لانا۔ پانی

پلانا۔ الخَلْفُ:۔۔۔ ایک گروہ جو ایک گروہ کے بعد

ہو اور اسی سے ہے ”هُؤ لَاءِ خَلْفُ سُؤءٍ“ ان لوگوں کے حق میں بولا جاتا ہے جو اپنے سے زیادہ

کے ساتھ لائق ہوں۔ رَدِي قَوْلِ اَوْرَامِثِلِ عَرَبِ مِيں ہے ”سَكَّتِ الْقَاوُ نَطَقُ خَلْفًا“ وہ ہزاروں

باتوں سے خاموش رہا اور بولا تو رَدِي بَاتِ۔ کلبازی کی دھلا، بڑا کلباڑا۔ بے نفع شخص۔ پہلو

کی سب سے چھوٹی پہلی۔ جِ خُلُوفِ اَوْرِ خَلْفِ قَدَامِ كِي تَقِيضِ ہے۔ بمعنی پیچھے و بعد ازاں۔

الخَلْفُ: وعدہ پورا نہ کرنا۔ خِلَافُ مَفْرُوضِ خَلِيفِ كِي تَبَعِ قِيَاسُ النُّخْلِفِ: منطقیوں کی اصطلاح میں ایک تقیض کے امتناع سے دوسرے کے ثبوت پر استدلال کرنا۔

الخِلْفُ: مختلف۔ اَوْثُنِي كِي تَهْنِ كَا سِرَا۔ موسم بہار کی گھاس۔ جِ اَخْلَافِ وَ خِلْفَةِ الْخِلْفَانِ: دو مختلف صفات والے۔ کہا جاتا ہے

”لَهُ وَلَدَانِ خِلْفَانِ“ اس کے دو بیٹے ہیں جن میں سے ایک زیرک اور دوسرا بیوقوف یا ایک

لبا اور دوسرا پست قد ہے۔ اور کہا جاتا ہے ”وَلَدَتِ النَّاقَةُ خِلْفَيْنِ“ اونٹنی نے ایک سال

ز اور دوسرے سال ماڈہ بیٹے دیئے۔ ذَاتُ الْخِلْفَيْنِ: کلباڑا جس کے دو سرے ہوں۔ جِ ذَوَاتِ الْخِلْفَيْنِ۔

الخَلْفُ: ولدی ولد صالح۔ بدلہ۔ کہا جاتا ہے ”فِي هؤ لَاءِ الْقَوْمِ خَلْفٌ مِمَّنْ مَضَى“ یعنی

کے لائق ہے۔

الْخَلْفَيْنِ - بڑا ایک - جِ خَلَاةٍ

خَلْمَةً تَخْلِيئًا وَاحْتِلَامَةً - اختیار کرنا۔ پسند کرنا۔

خَالَمَةٌ مُخَالَمَةٌ - دوستی کرنا۔ صفت (مُخَالِمٌ)

الْجَلْمِ - دوست۔ ساتھی۔ ہرن کے چھینے کی

جگہ۔ ہڈی۔ بکری کی آنت کی چربی۔ جِ اخْلَامِ وَ خُلْمَاءِ -

الْمُخَالِمِ - ہوار۔

اہلِ الْخَلْمَةِ - چرنے والے اوست۔

خَلَا (ن) خَلْوًا وَ خَلَاءً - الاناء۔ خالی ہونا

المكان: رہنے والوں سے خالی ہونا

الرَّحْلِ: مکان میں اکیلا ہونا۔

عَلَى الشَّيْءِ: اقتضار کرنا۔ پس کرنا۔

عَلَى فلان: اعتماد کرنا۔ یہ: فریب کرنا۔

الشَّيْءِ: گزرتا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْتَهُ لِحُضْرٍ

خَلْوًا مِنْ الشَّهْرِ" میں نے اس کو پانچویں

تاریخ کو کیا۔ عَنِ الْأَمْرِ وَمِنْهُ: بیزار ہونا۔

عَنِ الشَّيْءِ: بھیجنا۔ بالشيء: منفرد ہونا۔

خَلَا (ن) خَلْوَةً وَ خَلْوًا وَ خَلَاءً: بہ وقعتہ

وَالْيَةِ: تنہائی میں ملنا۔ کہا جاتا ہے "خَلَا الرَّجُلُ

بِنَفْسِهِ" منفرد ہونا۔ لِلْأَمْرِ: کسی کام کے

بآلہ: مطمئن ہونا۔ الْخُزْنُ: غم

سے جدا ہونا۔ صفتِ اِخْتَالٍ اور خَلْوًا اور کہا جاتا

ہے "أَفْعَلْ كَذَا وَ خَلَاكَ ذَمٌّ" یعنی تمہیں اس

کام کے کرنے پر مذمت نہیں۔

خَلَى تَخْلِيَةً - الامز و عنتہ: چھوڑنا۔

مَكَانَةً: مرنا۔ سَبِيْلَةً: چھوڑنا۔ آزاد کرنا

بَيْنَ الْمُشْتَرَى وَالْمَبْيُوعِ: سپرد کرنا

بَيْنَهُمَا: دونوں کو اکٹھا ہونے کی حالت

میں چھوڑنا۔

خَالَاةٌ مُخَالَاةٌ: چھوڑنا۔

أَخْلَى إِخْلَاءً - المكان: خالی کرنا یا پانا

المكان: خالی ہونا۔ وہ وہو مَعَةً: تنہائی میں ملنا۔

فَلَانًا مَعَةً: کسی کو کسی کے ساتھ تنہائی میں ملنے دینا۔ عَنَتُهُ: چھوڑنا۔

تَخَلَّى: تنہائی میں رہنا۔ مِنْهُ وَ عَنَتُهُ:

چھوڑنا۔ نَهَ: کسی کام کے لیے فارغ ہونا

خَلِيَّةً: اپنے لیے شد کا چھت تیار کرنا۔

إِخْتَلَى: تنہائی میں رہنا۔

إِسْتَخْلَى: تنہائی میں ملاقات چاہنا۔

بِالْمَلِكِ: تنہائی میں ملنا۔ المكان: خالی

ہونا۔

الْخَلَاءُ - م - خالی مکان۔ پانخانہ۔ مکان

خَلَاءً: خالی جگہ جہاں کوئی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے

"بَاتَ فِي الْبَلَدِ الْخَلَاءِ" اس نے تنہا شہر میں

شب باشی کی۔ و "خَلَا وَكَأَفَى لِحَيَاتِكَ" یعنی

تمہارا مکان میں تنہا ہونا تمہاری حیات کا نگہبان ہے

"وَ أَنَا مِنْهُ خَلَاءٌ" میں اس سے بڑی ہوں۔ مفرد

تشبیہ مع ذکر مؤنث سب کیلئے مستعمل ہے۔

الْخَلْوُ: خالی (مذکر مؤنث) جِ اخْلَاءِ اور کبھی

مؤنث کے لیے خلوۃ استعمال کرتے ہیں۔

خَلَا وَ مَا خَلَا - الَّا: معنی میں کلمہ اشتیاء

ہے۔ اگر فعلیت کا اعتبار ہو تو مستثنیٰ منسوب ہوگا

جیسے "جَاءَ أَتْبَاعُ الْأَمِيرِ خَلَا أَوْ مَا خَلَا زَيْدًا"

اور حرف جر ہونے کی صورت میں مجرور ہوگا جیسے

"خَلَا زَيْدٌ" اور خلا سے پہلے اگر ماصد رید ہو تو

اس کا صل ہوتا ہے۔

الْخَلْوَةُ: تنہائی کی جگہ۔ جِ خَلْوَاتٍ -

الْخَلِيَّةُ: شد کی کھیں کا چھت۔ بڑی کشتی۔ شیری

جھاڑی۔ جِ خَلَايَا -

الْخَلِيَّةُ: فارغ۔ غم سے خالی۔ وہ شخص جس کی

بیوی نہ ہو۔ اور کہا جاتا ہے "أَنَا خَلِيٌّ مِنْهُ" میں

اس سے بری ہوں۔ جِ أَخْلِيَاءِ وَ خَلِيَّوْنَ -

الْخَلِيَّةُ: شد کی کھیں کا چھت۔

الْخَالِي: فا۔ کنوارا۔ کنواری۔ جِ اخْلَاءِ -

خَلَى (ض) خَلِيًّا - النبات: کاٹنا۔

الْمَأَشِيَّةُ: جانوروں کیلئے گھاس کاٹنا۔

الْفَرَسُ: منہ میں لگام دینا۔ الْإِلْحَامُ

مِنَ الْفَرَسِ: آتارنا۔ الشَّعِيرُ: فی

الْمُخْلَاةِ: توہرا میں جو ڈالنا۔ الْقَدْرُ: ہانڈی کے نیچے ایندھن لگانا۔ ہانڈی میں

گوشت ڈالنا۔ خَالَى مُخَالَاةً: ہ۔ بچھاڑنا۔ فریب دینا۔

أَخْلَى - المكان: زیادہ گھاس والی جگہ ہونا

الدَّابَّةُ: گھاس کا چارہ دینا۔

إِخْتَلَى - العشب: کاٹنا۔

إِنْخَلَى - الخلی: کاٹنا۔

إِخْلَوَى إِخْلِيَاءً الرَّجُلُ: دودھ پینے پر

مداومت کرنا۔

الخلی: تر گھاس۔ جِ اخْلَاءِ واحد (اخْلَاةٌ)

المِخْلَى: گھاس کاٹنے کا اوزار۔ کھریا۔

المِخْلَاةُ: توہرہ۔ جِ مِخَالٍ -

المِخْتَلَى: شیر۔

خَمَّ (ن) ض) خَمًّا - البَيْتُ: جھاڑو دینا

البَيْتُ: کنواں صاف کرنا۔ الناقۃ:

دوہنا۔ فلانا: تعریف کرنا۔ اور کہا جاتا ہے

"هُوَ يَخِمُّ بِنَاتِ فُلَانٍ" یعنی وہ فلاں کی تعریف

کرتا ہے (خَمًّا وَ خُمُوْمًا وَ أَحَمًّا) اللحم:

بدبودار ہونا۔ صفت (خَامٌ وَ خَمٌّ وَ مِخَمٌّ)

اللبن: گیزنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا يَخِمُّ" فلاں

اپنے افعال کریمانہ سے جدا نہیں ہوتا۔

خَمَّ - الدجاج: ڈوہد میں بند کیا جانا۔

تَخَمَّتْ - ما على الخوان: دسترخوان کا باقی

مانہ کھانا کھانا۔

إِخْتَمَّ البَيْتُ: جھاڑو دینا۔ الشئ:

کاٹنا۔

الخَمَامَةُ: کوڑا کرکٹ۔ کنوئیں کی صفائی میں

جو نکلے۔ کھانے کا چور اور جو بکھر جائے۔

الخَمُّ: ڈوہد۔ جِ خَمْمَةٍ -

الخجم: خالی بارغ۔

الخمائن: مثلثۃ الخاء: ادنیٰ درجہ کے

لوگ۔ گھٹیا سامان۔ ناکارہ درخت۔

المِخْمَةُ: جھاڑو۔

الخَمِيمِ: تازہ دودھ۔ تعریف کیا ہوا۔ سِت

قلب (مضموم) حسد و کینہ سے پاک صاف

دل۔

الخَمِيَّتُ: موتا۔

خَمِج (س) خَمَجًا: بیماری یا تھکن کی وجہ

سے سست ہونا۔ اللحم: بدبودار ہونا

دَبْنَةٌ أَوْ خُلْفَةٌ: فاسد ہونا۔ خراب ہونا

فلانا: بڑائی سے ذکر کرنا۔

خُمَصٌ وَمَخْمَصٌ - پانچ پانچ (یہ خُمَصٌ سے معدول ہے) کہا جاتا ہے "جَاءَ وَخُمَصَ وَ مَخْمَصٌ" وہ پانچ پانچ آئے۔ یہ مذکر مؤنث دونوں کیلئے مستعمل ہیں اور غیر منصرف ہیں۔
 الخُمَصِيُّ - پانچ حرفوں والا۔ کہا جاتا ہے "جَارِيَةٌ خُمَصِيَّةٌ" بیخ سالہ لڑکی۔
 الخُمَصَةُ - پانچ۔ مؤنث کے لیے خمص۔
 خُمَصُونٌ - پچاس۔
 الخُمَيْسُ - وَيَوْمَ الخُمَيْسِ : جمعرات۔ ج. أخمصة وأخمساء - الخُمَيْسُ : الفجر۔ اس لیے کہ اس میں پانچ جماعتیں میمنہ۔ میسرہ۔ قلب۔ سادہ۔ مقدمہ الخیش ہوتی ہیں۔ رُوح الخُمَيْسِ وَمَخْمُوشٌ پانچ لڑکا تیرہ۔
 الخُمَصَسُ - پانچ ارکان والا۔ بھاری بوجھ اٹھانے کیلئے لوہے کا ایک آلہ۔
 خَمَشٌ (ن ض) خَمَشًا وَ خُمُوشًا - الوجہ : خراش لگانا۔ تھمرانا۔
 خَمَشَةٌ - زیادہ خراش لگانا۔
 الخَمَشَسُ - خراش۔ ج. خُمُوشٌ - الخُمَايِسَةُ : چھوٹی ٹال۔ ج. خُمَايِسٌ - الخُمَايِسَةُ - خفيف زخم۔ ایسا زخم جس پر بدلہ مقرر نہ ہو۔ ج. خُمَايِسَاتٌ - یا وہ زخم جو پوری ریت واجب ہونے سے کم درجہ کا ہو۔ جیسے ہاتھ کا باناک وغیرہ کاٹنا۔
 الخُمُوشُ - چھڑ۔
 خَمَصٌ (ن) خَمَصًا وَ خُمُوصًا وَ إِنْخَمَصَ - الجرح : ورم کا جانا رہنا۔
 خَمَصَةٌ خَمَصًا وَ خُمُوصًا وَ مَخْمَصَةٌ - الجوع : ڈیلے پیٹ والا کر دینا () ۔ وَ خَمِصٌ (س) خَمِصًا وَ خَمِصًا (ک) خَمِصًا وَ خُمُوصًا وَ مَخْمَصَةٌ - البطن : پیٹ کا خالی ہونا۔ ڈیلا ہونا۔
 تَخَامَصَ - الليل : صُبح کے قریب رات کی تاریکی کا کم ہونا۔ عَنَهُ : یکسو ہونا۔
 الخَمِصَةُ - بھوک۔
 خَمِطٌ (ن) خَمِطًا وَ خُمُوطًا وَ خَمِطٌ (س) خَمِطًا - الخُمُوزُ أو اللبْنُ : اچھی بو کا ہونا۔ بو میں تھیرا ہوا جانا۔ صفت (خَامِطٌ وَ خَمِطٌ) خَمِطٌ

جھاڑی۔ تم کہتے ہو "تَوَازَى الصَّيْدُ عَنِّي فِي خَمَرِ الوَادِي" شکار مجھ سے وادی کی گھٹی جھاڑی میں چھپ گیا۔
 الخَمِيرُ - وہ جگہ جہاں گھٹی جھاڑی زیادہ ہو۔
 رَجُلٌ خَمِيرٌ : وہ شخص جس کو نشہ کا شمار لاحق ہو۔
 الخَمَارُ - شراب کی وجہ سے در۔ س۔
 والخَمَارُ والخَمْرَةُ لوگوں کی کثرت و جھوم۔
 الخَمَارُ - اوڑھنی۔ روپیہ۔ پردہ۔ ج. أخميرة وخمر وخمير - کہا جاتا ہے "مَا شَمَّ خَمَارُكَ؟" یعنی کیا چیز تجھ کو لاحق ہوئی جس نے تجھ کو تیری حالت سے بدل دیا۔
 الخَمِيرُ وَ الخَمِيرَةُ - خمير الخَمِيرُ : خمیری روٹی۔
 الخَمْرَةُ - خمیر کرنے کا برتن۔ شراب کی تلچٹ۔ شراب کی تکلیف دوران سر۔ کھجور کی چھوٹی پٹائی۔ خَمْرَةُ اللَّبَنِ : وہ چیز جس کو دودھ میں ڈالنے سے جلدی جم جائے۔ ج. الخَمْرُ) وَالخَمْرَةُ وَ الخَمْرَةُ بوجہ تمہیں پہنچے۔
 الخَمْرِيُّ - مِنَ الالوان : سیاہ رنگ جو سرخی مائل ہو۔
 الخَمَارُ - شراب فروش و (الخَمَارَةُ) شراب پہنچنے کی جگہ۔
 الخَمِيرُ وَ المُسْتَخْمِرُ - بہت شراب پینے والا۔
 المَخْمُورُ - شراب کی وجہ سے مست۔
 الخَمْفُورُ - سمدری گھونگا۔
 خَمَسٌ (ن ض) خَمَسًا - القوم : پانچواں ہونا۔ قوم کے مال کا پانچواں حصہ لینا۔
 المَنَالُ : پانچواں حصہ لینا۔ الخَمْبَلُ : پانچ لڑیوں سے بنتا۔
 خَمَسٌ - الشئ : پانچ رکن والا بنانا۔ اور اسی سے شعراء کے نزدیک تخمیس ہے جس کے معنی کسی شعر میں تین مصرعے بڑھا کر پانچ مصرعوں کا کر دینا ہے۔
 أخمس - القوم : پانچ ہونا۔
 الخمس والخمسة - پانچواں حصہ۔ ج. أخماس - کہا جاتا ہے "صَوَّبَ أخماسًا لِأَسَدِاسٍ" یعنی اس نے مکرو فریب میں کوشش کی۔

خَمِخَمٌ - گنگنا۔
 الخَمِخَمُ - ایک سمدری چھوٹا جانور۔
 الخَمِخِمُ - ایک قسم کی کانٹے دار گھاس۔
 خَمَدَتُ (ن) وَ خَمِدَتُ (س) خَمَدًا وَ خُمُودًا - النَّازُ : آگ باقی رہنے ہوئے لپٹ کا ختم ہوجانا۔ الخَمِيءُ : بخار کی تیزی کا کم ہونا۔
 المَرِيضُ : بیوشی طاری ہونا۔ مرنا۔
 أحمَدُ - الرَّجُلُ : بے حرکت ہونا۔ خاموش ہونا۔
 أَنفَاسُهُ : بارڈالنا یا ذلیل کرنا۔
 النَّازُ : لپٹ کو بھگانا۔
 الخَمُودُ - آگ بجھنے کے لیے دبانے کی جگہ۔
 خَمْرَهُ (ن ض) خَمْرًا - چھپانا۔
 الشَّهَادَةُ : پوشیدہ کرنا۔ الرَّجُلُ : شراب پلانا۔ العَجِيذُ : خمیر ڈالنا۔ فَلَانًا : شرم کرنا۔
 خَمِيرٌ (س) خَمِيرًا - عَنَهُ : پوشیدہ ہونا۔ چھپانا۔
 عَنَهُ الخَمِيرُ : پوشیدہ رہنا۔
 الشئ : سابقہ حالات سے بدل جانا۔
 خَمَرٌ - العَجِيذُ : خمیر ڈالنا۔ وَجْهَهُ : ڈھانپ لینا۔ بَيْتَهُ : گھر میں جئے رہنا۔
 خَامَرٌ فَخَامَرَةٌ - بیخ میں دھوکا دینا۔
 القلب : داخل ہونا۔ الشئ : الآخر : باہم ملنا۔ هالداء : بیماری کا اندر تک اثر کرنا۔ بَيْتُهُ : گھر میں جئے رہنا۔ یہ چھپنا۔
 أخمَرٌ - چھپانا۔ له : کینہ رکھنا۔
 الشئ : چھپانا۔ غافل کرنا۔
 العَجِيذُ : خمیر ڈالنا۔ الامر : پوشیدہ کرنا۔
 الأَرْضُ : زمین میں گھٹی جھاڑی بہت ہونا۔ ه الشئ : خندہ دینا۔
 تَخَمَّرَتُ وَ اخْتَمَّرَتُ - المرأة : اوڑھنی ڈالنا۔ وَ اخْتَمَّرَ العَجِيذُ : خمیر ہو جانا۔ اخْتَمَّرَ العَجِيذُ : شراب بن جانا۔
 الخَمْرُ وَ الخَمْرَةُ - انگوری شراب۔ ہر نشلی چیز۔
 الخَمْرُ - کتیبہ۔
 الخَمْرُ - لوگوں کی جماعت و بھیڑ۔ گھٹی

الْحَمْلُ: تکبیر کرنا۔ غھینٹا ہونا۔ (خَمَطٌ) (ش) خَمَطًا) اللحم: بھونا۔ صفت مقبول خَمِيطٌ خَمَطٌ (ن ض) خَمَطًا۔ اللَّيْنُ: دودھ کو برتن میں ڈالنا۔	والْحَمْلُ وَالْخَمْلُ خالص دوست۔ الْحَمِيلُ: روکیں دار کپڑے۔ نرم خوراک۔ گہرا بال۔ واحد خَمِيْلَةٌ۔	الْحَمْلُ: تکبیر کرنا۔ غھینٹا ہونا۔ الْبَحْرُ: موج مارنا۔ الْفَجْلُ: بڑبڑانا۔ الْخَمَطُ: سہ۔ ہر کٹی یا کڑوی چیز۔ ہر درخت کا تھوڑا پھل۔ ہر بے کانٹے والا درخت۔ پیلو کا پھل۔ ایک قسم کی سانپ کی چھتری۔ الْخَمَطَةُ وَالْخَمِطَةُ: مِنَ اللَّيْنِ: دودھ کی بُو۔ الْخَمِيْطُ: بکری کا بچہ کھال آتار کر ہونا ہوا اور اگر بال آتار کر ہوں تو اس کو سَمِيْطٌ کہتے ہیں۔ الْخَمَطُ: بھونے والا۔ خَمَعَتْ (ف) خَمَعًا وَخُمُوْعًا وَخَمَعَانًا۔ الضَّبْعُ: لنگڑاتے ہوئے چلنا۔ الْخَامِعَةُ: بچوں ج خَوَامِعُ۔ الْخَمَاعُ: لنگڑا ہٹ۔ الْخَمْعُ: بھیڑیا۔ چور۔ ج اَخْمَاعُ۔ الْخَمِيْمُ وَالْخَمُوْمُ: بدکار عورت۔ خَمَلٌ (ن) خَمُولًا ذَكَرُهُ اَوْ صَوْنُهُ: پوشیدہ و کزور ہونا (خَمَلٌ) (ن) خَمَلًا) الْبَسُوْتُ: نرم ہونے کے لیے گڑے وغیرہ میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "خَمَلَهُ اللّٰهُ" اللہ اس کو ہلاکت میں ڈال رہے۔ خَمِلٌ: جوڑوں کی بیماری والا ہونا۔ اَخْمَلَةٌ: گنام و بے قدر کرنا۔ اَخْمَلْتُ الْاَرْضَ: بہت گنجان درختوں والی ہونا۔ اَخْمَلُ الْقَطِيْفَةِ: روکیں دار بنانا۔ اِخْمَلْتُ: الماشِيَةَ: جانوروں کا اچھی گھاس والی زمین میں چرنا۔ الْخَامِلُ: فا۔ مِنَ الرَّجَالِ: گنام و بے قدر۔ ج خَمَلٌ۔ الْحَمْلُ کپڑے کا رداں۔ (۔) وَالْخَمَالَةُ وَالْخَمِيْلَةُ) شتر مرغ کے پر۔ الْحَمَلَةُ: چادر۔ روکیں دار کپڑا۔ الْحَمَلَةُ: راز۔ اندرونی کیفیتیں۔ ج خَمَلَاتُ۔ الْخَمَالُ: جوڑوں کا ردا (۔) وَالْخَمَالِيُّ	الْحَمْلُ وَالْخَمْلُ خالص دوست۔ الْحَمِيلُ: روکیں دار کپڑے۔ نرم خوراک۔ گہرا بال۔ واحد خَمِيْلَةٌ۔ الْحَمِيْلَةُ: چادر۔ بہت گھنا درخت۔ بہت درختوں والی بہت زمین۔ ج خَمَائِلُ۔ الْمُخْمَلُ: روکیں دار کپڑا۔ خَمَنٌ (ن ض) خَمَنًا وَخَمَنٌ: الشَّيْءُ: تخمینہ کرنا۔ قیمت لگانا۔ اندازہ کرنا۔ الْخَامِيْنُ: گنام و بے قدر۔ الْخَمَنُ: بدبو۔ الْخَمَانُ: کزور نیزہ۔ گھٹیا درجہ کا آبی۔ کہا جاتا ہے "هُمَّ خَمَانُ النَّاسِ" وہ گھٹیا درجہ کے لوگ ہیں۔ الْخَمَانَةُ: کزور نیزہ کا چمڑ۔ خَمَنٌ (ض) خَمِيْنَا: ناک میں روتا یا بولنا یا ہنسنا۔ صفت (أخْمَنٌ) خَمَنٌ (ن) خَمَانًا: المَالُ: لینا۔ القَوْمُ: قوم کے حرم میں داخل ہونا۔ أَخْمَنٌ: عقل چھین لینا۔ صفت (مُخْمِنُونَ) قیاس کے مطابق (مُخْمَنٌ) ہونا چاہئے۔ اِسْتَخْمَنْتُ: بدبو دار ہونا۔ الْخَمْنُ: خالی کشتی۔ الْخَمْنَةُ: گنگنا ہٹ۔ ناک کی آواز۔ الْخَمَانُ: آسودگی۔ آرام۔ الْخَمَانُ وَالْخَمَانُ: اُوتوں کا زکام۔ ناک کی ایک بیماری۔ پرندوں کے گلے کی ایک بیماری۔ الْمِخْمَنُ: لمبا سرد۔ الْمِخْمَنَةُ: گنگنا ہٹ و ناک کی آواز۔ ناک۔ گھرا کا درمیان۔ صحن۔ واضح راستہ۔ راستہ میں داخل ہونے کی جگہ۔ وادی کی تنگ جگہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مَخْمَنَةٌ لِفُلَانٍ" فلاں چیز فلاں کے کھانے کی ہے۔ خَمَانًا (ف) خَمَانًا: الْجِدْعُ: کاٹنا۔ خَمِبٌ (س) خَمِيْبًا: زکام والا ہونا۔ لنگڑا ہونا۔ بلاک ہونا۔ کزور ہونا۔ أَخْمَبٌ وَأَخْمَبٌ: بلاک ہونا۔ اَخْمَبٌ: ہلاک کرنا۔ کزور کرنا۔ فَخْمَبٌ: تکبیر کرنا اور ناک کے دونوں نچھنے بلند کرنا۔
الْحَمْلُ: تکبیر کرنا۔ غھینٹا ہونا۔ (خَمَطٌ) (ش) خَمَطًا) اللحم: بھونا۔ صفت مقبول خَمِيطٌ خَمَطٌ (ن ض) خَمَطًا۔ اللَّيْنُ: دودھ کو برتن میں ڈالنا۔	الْحَمْلُ: تکبیر کرنا۔ غھینٹا ہونا۔ الْبَحْرُ: موج مارنا۔ الْفَجْلُ: بڑبڑانا۔ الْخَمَطُ: سہ۔ ہر کٹی یا کڑوی چیز۔ ہر درخت کا تھوڑا پھل۔ ہر بے کانٹے والا درخت۔ پیلو کا پھل۔ ایک قسم کی سانپ کی چھتری۔ الْخَمَطَةُ وَالْخَمِطَةُ: مِنَ اللَّيْنِ: دودھ کی بُو۔ الْخَمِيْطُ: بکری کا بچہ کھال آتار کر ہونا ہوا اور اگر بال آتار کر ہوں تو اس کو سَمِيْطٌ کہتے ہیں۔ الْخَمَطُ: بھونے والا۔ خَمَعَتْ (ف) خَمَعًا وَخُمُوْعًا وَخَمَعَانًا۔ الضَّبْعُ: لنگڑاتے ہوئے چلنا۔ الْخَامِعَةُ: بچوں ج خَوَامِعُ۔ الْخَمَاعُ: لنگڑا ہٹ۔ الْخَمْعُ: بھیڑیا۔ چور۔ ج اَخْمَاعُ۔ الْخَمِيْمُ وَالْخَمُوْمُ: بدکار عورت۔ خَمَلٌ (ن) خَمُولًا ذَكَرُهُ اَوْ صَوْنُهُ: پوشیدہ و کزور ہونا (خَمَلٌ) (ن) خَمَلًا) الْبَسُوْتُ: نرم ہونے کے لیے گڑے وغیرہ میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "خَمَلَهُ اللّٰهُ" اللہ اس کو ہلاکت میں ڈال رہے۔ خَمِلٌ: جوڑوں کی بیماری والا ہونا۔ اَخْمَلَةٌ: گنام و بے قدر کرنا۔ اَخْمَلْتُ الْاَرْضَ: بہت گنجان درختوں والی ہونا۔ اَخْمَلُ الْقَطِيْفَةِ: روکیں دار بنانا۔ اِخْمَلْتُ: الماشِيَةَ: جانوروں کا اچھی گھاس والی زمین میں چرنا۔ الْخَامِلُ: فا۔ مِنَ الرَّجَالِ: گنام و بے قدر۔ ج خَمَلٌ۔ الْحَمْلُ کپڑے کا رداں۔ (۔) وَالْخَمَالَةُ وَالْخَمِيْلَةُ) شتر مرغ کے پر۔ الْحَمَلَةُ: چادر۔ روکیں دار کپڑا۔ الْحَمَلَةُ: راز۔ اندرونی کیفیتیں۔ ج خَمَلَاتُ۔ الْخَمَالُ: جوڑوں کا ردا (۔) وَالْخَمَالِيُّ	الْحَمْلُ: تکبیر کرنا۔ غھینٹا ہونا۔ الْبَحْرُ: موج مارنا۔ الْفَجْلُ: بڑبڑانا۔ الْخَمَطُ: سہ۔ ہر کٹی یا کڑوی چیز۔ ہر درخت کا تھوڑا پھل۔ ہر بے کانٹے والا درخت۔ پیلو کا پھل۔ ایک قسم کی سانپ کی چھتری۔ الْخَمَطَةُ وَالْخَمِطَةُ: مِنَ اللَّيْنِ: دودھ کی بُو۔ الْخَمِيْطُ: بکری کا بچہ کھال آتار کر ہونا ہوا اور اگر بال آتار کر ہوں تو اس کو سَمِيْطٌ کہتے ہیں۔ الْخَمَطُ: بھونے والا۔ خَمَعَتْ (ف) خَمَعًا وَخُمُوْعًا وَخَمَعَانًا۔ الضَّبْعُ: لنگڑاتے ہوئے چلنا۔ الْخَامِعَةُ: بچوں ج خَوَامِعُ۔ الْخَمَاعُ: لنگڑا ہٹ۔ الْخَمْعُ: بھیڑیا۔ چور۔ ج اَخْمَاعُ۔ الْخَمِيْمُ وَالْخَمُوْمُ: بدکار عورت۔ خَمَلٌ (ن) خَمُولًا ذَكَرُهُ اَوْ صَوْنُهُ: پوشیدہ و کزور ہونا (خَمَلٌ) (ن) خَمَلًا) الْبَسُوْتُ: نرم ہونے کے لیے گڑے وغیرہ میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "خَمَلَهُ اللّٰهُ" اللہ اس کو ہلاکت میں ڈال رہے۔ خَمِلٌ: جوڑوں کی بیماری والا ہونا۔ اَخْمَلَةٌ: گنام و بے قدر کرنا۔ اَخْمَلْتُ الْاَرْضَ: بہت گنجان درختوں والی ہونا۔ اَخْمَلُ الْقَطِيْفَةِ: روکیں دار بنانا۔ اِخْمَلْتُ: الماشِيَةَ: جانوروں کا اچھی گھاس والی زمین میں چرنا۔ الْخَامِلُ: فا۔ مِنَ الرَّجَالِ: گنام و بے قدر۔ ج خَمَلٌ۔ الْحَمْلُ کپڑے کا رداں۔ (۔) وَالْخَمَالَةُ وَالْخَمِيْلَةُ) شتر مرغ کے پر۔ الْحَمَلَةُ: چادر۔ روکیں دار کپڑا۔ الْحَمَلَةُ: راز۔ اندرونی کیفیتیں۔ ج خَمَلَاتُ۔ الْخَمَالُ: جوڑوں کا ردا (۔) وَالْخَمَالِيُّ	

خَفْنَسٌ عَنهُ: پیچھے ہونا۔ سگڑنا۔
 الخَفْنَسُ: ہرنیوں کے رہنے کی جگہ۔ ہرنیاں۔
 خَفْنَسٌ: ستارے یا صرف سیارے۔ یا بقول
 بعض چند سیارے جن کے نام یہ ہیں۔ زحل،
 مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔
 الخَفْنَسَاءُ: نسل گائے۔ ایک مشہور شاعرہ کا
 لقب۔
 الأَخْنَسُ والخَفْنَسُ: شیر۔ الأَخْنَسُ:
 چھتری۔
 الخَفْنَسُ: شیطان۔
 الخَفْنَسُ: فرجی۔ جلد گر۔
 الخَفْنَسُ: لیم۔ کمینہ۔
 الخَفْنَسُ والخَفْنَسِيُّ: وہ شخص جو نقصان
 کے موقع میں ہوجن حسابیہ۔
 الخَفْنَسِيُّ: مصیبتیں۔
 الخَفْنَسُ: ایک قسم کی نباتات۔
 الخَفْنَسُ: کمونٹ الخَفْنَسُ: سور کا پتہ۔ ج۔
 خَفْنَسٌ (ن ض) خَفْنَسًا وخَفْنَسًا وخَفْنَسًا
 عَنهُ: پیچھے ہونا۔ علیحدہ ہونا۔ سگڑنا۔ کہتے ہیں
 ”خَفْنَسُ الظَّرِيقِ عَنَّا“ یعنی ہم راستہ سے گزر
 گئے اور اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔
 خَفْنَسَةُ (ن ض) خَفْنَسًا: پیچھے کرنا۔
 إِنْهَامَهُ: سیٹھا۔ کہا جاتا ہے ”أَشَارَ بِأَرْبَعٍ وَ
 خَفْنَسَ إِنْهَامَهُ“ اس نے چار انگلیوں سے اشارہ
 کیا اور گھوڑے کو سیٹھ لیا۔ القَوْلُ: بڑی
 بات کہنا۔ الشَّيْءُ عَنهُ: چھپانا۔
 فَلَانًا وَبِهِ: غائب کر دینا۔ چھپا دینا۔ صفت
 خَفَانِسُ ج خَفْنَسُ۔
 خَفْنَسُ (س) خَفْنَسًا: تاک کا چھپنا ہونا اور اس
 کے سرے کا اٹھا ہونا۔ صفت (أَخْنَسُ)
 مؤنث خَفْنَسَاءُ ج خَفْنَسُ اسم الخَفْنَسُ۔
 أَخْنَسَهُ: عتہ۔ روکنا۔ پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”أَخْنَسْتُ عَنْهُ بَعْضَ حَقِّهِ“ میں نے اس کے
 کچھ حصہ کو روک لیا۔ أَوْعَاظَ الظَّرِيقِ:
 دشوار راستوں سے آگے بڑھ جانا۔
 خَفْنَسُ بِهِ: غائب کر دینا۔

الخَفْنَسَاءُ: کمینہ۔
 شَعْرُ خَفْنَسٍ: لباب۔
 الخَفْنَسَةُ: چھوٹا گڑھا۔ موٹھیوں کے درمیان کا
 گڑھا۔
 الخَفْنَسُ: بچو۔
 خَفْنَفٌ (ض) خَفْنَفًا: البعيرُ: دوڑنے میں سر
 کو سوار کی طرف پھیرنا۔ صفت (مذکر مؤنث)
 (خَفْنُوفٌ) ج خَفْنُوفٌ: (خَفْنُوفًا) غفینا تاک
 ہونا۔ الرَّجُلُ بِأَنْفِهِ: تکبر کرنا۔ صفت
 (خَفَانِفٌ)۔ المرأةُ: سینہ پر دو تھڑا مارنا۔
 خَفْنَفٌ (س) خَفْنَفًا: صَدْرُهُ أَوْ ظَهْرُهُ: ایک
 جانب دوسری کے مخالف پیٹھ یا سینہ والا ہونا۔
 صفت (أَخْفَفٌ) ج خَفْنَفٌ۔
 الخَفْنَفُ: نشانات۔
 خَفْنَسٌ: عن القوم: نفرت کرنا۔ علیحدہ ہو
 جانا۔
 الخَفْنَسُ والخَفْنَسُ والخَفْنَسُ و
 الخَفْنَسَاءُ والخَفْنَسَاءُ: گھریاں ج خَفْنَسَاءُ۔
 والخَفْنَسُ: شیر۔
 خَفْنَقَةٌ (ن) خَفْنَقًا وخَفْنَقًا وخَفْنَقَةً: تخنیقًا۔ گلا
 گھونٹنا۔ کہا جاتا ہے ”خَفْنَقَةُ البعيرِ“ یعنی اُسے
 روٹے روٹے پھینک دیا گیا۔ خَفْنَقُ الإِنَاءِ: بھرننا۔
 خَفْنَقُ الشَّرَابِ الخَفْنَقُ: پانی کی چوٹی کو قریب
 قریب چھپا لینا۔ خَفْنَقُ زَيْدٍ الأَرْبَعِينَ: قریب
 قریب ہونا۔
 إِخْفَنَقًا: گلا گھٹنا۔
 إِخْفَنَقًا: اِنگلا گھونٹنا۔
 الخَفْنَقُ والخَفْنَقُ: گلا گھونٹنا ہوا۔
 الخَفْنَقُ: ایک بیماری کا نام جس میں سانس لینا
 مشکل ہوتا ہے۔
 الخَفْنَقِيَّةُ: پرندوں اور گھوڑوں کے طوق کی
 بیماری کا نام۔
 الخَفْنَقُ: زسی وغیرہ جو گلا گھونٹنے کے کام میں
 آئے۔ گردن۔ کہا جاتا ہے ”أَخْفَدَهُ بِخَفْنَقِهِ“ اس
 نے اس کی گردن پکڑ لی۔
 الخَفْنَقُ: فاج۔ تک راست۔ گلی۔ خَفْنَقُ المُنْذِبِ
 وخَفْنَقُ التَّمْرِ وخَفْنَقُ الكَلْبِ: گھاسوں کے
 نام۔

إِنْخَفَسَ: عتہ: پیچھے ہونا۔ سگڑنا۔
 الخَفْنَسُ: ہرنیوں کے رہنے کی جگہ۔ ہرنیاں۔
 الخَفْنَسُ: ستارے یا صرف سیارے۔ یا بقول
 بعض چند سیارے جن کے نام یہ ہیں۔ زحل،
 مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد۔
 الخَفْنَسَاءُ: نسل گائے۔ ایک مشہور شاعرہ کا
 لقب۔
 الأَخْنَسُ والخَفْنَسُ: شیر۔ الأَخْنَسُ:
 چھتری۔
 الخَفْنَسُ: شیطان۔
 الخَفْنَسُ: فرجی۔ جلد گر۔
 الخَفْنَسُ: لیم۔ کمینہ۔
 الخَفْنَسُ والخَفْنَسِيُّ: وہ شخص جو نقصان
 کے موقع میں ہوجن حسابیہ۔
 الخَفْنَسِيُّ: مصیبتیں۔
 الخَفْنَسُ: ایک قسم کی نباتات۔
 الخَفْنَسُ: کمونٹ الخَفْنَسُ: سور کا پتہ۔ ج۔
 خَفْنَسٌ (ن ض) خَفْنَسًا وخَفْنَسًا وخَفْنَسًا
 عَنهُ: پیچھے ہونا۔ علیحدہ ہونا۔ سگڑنا۔ کہتے ہیں
 ”خَفْنَسُ الظَّرِيقِ عَنَّا“ یعنی ہم راستہ سے گزر
 گئے اور اس کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔
 خَفْنَسَةُ (ن ض) خَفْنَسًا: پیچھے کرنا۔
 إِنْهَامَهُ: سیٹھا۔ کہا جاتا ہے ”أَشَارَ بِأَرْبَعٍ وَ
 خَفْنَسَ إِنْهَامَهُ“ اس نے چار انگلیوں سے اشارہ
 کیا اور گھوڑے کو سیٹھ لیا۔ القَوْلُ: بڑی
 بات کہنا۔ الشَّيْءُ عَنهُ: چھپانا۔
 فَلَانًا وَبِهِ: غائب کر دینا۔ چھپا دینا۔ صفت
 خَفَانِسُ ج خَفْنَسُ۔
 خَفْنَسُ (س) خَفْنَسًا: تاک کا چھپنا ہونا اور اس
 کے سرے کا اٹھا ہونا۔ صفت (أَخْنَسُ)
 مؤنث خَفْنَسَاءُ ج خَفْنَسُ اسم الخَفْنَسُ۔
 أَخْنَسَهُ: عتہ۔ روکنا۔ پیچھے کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”أَخْنَسْتُ عَنْهُ بَعْضَ حَقِّهِ“ میں نے اس کے
 کچھ حصہ کو روک لیا۔ أَوْعَاظَ الظَّرِيقِ:
 دشوار راستوں سے آگے بڑھ جانا۔
 خَفْنَسُ بِهِ: غائب کر دینا۔

الْخَوَّارِ - بزدل - کمزور - سُت - قُرْسٌ خَوَّارٌ الْعَيْنِ : تاجدار تیز رفتار گھوڑا - الْخَوَّارُ مِنْ الرِّيَاحِ : ہضمقان۔
 الْخَوَّارِ : کاہن - حِجَّوَاتٍ (دخیل)
 الْخَوَّارِ : گر جابیں خادموں کے قیام کی جگہ (ہدید)
 خَاوَزَه (ن) خَوَّزًا - دشمنی کرنا۔
 خَاسَتْ (ن) خَوْسًا - الجئیفۃ : بدبودار ہونا
 البِصَاعَةُ : مندا ہونا خَاسٌ خَاسٌ الْعَهْدِو بِالْعَهْدِ : بدعہدی کرنا
 بِالْوَعْدِ : خلاف وعدہ کرنا بِقْلَانِ : یوقائی کرنا۔
 خَوَّسَ - الشَّيْءَ : کم کرنا۔ گھٹانا۔ الاِبِلَ : ایک ایک کر کے پالی پر بھیجنا۔
 خَاشَشَ (ن) خَوْشًا - بِالْوَعْدِ : نیرہ مارنا
 الشَّيْءَ : لینا۔ الرَّجُلُ : نجوم میں داخل ہونا۔
 خَوْشٌ وَخَوْشٌ - الشَّيْءَ : کم کرنا۔ گھٹانا۔ و
 تَخَوَّشَ الرَّجُلُ : موٹائی کے بعد لاغر ہونا۔
 الْخَوْشُ : پہلو۔
 الْخَوْشَانِ - ایک قسم کی گھاس جس میں ترشی ہوتی ہے۔ واحد (خَوْشَانَةٌ)
 الْمَتَخَوِّشُ وَالْمَتَخَوِّشُ : جھری دار دبلے پیٹ والا۔
 خَوْصٌ يَخْوُصُ خَوْصًا - دھسی ہوئی آنکھ والا ہونا۔ صفت (أَخْوَصٌ) مَوْنَتْ خَوْصًا ج خَوْصٌ الشَّاةُ : تمام جسم میں سفیدی کے ساتھ ایک سفید اور ایک سیاہ آنکھ والی ہونا۔
 خَوْصٌ : پہلے شرفا کا پھر کینوں کا اکرام کرنا
 النَّجَاحُ : سونے کے پتروں سے مزین کرنا
 ه الشَّيْبُ : بڑھاپا شروع ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "خَوْصٌ مَا أَعْطَاكَ" یعنی جو کچھ وہ دے اس کو لے لو اگرچہ تھوڑا ہو۔
 خَاوَصٌ وَتَخَاوَصَ - آنکھوں کو بھیج کر تیز دیکھنا
 النَّجْوَمُ : ماثل بفریب ہونا۔
 خَاوَصَةٌ مُخَاوَصَةٌ وَخَاوَصَةُ الْبَيْعِ : بیچنے میں مقابلہ کرنا۔
 الْخَوْصُ : النُّحْلُ : پتے والا ہونا۔

الْمَوْخُ - شتالو - واحد (خَوْخَةٌ)
 الْخَوْخَةُ - روشن دان - چانک میں چھوٹا دروازہ۔
 الْخَوْخَاءُ وَالْخَوْخَاءَةُ وَالْخَوْخَاءَةُ : بیوقوف۔
 خَوْذَةُ الرَّجُلِ : تیز چلنا۔ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا : کچھ حاصل کرنا۔
 تَخَوَّذَ الْفُصُّصُ : جھکانا۔
 الْخَوْدُ : نازک بدن - جوان عورت - ج خَوَّوَاتٍ وَخَوْدٌ خَاوَذَهُ مُخَاوَذَةً إِلَى الشَّيْءِ : ایک کا دوسرے کے بعد آنا۔ کہا جاتا ہے "خَاوَذُونَا إِلَى الْمَاءِ" یعنی ہم واپس آ رہے تھے اور وہ لوگ جا رہے تھے۔
 خَاوَذَهُ : بار بار زیارت کیلئے آنا۔ خَاوَذَهُ الْخُمْصِيُّ : غیر متعین وقت پر آنا۔ خَاوَذَ عَنَّةً : علیحدہ ہونا۔
 تَخَاوَزَ الْقَوْمُ : باہم حمد و بیان کرنا۔
 تَخَوَّذَ : گھبائی کرنا۔ تم کہتے ہو "تخوذنا بِالرِّيَازَةِ" اس نے ہم سے بار بار ملاقات کی۔
 الْخَوْذَةُ - خور - ج خَوْذٌ خَوْذَانُ النَّاسِ : لوگوں کے خادم۔
 خَوْذَ الْخُمْصِيِّ : غیر متعین وقت میں بخار آنا۔
 خَاوَزَا الْبَقْرَةَ : آواز کرنا۔
 (خَوْوُزًا وَخَوْرًا) خَوْوُزًا : ست و کمزور ہونا۔ ثُوْنَا : قوۃ المریض : کم ہونا۔
 خَوْزٌ - کمزور ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔ الْأَرْضُ : کثرت بارش کی وجہ سے نرم ہو جانا۔
 الرَّجُلُ : کمزوری کی طرف نسبت کرنا۔
 آخَاوَه - ماثل کرنا۔ موٹا۔ پھیرنا۔ تم کہتے ہو "أَخْوَزْنَا الْإِبِلَ إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا" ہم نے اونٹوں کو فلاں مقام کی طرف پھیر دیا۔
 تَخَاوَزَتِ الْبِئْرَانِ : بیلوں کا باہم آواز نکالنا۔
 اسْتَخَاوَزَهُ : مہربانی چاہنا۔ الْمَثْوَرُ : صاف کرنا۔
 الْخَوْرُ : مہ - دو بلند یوں کے درمیان پست زمین۔
 الْخَوَّارِ : گائے کی آواز - بکریوں، بھڑوں اور تیرکی آواز کے لیے بھی مستعمل ہے۔

الْخَنَّاقُ : جس کی عادت گلا گھونٹنے کی ہو۔
 الْمِخْنَقَةُ : گلوبند (ایک زیور) وہ چیز جس سے گلا گھونٹا جائے۔ جِ مَخَائِقُ وَمَخَائِقُ - الْمِخْنَقُ : مہ - گلا گھونٹنے میں رسی کی جگہ گردن۔ کہا جاتا ہے "غَلَامٌ مُخْنَقٌ الْخَصْرِ" پتلی کمر والا۔
 الْمِخْنَقُ : جگ جگہ۔
 الْمِخْنَقُ : گھوڑا جس کی پیشانی کی سفیدی رخساروں تک ہو۔
 خَنَاتٌ (ن) خَنُوًا وَخَنَى (س) خَنَى وَأَخْنَى عَلَيْهِ فِي الْكَلَامِ : بد زبانی کرنا۔ أَخْنَى الْجَوَادُ : بہت اونڈے رہنا۔ الْمَرْعَى : بہت گھاس والی ہونا۔ أَخْنَى عَلَيْهِ الدَّهْرُ : طویل ہونا۔ ہلاک کرنا۔ ظلم کرنا۔ یوقائی کرنا اور کہا جاتا ہے "أَخْنَى بِهِ" اس نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ بد عہدی کی۔
 الْخَنَى : بد زبانی - خَنَى الدَّهْرُ : مصیبتیں واحد (خَنَاتٌ)
 خَابَ (ن) خَوْنَا : محتاج ہونا۔
 الْخَوْنَةُ : بھوک - بغیر چارہ والی زمین یا وہ زمین جس پر بارش نہ ہوئی ہو۔
 خَاتٌ (ن) خَوْنَا وَخَوْنَا : الرَّجُلُ - عمر رسیدہ ہونا۔ عَمَد تَوْنَا : خلاف وعدگی کرنا۔ الْمَالُ : کم کرنا () وَانْخَاةٌ وَانْخَاتٌ الْبَايَظَى عَلَى الصَّيْدِ : ٹوٹ پڑنا۔
 خَاتٌ (ن) خَوْنَا : الْعِقَابُ : عقاب کے بازوؤں میں سرسراہٹ ہونا۔
 تَخَوَّتْ وَانْخَاتَتْ : الْمَالُ : کم کرنا۔ الشَّيْءَ : آپک لینا۔ خَلِيثٌ الْقَوْمِ : سن کر یا د رکھنا۔ الشَّاةُ : فریب دے کر چرانا۔ کہا جاتا ہے "هُمَّ يَخْتَانُونَ اللَّيْلَ" وہ رات میں رہتی کرتے ہیں۔
 الْخَوَاتُ : دلیر مرد۔
 خَوَّتْ (س) خَوْنَا : الْبَطْنُ : ڈھیلا ہونا۔ کھانے سے بھرا ہوا ہونا۔ صفت (أَخْوَتٌ) مَوْنَتْ (خَوْنَا)
 أَخَاخَ إِخَاخَةً : الْعَشْبُ : پوشیدہ ہونا۔ کم ہونا۔

تَخَوُّضٌ - الشئ: تمھوڑے ہونے کے باوجود
لے لینا۔ العَطِيَّةُ: تمھوڑا تمھوڑا کر کے لینا۔
الخَوَاصُ - کجور کے پتوں کا بیچنے والا۔ اور اس
کے عمل کو الخِياصة کہتے ہیں۔
الخَوْضُ - کجور کے پتے۔ واحد (خَوْضَةٌ)
الخَوْضَاءُ - گرم ہوا جو آنکھوں کو چندھا کر
دے۔ کہا جاتا ہے "خَوْضُوا فِي الظَّهِيْرَةِ
الخَوْضَاءُ" وہ دہر کی سخت گرمی میں نکلے۔
خَاضَ (ن) خَوْضًا وَخِيَاضًا - المَاءُ: داخل
ہوا۔ گھستا۔ الشرابُ: ملانا۔
العَمْرَاتُ: نختیوں میں کود پڑنا۔ فی
الحَدِيثِ: مشغول ہونا۔ الخَوَاضُ فِي
الْمَيْدَانِ: کلیں کرنا۔ بالفَرَسِ: پانی پر لے جانا
بِالسِّيْفِ: زخم میں تلوار ہلانا۔ کہا جاتا
ہے "إِنَّهُ يَخْوِضُ الْمَنَائِمَا" وہ اپنے آپ کو
ہلانکوں میں ڈالتا ہے۔ وَهُوَ يَخْوِضُ اللَّيْلَ وَه
رَاتٍ كُوهُنَا كِيَوْمِ كِيَوْمِ كِرْتِ هُوَ غَسَّ
پڑتا ہے۔
خَوْضُ - المَاءُ: داخل ہونا۔ گھستا۔
خَاوِضٌ مَخَاوِضَةً وَأَخَاوِضُ
إِخَاوِضَةَ الْفَرَسِ: پانی میں داخل کرنا۔
أَخَاوِضُ الْمَاءِ: جانوروں کو پانی میں ڈال دینا۔
تَخَوَّضَ - بِكَلْفٍ گھستا۔
إِخْتَاوَضَ - المَاءُ: داخل ہونا۔ گھستا۔
تَخَاوَضَ - القَوْمُ فِي الْحَدِيثِ: باہم
مشغول ہوا۔
الخَوْضَةُ - خَاوِضٌ كَأَسْمِ مَرَّةٍ - موتی۔
الخَوَاضُ - بہت گھسنے والا۔
المَخَاوِضَةُ - پانی میں گھسنے کی جگہ۔ ج
مَخَاوِضٌ وَمَخَاوِضٌ وَمَخَاوِضَاتٌ.
تَخَوَّطَهُ: وَقَدْ تَوَقَّأَ آتَا.
الخَوْطُ - نرم شئی یا ہری شاخ۔ ج خِيَطَانٌ.
خَوَّعَ تَخْوِيْعًا: منہ نہ کم کرنا۔ گھانا۔
فَلَانًا بِالْبَطْرِيبِ: توڑ دینا۔ کمزور کر دینا۔
السَّمِيلُ الْوَادِي: وادی کے دونوں پہلوؤں کو
ڈھارنا۔ دَيْتَهُ: ادا کرنا۔
تَخَوَّعَ - الشئ: تمھوڑا تمھوڑا کم کرنا۔ کھٹکار
کر تھوکرنا۔

الخَوَّعُ - وادی کا موڑ۔ ج أَخْوَاعٌ.
خَافَ (س) خَوْفًا وَخَيْفًا وَمُخَافَةً وَخَيْفَةً
وَتَخَوَّفَ - گھبرانا۔ احتیاط کرنا۔ ڈرنا۔ کہا جاتا ہے
"مُخَافَةٌ وَخَافَ مِنْهُ وَخَافَ عَلَيْهِ"
صفت (خَائِفٌ) ج خَوْفٌ وَخَيْفٌ وَخَيْفٌ
وَخَائِفُونَ. وَتَخَوَّفَ الْحَقُّ: حق کو مار لینا۔
وَتَخَوَّفَ الشَّيْءُ: تمھوڑا تمھوڑا کم کرنا۔ تَخَوَّفَ
عَلَيْهِ شَيْئًا: خوف کھانا۔
خَوْفَهُ - ڈرانا۔ الطَّرِيقُ: ایسا کر دینا کہ
لوگ ڈرنے لگیں۔
أَخَافُهُ إِخَافَةً: ڈرانا۔ أَخَافَ الطَّرِيقُ:
گھبراہٹ میں ڈالنا۔
خَاوِفَةٌ: ڈرنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
"خَاوِفُهُ فَخَفَفْتُهُ أَخْوَفُهُ" میں نے اس سے
ڈرنے میں مقابلہ کیا تو میں غالب رہا یعنی میں اس
سے زیادہ ڈرنے والا نکلا۔
الخَوَافُ - شور۔
الخَافُ - بہت ڈرنے والا۔
الخَافَةُ - چیزے کا جب جس کو شدت کالنے والا پھینکا
ہے۔ جس کے ذریعے سے بھلوں کو چننا جائے۔
الخَيْفَةُ - ڈرنے والے کی حالت۔ ج خَيْفٌ.
المَخْوُوفُ - خوفناک۔ کہا جاتا ہے "طَرِيقِي
مَخْوُوفٌ" خوفناک راستہ۔
خَوِقَ (س) خَوْقًا وَإِنخَاقًا وَتَخَوَّقَ - کشادہ
ہونا۔ صفت (أَخْوِقٌ) مَمْتُثٌ خَوْفًا ج خَوْقٌ.
أَخَاقَ إِخَاقَةً: ملک میں جانا۔
خَوْقَهُ: کشادہ کرنا۔
تَخَوَّقَ - عَنَهُ: دور ہونا۔
الخَوِقُ - بالی کا حلقہ۔
الخَوِقُ - کشادگی۔ خارش۔
الأَخْوِقُ - خارش والا۔ کانا۔
مکان (مَنْخَقٌ) کشادہ جگہ۔
خَالٌ يَخْوُلُ خَوْلًا وَخِيَالًا - المَوَاشِي:
گھبھائی کرنا۔ فلَانٌ عَلَى أَهْلِيهِ: تدبیر امور
کرنا۔ انتظام کے لیے کافی ہونا۔
خَائٍ يَخَائِلُ خَوْلًا: تمھاری کے بعد غلاموں والا
ہونا۔
خَوْلَةُ الشئ: عطا کرنا۔ بخشش کرنا یا مالک بنانا۔

أَخْوَلٌ وَأَخْوِلٌ - ماموں والا ہونا۔
أَخَالَ - فِيهِ خَالَ مِنْ الْخَيْرِ وَأَخَالَهُ:
فرست سے بھلائی معلوم کرنا۔
تَخَوَّلَ فِيهِ خَالَ مِنَ الْخَيْرِ وَتَخَوَّلَ:
تَخَوَّلًا وَتَخِيَالًا - بھلائی معلوم کرنا۔ تَخَوَّلَ
خَالَ مَامُونَ بَنَانًا - فلَانًا: گھبھائی کرنا۔
إِسْتَخَوَّلَهُمْ: خادم بنانا۔ إِسْتَخَوَّلَ
وَإِسْتَخَالَ فِيهِمْ: ماموں بنانا۔
الخَوَّلُ - خولی کی جمع۔ غلام۔ لونڈیاں۔ لفظ
واحد ہی جمع کے لیے مستعمل ہے۔ اور کبھی واحد
کے لیے (خَائِلٌ) بولتے ہیں۔

الخَالُ - ماموں۔ ج أَخْوَالٌ وَأَخْوَالَةٌ وَخُوُولٌ
وَخَوُولٌ وَخَوُولَةٌ.
الخَالَئَةُ - ماں کی بہن۔ موی۔ ج خَالَاتٌ۔ تم
کہتے ہو۔ "هُنَا أَتْبَاءُ خَالَةٍ" یہ دونوں ایک
دوسرے کے خالہ کے بیٹے ہیں۔ الخَالُ: خیر کا
نشان۔ فوج کا جھنڈا۔ چیز کا مالک۔ تم کہتے ہو "انا
خَالُ هَذَا الْفَرَسِ" میں اس گھوڑے کا مالک
ہوں۔

الخَوَلِيُّ - مال کا بہتر منتظم۔ ج خَوَلٌ.
الخَائِلِيُّ - نا۔ الخَوْلُ کا واحد۔ کہا جاتا ہے "ہو
خَائِلِيُّ مَالٍ" وہ مال کا منتظم و گھبھان ہے اور کبھی
حذف ہمزہ سے "خَالٌ مَالٍ" کہتے ہیں۔
الخَوَلَةُ - بہرنی۔
الأَخْوَلُ - وہ شخص جس کے بہت سے ماموں
ہوں۔ رَجُلٌ (مُخَوَّلٌ وَمُخَوَّلٌ وَمُخَالٌ)
شَرِيفٌ مَامُونَ وَالَا۔
خَامَتُ (ن) خَوْمَانًا - الأَرْضُ: ناموافق آب
وہو ادالی ہونا۔

أَخَامَ إِخَامَةً - الفَرَسُ: تین تا گلوں پر کھڑا
ہونا۔
الخَامُ - روٹی کا کپڑا۔ ج أَخْوَامٌ - أَرْضُ
(خَامَةٌ) ناموافق آب وہو ادالی زمین۔
خَانَةٌ (ن) خَوْلًا وَخِيَانَةً وَمُخَانَةً وَخَانَةً.
فِي كَذَا: امانت میں خیانت کرنا۔ خَانَةٌ مُسَيِّفَةٌ:
اُحْثَ جانا۔ خَانَةُ الدَّهْرِ: آسودگی کو تھکنی سے بدل
دینا۔ خَانَتُهُ فِي جِلْبَاهِهِ: چلنے پر قادر نہ ہونا۔ خَانٌ
الدَّلْوِ الرِّشَاءُ: ٹوٹ جانا۔ العَهْدُ: توڑ دینا۔ کہا

نیکی والا۔ اور خیر اسم تفضیل کا سینہ (خَیْرٌ) کا مخفف ہے اور اس کی مؤنث (خَیْرَةٌ) ہے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانَةٌ خَیْرَةٌ لِلنَّاسِ وَخَیْرُهُمْ" الخیر۔ شرف۔ بزرگی۔ کرم۔ اصل۔ ہیئت۔ الخیرة۔ بہت خیر والی۔ ہر چیز سے بہتر ج خیرات۔

الخیرة والخیرة۔ من الشئ والقوم: افضل۔ الخیر۔ پسندیدگی۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ بِالخَیْرِ" یعنی جو چاہو پسند کرو۔ خیر الشئ: چیز میں کا افضل۔ الخیر: بکری۔ واحد (خیراۃ) خیراۃ شئیر۔ الماس۔ الخیرئ: ایک قسم کی پھولوں والی نباتات۔ الخیریۃ: عمدگی۔ فضل۔ عثمانی سلطنت کا ایک پرائسک۔

الخیر فیاض۔ مؤنث خیرة۔

الأخیر: زیادہ اچھا۔ مؤنث خیروی و خوزی ج أخاییر۔ الخیروی والخوزی والخوزی والخیروی۔ بہت زیادہ اچھا۔ کہا جاتا ہے رجل خیروی۔ الخ: یعنی بہت خیر والا۔

المختار: ضم۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ بِالْمُخْتَارِ" یعنی تم جو چاہو پسند کرو۔ خاس (ض) خیشا۔ اللحم: بدبودار ہونا۔ التبع: سرد بازاری ہونا۔ سدا ہونا۔ الرجل: جھوٹ ہونا۔ ذلیل ہونا۔

الرجل والداۃ: مطبخ کرنا۔ خاس (ض) خیشا وخیسانا۔ بالمعهد: بد عمدی کرنا۔ بالفؤعد: خلاف وعدگی کرنا۔

خیسہ: سدھانا۔ ذلیل کرنا۔ کہا جاتا ہے "خیس الخصل" یعنی اس نے اونٹ کو سوار ہو کر سدھایا۔ روکنا۔ الخیس: غم۔ گمراہی۔ جھوٹ۔ خیر۔ الخیس: گنجان درخت۔ شیرکی جھازی۔ ج الخیاس: وودہ۔

الخیسۃ: شیر کے رہنے کی جگہ۔ ج خیس الخیس: والمخیس۔ جانور کے

أخوی إخوانة۔ الرند: آگ نہ دینا۔ النجوم: بے بارش کے ہونا۔ الرجل: بھوکا ہونا۔ ما عند فلان: سب کچھ لے لینا۔ و خوت: الماشیۃ۔ بہت موٹا ہونا۔

إختوی إخوانا۔ بے عقل ہونا۔ البلد: عبور کرنا۔ ما عند فلان: سب کچھ لے لینا۔ الفرس: اگلی چھیل ناٹھوں کے درمیان نیزہ مارنا۔

الأخوی: عقل و ہوش رفتہ۔ مؤنث خیتا و خوینا۔

الخوی والخواء: کھانے سے پیٹ کا خالی ہونا۔ دو چیزوں کے درمیان کا خلاء۔ خواء الفرس: گھوڑے کے اگلے پچھلے پیروں کے درمیان کا فاصلہ۔

الخوی: خالی پیٹ والا۔

الخوی: نرم و پست زمین۔

خاب (ض) خیبۃ و تخیب: محروم ہونا۔ ناامید ہونا۔ کہا جاتا ہے "خاب سفینہ" یعنی وہ ناکامیاب ہوا۔

خیبۃ و آخایہ: محروم کرنا۔

قدح (خیتاب): آگ نہ دینے والا ہتھیار۔

المختبۃ: باعث محرومی۔

خات (ض) خیشا و خیشو۔ آواز کرنا۔

خاز (ض) خیرا۔ صاحب خیر ہونا۔

اللذک فی الأمر: بہتری کرنا۔

خاز (ض) خیرۃ و خیرۃ و خیرا و خیر: الشئ علی غیرہ: فضیلت دینا۔ خازۃ: انتخاب کرنا اور اسی سے ہے "اللہم جزلی" اے اللہ میرے لیے دو امر میں سے بہتر کا انتخاب کر۔

خیرۃ و خایرۃ: فی الأمر و بین الأمرین: پسند کرنے کے لیے اختیار دینا۔ و خایرۃ فی العلم: فَخَاذۃ: علم میں مسابقت کرنا اور غالب رہنا۔ تَخیرۃ و إختازۃ: چن لینا۔ انتخاب کرنا۔ ذخیرہ کرنا۔

إستخاز: استخازۃ۔ طلب خیر کرنا۔

اللہ: طلب خیر کی دعا کرنا۔

الخیر: ج خیمور: بھلائی، نیکی۔ کسی چیز کا اپنے کمال کو پہنچانا۔ ج الخیار و خیار: بہت

جاتا ہے "خانہ العهد أو الأمانۃ" یعنی اس نے عہد یا امانت میں خیانت کی۔ صفت (خاین) ج خَوَانٌ وَخَانَةٌ وَخَوَانَةٌ (خَوَانٌ) جسم میں کمزوری اور نظر میں ضعف ہونا۔

خَوَانَةٌ: خیانت کی نسبت کرنا۔ خَوَانَةٌ وَخَوَانٌ مِنۡهُ وَخَوَانَةٌ: تھوڑا تھوڑا کر کے کم کرنا۔ خَوَانَةٌ وَخَوَانَةٌ: گھمبائی کرنا۔ اور اسی سے ہے "كَانَتِ الحُمَّى تَخَوِّنُهُ" اس کو وقت پر بخار آتا ہے۔ تَخَوَّنَهُ الذَّهْوُ: آسودگی کو سختی سے بدل دینا۔

إختانۃ: خیانت کرنا۔ الصان: چراغا۔ استخانۃ: خیانت کرنے کا ارادہ کرنا۔

الخآن۔ دکان۔ سرائے۔ ج خانات۔ (دخل) اور خان ترکوں کے بادشاہ کا لقب تھا۔ الخائنة: الخاین کا مؤنث۔ الخائنة: بہت خیانت کرنے والا۔ "آ" مبالغہ کے لیے ہے۔ جیسے زاویۃ بہت روایت کرنے والا۔

الخَوَانُ والخَوَانُ: دسترخوان۔ عوام اس کو سفر کہتے ہیں۔ ج أخوۃ و خون۔ الخَوَانُ والخَوَانُ: بہت خیانت کرنے والا۔ الخَوَانَةُ: بہت خیانت کرنے والا۔ "آ" مبالغہ کے لیے ہے۔ ویر۔

خَوَاتِ الدَّارِ تَخَوُّخَوًا: گر جانا۔ النجوم: بغیر بارش ہوئے غروب ہونا۔ الخَوُّ: بھوک۔ کشادہ وادی () والخو شہد۔

الخوة: کشادہ زمین۔ الخوی (ض) خواء: البیت: گرنا۔ خالی ہونا۔ راسہ: کثرت کثیر سے خون سے خالی ہونا () خوی و خواء) بھوکا ہونا۔

الرند: آگ نہ دینا () خیشا) النجوم: بے بارش کے ہونا۔ مائل مغرب ہونا () الخوی و خویۃ) الشئ: ایک لینا۔

خوی (س) خیشا و خویبا و خویۃ: الممكن: خالی ہونا۔ الخوی تَخَوِيۃ: الخیر: بیٹھے میں بیٹ کو زمین سے اُٹھا رکھنا۔ الطائر: اُڑنے میں بازو لگانا۔

السَّكَّانُ بِالتَّنَابِتِ : ہر ابھرا ہونا۔ اَحْآلٌ عَلَيَّهِ الشَّيْءُ : ہر شے اور مشتبہ ہونا۔

تَحَيَّلَتْ : السَّحَابَةُ : بارش کی علامتیں معلوم ہونا۔ الرَّجُلُ : تکبر کرنا۔ لَهْ اِنَّهُ كَذَا : تو ہم ہونا کہ وہ ایسا ہے۔ فِيهِ الْعَيِزُ : معلوم کرنا۔ هُ : فراس سے معلوم کرنا۔ عَلَيْهِ : پسند کرنا اور فراس سے خیر معلوم کرنا۔

تَحَايَلٌ تَحَايَلًا وَ اِحْتَالًا وَ اِحْتِيَالًا : تکبر کرنا اور اکر کر چلنا۔

اِسْتَحَالَ : السَّحَابَةُ : برستا ہوا خیال کرنا۔

الْعِتَالُ : بادل جس سے بارش ضروری ہو۔ بے بارش کا بادل۔ بجلی۔ غرور۔ بڑا ہماڑ۔ جھنڈا۔ نرم کپڑا۔ سخی و فیاض آدمی۔ مغرور۔ گمان و توہم۔ بے پوی والا۔ کمزور یا کمزور جسم والا۔ چھوٹا ٹیلہ۔ گھوڑے کی لگام۔ کفن۔ بدن کامل۔ ج۔ خیلان۔

الْعِتَالَةُ : مغرور عورت۔

الْعَيْلُ : بادل۔ گھوڑوں کا گروہ۔ ج۔ خیلوں و اَحْيَالُ : اور مجاز آخیل کا اطلاق سواروں پر بھی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "اسی پغییلہ و زجیلہ" وہ اپنے سوار اور پیادوں کے ساتھ آیا۔

الْعَيْلُ : ہنگ۔

الْعَيْلَانُ : ایک دربیانی جانور ہے جس کا نصف حصہ انسان جیسا اور نصف حصہ مچھلی کا سا ہوتا ہے۔

الْعَيْلَالُ : گمان و ہم۔ ج۔ اَحْيَالَةٌ (و۔ العَيْتَالَةُ) وہ صورت جو خواب میں نظر آئے۔ انسانی شکل۔ ڈراوا۔ یعنی وہ چیز جس کو کھتوں میں کھڑا کر دیتے ہیں چپائے اور پرندے اس کو انسان خیال کرتے ہیں۔

الْبَحَائِلُ : مغرور ج۔ ختالہ۔

الْمُتَحَيِّلَةُ : العَيْتَالَةُ : توت خیالہ۔

الْأَحْيَالُ : مؤنث تحيلاء۔ ج۔ خیل و اَحْيَالُ

وَالْمَخْيِيلُ وَالْمَخْيِيلُ : بدن میں تل والا۔

الْأَحْيَالُ : ایک منحوس پرندہ کا نام۔

الْأَحْيَالُ : مغرور۔ کہا جاتا ہے "رجلٌ

أَحْيَالٌ"

شتر مرغ کاربوڑ۔ مڈیوں کا دل۔

الْحَيْطَاةُ : درزی کا پیشہ۔

الْحَيْطَاةُ : درزی۔

الْحَيْطَاةُ وَالْمَحْيِطَةُ : سوئی۔

خَيْفٌ (س) خَيْفٌ : ایک نیلگوں اور ایک سرگیں آگہ والا ہونا۔ صفت (أَخْيِفٌ) مؤنث خَيْفَاءُ ج۔ خَيْفٌ۔

خَيْفٌ : عَنِ الْقِتَالِ : روگردانی کرنا۔

القَوْمُ : کسی جگہ میں اترنا۔ خَيْفَتِ المِرَاءُ بَأَوْلَادِهَا : اخیانی ہمایوں کی ماں ہونا۔

تَخَيَّفَ : الوَائِي : مختلف رنگوں والا ہونا۔

الْخَيْفُ : دامن کوہ میں ہر بلند پست زمین۔ پانی بہنے کی جگہ سے بلند جگہ۔ تھن کی کھال۔

الْخَيْفَةُ : چھری۔ شیر کی جھاری۔

الْخَيْفَاءُ : کشارہ تھنوں والی۔ ج۔ خَيْفَاةٌ وَ خَيْفٌ وَ خَيْفٌ۔

الْأَخْيَافُ : مختلف لوگ۔ کہا جاتا ہے "ہم اِخْوَةٌ أَخْيَافٌ أَوْ بَنُو أَخْيَافٍ" یعنی ان کی ماں ایک ہے اور باپ مختلف ہیں۔

الْحَيْفَانُ : لوگوں کی کثرت۔ مختلف رنگوں والی مڈی۔ ایک قسم کی پہاڑی گھاس۔ واحد (خَيْفَانَةٌ)

خَالٌ يَخَالُ خَيْلًا وَ خَيْلًا وَ خَالًا وَ خَيْلَةً وَ خَيْلَةً وَ خَيْلَانًا وَ خَيْلَوَةً وَ مَخْيَلَةً وَ مَخَالَةً۔

الشَّيْءُ : خیال کرنا۔ گمان کرنا اور واحد متکلم مضارع کا صیغہ اِخَالٌ وَ اَحْآلٌ اور بکسر ہمزہ زیادہ فصیح ہے۔

خَيْلٌ تَخْيَلُ وَ تَخْيَلُ عَلَيْهِ : تمت لگانا و

(خَيْلٌ تَخْيَلُ) السَّحَابُ : گرجنا چکنا اور برسنے کے لیے تیار ہونا۔ فِيهِ الْخَيْزُ : معلوم کرنا۔ عَنِ الْقَوْمِ : کمزور بڑوں ہونا۔

خَيْلٌ : اَللَّيْهُ وَ لَهْ اِنَّهُ كَذَا : تو ہم ہونا کہ وہ ایسا ہے۔

خَائِلَةٌ : فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

خَائِلَتِ السَّحَابَةَ : بارش کی امید دلانا۔

أَخْيَلَتْ : السماءُ : برسنے کیلئے تیار ہونا۔

النَّفَاقَةُ : تھنوں میں دودھ والی ہونا۔

(وَأَحَانَ) القَوْمُ : ایسے بادل کو دیکھنا جس کے متعلق خیال ہو کہ برے گا۔ (أَخْيَلٌ وَ اِحْتَالٌ)

سردھانے کی جگہ۔ قید خانہ۔

خَاشٌ (ض) خَيْشًا : مافی الوعاء : نکالنا۔

الْخَيْشُ : کٹاں کا گھردرا کپڑا۔ ج۔ خَيْشٌ وَ اَخْيَاشٌ : واحد (خَيْشَةٌ) کینہ آدمی۔

الْخَيْشَاشُ : کٹاں کا گھردرا کپڑا بیچنے والا۔

خَاصٌ (ض) خَيْصًا : کم ہونا۔ صفت (خَائِصٌ)

خَيْصٌ (س) خَيْصًا : ایک بڑی ایک چھوٹی آگہ والا ہونا۔ صفت (أَخْيِصٌ) مؤنث (خَيْصَاءُ)

الْحَيْصُ : تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "بَلَّتْ مَنَةٌ خَيْصًا خَائِصًا" میں نے اس سے تھوڑی چیز حاصل کی۔

الْحَيْصِيُّ : تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "فِي الْمَوْعَى خَيْصِي مِنَ الْعُشْبِ" چراگاہ میں تھوڑی سی گھاس ہے۔

الْحَيْصَانُ : تھوڑا مال۔

خَاطٌ (ض) خَيْطًا : الثَّوْبُ : سینا۔ صفت فاعلی (خَائِطٌ وَ خَائِطٌ وَ خَيْطٌ) اور صفت مفعولی (مَخْيُطٌ وَ مَخْيُوطٌ)۔ الحَيْثَةُ : زمین پر

ریگانا اور اسی سے ہے "هَذَا مَخْيُطٌ الْحَيْثَةَ" یہ سانپ کے ریگنے کی جگہ ہے۔ خَاطٌ إِلَيْهِ خَيْطَةٌ : ایک ہی دفعہ یا جلدی سے گزر جانا۔

خَيْطٌ الشَّيْبُ فِي رَأْسِهِ : بڑھاپا شروع ہونا۔

تَخَيْطٌ : رَأْسُهُ بِالشَّيْبِ : بڑھاپا شروع ہونا۔ اِحْطَاةٌ وَ اِحْتِطَى : إِلَيْهِ : ایک ہی دفعہ یا جلدی سے گزر جانا۔

الْحَيْطُ : ب۔ دھاگہ۔ ج۔ خَيْطُوطٌ وَ خَيْطُوطَةٌ وَ اَحْيَاةٌ : مِنَ النَّعَامِ : شتر مرغ کاربوڑ۔

مِنَ الْجَزَادِ : مڈیوں کا دل۔ ج۔ حَيْطَانٌ۔

الْحَيْطُ الْأَيْصُ : صُحٌّ كِ سَفِيدِي : الخَيْطُ

الْأَسْوَدُ : رات کی سیاہی۔ الخَيْطُ مِنَ الرَّقَبَةِ : حرام مغز۔ کہا جاتا ہے "جَاحِشٌ عَنِ حَيْطِ رَقَبَتِهِ" اس نے اپنے خون سے بداعت کی۔

خَيْطٌ بَاطِلٌ : ترمے یعنی وہ چیز جو گرمی کے زمانہ میں دوسرے گرمی کے جانے کی مانند نفا

میں اترتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

الْحَيْطُ وَالْحَيْطِيُّ : مِنَ النَّعَامِ أَوْ الْجَزَادِ :

دَبَّ (ض) دَبَّأ و دَبَّيْنَا۔ ریختنا۔ ہاتھوں یا پیروں کے بل چلنا۔ کہتے ہیں "هُوَ اكْتَدَبَ مِنْ دَبِّ وَ دَرَجٍ" وہ زندوں اور مردوں سے زیادہ جھوٹا ہے۔ السَّقْمُ فِي الْجِسْمِ او النَّبْلِ فِي الثَّوْبِ: بیماری کا جسم میں اور کھسکی کا کپڑے میں سرایت کرنا، اثر کرنا۔ الْجَدْوَلُ: نمر کا جاری ہونا اور کہا جاتا ہے "دَبَّتْ عَقَارِبُهُ" اس نے تفرقہ اندازی کیلئے چغل خوری کی۔ دَبَّ الشَّيْخُ: آہستہ چلنا۔

أَدَبٌ۔ الصَّبِيُّ: ہاتھ پیروں پر چلانا۔ إِلَى أَرْضِهِ جَدْوَلًا: نمر جاری کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَدَبَ الْبِلَادَ" اس نے ملک کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ و "هُوَ يُدَبُّ عَلَيْنَا عَقَارِبُهُ" يُخْرِشُ عَلَيْنَا أَقَارِبَهُ" یعنی وہ ہم سے دشمنی کرتا ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔

الدَّبُّ۔ رَجِيحٌ۔ جِ ادْبَابٌ وَ دَبِيَّةٌ۔ مَوْثٌ دَبِيَّةٌ۔ الدَّبُّ الْكَبِيرُ وَ الدَّبُّ الْأَصْفَرُ: بنات النعش کے ستاروں کا مجموعہ۔ کہا جاتا ہے "رَكِبْتُ دَبَّ فُلَانٍ" او دَبِيَّةٌ فُلَانٍ" اس نے فلان کا طریقہ اختیار کر لیا۔

الدَّبِيَّةُ: تیل وغیرہ کا برتن۔ بول کی شکل کا شیشہ کا برتن۔ بہت رتلی جگہ۔ جِ دَبَابٌ۔ مَنه كَارُوا۔ جِ دَبٌّ: کہا جاتا ہے "لَيْسَ فِي الدَّارِ دَبِيَّةٌ" اَوْ دَبِيَّةٌ" یعنی گھر میں کوئی نہیں۔ اس کا استعمال صرف نئی کی صورت میں ہوتا ہے۔

الدَّبِبُ: زواں۔ بال کی کثرت۔ گائے کا نو مولود۔ ہچڑا۔

الدَّبَابُ: تیز ریگنے والا۔ ناتوانی سے آہستہ چلنے والا۔ مَوْثٌ دَبَابَةٌ۔

الدَّبَابَةُ: ایک آلہ کا نام جس کو محاصرہ میں

الدَّأَصُ۔ مَوْتًا۔

دَأَخَ (ف) دَأَخًا۔ الإِنَاءُ: بھرنا۔ الرَّجُلُ: باوجود شکم سیری کے کھانے پر مجبور کرنا۔ غَضَبٌ وَ لَانًا: گلا گھوٹنا۔ الْفَرْحَةُ: دبا کر چھوڑنا۔

دَأَخَ (ف) دَأَخًا۔ مَوْتًا هُوَ۔

دَأَى (ف) دَأَى وَ دَأَى وَ دَأَى: سُت چلنا۔ لَهْدًا وَ دَأَى وَ دَأَى: فریب دینا۔

دَاءٌ لَهُ مُدَاءٌ لَهُ: دھوکا کرنا۔ تیز چلنے میں مقابلہ کرنا۔

دَوَّالَةٌ لَوْ مَرَى كَلِمَةً: علم جنس ہے۔

الدَّالُّ وَ الذَّنْبِلُ وَ الذُّؤْلُ وَ الدَّالَانُ۔ گیدڑ۔ بھیریا۔ نیولے کی مانند ایک جانور۔

الدُّؤْلُولُ۔ مصیبت۔ جِ دَائِلٌ۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَ الْقَوْمُ فِي دُؤْلُولٍ" لوگ مصیبت میں پڑ گئے۔

دَأَمَ (ف) دَأَمًا۔ الحَائِظُ: سارا رتا۔ الرَّجُلُ: کوہ کرسوار ہونا۔

تَدَأَمَةُ: المَاءُ: زحانپ لینا۔ تَدَأَمَتِ السَّمَاءُ: لگا تار برنا۔

تَدَاءَ مَثٌ عَلَيْهِ الْهُؤْمُومُ وَ الْأُمُوزُ: جھوم کرنا۔

الدَّأَمُ۔ ہر وہ چیز جو ہمیں چھپالے۔

الدَّأَمَاءُ۔ سمندر۔

دَأَى يَدَأُ وَيَدَأُ دَأَوًا وَ دَأَانًا: الذَّنْبُ لِلصَّبِيحِ: دھوکے سے ڈکار کرنا۔

الدَّأَى: سینے کی پالیوں کے ٹٹنے کی جگہ۔ جِ دَأَايَاتُ۔

(ابن دَابِيَّة) كَوَا۔

الدَّأِيَّةُ: والی جنالی۔ جِ دَأَايَاتُ۔

دَأَبٌ (ف) دَأَبًا وَ دَأَبًا وَ دُؤْبًا۔ فِي الْعَمَلِ: لگاتار جانفشانی سے کرنا۔ صفت (دَائِبٌ وَ دُؤْبٌ)۔ (دَأَبًا وَ دَأَبًا) الدَابِيَّةُ: تیز ہانگنا۔ دُؤْبًا: دھوکا کرنا۔

أَدَابُهُ إِذَا بَا: تھکانا۔ لگاتار کوشش کرنے کا حاجت مند ہونا۔

الدَّأَبُ وَ الدَّأَبُ: عادت۔ حالت۔

الدَّأَبَانُ: رات دن۔

الدَّأَبُ: تھکانا۔

دَأَتْ (ف) دَأَاتًا: بوجھل ہونا۔

الثَّوْبُ: میلا ہونا۔ الثَّوْبُ: میلا کرنا۔ الطَّعَامُ: کھانا۔

الدَّنْثُ: سخت کینہ۔

الدَّأَاءُ: باندی۔ لَوْ مَرَى: جِ دَأَتْ ابْنُ دَأَاءٍ: بیوقوف۔

دَأَا دَأَاءَةً وَ دِنْدَاءَةً: تیز دوڑنا۔ فِي أَنْرِهِ: کھوج لگانے کیلئے پیچھے جانا۔

الشَّقِيُّ: ڈھانچا۔ حرکت دینا۔ تھمرنا۔ القَوْمُ: باہم جھوم کرنا۔

تَدَأَا: بٹنا۔ تھمرنا۔ فِي مَشْيِهِ: لڑکھڑانا۔

عَنْ فَرَسِهِ: گھڑا۔

الدَّأَا وَ الدَّأَاءُ وَ الدَّأَاةُ وَ الدَّأَاءَةُ: فِي اللَّيَالِي: سخت تاریک رات۔ جِ الدَّأَائِي: الدَّؤُودُ: سینے کا آخر۔ بقول بعض 'جیسوس' اٹھائیسویں، اٹھائیسویں رات۔ جِ دَأَائِي: الدَّارُ صِينِي: دار چین۔

دَائِيصٌ (س) دَأَصًا: اترنا۔ الجَبِيصُ: مونا و پرگوشٹ ہونا۔

استعمال کیا کرتے تھے اور اس کے خوف میں داخل ہو کر قلعہ کی دیواری جڑ میں پہنچ جاتے تھے اور خوف میں رہتے ہوئے لقب لگاتے تھے۔ ج۔ دَبَابَات۔ الدَّبَابَةُ: ٹیک یعنی مسلح جنگی موٹر۔ الدَّبِيبُ: سہ۔ ریگنے والا۔ چھوٹا کبوتر جو پانی میں کھیلتا رہتا ہے۔

الدَّبِيبُ وَالذَّبِيبُ: موزی۔ چغل خور۔ گمراہ۔ ہرمونی تازی چیز۔ الدَّبَابَةُ: الدَّبَابُ کا مؤنث۔ ہر ریگنے والا جانور۔ سواری کا جانور۔ بوجھ لانے کا جانور۔ مذکر و مؤنث دونوں کے لئے مستعمل ہے اور اس میں تاودت کی ہے۔ ج۔ دَبَابٌ: تصغیر (الدَّبَابَةُ) الدَّبَابَةُ: کدو۔ واحد (دَبَابَةٌ) الدَّبَابُ: کدو۔ بالوں کی کثرت۔ الأَدْبُ: بہت بالوں والا۔ بہت روئیں والا۔ مؤنث دَبَابَةٌ: بہت بالوں والا اُونٹ۔

المَدْبُ: جاری ہونے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "مَدْبُ السَّبِيلِ" سیلاب بننے کی جگہ۔ و "مَدْبُ التَّمَلِّ" چبوتیوں کے چلنے کی قطار۔ أَرْضٌ مَدْبَةٌ: بہت ریگنوں والی زمین۔ دَبَابَةٌ (ف) دَبَابٌ: لامنی سے مارنا

الشَّيْءُ: ساکن ہونا۔ دَبَابَةٌ وَدَبَابَةٌ عَلَيْنَا: چھپانا۔ پوشیدہ کرنا۔ دَبَجَهُ (ن) دَبَجًا وَدَبَجَةً: نقش کرنا، مزین کرنا، خوبصورت بنانا۔ الظِّلْسَانُ: ریشمی کپڑا لگا کر مزین کرنا۔ الدَّبِيحُ: ریشمی کپڑا۔ ج۔ دَبَابِحٌ وَدَبَابِيحٌ: واحد (دَبِيحَةٌ) و (الدَّبِيحَاتُ) چروہ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَبْضُونُ دَبِيحَاتَهُ" فلاں اپنی آبرو کی حفاظت کرتا ہے۔ و "فَلَانٌ يَبْذُلُ دَبِيحَاتَهُ" فلاں اپنی آبروریزی کرتا ہے۔ "دَبِيحَاتُهُ" الكتاب: کتاب کا پانچواں۔ الدَّبِيحَاتَانِ: دونوں رخسارے۔ دَبِيحَاتُهُ الْوَجْهُ: چروہ کی رونق۔ الدَّبِيحُ: جوان اونٹنی۔

الدَّبَاجُ: ریشمی کپڑے کا بیچنے والا۔ المَدْبِيحُ: ریشمی کپڑے سے مزین کیا ہوا۔ بد شکل۔ ایک بد شکل آبی پرندہ۔ الو۔ دَبَجٌ: سر جھکا کر ڈیٹھ جھانکنا۔ دَبَجٌ: سر جھکا کر ڈیٹھ جھانکنا۔ دَبَجٌ: سر جھکا کر ڈیٹھ جھانکنا۔

فِي بَيْتِهِ: گھر میں سے رہنا۔ دَبَجٌ: بمعنى دَبَجٌ۔

دَبَبْتُ دَبَابَةً: الحَافِظُ عَلَيَّ الْأَرْضِ: ٹاپ سے آواز نکلتا۔

الدَّبَابُ: دَبَابٌ وَدَبَابٌ: ج۔ دَبَابِيحٌ۔

دَبَبْتُ (ن) دَبَبْتُ وَدَبَبْتُ: النَّهَارُ أَوْ الصَّبِيحُ: گزر جانا۔ ختم ہونا۔ الرَّجُلُ: مرنا۔ پست پھیرنا۔ بوزھا ہونا۔ الرِّيحُ: پھجوائی رخ پر ہو جانا۔ (دَبَبْتُ) الدَّبَابُ: النَّهَارُ: نشانہ سے بہت جانا۔ الكتاب: نقل کرنا۔

بِالشَّيْءِ: لے جانا۔ ہ۔ بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

دَبَبْتُ: پھجوائی ہوا لگنا۔

دَبَبْتُ (س) دَبَبْتُ: كِبَاوَهُ وَغَيْرَهُ: زخمی پیٹھ والا ہونا۔ صفت (دَبَبْتُ)

دَبَبْتُ: الأَمْرُ: غور کرنا۔ انجام سوچنا۔ انتظام کرنا۔ الحَدِيثُ: دوسرے سے روایت کرنا۔

عَلَى هَلَاكِهِ: کسی کی ہلاکت کیلئے حیلہ اور کوشش کرنا۔

دَبَبْتُ مَدَابِرَهُ وَدَبَابًا: مرنا۔ ہ۔ دَعَشِي: کرنا۔

أَدَبْتُ: البَعِيضُ: زخمی پیٹھ والا ہونا۔ أَدَبْتُهُ: القَتَبُ: پیٹھ زخمی کرنا۔ فُلَانٌ: مرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

بِيحِيهِ آتَا: الحَدِيثُ عَنِ فُلَانٍ: کسی کے مرنے کے بعد اس کی بات بیان کرنا۔

غفلت کی اور متوجہ نہیں ہوا۔

الدَّبِيرُ: بمعنى الدَّبِيرِ: بہت مال۔ واحد ہے مفرد اور جمع دونوں کیلئے ہے۔ کہا جاتا ہے "مَالٌ دَبِيرٌ" و امثال "دَبِيرٌ"

الدَّبِيرُ وَالذَّبِيرُ: مِنْ كَلِمَةِ شَيْءٍ: پچھلا حصہ۔ ج۔

أَذْبَارُ: ذَبْرُ الصَّلَاةِ: نماز کا آخر۔ کہا جاتا ہے

"جَاءَ ذَبْرًا لِشَهْرٍ وَفِي ذَبْرِهِ وَعَلَى ذَبْرِهِ وَأَذْبَارَ الشَّهْرِ وَفِي أَذْبَارِهِ": وہ مہینہ کے آخر میں آیا۔ ذَبْرُ النَّبِيِّ: گھر کا گوشہ۔

الدَّبِيرَةُ: انجام۔ لڑائی میں شکست۔ قابل کاشت زمین۔ ج۔ دَبَارٌ۔

الدَّبِيرُ: زخمی پیٹھ والا جانور۔

الدَّبِيرَةُ: جت پست۔ کہا جاتا ہے "لَيْتَن لِهَذَا الأَمْرِ قَبْلَةُ وَلَا دَبِيرَةٌ": یعنی اس معاملہ میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہے۔

الدَّبِيرَةُ: جانور کی پیٹھ کا زخم جو کجاوہ وغیرہ سے ہو جائے۔ ج۔ ذَبْرٌ وَذَبَارٌ۔

الدَّبَارُ: ہلاکت۔

الدَّبَارُ: کھیتوں کی نالیاں۔ لڑائیاں۔ کھیتیں۔

الدَّبِيرُ: پھجوائی ہوا۔

الدَّبِيرُ: مِنَ الرَّجُلِ: پچھے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَا يَعْرِفُ قَبْلَهُ مِنْ دَبِيرِهِ": وہ اپنے آگے پچھے کو نہیں پہچانتا۔ زیادتی، جمالت کے لئے بطور کنایہ کے بولتے ہیں۔ گناہ۔ کہا جاتا ہے "عَوْفٌ قَبْلَهُ مِنْ دَبِيرِهِ": اس نے طاعت اور مصیبت میں تمیز کر لی۔

الدَّبِيرُ: شكل وصورة۔ ج۔ دَبَابِيرٌ۔

الدَّبِيرَةُ: چھروں کو ہموار کرنے کا اوزار۔ فصیح لفظ "الصَّافِرُ" ہے۔

الدَّبِيرَانُ: چاند کی ایک منزل کا نام جو بحر ثور کے پانچ ستاروں پر مشتمل ہے۔

الدَّبِيرُ: فَا: تالچ۔ ہر چیز کا آخری اصل۔ گزرا ہوا۔

جیسے "أَمْسُ الدَّبِيرِ": گزشتہ کل۔ اور یہ تاکید کے لئے ہے جیسے "زَأَيْتُهُ بَعِينِي": بولتے ہیں۔ نشانہ پر نہ لگے والا تیر۔ جوئے کے تیروں میں سے ناکامیاب تیر۔ کہا جاتا ہے "مَابِقِي فِي الكِنَانَةِ غَيْرُ الدَّبَارِ": ترکش میں سوائے دار کے کچھ باقی نہ رہا۔ اور کہتے ہیں "قَطَعَ اللُّدَابِيرُ هُمْ": اللہ ان

الذنبی۔ چھوٹی ٹڈی۔ چوٹی۔ واحد (ذباة)
 دث (ن) دثاً۔ الصبأ ذبہ: کسی چیز سے شکار
 کرنا۔ ذثہ۔ تکلیف دہ مارنا۔ ہٹا دیا۔ چمراؤ کرنا۔
 ذثت (ض) ذثاً۔ الصماء: بھلی بارش ہونا۔
 الذث والذثت والذثات۔ بھلی بارش۔
 الذثۃ۔ معمولی زکام۔
 الذثوث۔ ہٹ جانے والا۔
 الذثات۔ گوبچن سے پرندوں کا شکار کرنے
 والے۔ واحد (ذاث)
 ذثو (ن) ذثوذا۔ الرسم: مٹنے لگنا۔ صفت
 (ذاثو) ذو ذو الثو۔ السیف: زنگ آلود
 ہونا۔ السحج: بچے لگنا۔
 الثوب: میلا ہونا۔ الرجل: بڑھاپے
 کے آثار نمایاں ہونا۔
 ذثوۃ ہلاک کرنا۔ چادر سے ڈھانپنا۔
 الطائر: گھوسلہ بنانا۔
 تذثو واذثو۔ بالثوب: اوڑھنا۔ صفت
 (مذثو) و(مذثو) اس کی اصل مذثو ہے تاکہ
 دل میں ادغام کر دیا گیا ہے۔ و تذثو فرسہ: گود کر
 سوار ہونا۔
 اذثو۔ ثنا۔ ناپید ہونا۔
 اذثو۔ بہت مال جمع کرنا۔
 تذثو۔ التوسم: مٹنے لگنا۔
 الذاثو۔ فہلاک ہونے والا۔
 الذثو۔ بہت۔ مثال ذثو۔ بہت مال کہا جاتا ہے
 "مثال ذثو و مثال ذثو و أمثال ذثو" اور کبھی
 ذثو جمع ہوتے ہیں۔ رجل ذثو: غافل۔ مردھو
 (ذثو) مثال ذثو۔ وہ مال کا ہتر تنظیم ہے۔
 الذثو۔ میل پگیل۔ اور کہا جاتا ہے غمشکو
 ذثو۔ بہت فوج۔
 الذثار۔ بدن سے لے ہوئے کپڑے کے اوپر کا
 گرم کپڑا۔ سونے والا جس کپڑے کو اوڑھ کر
 لیٹے۔
 الذثور والذثاری۔ کابل۔ سف۔ گمام۔ بہت
 سونے والا۔
 الأذثر۔ غافل۔
 ذثظ (ن) ذثظا۔ القرحة: تشو کا کہہ دینا۔
 ذثع (ف) ذثعا۔ سخت روندنا۔

الذبغ والذبغۃ والذباغ والذباغۃ۔ چڑا پکانے
 کا سال۔
 جلد (ذبغ) پکائی ہوئی کھال۔
 الذباجۃ۔ چمڑے کی پکائی کا پیشہ۔
 الذبایغ۔ چمڑے کو پکانے والا۔
 المذبغۃ والمذبغۃ۔ چڑا پکانے کی جگہ۔ چمڑے
 جو پکانے کے لئے سال میں ڈالے گئے ہوں۔
 ذبغ (ض) ذبغا۔ الصائد الطیر: لاسہ سے
 شکار کرنا۔
 ذبغ (س) ذبغا۔ بہ: چمڑنا۔
 ذبغۃ لاسہ سے شکار کرنا۔
 اذبغہ۔ چمڑنا۔
 تذبغ۔ الطیر: لاسہ سے شکار ہو جانا۔
 الشی: لیس دار ہونا۔
 الذبغ والذبوق والذبوقاء۔ پرندوں کے
 شکار کرنے کا لاسہ۔
 ذبل (ن) ذبلاً وذبولاً۔ الارض: کھارڈانا
 الشی: درست کرنا۔
 ذبلہ (ن) ذبلاً۔ بالقصا: لگا تار لاشی سے
 مارنا۔ کہا جاتا ہے "ذبلت الذبول" اس پر مصائب
 پڑے یا اس کی ماں نے اسے گم کر دیا۔
 (ذبل وذبیل اللقمۃ: بڑا لقمہ لینا۔
 الشی: انگلیوں سے جمع کرنا۔
 ذبل (س) ذبلاً۔ موٹا ہونا۔
 الذبل۔ ہم۔ پگی۔ مصیبت۔ اولاد کی موت۔ تالا۔
 ذبول۔
 الذبلۃ۔ بڑا لقمہ۔ ہر چیز کا ٹکڑا۔ کلبازی کا
 سوراخ۔ ذبل وذبیل۔
 الذبلۃ والذبلۃ۔ مصیبت۔ پیٹ کی ایک
 بیماری۔ پیٹ کا پھوڑا۔
 الذبال۔ کھاد۔
 الذبول۔ عورت جس کا بچہ مر گیا ہو۔ ہلاکت و
 مصیبت۔
 الذبول۔ زسور۔ چھوٹے قد کا گدھا۔
 ذبیت۔ الأرض: چھوٹی ٹڈیوں کا کھیتی کو کھا
 جانا۔ صفت (مذبیۃ و مذبوۃ)۔
 اذبت۔ الأرض: بکھرت چھوٹی ٹڈیوں والی
 ہوت۔

کی جڑ کو کٹ دے۔
 الذبایرة۔ الذباب کا مؤنث۔ کھلت۔ بدفالی۔
 نحوت۔ انسان کی ایزدی کا پھما۔ ذبایرة الطیر:
 پرندے کے پاؤں کا خراج ذواب۔
 الذبوی۔ نماز جو آخر وقت میں ادا کی جائے۔
 الذبوی۔ وقت ختم ہو جانے کے بعد آنے
 والا۔ "شؤ الزای الذبوی" یعنی وہ رائے بری
 ہے جو وقت گزر جانے کے بعد سمجھ میں آئے۔
 و"جاء ذبویاً" وہ آخر میں آیا۔
 المذابر۔ ناکامیاب تیر والا۔
 المثقابل والمذابر۔ نجیب الرفیق۔ شریف
 ماں باپ والا۔
 المذبور۔ زخمی۔ بہت مال والا۔
 ذبش۔ الشی: چھپانا۔ الشی: چھپنا
 العتب: شصا ہونا۔ العصیر
 المعلی: گاڑھا ہو جانا۔ الرجل
 العصیر: پیکر گاڑھا کر دینا۔
 اذبت۔ الأرض: کھوا لگنا۔
 اذبت۔ اذبتسا۔ الفرس: سرخ سیاہ ہونا۔
 صفت (اذبت)
 الذبس۔ ہر کال چیز۔ بہت تعداد۔ کہا جاتا ہے
 "مثال ذبش" بہت مال۔
 الذبس۔ پکایا ہوا گاڑھا شیرہ۔
 الذباس۔ شیرہ بنانے والا بیچنے والا۔
 الذبس۔ شہد۔ گجور کا شیرہ۔
 الذبسة۔ سیاہی ملی ہوئی سرفی۔
 الذبوس والذبوس۔ آہنی گرز۔ ذبایس۔
 ذبش (ن) ذبشا۔ الشی: چمکا آتارنا
 الطعام: کھانا۔
 الذبش۔ گھر کا سامان۔ رومی سامان۔ مکان
 (مذبوش) وہ جگہ جہاں کی پیداوار کو ٹڈیوں نے
 کھایا ہو۔
 ذبش (ذباش) ہر چیز کو ہمالے جانے والا
 سیلاب۔
 ذبغ (ف) ذبغا وذبایغ وذباعۃ۔
 الجلد: کھال کو پکانا۔
 اذبغ۔ کھال کا نرم ہونا اور اس سے رطوبت
 اور بہد بوزا نکل ہونا۔

الدَّجْنُ نِزْمٌ زَمِينٌ -
 دَجْنٌ (ن) دَجْنَانٌ دَجْنَانًا - الْفَوْمُ : آهَسْتِ
 جَلْنَا _____ الْبَيْتِ : حَمَسَتْ نِيكًا - (_____)
 دَجْنًا السَّيْرُ : لُكَاثًا -
 دَجَجَةٌ : تَهْيِئَارٌ بِنْدٌ كَرْنَا - دَجَجَتِ السَّمَاءُ :
 اِرْبَاكُودٌ هُوْنَا -
 تَدَجَجَ : تَهْيِئَارٌ بِنْدٌ هُوْنَا - اَوْرُ كَمَا جَا هِ
 "تَدَجَجَ فِي هَيْكَلِيَّةٍ" وَهِيَ پُورِي طَرَحُ تَهْيِئَارِ بِنْدِ
 هُوَ گِیَا -
 الدَّجَجُ : (مَثَلُ لَفْظِ الْمَخَاجِجِ كَالْمَفْرُودِ مَجْمُوعِ
 هِ) مُخَادِمٌ اَو رُوْحٌ اُتْمَانُ لِهْ دَالُوں كِلِيئَةً اِسْتِمَالًا كَمَا
 جَا هِ - اِس لِنَ كِه وَهِيَ آهَسْتِ چَلتے هِيں - ج
 دَا جُوْنٌ وَ دَا جَةٌ -
 الدَّجَّةُ : سَخْتٌ تَارِكِي -
 الدَّجَاجُ : (بَسْطَلِيثُ الدَّالِ وَالْفَتْحُ اَعْلَى)
 مَرْتِي - مَرُغٌ (پَاثُو وَ جَنْكَلِي) الدَّجَاجُ الْهِنْدِيُّ :
 اِيكٌ بَرَا پَرْنَدِه هِ جِس كُو مَلِكُ شَامِ مِيں دَوَاجِ
 جَشِ اَو مَرْمَرِ مِيں دَوَاجِ رُوِي كَتتے هِيں -
 وَ اَحَدٌ (دَجَاجَةٌ) جِ دَجَجٌ - الدَّجَاجَةُ : دَوَاكِي
 كِي اِنْتِي - حِيَالٌ -
 الدَّجَجُ : سَخْتٌ تَارِكِي - سِيَاهُ پَرَاژ -
 الدَّجُوجِي وَ الدَّجُوجُ : تَارِكِي رَات - ج
 دَيَا جِي جِي -
 الدَّجَاجِي : مَرْمَرِيُوں كَا بِيچِي وَ اَلَا - اَسْوَدُ
 دَجَاجِي : سَخْتٌ سِيَاهُ -
 الْمَدَجَجُ وَ الْمَدَجَجُ : پُورِي طَرَحِ هِ
 تَهْيِئَارِ بِنْدِ "دَجَجَتِ السَّمَاءُ" سَهْ مَخُوْدِه
 اَوْرُ تَشْبِيهًا سَهِي پَر بِي اِطْلَاقًا كَمَا جَا هِ -
 الدَّجَجَانُ : مَاں كِه پِيچِي پِيچِي بَهْرَنَ وَ اَلَا شِيْرُ
 خَوَارِجِي - مَوْنَتٌ دَجَجَانَةٌ -
 الدَّجُوبُ : غَلَّةٌ كِي پُورِي جِس كُو عَوْرَتِيں سَنَرُ
 مِيں سَا تَهْرُ رَكھتِي هِيں -

دَجَجٌ وَ تَدَجَجٌ - اللَّيْلُ : تَارِكِي هُوْنَا -
 دَجُورٌ (س) دَجُورًا - حِيْرَانٌ هُوْنَا - مَدُوشٌ هُوْنَا -
 صَفْتٌ (دَجُورٌ وَ دَجُورَانٌ) جِ دَجُورِي وَ دَجَارِي -
 دَا جُوْرٌ مَدَا جُوْرَةٌ - بَهَا كُنَا -
 الدَّجُورَانُ : تَهْوِي - وَهِيَ كَلْزِي جُو تَمِلُ چُزْهَانُ كِه
 لِنَ لَكَا نِي جَا تے - وَ اَحَدٌ (دَجُورَانَةٌ)
 الدَّجُورُ : اِيكٌ وَهِي چِيْزٌ جِس مِيں سَوْرَاحٌ دَا رُو لُوَا لَكَا
 هُوَا هُوَا هِ اَوْرُ اِس مِيں سَهْ بُوْنُ كِه وَ قَتُّ غَلَّةِ
 گِرَا تے هِيں -
 الدَّجُورُ : بِسْطَلِيثُ الدَّالِ وَ الْكَسْرُ فَضْحٌ وَ الدَّجُورُ -
 لُوِيَا -
 الدَّجُورُ : تَارِكِي - خَا كَشْتَرِي رَنگُ كِي سِيَا نِي
 مَا كِلُ مَثِي - جِ دَيَا جِي وَ دَيَا جِي -
 دَجَلٌ (ن) دَجَلًا - جَمُوتٌ بُوْنَا (_____) وَ
 دَجَلٌ الْبَيْعِيُّ : اَوْنَتٌ پَر قَطْرَانِ مَلْنَا _____
 بِالْمَمَكَانِ : تَهْمَرْنَا - مَقِيْمٌ هُوْنَا - (دَجَلٌ) الشَّمْسُ :
 دُحَا نِيَا _____ الْاِنَاءُ : سُوْنُ كِه پَا نِي سَهْ مَطْعِ
 كَرْنَا _____ الْاَذْوُصُ : گُوْرُوْدَانَا -
 الدَّجَالُ : گُوْرُ -
 الدَّجَالُ : بَرَا جَمُوْنَا - نَامٌ اِيكٌ مَهْمُضٌ كَا جُو آخِرُ
 زَمَانِه مِيں ظَا هِر هُوَا گِ جِ دَجَالُوْنٌ وَ دَجَا جَلَةٌ -
 الدَّجَالُ : سُوْنُ كَا پَا نِي -
 الدَّجَالَةُ : سَا تَهْيِيُوں كَا بَرَا گُرُوْه جُو زَمِيْنِ پَر چَهَا
 جَا تے -
 الدَّجِيْلُ وَ الدَّجَالَةُ : قَطْرَانٌ (دِيكِيئَةً لَفْظُ
 الْقَطْرَانِ)
 دَجَلَةٌ : عِرَاقٌ كَا شَمُورُ دَرِيَا - لَفْظُ كِه لَمَاطِ سَهْ
 مَوْنَتِ هِ اَوْرُ نَمَرُ كِي تَاوِيْلِ سَهْ نَمَرُ اَوْرُ كِي اِس
 پَر اَلِ لَامُ بِيحِي دَا غُلُ هُوَا هِ - كَمَا جَا هِ
 "الدَّجَلَةُ"
 دَجَمٌ (ن) دَجَمًا - اللَّيْلُ : تَارِكِي هُوْنَا -
 دَجِمٌ (س) اَو دَجِمٌ دَجِمًا - مَعْمَلِيْنٌ هُوْنَا -
 الدَّجِمُ : مِيْنُ الشَّمْسِ : حَمَسٌ -
 الدَّجِمُ : عَشَقُ كِه بِي تَابِيَاں - كَمَا جَا هِ
 "اَخَذْتُهُ دَجِمُ الْعَشَقِ" اِس كُو عَشَقُ كِي بِي
 تَابِيُوں نَ گِيْرُ لِيَا -
 الدَّجِمَةُ : تَارِكِي جِ دَجِمٌ -
 الدَّجْمَةُ : كَلْمٌ - كَمَا جَا هِ "مَا سَمِعْتُ لَهْ"

اندرونی سطح _____ الانسان: نیت مذہب۔
راز: ج ذواجل۔

الدخال: گھوڑے کا بال۔ جوڑوں کا آپس میں
داخل ہونا۔

الدخیل: غیر قوم میں داخل ہونے والا۔ ج
ذخلاء: محلی کلمہ جو عربی زبان میں داخل ہو گیا

ہو۔ کہا جاتا ہے ”ذاع دخیل“ اندرونی بیماری
”هو دخیل فلان“ وہ فلاں کے ہر کام میں

رازدار ہے۔ و دخیل الرجل: نیت مذہب۔
راز۔

الدخيلة: من الشئ: چیز کا اندرونی حصہ۔
دخيلة المرأة: نیت۔ اندرونی خیال۔

الدخل: داخل ہونا۔ داخل ہونے کی جگہ۔
کہا جاتا ہے ”هو حسن المدخل فی أمره“

وہ اپنے امور کا بہترین منتظم ہے۔
الدخل: نفع۔ لیم۔ کین۔ غیر قوم میں داخل
ہونے والا۔

المدخول: وہ شخص جس کی عقل میں فتور
ہو۔ لاغر۔ عیب دار۔ دخلة مدخولة: درخت

خرما جس کے اندر کا حصہ کھوکھلا ہو گیا ہو۔ رجل
(مدخول) ہونا گھٹے ہوئے بدن کا مرد۔

الدخل والدخل: راز دار۔ دخل
الرجل: نیت۔ راز۔ امور میں مداخلت کرنے
والا۔

الدخيل: چربی جو گوشت میں پوست ہو۔
دخمة (ف) دخما: سختی سے ہٹانا۔ دخم

الجارية: جماع کرنا۔
دخمة دخمة: دھوکا دینا۔

دخن (س) دخنا: الطعام واللحم
وغیر ہما: دھوئیں کی بو دینا۔ صفت (دخن)

التأز: دھواں اٹھانا _____ خلقه:
بد اخلاق ہونا _____ ودخن (ک) دخنة

دھوئیں کے رنگ کا ہونا۔ صفت (ادخن) مؤنث
دخنا۔

دخنت (ن ض) دخنا ودخونا ودخنت
وادخنت وادخنت: التأز: دھواں اٹھانا۔

ادخن الزرع: دانوں کا کھت ہونا۔
دخن الشئ: دھوئی دینا۔

دخصت (ف) دخوصا: الجارية: چربی والی
ہونا۔ صفت (دخوص)

دخصت (ف) دخصا: الصبي او الشيخ:
پانچا نہ کرنا۔

دخل (ن) دخولا ومدخلا: الدار: اندر آنا۔
داخل ہونا _____ پہ: اندر لانا۔ داخل کرنا

_____ عليه: زیارت کرنا۔ ملاقات کرنا۔
دخيل: فی عقله او جسده و (دخيل (س)

دخلام عقل یا جسم میں خرابی لاحق ہونا۔ صفت
(مدخول) عليه _____ امر فلان: بالقی طور پر

فائدہ ہونا۔ (دخلة) داخل کرنا۔
داخلة مداخلة: العجب: خود پسندی آنا۔

داخلة فی أمره: دراندازی کرنا۔ دخل دینا۔
ادخلة ادخالاً ومدخلاً: داخل کرنا۔

تدخّل: داخل ہونا _____ الشئ: آہستہ
آہستہ داخل ہونا۔

تداخلة: گھل مل جانا _____ الشئ: ایک
دوسرے میں داخل ہونا۔ تداخلت الأمور:

مشتبہ و متبہ ہونا۔
ادخل و اندخل: داخل ہونا۔

الدخل: مہ۔ آمدنی۔ مرض۔ عیب۔ قسمت۔
دخل الرجل: نیت۔ مذہب۔ راز۔

الدخل: عقلی یا جسمانی خرابی۔ مکر۔ خاندانی
عیب۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کسی کی جانب

منسوب کرتے ہوں اور فی الحقیقت ان میں سے نہ
ہوں۔

دخلة الرجل ودخلته ودخلته: نیت۔
مذہب۔ راز۔ کہا جاتا ہے ”هو عقیف الدخلة“

وہ پاک نیت ہے۔ الدخلة: راز۔ اسی سے ہے
”فوشة دخلة امری“ میں نے اُس کے سامنے

اپنا راز ظاہر کر دیا۔ الدخلة: مختلف رنگوں کو ملا کر
ایک رنگ بنانا۔

الدخل: بڑے ذیل اور گھٹے بدن والا۔ درخت
کے بڑ کی گھاس۔ ایک چھوٹا پرندہ۔ ج دخاخیل

(دخل الرجل ودخيله) نیت۔ راز۔
الدخيل: قا۔ اندر آنے والا۔ اندرونی۔

الداخلة: مؤنث۔ داخلة الارض: زمین کا
نشیبی حصہ _____ الازار: ازار (بند) کی

اور نیچے کو لگانا۔ اور کہا جاتا ہے ”دخا المظنن
الخصی عن وجهه الارض“ بارش کنکریوں کو
بہالے گئی۔

ادخوی ادخواء: پھیلنا۔
دخی ندخی دخیا: الشئ: پھیلنا۔

تدخی تدخیا: الشئ: پھیلنا۔
اندخی: البطل: کشادہ ہونا۔

الدخية: بندریا۔
الدخية: فوج کا سردار۔ ج دخاء۔

الادخوی والادخوی والادخوة والادخية:
ریت میں شتر مرغ کے انڈے دینے کی جگہ۔

الدخو الدخ: دھواں۔
دخدخ الرجل: چھوٹے چھوٹے قدم رکھ

کر تیز چلنا _____ عنه الشئ: روکنا۔
تدخدخ الرجل: دیکھ کر ہونا۔

دخدور الفرج: سونے کا طبع کرنا۔
دخز (ف) ودخز (س) دخزا ودخوزا:

ذیل ہونا۔ حقیر ہونا۔
ادخوة: ذلیل کرنا۔

الدخوص: دانا۔ عقل مند ماہر۔
الدخوینص: کرتے کی کٹی۔

دخس (ف) دخسا: الشئ فی الرماد:
چھپا دینا۔ دخس فیہ: داخل ہونا۔

دخس (س) دخسا: الخافق: درم والا ہونا۔
صفت (دخس)

الدخس: جوان ریچھ۔ ہونا گھٹے بدن والا۔
الدخس: جانور کے کھر کا درم۔

الدخس: ایک بحری جانور کا نام ہے جس کو
سوس کہتے ہیں۔

عدد (دخاس) بہت۔ دغ دخاش: قریب
قریب طاقوں والی زرہ۔

الدخيس: آپس میں الجھی ہوئی گھاس۔ بہت
تعداد۔ کہا جاتا ہے ”هو دخيس اللحم“ وہ

پر گوشت ہے۔
کلا (دخس) بہت اور الجھی ہوئی گھاس۔

الدواخيس والدخس: دیگ دان کے
پائے۔

دخس (س) دخسا: پر گوشت ہونا۔

الْمِدْرَارُ - بہت بے والا - کہا جاتا ہے "سَمَاءٌ
مِدْرَارٌ" موسلا دھار برسنے والا بادل - "عَقِينُ
مِدْرَارٌ" بہت آنسو بہانے والی آنکھ -
ذَرَّأَةٌ (ف) ذَرَّأٌ وَذَرَّاءٌ - زور سے دھکا دینا
الشئ: پھینکانا _____ الْمَسْبُوتُ عَلَيْهِ:
تیزی کے ساتھ آنا - کہا جاتا ہے "ذَرَّأَ الرَّجُلُ
عَلَيْتِنَا" وہ ہمارے اوپر اچانک آگیا - (_____
ذُرُوءًا) الْبَدْرُ: چمکانا _____ النَّازُ: روشن
ہونا -
ذَارَةٌ مِدْرَارَةٌ - ایک دوسرے کو دفع کرنا -
نری برتنا - مریالی کرنا - فریب دینا -
تَدْرَأُ تَدْرَاءً - الصَّائِدُ: فریب دینے کے لئے
پھینکانا وَتَدْرَأُ عَلَيْهِ: روز راستی کرنا -
إِدْرَأُ: الصَّيْدُ وَالصَّيْدُ: گھات لگانے کی جگہ
بنانا -
تَدَارُ تَدَارَةً - الْقَوْمُ: جھگڑے میں بات کو
ایک دوسرے پر ڈالنا -
إِنْدَرَأُ: الْمَسْبُوتُ: تیزی کے ساتھ آنا -
الظَّرِيفِيُّ: پھیل جانا _____ فَلَانٌ عَلَيْهِ:
اچانک آجانا -
الذَّزْءُ - مہ - نیزے کی چمڑ وغیرہ کی کچی -
مخالفت - کہا جاتا ہے "فَقَوْمٌ ذَزْءٌ" میں نے
اس کی کچی کو درست کر دیا - و "جَاءَ الْمَسْبُوتُ
ذَزْءًا" یعنی سیلاب تیزی سے اچانک طور پر آگیا -
الذَّزْءِيُّ وَالذَّزْءِيُّ: روشن ستارہ -
الذَّرَائِي: مجہول الاسم بڑے ستارے -
الذَّرِيفَةُ: نشانہ ٹھیک کرنے کا گول دائرہ - فکار
کو دھوکہ دینے کیلئے گھات لگانے کی جگہ -
الشَّدْرَاءُ وَالشَّدْرَاءُ: ایسا شخص جو صاحب قوت
و شوکت ہو اور دشمن کو ہٹانے والا ہو -
الْمِدْرَارُ: ہٹانے کا زریعہ -
ذَرَبٌ (س) ذَرَبًا وَذَرَبَةً - ماہر کار نگر ہونا
_____ بِالشئ: عادی ہونا - شوقین ہونا -
صفت (ذَرَبٌ وَذَرِبٌ) مَوْتٌ ذَرَبَةٌ وَذَرِيبَةٌ
ذَرَبَةٌ بِالشئ وَفِيهِ عَلَيْهِ: عاری بنانا -
تَدْرَبٌ: عادی بننا - ذَرَبُ الْجُنْدِيِّ: ٹھکست
کے وقت مستقل رہنا -

السَّوَّاجُ: روشن ہونا
السَّوْفِيُّ: بازار کا چھل پڑنا -
العُرُوفِيُّ: خون سے بھرنا -
ذَرَّ (س) ذَرَّاً وَجَهَةً: بیماری کے بعد کھڑ
آنا -
ذَرَّ (س) ذَرَّاً: الْفَرَسُ: تیز دوڑنا -
أَذَرَ: الْمَعْرُوفُ: مضمون بنا _____ الشئ:
حرکت دینا _____ عَلَيْهِ الضَّرْبُ: لگا تار مارنا -
الرَّيْحُ السَّخَابُ: تھمڑے مار کر برسنے
کے قابل بنا دینا - کہا جاتا ہے "أَذَرَ اللَّهُ لَكَ
أَخْلَافَ الرِّزْقِ" اللہ تعالیٰ تمہارے لئے رزق
زیادہ کریں _____ النَّاقَةُ: بہت دودھ والی ہونا -
إِسْتَدْرَأَ: اللَّبَنُ: زیادہ - اِسْتَدْرَأَ: ہمانا
_____ الرَّيْحُ السَّخَابُ: تھمڑے مار کر برسنے
کے قابل بنا دینا -
الذَّرُ - مہ - دودھ - دودھ کی زیادتی - خون اور کما
جاتا ہے "لِلَّهِ ذَرَّةٌ" اس کی خوبی اللہ ہی کے لئے
ہے - و "لَا ذَرَّةَ ذَرَّةً" خدا کرے کہ وہ خوش حال نہ
ہو -
الذَّرُ - بڑے موتی - واحد (ذَرَّةٌ) ج
ذُرُورٌ وَذَرَاتٌ -
الذَّارُ - فا - دودھاری اونٹنی - ج ذُرُورٌ وَذُرَّرٌ
وَذَرَّارٌ -
الذَّرَّةُ - دودھ - دودھ کی زیادتی - دودھ کا بہنا -
خون - کوڑا - ج ذَرَّرَ - کہا جاتا ہے "مَرَّ عَلَيَّ دَرِيْبُهُ"
وہ اپنے ارادہ پر ڈٹا رہا کوئی چیز اس کے لئے مافح
نہیں -
ذَرَّرَ: الظَّرِيفِيُّ: راستہ کار درمیان - ذَرَّرَ الرَّيْحُ:
ہوا چلنے کی سمت - کہا جاتا ہے "هُمَا عَلَيَّ ذَرَّرَ
وَاحِدًا" ان دونوں کا قصہ ایک ہے -
الذَّرَاةُ: تکلہ -
الكَوْكَبُ (الذَّرِيْبُ): بتثلث الدال: روشن
ستارہ - فَرَسٌ ذَرِّي: تیز رفتار گھوڑا - ذَرِّي
السَّيْفِ: تلوار کی چمک -
الذَّرُورُ: بہت دودھ دینے والی اونٹنی - حَزْبٌ
ذُرُورٌ: خونریز چمک -
الذَّرِيْبُ - مہ - روشن چراغ - تیز رفتار جانور -
الذَّرِيْبَةُ: دودھ کی کثرت -

تَدَخَّنَ - دھونیں کی بو دینا -
الدَّخْنُ: کنگنی - جینا - باجرا -
الدَّخْنُ - مہ - دھواں - کینہ - فساد - عقلی فزور -
دین کی کمزوری - حسب کا عیب - کہا جاتا ہے
"لَسْتُ أَصَالِحُهُ عَلَيَّ دَخْنٌ" میں اس سے مکر
و فساد کی صورت میں صلح نہیں کروں گا -
الدَّخْنَةُ: دھندلا - خوشبو جس سے مکانوں کو
دھونیا دیتے ہیں - أَبُو دَخْنَةَ: ایک قسم کا پرنہ -
الدَّخَانُ وَالدَّخَانُ: دھواں جِ الدَّخْنَةُ
وَدَوَّاحِيْنٌ وَدَوَّاحِيْنٌ: مولدین تمباکو دسگریٹ
کو کہتے ہیں -
الدَّاخِنَةُ: روشن دان جس سے دھواں نکلے -
جِ دَوَّاحِيْنٌ -
الدَّخْتَانُ: وہ چیز جس پر دھواں چھا جائے -
مَوْتٌ دَخْتَانَةٌ -
الْمَدَّخِنُ: دھونیں کی جگہ -
الْمِدَّخِنَةُ: عود سوز - انجیلیٹھی - جِ مَدَّاحِيْنٌ -
الْمَدَّخِنَةُ: دھواں نکلنے کی چٹنی -
الدَّخِيُّ: تاریکی -
لَيْلَةٌ (دَخِيْنَاءُ) تاریک رات -
الذَّكْهِيْلُ: اس کا نام کلمہ مثل "عَدُو" کے
واو و حمزہ ہے اور کبھی واو کو الف سے بدل کر
(الذَّذَا) کہا جاتا ہے - کہا جاتا ہے "هَذَا نَافِي دِيْدٍ
وَلَا الذَّذْهِيْبِي" نہ تو میں کھیل کود میں ہوں اور نہ
یہ میرا کام ہے - الذَّذُ: وقت - کہا جاتا ہے "مَضَى
ذَّذْمِنَ الذَّهْرِ" زمانہ کا ایک حصہ گزر گیا -
الذَّذْنُ: کھیل کود -
الذَّذَانُ: بے نفع آدمی - کند تلوار - بہت کانٹے
والی تلوار (ضد) الذَّذْنُ وَالذَّذِيْدَانُ عَادَتٌ -
الذَّذِيْبُ وَالذَّذِيْبَانُ: تمبھیان - ہراول -
راہبر - جنگلی گدھا -
الذَّذِيْبُوْنُ: پھیل کود -
ذَرَّ (س) ذَرَّاً: الدَّخْلِيْبُ: دودھ زیادہ ہونا
_____ الدُّنْيَا عَلَيَّ أَهْلِيهَا: پیداوار زیادہ ہونا -
_____ النَّاقَةُ بِالْبَيْتِهَا: بہت دودھ دینا - کہا جاتا
ہے "ذَرَّتْ حُلُوْبُئِنَّةٌ" وہ خوش حال ہو گیا -
النَّبَاتُ: گتھ جانا - (_____ ذَرَّاً وَذُرُورًا)
العَرَفِيُّ: بہنا _____ السَّمَاءُ بِالْمَطَرِ: برسا

أَذْرَبٌ بَهِلٌ بَجَانًا _____ الْقَوْمُ: در ضمن کے ملک میں داخل ہونا۔
 الذَّرْبُ: گلی کا کشاہ دروازہ۔ بچانک۔ راستہ۔
 ج ذُرْبٌ وَ ذِرَابٌ۔
 الذَّرْبِيَّةُ: سہ۔ لڑائی اور ہر کام میں جرات و دلیری۔ کہا جاتا ہے ”فِي الْعَفْوِ ذُرْبَةٌ“ معاف کرنا بہت بڑا کام ہے۔
 الذَّرْبُوبُ وَالذَّرْبُوتُ: مِنَ الْجَمَالِ وَالْفُرْقِ سِدْهَابًا هُوَا۔
 الذَّرْبِيَّةُ: لڑائی اور ہر کام میں جرات و دلیری۔
 الْمَذْرَبُ: سہ۔ تجربہ کار۔ سرد گرم چشیدہ۔
 _____ مِنَ الْأَيْلِ: سِدْهَابًا هُوَا الْكَيْلُ فِي مِثْلِهِ طَلْعُ كَالِدَى أَوِثُ: الْمَذْرَبُ: شِير۔
 تَذْرِبًا الشَّيْءُ: لِإِحْلَاكَ۔
 ذُرْبِيحٌ ذُرْبِيحَةٌ: سختی کے بعد نرم ہونا۔
 الذَّرْبِيحُ: ناز سے چلنے والا۔
 ذُرْبِيحٌ: خوف سے بھگانا۔ پیٹھ جھکانا۔
 تَذْرِبْسٌ تَذْرِبْسًا: آگے بڑھنا۔
 الذَّرْبِيئَاتُ: شير-پاگل کتا۔
 ذُرْبِيصٌ ذُرْبِيصَةٌ: خوف سے خاموش رہنا۔
 ذُرْبِيصٌ ذُرْبِيصَةٌ: دھول بھانا۔
 الذَّرْبِيَانُ وَالذَّرْبِيَانُ: دروازہ کا محافظ۔ ج ذَّرْبِيَّةٌ: فارسی کلمہ ہے۔
 الذَّرْبِيَّيْنِ وَالذَّرْبِيَّيْنِ وَالذَّرْبِيَّيْنِ: جنگے یا کھمرے کا سلسلہ۔
 ذَّرَجٌ (ان ض) ذُرُوجًا وَ ذَّرَجَانًا: الشَّيْخُ أَوْ الصَّبِيُّ: چلانا۔ _____ الزَّجْلُ: بیڑھی پر چڑھنا۔
 _____ الْقَوْمُ: ختم ہو جانا۔ مرجانا۔ کتے ہیں ”هُوَ أَكْذَبُ مَنْ ذَبَّ وَ ذَّرَجٌ“ وہ زندوں اور مردوں سے زیادہ جھوٹا ہے۔ _____ الزَّجْلُ: بے اولاد مرنا۔ البِنَاءُ: اوپر تلے سترلیں بنانا۔
 _____ ذَّرَجًا وَ ذَّرَجٌ وَ أَدْرَجٌ (الْقَوْمُ أَوْ الْكِنَابُ): بیٹھنا۔ سہ کرنا۔ وَ ذَّرَجٌ الْبِنَاءُ: بیڑھی بنانا۔ وَ ذَّرَجَهُ إِلَى كَذَا: آہستہ آہستہ قریب کرنا۔
 ذَّرَجَهُ الْأَمْرُ: تنگ دل کرنا۔ أَدْرَجَ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: داخل کرنا۔
 ذَّرَجٌ (س) ذَّرَجًا: اپنے راستہ پر چلنا۔ مراتب میں ترقی کرنا۔ کلام یا دین میں راہ راست پر قائم

رہنا۔

تَذَّرَجَ إِلَى كَذَا: آہستہ آہستہ آگے بڑھنا۔
 اِنْدَرَجَ الْقَوْمُ: ختم ہو جانا۔ _____ فِي كَذَا: داخل ہونا۔

اِسْتَذْرَجَهُ: إِلَى كَذَا: قریب کرنا۔ ایک درج سے دوسرے درج میں ترقی دینا۔ زمین پر چلانا۔ قریب دینا۔

الذَّرَجُ: سہ۔ وہ کانفہ جس پر لکھا جائے۔ کہا جاتا ہے ”أَفْذَرْتُهُ فِي ذَّرَجِ الْكِنَابِ“ میں نے اس کو اپنے خط کے ساتھ بھیج دیا۔ _____ فِي الْقِرَاءَةِ: روانی۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ وَهُمْ ذُرُجٌ بِيَدِكَ“ وہ تمہاری ٹھٹی میں ہے۔

الذَّرَجُ: چھوٹا ٹھٹیا یا کنڈیا جس میں عورتیں خوشبو اور اپنا سامان رکھتی ہیں۔ ج أَدْرَجٌ وَ ذَّرَجَةٌ۔

الذَّرَجُ: وہ کانفہ جس پر لکھا جائے۔ راستہ۔ دو آدمیوں کے درمیان صلح کا سفیر ج أَدْرَجٌ وَ ذَّرَجٌ۔ کہا جاتا ہے ”رَجَعْتُ أَدْرَجِي“ میں اسی راستہ لوٹ گیا جس سے آیا تھا۔ وَ ”ذَهَبَ ذَمَّةٌ ذَّرَجٌ أَوْ أَدْرَجٌ الرِّيَاحُ“ اس کا خون رائیگاں اور قصاص نہیں لیا گیا۔ وَ ”حَلَبَهُ ذَّرَجُ الصَّبِّ“ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔

الذَّرَجَةُ: ج ذَّرَجٌ: بیڑھی۔ ذَّرَجُ السَّلْمِ: بیڑھی کا پابہ۔ _____ ج ذَّرَجَاتٌ: مرتبہ۔ بڑے یا چھوٹے دائرہ کے ۱۶۰ ذَّرَجَاتٌ میں سے ایک جز۔

الذَّرَجُ: فا۔ ثواب ذَارَجٌ: ہر جگہ پھیلنے والا غبار۔ کہا جاتا ہے ”صَبَّيْ ذَارَجٌ“ پاؤں پاؤں چلنے لگنے والا پتہ۔ قَبِيْلَةُ ذَارَجَةٌ: جاہ و برباد ہونے والا قبیلہ۔

الذَّرَجَةُ: جانور کی ٹانگ ج ذَوَارِجُ۔
 الذَّرُوجُ: مِنَ الرِّيَاحِ: تیز چلنے والی ہوا۔
 الذَّرُوجُ: بڑے بڑے دشوار عاجز کرنے والے امور۔ کہا جاتا ہے ”وَقَعَ فِي الذَّرُوجِ“ وہ بہت دشوار معاملہ میں پھنس گیا۔

الذَّرَاجُ: بہت پھرنے والا۔ جطل خور۔ سی۔
 الذَّرَاجَةُ: سائیکل۔

الذَّرَاجَةُ: محاصرہ کرنے کا ایک آلہ۔ بمعنی ذَبَابَةٌ (دیکھئے الذَّبَابَةُ)

الذَّرَاجُ: تیز۔ مونتھ نہ کر دینوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ج ذَّرَانِيحٌ: واحد ذَّرَاجَةٌ ہے اس میں ”آ“ وحدت کی ہے تانیف کی نہیں۔ نرکو حَيْقُطَانٌ بھی کہتے ہیں۔

الْمَذْرُوجُ: راستہ۔ مسلک۔ اور اسی سے ہے ”إِغْشَى فِي مَذْرُوجِ الْحَقِّ“ حق کے راستہ پر چلو۔ مَذْرُوجُ التَّمَلُّ: چھوٹیوں کے چلنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ أَخْفَى مِنْ مَذْرُوجِ التَّمَلُّ“ وہ چھوٹیوں کے راستہ سے زیادہ پوشیدہ ہے۔
 الْمَذْرُوجُ: لپٹی ہوئی کتاب یا خط ج مَذَارِجُ الْمَذْرُوجِ وَالْمَذْرُوجَةُ: لپٹی ہوئی کتاب یا خط۔ ج مَذَارِجُ۔

الْمَذْرُوجَةُ: ج مَذَارِجُ: افضل یا اعلیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ۔ کہا جاتا ہے ”هَذَا الْأَمْرُ مَذْرُوجَةٌ لِهَذَا“ یہ اس امر کے لئے ذریعہ ہے۔ راستہ۔ راستہ کا بڑا حصہ۔ کانفہ جس میں کوئی تحریر لکھی جائے یا لپٹی جائے۔ مَذَارِجُ الْأَكْثَمَةِ: بیلہ کے درمیان کے راستے۔ أَرْضٌ مَذْرُوجَةٌ: بہت تیز والی زمین۔

الذَّرُوجُ: غلہ کی ایک قسم جو بیلوں کو کھلاتے ہیں۔

ذَّرَجِلٌ ذَّرَجَلَةٌ: القوس: کمان پر چڑے کا قسم لگانا۔

الذَّرَجَلَةُ: چڑے کا قسم۔

ذَّرَجَةٌ (ف) ذَّرَجًا: دفع کرنا۔ ہٹانا۔

ذَّرِجٌ (س) ذَّرَجًا: بوزھا ہونا۔ صفت مذکر مؤنث (ذَّرِج)

الذَّرَجِيَّةُ: پست قدم۔

ذَّرِدٌ (س) ذَّرِدًا: غھیناک ہونا۔ صفت (ذَّرِد)

بے راتوں کا ہونا۔ صفت (أَذْرِد) مؤنث ذَّرِدَاءُ۔

ج ذَّرِدٌ۔

أَذْرِدَةٌ: دانتوں کا گرانہ۔

الذَّرِدِيُّ: تجھٹ۔

ذَّرْدَبٌ: الرَّجُلُ: خوفزدہ آدمی کی مانند بچھے دیکھتے ہوئے بھانگنا۔

إِمْرَأَةٌ (ذَّرْدَبٌ) رات میں آمد و رفت رکھنے والی عورت۔

الذَّرْدَبِيصُ: معیبت۔ بڑھا۔ بہت بڑھیا۔

<p>أبو أذراص: يوقوف - ذرع (س) ذرعًا: القروش وغنيزه: سياه سر اور سفيد جسم والا ہونا۔ صفت (أذرع) مؤنث ذرعًا ذرع۔ ذرع (ف) ذرعًا: الشفاء: بکری کے سرکی جانب کے کمال آثارنا _____ الرقبة أو اليد: گردن یا ہاتھ کا جوڑا کھاڑنا۔ ذرع: الزرع: کھیت کا کچھ حصہ کھایا جانا _____ الماء: پانی کے قریب کی سب چیز کھائی جانا۔</p>	<p>گیوں کو گاہنا۔ (ذَرَسَتِ المَرْأَةُ درسا و ذُرُوسًا حائضہ ہونا۔ ذَرَسَةٌ وَأَذْرَسَةٌ: الکتاب: پڑھانا۔ ذَرَسَ الْبَعِيْرُ: سدھانا۔ ذَارَسَهُ مَدَارَسَةً وَدِرَاسًا: باہم پڑھنا۔ _____ الذَّنُوبُ: ارتکاب کرنا۔ قَدَّازَسَ - الظَّلْبَةُ الْكِتَابَ: باہم پڑھنا اور کہا جاتا ہے "قَدَّازَسَ الْكِتَابَ وَإِدَّازَسَهُ" اس نے کتاب پڑھی۔ إِنْدَرَسَ - الرِّسْمُ: مٹا _____ الخَبِيْرُ: تاپید ہونا۔</p>	<p>محبت کا منتر۔ الْبِيْرُ ذِيح - حریص۔ بہت بڑھا۔ ج ذَرَّاح - الْبِيْرُ ذِيحَة: وہ عورت جس کا طول عرض برابر ہو۔ ذَرَّ ذَرًّا - الشَّبِيْحُ أَوْ الصَّبِيْحُ البُسْرَة: خند میں پھمکانا۔ الذَّرْدَارُ - ذُحُولُ كِي آواز۔ ایک بڑا درخت جس کے پھول زرد اور پتے خاردار ہوتے ہیں۔ الذَّرْدَارُ بَيْتِجِ كِي دانت نکلنے کی جگہ۔ ج ذَرَادِر - الذَّرْدُوْرُ - بھنور۔</p>
<p>ذَرَعَةٌ - زره پھانا _____ المرأة: قمیص پھانا _____ ہ: گلا گھونٹنا _____ الشَّيْءُ: ظاہر کرنا _____ الرَّجُلُ: چلنے میں آگے بڑھنا۔ أذرع - الشهر: آدمے سے زیادہ گزرنا اور تَدْرَعُ وَ إِذْرَعُ: زره پھانا۔ أذرع وَإِذْرَعُ الليل: رات کی تاریکی میں داخل ہونا۔ أذرع: کسی چیز میں کسی چیز کو داخل کرنا۔ أذرع الماء: پانی کے قریب کی سب چیز کھائی جانا۔</p>	<p>الذَّرْسُ - سبق۔ مخفی راستہ۔ ج ذُرُوس - الذَّرْسُ وَالذَّرْسُ وَالذَّرْسُ: پرائیڈ اور کپڑا اور نٹ کی دم۔ ج أذراس و ذرستان۔ أبو أذراس: کنیت فرج۔ أبو أذرنس: کنیت ذکر۔ الذَّرْسَةُ - ریاضت۔ ورزش۔ الذَّرَسُ - حائضہ عورت۔ الذَّرَسُ - بہت پڑھنے والا۔ الْمَذْرَسَةُ - طلبہ کے تعلیم حاصل کرنے کی جگہ۔ اور کہا جاتا ہے "هذه مَذْرَسَةُ النِّعَمِ" یہ چوپائے کا راستہ ہے۔</p>	<p>الذَّرْدَقُ - بیج۔ شراب کا پیمانہ۔ ج ذَرَّاق - الذَّرْدَقُ - چھوٹی دکان۔ کوئی ہوئی ہمارا زمین۔ الْبِيْرُ - رات میں آمد و رفت رکھنے والی عورت۔ ذَرَّ (س) ذَرًّا - دُنْيَا كِي نَعْمَتُوں اور لذتوں پر قادر ہونا۔ ذَرَّ (ن) ذَرًّا - الغُوبُ: کپڑا باریک سینا _____ الخِيَاظُ الذَّرْوُورُ: درزی کا سیون کو باریک سینا۔ الذَّرْسُ - دُنْيَا كِي نَعْمَتِيں اور لذتیں۔ دو کپڑوں کے درمیان کا سیون۔ ج ذَرَّ ذُرًّا - بَنَاتُ الذَّرْوُورُ: جوں اور اس کے انڈے۔</p>
<p>إِنْدَرَعُ - فِي السَّيْرِ: آگے بڑھنا۔ إِنْدَرَعُ يَفْعَلُ كَذَا: وہ ایسا کرنے لگا _____ العَظْمُ: ہڈی کا گوشت سے جدا ہونا _____ النَّظْلُ: پیٹ بھرنا۔ القَمَرُ مِنَ السَّحَابِ: چاند کا بادل سے نکلنا۔</p>	<p>الْمَذْرَسُ - پڑھنے کی کتاب۔ پڑھنے کی جگہ۔ الْمَذْرَسُ - توراہ پڑھنے کی جگہ۔ الْمَذْرُوسُ - پرائیڈ اور کپڑا۔ طَرِيْقُ مَذْرُوسُ: چلتا ہوا راستہ۔ فَرَّاشُ مَذْرُوسُ: بچھا ہوا بچھونا۔ بجھون۔ پاگل۔ الذَّرِيْسُ وَالذَّرِيْسُ - شیر۔ الذَّرِيْسُ: بڑے سر کا توراہ و لیر مرد۔</p>	<p>الذَّرِيْعُ - سلائی کا پیشہ کرنے والا۔ ابو محمد عبداللہ الدرزی۔ جن کی جانب ایک قوم منسوب ہے جو لبنان اور حوران میں پائی جاتی ہے۔ ج ذَرَّةٌ أَوْ ذُرَّةٌ ذُرِّيَّةٌ كِي كَتَبْتِمْ - واحد ذَرِّيَّةٌ - اور عوام حمہ وال سے ذُرِّيَّةٌ کہتے ہیں۔ (أَوْلَادُ ذَرَّةٍ) ذُرَّةٌ - جولاہے۔ درزی: نیچے درجہ کے لوگ۔ أُمُّ ذَرَّةٍ: دُنْيَا كِي كِنِيَّةُ -</p>
<p>الذَّرِعُ - زره۔ مؤنث ہے کبھی مذکر بھی استعمال کرتے ہیں۔ ج ذُرُوعُ - وَأَذْرَعُ وَ ذَرَّاعُ - تغیر ذُرُوعُ - ذُرُوعُ المَرْأَةِ: عورت کی قمیص یا وہ قمیص جس کو وہ گھریں پہنتی ہے۔ (مذکر ج أذراع۔ اور درع اس چھوٹے سے کپڑے کو بھی کہتے ہیں جس کو چھوٹی لڑکی گھریں پہنتی ہے۔ الذَّرِعُ - مِنَ العُشْبِ: تازہ گھاس۔ الذَّرِعُ وَالذَّرِعُ: قمری مینے کی سولویں سترہویں، اٹھارہویں راتیں۔ اس لئے کہ ان راتوں کی ابتداء میں تاریکی اور بقیہ میں چاندنی رہتی ہے۔</p>	<p>ذَرَّصَتْ (س) ذَرَّصًا - النَّاقَةُ - بڑھاپے کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے دانت والی ہونا۔ صفت (ذَرَّصَاءُ) الذَّرَّصُ وَالذَّرَّصُ - چہا، بلی، خرگوش، سیسی وغیرہ کا بیج۔ ج أذراص و ذرصة و ذرصان و ذروص و أذروص۔ الذَّرَّصُ وَالذَّرَّصُ - تیز رفتار اونٹنی۔ أُمُّ أذراص - جنگلی چوہا۔ بلا مصیبت۔ کہا جاتا ہے "وَقَعُوا فِي أُمِّ أذراص" وہ لوگ ہلاکت میں پڑ گئے۔</p>	<p>ذَرَّ (ن) ذَرَّوْسًا - الرِّسْمُ: مٹا۔ صفت (ذَارَسَ) ج ذَرَّوَارِسُ _____ الشَّيْءُ: نشان مٹا۔ (_____ ذَرَّوْسًا) الرِّسْمُ: نقش مٹانا _____ الغُوبُ: کپڑا بوسیدہ ہونا _____ الغُوبُ: بوسیدہ کرنا _____ النَّاقَةُ: سدھانا (_____ ذَرَّوْسًا وَ دِرَاسَةً) لکتاب أَوْ العِلْمُ: پڑھنا۔ متوجہ ہو کے یاد کرنا۔ ذَرَّوْسُ النِّجَارِيَّةُ: ہمارے کرنا۔ (_____ ذَرَّوْسًا وَ دِرَاسَةً) الحِنْفَلَةُ:</p>
<p>الذَّرَاعُ - فا۔ زره پہننے والا۔ الذَّرَعَةُ - درخت خرما کی چھال کی مانند۔ ایک چیز جس کو درخت خرما کے ارد گرد لگایا جاتا ہے۔ ج - ذَرَعُ -</p>	<p>ذَرَّوْسًا وَ دِرَاسَةً) الحِنْفَلَةُ:</p>	<p>الذَّرَاعُ - فا۔ زره پہننے والا۔ الذَّرَعَةُ - درخت خرما کی چھال کی مانند۔ ایک چیز جس کو درخت خرما کے ارد گرد لگایا جاتا ہے۔ ج - ذَرَعُ -</p>

ہوگا اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے۔
 الذرکۃ۔ درجہ۔ لیکن درکہ اور درجہ میں
 فرق ہے۔ درکہ اترنے کی حالت میں اور درجہ
 چڑھنے کی حالت میں۔ ج ذرکات۔ کہا جاتا ہے۔
 ”الذرحۃ ذرکات والنار ذرکات“
 الإذرکۃ۔ قوت مد رکہ۔
 ذرک اسم فعل۔ بمعنی اذرک۔
 الذرکۃ متصل۔ کہا جاتا ہے ”سیر ذرک“
 متصل سیر۔
 الذرکۃ مرغوب چیز کو پالنے والا۔
 الذرکۃ بھگائی ہوئی۔
 الإستیزاک۔ یہ کلام سابق سے جو ہم پیدا
 ہو اس کو دور کرنا۔
 رجلٌ مُذْرِكٌ۔ تیز اور اک کرنے والا۔ تاء
 مبالغہ کے لیے ہے۔
 مذارک الشریع: وہ نصوص جن سے ثبوت
 احکام ہو۔
 المذاریک والمذاریک حواس۔
 المذاریک۔ علم عروض کی اصطلاح میں ایک
 بحر کا نام۔
 الذرکۃ اختلاط۔ بھیرا۔ انہوہ۔
 الذرکۃ ایک قسم کا باجر (مولدہ)
 درم (اس) ذرما۔ العَضُو: گوشت سے بڑی کا
 پوشیدہ ہونا۔ صفت (درم) و دارم و دریم
 و اذرم) _____ الساقی: ہموار ہونا۔
 الاستئنان: گرنا۔ گرنے کے قریب ہونا۔
 التبعین: بے دانتوں والا ہونا۔
 درم (ض) درما و درما و درما و درما۔
 التثقیذ والازنب و نحوہما: چھوٹے
 چھوٹے قدموں سے جلدی چلنا۔ اور ایسا ہی
 ”درم الشیخ و الصبی“ بھی بولا جاتا ہے۔
 درم۔ اظفارہ۔ ناخن کاٹنے کے بعد ہموار کرنا۔
 اذرم۔ الصبی: دودھ کے دانت ہلنا۔ صفت
 (اذرم) مؤنث ذرماء۔ الذرماء: خرگوش۔
 سرخ تپوں والی ایک گھاس۔
 دارم مُذْرِمَةٌ۔ گرانی کے ساتھ ساتھ جلدی
 چلنا۔
 الذرمۃ۔ درم کا مؤنث۔ خرگوش۔

الذرع۔ پانی لانے والا اونٹ۔
 الذرع۔ بڑول۔
 المذرع والمذرع۔ لوگوں سے کھانا چاہنے
 والا اور ان کو کال دینے والا۔
 ذرقل ذرقلۃ۔ الرجل: تیز گزرتا۔ ناچنا۔ تاز
 سے چلنا۔
 الذرقل۔ ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔
 الذرقم۔ بیکار۔ وصال کا نام۔
 ذرک المظو: بے درپے برسا۔
 اذرک الشی: اپنے وقت پر پہنچنا _____
 الشمر: پھل کا پکنا _____ الولد: لڑکے کا بالغ
 ہونا _____ الشی: لاحق ہونا _____
 المسائلۃ: سیکھنا _____ بنأرہ: خون کا بدلہ لینا
 _____ الشی یتصرہ: دیکھنا۔
 دارکۃ مُذَارِکَةٌ و ذرکۃ للاحق ہونا۔
 _____ الشی: ایک کو دوسرے کے پیچھے کرنا۔
 _____ الظفن: پیاپے نیزہ مارنا۔
 تذارک القوم: آخر کا اول سے آملنا اور اس
 میں اذراک بولا جاتا ہے _____ الخطأ
 بالصواب: غلطی کی اصلاح کرنا۔ غلطی کے بعد
 درست کرنا _____ مافات: تلافی کرنا درست
 کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تذارکۃ اللہ یزحمہ“ یعنی
 اللہ کی رحمت اس کو لاحق ہوو۔ ”تذارک القوم“
 اس نے قوم کی تلافی کی۔
 اذرکۃ۔ ملنا لاحق ہونا۔
 استذکر۔ الشی بالشی: کسی چیز سے کسی
 چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”استذکرۃ النجاة بالقوار“ اس نے بھاگ کر
 نجات حاصل کرنے کا ارادہ کیا _____ مافات:
 تلافی کرنا _____ الخطأ بالصواب: غلطی کی
 اصلاح کرنا _____ علیہ القول: غلطی نکالنا۔
 الذرک والذرک۔ لاحق ہونا۔ حصول حاجت۔
 کسی چیز کی انتہائی گہرائی۔ کہا جاتا ہے ”بلغ
 الغراض ذرک النحر“ غوطہ خور سمندر کی
 انتہائی گہرائی میں پہنچ گیا۔ اور کہا جاتا ہے ”فوش
 ذرک الظرفینۃ“ بھگائے ہوئے جانور کو پالنے والا
 گھوڑا۔ نادان۔ اور اسی سے ہے ”مالحقیق من
 ذرک فعلی خلاصہ“ جو نادان ہمارے اوپر

الذرعاء۔ مؤنث اذرع _____ من
 اللیالی: وہ رات جس میں صبح کے وقت چاند
 نکلتا ہے۔ ج ذرع۔
 الذرعۃ۔ زرہ کو چھونے والا نیزہ۔ ج ذراعی۔
 الذراعۃ۔ ج ذرایع و (المذرعۃ) ج
 مذارع: جبہ۔ کوٹ۔ والمذرعۃ عند
 اليهود: اجارہ سوار کے پہنے کا کتان کا ایک کپڑا۔
 ماء (مذرع و مذرع) پانی جس کے قریب
 قریب کی چراگاہ چلی گئی ہو۔ زوضۃ مُذْرِعَةٌ:
 باغ جس کے ارد گرد کو کھایا گیا ہو۔
 المذرع۔ مفر۔ ایک قسم کا جانور۔
 المذرعۃ۔ فولاد سے ڈھکا ہوا جنگی جہاز۔
 الذرعۃ۔ اچھی عمارت والا۔
 اذرعش۔ الرجل من مزضہ: درست ہونا۔
 اذرعف۔ الرجل فی القتال: صف سے
 نکل کر آگے بڑھنا۔
 الذرعۃ۔ تالاق بد زبان۔
 الذرف۔ پناہ۔ سایہ۔ جانب۔
 الذرفۃ۔ عند العمامۃ: دروازہ کا پٹ۔ فصیح لفظ
 (الصفیق) ہے۔
 الذرفس۔ بڑے جسم کا اونٹ۔ مؤنث مرد۔ بڑا
 نشان۔ ریشمی کپڑا۔
 ذرقی و اذرنفق۔ فی سیرہ: تیز چلنا۔
 ذرق (ن) ذرقا۔ فی المشی: تیز چلنا۔
 ذرقۃ۔ نرم کرنا۔
 الذرق۔ سخت خواہ کوئی چیز ہو۔
 الذرقاء۔ بادل۔
 الذرقۃ۔ چڑے کی بی ہوئی ڈھال جس میں
 لکڑی اور پھانہ ہو۔ ج ذرق۔
 الذراق۔ ایک میوہ دار درخت۔ ایک قسم کا
 میوہ۔ واحد ذرقۃ۔ شراب۔ (الذراق والذریق
 والذریقۃ) تریاق۔
 الذراقین۔ زرد آلو۔ شفتالو۔
 الذروق۔ بغیر ٹوٹی کے دودھتوں والا لوہا۔ ج
 ذواق (عرب) الذروق: عابد زاہد لوگوں کی
 ایک قسم کی ٹوٹی۔ اور اسی کی نسبت سے پہننے
 والے ”الذریقین“ کہلاتے ہیں۔
 ذرق۔ حتیٰ سے تیز بھاگنا۔

سایپ کی پھرتی۔ اور امثال سے ہے "العزق دَسَّاسٌ" یعنی باپ کی عادتیں بیٹوں تک پہنچتی ہیں۔

الدَسَّاسُوس۔ جاسوس۔

الدَسَّاسِيس۔ وہ شخص جس کو خبر لانے کیلئے بھیجا جائے۔ وہ چیز جو مٹی میں دبا دی جائے۔ گرم راکھ میں بھونی ہوئی چیز۔ ج دَسَّس۔ الدَسَّس: ریا کار لوگ۔

الدَسَّش۔ زخم کی گہرائی تاپنے کا آلہ۔

الدَسَّنت۔ حیلہ و فریب۔ مکان کا صدر حصہ۔ مجلس۔ تکیہ۔ کافد۔ لباس۔ بیابان۔ ج (دَسَّنت) اور شطرنج کے کھیلنے میں بولنے ہیں "الدَسَّنتُ لینی" یعنی میں غالب رہا۔ "الدَسَّنتُ عَلَيَّ" میں مغلوب ہو گیا۔ اور عوام دست کا کلمہ دیگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔

الدَسَّسَجَة۔ دست۔ مٹھا۔ شیشہ کا بڑا برتن۔ ج دَسَّاسِيج۔

الدَسَّشُور۔ مجموعہ قوانین۔ اجازت۔ وزیر۔ وہ کتاب جس میں آئین و قوانین ضبط کئے جائیں۔ وہ رجسٹر جس میں فوجیوں کے نام اور ان کے وظائف لکھے جائیں۔ ج دَسَّاسِيفِر۔

الدَسَّسْتَان۔ فی اصطلاح اصحاب الموسیقی۔ بربط کا کار۔ ج دَسَّاسِيتَان۔

إِنْدَسَّسِج۔ منہ کے ٹل گرنے۔

الدَسَّسِيج۔ مگزی کی مانند ایک کیڑے کا نام۔

دَسَّسْرَة (ن) دَسَّسْر۔ نیزہ مارنا۔ جانا۔ دفع کرنا۔

السَّفِينَة۔ رشتی سے کشتی کے تختوں کو جوڑنا۔

الدَسَّار فِي الشَّيْءِ۔ زور سے گھسانا

الشَّيْءِ۔ سبج لگانا۔ الجَوَارِيَة۔ جماع کرنا۔

الدَسَّار۔ کھجور کے ریشہ کی مانند ایک چیز جس سے کشتی کے تختوں کو جوڑتے ہیں۔ سبج ج دَسَّسْر وَدَسَّسْر۔

الدَسَّسْرَاء۔ کشتی۔ ج دَسَّسْر۔

الدَسَّسْر۔ گیوں میں کا ایک تلخ قسم کا دانہ۔ شیر موٹا اوت۔ و دَسَّسْر۔ نعمان بن منذر شاہ عراق کی ایک فوج کا نام۔

بیتوں والی ہوتا۔

إِذْرَهَمٌ۔ بڑی عمروال ہونا۔ بڑھاپے کی وجہ سے دانوں کا گرنے۔ صفت (مُدْرَهَمٌ) النَّبْصَرُ: نگاہ کا مدھم ہونا۔

الدِزْهَمُ و الدِزْهَمَةُ و الدِزْهَام۔ چاندی کا سکہ۔ ج دِزْهَام (یونانی کلمہ ہے) مولدین کے نزدیک درہم کا اطلاق مطلقاً تقویر ہوتا ہے۔

المُدْرَهَم۔ بست درہم والا۔

الدِّزْوَيْش۔ راہب۔ عابد۔ زاہد۔ لفظ فارسی ہے جس کے معنی فقیر کے ہیں۔

دِزْئِي (ض) دِزْئَا و دِزْئَا و دِزْئِي و دِزْئِيَّة و دِزْئِيَانَا و دِزْئِيَانَا و دِزْئِيَانِيَّة۔ الشَّيْءُ و بالشَّيْءِ: حیلہ سے جانا۔ (آخری مصدر) زیادہ مستعمل ہے۔

دِزْئِي (ض) دِزْئَا و تَدْرِئِي و اَدْرِئِي۔ الصَّنِيْدُ: دھوکا دینا۔ دِزْئِي الرِّاسِ: دِزْئِي سے سر کو کھجانا (دیکھئے مِزْئِي)

دِزْئِي مُدْرَاةٌ۔ ہ: باہم نرمی کرنا۔ فریب دینا۔

أَدْرِئِي۔ الرَّجُلُ بَكْدًا: جلتانا۔ آگاہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "ما أَدْرَاكُ وَمَا يُدْرِيكُ" یعنی تم نہیں جانتے۔

المِزْئِي و المِزْئَاة و المِزْئِيَّة۔ کھٹی۔ باریک سینگ جس سے عورتیں بالوں کو درست کرتی ہیں۔ ج مِزْئَا و مِزْئَاة۔

دِزْزَة (ن) دِزْزَا۔ ہٹانا۔ دفع کرنا۔

دَسَّ (ن) دَسَّا و دِيسِيسِي۔ الشَّيْءُ تَحْتَ الثَّرَابِ و فِيهِ: دھنسانا۔ چھپانا۔ گارنا۔ دَسَّ عَلَيَّه: حیلہ و کمر کرنا۔ سازش کرنا۔

دَسَّس تَدْبِيْسًا۔ دھنسانا۔ چھپانا۔ تشدید مبالغہ کے لیے ہے اور بجائے دَسَّس کے دَسَّسِي کہا جاتا ہے جیسے بجائے تَطَّسَن کے تَطَّسِي۔

تَدَسَّس۔ بہ الی اَعْدَائِه: حیلہ و کمر کرنا۔ سازش کرنا۔

إِنْدَسَّس۔ دھنسا۔ رٹن ہونا۔

الدَّسَّيْسِيَّة۔ خفیہ سازش و عداوت۔

الدَّسَّاس و الدَّسَّاسَة۔ سرخ رنگ کا زہریلا سایپ جو مٹی میں چھپا رہتا ہے۔ الدَّسَّاسَة:

دِزْغُ دِرْمَة: چمکدار یا نرم زرہ۔

الدِّزَام و الدِّزَامَة۔ سخی۔ خرگوش۔ الدِّزَام: پست قدر۔ در قمار۔ مَوْتَسَدْرَامَة۔

الدِّزِيم۔ پرگوشٹ۔ نازک اندام خوبصورت لڑکا۔

دِزْغُ (مُدْرَهَمَة) چمک دار نرم زرہ

المِزْدَام۔ میل کچیل میں لٹسٹرا ہوا۔ ج مِزْدَاوِيْم۔

دِزْمَس۔ خاموش رہنا۔ الشَّيْءِ: چھپانا۔

دِزْمَص دِزْمَصَة۔ خاکساری کرنا۔ دِزْمَصِي کرنا۔

الدِّزْمَقِي و الدِّزْمَك۔ سفید آٹا۔ یہ۔

دِزْمَك دِزْمَا۔ البِنَاءُ۔ سوار و چمکدار بنانا۔

الدِّزْمَك۔ نرم مٹی۔

الدِّزْمُوك عَالِيَج۔

دِزْمُوك دِزْمَا۔ الثَّوْبُ: مٹیا ہونا۔

صفت (دِزْمُوك و مِزْدَان) دِزْمُوك و مِزْدَان۔

أَدْرَنْ۔ الثَّوْبُ: مٹیا کرنا۔ الثَّوْبُ:

مٹیا ہونا۔ أَدْرَنْتِ المَاصِيَة: پرائی خشک گھاس چرنا۔

الدِّزْن۔ میل کچیل۔ ج أَدْرَان۔ أُمُّ دِزْن: دینا۔ الدِّزَان۔ لومڑی۔

الدِّزِين۔ پرائی خشک گھاس جس کو جانور نہ کھائیں۔ پرائی کپڑا۔ أُمُّ دِزِين: لُط زہ زمین۔

الدِّزِنَاس۔ شیر۔

الدِّزِنُوف۔ بڑے ذیل ڈول کا اوت۔

الدِّزْمُوك و الدِّزْمِيك عَالِيَج۔ تالین۔ ج دِزْمِيك۔

دِزْرَة (ف) دِزْرَهَا۔ عَلَيَّهْم: ناگاہ آنا۔

لِهْم و عَنَّهُمْ: مدافعت کرنا۔ دِزْرَه عَلَيَّ كَذَا: زیادہ کرنا۔

دَارَهَات۔ الدھر: زمانے کے حوادث۔

التَّدْرَة۔ دفع۔ مدافعت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ دُؤْتَدْرَه" وہ دشمنوں پر اچانک ٹوٹ پڑنے والا ہے۔

المِزْدَر۔ سردار۔ قوم کا نمائندہ۔ لیڈر۔ ج مِزْدَاوِي۔

دِزْمَتِ۔ الخَبَازِي: درہم کی مانند گول

الدَّوسِرُ والدَّوسِرِيُّ والدَّوَابِرِيُّ
والدَّوسِرَانِيُّ۔ موٹا۔ مضبوط۔
دَسَع (ف) دَسَعًا منہ بھر کے تے کرنا
_____ بِقِيَّتِهِ تے کرنا _____ الْإِنَاءُ بھرتا
_____ الْعِزْقُ رگ کا گوشت میں چھپنا
الرَّجْلُ بِمَت رینا _____ الشَّقِيُّ بٹانا دفع کرنا
_____ التَّبَعِيُّ جَوْنَهُ بنگال کرنا۔
الدَّيْسِمَةُ بِمَت بختش۔ طبیعت۔ بڑا پیالہ۔
وسیع دسترخوان۔ قوت۔ ج ذصانع۔
بَبَعِيٌّ (ذ) دَسَعًا بِمَت بنگال کرنے والا اونٹ۔
المُدْسَعُ حلق کی نالی۔
دَسِقٌ (س) دَسَقًا الحَوْضُ پُر ہونا۔ لبالب
ہونا۔
أَدَسَقُ الْإِنَاءُ بھرتا۔
الدَّيْسِقُ بھرا ہوا حوض۔ چاندی کا خونچہ۔
صاف چاندی کا زیور۔ لبا راست۔ بڑھا مرد۔
خوبصورتی۔ نور۔ سفیدی۔ سراب کی سفیدی اور
اس کی چمک۔
الدَّوْسُكُ شیر۔
الدَّوْسُكُورَةُ بڑا گاؤں۔ گرجا _____ ہموار
زمین۔ ایسا مکان جس میں شراب اور کھیل کود کی
چیزیں ہوں۔ محل کی مانند عمارت جس کے
ارد گرد مکانات ہوں اور ان میں شاطر لوگ جمع
ہوتے ہوں۔ ج ذصاکنز۔
دَسَم (ن ض) دَسَمًا القَاوُزَةُ دُاث لگانا
_____ النَّبَابُ بند کرنا _____ الْجَزْحُ زخم
میں بقی رکھنا _____ المَطْرُ الأَرْضُ کچھ کچھ تر
کرنا _____ التَّبَعِيُّ قمران وغیرہ ملنا (دیکھئے
قمران) _____ الأَثَرُ مٹا _____ المرأة
جمع کرنا۔
دَسِيم (س) دَسَمًا وَدُسْمَةً چلی والا ہونا۔
سفت (دَسِيم وَادَسَم) مومٹ (دَسِيمَةُ وَ
دَسَمَاءُ) ج دَسَمٌ وَدَسَمٌ (دَسِيمٌ وَدَسَمٌ)
الشَّقِيُّ میلنا ہونا۔ نیلا ہونا۔ وَدَسَمَ الرَّجْلُ
پختا ہٹ کی چمک کھانا۔
دَسَمَ الشَّقِيُّ چربی ڈالنا۔ کالا کرنا _____
المَطْرُ الأَرْضُ تر کرنا۔

أَدَسَمَ القَاوُزَةُ دُاث لگانا
_____ الدَّيْسَمُ کنارہ۔ کسی چیز کی انتہا۔ کہا جاتا ہے "أَنَا
عَلَى دَسَمِ الأَمْرِ" میں کام کے خاتمہ پر ہوں۔
الدَّيْسَمُ گوشت یا چربی کی پختائی۔ چربی کا میل۔
الدَّيْسَمَةُ فاختری (_____ وَالْمَسَامُ) دُاث۔
کاک۔ کہا جاتا ہے "مَاهُوَ الأُدْسَمَةُ" یعنی اس
میں نفع نہیں۔
الدَّيْسَمُ رچھ یا اس کا پتہ۔ لومڑی یا اس کا پتہ۔
گھاس۔ تاریکی۔ سیاہی۔ کام کاسا تھی۔ مہربان۔
الدَّيْسَمَةُ ذرہ۔
دَسَائِدُ سُوْدَسُوْا وَدَسِي يَدَسِي دَسِيًا كَم
ہونا _____ الرَّجْلُ پوشیدہ ہونا۔
دَسِي الرَّجْلُ بگاڑنا۔ گمراہ کرنا _____
نَفْسُهُ گمراہ کرنا۔
دَش (ن) دَشًا دَشِيشَهُ (ایک قسم کا کھانا) تیار کرنا
_____ الحَبُّ نقلہ کو چلانا۔
الدَّيْسِيشُ گیہوں کی مانند ایک قلد جس کو موٹا
موٹا بیسا جاتا ہے۔
الدَّيْسِيشَةُ ایک قسم کا کھانا جس کا جزاء عظیم کوٹا
ہوا گیہوں ہے۔
الدَّوْسُقُ بڑا مکان۔ موٹا اونٹ۔
الدَّوْسُكُ بچھوٹا۔
دَشَن (ن) دَشَنًا الشَّقِيُّ دینا۔
دَشَنُ القُوْبِ پہلی مرتبہ پھینا۔
العُغْبَةُ برکت دینے کے لیے سب سے پہلی
مرتبہ نماز پڑھنا۔
نَدَشَنُ الشَّقِيُّ لینا۔
الدَّاشِنُ فا۔ الدَّاشِنُ مِنَ الشِّيَابِ نیا کپڑا جو
ابھی استعمال نہ کیا گیا ہو _____ مِنَ الدَّوْرِ نیا
مکان جس میں ابھی کسی نے سکونت نہ کی ہو۔
دَشَان (ن) دَشَانًا لِرائِلِ میں گھس پڑنا۔
دَص (ن) دَصًا رعایت آداب کے ساتھ
خدمت کرنا۔
دَصْدَصُ آنا کرنے کیلئے چھانی میں ہاتھ مارنا۔
دَصَق (ن) دَصَقًا الرَّجْحَاجُ توڑنا۔
دَص (ن) دَصًا رعایت آداب کے ساتھ
خدمت کرنا۔
دَكَّةٌ دھکارنا۔

دَعَا (ن) دَعَاً سختی سے دھکارنا۔ دھکے دینا۔
أَدَعَ الرَّجْلُ چھوٹے چھوٹے بال بچنے والا
ہونا۔
الدَّعَاعُ چھوٹے چھوٹے بال بچنے۔
الدَّعَاعُ کھجور کے متفرق درخت۔ ایک جنگلی
درخت کے دانے۔ پروں والی سیاہ چوئیاں۔
واحد دَعَاعَةٌ۔
دَعَبَةٌ (ف) دَعَبًا وَدَعَابَةً دفع کرنا۔ مزاح
کرنا۔ خوش طبعی کرنا۔ (_____ دَعَبًا) المرأة
بمراہ کرنا۔
دَاعِبَةٌ مُدَاعِبَةٌ کھیل کود کرنا۔ خوش طبعی
کرنا۔ ہنسی مذاق کرنا۔
تَدَاعَبَ القَوْمُ باہم ہنسی مذاق کرنا۔
تَدَعَبَ عَلَيْهِ ناز کرنا۔
الدَّعَبُ وَالدَّاعِبُ کھیل کود ہنسی مذاق
کرنے والا۔
الدَّعَابُ وَالدَّعَابَةُ بِمَت ہنسی مذاق کرنے
والا۔ دَعَابَةٌ میں "ت" مبالغہ کی ہے "تانیہ کی
نہیں۔
الدَّعَابَةُ ہنسی مذاق۔ سیاہ چوٹی۔ بیوقوفی۔
الأَدْعَبُ بیوقوف۔ مومٹ دَعَبَاءُ ج
دُعَبُ۔
الدَّعُوبُ بِمَت کھیلنے والا۔ اچھا لگانے والا۔
نازک بدن نوجوان۔
الدَّعُوبُ سیاہ چوٹی۔ ایک قسم کا سیاہ دانہ جو
کھایا جاتا ہے۔ راستہ جس پر آمد و رفت زیادہ ہو۔
پست قدم مرد جس سے ٹھٹھا کیا جائے۔ شادمان۔
مخٹ۔ بیوقوف۔ لبا گھوڑا۔ لَيْلَةُ دَعُوبُ بڑی
رات یا بہت کالی رات۔
الدَّعُوبُ وَالدَّعُوبُوسُ بیوقوف۔ کم عقل۔
الدَّعُوبِلُ مینڈک کے انڈے (_____)
وَالدَّعُوبَةُ مضبوط اونٹنی۔
دَعَت (ف) دَعَتًا سختی سے بٹانا۔ دھکے دینا۔
دَعَت (ف) دَعَتًا پاؤں یا ہاتھ وغیرہ سے مٹی
باریک کرنا۔ دَعَتَ بِهِ الأَرْضُ _____ پنگ
دینا۔
دَعَتٌ روٹنے کھڑے ہونا۔ سُتِي لَاتِحٌ ہونا۔
أَدَعَتَ فِي الشَّقِيِّ بُرَائِيٍّ میں مبالغہ کرنا۔

دَعْدَغٌ دَعْدَغَةٌ. فَلَانَا بِكَلِمَةٍ: طعن و تشفیج کرنا۔
 الدَعْدَغَةُ: پھپھیسی منگتو کرنا۔ چھپانا۔
 استبراء کرنا۔ گدگدی کرنا۔ عوام گدگدی کے لیے ”ذُكْرُوكَ وَالزُّكْرُوكَةَ“ بولتے ہیں۔
 المدْعَغُغ: حسب نسب میں عیب دار۔
 دَعْرَةٌ (ف) دَعْرًا: دفع کرنا۔ ہٹانا۔ دَعْرَتُ المَرْأَةِ حَلَقُ الصَّبِيِّ: انگلی سے دہانا۔
 الْأُمُّ إِنَّهَا: آسودگی سے کم دودھ پلانا۔ وَغَرَّ الشَّيْءُ فِي الشَّيْءِ: پلانا۔
 فِي النَّبِيَةِ: داخل ہونا۔ عَلَيْهِ: اچانک آنا۔
 دَعْرَسٌ (دَعْرًا) الزُّجُلُ: بدخلق و کینہ ہونا۔ صفت (داخلی)
 دَعْرَسٌ (دَعْرًا) دَعْرًا: دَعْرًا: لوگوں پر اچانک پہنچ جانا۔
 الدَعْرُ: پہنچ جانا۔ عَلَيْهِ: اچانک آنا۔
 الدَاغِرُ: زبیل۔ حقیر خبیث۔ مفید۔
 الدَعْرَةُ: کسی چیز کو اچک کر لے لینا۔
 المدْعَرَةُ: گھسانے کی جنگ۔
 دَعْشٌ (ف) دَعْشًا: دَعْشًا: تاریکی میں داخل ہونا۔ دَعْشًا عَلَيْهِ: اچانک آنا۔
 دَاعِشَةٌ: بھیڑ کرنا۔ حَوْلَ المَاءِ: پیاس کی وجہ سے پانی کے گرد منڈلانا۔ المَاءِ: جلدی پینا۔ فِي الشَّيْءِ: کسی چیز کو حرص کی وجہ سے کسی سے کمر سے طلب کرنا۔
 ظُلْمَةُ اللَّيْلِ: رات کی تاریکی میں بغیر کسی سستی کے چل پڑنا۔
 تَدَاعَشَ القَوْمُ (و دَعْوًا) آہیں میں گتھ جانا۔
 الدَعْشُ وَالدَّعْشَةُ وَالدَّعِيشَةُ: تاریکی۔
 دَغِصٌ (س) دَغِصًا: خوراک یا غصہ سے بھرنا۔
 دَاغِصٌ مَدَاغِصَةً: فِي العَمَلِ: جلدی کرنا۔
 أَدَغِصُهُ: غصہ سے بھر دینا۔ أَدَغِصُهُ المَوْتُ: فوراً موت کا آنا۔
 الدَاغِصَةُ: گھٹنے کی چھٹی۔ عوام اس کو صابونہ الرُّكْبَةُ کہتے ہیں۔ گٹھا ہوا گوشت۔ رقیق پانی ج

القَوْمُ عَلَيْهِ: دشمنی میں متفق ہونا۔
 اِنْدَعَى اِنْدَعَاءً لِدَعْوِيهِ: جواب دینا۔
 اِدْعَى الشَّيْءُ: حق یا باطل کا دعویٰ کرنا۔
 بِه: اپنی طرف نسبت کرنا۔ عَلَيْهِ: مقدمہ کرنا۔ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ: باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف منسوب ہونا۔ الشَّيْءُ: تینا کرنا۔ اِدْعَى فِي الحَزْبِ: حریف کے سامنے اپنا نام و نسب پیش کرنا۔
 اسْتَدْعَاهُ اسْتِدْعَاءً: پکارنا۔ الشَّيْءُ: طلب کرنا۔
 المدْعَاءُ: دعا کا مصدر۔ ج اذعية۔
 الدَعْوَةُ: پکار۔ قسم۔ اور کہا جاتا ہے ”هُوَ مِثْلِي دَعْوَةُ الرَّجُلِ“ یعنی وہ مجھ سے قریب ہے۔ اور یہ مانند (هُوَ مِثْلِي وَ مِثْلِي السُّهْمُ وَ مِثْلِي الكَلْبُ) کے ہے کہ اس کا بھی مطلب یہی ہے۔ ”وَلَهُمْ الدَعْوَةُ عَلَى غَيْرِهِمْ“ دعا میں ان سے ابتداء ہے۔ وَ كُنَّا فِي دَعْوَةِ فَلَانٍ اِم فُلَانٍ کی سمائی میں تھے۔
 () وَ الدَّعَاوَةُ الدَّعَاوَةُ: اَدْعَاءُ کے اسم ہیں۔
 المدْعُوئِي: مد۔ مقدمہ۔ دعویٰ۔ ن المدْعَاوِي وَ الدَّعَاوِي۔
 المدْعَاءُ: بہت دعا کرنے والا۔
 الدَّعَاءَةُ: انگشت شمارت۔
 الاذعية وَ الاذعية: جیتاں بیٹی۔
 الدَّعِي: لے پالک۔ وہ شخص جس کے نسب میں شبہ ہو۔ غیر باپ یا غیر قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا۔ ج اذعية۔
 الدَّاعِي: فا۔ لوگوں کو اپنے دین و مذہب کی طرف بلانے والا۔ ج دَعَاةٌ: مؤنث ذاعية ج ذاعيات وَ ذواع () وَ الدَّاعِيَةُ: سبب۔ ج الدَّواعِي: داعی اللہ: دودھ کا وہ حصہ جو حق میں چھوڑ دیا جائے تاکہ بقید دودھ آسانی سے دوبا جاسکے۔ وَ ذواعِي الصدر: فگر و نم۔ وَ ذواعِي الدهر: زمانہ کی گردشیں۔
 المدْعَاءَةُ: کھانے کی دعوت۔ سبب۔
 دَعَّتْ (ف) دَعْتًا: گلا گھونٹ کر مار ڈالنا۔
 الدَّعْفَرُ: بیوقوف۔

اِدْعَمَ: ٹیک لینا۔
 تَدَاعَمَ: الامر فلانا: بھوم ہونا۔
 الدبعمۃ: ج دَعَمٌ وَ (الدبعمۃ) ج دَعَمٌ وَ (الدبعمۃ) ج دَعَمَانِ: ستون۔ کھمبا۔ گڑی کا ستون جو چھپر کیلئے کڑا کیا جائے۔ الدبعمتان وَ الدبعمتان: چرفی کے دونوں طرف کے ڈنڈے دعامۃ القوم: رکیں قوم۔
 الدغمی: کوئی چیز جس میں مضبوط سارا لگا ہوا ہو۔ راستہ کا برا حصہ۔
 فَرَسٌ (و دَعْمٌ) سینہ میں سفیدی والا گھوڑا۔
 المدعَم: جائے پناہ۔
 دَعْمَصُ: المَاءُ: بہت سیاہ کیڑوں والا ہونا۔
 الدَعْمُوصُ: پانی کا سیاہ کیڑا جو تالابوں میں پانی کم ہو جانے پر ظاہر ہوتے ہیں اور عوام اس کو (البلعط) کہتے ہیں۔ ج دَعْمِصٌ وَ دَعْمِصٌ۔
 دَعْنٌ (ف) دَعْنًا: شوخ و بیباک ہونا۔
 الدِغْنُ: شوخ و بیباک۔ ج دَعْنَةٌ۔
 الدِغْنُ: بد خو بد نذا۔
 الدِغْنُ: گھجور کے پتے جن کو رشتی سے بن کر اس پر گھجور پھیلاتے ہیں۔
 دَعَا (ن) دُعَاءً وَ دَعْوَى: ہ: پکارنا۔
 رغبتم کرنا۔ مد طلب کرنا۔ ہ الی الامر: کسی کام کی طرف لے جانا۔ ہ: حاضر ہونے کو کہنا۔ دَعَا فُلَانًا وَ یُقَالُ لَی: نام رکھنا۔
 المِیْتُ: بین کرنا () ہ: دَعْوَةٌ وَ مدْعَاءٌ: دعوت کھانے کیلئے پلانا () دَعَاءٌ: لَه: دعا کرنا۔ عَلَيْهِ: بد دعا کرنا۔
 اَلِیْہ: کسی چیز کی طرف پلانا۔
 دَاعَاةٌ مَدَاعَاةً: جھگڑا کرنا۔ باہم پہیلی کتنا۔ الحائط: بگڑنا۔
 اَدْعَاءُ اِدْعَاءً: غیر باپ کی طرف منسوب کرنا۔
 تَدَعَّتْ تَدْعِيًا: التَّايِبَةُ: نوحہ کرنے میں آواز کو بلند کرنا۔
 تَدَاعَى: العَدُوُّ: متوجہ ہونا۔ القَوْمُ: ایک دوسرے کو بلانا۔ تَدَاعَا الشَّيْءُ: دعویٰ کرنا۔ تَدَاعَبَ الحَيَاطَانُ: فلکت و دیران ہونا۔

(الذَّف) ایک قسم کے باجہ کا نام۔ ج ذُفوف۔

الذَّفَّة۔ ہرجز کا پہلو۔ ذَفْنَا الظبيل: دھول کے دونوں طرف کے چڑے۔ پتوار (آخر معنی میں کلمہ مولدہ ہے۔ اس کے لیے فصیح لفظ الشَّكَّان ہے)

الذَّفَاة۔ دشمن کی طرف مارچ کرنے والی فوج۔ لوگوں کی جماعت جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہوتی رہے۔

الذَّفَاف۔ دف بجانے والا۔ دف بنانے والا۔ اقرب الموارد میں بحوالہ لسان العرب ہے کہ دقاف مالک دف کو مدقّف بنانے والے کو اور مدقّف دف بجانے والے کو کہتے ہیں۔

الذَّفُوف۔ مِنَ الظنير: کسی چیز پر ٹوٹ پڑنے وقت زمین سے قریب ہونے والا پرندہ۔

ذَفِيقٌ يَذْفُ ذَفَاً وَذَفْوَةً اَوْ ذَفُوً يَذْفُو ذَفَاةً۔ مِّنَ التَّبَدُّدِ: گرم ہونا۔ گرمی محسوس کرنا۔ ذَفَاةً: گرم کرنا۔

أَذْفَاةً: گرم کپڑا پہنانا۔ بہت دینا۔ گرم کرنا۔

الذَّجْرِيخُ: فوراً مار ڈانا۔ القَوْمُ: جمع کرنا۔

تَذَفَّأً وَاذْفَأً وَاِسْتَذَفَّأً: گرم کپڑا پہننا۔ گرم ہونا۔

الذِّفَاءُ: سخت گرمی۔ ج اذْفَاء۔ اونٹوں کی پیداوار اور جو اس سے نفع حاصل ہو۔

عَلِيَّةٌ ذِفَا الحَائِطِ: دیوار کی اوٹ۔ کہا جاتا ہے "أَفْعِدْ فِي ذِفَا الحَائِطِ" وہ دیوار کی اوٹ میں بٹھایا گیا۔ گرم کپڑے۔ گرمی حاصل کرنے کا سامان۔ تم کہتے ہو "مَعَا عَلِيَّةٌ ذِفَاً" اس پر گرمی حاصل کرنے کا کوئی سامان نہیں۔

الذَّفَاةُ: کندھے کا سینہ کی طرف جھکانا۔

الذِّفَاءُ: گرمی حاصل کرنے کا سامان۔ (کپڑا وغیرہ)

الذِّفِيقُ الذِّفِيقُ: گرمی حاصل کرنے والا۔ گرم کپڑے پہننے والا۔ مؤنث ذَفِيقَةٌ وَذَفِيقَةٌ. الذِّفِيقَةُ مِّنَ الْأَرَاضِي: گرم زمین۔

الذَّفَائِي: بہاری کی آخری بارش۔

الذَّفَانُ: گرمی حاصل کرنے والا۔ مؤنث

سے صرفیوں کی اصطلاح ادعاقم (ایک حرف دوسرے حرف میں شامل کرنا) ہے۔

إِدْعَاةٌ: الفَرْسُ (إِدْعِيْمًا) بقیہ جسم سے منہ کا زیادہ سیاهی مائل ہونا۔ صفت (أَذْعَم)

الذَّعْمُ وَالذَّعْمَةُ: گھوڑے کا رنگ جس کا منہ پائی جسم سے زیادہ سیاهی مائل ہو۔

الْأَذْعَمُ: کالی ناک والا۔ ناک میں بولنے والا۔ ج ذُعْم۔

الذَّعَامُ: حلق کارور۔

ذُعْمَةٌ ذُعْمَةٌ: عیب لگانا۔ الشَّيْ: ملانا۔ الرَّجُلُ: بد خلق ہونا۔

الذَّعْمِيُّ وَالذَّعْمِيُّ: برے بھلے طے جلے اخلاق والا۔ الرَّجُلُ (ذُعْمُو) مرد بد خو۔

الذَّعَامِرُ: قوم کے گھنیا درجہ کے لوگ۔

الذَّعْمُورُ: پوشیدہ۔

ذُعْمَشٌ فِي المَشْيِ: تیز چلنا۔

الذَّعْمُورُ: بد خو۔

ذَعْنٌ (ن) ذَعْنًا. اليَوْمَ: باہل والا ہونا۔

الذَّعْنَةُ: گھناؤپ بادل۔

الذَّعْنَسُ: ایک قسم کا پرندہ جو چیزیا کے مشابہ ہوتا ہے۔

الذَّعْوَةُ وَالذَّعْيَةُ: بڑی عادت۔ ج ذُعْوَاتٍ وَذُعْيَاتٍ۔

ذَفٌّ (ض) ذَفًّا وَذَفِيْفًا: آہستہ چلنا۔ لَهُ الْأَمْرُ: تیار ہونا۔ ممکن ہونا۔ الظَّائِرُ: پرچہ پھڑکانا۔

ذَفٌّ (ض) ذَفًّا. الشَّيْ: جڑ سے اکھیرنا۔

ذَفَّفٌ وَذَفٌّ: جلدی کرنا۔ ذَفَّفَ الجَرِيخُ وَذَفَّفَهُ وَذَفَّفَ عَلَيْهِ: پوری طرح سے فوراً مار ڈانا۔ وَذَفَّفَ الرَّجُلُ: دف بجانا۔

أَذَفَّ إِذْفَاةً. الظَّائِرُ: پرچہ پھڑکانا۔ أَذَفَّتْ عَلَيْهِ الْأُمُورُ: بے درپے آنا۔ (وَتَذَفَّفَ) القَوْمُ: ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہونا۔

إِسْتَذَفَّ. الظَّائِرُ: زمین کے قریب اڑنا۔ الْأَمْرُ: درست ہونا۔ پورا ہونا۔ الرَّجُلُ بِالْمَوْسَى: آستر سے موٹنا۔ الذَّفُّ: ہرجز کا پہلو۔ کہا جاتا ہے "رَمَاهُ اللَّهُ بِذَاتِ الذَّفِّ" اللہ اس کو نمونیا میں مبتلا کرے۔

ذَوَاعِصُ۔ الذَّعْصَانُ: غھبناک۔

ذَعَفٌ (ف) ذَعْفًا. الشَّيْ: سختی سے پکڑنا۔

ذَعَفَهُمُ الحَرُّ: گرمی کا زیادہ ہونا۔

أَبُو الذَّعْفَاءِ: بیوقوف۔

الذَّعْفَرُ: موٹا شیر۔

الذَّعْفَصَةُ: موٹائی۔ گوشت کی زیادتی۔

ذَعْفَقٌ ذَعْفَقَةً. المَاءُ: بہت گرانا۔

المَطْرُ: سخت برسا۔ عیش (ذَعْفَقُ) آسودہ زندگی۔

الذَّعْفَلُ: ہاتھی یا بھیرے کا بچہ۔ بہت سے پر۔

عَيْشٌ ذَعْفَلِيٌّ: آسودہ زندگی۔ عَامٌ ذَعْفَلِيٌّ: سرسبز سال۔ فرامی کا سال۔

ذَعْلٌ (ف) ذَعْلًا. فِيهِ: متمم کی طرح داخل ہونا۔

أَذْعَلُ. الرَّجُلُ: درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو کر چھپ جانا۔ الْأَرْضُ: گنجان درختوں والی ہونا۔ بہ: خیانت کر کے اچانک مار ڈانا۔ چغل خوری کرنا۔ الشَّيْ: تباہ کن چیز ملادینا۔

الذَّعْلُ: ج اذْعَالٌ وَاذْعَالٌ (وَالذَّعِيْلَةُ) درختوں کا جھنڈ۔ فسادو تباہی۔ خوف و ہلاکت کی جگہ۔

مکان (ذَعْلٌ) گنجان درختوں والی جگہ۔ پوشیدہ۔

الذَّاعِلَةُ: باطنی کینہ۔ کسی کے عیوب و خیانت تلاش کرنے والے لوگ۔

الذَّعَالُ: مصیبتیں (مع ہے بغیر واحد کے)

الذَّعْلُ: وادی کا درمیانی حصہ۔ ج مَدَاغِلُ ذَعْمَهُمْ وَذَعْمَهُمْ (ف س) ذَعْمًا وَذَعْمَانًا. الحَرُّ أَوِ التَّبَدُّدُ: گرمی یا سردی کا پڑنا۔

ذَعْمٌ أَنْفَهُ: توڑنا۔ ذَعْمٌ الْإِنَاءُ: ڈھانپنا۔

أَذْعَمَ. اللَّهُ فَلَانًا: سیاہ رو کرنا۔ ذیل کرنا۔

أَذْعَمَهُمُ الحَرُّ أَوِ البَرُّ: گرمی یا سردی کا پڑنا۔ الفَرْسُ اللَّيْحَامُ: لگام لگانا۔ أذْعَمَهُ الشَّيْ: ممکن کرنا۔ أذْعَمَ الرَّجُلُ: لقمہ کو بغیر چبانے ہوئے لگانا۔ (وَأَذْعَمَ) الشَّيْ فِي الشَّيْ: ایک چیز کو دوسری میں داخل کرنا۔ اسی

ذَفَّأَى - الأَذْفَاءُ: وہ شخص جس کا کندھا سینہ کی طرف جھکا ہوا ہو۔ مؤنث ذفائی۔ الأَذْفَاءُ: مرد خیمہ نشین۔

أَرْضٌ مَذْفُومَةٌ (مذفوعہ) گرم زمین۔

إِبِلٌ مَذْفِيئَةٌ وَمَذْفَاءَةٌ وَمَذْفِيئَةٌ وَمَذْفَاءَةٌ: بہت اون اور چربی والا اونٹ۔

الْمَذْفُورُ: رجسز کالی۔ ج ذفایر۔

ذَفَّذَفَ: جلدی کرنا۔ الطائِرُ: زمین سے قریب اڑنا۔ الذَّفُوفُ: جلدی جلدی رفت جانا۔

ذَفْرَةٌ (ذ) اذفوا: سینہ میں مار کر ہٹانا۔

ذَفُورٌ (س) اذفوا: ذفوا: ڈیل ہونا۔

الْمَذْعُمُ: کبڑے پڑنا۔ الشَّيْءُ: بدبودار ہونا۔ صفت (ذفیر و اذفر) مؤنث۔ ذَفْرَةٌ وَمَذْفَرَةٌ: کھینچنے ذفواء: لنگر جس سے لوہے کے زنگ کی بو آئے۔

أَذْفَرُ: الرجلُ: تیز کندہ بغل ہونا۔

الذَّفْرَمُ: بدبو۔

ذَفَارٌ: مَبْنِيٌّ عَلَى الْكَنْسَرِ بِرُوزْنِ قَطَامٍ: دنیا لوٹنی (یہ کلمہ لوٹنی کے لیے گالی کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ اور اکثر نداء کے موقع پر آتا ہے) أَمْ ذَفَارٍ وَأَمْ ذَفْرٍ: دنیا۔ مہینت۔

إِذْفَسَ إِذْفَسَامًا: الرجلُ: بغیر بیماری کے چہرہ کھلا پڑنا۔

ذَفَضَ (ض) ذَفَضًا: کھلے کھلے کرنا۔

ذَفَطَسَ: الرجلُ: اپنا مال ضائع کرنا۔

ذَفَعَهُ (ف) ذَفَعًا وَذَفَاعًا وَمَذْفَعًا: ہٹانا۔ دور کرنا۔ ذَفَعَهُ فِي كَثَدًا: براصل کرنا۔

إِلَيْهِ الشَّيْءُ: ادا کرنا۔ الْقَوْلُ: دلیل سے باطل کرنا۔ هَ إِلَى كَثَدًا: مجبور کرنا۔ عَنَهُ الْأَدَى: بچانا۔ محفوظ کرنا۔

عَنِ الْمَوْضِعِ: کوچ کرنا۔ جھوڑنا۔ إِلَيْهِ: بچنا۔ کہا جاتا ہے "ظَرِيقٌ يَذْفَعُ إِلَى مَكَانٍ كَثَدًا" راست جو فلاں جگہ تک پہنچتا ہے۔

ذَفَعَ: إِلَى الْمَكَانِ: بچنا۔

ذَافَعَهُ مَذَافَعَةً وَذَفَاعًا: مزاحمت کرنا۔ عَنَهُ: حمایت کرنا۔ مدد کرنا۔ عَنَهُ الْأَدَى:

بٹانا۔ دور کرنا۔ ذَافَعَهُ عَنْ حَقِيْقِهِ: مال مثل کرنا۔

تَذَفَعَ: السَّيْلُ: زور سے بہنا۔

إِنْدَفَعَ: السَّيْلُ: زور سے بہنا۔ الفَرَسُ فِي سَبِيْرِهِ: تیز دوڑنا۔ الرجلُ فِي الْحَدِيْثِ: بات چیت میں مشغول ہونا۔ اِنْدَفَعَ يَقُوْلُ: کہنے لگنا۔ اِنْدَفَعَ الرَّجُلُ: ہٹنا۔

تَذَفَعَ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو ہٹانا۔ تَذَافَعُوا الشَّيْءُ: ہر ایک کا دوسرے کے ذمہ ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "صَبِيْفٌ يَتَذَفَعُ الْخَمِيْرَ" مسان جس کو قبیلہ کے لوگ ایک دوسرے کے ذمہ ڈالتے ہیں۔

اِسْتَدْفَعَ: اللّٰهُ الشَّرَّ: شکر کو ہٹانے کی دعا کرنا۔

الذَّفْعَةُ: دفع کا اسم مرہ۔

الذَّفْعَةُ: بوجھار۔ برتن یا ٹھک سے جتنا ایک مرتبہ گرے۔ ج دفع و ذفعات۔

الذَّفَوَاعُ: شیب زمینیں جہاں سیلاب کا پانی جمع ہو جائے۔

الذَّفْوَعُ: بہت ہٹانے والا۔ مَنَ الذَّوَابِ: ہلات مارنے والا۔

الذَّفَاعُ: بہت دفع کرنے والا۔

الذَّفَاعُ: موج یا سیلاب کا زور۔ بہت لوگ کہا جاتا ہے "جَاءَ فِي ذَفَاعٍ مِنَ النَّاسِ" وہ بہت لوگوں میں آیا۔

الْمَرْحُ: پانی پینے کی جگہ۔ ج مَدْفِعُ: المِذْفَعُ: ہٹانے کا اوزار۔ توپ۔ ج مَدْفِعُ: المِذْفَعُ: بہت دفع کرنے والا۔

الْمُذْفَعُ: ہر جگہ سے دھتکارا ہوا فقیر۔

ذَفَقَ (ض) ن) ذَفَقًا: المَاءُ: زور سے گراتا۔ اللّٰهُ زُوْحَهُ: موت دینا۔ الكُوْرُ: گرا کر خالی کر دینا۔

ذَفَقَ (ن) ذَفَقًا وَذَفُوقًا: المَاءُ: گراتا۔ اَلْتَّهْوُ: بھر کر بہنا (جسور کے نزدیک اس کا استعمال صرف متحری ہی کی صورت میں ہوتا ہے)۔

ذَفَقَ: ذَفَقَ كَمَا بَعْدَ: کہا جاتا ہے "ذَفَقَتْ كَفَّاهُ الْعُقَاةُ" یعنی اس کے دونوں ہاتھوں نے بہت زیادہ بخشش کی۔

أَذْفَقَ: الكُوْرُ: گرا کر خالی کر دینا۔

تَذَفَّقَ وَاسْتَدْفَقَ: المَاءُ: گراتا۔

الذَّابَةُ: تیز دوڑنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَتَذَفَّقُ فِي

الْبَاطِلِ" فِلاں باطل میں سبقت کرتا ہے۔

اِنْدَفَقَ وَاسْتَدْفَقَ: المَاءُ: گراتا۔

الذَّفْعَةُ: ایک دفعہ۔ یکبارگی۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ وَادْفَعًا" وہ سب یکبارگی آگئے۔

سَيْلٌ ذَفَاقٌ: بہت زیادہ سیلاب جو وادی کے دونوں کناروں کو بھر دے۔

الأَذْفَقُ: تیزھا۔ فکر یا بڑھاپے کی وجہ سے خیدہ کر۔ سَبِيْرٌ أَدْفَقٌ: تیزھا۔ مؤنث ذَفَقَاءُ۔

الذَّفِيقِيُّ: تیز حال۔ کہا جاتا ہے "مَشَى الذَّفِيقِيُّ: وہ تیزھا چلا۔ () وَالذَّفِيقَةُ: تیز رفتار اونٹنی یا گھوڑا۔

الذَّفَلُ: قطران (دیکھئے قطران) زفت (ایک دوا کا نام) کثیر۔

الذَّفَلِيُّ: کثیر۔ ایک جماعت کے نزدیک الف الحاق کا ہے اس لیے اس پر تخمین آتی ہے اور دوسروں کے نزدیک تاسیف کا اس لیے تخمین نہیں آتی۔

ذَفَقَ (ض) ذَفَقًا: المَيْتُ: گاڑنا۔ دفن کرنا۔

المَحْدِيْثُ: چھپانا۔ الأَبْلُ: تیز دوڑنا۔ الأَبْلُ: تیز دوڑنا۔

تَذَفَّقَ وَانْدَفَقَ: چھپانا۔ الأَبْلُ: تیز دوڑنا۔

إِدْفَقَ: العَبْدُ: آقا کے خوف سے بھاگنا۔

صفت (ذَفَقَن) الشَّيْءُ: چھپانا۔

تَذَفَقَ: الْقَوْمُ: پیام چھپانا۔

ذَافِقٌ: الأَمْرُ: کسی معاملہ کا اندرونی حصہ۔

الذَّفَقُ: مہ۔ دفن کیا ہوا۔ ج أَدْقَانٌ: مدفون زمین۔ ج ذَفَقٌ: رجلٌ ذَفَقٌ: گناہ و بے قدر مرد۔

ذَاءٌ (ذَفَقٌ وَذَفِقٌ) پوشیدہ بیماری جس کے ظاہر ہونے سے خرابی بڑھ جائے۔

الذَّفِيقَةُ: گاڑا ہوا۔ گاڑا ہوا خزانہ۔ ج ذَفَقَاتِنُ: کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَبِيْرُ الذَّفَقَاتِنُ" فِلاں بڑا عالم ہے۔

الذَّفِيقِيْنِ: دفن کیا ہوا۔ چھپا ہوا۔ ج ذَفَقٌ وَذَفَقَاتِنٌ وَأَدْقَانٌ: حوض۔ رَکِيْعَةٌ ذَفِيقٌ: دفن شدہ کنواں۔ اِمْرَأَةٌ ذَفِيقٌ: پوشیدہ عورت۔ ج ذَفِيقِيْنِ: ذَاءٌ ذَفِيقِيْنِ: پوشیدہ بیماری جس کے ظاہر

ہونے سے خرابی بڑھ جائے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ذَقْنُ الْمُرْوَةِ أَوْ ذَقْنُ الْمُرْوَةِ" وہ بے مروت ہے۔

الدَّفَانُ مِنَ الزَّكَايَا۔ مٹی سے بنا ہوا انوکھ ج ڈفن۔ کہا جاتا ہے "مَاءٌ دَفَانٌ" پوشیدہ پانی۔
الدَّفَائِنُ کشتی کے تختے۔ واحد (د فان)
الْمَدْفُونُ گاڑنے کی جگہ۔

الدَّفِيسُ وَالدَّفِنَاَسُ۔ کینڈو بیوقوف۔ بخیل۔
مِنَ النِّسَاءِ: بیوقوف۔ بھاری جسم کی عورت۔
الدَّفِيفَةُ۔ مسافر۔

دَقَانٌ (ن) دَقُوْا وَدَاقِيْ مَدَافَاةٌ وَادْفِيْ اِدْفَاةٌ۔
الجَرِيْحُ: فوراً مار ڈالنا۔ وَادْفِي الطَّبِيْبِي: لے
سینگوں والا ہونا۔

تَدَاةٌ: تھلائی کرنا۔
الدَّفَاءُ: خمیدگی۔

الأدْفَى: خمیدہ۔ مؤنث دَفْوَاءٌ: ظاہر ادْفَى:
لے بازوؤں والا برہنہ۔ ناقہ دَفْوَاءٌ: لمبی گردن
والی اونٹنی۔ شَجَرَةٌ دَفْوَاءٌ: بواورخت۔ عَقَابٌ
دَفْوَاءٌ: شیرھی جو بچ والا عقاب۔

دَقُّ (ض) دِقَّةٌ باریک ہونا۔ چھوٹا ہونا۔ دقیق و
دشوار ہونا۔

دَقُّ (ن) دَقَا۔ الشَّيْءُ: توڑنا۔ البابُ:
کھٹکھٹانا۔ الشَّيْءُ: ظاہر کرنا۔ الشَّيْءُ
عَلَى الشَّيْءِ اَوْ بِالشَّيْءِ: کوٹنا۔

دَقَّقَ۔ الشَّيْءُ: بہت باریک کرنا۔ آٹا کرنا
_____ فی الحِسَابِ وَغَيْرِهِ: باریک بینی سے
کام لینا۔

إدْفَعُ إِدْفَاعًا: باریک کرنا۔ الرَّجُلُ:
کبری دینا۔ کہا جاتا ہے "أَتَيْتُهُ فَمَا أَدْفَعِي وَلَا
أَجْلِيْنِي" میں اُس کے پاس آیا تو اُس نے نہ تو
تھوڑا دیا نہ زیادہ۔ أَدَقَ الرَّجُلُ: کھل کی وجہ سے
معمولی چیز کے پیچھے پڑنا۔

ذَاتِقَةٌ مُدَقَّةٌ۔ الحِسَابُ فِي الحِسَابِ:
غور سے جانچ کرنا۔

إِنْدَقُ إِندَقَاةً: باریک ہونا۔ اِنْدَقْتُ عُنُقَهُ:
ٹوٹا۔

تَدَاقُ الرَّجُلَانِ: باریکی میں مقابلہ کرنا۔
اِسْتَدَقُ اِسْتِدْقَاةً: پتلا و باریک ہونا۔ اور اسی

سے ہے "اِسْتَدَقَ الْهَلَالُ" ہلال باریک ہے۔

الدَّقِيُّ: باریک ٹھوڑا۔ اور اسی سے ہے
"أَخَذَتْ دِقَّهُ وَجِلَّهُ" میں نے قلیل و کثیر سب
لے لیا۔ حُصْنِي الدَّقِي: وق کا ٹھارہ۔

الدَّقَّةُ: دق کا اسم مرہ۔
الدَّقَّةُ: کوٹنے کی بہت۔ حسرت۔ چھوٹائی۔ باریکی
اور اسی سے ہے "دِقَّةُ الْمَعَانِي" معالی کی باریکی۔
الدَّقَّةُ: باریک خاکے۔ مصالے۔ نمک۔ دھنیا۔
خوبصورتی۔

الدَّقَاقُ: چورہ۔ آٹا _____ وَالدَّقَاقَةُ: باریک
خاک جس کو ہوا اڑائے۔ دُقَاقُ الْعِيدَانِ
وَ دِقَاقُهَا: چھٹی۔

الدَّقِيقُ: باریک۔ آٹا۔ مشکل معاملہ۔ تھوڑا ج
أَدِقَّةٌ وَادْقَاءٌ۔ مؤنث دَقِيقَةٌ۔

الدَّقِيقَةُ: دقیق کا مؤنث۔ منٹ۔ درجہ کا
ساموں حسرت۔ ج دَقَاقُ۔ الدَّقِيقَةُ: بکریاں۔ کہتے
ہیں "كَمْ دَقِيقَتِكَ" تمہاری بکریاں کتنی ہیں؟

الدَّقَاقُ: بہت کوٹنے والا۔ آٹا پیچنے والا۔
الدَّقَاقَةُ: کوٹنے کا اوزار۔

المِدْقُ وَالمُدْقُ: ج مَدَقٌ وَ(المِدْقَةُ) کوٹنے
کا اوزار۔

المُدْقَةُ: تیسرہ۔ باریک کوٹا ہوا گوشت۔
المُدْقُوقُ: دق کے بخار والا۔

مُسْتَدَقٌ: المساجِدُ۔ گلابی کا پتلا حسرت۔
مُسْتَدَقٌ كُلُّ شَيْءٍ: ہر چیز کا باریک و پتلا حسرت۔
دَقْدَقُ: القاصُ: شور مچانا۔

الدَّوَابُّ: سہم کی آواز سنانی دینا۔
دَقْرُ (س) دَقْرًا: شکم سیر ہونا۔ المَكْنَانُ:
سبزہ زار ہونا۔ التَّبَاتُ: زیادہ ہونا۔

الرَّجُلُ: شکم پڑی کی وجہ سے تے کرنا۔
الدَّقْرُ وَالدَّقْرَةُ وَالدَّقْرِعُ وَالدَّقْرِيُّ: سرسبز و
خوبصورت باغ۔

أَرْضٌ (دَقْرَاءٌ) سرسبز و نمناک زمین۔
الدَّقْرَانُ: کڑی جس پر انگور کی تیل چڑھائی
جائے۔ واحد دَقْرَانَةٌ۔

الدَّقْرَةُ: بجز زمین جو پھاڑوں کے درمیان ہو۔
الدَّقْرَارُ: جا کھیا۔ ج دَقْرَانِيْرُ۔

الدَّقْرَاةُ: چھٹی۔ بڑی عادت۔ جھگڑا۔ ج

دَقْرَانِيْرُ: کہا جاتا ہے "جَاءَ بِالدَّقْرَانِيْرُ" وہ صحیح
قسم کی چھوٹی چیزیں لایا۔ جا کھیا۔ پانچواں۔ رَجُلٌ
دَقْرَاةٌ: چھٹل خور۔ بہت قد۔

الدَّقْرَانِيْسُ: لومڑیاں۔
دَقَسَ (ن) دَقَسْنَا وَدَقُوسًا: فِي الْبِلَادِ:
گھس جانا۔ الوْتَدُ فِي الْأَرْضِ: گڑ جانا۔
_____ البِنْرُ: بھرتیا۔

المِدْقَسُ: ریشم۔
الدَّقْسَةُ: ایک چھوٹا سا جانور ہے۔

دَقَعَ (س) دَقَعًا: تھوڑے سے گزارہ پر راضی
ہونا۔ زلت اور فقر کی وجہ سے خاک نشین ہونا۔
أَدَقَعَهُ: محتاج بنادینا۔ ذلیل کرنا۔

أَدَقَعَ بِهِوَالْيَدِيْنِ الشَّمْعُ وَخَوَهُ: گل ریشے
میں مہاندہ کرنا۔ أَدَقَعَ الرَّجُلُ: مٹی میں مہا ہوا
ہونا۔

الدَّقِيعُ: فارغیہ۔ تھوڑی کمالی کا طالب۔
الأَدَقِعُ: مٹی۔ جُوعٌ أَدَقِعُ: سخت بھوک۔
الدَّقَاعُ وَالدَّقَاعُ وَالدَّقِيعُ: مٹی (دَقِيعٌ میں
سیم زائد ہے)

الدَّقِيعَاءُ: مٹی۔ بجز زمین۔
کہا جاتا ہے "زَأَيْتُ الْقَوْمَ" (صَفَقِي دَقِيعِي)
میں نے قوم کو خاک نشین دیکھا۔

الدَّقِيعُ: سخت بھوک۔
الدَّقِيعَةُ: فقیری۔ زلت۔

المُدْقِعُ: زمین پر پتک دینے والا۔ ذلیل۔
بھاگنے والا۔ ذللاً۔ جُوعٌ مُدْقِعٌ: سخت بھوک جو
زمین پر گراوے۔

المِدْقَاعُ: لاپچی۔ تھوڑے پر راضی ہونے
والا۔ ج۔ مَدَقِيعٌ۔

دَقَلَهُ (ن) دَقَلًا: منع کرنا۔ ہار کھنا۔ محروم کرنا۔
تاک یا سُنہ پر مارنا (دَقُولًا) عاقب ہونا
_____ فِينَهُ: داخل ہونا۔

أَدَقَلَ: التَّخَلُّ: رومی کھجور والا ہونا۔
_____ الرَّجُلُ: کمزور پختہ والا ہونا _____
الشَّاةُ: دلی و کمزور ہونا۔ صفت مُدْقَلٌ۔

الدَّقَلُ: رومی کھجور۔ یادیاں کا ڈنڈا۔ کہا جاتا ہے
"أَزَّ الدَّقَلُ مِنَ الدَّقَلِ وَأَنْتَ تَتَشَوَّرُ كَلَامَكَ"
نظر الدَّقَلُ" میں تم کو دیکھتا ہوں کہ یادیاں کے

ڈھرنے سے بھی زیادہ لمبے ہو اور گھنگو روئی قسم کی کرتے ہو۔

الذقل جسم کی اتوانی۔

الذقلو الذقلو والذقلو ذلیلی تلی بکری حج ذقال وذقائل۔

ذقمة (ن) ذقمتا اچانک سینہ پر مار کر دھکا دینا۔
وانت توڑنا۔ الریح علیہ: ہوا کا آنا۔

ذقیم (س) ذقیمتا اگلے دانتوں کا گرنا۔ صفت ذقیمو اذقیم۔

اذقیم فہا: اگلے دانتوں کو توڑنا۔

الذقیم سخت غم۔

الذقیمۃ منہ کا اگلا حصہ۔

الذقیم نقصان۔

الذقیمس ریشم۔

ذقن (ن) ذقنتا فی لحمی الزجل: ٹھنڈی پیر مکا مارنا۔ ذقنتہ منع کرنا یا زکھنا۔ محروم کرنا۔

ذک (ن) ذکنا الحایظ: دیوار گرا کر زمین کے برابر کرنا۔ الأرض: ہموار کرنا۔

الذواب: مٹی کوٹ کر ہموار کرنا۔ البینت: کونئیں کو مٹی وغیرہ ڈال کر پاننا۔ الذواب علی المیت: میت پر مٹی ڈالنا۔

دینا۔ الذابۃ فی السیر: جانور کو تھکانا۔ کہا جاتا ہے "ذکت الحمی الزجل" بخار نے مرو کو کمزور کر دیا۔

ذک مریض ہونا۔

ذکک الشئی بالشئی: ملانا۔ مخلوط کرنا۔

إنذک: ہموار ہونا۔ الزجل: ریت کا بتہ ہونا۔ السینام: کوبان کا پیٹھ کے برابر ہونا۔

ذک الذک: غلیبہ القوم: بھیڑ کرنا۔

الذک: ہ۔ ہموار زمین۔ ہموار جگہ۔ حج۔ ذمؤک۔

الذک حج ذمؤک و الذمؤک حج ذمؤک ات۔ نرم مٹی کا پیٹھ۔ نرم پہاڑ۔ الذمؤک: پست کوبان کی اونٹنی۔

الذمؤک ازارینہ: صحیح لفظ التکؤہ ہے۔

الذمؤک: ہموار ریگستان۔ بیٹھے یا کرسی رکھنے کے لیے چھو ترہ۔ حج ذمؤک۔

الذمؤان۔ دکان۔ چھو ترہ۔ حج ذمؤکین۔

الذمؤاک: بہت روندنے والا۔ بہت کوٹنے والا۔

الاذک: چوڑی پیٹھ والا چھوٹا گھوڑا۔

بغیر کوبان کا اونٹ۔ اور اس سے اسم (الذکک) ہے۔ حج ذک و ذمؤک مؤنث ذکاء۔ یوم أو مشہر او حؤل (ذکینک) پورا دن یا مینہ یا سال۔

المذک: مضبوط و قوی زمین کو سخت روندنے والا امر۔ ہموار کرنے کا اوزار۔

أمۃ (مدکۃ) کام کرنے میں قوی باندی۔

ذکذک الخفوة: گڑھے کو مٹی سے بھر دینا۔

ذکذک کث۔ الجبائل: گرنا۔

الذکذک والذکذک: حج ذکذک و (الذکذک) حج ذکذکینک: سخت زمین۔

ذکس (ن) ذکسنا الشئی: بھرتا۔

ذکس (س) ذکسنا الشئی: نہ بتہ ہونا۔

أذکس المکان: سبزی ظاہر ہونا۔

الذکسۃ: من الناس لوگوں کی جماعت۔

الذاکس۔ فا۔ چھینک وغیرہ سے بدفالی۔

الذاکس من الظباء: وہ ہرن جو پیچھے سے آئے اور اس سے بدفالی لیا کرتے تھے۔

الذکاس: اونگھ۔

الذوکس۔ شیر۔ بہت چوپائے اور کیریاں۔

ذکل (ن) (ض) ذکلا۔ الطین: لینے کے لیے ہاتھ سے مٹی جمع کرنا۔ الشئی: روندنا۔

ذکل الذابۃ: جانور کو مٹی میں لوٹانا۔

تذکل۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ غلیبہ: ناز کرنا۔ عتہ: دیر کرنا۔

الذکلة۔ پتلا گارا۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے لوگ۔

الاذکل۔ سیاہی مائل۔

الذکجل۔ روندنا ہوا۔

الذکالی۔ شیطان کا نام۔ ایک لغت "غم وال بھی ہے۔

ذکم (ن) ذکنا۔ الشئی: بعض کو بعض پر کوننا۔ ہفتی صذره۔ سینہ پر مار کر بھٹانا۔ فہا أو آنفہ: منہ یا ناک توڑنا۔ المرأة: مناع کرنا۔

ذکمۃ فی الشئی: داخل کرنا۔ ہ فی

زاسبہ: سر میں سینگ سے مارنا۔

تذاکم القوم: ایک دوسرے کو بھٹانا۔

الذکمة۔ سیاہی مائل رنگ۔

ذکن (ن) ذکنا و ذکن۔ المناع: نہ بتہ رکھنا۔ ذکن الذکآن: دکان لگانا۔

ذکین (س) ذکنا۔ سیاہی مائل ہونا۔ صفت (أذکن) مؤنث ذکنا۔ حج ذکن۔

الذوب: میلنا اور ڈال دینا۔

الذکنة۔ سیاہی مائل رنگ۔

الذمؤان۔ دکان کا چھو ترہ۔ حج ذمؤکین (کلمہ فارسی ہے)

الذمؤانی۔ دکان والا۔

ذله (ن) دلالة و ذلولة و ذلیلی۔ الی الشئی و علیہ: راستہ دکھانا۔ رہنمائی کرنا۔ ا۔

(ض) ذلا و ذلا و ذل (س) ذللا ناز و نخره کرنا۔ المرأة علی زوجهها: بناوٹی مخالفت کرنا۔

الزجل: فخر کرنا۔ اپنی داد و دوش کا احسان جتانا۔

أذل إذلالاً۔ علیہ: محبت پر بھروسہ کرنا۔ اور اسی سے ہے "أذل فامل" اس نے محبت پر بھروسہ کیا اور طول کر دیا۔ ذیری کرنا۔

علی أقرابه: اوپر سے دیا لینا۔ التازی علی صیدہ: اوپر سے جھوننا مارنا۔ اور کہا جاتا ہے "هو یذل بہ" اس پر بھروسہ کرتا ہے "أذل بالطریق" بچکانا۔

تذل۔ علیہ: گستاخی و جرات کرنا۔ المرأة علی زوجهها: بناوٹی مخالفت کرنا۔

أذل۔ راستہ پانا۔ الماء: گرنا۔

استذل۔ علیہ: رہنمائی کرنے کو کہنا۔ استذل بكذا علی الامر: دلیل کرنا۔

الذالة۔ دال کا مؤنث۔ ناز و نخره۔ جرات و ذیری۔ کہا جاتا ہے "لہ علیہ ذالۃ" اس کو اس کے اوپر ناز ہے۔

الذل۔ ہ۔ سکون و اطمینان کی حالت۔ اچھی سیرت۔

الذلال۔ ہ۔ ناز و نخره۔

الذوالاء۔ ناز۔

الدلالة۔ دلالی کا پیشہ۔ دلال یا رہبری کی اجرت۔

دلص (ن) ذلیصا۔ چمکتا۔ نرم ہوتا۔ صفت
 (ذلیص) ج دلاص و ذلیص ج ذلص۔
 ذلیصت (س) ذلاصۃ۔ النافقہ: بوزمی اور
 گرے ہوئے دانت والی ہوتا۔
 ذلص۔ الشی: چمکدار کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”ذلص المنیل الحجر“ سیلاب نے پتھر کو
 چمکدار بنادیا۔ الذرع: ہلکے کرنا۔
 الحبین: بال اکھیرنا۔
 اذلص۔ الشی من یدہ: پھسل کر کرنا۔
 الشی من الشی: لگانا۔
 الذلیص والذلیصۃ: ہوار زمین۔
 الدلاص۔ نرم و چمکدار۔ کہا جاتا ہے ”ذرع
 دلاص“ نرم و چمکدار زرہ۔
 الدلاص۔ نرم۔ چمکنا۔ چمکدار۔
 ذلظہ (ض) ذلظا۔ سینہ میں مار کر ہٹانا۔ ذلظ
 فی سبیرہ: تیز کرنا۔
 ذالظہ۔ مدافعت کرنا۔
 اذلظ۔ الماء: زور سے بننے لگانا۔
 ذلغ (ف) ذلغوا و اذلغ لسانہ: زبان نکالنا۔
 ذلغ (ف) ذلغوا و ذلغوا و اذلغ و اذلغ۔
 لسانہ: زبان کا منہ سے باہر لگانا۔ اذلغ
 البظن: پیٹ کا بڑا اور ڈھیلہ ہونا۔
 السیف: تلوار کا مینا سے باہر لگانا۔
 الذلیغ والذلیغ: کشادہ راستہ۔ نرم راستہ۔
 ج ذلیغ۔ والذلیغ من التوق: اڈنوں سے
 آگے رہنے والی اونٹنی۔
 الذلیغ والذلیغۃ: سمندری مچھلی کی ایک
 قسم۔
 المذلیغ: تازہ نعمت میں پرورش یافتہ۔ اسم
 (الذلیغۃ) اور یہ مولدین کے نزدیک ہے۔
 الذلیغ والذلیغ والذلیغ والذلیغ
 والذلیغ والذلیغ والذلیغ والذلیغ
 ہو اؤنٹ۔
 الذلیغان: چپکنے والی مٹی۔ (نعت عامیہ ہے)
 ذلف (ض) ذلفا و ذلفا و ذلوا و ذلیفا
 و ذلفانا۔ بیڑی پرے ہوئے کی طرح آہستہ
 آہستہ چلنا۔ الثاقۃ بحملہا: اونٹنی کا
 بوجھ لے کر اٹھنا۔ الجیش: لشکر کا آگے

دلح (ف) ذلوا۔ بوجھ کی وجہ سے آہستہ چلنا۔
 ذلح۔ الرجلان الشیٰ بینہما: کسی چیز کو
 لکڑی پر اٹھانا۔
 الذلیح۔ ج ذلح و ذوالح و الذلوح) ج
 ذلح: بہت پانی والا بادل۔
 فوش (ذلح) سوار کو نہ تھکانے والا گھوڑا۔ بہت
 پسینہ والا گھوڑا۔
 ذلیح (س) ذلحنا۔ مونا ہونا۔ الإناء: بھر
 کر سہ پڑنا۔
 الذلیح۔ مونا۔ کہا جاتا ہے ”بعض الذلیح و ابل ذلح
 و ذوالح۔
 الذلوح۔ مونا۔ ج ذلح۔
 ذلذل ذلذۃ۔ اعضائہ اوزارہ: چلنے میں
 ہلانا۔
 تذذل۔ فی مشبہ: لڑکھانا۔ الشیٰ:
 لکھتے ہوئے لگانا۔
 الذذل والذذلون۔ سی۔ الذذل: بڑا
 معاملہ۔
 الذذل۔ اضطراب۔ قوم ذذل: لڑکھاتی
 ہوئی چلنے والی قوم۔
 ذلس۔ البانیغ: سلمان کے عیب کو چھپانا
 المعذت: محدث کا حدیث کی روایت
 میں اپنے راوی کا نام نہ لینا بلکہ اس سے اوپر کے
 راوی کا نام لینا اور لفظ ایسا اختیار کرنا جس میں صلح
 کا احتمال ہو۔
 ذالسنہ مذالسنۃ۔ فریب دینا۔ ظلم کرنا۔ کہا جاتا
 ہے ”هو لا یندلس ولا یوانس“ وہ نہ ظلم کرتا
 ہے نہ خیانت۔
 اذلس۔ المکان: موسم گرما کے آخر میں یا چر
 لینے کے بعد سرسبز ہونا۔
 تذلس۔ الرجل: چھیننا۔ الطعام: تھوڑا
 تھوڑا لینا۔ الذابۃ: چر آگاہ میں تھوڑی سی
 گھاس کو چٹ کر جانا۔
 اذلس۔ الشیٰ: پوشیدہ ہونا۔
 الذلس۔ فریب دھوکا۔
 الذلس۔ بات۔ جو موسم گرما کے اخیر میں یا چر
 لینے کے بعد سرسبز ہو جائے۔ ج اذلس (۔
 والذلسۃ) تاریکی۔

الذلال۔ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان کا
 آدمی۔
 الذلیل۔ ج أدلۃ و أدلاء و (الذلالۃ) ج
 ذلیل: بہرہ چیز جس سے رہنمائی ہو سکے۔ حجت
 و دلیل۔ الذلیل: رہنما۔ مرشد۔
 الذلۃ۔ احسان۔ تازہ و نخرہ کرنا۔
 الأذل۔ احسان جتانے والا۔
 الذلی والذلیلۃ۔ واضح راستہ۔
 الشلیل۔ فا۔ اپنے اوپر اور اپنے سامان پر
 بھروسہ رکھنے والا۔ الشلیل بالشجاعۃ: دلیر۔
 الذلب۔ چنار کا درخت۔ واحد (ذلبۃ)
 الذلبۃ۔ سیابی۔
 الذلب۔ چنگاری جو بجھی نہ ہو۔
 الذولاب والذولاب۔ رحب۔ چرخ پے
 گھومتے والی چیز۔ ج ذوالذب۔ (دخیل)
 المذلبۃ۔ بہت چنار کے درختوں والی زمین۔
 الذلبوث۔ ایک قسم کی گھاس کا نام۔
 ذلت (ض) ذلیفا۔ قریب قریب قدم رکھنا۔
 تذلت۔ الیہ: کسی کے پاس گھس پڑنا۔
 اذلت۔ الرجل: خود سر ہونا۔
 اذلت۔ الشیٰ: ڈھا لگانا۔
 الذلات۔ تیز رفتار۔ کہا جاتا ہے ”رجل
 ذلات و ناقۃ ذلات۔ ج ذلت و ذلت“
 ذلح (ض) ذلوا۔ کنوئیں سے پانی نکال کر
 حوض میں ڈالنا۔ صفت (الذلیح ج ذلیح۔
 اذلیح اذلیحا و اذلیح اذلیحا۔ القوم: پوری
 رات یا آخری حصہ میں چلنا۔ اسم (الذلیحۃ
 والذلیحۃ)
 الذلیح والذلیجان والذلیحۃ۔ رات کے
 آخری حصہ کا وقت۔
 الذلیح۔ خانہ (۔ والذلیحۃ و وحشی
 جانوروں کا بھٹ۔
 المذلیحۃ۔ لکڑی یا چمڑے کا بڑا رتن جس میں
 دودھ لے جایا جائے۔ ذول۔
 المذلیح والمذلیحۃ۔ حوض اور کنوئیں کے
 درمیان کا راستہ۔
 المذلیح۔ آخری رات میں چلنے کا مادی۔
 المذلیح و أبو مذلیح۔ سی۔

<p>ایک قسم جماعت و عمن۔ الدَّلْمُتِ وَالذَّلَامِثِ۔ تیز رفتار۔ ذَلَمَزَ ذَلَمَزَةً بِرَأْسِهِ لِيَا۔ تَذَلَمَزَ عَلَى الْأَمْرِ إِرَادَهُ كَرَاهًا۔ الدَّلْمَزُ بِمِثِّ مَعْضُوبٍ۔ الدَّلَامِزُ شَيْطَانٌ قَوِيٌّ وَدُورٌ مِمَّنْ مَرَدٌ۔ إِذْ لَمَسَ إِذْ لَمَسْنَا۔ اللَّيْلُ: نِخْتٌ تَارِكِيٌّ هُوَا۔</p>	<p>او نئی ج ذلق۔ الدِّلْمُتُ بَرَحَايَةَ كِي وَجْهٍ سَے ٹوٹے ہوئے دانتوں والی اونٹنی (میم زائد ہے)۔ ذَلَمَكَ (ن) ذَلَمًا۔ الشَّقِيُّ: رَمَزْنَا۔ لَمَامٌ كَرَاهًا هَذَا الذُّهُورُ: حَجْرَةٌ كَارِبَانَا _____ وَجْهَهُ بِالطَّبِيبِ: خُوشِيُو لَكَانَا _____ الرَّجُلُ حَقَقَهُ: قَلَمٌ كَرْنَا _____ غَرَبْنَا: قَرْضٌ خَوَاهُ كُو ثَانَا (____ ذُلُوْنَا) الشَّمْسُ: دُوبِيْنَةُ كَے قَرِيبُ هُوَا۔ صَفْتٌ (ذَالِكِ)</p>	<p>بڑھنا۔ صفت (ذالف) ج ذَلْفٌ وَذَلْفٌ۔ أَذْلَفَ لَهَذَا الْقَوْلُ: عِنْتِي سَے مَنگُو کرنا _____ الْكَيْبُ: آهَسْتِ جَلَانَا۔ تَذَلْفَ إِلَيْهِ: چَلَانَا وَرُزُو كِي هُوَا۔ إِنذَلْفَ عَلَيْهِ: مَرْنَا۔ الذالف: تیز چلنے والے کے قریب گئے اور پھر وہاں سے علیحدہ ہو جائے۔ الدلف: ہمار۔ الذلوف: تیز اڑنے والا گدھ۔ موٹا اونٹ۔ بہت چھلدا اور سخت خراب۔ ج ذلف۔</p>
<p>الدَّلْمِيسُ وَالذَّلَامِيسُ۔ سخت تاریکی۔ معيبت۔ الدلميس معيبت۔ تَذَلَمَضَ رَأْسُهُ: سِرگھا ہونا۔ الدلمص والدلامص۔ چمکدار۔ راس ذلمص بجماسر۔ الدلمض۔ بوزومی اونٹنی۔</p>	<p>ذَلِكَ هَذَا الْكَلِمَةُ الْغَرِيْبَةُ: قَرْضٌ خَوَاهُ كُو ثَانَا۔ تَذَلَمْتُ: نَمَانَا كَے وَقْتُ بَدَنَنَا بِالطَّبِيبِ: خُوشِيُو لَكَانَا۔ الذلمك نری۔ کہا جاتا ہے "فی زكيبه ذلك" اس کے زانو میں نری ہے۔ غروب آفتاب کا وقت۔ الذلموك۔ لگانے کی خوشبو یا دوا وغیرہ۔ الذلميك۔ وہ شخص جس کو زمانہ نے تجزیہ کر لیا دیا ہو۔ ج ذلمك۔ خاک جس کو ہوا اُڑا دے۔ ایک قسم کی نباتات۔</p>	<p>بہت چھلدا اور سخت خراب۔ ج ذلف۔ الذلمين۔ ایک قسم کا تھن والا سمندری جانور جس کی تھو تھنی چوچ کی شکل کی ہوتی ہے اور جس کے متعلق مشہور ہے کہ ڈوبنے والے کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر پچاتی ہے۔ معرب ہے۔ عربی میں اس کا مرادف الذخس ہے۔ ظَلْمِيٌّ (ذَلْفٌ وَذَلْفَانٌ) رُوشَنٌ وَنَمَائِيَانٌ رَاسْتَا۔</p>
<p>ظَلْمِيٌّ (ذَلْفٌ وَذَلْفَانٌ) رُوشَنٌ وَنَمَائِيَانٌ ذَلِي (س) ذَلْمًا وَذَلْمًا وَذَلْمًا وَذَلْمًا نَمُو عشق وغیرہ سے سرگشتہ ہونا۔ حیران ہونا۔ ذله (ف) ذلها۔ غنہ: تلمی پانا۔ ذلهہ۔ حیران کرنا۔ دہوش کرنا۔ الذله والذلهة۔ غم و عشق وغیرہ کی وجہ سے سرگشتہ و دیوانہ۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ ذَهَبٌ ذَلْمًا" اس کا خون رائیگاں گیا۔ الذله۔ عشق وغیرہ کی وجہ سے بے خود و دل رفتہ۔</p>	<p>الذلموك۔ بڑا معاملہ۔ ج ذالیک۔ المذلمك والمذلمكة۔ طے کا دزار۔ المذلموك۔ غم۔ البعير المذلموك: نر مگھے والا اونٹ۔ وہ شخص جو سفر کی وجہ سے تجزیہ کار ہو گیا ہو۔ المذلمك۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو گھٹیا باتوں سے بلند نہ رکھے۔</p>	<p>ذَلْفٌ (ن) ذَلْفًا وَأَذْلَقُ۔ السَّيْفُ مِنْ غَمْدِهِ: تَوارِ كُو مِیَان سَے سَوتَا۔ ذَلْفُ النَّبَابِ: دُورَا وَهَذَا كُو زُور سَے كَھوَا _____ عَلَيْهِمُ الْغَازَةُ: لُوثٌ وَإِنَا _____ الْبَعِيرُ شَفِيفَةٌ: أُونْتُ كَا جَھَاكُ نَكَانَا۔ (____ ذَلْفًا وَذَلْفًا: السَّيْفُ): تَوارِ كَا مِیَان سَے نَکل پڑنا _____ الْخَيْلُ: كَھوڑُوں كَا پَے وَر پَے نَکَلنا۔ صَفْتٌ (ذَلْفٌ) وَاحِدٌ (ذَالِقٌ وَذَلْفُوقٌ)</p>
<p>ذَلْمَتُ الرَّجُلِ: جلد آگے بڑھنا۔ الذلمت والدلاھت والدلیھات۔ پیش قدمی کرنے والا۔ دلیر۔ شیر۔ إذلمت اللیل: رات کا سخت تاریک ہونا۔ الظلام: گھٹا ٹوپ اندھیر ہونا _____ الرجل: بوزھا ہونا۔ الذلم۔ تاریک۔ بیٹھا۔ نرسنگ خوار پرندہ۔ عشق کی وجہ سے عقل رفتہ دہوش۔ الذلمام والدلمص۔ دلیر۔ ہمار۔ شیر۔ الذلمص: بہت تاریک رات۔ إذلمت: ادلھتانا بوزھا ہونا۔</p>	<p>ذَلِمَ (س) ذَلَمًا وَإِذْلَامًا إِذْلِمَانًا۔ چمکدار سیاہ ہونا۔ صفت (أذلم) مؤنث ذلماء۔ ذلمت الشقة: ہونٹ کا ڈھیلا ہونا اور نکلنا۔ إذلام اللیل: رات کا بہت تاریک ہونا۔ أذلم شقة: ہونٹ کا ڈھیلا کرنا۔ الذلم: ہاتھی۔ الذلام۔ سیاہی۔ سیاہ۔ کہا جاتا ہے "شقی ذلام" کالی چیز۔ الذلماء۔ قمری مینہ کی تیسوی رات۔ الأذلم من الألوان: کالا۔ کالا ساپ۔ لمبا کالا۔ الذلم۔ کرود کی ایک جماعت کا نام۔ معیبت۔ حوض کے پاس چونیوں اور چمچوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ لشکر۔ زیتیر۔ ظاہرندہ کی</p>	<p>ذَلْفٌ (ن) ذَلْفًا وَأَذْلَقُ۔ السَّيْفُ مِنْ غَمْدِهِ: تَوارِ كُو مِیَان سَے سَوتَا۔ ذَلْفُ النَّبَابِ: دُورَا وَهَذَا كُو زُور سَے كَھوَا _____ عَلَيْهِمُ الْغَازَةُ: لُوثٌ وَإِنَا _____ الْبَعِيرُ شَفِيفَةٌ: أُونْتُ كَا جَھَاكُ نَكَانَا۔ (____ ذَلْفًا وَذَلْفًا: السَّيْفُ): تَوارِ كَا مِیَان سَے نَکل پڑنا _____ الْخَيْلُ: كَھوڑُوں كَا پَے وَر پَے نَکَلنا۔ صَفْتٌ (ذَلْفٌ) وَاحِدٌ (ذَالِقٌ وَذَلْفُوقٌ)</p>
<p>الذلمت والدلاھت والدلیھات۔ پیش قدمی کرنے والا۔ دلیر۔ شیر۔ إذلمت اللیل: رات کا سخت تاریک ہونا۔ الظلام: گھٹا ٹوپ اندھیر ہونا _____ الرجل: بوزھا ہونا۔ الذلم۔ تاریک۔ بیٹھا۔ نرسنگ خوار پرندہ۔ عشق کی وجہ سے عقل رفتہ دہوش۔ الذلمام والدلمص۔ دلیر۔ ہمار۔ شیر۔ الذلمص: بہت تاریک رات۔ إذلمت: ادلھتانا بوزھا ہونا۔ ذلا (ن) ذلوا وذلني۔ الذلو: ڈول کتوں میں نکالنا۔ نکالنے کے لیے کھینچنا۔ حاجتہ: حاجت</p>	<p>الذلماء۔ قمری مینہ کی تیسوی رات۔ الأذلم من الألوان: کالا۔ کالا ساپ۔ لمبا کالا۔ الذلم۔ کرود کی ایک جماعت کا نام۔ معیبت۔ حوض کے پاس چونیوں اور چمچوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ لشکر۔ زیتیر۔ ظاہرندہ کی</p>	<p>إِنذَلْفِي السَّيْفُ: اپنی جگہ سے نکل پڑنا۔ الذلمت والدلاھت والدلیھات۔ پیش قدمی کرنے والا۔ دلیر۔ شیر۔ إذلمت اللیل: رات کا سخت تاریک ہونا۔ الظلام: گھٹا ٹوپ اندھیر ہونا _____ الرجل: بوزھا ہونا۔ الذلم۔ تاریک۔ بیٹھا۔ نرسنگ خوار پرندہ۔ عشق کی وجہ سے عقل رفتہ دہوش۔ الذلمام والدلمص۔ دلیر۔ ہمار۔ شیر۔ الذلمص: بہت تاریک رات۔ إذلمت: ادلھتانا بوزھا ہونا۔ ذلا (ن) ذلوا وذلني۔ الذلو: ڈول کتوں میں نکالنا۔ نکالنے کے لیے کھینچنا۔ حاجتہ: حاجت</p>

<p>تَدَمَّجَ فِي شَيْءٍ: کپڑوں میں پلٹنا۔ الذامج - فاء تارکبہ - کہا جاتا ہے "أَلَيْلٌ" ذامج "تارکبہ رات۔ الذمَّجُ: دوست - نظیر۔ الذَّمَجَةُ: طریقہ۔ کہا جاتا ہے "عَلَى تِلْكَ الذَّمَجَةِ" اس طریقہ پر۔ الذَّمَّاجُ وَالدَّمَاجُ: بہت مضبوط۔ سیدھا۔ الذَّمَّجُ: غم۔ تیرکی چمڑ۔ الذَّمَّاجَةُ: کپڑی۔ دَمَّجَ تَدْمِجًا: سر جھکانا۔ الذَّمَّاجِسُ: شیر۔ دَمَّحَى الْقُؤُبُ: کپڑے پر مارا لگانا۔ الذَّمَّحَى: باسی دودھ۔ الذَّمَّحَى: تاس کی ڈبیا۔ الذَّمَّحُوقُ: بڑے ہیٹ والا۔ دَمَّحَلَةٌ دَمَّحَلَةٌ لِرَهْطَانَا:</p>	<p>ج دَمَائِمٍ وَدِمَامٍ۔ دَمَمَ الشَّيْءُ: کسی چیز پر طلاء کرنا۔ أَدَمَ الرَّجُلُ: بڑی بات کرنا یا بد صورت پچھوالا ہونا۔ الذَّمُّ وَالدِّمَمُ وَالدِّمَامُ: ہر وہ چیز جو بطور طلاء کے استعمال کی جائے۔ الذَّمُّ: بھٹی خون۔ الدِّمَمَةُ: چپوٹی۔ جوں۔ جینگی۔ بکریوں کا بازو۔ بلی۔ حقیر و بہت قدر مرد۔ الدِّمَمَةُ: روشن۔ طریقہ۔ گزیا۔ ج دَمَمٍ۔ الدِّمَمُومُ وَالدِّمَمُومَةُ: وسیع۔ بیابان۔ ج دَمَائِمِهِمُ: الدِّمَمُومَةُ: بھٹی روم و بیٹنگی۔ المَدَمَمَةُ: ایک قسم کی دندانہ دار لکڑی جس سے زمین کو ہوار کرتے ہیں۔ المَدَمَمُومُ: خون کی مانند سرخ۔ بہت موٹا۔ چربی دار۔</p>	<p>طلب کرنا۔ ذلأه: نرمی و مہربانی کا سلوک کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَلُّوْتُ بِفُلَانٍ الْيَتِيمَ" میں نے تیرے پاس فلاں کو سفارش کیا۔ و "ذَلَّاهُ بِعُقُورٍ" اس نے اس کو دھوکے میں ڈالا۔ ذَلُّوْتُ بِالذَّلْوِ: ذل سے پانی کھینچنا۔ ذلأه بِالْحَبْلِ مِنْ السُّطْحِ: اس نے اس کو رستی کے ذریعہ چھت سے الگ کیا۔ ذلأه: نرمی و مہربانی کا سلوک کرنا۔ أذَلَّى الذَّلَاءُ: کتوں میں ڈول لگانا۔ فَبَيْهَ: کسی کے بارے میں بڑی بات کرنا۔ بِقُرَابِهِ: قرابت سے وسیلہ پکڑنا۔ بِحُجَّتِهِ: دلیل بیان کرنا _____ إِلَيْهِ بِمَالٍ: دینا۔ أذَلَّى إِلَى فُلَانٍ: کسی کے پاس جھگڑانے جانا۔ تَدَلَّى: الثَّمَرُ مِنَ الشَّجَرِ: پھل کا لگنا مِنَ الْحَبْلِ: گھوڑے سے آرتنا۔ إِذَلُّوْا: إِذَلُّوْا: جلدی کرنا۔ الذَّلْوُ: سہ۔ ڈول (موت ہے کبھی مذکر استعمال کرتے ہیں) ج ذلأه وَأَذَلَّى وَذَلَّى وَذَلَّى: کہا جاتا ہے "أَلْقَى ذَلْوًا فِي الذَّلَاءِ" یعنی تم بھی کوشش کرو۔ الذَّلْوُ: ایک برج آسانی کا نام۔ أَوْثُ كَادِرُغٍ: مصیبت۔ الذَّلَاةُ: دُوبُوجُ ذَلَّى وَذَلَّوَاتُ: الذَّالِي: ج ذلأه۔ سیاہ گور۔ الذَّالِيَّةُ: رہت۔ زمین جس کو ڈول یا رہت سے سینچا جائے۔ انگور کی تیل۔ ج ذَوَالٍ (یہ مولد ہیں)</p>
<p>دَمَّحَ (ف) دَمَّحًا: بلند ہونا _____ زائسہ: سر توڑنا۔ چلنا۔ لیل (ذامج) معتدل رات۔ دَمَّحَى فِي مَشِيهِ: گر انبار ہو کر چلنا۔ دَمَّمَ دَمَّمَةً: عَلَيَّهِ: غھینٹا ہو کر گفتگو کرنا _____ اللَّهُ عَلَيْهِمُ: ہلاک کرنا الشَّيْءُ: کسی چیز کو زمین سے چپکارنا۔ الذَّمَّامُ: خشک گھاس۔ الذَّمَّامِدُ: مِنَ الْأَرْضِ: نرم نیلے۔ دَمَّرَ (ن) دَمَّرَ وَادَمَّرَ: اَوْ دَمَّارَةً: ہلاک ہونا _____ دَمَّرَ (ن) دَمَّرَ: بغیر اجازت کے آنا یا برے ارادہ سے اچانک آنا۔ دَامَرَ اللَّيْلُ: جاگنے رہنا۔ دَمَّرَهُمْ وَدَمَّرَ عَلَيْهِمُ: ہلاک کرنا۔ تَدَمَّرَ: ملک شام کے ایک بڑے شہر کا نام۔ ایک قلعہ کا نام۔ التَّدَمَّرِيُّ: کینہ۔ جنگلی چوہا جس کے ناخن ٹوٹ گئے ہوں اور گوشت سخت ہو۔ کہا جاتا ہے "مَفَالِي الدَّارِ تَدَمَّرِيُّ" گھریں کوئی نہیں۔ دَمَّسَ (ن) ض) دَمَّسًا وَدَمَّسًا: الظَّلَامُ وَ اللَّيْلُ: سخت سیاہ ہونا۔ صفت (ذامج) _____ المَوْضِعُ: مٹا۔ دَمَّسَةَ (ن) دَمَّسًا وَدَمَّسَهُ: ڈھانچا۔ دفن</p>	<p>دَمَّثَ (ك) لَدَمَائِمَهُ: نرم اخلاق ہونا۔ دَمَّثَ (س) دَمَّثًا: الْمَكَانُ وَغَيْرُهُ: نرم ہونا۔ دَمَّثَ: المَضْجَعُ: نرم بنانا _____ الْمَكَانُ: نرم کرنا _____ لَهُ: الْحَدِيثُ: ذَكَرَ كَرْنَا۔ الذَّمَّثُ وَالدَّمَّثُ وَالدَّمَّثُ وَالدَّمَّثُ: نرم رتیل جگہ۔ ج دَمَّثًا وَادَمَّثًا: اور اسی سے ہے "رَجُلٌ دَمَّثٌ الْأَخْلَاقُ" نرم اخلاق والا مرد۔ أَرْضٌ (دَمَّثًا): نرم زمین۔ الذَّمَّوْفَةُ: نرم خوئی۔</p>	<p>ذَلَّى (س) ذَلَّى: تخمیر ہونا۔ تَدَلَّى بِهِ: قریب ہونا _____ لَهُ: فَرَدَّتِي: کرنا۔ دَمَّ (ن) دَمًَّا: الشَّيْءُ بِالصَّبْحِ أَوْ الْقَبْرِ أَوْ نَحْوَهُمَا: کسی چیز پر ملنا _____ الْأَرْضُ: ہوار کرنا _____ الْبَيْرُ بُوغُ جُحْرُهُ: جنگلی چوہے کا اپنے سوراخ کو مٹی وغیرہ سے پات کر برابر کرنا _____ الزَّجَلُ: پوری طرح سے عذاب دینا۔ مارنا یا کرکنا _____ الْقَوْمُ: تیز ہمارا کر ہلاک کرنا _____ الزَّجَلُ: تیز چلنا۔ دَمَّ (ن) ض) دَمَّامَةً: حقیر و بد صورت ہونا۔ صفت (دَمِيمٍ) ج دَمَامٍ مَوْتٌ دَمِيمٍ وَدَمِيمَةٌ</p>
<p>الذَّمَّانِثُ: نرم چیزیں۔ واحد (ذَمِيمَةٌ) الْأَدَمُومُ: بھو بھل میں روئی پکانے کی جگہ۔ دَمَّجَ (ن) دَمَّوْجًا وَالدَّمَّجَ وَالدَّمَّجَ: فِي الشَّيْءِ: مضبوط کرنا۔ دَمَّجَ الْأَمْرُ: درست ہونا۔ دَمَّجَهُ: فِي الشَّيْءِ: داخل کرنا۔ گاڑنا۔ دَمَّجَهُ دَمَّاجًا: عَلَيْهِمُ: موافقت کرنا۔ أَدَمَّجَ: الشَّيْءُ فِي الْقُؤُبِ: کسی چیز کو کپڑے میں پلٹنا _____ الْحَبْلُ: رستی کو اچھی طرح بننا۔ _____ الْكَلَامُ: بہتر ترتیب دینا _____ الْفَرَسُ: ڈبلا کرنا۔ تَدَمَّجَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ: باہم مدد کرنا۔ الْكُلَّامِجُ ہوتا۔</p>	<p>الذَّمَّانِثُ: نرم چیزیں۔ واحد (ذَمِيمَةٌ) الْأَدَمُومُ: بھو بھل میں روئی پکانے کی جگہ۔ دَمَّجَ (ن) دَمَّوْجًا وَالدَّمَّجَ وَالدَّمَّجَ: فِي الشَّيْءِ: مضبوط کرنا۔ دَمَّجَ الْأَمْرُ: درست ہونا۔ دَمَّجَهُ: فِي الشَّيْءِ: داخل کرنا۔ گاڑنا۔ دَمَّجَهُ دَمَّاجًا: عَلَيْهِمُ: موافقت کرنا۔ أَدَمَّجَ: الشَّيْءُ فِي الْقُؤُبِ: کسی چیز کو کپڑے میں پلٹنا _____ الْحَبْلُ: رستی کو اچھی طرح بننا۔ _____ الْكَلَامُ: بہتر ترتیب دینا _____ الْفَرَسُ: ڈبلا کرنا۔ تَدَمَّجَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ: باہم مدد کرنا۔ الْكُلَّامِجُ ہوتا۔</p>	<p>الذَّمَّانِثُ: نرم چیزیں۔ واحد (ذَمِيمَةٌ) الْأَدَمُومُ: بھو بھل میں روئی پکانے کی جگہ۔ دَمَّجَ (ن) دَمَّوْجًا وَالدَّمَّجَ وَالدَّمَّجَ: فِي الشَّيْءِ: مضبوط کرنا۔ دَمَّجَ الْأَمْرُ: درست ہونا۔ دَمَّجَهُ: فِي الشَّيْءِ: داخل کرنا۔ گاڑنا۔ دَمَّجَهُ دَمَّاجًا: عَلَيْهِمُ: موافقت کرنا۔ أَدَمَّجَ: الشَّيْءُ فِي الْقُؤُبِ: کسی چیز کو کپڑے میں پلٹنا _____ الْحَبْلُ: رستی کو اچھی طرح بننا۔ _____ الْكَلَامُ: بہتر ترتیب دینا _____ الْفَرَسُ: ڈبلا کرنا۔ تَدَمَّجَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ: باہم مدد کرنا۔ الْكُلَّامِجُ ہوتا۔</p>

فین ذنباً ذاتیة" وہ آسودہ زندگی میں ہے جو چاہتا ہے حاصل کر لیتا ہے۔ وَهُوَ ابْنُ عَمِّ دَنِي وَدَنِيَا وَدَنِيَا وَدَنِيَا وَدَنِيَا" وہ چچا کا بیٹا ہے جو نسب میں لائق ہے۔

الدَّنِيَّةُ - من الرِّجَالِ: كزور۔
نَاقَةٌ (مَدْنِيٌّ وَ مَدْنِيَّةٌ) وضع حمل کے قریب والی اونٹنی۔

الذَّهَبُ - نكست خوروه لکھ۔
ذَهَبٌ ذَهَبَةٌ - بڑے بڑے لقمے کھانا تاکہ کھانے میں دوسروں سے بازی لے جائے۔

ذَهَبَةٌ (ذَهَبٌ) رَجُلٌ - بھٹا۔
الذَّهْمُ - قوی شہر - نرم عادت والا - نرم زمین۔
ذَهْدَقٌ ذَهْدَقَةٌ - اللُّحْمُ: مع ہڈی کے کٹانا۔
ذَهْدَقَتِ التَّبَضُّعَةَ: جوش کے وقت ہانڈی میں

اوپر نیچے ہوتا۔
الذَّهْدَقُ - ویک کاجوش۔
ذَهْدَمَ البِنَاءُ - ڈھانسا۔
تَدَهَّمَ - ویران ہونا۔ مندم ہونا۔

الذَّهْدَمُ - بت کھانے والا۔
الذَّهْدَنُ - مخلوق - لوگ۔
الذَّهْدَنُ - جھٹ - باطل۔

ذَهْدَةٌ وَ ذَهْدِيٌّ - الخَجَرُ: لڑھکانا۔
تَدَهَّدَتْ وَ تَدَهَّدِيٌّ - لڑھکانا۔
الذَّهْدَةُ وَ الذَّهْدَةُ وَ الذَّهْدِيَّةُ - گھبراہٹ کی گولی۔

الذَّهْدُ وَ الذَّهْدَاءُ - چھوٹے چھوٹے اونٹ۔
کما جاتا ہے "مَا أَدْرِي أَيُّ الذَّهْدَاءِ هُوَ" میں نہیں جانتا وہ کون آدی ہے۔

ذَهْرٌ (ذَهْرٌ) ذَهْرًا - القَوْمُ وَ بالقَوْمِ أَمْرٌ مَكْرُوفٌ: قوم پر امر یا پندیرہ واقع ہوتا۔
الذَّهْرُ - زمانہ طویل۔ لمبی مدت۔ ذَهْرٌ الْإِنْسَانِ: انسان کے زرگی گزارنے کا زمانہ۔

ذَهْرٌ عَمْرًا - عادت ہے۔ مصیبت۔ غایت۔ عادت۔
کما جاتا ہے "مَا ذَاكَ بَدْهَرِيٌّ" یہ میری عادت نہیں "وَمَا ذَهْرِيٌّ بِكَذَّابٌ" یہ میری غایت و استقامت نہیں۔ غلبہ۔ جِ ذَهْرٌ وَ ذَهْرٌ: کما جاتا ہے

"لَا تَبْدِ ذَهْرُ الدَّاهِرِينَ" میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔

الذَّهْرُ - عادت ہے۔ مصیبت۔ غایت۔ عادت۔
کما جاتا ہے "مَا ذَاكَ بَدْهَرِيٌّ" یہ میری عادت نہیں "وَمَا ذَهْرِيٌّ بِكَذَّابٌ" یہ میری غایت و استقامت نہیں۔ غلبہ۔ جِ ذَهْرٌ وَ ذَهْرٌ: کما جاتا ہے

"لَا تَبْدِ ذَهْرُ الدَّاهِرِينَ" میں اس کے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔

إِلَيْهِ النَّظَرُ: لگا کر دیکھنا۔
الذَّنْفَةُ - گیسوں میں ایک قسم کا دانہ جس کو اکرایا منسنا کہتے ہیں۔

الدَّائِقُ - فا۔ بیوقوف۔ چور (وَالدَّائِقُ) درہم کے چھپے حصہ کا ایک سکہ۔ جِ ذَوَائِقُ وَ ذَوَائِقُ (كَلِمَةٌ فَارِسِيَّةٌ) الذَّنْفَرُ - شورہ۔

ذَنْفَسٌ - زوریدہ نگاہ سے دیکھنا۔ يَنْتَهِمُ: فسار ڈالنا۔
ذَنْكَسٌ - فین بیٹیہ: گھر میں بھپ کے بیٹھا اور لوگوں کی ضروریات کے لیے نہ لگانا۔

ذَنْبَانُ ذَنْبَانُ وَ ذَنْبَانُ لِلشَّيْءِ وَ مِثْلُهُ وَ إِلَيْهِ: کسی چیز کے قریب ہونا۔ صفت (ذَانٌ) ذَنْبَانُ: ذَنْبِي يَذْنِي ذَنْبَانًا: گھٹیا ہونا۔ ردی ہونا۔ صفت (ذَنْبِي) ذَنْبَانُ: صفت (ذَنْبِي) ذَنْبَانُ: قریب کرنا۔ ذَنْبِي فِي الأَمْوَالِ: ہر چھوٹے بڑے امر کے پیچھے پڑنا۔

ذَانِي مَدَانَاةً - القَيْدُ: بھڑی کو تنگ کرنا۔
بَيْنَ الأَمْوَالِ: قریب قریب کرنا۔
الأَمْوَالُ: نزدیک ہونا۔

أَذْنِي إِذْنَاءً - تنگ زندگی بسر کرنا۔ قریب ہونا۔ قریب کرنا۔ کسی کے قریب کرنا۔ السَّفَرُ: پروردگار کا۔ تَدْنِي - تمھوڑا تمھوڑا قریب ہونا۔ کما جاتا ہے "بِهَيْدٍ يَتَدَنَّى خَيْرٌ مِنْ قَرِيبٍ يَتَعَدَّى" دور کا آدی جو تمھوڑا تمھوڑا قریب ہوا اس قریب سے بہتر ہے جو دور ہو۔

تَدَانِي تَدَانِيًا - القَوْمُ: ایک دوسرے کے قریب ہونا۔ تَدَانَتْ إِبِلُهُ: کم ہونا۔ إِذْنِي - قریب ہونا۔

إِسْتَدْنَاهُ - قریب ہونے کو کہنا۔
الذَّنَاوَةُ - مہ۔ قرابت۔ کما جاتا ہے "بَيْنَهُمَا ذَنَاوَةٌ" ان دونوں کے درمیان قرابت و رشتہ داری ہے۔

الأَذْنِي - ذَنْبِي كَأَسْمِ تَفْضِيلٍ - جِ أَدَانٍ وَ أَدْنُونٌ - مؤنث ذُنْبَانُ جِ ذَنْبِي - الأَذْنُونُ: نسب کے لحاظ سے قریبی رشتہ دار لوگ۔
الذَّنْبَانُ - موجودہ زندگی - جِ ذَنْبِي: نسبت کے لیے (ذَنْبِي وَ ذُنْبَانِي وَ ذَنْبِي) اور کما جاتا ہے "هُوَ

ذَنْبِي جِ ذَنْبَانُ - الذَّنْفَسُ: بیوقوف عورت۔
الذَّنْفَسُ - بد خو۔
ذَنْفَسٌ - زوریدہ نگاہ سے دیکھنا۔
الذَّنْفَسَةُ - بی عورت۔

ذَنْقِي (ن) ذَنْقِيًا - باریک امور نالے کا حریس ہونا۔ صفت (ذَنْبِي) جِ ذَنْبِي: ذَنْقِي - الوجہ: غم یا مرض سے کمزور ہونا۔
للمؤنث: قریب المرگ ہونا۔
العَيْنُ: آنکھ کا اندر دھنسن جانا۔ الشَّقِي: پوری طرح سے لینا۔ الشمس: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الوجُّلُ: مرنا۔

ذَنْقِي (ن) ذَنْقِيًا - باریک امور نالے کا حریس ہونا۔ صفت (ذَنْبِي) جِ ذَنْبِي: ذَنْقِي - الوجہ: غم یا مرض سے کمزور ہونا۔
للمؤنث: قریب المرگ ہونا۔
العَيْنُ: آنکھ کا اندر دھنسن جانا۔ الشَّقِي: پوری طرح سے لینا۔ الشمس: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الوجُّلُ: مرنا۔

ذَنْقِي (ن) ذَنْقِيًا - باریک امور نالے کا حریس ہونا۔ صفت (ذَنْبِي) جِ ذَنْبِي: ذَنْقِي - الوجہ: غم یا مرض سے کمزور ہونا۔
للمؤنث: قریب المرگ ہونا۔
العَيْنُ: آنکھ کا اندر دھنسن جانا۔ الشَّقِي: پوری طرح سے لینا۔ الشمس: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الوجُّلُ: مرنا۔


ذَنْقِي (ن) ذَنْقِيًا - باریک امور نالے کا حریس ہونا۔ صفت (ذَنْبِي) جِ ذَنْبِي: ذَنْقِي - الوجہ: غم یا مرض سے کمزور ہونا۔
للمؤنث: قریب المرگ ہونا۔
العَيْنُ: آنکھ کا اندر دھنسن جانا۔ الشَّقِي: پوری طرح سے لینا۔ الشمس: آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الوجُّلُ: مرنا۔

جاتا ہے۔ "حَالُ الْقَوْمِ ذُوْنَ فَلَانٍ" یعنی قوم
فلان کے اور اس کے مطلب کے درمیان
حائل ہوگئی۔
ذُوْنِكَ اسم فعل بمعنى قد یعنی لو۔ کہا جاتا ہے
"ذُوْنِكَ زَيْدًا" یعنی زید کو پکڑو۔
الذَّيْوَانُ والذَّيْوَانُ مجموعہ کتب۔ اشعار و
قصائد کا مجموعہ۔ رجسٹری میں وغیرہ خواروں یا
فوجیوں کے نام درج ہوں۔ ج ذَوَائِنُ و
ذَوَائِنُ۔ بھری۔ کونسل۔
ذَوَيْنٌ دون کی تفسیر۔
ذَاةٌ (ان) ذُوْهَا۔ تھیر ہونا۔
تَدْوَةٌ۔ الشَّيْءُ: تھیر ہونا _____ الامر
مشغول ہونا۔ کسی کام میں کس پر۔
ذَوَى۔ جھگڑ میں چلنا۔
الذَّوْءُ والذَّوْءَةُ۔ جھگڑ۔
ذَوَى (س) ذَوَى تیار ہونا _____ صَدْرُهُ:
کینہ رکھنا۔
ذَوَى (ض) ذَوَى۔ مکتناہٹ سنانی رہنا۔
ذَوَى تَدْوِيَةً۔ اللَّبْسُ: دودھ برابر ایک جھلی سی
جنا _____ السَّحَابُ: گرجنا _____
الصَّوْتُ: مکتناہٹ سنانی رہنا۔
ذَاوَى مُدَاوَاةً۔ العَرِيضُ: بیمار کالاج کرنا۔
أَذْوَى أَدْوَاءً۔ مریض کے ساتھ رہنا۔ _____
ہ: تیار ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَذْوِي
وَيَذْوِي" فلان تیار ڈالتا ہے اور علاج کرتا ہے۔
قَدَاوَى۔ خود پناہ علاج کرنا۔
الذَّوَى۔ ہ۔ بیابان۔ یوقرف۔ اپنی جگہ پر ہمیشہ
رہنے والا۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ ذَوَى وَرَجُلٌ
ذَوَى وَنِسَاءُ ذَوَى" مذکورہ نمٹ واحد جمع سب
کیلئے لفظ واحد ہی ہے اس لیے کہ اصل میں یہ
مصدر ہے۔
الذَّوَاةُ۔ دوات۔ ج ذَوَى و ذَوَى و ذَوَى
و ذَوَاتُ۔ انگریزوں وغیرہ کا جھگڑا۔
الذَّوَايَةُ والذَّوَايَةُ۔ بھری باریک جھلی سی جو
دودھ وغیرہ پر ہو جائے۔ الذَّوَايَةُ: دانتوں کی
زردی۔
الذَّوَى۔ مریض۔ خراب ہیٹ والا۔ یوقرف۔
اپنی جگہ پر ہمیشہ رہنے والا۔

الذَّوَى۔ آواز۔ ہوا ن سناہٹ۔ کبھی کی
جھجھٹ۔ پرندہ کی پھڑپھڑاہٹ۔ اور بعضوں کے
نزدیک بادل کے گرج کے لیے مخصوص ہے۔ کہا
جاتا ہے "مَالِي الذَّارِ ذَوَى وَذَوَى وَذَوَى"
یعنی گھر میں کوئی نہیں۔
مَكَانٌ ذَوَى: محنت کے لیے ناموافق۔
الذَّيْوُذُ۔ روسنی کپڑا۔ ج ذَابِنْدُ ذَابِنْدُ
ذَابِنْدُ ذَابِنْدُ۔ نرم و آسان ہونا۔
ذَيْتُهُ۔ نرم کرنا۔ ذَيْتُهُ الذَّهْنُ: جہ کار بنانا۔
طَرِيقٌ مَذْبُتٌ۔ ہال راستہ۔
ذَا جَ بَدِيحٌ ذَيْجَاوٌ ذَيْجَانَا۔ تھوڑا چلنا۔
الذَّيْحَانُ۔ ٹڈی دل۔
ذَاخٌ (ض) ذَيْحَا۔ نرم ہونا۔
ذَيْحُهُ۔ نرم کرنا۔
الذَّيْحُ۔ خوشہ خراب۔ ج ذَيْحَةٌ۔
الذَّيْنُ والذَّيْنَانُ۔ عادت۔
الذَّيْرُ۔ راہوں اور نگوں کے رہنے کی جگہ۔ ج
أَذْيَرَةٌ وَاذْيَارٌ وَاذْيُوْرَةٌ۔ اور نسبت کے لیے
خلاف قیاس (ذَيْوَانِي)
الذَّيْرُ۔ در والا۔ گھر میں رہنے والا۔
الذَّيْرُجُ۔ گھوڑا جس کے سر سے لے کر دم تک
سیاہ گھیر ہو۔
الذَّيْسُ۔ پستان۔
الذَّيْسُغُ۔ مضبوط اونٹنی۔
الذَّيْسُقُ۔ چاندی کا خوان۔ دور کار راستہ۔ چاندی
کاماف زیور۔
الذَّيْسَمُ۔ لومڑی۔ لومڑی یا بھیرے کا بچہ جو کتیا
سے ہو۔ ریچھ یا ریچھ کا بچہ۔ بھڑ کا بچہ۔ تاریکی۔
سیاہی۔
الذَّيْسَمَةُ۔ جیوٹی۔
الذَّيْشُ۔ مرغ۔
ذَا صَ بَدِيصٌ ذَيْصَانَا۔ ٹیڑھا ہونا _____ عَنِ
الطَّرِيقِ: ہٹ جانا۔ ذَا صَبَ الْعَدَّةُ بَيْنَ الْجِلْدِ
وَاللَّحْمِ: غمزد کاربانے سے اودھرا دھر ہونا۔
ذَا صَ (ض) ذَيْصَانَا لِرَأْيِي سے بھاننا۔ کینہ ہونا
_____ عَنِ الطَّرِيقِ: ہٹ جانا۔ کرا جانا۔
إِنْدَاصٌ۔ ہاتھ سے پھسل جانا۔
بِالشَّيْءِ عَلَى فَلَانٍ: ہاتھ لگانا۔

الذَّائِصُ۔ قا۔ پھورج ذَا صَبَ۔ کسی چیز کے گرد
پکر لگانے والا۔
الذَّيْصُ۔ مضبوط ٹھنڈے والا۔
الذَّيْصُ۔ غوطہ لگانے کی جگہ۔
ذَا قَهْ بَدِيْقَةٌ ذَيْقَا۔ اکھیرنے کیلئے ٹیڑھا کرنا۔
الذَّيْبُكُ۔ مرغ۔ ج ذَيْبُوكٌ وَاذْيَاكٌ وَاذْيَاكَةٌ۔
يَبْتَضَةُ الذَّيْبُكُ: اس چیز کیلئے مثال کے طور پر
بولتے ہیں جو صرف ایک ہی بار ہو۔ الذَّيْبُكُ: بڑا
مرہاں۔ موسم بہار۔
أَرْضٌ مَذَاكَةٌ وَاذَاكَةٌ وَاذَاكَةٌ مَذَاكَةٌ۔
مرغوں والی زمین۔
ذَيْبُكْسُ۔ الرَّجُلُ لِي يَبْتَهَ: لوگوں کی
ضرورت کے لیے باہر نہ لگانا۔
ذَا نَهْ بَدِيْقَةٌ ذَيْنَا۔ قرض رہنا۔ صفت فاعلی
(ذَائِنٌ) صفت مفعول۔ (مَذْيُونٌ)
_____ الرَّجُلُ: قرض لینا۔ صفت (ذَائِنٌ) _____
فُلَانًا: بدل رہنا۔
ذَا نَهْ (ض) ذَيْنَا۔ مالک ہونا۔ غلام بنانا۔ تاپنیدہ
ہات پر آسان۔ ذیل کرنا۔ حکم رہنا۔ خدمت کرنا۔
بھلائی کرنا۔ ذَانُ الرَّجُلُ: عزیز ہونا۔ ذیل ہونا۔
فرہاں برداری کرنا۔ تافرمانی کرنا۔
ذَانٌ (ض) ذَيْنَا وَاذِيَانَةٌ وَاذِيَانَةٌ۔ بالمعنى
الاسلامية: دین اختیار کرنا۔
ذَيْقَةٌ۔ اپنے دین کے تابع بنانا۔ ذَيْقَةُ الشَّيْءِ:
مالک بنانا۔
ذَايِقَةٌ مَذَايِقَةٌ۔ فیصلہ کیلئے لے جانا۔ قرض کا
محلہ کرنا۔
أَذَانٌ إِذَانَةٌ۔ قرض لینا _____ ہ: قرض رہنا۔
تَذْيِنٌ۔ قرض لینا۔
قَدَائِنٌ۔ القوم: ایک دوسرے سے قرض لینا۔
قرض سے خرید و فروخت کرنا۔
إِذَانٌ إِذْيَانًا وَاذِيَانًا إِسْتَذَانًا۔ قرض لینا۔
إِذَانُ الشَّيْءِ: اودھرا خریدنا۔
الذَّيْنُ۔ قرض۔ کہا جاتا ہے "قَهْصَى ذَيْقَه" یعنی
وہ مر گیا۔ ج ذَيْوُنٌ وَاذْيُونٌ۔
الذَّيْنُ۔ ہ۔ حساب۔ اسی سے ہے "يَوْمٌ
الذَّيْنُ" ملکیت۔ قدرت۔ حکم۔ مذہب۔ ملت۔
حالت۔ عادت۔ سیرت۔ تدبیر۔ تافرمانی۔ گناہ۔

<p>حساب لیا گیا ہو۔ مؤنث مَدِيْنَةٌ۔ کہا جاتا ہے "لِقَلْبَيْنِ مَدِيْنٍ وَ مَدِيْنَةٍ" فلاں کیلئے لوطی غلام ہے۔ الْمَدَانِ - قرض دار۔ (الْمَدِيْنِيَانِ) بہت قرض لینے یا دینے والا۔ (مذکر و مؤنث) راج مَدَائِيْنِ۔</p>	<p>پکڑنے والا۔ الْمَدِيْنَةُ - قرض۔ کہا جاتا ہے "بَغْتُهُ بِدِيْنَةٍ" میں نے اس کے ہاتھ او حار بیچا۔ قرضہ داری۔ عادت۔ الْمَدِيْنَةُ - قضا۔ حساب۔ الْمَدِيْنَانِ - قاضی۔ غلبہ والا۔ حاکم۔ حساب لینے والا۔ بدلہ دینے والا۔ الْمَدِيْنِيْنِ - غلام۔ بدلہ دیا ہوا۔ وہ شخص جس سے</p>	<p>مجبوری۔ پرہیزگاری۔ قرضہ داری۔ بدلہ۔ قرض و غلبہ۔ زلت۔ راج اَذْيَانِ۔ کہا جاتا ہے۔ "قَوْمٌ دِيْنِيْنٌ" قرضہ داری کرنے والے لوگ۔ الْمَدِيْنَةُ - دھاری۔ تمام وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی قرضہ داری کے تحت میں آئیں۔ ملت و مذہب۔ راج دِيْنَانَاتِ۔ الْمَدِيْنِ - دھار۔ دین کو مضبوطی سے</p>
---	---	---



ذَادًا ذَادًا ذَادًا. باز رکھا۔ منع کرنا۔ ہاتھ لٹکائے ہوئے چلنا۔

ذَوْر (س) ذَاوْرًا۔ غھبٹنا کہ ہونا _____ غتہ : ڈرنا۔ گھبرانا۔ ناک چڑھانا۔ صفت (ذَوْرٌ وَ ذَوْرِي) بِالشَّيْءِ : کسی چیز کا مادی ہونا۔

(وَذَاءٌ عَلَيَّ : دلیری کرنا۔ ذَوْرٌ وَ ذَوْرَتٌ مَذَاءٌ زَةٌ۔ العَمْرَاءُ عَلَيَّ بِغُلْبَاهَا : عورت کا شوہر کی نافرمانی کرنا۔

صفت (ذَوْرٌ وَ ذَوْرِي وَ ذَوْرِي وَ ذَوْرِي وَ ذَوْرِي) أَذْوَرَهُ : غھبٹنا کہ کرنا۔ جرأت دلانا۔ برا بھینٹ کرنا۔ آسنا _____ ہ ابلی کڈنا : مجبور کرنا _____ ہصاحبہ : ورغلانا۔

الذَّوْرَانِ : مٹی ملا ہوا گوبر جس کو اونٹنی کے تھن پر مل دیتے ہیں تاکہ بچہ دودھ نہ پئے۔ ذَاوْرَةٌ (ذ) ذَاوْرَةٌ : سخت گھاموٹا کہ زمین باہر نکل پڑے _____ الإناء : برتن گھبرنا۔

الإناء : برتن کا گھرجانا۔ ذَاوْرٌ (ف) ذَاوْرًا : مرنا۔ ذَاوْرٌ عَلَيَّ الْأَيْمَنِ وَ ذَاوْرُهُ (ف) ذَاوْرًا وَ ذَاوْرًا وَ ذَاوْرًا : فوراً مار ڈالنا۔

الذَّوْرُ : دل کا کٹ جانا اور مر جانا۔ مَوْتٌ (ذَوْرٌ) ناکھلی موت۔ سَمٌّ ذَوْرٌ : زہر قاتل۔ الذَّوْرَانِ : موت () _____ وَ الذَّوْرَانِ وَ الذَّوْرَانِ وَ الذَّوْرَانِ وَ الذَّوْرَانِ : زہر قاتل۔

ذَالٌ (ف) ذَالًا وَ ذَالًا : آہستہ آہستہ سے چلنا۔ تَذَاءُلٌ : حقیرنا۔ چھوٹا ہونا۔ ذَوَالَةٌ : بھیرے کا علم جس _____ ذَوَالٌ وَ ذِيْلَانٌ : بھیرا۔ گیدڑ۔ المِذَالُ : بھیرا۔

الذَّالَانِ وَ الذُّوْلَانِ : بھیرا۔ گیدڑ۔ المِذَالُ : بھیرا۔

تَذَاءَبَتْ وَ تَذَاءَبَتْ عَلَيَّ : کبھی اُدھر سے کبھی اُدھر سے آنا۔ تَذَاءَبَتْ وَ تَذَاءَبَتْ عَلَيَّ : ہر جانب سے چلنا _____ وَ الْحَجْرُ : گھبرانا۔

تَذَابٌ وَ تَذَاءَبٌ لِلتَّفَاقَةِ : اونٹنی کو دوسری کے پچھے پڑ مہربان بنانے کیلئے بھیرے جیسا کہ چھنا۔ اسْتَذَابَ اسْتِذَابًا : بھیرے جیسا ہونا۔ الذَّابُّ : سد۔ قحش۔

الذُّوْبُ : بھیرنا۔ ذُوْبٌ وَ اذُوْبٌ ذُوْبَانٌ : ذاب الذُّوْبُ : بھوک۔ ذُوْبَانِ الْعَرَبِ : عرب کے چوروں کو۔

الذُّوْبِيَّةُ : ماہہ بھیرنا۔ ایک بیماری جو جانوروں کے گلے میں ہوتی ہے۔ کجاوہ یا زمین کے دلوں پہلوؤں کے درمیان کی کشادگی۔

الذُّوْبِيَانِ : اونٹ کی گردن اور ہونٹ کے بال۔ اُونٌ جو ترش لینے کے بعد باقی رہ جائے۔

الذُّوْبِيَّةُ : پیشانی کے بال۔ کجاوہ کا علاقہ۔ ذُوْبِيَّةٌ كَلْبٌ شَيْءٌ : چوٹی۔ اور اسی سے ہے "هُوَ ذُوْبِيَّةٌ قَرِيْبَةٌ" وہ اپنی قوم کی ناک ہے۔ وَ "عَلَوْتُ ذُوْبِيَّةَ الْخَيْلِ" میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ ذُوْبِيَّةُ الرَّحْلِ : کجاوہ کے آخر میں لٹکی ہوئی کھال۔ ذُوْبِيَّةُ التَّغْلِ : جو تے کا تسمہ ج ذُوْبِيَّةٌ : اور دھمکی کے وقت بولتے ہیں "لَا تَقْلَنْ لِي ذُوْبِيَّةً"۔

أَرْضٌ (مذَابَةٌ) بہت بھیروں والی سرزمین۔ ذَاوْرَةٌ (ف) ذَاوْرًا : سخت گھاموٹا۔

ذَاوْرٌ (ف) وَ ذَاوْرٌ (س) ذَاوْرًا : خت گھونٹ لینا۔ تھوڑا تھوڑا پینا۔ (مذ) ذَاوْرٌ : ذبح کرنا۔ چھاڑنا۔

الذَّابِحَةُ : القزبة : ملک کا بھٹنا۔ أَخْمَرُ (ذُوْجٌ) خت سرخ۔

ذَابٌ : اسم اشارہ ہے قریب کیلئے۔ تشبیہ حالت رقی میں ذابن۔ اور حالت نفسی و جری میں ذابن۔ ج اولاء۔ اور شاز طریقہ سے ذابا استعمال کرتے ہیں۔ اور اس پر ہاء تشبیہ داخل کر کے ہذا بولتے ہیں اور جب من یا ما استعمال کے بعد ذاب واقع ہو تو الذابن کے معنی میں ہوتا ہے۔ جیسے "مَاذَا فَعَلْتُ وَمَنْ ذَابِي الذَّابِرُ" کیا ہے جو تم نے کیا۔ کون ہے جو گھر میں ہے۔ اور ما کے ساتھ اسم استعمال ہوتا ہے۔ جیسے "لِيَا ذَاوْرَتَنَا كَتْنَا" تو نے ہم کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟

ذَابٌ : اسم اشارہ متوسط کیلئے اور ہاء تشبیہ کے ساتھ ہذا کہ۔ اور تصغیر کی صورت میں ذابک اور تشبیہ حالت رقی میں ذابك اور حالت نفسی و جری ذابك اور جمع اُولُك۔

ذَابِكُ : اسم اشارہ بعید کیلئے۔ تشبیہ ذابك۔ ج اُولُك اور تصغیر ذَابِكُ۔

ذَابٌ (ف) ذَابًا : الشئ : جمع کرنا _____ الذَّابِيَّةُ : جانور کو ہانکنا _____ ہ : خوف دلانا۔ دھکارنا۔ زدمت کرنا _____ الغلام : لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَابِيَّةُ الرِّيحِ : ہر جانب سے آتا _____ الرِّجْلُ : سخت آواز کالنا۔ تیز چلنا۔

ذَيْبٌ : بھیرے سے گھبرانا۔ بکریوں میں بھیرے کا پڑنا۔

ذَيْبٌ (س) ذَابًا وَ ذُوْبٌ (ك) ذَابَةٌ : مکاری و خباثت میں بھیرے جیسا ہونا۔ بھیرے سے ڈرنا۔

أَذَابٌ : بھیرے سے گھبرانا _____ الأَرْضُ : بھیروں والی ہونا (ذَابٌ) الغلام : لڑکے کی زلفیں بنانا۔ ذَابَةٌ : گھبرانا۔

تَذَابٌ : خباثت میں بھیرے جیسا ہونا _____ الشئ : کسی چیز کو باری سے لینا۔

<p>ذَبْرٌ - الْكِتَابُ: لکھنا۔ نطقے لگانا۔ بغیر کے ہوئے تیز پڑھنا۔ الذَّبْرُ - سہ۔ کتاب ج ذبَار۔ المَذْبَرُ - قلم۔ ذَبِلَ وَذَبُلَ (ن ک) ذُبُولًا وَذَبَلًا - التَّبَاتُ: نہات کا پڑمرہ ہونا۔ مرھانا۔ القَرْضُ: گھوڑے کا دہلا ہونا۔ لِسَانُهُ أَوْ شَفْتُهُ: زبان یا ہونٹ کا خشک ہونا۔ کہا جاتا ہے "ذَبَلَنَّهُ ذُبُولًا" اسے مصیبت لاحق ہوئی۔ اذْبَلُ - التَّبَاتُ: پڑمرہ کرنا۔ القَرْضُ: گھوڑے کو دہلا کرنا۔ تَذَبَّلَ فِي الْمَشْيِ: ناز و انداز سے چلنا۔ تَذَبَّلَتِ الْمَرْأَةُ: لاغر بدن ہوتے ہوئے مردوں کی چال چلنا۔ الذَّبِيلُ - سہ۔ کچھوے کی پیٹھ کی ہڈی۔ آٹاز جوانی۔ الذَّبِيلُ - پسر کشدگی۔ الذَّبْلَةُ - مٹکلی۔ مرھانے والی گرم ہوا۔ الذَّبْلَةُ - پیاس سے ہونٹوں کا خشک ہونا۔ الذَّبَالُ - قاب۔ باریک۔ دواج۔ ذَبْلٌ وَذَبْلٌ: الذَّبَالَةُ - الذَّبَالُ کاموٹ۔ عَيْنٌ ذَابِلَةٌ: چشم بھرا۔ ج ذبَابِلُ۔ الذَّبْوَابِلُ: رماح کی صفت ہے۔ کہتے ہیں "الرِّمَاحُ الذَّبْوَابِلُ" یعنی باریک نیزے۔ صفت کو موصوف کے قائم مقام کر کے نفس رماح پر بھی اطلاق کرتے ہیں۔ الذَّبَالَةُ وَ الذَّبَالَةُ: حق۔ ج ذبَابِلُ۔ ذَخَّ (ن) ذَخًا - سترے واپس آنا۔ الماءُ: بیٹا۔ ذَجَلَهُ (ن) اذْجَلًا - ظلم کرنا۔ صفت (ذاجل) ذَخَّهُ - ذَخًا - تحمیر مارنا۔ الحَضْبُ: لکڑی جیرا۔ چاڑنا۔ الفِلْفَلُ: مرچ کوٹنا۔ الحَارِيَّةُ: جماع کرنا۔ ذَخِجَهُ (ف) ذَخَجًا - چھیلنا۔ حرکت دینا۔ ذَخِجَتِ الرِّبِيْعُ: ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ الْمَرْأَةُ بَوَّلِدَهَا: جننا۔ ذَخَذَخَ: قریب قریب قدم رکھ کر تیز چلنا۔ الرِّبِيْعُ الثَّرَابُ: خاک اُڑانا۔</p>	<p>زین۔ رَاكِبٌ (مَذْبُتٌ) تہا جلد باز سوار۔ ذَبِيحَةٌ (ف) ذَبِيحًا وَ ذَبِيحًا: چھاڑنا۔ گلا کاٹنا۔ ذبح کرنا۔ گلا گھوٹنا۔ الدِّينُ: نطقے میں سوراخ کرنا۔ ذَبَّحَ - الْقَوْمُ: ذبح کرنے میں مبالغہ کرنا۔ اذْبَحَ - مذبح بنانا۔ تَذَابَحُوا: ایک دوسرے کو ذبح کرنا۔ الذَّبِيحُ: جو ذبح کیا جائے۔ مقتول۔ الذَّبِيحُ وَ الذَّبِيحُ: ایک قسم کی سانپ کی چھتری۔ الذَّبِيحُ - فَا: داغ کرنے کا ایک آلہ جس سے گردن کے عرض میں داغ لگاتے ہیں۔ الذَّبِيحُ وَ الذَّبِيحُ وَ الذَّبِيحُ وَ الذَّبِيحُ: والذَّبِيحَةُ وَ الذَّبِيحَةُ: طلق کا درد۔ الذَّبِيحُ: ذبح کیا ہوا۔ قربانی کے لائق جانور۔ الذَّبِيحَةُ: لیلۃ کا لقب۔ الذَّبِيحَةُ: ذبح کاموٹ۔ جو عنقریب ذبح کیا جائے۔ ج ذبَابِلِحُ۔ المَذْبِحُ: ذبح کرنے کا اوزار۔ المَذْبِحُ: ذبح کرنے کی جگہ۔ ج مَذَابِلِحُ۔ مَذَابِلِحُ الكِنَانِيسُ: گر جاکے قربان گاہ۔ ذَبَذَبَ - الشَّيْءُ الْمُعْلَقُ فِي الْهَوَاءِ: لٹکی ہوئی چیز کا حرکت کرنا۔ الرُّجُلُ: حیران و متروک ہونا۔ ذَبَذَبَ: متروک و حیران چھوڑنا۔ ذَبَذَبَ أَهْلُهُ: حمایت کرنا۔ الخَلْقُ: تکلیف پہنچانا۔ الشَّيْءُ: حرکت دینا۔ بلانا۔ تَذَبَذَبَ: بلانا۔ حرکت کرنا۔ الذَّبَذَبَةُ: مس زبان۔ ہوا میں حرکت کرنے والی چیز۔ وہ چیز جو ہوا پر نہایت کے لیے لٹکائی جائے۔ ج ذبَابَذِبُ۔ الذَّبَابَذِبُ: کپڑے کے چھوڑ کپڑے کے نچلے تھے۔ المَذْبَذِبُ: متروک۔ تمہیر پس و پیش کرنے والا۔ ذَبْرٌ (ن ض) ذَبْرًا - الْكِتَابُ: لکھنا۔ نطقے لگانا۔ بغیر کے ہوئے تیز پڑھنا۔ الشَّيْءُ: جاننا اور اچھی طرح سمجھنا۔ ذَبْرٌ (ض) ذَبْرًا وَ ذَبْرًا: اچھی طرح دیکھنا۔ الحَبْرُ: بھٹا۔ الشَّيْءُ: شعر پڑھنا۔ ذَبْرٌ (س) ذَبْرًا - عَلَيَّ: غضبناک ہونا۔</p>	<p>ذَامَةٌ (ف) ذَامًا: عیب لگانا۔ رسوا کرنا۔ خارت کرنا۔ دھکارنا۔ اذَامَهُ اذَامًا - عَلَيَّ كَذَا: مجبور کرنا۔ الذَّمُّ وَ الذَّمُّ: عیب اور امثال عرب میں سے ہے "لَقَدْ لاقَعْتُمْ الْحَمْسَاءُ ذَامًا" یعنی کبھی خوبصورت عورت میں بھی عیب ہوتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے "مَا سَمِعْتُ لَهُ ذَامَةً" میں نے اس سے ایک کلمہ نہیں سنا۔ ذَبْتُ (ن) اذْبًا - عَنَتُهُ: رفع کرنا۔ حمایت کرنا۔ ذَبْتُ (ض) ذَبًا وَ ذَبِيًا وَ ذُبُونًا: گرمی یا پیاس سے خشک ہونا۔ جَسْمُهُ: لاغر ہونا۔ التَّبْتُ: پڑمرہ ہونا۔ مرھانا۔ ذَبْتُ - البِعْثُ أَوْ الرُّجُلُ: مجنون ہونا۔ القَرْضُ: گھوڑے کے تھتھے میں کھسی داخل ہونا۔ صفت (مَذْبُوتٌ) ذَبَبْتُ تَذْبِيبًا: بست رفع کرنا۔ شَفَقْتُ: ہونٹ کا پیاس وغیرہ سے خشک ہونا۔ التَّهَارُ: تھوڑا باقی رہنا۔ اذْبْتُ - المَكْنَانُ: بست کھپوں والی ہونا۔ صفت (مَذْبُوتٌ وَ مَذْبُتٌ) اذْبْتُ - سہ۔ بست حرکت کرنے والا۔ جنگلی تیل۔ الأذْبُ: لہبا۔ جنگلی تیل۔ اونٹ کی کچلی۔ الذَّبَابُ: کھسی۔ ج اذْبَةٌ وَ ذَبَانٌ ذَبْتُ: بھراور شمد کی کھسی اور چھمر بھی اطلاق ہوتا ہے۔ واحد (ذَبَابَةٌ) ذَبَابٌ الشَّيْفُ: تلوار کی دھار۔ ذَبَابٌ العَيْنُ: آنکھ کی تیلی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَزَّ مِنْ ذَبَابِ العَيْنِ" وہ آنکھ کی تیلی سے زیادہ عزیز ہے۔ الذَّبَابُ: جنون۔ طامون۔ بد بختی۔ داغی برائی۔ الذَّبَابَةُ: ذَبَابٌ کا واحد۔ ذَبَابَةُ الشَّيْءِ: چیز کا بقیہ۔ عَطَشٌ (مَذْبُتٌ) سخت پیاس۔ الذَّبَابُ وَ المَذْبُتُ: اپنی قوم کی بست حمایت کرنے والا۔ الذَّبَانُ: پیاس سے مرھایا ہوا۔ المَذْبَةُ: مور چھل۔ چوری۔ ج مَذْبَاتٌ وَ مَذَابُتٌ۔ اور اسی سے ہے "اذْبَانُهَا مَذَابُهَا" یعنی جانوروں کی ذم ان کیلئے مور چھل ہے۔ اَرْضٌ ذُبُونَةٌ وَ مَذْبُونَةٌ: بست کھپوں والی</p>
---	--	--

<p>الذَّرْبِيُّ - عیب۔ الذَّرْبِيُّ - عیبیت۔ الأَذْرَبِيُّ - خلاف قیاس - آذربائیجان کی جانب نسبت۔ المِذْرَبُ - زبان۔</p>	<p>الذَّرْبُ - غضب و غصہ۔ غصہ کی وجہ سے روگردانی۔ الذَّرَاةُ - واد غیرہ جو چمڑے سے گرے۔ المِذْرَةُ - چمڑے کا آلہ۔ غلہ وغیرہ بھیرنے کا سامان۔</p>	<p>الذَّخْلُ - خون کا بدلہ۔ دشمنی۔ کینہ۔ ذُخُولٌ وَأَذْحَالٌ - تم کہتے ہو "لِنَى عِنْدَهُمْ ذُخُولٌ" مجھے ان سے کینہ ہے۔ ذُخَى (ض) ذُخْيَا - الضُّوفُ : اُون کو کوٹنا۔ الرِّيحُ الْقَوْمُ - کھلی ہو گئی۔</p>
<p>ذَّرَح (ف) ذَّرَحًا وَذَّرَحَ - الشَّقَى فِي الرِّيحِ : ہوا میں اُڑانا۔ الطَّعَامُ : ذَّرَاحَ نَامِي كَيْزَاوَانًا - وَذَّرَحَ اللَّيْنُ : دودھ میں پانی ملانا۔ الرَّغْفَرَانِ فِي الْمَاءِ : پانی میں تھوڑا سا زعفران ڈالنا۔</p>	<p>ذَّرَأَ (ف) ذَّرَأَ - اللَّهُ الْخَلْقُ : پیدا کرنا۔ الشَّقَى : زیادہ کرنا۔ الأَرْضُ : بونا۔ (و) وَذَرِيٌّ (س) ذَّرَأَ شَعْرَهُ : سفید ہونا۔ فَلَانٌ : سفید بال والا ہونا۔ صفت (أَذْرَأُ) مؤنث ذَّرِيَةٌ - اے۔</p>	<p>الْمَذْحَاةُ - بغیر رختوں والی زمین۔ جِ مَذْحَاحٍ - ذَّخْرَ (ف) ذَّخْرًا - الشَّقَى : وقت ضرورت کے لیے چھپا کرنا۔ إِذْخِرُوا وَادَّخِرُوا - بھینٹی ذخیرہ۔ الذَّخْرُ - ذخیرہ کا اسم جس کو ذخیرہ بنا کر رکھا جائے۔ جِ أَذْحَارٍ - الذَّاجِرُ - فَا - موتا۔</p>
<p>الذَّرَاحُ وَالذَّرُوحُ وَالذَّرِيْعُ وَالذَّرَاحُ وَالذَّرُوحُ وَالذَّرِيْعَةُ وَالذَّرُوحُ وَالذَّرُوحُ - ایک قسم کا اُڑنے والا زہر دار کبوتر۔ مفرد کا استعمال کم ہے جمع ہی استعمال ہوتا ہے۔ تصغیر ذَّرِيْحٌ آتی ہے۔ الذَّرَاحُ - پانی ملا ہوا دودھ۔ الذَّرِيْحَةُ - پشہ۔ نیلہ۔ جِ ذَّرِيْحٍ - لَيْنٌ أَوْ عَسَلٌ (مُذْرَجٌ) زیادہ پانی والا دودھ یا شہد۔</p>	<p>أَذْرَأُ إِذْرَاءً - غھبٹا کرنا۔ ذَّرَانَا - ہ ہ بالشَّقَى : حریص بنانا۔ ہ الٰہی کُذَّا : مجبور کرنا۔ الذَّمْعُ : بمانا۔ التَّاقَةُ : تھن میں دودھ اُتارنا۔ صفت (مُذْرِيٌّ)۔ الذَّرَاءُ - تھوڑی چیز۔ کہا جاتا ہے "يَكْفِينِي ذَّرَاءُ مِنْ خَيْرٍ" مجھے توڑی سی نیک کالی ہے۔ "هَمْ ذَّرَأُ النَّارِ" وہ لوگ آگ کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ الذَّرَاةُ - بوجھنے کی ابتدائی سفیدی جو کنبھیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔</p>	<p>الذَّخِيْرَةُ - وقت ضرورت کے لیے جو چیز چھپا کر رکھی جائے۔ جِ ذَّخَائِرُ - اسی سے ہے ذَّخَائِرُ الحِزْبِ اور کہتے ہیں "أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ ذَّخَائِرٌ عِنْدَ اللَّهِ" "مومنین کے اعمال اللہ کے ہاں ذخیرہ ہیں۔" الإذْخِرُ - سبز گھاس۔ ایک قسم کی خوشبودار گھاس۔ واحد إِذْخِرَةٌ جِ أَذْخِرُ - المِذْرَجُ - ذخیرہ رکھنے کی جگہ۔ جِ مَذْأَجِرُ - المِذْرَاجُ - جوف۔ رگیں۔ استریاں۔ پیٹ کے نیچے حصے۔ ذَّرُ - چھوڑ دے۔</p>
<p>ذَّرَزَ - المِلْحُ او الحَبُّ : چمڑنا۔ بھیرنا۔ بونا۔ الذَّرْزَارُ - باتونی۔ بکواس کرنے والا۔ ذَّرَع (ف) ذَّرَعًا - النُّوبُ : ذراع سے ٹاپنا۔ ہ کسی کے پیچھے سے ذراع سے گھاگھوٹنا (دیکھئے ذراع) ذرعہ القنی : غالب ہونا اور خود بخود آنا۔</p>	<p>ذَّرَبَ (س) ذَّرَبًا وَذَّرَبَةً وَذُرْبَةً السَّيْفِ : تلوار کا تیز ہونا۔ صفت (ذَّرَبٌ) جِ ذَّرَبٌ - الجُنْحُ : زخم کا خراب ہونا۔ الرَّجُلُ : عجز کے بعد فصیح ہونا۔ المِغْدَةُ : بگڑنا۔ درست ہونا۔ (ضد)۔ ذَّرَبَ (ن) ذَّرَبًا وَذَّرَبٌ وَأَذْرَبَ السَّيْفُ : تلوار تیز کرنا۔ أَذْرَبَ الرَّجُلُ : تنگ گزارے والا ہونا۔</p>	<p>ذَّرَبَ (س) ذَّرَبًا وَذُرْبًا - الرَّجُلُ : سر کے اگلے حصے کا سفید ہونا۔ الذَّرُ - چھوٹی بیوٹی۔ ذرات۔ واحد (ذَّرَةٌ) نسل۔ الذَّرُورُ - آنکھ یا زخم میں چمڑے کی دوا۔ عطر۔ جِ أَذْرَةٌ - الذَّرِيَّةُ - ایک قسم کی خوشبو۔ الذَّرِيٌّ - تلوار کی آب و جو ہر۔ ذَّرِيَّةُ الرَّجُلِ - (شمشیت الذال) اولاد و نسل۔ جِ ذَّرِيَّتَاتٍ -</p>
<p>ذَّرَع (ف) ذَّرَعًا وَذَّرَع (س) ذَّرَعًا - عِنْدَ الرَّجُلِ وَالْيَهُ : سفارش کرنا۔ ذَّرَعَتْ رَجُلًا : چلنے سے عاجز ہونا۔ ذَّرَع (ك) ذَّرَاعَةٌ - الفَوْشُ : گھوڑے کا کشادہ قدم ہونا۔ صفت (ذَّرِيْعٌ)۔ ذَّرَعُ الرَّجُلِ : کسی کے پیچھے سے ذراع سے گھاگھوٹنا۔ اقرار کرنا۔ فی السَّيْفِ : اقرار کرنا۔ فی السَّيْحَةِ : تھرنے میں بازو پھیلانا۔ فی المِشِي : چلنے میں بازو بلانا۔ الرَّجُلُ : ڈرانے یا خوش خبری دینے کے لیے بازوؤں کو بلند کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَّرَع لِي شَيْئًا مِنْ خَيْرِهِ" اس نے مجھے کچھ خبر دی۔ و "ذَّرَعَهُ بَيْنَنَا" اس</p>	<p>الذَّرَبُ - ہ۔ زبان کی تیزی۔ ناقابل علاج بیماری۔ زنگ۔ مورچہ۔ جِ أَذْرَابُ - الذَّرَبُ - جگر کی ایک بیماری۔ گردن کا غدد۔ رَجُلٌ ذَّرَبٌ : تیز زبان مرد۔ الذَّرَبُ - مویج کی راہی۔ ذَّرَبُ اللِّسَانِ : تیز زبان۔ جِ ذَّرَبُ لِسَانٍ ذَّرَبٌ : زبان فصیح۔ فحش گوی زبان۔ الذَّرِيَّةُ - غدد۔ تیز زبان عورت۔ جِ ذَّرَبُ - الذَّرَابُ - زہر۔</p>	<p>ذَّرَبَ (ف) ذَّرَبًا وَذَّرَبَةً وَذُرْبَةً السَّيْفِ : تلوار کا تیز ہونا۔ صفت (ذَّرَبٌ) جِ ذَّرَبٌ - الجُنْحُ : زخم کا خراب ہونا۔ الرَّجُلُ : عجز کے بعد فصیح ہونا۔ المِغْدَةُ : بگڑنا۔ درست ہونا۔ (ضد)۔ ذَّرَبَ (ن) ذَّرَبًا وَذَّرَبٌ وَأَذْرَبَ السَّيْفُ : تلوار تیز کرنا۔ أَذْرَبَ الرَّجُلُ : تنگ گزارے والا ہونا۔</p>

ذرع

نے اس کو ہمارے درمیان وسیلہ بنایا۔
ذَارِعَةٌ: ہاتھ لہلہ جانے والا۔ الزَّجْلُ: ٹاپ کرنا۔
صَاحِبُهُ ذَرَّعَهُ: قدم بڑھانے میں مقابلہ کرنا
اور غالب رہنا۔

أَذْرَعُ: ہاتھ سے قبضہ کرنا۔
ذِرَاعِيهِ مِنْ تَحْتِ الْجَبَّةِ: کانا۔
فِي الْكَلَامِ: بہت گفتگو کرنا۔

تَذْرَعُ فِي الْكَلَامِ: بہت گفتگو کرنا۔
الشَّيْءُ: ہاتھ سے ناپنا۔
الْأَبْلُ الْمَضَاءُ: بازوؤں تک پانی میں اترنا۔
بِذَرِيْعَةٍ: وسیلہ بنانا۔
الشَّيْءُ: ہاتھ ہاتھ بھر کا بھیننا۔

إِنذَرَعُ: ناگاہ بچنا۔
كشاهہ چلنا۔
تَذَارَعَتِ الْآبِلُ الْمَضَارَةُ: طے کرنا۔
إِسْتَذْرَعُ بِالشَّيْءِ: چھینا اور وسیلہ بنانا۔

الذَّرْعُ: ہاتھ کا پھیلاؤ۔
كَمَا جَاءَ فِي "أَبْطَلَتْ فَلَانًا ذَرَّعَةً" میں نے اس کو طاقت سے زیادہ تکلیف دی۔
و "أَبْطَلْتِ ذَرَّعِي" یعنی میرے بدن کو دبا کر دیا اور میری معاش کو منقطع کر دیا۔
و ضَعُفْتُ بِالْأَمْرِ ذَرَّعًا" یعنی میں اس پر قادر نہیں۔
و "هُوَ وَاسِعُ الذَّرْعِ" وہ صاحب قدرت ہے۔
و "هُوَ خَالِي الذَّرْعِ" یعنی اس کا دل رنج و غم سے خالی ہے۔
و "ذَرَّعُهُ كَثَدًا" یعنی اس کا طول اتنا ہے۔

الذِّرَاعُ: مِنَ الزَّجْلِ: کہنی سے بچنے کی انگلی تک کا حصہ۔
بازو (مؤنث ہے اور کبھی مذکر استعمال کرتے ہیں) طاقت۔
كَمَا جَاءَ فِي "زَجَلْتُ وَاسِعُ الذِّرَاعِ" مرد صاحب قدرت "و ضَمَّاقُ بِالْأَمْرِ ذِرَاعُهُ" یعنی وہ اس پر قادر نہیں "و هُوَ لَكَ عَلَى حَيْبِ الذِّرَاعِ" یہ ہمارے لیے تیار و حاضر ہے۔
و "جَعَلْتُ أَمْرَكَ عَلَى ذِرَاعِكَ" یعنی ہمارا معاملہ میں ہے ہمارے اوپر چھوڑ دیا جیسا تمہارا بی چاہے۔
كَمَا جَاءَ فِي "ذَرَّعَ وَذَرَّعَانِ" وَ الذِّرَاعُ مِنَ الْبَقْرِ وَالنَّمْرِ: گائے اور بکری کا دست۔
مِنَ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ: گھوڑے اور اونٹ کی پٹنی کے پٹے حصے سے اوپر کا حصہ۔
أَوْلَادُ ذِرَاعٍ وَأَوْلَادُ الذَّرَائِعِ: کتے۔
مذرعہ: امیہ۔
جنگلی بھڑا۔
ذرعان۔

ذرع

الذَّرْعُ: زبان و راز۔ رات دن چلنے والا۔
الْحَيُّ: مصاحب والا۔
مؤنث ذَرَّعَةٌ ذُرْعَاتُ الذَّرْعَاتِ: تیز کشادہ قدم والیاں۔

الذَّرْعَةُ: وسیلہ۔
ذُرْعُ: تیز کشادہ قدم گھوڑا یا اونٹ۔
الذَّرْعُ: سفارش کرنے والا۔
تیز رفتار۔
كَمَا جَاءَ فِي "مَوْتٌ ذَرَّعٌ" جلدی کی موت۔
و "قَتْلٌ ذَرَّعٌ" حد سے بڑھا ہوا شیخ قسم کا قتل۔

الذَّرِيعَةُ: وسیلہ۔
كَمَا جَاءَ فِي "هُوَ ذَرَّعِي إِلَى فَلَانٍ" وہ فلاں کے پاس میرے لیے وسیلہ ہے۔
اور منی جس کے پیچھے شکاری شکار کرنے کے وقت چھتا ہے۔
ذُرَّاعٍ: چھتا ہے۔
ذُرَّاعٍ: چھتا ہے۔

الْأَذْرَعُ: بہت فصیح۔
كَمَا جَاءَ فِي "قَتَلْتَهُمْ أَذْرَعُ قَتْلٍ" اس نے ان کو بہت جلدی اور بہت بڑے طریقے سے قتل کیا۔

المِذْرَاعُ: کھیتی کی زمین اور جنگل و بیابان کے درمیان کے درسات۔
جانور کی ٹانگ۔
ذُرَّاعٍ وَ مَذَارِعٍ: وغیرہ مارا گیا ہو اور اس کی انگلی ٹانگوں پر خون بہ رہا ہو۔
سبقت کرنے والا گھوڑا۔

مِنَ الْبَيْتَانِ: تیل جس کی پٹلیوں پر سیاہ داغ ہوں۔
مِنَ النَّاسِ: جس کی ماں باپ سے زیادہ شریف ہو۔

ذَرَفٌ (ض) ذَرَفًا وَ ذَرَيْفًا وَ ذَرَفَانًا وَ تَذْرَافًا: الذَّمْعُ: بہت صفت (ذَرَيْفٌ وَ مَذْرُوفٌ) العَيْنُ وَ مَعَهَا: بھانا (ذَرَفَانًا) ست چال چلنا۔

ذَرَفٌ تَذْرِيفًا وَ تَذْرِيفًا وَ تَذْرَافًا: الذَّمْعُ: بھانا۔
ہ المَوْتُ: قریب المرگ کرنا۔
ہ الشَّيْءُ: خبردار کرنا۔
عَلَى الْخَيْمِيسِ: زائد ہونا۔
بڑھ جانا۔

إِسْتَذْرَفَ: قطرے قطرے پکانا۔
الضَّرْفُ: تیز رفتاری۔
الذَّرَافُ: تیز رفتاری۔
المِذْرَافُ: آنسو بہنے کی جگہیں۔
كَمَا جَاءَ فِي "سَأَلْتُ مَذَارِفَ عَيْنِي" واحد مَذْرَفٌ۔

ذَرَفٌ (ض ن) ذَرَفًا وَ أَذْرَقٌ: الطَّيْرُ: بیٹھ کرنا۔
و أَذْرَقُ الصَّكَّانِ: الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔
و أَذْرَقُ الصَّكَّانِ: الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔

الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔

الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔

ذری

كِرًا وَ أَذْرَقُ الصَّكَّانِ: الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔

لَبِنٌ مُذْرَقٌ بِالْمَاءِ هُوَ أَدْوَدٌ: ذَرَقَطُ الْكَلَامِ: بولنا۔

ذَرًا يَذْرُو ذَرْوًا وَ ذَرِي يَذْرِي ذَرِيًا وَ ذَرِي تَذْرِي وَ أَذْرِي أَذْرَاءً: الرِّيحُ الشَّرَابُ: اُتْرَا۔
بھیرنا۔
الْحِنْطَةُ: اساون کرنا۔
أَذْرَى الشَّيْءِ: گرا۔
بھیرنا۔
كَمَا جَاءَ فِي "أَزْرَاهُ الْفَرَسُ مِنْ ظَهْرِهِ" اس کو گھوڑے نے اپنی پیٹھ سے گرا دیا۔
أَذْرَتِ الْعَيْنُ دَمْعَهَا: آنسو بہانا۔
ذَرِي الشَّاةِ: اون تراشا اور علامت کے لیے کچھ چھوڑ دینا۔

ذَرًا يَذْرُو ذَرْوًا: الشَّيْءُ: ہوا میں اڑ جانا۔
الطَّبْنِيُّ: تیز درنا۔
إِلَى فَلَانٍ: قصد کرنا۔
فَوْهُ: درانت کرنا۔
تَذْرِي: غلہ کا بھوسہ سے صاف ہونا۔

الصَّكَّانُ أَوْ الْحَبْلُ: کسی جگہ پر یا ہاڑ پر چڑھنا۔
كَمَا جَاءَ فِي "تَذْرِي مِنْ بَرْدِ الشَّمَالِ بِصُخْرَةٍ" یعنی اس نے شمالی ہوا کی ٹھنڈک سے چٹان کی پناہ لی۔

إِسْتَذْرَى: پہ۔
پناہ لینا۔
بِالشَّحْوَةِ: سایہ لینا۔

الذَّرَى: گھر کے سامنے کا صحن اور اس کے اطراف۔
جائے پناہ۔
ہر وہ جگہ جہاں تم چھپ سکو۔
تم کہتے ہو "اتَّخَذْتُ الْحَائِطَ ذَرِي لِي" میں نے دیوار کی پناہ لی۔
و "وَأَنَا فِي ذَرِي فَلَانٍ" میں فلاں کی پناہ و حفاظت میں ہوں۔
و "هُوَ كَرِيمٌ الذَّرَى" وہ بھلا کریم ہے۔
الذَّرَى: وہ غلہ جس کا اساون کیا جائے۔
گرا ہوا آنسو۔

الذَّرَاةُ: بھوسہ وغیرہ جو اساون کرتے وقت گرے۔
وہ چیز جس کو ہوا اڑا لے جائے۔
الذَّرَاةُ وَ الذَّرَاةُ: بلندی۔
بلند جگہ۔
ہر چیز کا بلند حصہ۔
ذَرَى وَ ذَرِي: بلند جگہ۔
بڑھاپا۔

الذَّرَاةُ: بلندی۔
الذَّرَاةُ: بلندی۔
الذَّرَاةُ: بلندی۔
الذَّرَاةُ: بلندی۔

المِذْرَى وَ المِذْرَاةُ: جیلی جس سے گیوں کو لٹے ہیں۔
ذَرَارٍ: ذر۔
الذَّرَارُ: ذر۔
الذَّرَارُ: ذر۔

المِذْرَارُ: آنسو بہنے کی جگہیں۔
كَمَا جَاءَ فِي "سَأَلْتُ مَذَارِفَ عَيْنِي" واحد مَذْرَفٌ۔
ذَرَقٌ (ض ن) ذَرَقًا وَ أَذْرَقٌ: الطَّيْرُ: بیٹھ کرنا۔
و أَذْرَقُ الصَّكَّانِ: الذَّرْقُ: بیٹھ کرنا۔

الذَّرَقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرَقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرَقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرَقُ: بیٹھ کرنا۔

الذَّرَقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرَقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرَقُ: بیٹھ کرنا۔
الذَّرَقُ: بیٹھ کرنا۔

کے کنارے۔ اور اسی سے ہے "جاء ينفض
 وِلْدَوِيَه" وہ دھکی دیتا ہوا آیا۔ وِلْدَوَا
 الْقَوِيَس: کمان کے دونوں کنارے۔
 الْاَذْقَل: ٹیڑھی ٹھوڑی والا۔
 تَدْعَيْتَه: الجحش: خوفزدہ کرنا۔
 اِنْدَعَب: الماء: لگا تار ہنا۔
 الدُّعْبَان: جوان بھیرنا۔
 المَدْعَاتِيْن: لگا تار و پیا ہے۔ کہا جاتا ہے
 "وَاِيْتَهُمْ مَدْعَاتِيْن كَاَتَهُمْ عَرْفُ ضَبْعَان"
 میں نے لوگوں کو کیے بعد دیکرے دیکھا گویا کہ وہ
 لوگ زہر کے نیال ہیں۔
 دَعَت (ف) دَعَفَا: سخت گلا گھونٹنا۔ خاک آلود
 کرنا۔ سختی سے ہٹانا۔
 دَعَيْتَه (ف) دَعَجَا: سختی سے ہٹانا۔
 _____ الجحاشية: جماع کرنا۔
 الذَّعَاع: فرتے۔ واحد (ذعاعة)
 دَعْدَع: الشئ: پراگندہ کرنا۔ بکھیرنا۔ کہا جاتا
 ہے "دَعْدَعْتَه التَّوَابِيْت" اس کو مصیبتوں نے
 جھڑ جھڑا دیا _____ السَّوَاو العَجْو: فاش کرنا۔
 پھیلانا _____ الرِّيْح الشَّجْر: جھڑ جھڑا
 رنا۔
 تَدْعَدَع: بکھرا۔ پھیلانا۔ پراگندہ ہونا۔
 اللدْعَاد: چغل خور۔ ہمید کو نہ چھپانے والا۔
 دَعْدَاع: التَّخَل: بگجور کے رومی درخت۔ کہا
 جاتا ہے "تَفْرُو قُوا دَعْدَاع" وہ لوگ ادھر ادھر
 متفرق ہو گئے۔
 دَعْوَه (ف) دَعْوَا: ڈرانا۔ خوفزدہ کرنا۔
 گھبراہٹ میں ڈالنا۔
 دَعْو: ڈرنا۔ صفت (مَدْعُوْر)
 دَعْو (س) دَعْوَا: درہشت زدہ ہونا۔
 اَدْعُوَه: ڈرانا۔
 تَدْعُو: ڈرنا۔
 اِنْدَعُو: ڈرنا۔ گھبرانا۔
 الدُّعُو: خوف۔ ڈر۔
 اَمْر (دَعُو) خوفناک معاملہ۔
 الدَّاعِر: لگا ڈرنے والا۔ غمیش۔
 رَجُل (دَاعُو) دَعْوَه: دَعْوَه: عیب دار مرد۔
 الزُّعْرَه: دبر۔

الدُّعْرَه: ایک پرندہ جو ہر وقت اپنی دم کو ہلاتا
 رہتا ہے۔
 سِنَةٌ (دَعْرِيْتَه) سخت سال۔
 الدُّعُوْر: خوفزدہ۔ تھمت اور بڑی باتوں سے
 ڈرنے والی عورت۔
 نَاقَةٌ (مَدْعُوَه) پاگل اونٹنی۔
 دَعْمَطَه (ف) دَعْمَطَا: جلدی سے زخ کرنا۔ موت
 (دَاعِظُو) دَعْوَطَا: جلد آنے والی موت۔
 دَعْف (ف) دَعَفَا: زہر قاتل پلانا _____
 الطَّعَام: کھانے میں زہر ملانا۔
 دَعِف (س) دَعَفَانَا: مرنا۔
 اَدْعَفُه: جلدی مار ڈالنا۔
 اِنْدَعَف: ول کاکٹ جانا۔ سانس پھولانا۔
 الذَّعْف: والذَّعَاف: فوراً ہلاک کرنے والا
 زہر۔ مَوْتٌ ذَعَافٌ: جلدی آنے والی موت۔ کہا
 جاتا ہے "حَيَّةٌ ذَعَفُ اللَّعَابِ" فوراً ہلاک کرنے
 والا سانپ۔
 الدُّعْفَان: مد۔ موت۔
 طَعَامٌ (مَدْعُوْفٌ) زہر ملا ہوا کھانا۔
 دَعْفَه (ف) دَعَفَا: چچنا _____ بہ: گھبرا دینا۔
 دَاعٌ (دَعَاق) مسلک بیماری۔ ماءٌ دَعَاق: سخت
 کھاری پانی۔
 دَعِل (س) دَعَلَا: انکار کے بعد اقرار کرنا۔
 الذَّغْلِب: والذَّغْلِبِيَه: تیز رفتار اونٹنی۔
 الذَّغْلِبِيَه: شتر مرغ۔ بھلی حاجت۔ کپڑے کا کنارہ یا
 وہ ٹکڑا جو پھٹ کر لٹک رہا ہو۔
 الذَّغْلُوْب: کپڑے کا کنارہ یا وہ ٹکڑا جو پھٹ کر
 لٹک رہا ہو۔ ج دَعَالِيْب: ٹوٹ۔ دَعَالِيْب: پُرَاثَا
 کپڑا۔
 دَعْلَقَه دَعْلَقَه: سرگشتہ کرنا۔ ہلاک کرنا۔
 الذَّغْلُوْق: گند ٹالی مانند ایک بدبودار سبزی۔
 چالاک لڑکا۔ ایک چھوٹا سا پرندہ۔ سانپ کی چھتری
 کی ایک قسم۔
 دَعْمَطَه دَعْمَطَه: جلدی سے زخ کرنا۔
 الدُّعْمَطَه: بد زبان عورت۔
 دَعِيْن (س) دَعْنَاو اَدْعِيْن: لُہ: مطیع و فرمانبردار
 ہونا۔ نرو تھی کرنا۔ اَدْعِيْن بِالْحَقِيْق: اقرار کرنا۔
 المَدْعَان: آسانی سے تابع ہونے والا۔

ذَقْح (ن) ذَقَّحَا: جھاریتہ: جماع کرنا۔
 الذُّعْمُوْر: سخت کیندور۔
 ذَق (ض) ذَقَا وَ ذَقَّقَا وَ ذَقَّقَا: عَلَي
 الجَرِيْح: فوراً مار ڈالنا _____ فِي الْأَمْرِ:
 جلدی کرنا _____ ذَقَّا: الطَّاعُوْنُ فُلَانًا: ہلاک
 کرنا۔
 ذَقَّق وَ ذَقَّق وَ اَذَقَّق: الجَرِيْح وَ ذَقَّق
 عَلَيَّه وَ لُہ: فوراً مار ڈالنا۔ وَ ذَقَّقَ جَهَاَزَ
 رَا جَلِيْبَه: سواری کے سامان کو ہلاک کرنا۔
 ذَق (ض) ذَقِيْفَا وَ اسْتَذَقَا: اِسْتَذَقَا فَا:
 الْأَمْرُ: ممکن ہونا۔
 الذَّق: تھوڑا پانی۔
 الذَّقَاف: مد۔ ذَقَّ عَلَيَّ الجَرِيْح كَا اسْم
 تھوڑی چیز۔ (_____ وَ الذَّقَاف: زہر قاتل۔
 تھوڑا پانی۔ ج ذَقَّف وَ اَذَقَّف: الذَّقَاف: ہلاک
 تیز۔
 الذَّقِيْف وَ المَذَقَّف: ہلاک پھلکا تیز۔
 ذَقَّقَف ذَقَّقَف: الجَرِيْح: مار ڈالنا۔
 ذَقَّقَف: ناز سے پلانا۔
 ذَقُو (س) اَذَقُوا: الشئ: بظاہر ہونا (عام طور
 سے بدبو میں مستعمل ہے) صفت (ذَقُو وَ اَذَقُو)
 مَوْتٌ ذَقُو وَ ذَقُوَاء _____ التَّبِيْث: زیادہ ہونا۔
 اِسْتَذَقُو: بِالْأَمْرِ: بختہ ارادہ کرنا۔
 الذَّقُو وَ الذَّقُوَه: بوکی تیزی۔ بدبو۔
 الذَّقُوَاء: ایک قسم کی بدبودار سبزی۔
 الذَّقُوِي: کان کے چپھے کی پڑی۔ ج ذَقُوِيَات
 وَ ذَقُوِي وَ ذَقُوِي۔
 زَوْضَةٌ (مَدْفُوْرَه) باغ جس میں ذفرا سبزی
 بہت ہو۔
 تَدَقَّق: لُہ: ناکرہ گناہ کو شتم کرنا۔
 الذَّقَاقَه وَ المَذَقَّق: ناکرہ گناہ کو شتم کرنے
 والا۔
 ذَقَّق (ن ض) ذَقَّقَا: الطَّايِبُ: پرندہ کا سختی کرنا
 _____ الذَّنَاب: بھی کابیت کرنا۔
 تَدَقَّقَتَا ذَقَّقَا: الشئ: تھوڑا تھوڑا لیتا۔
 الذَّقَط: غمیشناک۔
 الذَّقَط: بھی کابیت۔ ج ذَقَّقَان۔
 رَجُلٌ (ذَقَطَه وَ ذَقِيْط): مرد غمیش۔

الذَّقَانُ - غضبتاك -

لَحْمٌ مَذْقُوطٌ كَمَنْ كَابَيْتَ كَمَا هُوَ كَوَشْتِ -
ذَقْتَهُ (ان) ذَقْنَا: ٹھوڑی پر مارنا (وَذَقْنُ)
عَلَى يَدَيْهِ أَوْ عَضَاهُ: ٹھوڑی کو سارا دینا -

ذَاقَتْهُ مَذَاقَةً: جگ کرنا -

الذَّقْنُ وَالذَّقِنُ: ٹھوڑی - جِ أَذْقَانُ -

الذَّقْنُ: بت بوڑھا -

الذَّاقَةُ: حلق کے کنارہ پر ابھرا ہوا حصہ -

الْأَذْقَانُ: لمبی ٹھوڑی والا - مَوْنَتْ ذَقْنَاءَ: ج

ذُقْنُ -

الْمَذْكُوبَةُ: پار سا عورت -

الْمَذْكُوبَةُ: زندہ دلی - کہا جاتا ہے "لَهُ أَوْفِيهِ
ذِكْرٌ كَذِبٌ" اس کے اندر زندہ دلی ہے -

ذِكْرٌ (ان) ذِكْرًا وَيَذْكُرُ كَأَنَّ اللَّهَ: تسبیح و تجمید

کرنا _____ الشَّيْءُ: دل میں یاد کرنا _____

يُقْلَانُ حَدِيثًا: ذکر کرنا _____ الْأَمْرُ: اچھی

طرح سمجھنا _____ اسْمُ اللَّهِ: اللہ کا نام لینا

حَقٌّ فَلَانَ: کسی کے حق کی حفاظت کرنا -

ذَكَرَ: الْكَلِمَةَ: مذکر استعمال کرنا - ذَكَرَهُ

الشَّيْءَ وَذَكَرَهُ بِهِ: یاد دلانا _____ الْقَوْمَ: وعظو

فصحت کرنا -

أَذْكُرُهُ: الشَّيْءَ: یاد دلانا _____ الْمَرْأَةَ:

لڑکے جتنا - صفت (مذکر)

ذَاكِرَةٌ مَذَاكِرَةٌ: فی أَمْرٍ: کسی معاملہ میں

مشتگلو کرنا -

تَذَكَّرَ: الشَّيْءَ: یاد کرنا -

تَذَاكُرُوا: فی الْأَمْرِ: کسی کام میں باہم

مشغول ہونا - تَذَاكُرُوا الشَّيْءَ: کسی چیز کو یاد کرنا -

إِذْكُرُوا وَإِذْكُرُوا وَإِذْكُرُوا الشَّيْءَ:

یاد کرنا - وَإِسْتَذَكَّرَ الشَّيْءَ: پڑھنا - حفظ کرنا -

إِسْتَذَكَّرَ الرَّجُلُ: یادداشت کے لیے کسی کی

انگلی میں دھاگا باندھ دینا -

الذِّكْرُ: شہرت - کہا جاتا ہے "لَهُ ذِكْرٌ فِي

النَّاسِ" اس کی لوگوں میں شہرت ہے - تعریف و

شرف و بزرگی - نماز و دُعا - وَالذِّكْرُ مِنَ

الرِّجَالِ: توانا دلدار مرد -

مِنَ الْقَوْلِ: بلند و سنجیدہ قول _____ مِنْ

الْمَنْطَرِ: بڑے قطروں والی بارش - ذِكْرٌ

المِيتِ: مرنے کے بعد لوگوں کی زبان پر نام باقی

رہنا - ذِكْرُ الْحَقِّ: جگ - جِ ذِكْرٌ -

الذِّكْرُ: یاد آوری - کہا جاتا ہے "وَأَجْعَلُهُ مِثْنِي

عَلَى ذِكْرٍ" اس کو میرے لیے ایسا کر دے کہ میں

نہ بھولوں -

الذِّكْرُ وَالذِّكْيَرُ وَالذِّكْوَرُ وَالذِّكْيَرُ: بت یاد

کرنے والا - اچھی قوتِ حافظہ والا - اچھی

یادداشت والا - وَالذِّكْيَرُ مِنَ الْحَدِيدِ: عمدہ اور

سخت لوہا - زَجَلٌ ذَكْيَرٌ: خوددار مرد - اِمْرَأَةٌ

ذَكْيَرَةٌ: مردوں سے مشابہت کرنے والی عورت -

الذِّكْوَرَةُ: یاد -

الذِّكْرُ: نر - _____ مِنَ الْحَدِيدِ: عمدہ لوہا

_____ مِنَ التَّخَاسِ: سخت تاننا جو اچھی طرح کوٹا

نہ جاسکے - سَنَيْفٌ ذَكْرٌ: تلوار جس کی دھار عمدہ

لوہے کی ہو اور پشت معمولی لوہے کی منظر ذَكْرٌ:

سخت بارش - الذِّكْرُ مِنَ النَّخْلِ: پھل نہ دینے

والا کھجور کا درخت - جِ ذَكْوَرٌ - وَذَكْوَرَةٌ

وَذَكْوَانٌ وَذِكَاؤٌ وَذِكَاوَةٌ وَذِكْوَرٌ

الْبَقْلُ: وہ ترکاریاں جو لمبی اور سخت ہو گئی ہوں -

الذِّكْرُ: عضو تاسل - جِ ذَكْوَرٌ وَمَذَاكِيْرُ -

الذِّكْرِيُّ: یاد دہالی - دل باز یا ن سے یاد کرنا -

الذِّكْوَرَةُ: شہرت - کلمائی کے سر پر فولاد کا ٹکڑا -

وَذِكْوَرَةٌ السَّنَيْفِ: تلوار کی تیزی -

الذِّكْوَرَةُ: ذاکر کا سونٹ - قوتِ حافظہ -

التَّذَكْوَرَةُ: ضرورت کو یاد دلانے والی چیز - وَعِشْدُ

الْمَوْلِدَيْنِ: سرٹیلیٹ - پاسپورٹ - کلمت - جِ

تَذَاكُرٌ -

رَجُلٌ (ذَكْرًا) اللَّهُ تَعَالَى كُوبِتَ يَادُكَرْنِي وَاللَّ -

الذِّكْوَرَةُ: مردی -

الْمَذْكُورُ: لڑکے جتنے دلی عورت - يَوْمٌ مَذْكُورٌ:

سخت دہشت کا دن - طَرِيقٌ مَذْكُورٌ: خوفناک

راستہ - ذَاهِيَةٌ مَذْكُورٌ: سخت مصیبت -

الْمَذْكُورُ: نر - _____ مِنَ الشَّيْءِ: آبدار تلوار -

طَرِيقٌ مَذْكُورٌ: خوفناک راستہ - يَوْمٌ مَذْكُورٌ: سخت

دہشت کا دن -

الْمَذْكُورَةُ وَالْمَذْكُورَةُ: مردوں کی مشابہت

کرنے والی عورت -

الْمَذْكَارُ: عورت جس کی عادت لڑکے جتنے کی

ہو - أَرْضٌ مَذْكَارٌ: سخت ترکاری اگانے والی

زمین -

ذَكَتٌ تَذْكُفُ ذَكْوًا وَذَكَا وَذَكَاءٌ

وَاسْتَذَكَّتِ: النَّارُ: سخت شعلہ بھڑکانا -

الشمسُ: آفتاب کا سخت گرم ہونا _____

الْحَزْبُ: لڑائی کا تیز ہونا -

ذَكَى يَذْكِي وَيَذْكِي وَيَذْكِي وَيَذْكِي وَيَذْكِي

ذَكَاءٌ: تیز خاطر ہونا - صفت (ذکھی) مَوْنَتْ

ذَكِيَّةٌ: جِ أَذْكِيَاءَ -

ذَكَا يَذْكُو ذَكَوًا وَذَكَاءٌ: الذَّبِيْحَةُ: ذبح کرنا

ذَكَاءٌ (مِثْلُ): مہک کی خوشبو بھڑکانا -

صفت (ذکھی)

ذَكَى: النَّارُ: آگ بھڑکانا _____ الْحَزْبُ:

لڑائی کی آگ بھڑکانا _____ الذَّبِيْحَةُ: ذبح کرنا -

الرَّجُلُ: بڑی عمر کا اور موٹا ہونا -

أَذْكِي: النَّارُ: آگ بھڑکانا - روشن کرنا -

الْحَزْبُ: لڑائی کی آگ بھڑکانا - اور کہا جاتا ہے

"أَذْكِي عَلَيْهِ الْعَيْنُ" اس نے اس پر جاسوس

بیچے -

اسْتَذَكَّتِ: النَّارُ: آگ بھڑکانا -

روشن کرنا - اسْتَذَكَّتِ النَّارُ: آگ کا تیز بھڑکانا -

الذِّكَاءُ: تیزی خاطر - زود فہمی -

ذَكَاءٌ: آفتاب کا اسمِ علم ہے (غیر مصروف) کہا

جاتا ہے "ظَلَعَتْ ذَكَاءٌ" آفتاب طلوع ہو گیا -

إِزْنٌ ذَكَاءٌ: صبح -

الذِّكْوَرَةُ وَالذِّكْيَةُ: ایندھن - آگ سلگانے کی

چیز -

الذِّكَاءُ: النَّارُ (انکارا) _____ وَالذِّكَاءُ: ذبح -

الْمَذْكِي وَالْمَذْكِي: مِنَ السَّحَابِ: بت

بارش والا بادل - الْمَذْكِي مِنَ النَّخْلِ: گھوڑا

جس کی عمر بڑی اور قوتِ کامل ہو چکی ہو - جِ

الْمَذَاكِي وَالْمَذَكِيَّاتُ -

الذِّكْوَانَةُ: چھوٹا زین - جِ ذَكَوَيْنُ -

ذَلٌّ (ض) ذَلٌّ وَذَلَّةٌ وَذَلَالَةٌ وَمَذَلَّةٌ: ذلیل

ہونا - خوار ہونا - صفت (ذلیل) جِ أَذْلَاءٌ

وَإِذْلَةٌ وَذِلَالٌ - () ذَلٌّ وَذِلَالٌ: التَّبَعِيُّ:

آسانی سے تابع ہونا - صفت (ذلول) جِ إِذْلَةٌ

وَذُلٌّ: کہا جاتا ہے "ذَلَّتْ لَهُ الْقَوَامِي" اسے

تواری کی آمد ہوئی۔

ذَلَّلَهُ وَأَذَلَّهُ وَإِسْتَذَلَّهُ. ذَمِيلٌ كَرِهًا. أَذَلَّهُ
وَإِسْتَذَلَّهُ: ذَمِيلٌ پانا۔ وَأَذَلَّ الرَّجُلُ: سَمَحَ
ذَمْتٌ هُوَ ذَمِيلٌ سَاهِيَةٌ وَاللَّهُ هُوَذَمِيلٌ: الْكُرْهُ: بَكَّه لِنَكَايَا جَانَا بِرَابِرٍ كَمَا جَانَا
النَّحْلُ: دَرَخَتْ خَرْمًا كَيْ خُوشُونَ كُو
كَلْبِي بِرُكْنًا.

تَذَلَّلَ لَهُ: خَاكَسَارِي وَفَرُو تَحِي كَرِهًا.

الذَّلِيلُ: مَهْمُ بِنَانِي وَنَزِي: ذَمُّ الظَّرِيقِ: رَاسَتْ
كَارِوَعْدًا هُوَ أَذَلُّ: كَمَا جَانَا بِ "ذَعَهُ
عَلَى أَذَلَّاهِ" اس كُو اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ و
"جَاءَ عَلَيَّ أَذَلَّاهِ" وہ اپنے طور طریقہ پر آیا۔ و
"أَمْوَرُ اللَّهِ جَارِيَةٌ أَذَلَّاهَا أَوْ عَلَيَّ أَذَلَّاهَا"
اللہ کے امور حسب مواقع جاری ہیں۔ وَأَذَلَّ
النَّاسَ: سَبَّ سَے آخِرِي لُوگ۔الذَّلُّ: مَهْمُ تَابَعِدَارِي: سَمَوْلَتْ: نَزِي: تَوَاضَعُ
كَمَا جَانَا بِ "ذَلُّ ذَمِيلٌ" ذَمِيلٌ كَرِهًا وَاللَّيْزِي
ذَمْتٌ۔الذَّلُولِيُّ: نَزَمَ اِدْرَايْتَجَهْ اَخْلَاقِ وَاللَّ
ظَرْيِقِ مَذَلُّ: چَلَا هُوَ رَاسَتْ۔
شَجْوَةٌ (مَذَلَّةٌ) دَرَخَتْ جَسَ كُو ہر مَحْضُ بِا
لے۔ذَلَجَ (ن) ذَلَجًا: الضَاءُ: كُھُونَتْ كُھُونَتْ بِنَانَا۔
الذَّلَاحُ: پَانِي مَلَا هُوَ اِدْوَدُ۔ذَلَعُ (ف) ذَلَعًا: پُٹے ہوئے ہونٹ والا ہوتا۔
صَفَتْ (أَذَلَعُ) الضَّعَامُ: كُھَانَا
الْحَيَاةِ: جَمَاعُ كَرِهًا۔ذَلَعَتْ (س) ذَلَعًا: شَفَقَتْ: ہونٹ کا اٹلنا۔
صَفَتْ (أَذَلَعُ)تَذَلَّلَنَ الشَّيْءُ: ذُهِيلًا هُوَ: مَضْرَبٌ هُوَ۔
الذَّلِيلُ وَالذَّلِيلُ: كِبْرُءُ كَا دَامِنُ: رَج
ذَلَّالٌ: كَمَا جَانَا بِ "شَحْمَزُ ذَلَّالٌ ذَلَّكَ لِهَذَا
الْأَمْرُ" اس کام کیلئے اپنے دامن کو بیٹھ لو۔ یعنی
مستعد ہو جاؤ۔ ذَلَّالٌ النَّاسُ وَذَلَّيْدٌ لَانْتَهُمُ"
سب سے آخری لوگ۔ذَلَيْفٌ (س) ذَلَفًا: الْأَنْفُ: نَاكُ چھوٹی اور
ہموار ہوتا۔

الْأَذْلَفُ: چھوٹی اور ہموار ناک والا۔ مَوْنَتْ

ذَلَفًا ج ذَلْفٌ۔

ذَلَقَ (ن) ذَلَقًا وَأَذَلَقَ: الظَّاوَرُ: بِيَتْ كَرِهًا: ذَلَقَ
اللسانُ: تَمَزَّوْ صَبِحَ هُوَ۔ (____ وَأَذَلَقَ وَذَلَقَ)
الْيَسْكِينُ: چھری تَمَزَّوْ كَرِهًا: ذَلَقَهُ وَأَذَلَقَهُ وَذَلَقَهُ:
كَمَزُورٌ وَلَا فَرَاغَ كَرِهًا: ذَلَقَ الضَّبَّ: بَجُو كُو بَاہِرُ نَكَلِي
کیلئے سوراخ میں پانی ڈالنا۔ذَلَقَ (س) ذَلَقًا: السِّنْفُ اَوِ اللِّسَانُ: كُھَوَارِيَا
زبان کا تیز ہونا ____ السَّوَاجُ: چِراخِ رُوشِنِ
ہوتا ____ الرَّجُلُ: رَجِيْدُهُ هُوَ۔____ مِنَ الْعَطَشِ: پِیَاسِ سَے قَرِيبُ الْمَوْتِ
ہوتا۔

ذَلَقَ (ك) ذَلَقَةً: اللِّسَانُ: نَصِيحَ هُوَ۔

إِنذَلَقَ: تَمَزَّوْ زَبَانِ هُوَ۔

الذَّلَقُ: مَهْمُ: ذَلَقَ الشَّيْءَ وَذَلَقْتَهُ: كُسی چیز کی
تیزی۔ ذَلَقَ اللِّسَانُ: زَبَانِ كَا كُنَارُهُ: ذَلَقَ
السَّهْمَ: تَمَزَّوْ كَابَارِيكُ حَصْرًا۔الذَّلَقُ وَالذَّلَقُ وَالذَّلَقُ وَالذَّلَقُ وَالذَّلَقُ
وَالذَّلَقُ: مِنَ الْأَلْسِنَةِ اَوِ الْأَسِنَّةِ: تَمَزَّوْ زَبَانِ بِا
بَعَلَا: كَمَا جَانَا بِ "لِلسَانِ ذَلَقٌ طَلِقٌ وَذَلَقٌ طَلِقٌ
وَذَلَقٌ طَلِقٌ" تَمَزَّوْ زَبَانِ نَصِيحَ وَبَلِيغًا۔الْأَذَلَقُ: مِنَ الْأَلْسِنَةِ اَوِ الْأَسِنَّةِ: تَمَزَّوْ زَبَانِ بِا
بَعَلَا: ج ذَلَقٌ۔

الذَّلَوِقُ: مِنْ كَلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کی تیزی۔

ذَوَلَقُ اللِّسَانُ: زَبَانِ كَا كُنَارُهُ اِدْرَا سَے ہے
"أَلْأَحْرُوفُ الذَّلَوَقِيَّةُ" یعنی وہ حروف جن کا خروج
کنارہ زبان ہے۔

الْمَذَلَقُ: تَمَزَّوْ كُنَارُهُ اَوِ اَللَّيْطِ مَلَا هُوَ اِدْوَدُ۔

ذَلَى يَذَلِي ذَلِيًا: الرَّطْبُ: تَمَزَّوْ چرچنا۔

إِنذَلَى: الرَّطْبُ: تَمَزَّوْ چرچنا جانا۔

تَذَلَى: تَوَاضَعُ: فَرُو تَحِي كَرِهًا۔

إِذْلَوْلَى: ذَمِيلٌ هُوَ۔ مَطِيحٌ هُوَ۔ چھپ کر چپکے
سے جلدی نکل جانا۔ذَمَمَةٌ (ن) ذَمَمًا وَمَذَمَةٌ: بِرَابِرِي بِنَانِ كَرِهًا
الْأَنْفُ: رِيْنَتْ بِنَا۔

ذَمَمَةٌ: بِرَابِرِي بِنَانِ كَرِهًا مِمَّا بَعَدُ كَرِهًا۔

ذَامَةٌ: عَيْشَةٌ: جَمَاعَتْ كَرِهًا ہونے گزارہ كَرِهًا۔
أَذَمَةٌ: قَاتِلٌ مَذَمْتُ پانا۔ پناہ دینا اور اپنی حفاظت
میں لے لینا ____ الرَّجُلُ: قَاتِلٌ مَذَمْتُ فَعْلُ كَرِهًا

ذَم

ذَم

ذَم

ذَم

ذَم

ذَم

عَلَيْهِ وَكَهْ: كُسی کے لیے پناہ لینا

الْمَكَانُ: خَلِكٌ وَبِ بَرَكْتِ هُوَ۔ أَذَمَ بِهِمْ:
حَقَارَتُ كَرِهًا اِدْرَا بَقُولِ بَعْضِ مَذْمُومِ حَالَتِ مِیں
چھوڑنا۔تَذَامٌ: الْقَوْمُ: اِيكُ دُوسرے کی بُرَابِرِي بِنَانِ
كَرِهًا۔تَذَمَّمٌ: مَنَهٌ: نَكَبٌ وَعَارٌ كَبْحَانَا اِدْرَا شَرْمُ كَرِهًا: كَمَا
جَانَا بِ "إِنِّي أَتَذَمَّمُ مِنَ الْقَوْمِ" مِیں قَوْمِ سَے
دُوسروں کی طرف نَعْلُ نَقْلُ ہوا جوں گا۔

إِسْتَذَمَّ: قَاتِلٌ مَذَمْتُ فَعْلُ كَرِهًا۔

بِهِ: پناہ طلب كَرِهًا ____ اِلَى فُلَانٍ: كُسی کے
ساتھ ایسا فَعْلُ كَرِهًا جس پر وہ اس کی مَذَمْتُ
كَرِهًا۔الذَّمُ: مَهْمُ: بِرَابِرِي: مَذَمْتُ: ج ذَمُومٌ: كَمَا جَانَا
ہے "إِفْعَلْ كَذَا وَخَلَاكَ ذَمٌّ" ایسا كَرِهًا تَمِیں
اس پر مَلَامَتٌ نہ ہوگی۔ الذَّمُ بِمَعْنَى مَذْمُومٌ۔
مصدر بِمَعْنَى مَفْعُولٌ۔بِتَّوْ (ذَمَّةٌ) كَمُ پَانِي اَوِ اَللَّكْوَالِ: زِيَادَةُ پَانِي اَوِ اَللَّ
كُوَالِ۔الذِّمُّ: كِفَالَتٌ: بَرَكْتُ زِيَادَةُ لَاغَرًا: ہلاک ہونے
والا۔ كَمَا جَانَا بِ "رَجُلٌ ذِمٌّ" ہلاک ہونے والا
مَرُو۔

الذِّهَامُ: حَقْنٌ: عَزَتْ: حَرَمْتُ: ج ذِمَّةٌ۔

الذِّهَامَةُ وَالذِّهَامَةُ: كِفَالَتٌ۔

الذِّهَامَةُ: بَقِيَّةٌ۔

الذِّمَّةُ: اِمَانٌ: عَمَدٌ: ذَمُّ دَارِي: كَمَا جَانَا ہے
"فِي ذِمَّتِي كَذَا" یعنی میری ذمہ داری میں۔ ج
ذِمَمٌ: أَهْلُ الذِّمَّةِ: دَارِ اَللَّسْلَامِ مِیں جَزِيَّةُ دے كر
رہنے والے كفَار۔ اِيكُ دُوسرے کے ساتھ
معاہدہ كرنے والی قوم۔ كَمَا جَانَا ہے "أَنْتَ فِي
ذِمَّةِ اللَّهِ" تو اللہ کی پناہ میں ہے۔الذِّمِّيُّ: جَزِيَّةُ دے كر دَارِ اَللَّسْلَامِ مِیں رہنے
والا۔

الذِّمِيَّةُ: بِرَابِرِي: مَنَهٌ: پَرَكِي: بِنَانِي: شَبْنَمٌ: رِيْنَتْ۔

بَدْرُهُ: پَانِي: بِتَّوْ ذَمِيمٌ: كَمُ بِا زِيَادَةُ پَانِي اَوِ اَللَّكُوَالِ
(مَذَمْتُ) ج ذِمَامٌ۔

المُذْمَمُ: هَا: جے حَرَكْتُ: أَمْوَمَذَمٌ: عَيْبٌ دَارِ۔

الْمَذَمَّةُ: مَهْمُ: بِرَابِرِي: حَقْنٌ وَ حَرَمْتُ: اِدْرَا سَے

الجزأذ: مئذی کا بڑے دینے کے لیے زمین میں
 ذم چھونا۔ الضب: بجز کا سوراخ سے
 صرف ذم باہر نکالنا۔
 أذنب الرجل: گنہگار ہونا۔
 تذنت عليه: زیادتی کرنا۔ الرجل:
 شملہ لگانا۔ الظریق: راست اختیار کرنا۔
 تذانت السحاب: بادلوں کا ایک دوسرے
 کے پیچھے ہونا۔
 استذنته: پیچھے جانا۔ گنہگار پانا یا سمجھنا
 الأمر: کال ہونا۔
 الذنب: گناہ۔ ج ذنوب و ج ذنوبات۔
 الذنب: من الحيوان: دم۔ ج أذنان۔
 أذنان الناس: معمول لوگ۔ ذنب العقرب:
 بچھو کا ذنب۔ ذنب السوط: کوڑے کا کنارہ۔
 ذنب الغلبل و ذنب الفرس و ذنب
 الخيل: مختلف نباتات کے نام۔ اور کہا جاتا ہے
 "ضرب بذنبه" اس نے اقامت کر لی۔ و ذكبت
 ذنب البعير: وہ ناقص حصہ پر راضی ہو گیا۔
 و ذكبت ذنب الریح: وہ آگے بڑھ گیا اور کوئی
 اس کو نہ پاسکا۔ و "تنبى و ينبى ذنب الضب"
 میرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے۔
 الذناب: اونٹ کی دم یا نہی کی رسی۔
 ذناب الشئ: چیز کا پچھلا حصہ۔ ج ذنائب
 الذنابة: قرابت۔ (الذنان و الذنابة)
 من الوادى: وادی کے بننے کی انتہائی جگہ۔
 الذنبة: دم۔ ذنباث الناس و ذنابناهم:
 لوگوں میں معمول اور گنہگار کے لوگ۔
 الذنابى: پرندہ کی دم۔
 الذنوب: من الخيل: لمبی اور زیادہ بالوں کی
 دم والا گھوڑا۔ ج ذنائب و ذناب و أذنبه:
 الذنوب: قبر و نہی کی چلی کا گوشہ۔
 ضب (أذنب) لمبی ذم والی گوہ۔
 الذنبى و الذنبى: دم۔
 المذنب: لمبی دم۔ پتلا نالہ۔ کہا جاتا ہے
 "سألت المذنب" نالے بہ پڑے۔
 والمذنبه: بچی۔
 المذنب: دم دار۔ اور اسی سے ہے "نجم
 مذنب" ذم دار تارہ۔

ذمل (ن ض) ذملاً و ذملاً و ذملاً و
 ذملاً: البعير: اونٹ کا آہستہ چلنا۔
 ذمل البعير: اونٹ کو آہستہ چلانا۔
 ناقة (ذمؤن) آہستہ چلنے والی اونٹنی۔ ج ذمل:
 الأذمل: برص والا۔
 ذملق ذملقة: چالوسی کرنا۔
 الذملق: چالوسی۔ تیز زبان۔ تیز کوار۔
 ذمہ (س) ذمها۔ الحوز: گرمی سخت ہونا
 الرجل بالحوز: سخت گرمی لگنا۔
 ذمى (س) ذمما و ذمما: ہلنا۔
 ذمى (ض) ذمما: لمبی بیماری والا ہونا۔ قریب
 الموت ہونا۔ بدبو لگانا۔ (ذمياً، جلدی کرنا
 ذمته الریح تذميه ذمياً) تکلیف دینا۔
 أذمى الذمما: فلاناً: مار کرنے کے قریب کر
 رہنا۔
 استذمى: ما عنده: جو کچھ کسی کے پاس ہو
 ڈھونڈ کر سب کچھ لے لینا۔
 الذمى: بدبو۔
 الذمما: بقیہ روح۔ کہا جاتا ہے "أظول ذمما"
 من الضب: وہ بجز سے زیادہ سخت جان ہے۔ اس
 وجہ سے کہ بھوکے روح بڑی دیر میں نکلتی ہے۔
 ذن (ض) ذنبنا و ذننا: المصاخط: رینٹ ہلنا۔
 کہا جاتا ہے "إنه ليدن" یعنی وہ بڑھا ہے یا مرض
 کی وجہ سے ضعیف ہے۔ و "ما زال يدن فى تلك
 الحاجة حتى انخجها" وہ ہمیشہ اس حاجت میں
 لگا رہا میں تک کہ اس کو کامیاب کر لیا۔
 ذن (س) ذننا و ذنن: رینٹ بننے والا ہونا۔
 ذن (ض) ذنبنا: النبوذ: سخت سردی ہونا۔
 الذنن: گندگی۔
 الأذن: وہ شخص جس کے دونوں نتھوں سے
 رینٹ برہ رہی ہو۔ مؤنث ذننا۔ ج ذن اور أنفك
 منك وإن كان أذن مثال ہے۔ اس شخص کے حق
 میں بولتے ہیں جو اپنے ضعف قوم سے بیزار ہو۔
 الذنان و الذین: بننے والی رینٹ۔
 الذنابة: حاجت۔ کمزور چیز کا بقیہ۔
 ذنبه (ض) ذنبا: پیچھے لگے رہنا۔
 ذنب العمامة: شملہ لگانا۔ (الكتاب:
 تمہ لگانا۔ الضب: بھوکے ذم پکڑ لینا۔

سے ہے "هو يحفظ مذنته" وہ اپنے حق کی
 حفاظت کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے "قضى مذنته
 أو مذنته" اس نے ذمت و بڑائی کے خوف
 سے اس کے ساتھ احسان کیا۔ "و أذهب منه
 بشئ" اس کو کچھ دو کہ اس کا حق ہے۔
 المذمم مذموم۔
 ذمأف (ذمأ) المزم عليه: دشوار ہونا۔
 ذمت (ض) ذمنا: لاغر ہونا۔ خفیر ہونا۔
 ذمحل ذمحل: لڑھکانا۔
 ذمذم: الرجل: تھوڑا عطیہ دینا۔
 ذمزه (ن) ذمزا: دھمکی دینا۔ ذمزه على
 الأمر: بلا مت کے ساتھ کسی کام پر برا بیعت کرنا
 الأسد: گونجا۔ دھاڑنا۔
 ذمزه الشئ: اندازہ کرنا۔ الرجل:
 کسی کے موڑھے کو چھونا۔
 تذمزه: فوت شدہ چیز پر اپنے آپ کو ملا مت
 کرنا۔ غھیناک ہونا۔ کہا جاتا ہے "كان يتذمزه
 على زبته" وہ اپنے رب پر بگڑتا تھا۔ على
 فلان: بگڑنا اور دھمکی دینا۔ (و تذامز)
 القوم: ایک دوسرے کو جنگ پر برا بیعت کرنا۔
 ایک دوسرے کو ملا مت کرنا۔
 الذمور و الذمور و الذمير: بہادر۔ ج
 أذمار۔
 الذمار: ہر وہ چیز جس کی حمایت و حفاظت
 ضروری ہو۔ حرم۔ اپنے لوگ۔ کہا جاتا ہے "هو
 أمتنع ذمارة منك" وہ تم سے زیادہ حفاظت
 کرنے والا ہے و "هو حامي الذمار" وہ قابل
 نگہداشت چیز کی حمایت و حفاظت کرنے والا
 ہے۔
 ذمارة: جنگ پر برا بیعت کرنے کے لیے اسم فعل
 ہے۔
 الذمارة: شجاعت۔ بہادری۔
 الذميرى: تیز طبیعت۔
 المذمور: سف۔ کدھا گردن اور اس کا ارد گرد۔
 کہا جاتا ہے "بلغ الأمر المذمور" معاملہ شدت
 کو پہنچ گیا۔
 ذمظه (ض) ذمظا: زنج کرنا۔
 طعام (ذمظ) زور ہضم خوراک۔

(اس کا اور اس کے تشبیہ اور جمع کا اعراب انہی جیسے مشابہ کلمات کا اعراب جیسا ہوتا ہے) کہا جاتا ہے "لَقَيْتُهُ ذَاتَ يَوْمٍ اَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ اَوْ ذَاتَ مَرَّةٍ" میں نے اس سے کسی دن یا کسی رات یا کسی دفعہ ملاقات کی۔ "وَكَانَ ذَلِكَ ذَاتَ الْعُيُونِ" یہ گزشتہ سال تھا۔ و "جَلَسَ ذَاتَ الْيَمِينِ" وہ دائیں جانب بیٹھا۔ "وَلَقَيْتُهُ اَوَّلَ ذَاتِ يَدَيْهِ" میں سب سے پہلے اس سے ملا۔ ذَاتُ الصَّدْرِ: گلہ یا بھید۔ ذَاتُ الْيَمِينِ: دائیں جانب۔ ذَاتُ الْبَيْتِ: حال۔ کہا جاتا ہے "اَصْلُ حُجْرَاتِ ذَاتِ بَيْتِكُمْ" تم لوگ اپنی اس حالت کو درست کرو جس پر اتفاق کر سکتے ہو۔ ذَاتُ شَفَاةٍ: گلہ۔ کہا جاتا ہے "كَلَّمْتُهُ فَمَا زِدَ عَلَيَّ ذَاتَ شَفَاةٍ" میں نے اس سے گفتگو کی اس نے جواب میں ایک کلمہ بھی نہیں کہا۔ ذَاتُ الْبَيْدِ: ملکیت۔ کہا جاتا ہے "قُلْتُ ذَاتَ يَدَيْهِ" اس کی ملکیت تم ہو گئی اور کہا جاتا ہے "اَلْقَتْ الدَّجَاجَةَ ذَاتَ بَغْلِيهَا" یعنی مرغی نے انڈا دیا یا بیٹ کی۔ ذَاتُ الْيَمْنِ عِنْدَ الْاَطْبَاءِ: نمونہ۔ ذَاتُ الرِّئَةِ وَذَاتُ الصَّدْرِ وَذَاتُ الْكَبِدِ: بیماریوں کے نام۔

الذات۔ وہ چیز جو جانے یا خبر دینے کے قابل ہو۔ ذَاتُ الشَّيْءِ: نفس شئی۔ عین شئی۔ جوہر شئی۔ اِسْمُ الشَّيْءِ۔ عِنْدَ التَّحَاةِ: نحویوں کے نزدیک اسم ذات وہ ہے جو کسی ذات سے تعلق رکھتا ہو۔ جیسے مرد۔ شہر وغیرہ اور اس کے مقابلہ اسم معنی ہے جیسے علم، شجاعت، سخاوت وغیرہ۔ الذوات عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ: قوم کے بڑے بڑے لوگ۔

الذاتی۔ ذات کی جانب منسوب۔

ذَابَ (ن) ذَوْبًا وَذَوْبًا۔ الفلجُ اَوْ السَّمْنُ: برف یا گھی پگھلنا۔ دَغْمَةُ: آنسو سنا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کا گرم و تیز ہونا۔ الرَّجُلُ: عقل مند کی بعد پر خوف ہونا۔ شد کھانے پر مداومت کرنا۔ کہا جاتا ہے "ذَابَ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ" میرا حق اس پر ثابت ہوا اور "مَا ذَابَ لِي يَدِي مِنْ خَيْرٍ" مجھ کو اس سے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ و "ذَابَ جَسْمُ الرَّجُلِ" اگر ہو گیا۔

حَصْرٌ۔

الْمَذْهَلُ: ہٹا ہونے کی جگہ۔

الْمَذْهُولُ: مِنَ الذَّخِيلِ اَوْ الرِّجَالِ: عمدہ گھوڑا۔ اچھا آدمی۔ ج ذَهَائِلُ۔

ذَهْنٌ (ف) ذَهْنًا۔ الْأَمْرُ: سمجھنا۔ تیزی خاطر میں غالب آنا۔ وَأَذَهْنَ وَاسْتَذَهْنَ الرَّجُلُ عَنِ الْأَمْرِ: فراموش کر دینا۔

ذَهْنٌ (س) ذَهْنًا۔ الشَّيْءُ: سمجھنا۔

ذَهْنٌ (ك) ذَهَانَةٌ۔ اچھے حافظ والا ہونا۔

ذَهْنٌ: ذہن کا زائل ہونا۔

ذَاهِنَةٌ: ذہن کی تیزی خاطر میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ يُذَاهِنُ النَّاسَ وَ يُفَاطِحُهُمْ" وہ لوگوں سے ذہانت اور فطانت میں مقابلہ کرتا ہے۔

أَقْرَبُ الْمَوَادِّ فِي شَرْحِ الْاِشْرَارِ كَالْحَالِ: سے ہے کہ علوم حاصل کرنے کے لئے نفس کی استعداد کا نام ذہن ہے اور اس استعداد کی جو ذہانت کا نام فطانت۔

الذَّهْنُ: سمجھ۔ عقلی قوت۔ حافظہ۔ ذہن کی تیزی خاطر۔ چربی۔ قوت اور اسی سے ہے "مَنَابِرُ جَلْمِي ذَهْنٌ" میرے پیر میں چلنے کی قوت نہیں۔ ج اَذَهَانَ۔

الذَّهْنُ: سمجھ۔ ذہن کی سوج اَذَهَانَ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ اَهْلِ الْاَذَهَانَ" وہ سمجھ دار لوگوں میں سے ہے۔

رَجُلٌ ذَهْنٌ وَذَهْنٌ: ذہن کی اور سمجھ دار مرد۔

ذَهَانٌ (ذَهْوًا): تکبر کرنا۔

ذُو: صاحب مالک۔ تشبیہ ذَوَانٌ۔ ج ذَوُورُنْ (اس کا اعراب اسائے ست کبیرہ کا اعراب ہے) کہا جاتا ہے "وَجَدْتُهُ ذَا صَبَاحٍ" میں نے اس کو صبح کے وقت پایا و "جَاءَ مِنْ ذِي نَفْسِهِ" وہ فرما تہداری کی حالت میں آیا۔ اور قنماء کے قول "ذُو الْبَيْدِ أَحَقُّ" کا مطلب یہ ہے کہ قبضہ کرنے والا زیادہ حق دار ہے و "وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ ذِي قَبْلِ" یعنی یہ گزشتہ زمانہ میں تھا۔ ذَوُورُ الْأَرْحَامِ: رشتہ دار۔ اقربا۔

الذَّوُورُنْ وَالْأَذْوَاءُ: بہن کے بادشاہ جن کے نام لفظ زو سے شروع ہوتے ہیں۔ جیسے ذَوُورُنْ۔ ذَوُورُ اس۔ ذَوُورِيَاش۔ وغیرہ۔

ذَاتٌ: ذُو كَامُورُنْ۔ تشبیہ ذَوَاتَانِ۔ ج ذَوَاتِ

الْمَذَابِ: مِنَ الْاِبِلِ وَالذَّخِيلِ: سب سے آخر میں چلنے والا اونٹ یا گھوڑا۔

ذَهْوٌ: اسم اشارہ مؤنث ہے قریب کے لیے اور اس پر "ہا" تشبیہ داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہذو و ہذوہ۔

ذَهَبٌ (ف) ذَهَابًا وَذَهْوًا وَمَذْهَبًا۔ جانا۔ گزرتا۔ مرتا۔ الْأَمْرُ: ختم ہونا۔ عَلِيُّ الشَّيْءِ: بھول جانا۔ یہ: لے جانا۔ ساتھ جانا۔ جگہ سے ہٹانا اور اسی سے ہے "ذَهَبَتْ بِهِ الْخُبَيْلَاءُ" اس کو تکبیر لے گیا یعنی اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دیا۔

فِي الصَّنْفَةِ اِلَى كَذَا: فلاں رائے اختیار کرنا۔

ذَهَبٌ (س) ذَهَبًا۔ سونے کی کان میں بہت سا سونپا کر جیران ہونا۔

أَذَهَبَ وَذَهَبَ۔ سونے کی قلعی کرنا۔ صفت مفعول (ذَهَيْتُ وَ مَذْهَبْتُ وَ مَذْهَبْتُ) أَذَهَبَهُ وَأَذَهَبَ بِهِ۔ لے جانا۔ جگہ سے ہٹانا۔

الذَّهَبُ۔ سونہ (کبھی مؤنث بھی بولتے ہیں) ج اَذَهَابٌ وَذَهْوٌ وَذَهَابٌ۔ ایک گلے کو (ذَهَبَةٌ) کہتے ہیں۔ الذَّهَبُ: انڈے کی زردی۔ ج ذَهَابٌ وَأَذَهَابٌ وَجِ اَذَاهِبٌ۔

الذَّهْبَةُ: بھلی یا بہت بارش۔ ج ذَهَابٌ وَأَذَهَابٌ وَجِ اَذَاهِبٌ۔

الذَّهْوُورُ: جانے والا۔

الْمَذْهَبُ۔ سہ۔ روش۔ طریقہ۔ اعتقاد۔ اصل۔ ج مَذَاهِبٌ تَمَذَّهَبُ بِالْمَذْهَبِ "اسی سے فعل بنا ہے یعنی اس نے مذہب اختیار کیا۔ مشہور مذہب چار ہیں۔ حنفی۔ شافعی۔ حنبلی۔ مالکی۔

الْمَذْهَبَاتُ: زمانہ جاہلیت کے طبقہ ثانیہ کے آٹھ تعلقات کے علاوہ سات قصائد۔

ذَهْوٌ (س) ذَهْوًا۔ فوہ: کالے دانوں والا ہونا۔ صفت (أَذَهْرٌ) مؤنث ذَهْوَاءُ۔ ج ذَهْرٌ۔

ذَهَلٌ (ف) ذَهْلًا وَذَهْوَالًا۔ الشَّيْءُ وَعَثَةٌ: بھول جانا۔ غافل ہو جانا۔

ذَهَلٌ (س) ذَهْوَالًا۔ ہٹا ہونا۔ ہوش میں نہ رہنا۔

أَذَهَلَ: غافل کر دینا۔


الذَّهْلُ وَالذَّهْلُ: مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک

ذَوْبُ السَّمْنِ: کھی پھلانا۔ الغلام: لڑکے کے گیسوتنا۔
 آذَابٌ إِذَابَةٌ: السَّمْنُ: کھی پھلانا۔
 حَاجَتُهُ: حاجت پوری کرنا۔ القَوْمُ: اَمْرُهُمْ: درست کرنا۔ عَلَى الْعَدْوِ: دشمن پر لوٹ ڈالنا۔
 اسْتَذَابَهُ: پھلانے کو کہنا۔ شِدْمًا مَكْتًا: الشَّيْءُ: باقی رکھنا۔ حَاجَتُهُ: پوری کرنا۔
 الذَّابُّ: عیب۔
 الذَّوْبُ: سد۔ خالص شد۔ ذَوْبُ الذَّهَبِ: سونے کا پانی یا پھلانا ہوا سونا۔ اور کہا جاتا ہے ”هَذَا الْكَلَامُ ذَوْبُ الرُّوحِ“ یہ کلام روح کو پھلانے والا ہے۔
 الذَّوْبِيَّةُ: ذاب کا اسم مرہ: کہا جاتا ہے ”ظَهَرَتْ مِنْهُ ذَوْبِيَّةٌ“ اس سے حماقت ظاہر ہوئی۔ مال کا بقیہ جس کو انسان باقی رکھے۔ نَاقَةٌ (ذَوْبُوت) موٹی اونٹنی۔
 الإذْوَابُ: الاذوابة۔ مھن جو ہانڈی میں کھی حاصل کرنے کیلئے پھلایا جائے۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ أَخْلَى مِنَ الذَّوْبِ بِالْإِذْوَابَةِ“ وہ خالص شد جو خالص مھن کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اس سے زیادہ بیٹھا ہے۔
 المذْوَبُ: سونا وغیرہ پھلانے کی کھالی۔
 المذْوَبَةُ: مچھ۔
 ذَاخٌ (ن) ذَوْجًا: جلدی کرنا۔ الصَّاءُ: پانی پینا۔
 ذَاخٌ (ن) ذَوْخًا: سخت چال چلانا۔
 (ذَوْخٌ) الإِبِلُ: اونٹوں کو متفرق و پراگندہ کرنا۔
 ذَاذَهُ (ن) ذَوْذًا: اوڈیٹاڈا۔ رفع کرنا۔ ہٹانا۔
 وحسارہ: کہا جاتا ہے ”ذَاذُ الإِبِلِ عَنِ الصَّاءِ“ اس نے اونٹوں کو پانی سے ہٹا دیا۔ (ذَوْدًا) عَنْ حَسَبِهِ: بھانا۔ حماقت کرنا۔ صفت (ذَائِدٌ) ج ذَوْدُو ذَوْدًا وَذَاذَةً: آذاد اذادہ اور ہٹانے میں مدد دینا۔
 الذَّوَادُ: بہت دفع کرنے والا۔
 الصَّدَادُ: چراگاہ۔

المذْوَدُ: سویلیوں کا تھان۔ جس سے کسی چیز کو ہٹایا جائے۔ تیل کا سینگ۔ زبان۔
 رجال (مداوڈ و مداوڈ) قابل نگہداشت چیزوں کی حماقت کرنے والے لوگ۔
 الذَّوْرُ: مٹی۔
 الذَّوْرَةُ: پرندے کے پونے کا گلا حصہ جس میں پانی رہتا ہے۔
 الذَّوْرُوْرُ: تھوڑا۔ کہا جاتا ہے ”مَا أَعْظَاهُ ذَوْرُوْرًا“ اس نے اُسے تھوڑا سا بھی نہیں دیا۔
 ذَاظَةُ (ن) ذَوْطًا: سخت گلا گھونٹنا۔
 الإِنَاءَةُ: بھرننا۔
 ذَوْطٌ (س) ذَوْطًا: چھوٹی چھوٹی ٹھوڑی والا ہونا۔ صفت (أذَوَطٌ)
 الذَّوْطَةُ: زرو پیچھ والی کٹڑی۔ ج أذَوَطُ۔
 الذَّوْطُ: اونٹنی اور درجہ کے لوگ۔
 إِذَاعٌ (ن) ذَوْعًا: مائلہ: سب کچھ پراگندہ کر دینا۔
 إِذَاعٌ إِذَاعَةٌ: القَوْمُ بِصَافِيِ الحَوْضِ: قوم کا سارے پانی پینا۔ الرِّجْلُ بِصَالَةٍ: لے جانا۔
 ذَافٌ (ن) ذَوْفًا: کشادہ قدم رکھتے ہوئے چلنا۔
 الذَّوْفَانُ: زہر۔
 ذَاقٌ (ن) ذَوْقًا وَذَوَاقًا وَمَذَاقًا الشَّيْءِ: چکھنا۔
 العَدَابُ: عذاب برداشت کرنا۔
 الرِّجْلُ وَمَا عِنْدَ الرِّجْلِ: آزمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے ”مَا ذَاقَ ذَوَاقًا“ اس نے کچھ نہیں چکھا۔
 تَذَوَّقَ الشَّيْءَ: تھوڑا تھوڑا چکھنا۔
 تَذَوَّقَ: القَوْمُ الشَّيْءَ: چکھنا۔ کہا جاتا ہے ”تَذَوَّقُوا الرِّمَاحَ“ انہوں نے نیزوں کو سنبھالا۔
 اسْتَذَاقَهُ: آزمائش کرنا۔ تجزیہ کرنا۔ لَهُ الأَمْرُ: آسانی سے حاصل ہونا۔ اسی سے ہے ”لَا يَسْتَذِقُ لِي الشَّيْءَ الأَفْيَ فُلَانٌ“ میرے لیے شہری آمد نہیں ہوتی مگر فلاں کے حق میں۔
 الذَّوْقُ وَالدَّائِقَةُ: چکھنے کی قوت۔
 الذَّوْقُ وَالدَّوَقُ: طبیعت۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ حَسَنُ الذَّوْقِ لِلشَّعْرِ“ اس کی طبیعت شعر کے لئے زیادہ موزوں ہے الذَّوَقُ: مزہ۔ کہا جاتا ہے ”ذَوُّهُ طَيِّبٌ“ اس کا مزہ اچھا ہے۔
 المَذَاقُ: مزہ۔ کہا جاتا ہے ”مَذَّ اللهُ طَيِّبٌ“ اس کا مزہ اچھا ہے۔ ”وَهُوَ مَرُّ المَذَاقِ“ وہ کڑوے مزہ

کابے۔
 الذَّوْبِلُ: خشک گھاس وغیرہ۔
 الذَّانُ: عیب۔
 التَّذْوَنُ: تو انگریز نعت۔
 ذَوِي (ض) وَذَوِي (س) ذَوِيًا: التَّبَاتُ: نباتات کا پڑھ مرہ ہونا۔
 أَذَوِي أَذَوِيًا: پڑھ مرہ کرنا۔
 الذَّوِي: بکری کے چھوٹے بچے۔
 الذَّوَاةُ: خربوزہ یا انگور وغیرہ کا چھلکا۔
 اسم اشارہ مؤنث ہے قریب کے لیے۔
 ذَيْتٌ ذَيْتٌ أَوْ ذَيْتٌ وَذَيْتٌ: بات چیت یا فعل کیلئے کنایہ ہے جیسے ”قُلْتُ لَهُ ذَيْتٌ ذَيْتٌ“ میں نے اس سے ایسا ایسا کیا۔ ”فَعَلْتُ ذَيْتٌ ذَيْتٌ“ میں نے ایسا ایسا کیا اور اسی کے مانند (ذَيًّا) ذَيًّا وَذَيَّةً ذَيَّةً: ہیں۔
 ذَاخٌ (ض) ذَيْجًا: الصَّاءُ: پانی پینا۔
 ذَايَجَةٌ مَذَّابِحَةٌ: کسی کے ساتھ ہو کر پینا۔
 ذَيْخَتُ: التَّخْلَةُ: گامخانہ لگانا۔
 إِذَاخٌ إِذَاخَةٌ: بالمسكان: گرد گرد گھومنا۔
 بِنِي فُلَانٍ: ذیل کرنا۔
 الذَّيخُ: دیر بھیرنا۔ زیادہ ہلانا۔ والا۔ زَجْوُ: مؤنث ذَيْخَةٌ: عمدہ گھوڑا۔ تکبر۔ ایک سرخ رنگ کا ستارہ۔ ج أذْيَاخٌ وَذْيُوخٌ وَذَيْخَةٌ: ذَاوٌ ذَيْذَاوٌ ذَيْذَاوٌ: تاپنا۔
 الذَّيْوَةُ: مٹی ملا ہوا گوبر۔
 ذَاغٌ (ض) ذَيْغًا وَذَيْغًا وَذَيْغَةً وَذَيْغَانًا: الخبث: پھیلنا۔ اور کہا جاتا ہے ”ذَاغٌ فِي جِلْدِهِ الخبثُ“ اس کے جسم میں کھلی پھیل گئی۔
 إِذَاغٌ إِذَاغَةٌ: الخبثُ: پھیلنا۔
 البَسْرُ بالبَسْرُ: ظاہر کرنا۔ القَوْمُ مَا فِي الحَوْضِ: او بظاہر: سارا پانی لینا۔
 بالشَّيْءِ: لے جانا۔
 إِذْذَاعُ الخبثِ: پھیلنا۔
 المذْيَاعُ: راز کی حماقت نہ کرنے والا۔ ج مَذَابِيحٌ: تم کہتے ہو ”فَلَاؤُ لِلْأَسْرَامِذْيَاعِ وَ لِلْأَسْبَابِ مَصْبِياعٍ“ فلاں بھیدوں کو بہت ظاہر کرنے والا اور اسباب کو بہت ضائع کرنے والا ہے۔

<p>اس کا حال اچھا ہو گیا اور مال بڑھ گیا۔ ثَوْبٌ (مُدَّالٌ أَوْ مُدَّيْلٌ) لہجے دامن کا کپڑا۔ المُدَّالَةُ - باندی۔ لونڈی۔ اور مثل ہے ”أَخْبِلَ مِنْ مُدَّالِيَةٍ“ باندی سے زیادہ منگبر۔ اس لئے کہ اس کی اہانت کی جاتی ہے اور وہ اپنی حماقت سے ناز و انداز سے چلتی ہے۔ دَنُوعٌ مَدَّالَةٌ: لمبی زرہ۔ أَرْضٌ مُتَدَيِّلَةٌ (مُتَدَيِّلَةٌ) زمین جس پر ہلکی سی بارش ہو۔ الجُدَّيَالُ - لہجے دامن والا (فد کرو مونت) ذَامَةٌ (ض) ذَيْمًا وَ ذَامًا - عیب لگانا۔ نرمت کرنا۔ صفت (مَلُونِيمٌ وَمَدَّيُونُم) الذَّامُ وَالذَّيْمُ - عیب۔ نرمت۔ الذُّيْنُ - عیب۔</p>	<p>_____ المَرْأَةُ قَتَا حَتْمَهَا: عورت کا برقع کو لٹکانا۔ _____ الدَّمْعُ: آنسو برانا۔ تَدَيَّلَ - لمبی الکلام: گستاخی کرنا۔ الجَوَارِيَةُ: لڑکی کا دامن کھینچنے ہوئے ناز سے چلنا _____ الفَرْسُ فِيهِ إِسْتِنَابُهُ: گھوڑے کا دوڑنے میں خوشی سے ڈم ملانا۔ تَدَايَلٌ - حَالُهُ: پست و فروتر ہونا۔ الذَّيْلُ - چیز کا آخری حصہ۔ ذَيْلُ الثَّوْبِ: دامن۔ ذَيْلُ الرِّبِيْعِ: ریت پر ہوا کے نشانات۔ ذَيْلُ الفَرْسِ: ذم یا ذم کا لٹکا ہوا حصہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ فِي ذَيْلِ ذَائِلٍ“ وہ بڑی سخت زلت میں ہے۔ رَجُ الذَّيَالِ وَ ذَيْوَالِ وَأَذْيَالِ - أَذْيَالُ النَّاسِ وَ ذَيْوَالُهُمْ: آخر کے لوگ۔ الذَّايِلُ - ق۔ دامن دار۔ دَنُوعٌ ذَائِلٌ أَوْ ذَائِلَةٌ: لہجے دامن والی زرہ۔ کہا جاتا ہے ”عَالٌ ذَيْلُهُ“ یعنی</p>	<p>الذَّيْقَانُ وَالذَّيْقَانُ - مسلک زہر۔ ذَّانٌ (ض) ذَيْلًا - الثَّوْبُ: کپڑے کا لہجہ ہونا۔ دامن دار ہونا _____ الطَّائِرُ: پرندہ کا ذم کو کھینچنا یا پھیلانا _____ النَّاقَةُ بِذَنْبِهَا: اونٹنی کا رالوں پر ادھر ادھر رانا _____ الجَوَارِيَةُ: لڑکی کا دامن کھینچنے ہوئے ناز سے چلنا _____ الشَّيْءُ: ادنیٰ ہونا۔ حَالُهُ: پست و فروتر ہونا _____ فَلَانٌ إِلَى فَلَانٍ: گستاخی کرنا۔ ذَيْلُ الثَّوْبِ - کپڑے کا لہجہ کرنا۔ الْكِتَابُ: کتاب کے آخر میں کچھ بڑھانا۔ أَذَالٌ إِذَالَةٌ وَأَذْيَالٌ أَذْيَالًا - الثَّوْبُ: دامن والا ہونا _____ الرَّجُلُ ثَوْبُهُ: کپڑے کا دامن بنانا۔ دامن لہجہ کرنا۔ مَالُهُ: خرچ کرنا _____ ۵: اہانت کرنا _____ فَرْسُهُ وَ غَلَامُهُ: لاپرواہی کی وجہ سے دھلا کرنا۔</p>
---	--	--



رَأْسُ الشَّهْرِ أو العَامِ: مَبْنِيٌّ يَأْسَالُ كَأَسْلَادِنَ - اور کہا جاتا ہے "فَعَلَتْ رَأْسًا" اس نے اس کام کو ابتداء کیا۔ و "وَلَدَتْ ثَلَاثَةَ رَأْسًا عَلَيَّ رَأْسٌ" اس عورت نے کے بعد دیگرے تین بچے جنے۔ و "زَيْمِثٌ مِّنْكَ فِي الرِّئَاسِ" تیری رائے میرے حق میں ایسی بڑی ہوئی کہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ و "هَذَا قِسْمٌ بِرَأْسِهِ" یہ مستقل ایک قسم ہے۔ و "أَنْتَ عَلَيَّ رَأْسٌ أَمْرُكَ" تو اپنے کام کے سرے پر ہے۔

رِيَّاسٌ - السَّنِيفُ: تلواری کا قبضہ۔ کہا جاتا ہے "أَنْتَ عَلَيَّ رِيَّاسٌ أَمْرُكَ" تو اپنے کام کے سرے پر ہے۔

الرِّئَاسُ - نا - حاکم - ج زُوَّاسٌ -

الرِّئَاسُ وَ الرِّئَاسُ - سردار قوم - چودھری - ج زُوَّاسٌ -

الرِّئَاسُ - مستحکم سرداری والا۔

الرِّئَاسُ - وادیوں کی بلندیاں - اگلے بادل۔

وَأَصْدَرُ رِيَّاسَةٌ -

الرِّئَاسُ - سری بیچنے والا۔

الرِّئَاسُ - بڑے سروالا - مؤنث رَأْسَاءُ -

الرِّئَاسُ - بڑے سروالا۔

الرِّئَاسُ - مِنَ الخَيْلِ: وہ گھوڑا جو گھڑ دوڑ میں دوسرے گھوڑوں کے سر کو کاٹے۔ گھڑ دوڑ میں آگے بڑھنے والا۔

الرِّئَاسُ - جَنَكٌ: جسے جرانے والا۔

الرِّئَاسُ - رَمِيَتْ: محکوم۔ بڑے سروالا)۔

الرِّئَاسُ - وَ الرِّئَاسُ: وہ شخص جس کے سر میں زخم لگا ہو۔

الرِّئَاسُ - شَبِيرٌ -

رَأْفٌ (ف) رَأْفٌ وَ رَأْفٌ (ك) رَأْفَةٌ وَ رَأْفٌ

تَمَلَّكْنَا _____ الفِطْرُ: جَمَلْنَا _____ العُنُقُ: گردن کا پھیرا ہونا (تَوَادُّو وَ تَوَادُّو) الضَّحَى: روشنی پھیلنا۔ دن چڑھنا۔

رَأْدٌ وَ رَأْدٌ: الضَّحَى: آفتاب چڑھنے اور روشنی پھیلنے کا وقت۔ و الرُّادُ: کان کے نیچے جڑے کی ابھری ہوئی جڑ۔

الرُّودُ: ہم عمر۔ کہا جاتا ہے "هَذَا رُودِي" یہ میرا ہم عمر ہے۔ و رُودٌ: کا پودہ۔ ج رَأْدٌ -

الرُّادُ وَ الرُّادَةُ وَ الرُّودُ وَ الرُّودَةُ: خوبصورت نوجوان عورت۔ الرُّودُ: نرمی۔ سمولت۔ کان کے نیچے جڑے کی ابھری ہوئی جڑ۔

رَأْرَأٌ: چلی پھرنا۔ تیز دیکھنا۔ رَأْرَأٌ بِعَيْنَيْهِ: آنکھیں پھرانا۔ صفت مذکر (رَأْرَأٌ) صفت مؤنث

رَأْرَأٌ وَ رَأْرَأَةٌ وَ رَأْرَأَةٌ وَ رَأْرَأَةٌ _____

الرِّبَابُ: ہر نیوں کا دم بلانا _____ السَّحَابُ: السَّرَابُ: بادل یا سراب کا چمکنا _____ الرُّجُلُ:

چڑھنے یا اونچے میں حرف رازیدہ ہونا۔

رَأْسٌ وَ رَأْسٌ: رَأْسٌ: سر میں ہونا۔

رَأْسٌ (م) رَأْسَةٌ: القَوْمُ: سردار قوم ہونا

(رَأْسَةٌ) (ف) رَأْسًا: سر پر زخم پہنچانا _____

السَّيْلُ العُفَاءُ: سیلاب کا ٹوٹا کرکٹ جمع کرنا۔

رَأْسٌ: درو سروالا ہونا۔

رَأْسَةٌ: سردار بنانا۔

رَأْسٌ وَ رَأْسٌ: سردار ہونا۔

رَأْسَةٌ: گردن چکر زمین میں جھکا کرنا۔

رَأْسٌ الشَّيْءِ: کسی چیز کے سرے پر سوار ہونا۔

الرِّئَاسُ: سرج آؤس و رَأْسٌ و رَأْسٌ و

رَأْسٌ: اس کا اطلاق ہر ذی روح کے لیے ہوتا ہے اور اکثر جانوروں کے لیے جیسے اَنْعَامٌ رَأْسًا

مِنَ العَنَقِ: الرِّئَاسُ: چیز کی چوٹی۔ سردار قوم۔

رَأْبٌ (ف) وَ رَأْبٌ: الضَّدْعُ: بچھن درست کرنا۔ حرمت کرنا۔ الشَّيْءُ: جمع کر کے نرم بانہ جتنا _____ يَتَنَهَمُ: صلح کرنا۔

رَأْبٌ الأَرْضِ: سبزی کاٹ لینے کے بعد سرسبز ہونا۔

رَأْبٌ إِذَا بَأَبَا: الضَّدْعُ: بچھن درست کرنا۔

الرِّئَابُ: بچھن۔ شگاف۔ سردار۔ ج رَأْبٌ -

کہا جاتا ہے "كَفَى بِفُلَانٍ رَأْبًا لِأَمْرِكَ" فلاں تمہارے امر کو درست کرنے والا کافی ہے۔ (اس

جملہ میں مصدر بمعنی اسم فاعل ہے) الرُّؤْبَةُ: لکڑی وغیرہ کا ٹکڑا۔ جس سے کسی چیز کو درست کیا جائے۔ سوراخ بند کرنے کی چیز۔ گاڑھا

دودھ۔ رات کا گزرنا ہوا وقت۔ حاجت۔ ج رَأْبٌ وَ رَأْبَاتٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ رَأْبٌ بَيْنِي وَ بَيْنَ فُلَانٍ" وہ

بوفلاں کے امور کا درست کرنے والا ہے۔

الرِّئَابُ وَ المِزَابُ: درست کرنے والا۔

رَأْبٌ وَ رَأْبَةٌ: ایک جانب کو جھکنے ہوئے چلنا

گویا کہ ننگے پیر چلنے کی وجہ سے تکلیف ہے۔

رَأْبٌ: القَوْمُ: چور بننا _____ عَلَيْهِ: لوٹ

وانا۔

الرِّئَابُ وَ الرِّئَابُ: شبر۔ پھیلاؤ۔ ج رَأْبٌ وَ رَأْبٌ وَ رَأْبَةٌ وَ رَأْبَةٌ: الرِّئَابُ: اکلوتا

لڑکا۔

الرِّئَابُ: صنوبر کا گوند۔

رَأْدٌ (ك) رَأْدَةٌ: الفِطْرُ: نشی کا تراور

بست نازک ہونا۔ صفت (رَأْدٌ)

تَوَادُّتٌ: الرِّبْحُ: ہوا کا ادھر ادھر چلنا۔ تَوَادُّتٌ

الرُّجُلُ: اٹھنے میں کا پھانچا _____ (وَ رَأْدًا)

العُلَامُ: خوش میٹھی کی وجہ سے لڑکے کے بدن کا

(س) زَأْفُو تَزَأْفُ بِهِ: بہت مرہلی کرنا۔ صفت
(زَوْفُ وَزَوْفُ وَرَأْفُ وَرَأْفُ وَزَأْفُ وَزَأْفُ)
تَوَأْفُو: آپس میں مرہلی کرنا۔

زَأْفُهُ وَاسْتَزَأْفُهُ: مرہلی بنانا۔ مرہلی کرنے پر
براہمیت کرنا۔

الزَّأْفُ: شراب۔

اسْتَزَأْفُ: الزَّأْفُ: شتر مرغ کے بچے کا قوی و
مضبوط ہونا۔ التَّبَاتُ: لہی ہونا۔

الزَّأْفُ: شتر مرغ کا بچہ۔ مَوْنَتْ زَأْفَةُ: جِ رِئَالِ
وَأَزْوَلُ وَرِئَالَانُ۔ رِئَالَةٌ: کہا جاتا ہے "خَوْدُ
زَأْفُهُ" یعنی وہ گھبرا گیا۔

الزَّوَالُ: گھوڑے کے منہ کے جھاگ۔

الزَّوَالُ وَالزَّوَالُ: دانوں کے نیچے زائد لکھا
ہو ادانت۔ نَعَامَةٌ (مُزَيَّلَةٌ): بچے والی مادہ شتر مرغ۔

المُزَيَّلُ: جلدی کرنے والا۔

زَأْمُ (ف) زَأْمًا: الخَبْلُ: مضبوط بنا۔

القِدْحُ: درست کرنا۔ مرمت کرنا۔

زَمِمَ (س) زَأْمًا وَرِئَالًا: الجَزْحُ: زخم کا
انگور بندھنا۔ الشَّقِيُّ: نجات کرنا۔ أَلْفَتْ

کرنا۔ النَاقَةُ وَلَدَهَا: مرہلی ہونا۔ صفت
(زَائِمَةٌ وَزَائِمَةٌ زَوْفٌ) جِ زَوَائِمُ: کہتے ہیں "ہو
زَوْفٌ لِلصَّيْمِ" وہ ذلیل ہے۔ زلت پر راضی ہو

جانے والا ہے۔

أَرَأَمَ زَأْمًا: الجرحُ: زخم کو علاج کر کے اچھا
کرنا۔ الخَبْلُ: رستی کو مضبوط بنا۔

هَ عَلَيَّ الْأَمْرُ: مجبور کرنا۔ النَاقَةُ:

اونٹنی کو دوسرے کے بچے پر مرہلی بنانا۔

تَرَأْمَةٌ وَتَرَأْمٌ عَلَيْهِ: مرہلی ہونا۔

الرَّائِمُ: سفید ہرن۔ جِ آزَامُ وَآرَامُ: مَوْنَتْ
رِئَامَةٌ۔

الزَّوَامُ: لعاب۔

الزَّوَالِمُ: دیگر دان کے پائے۔

الزَّوَامُ: اونٹ کا بچہ۔ اونٹ کے بچے کا چچا جس
میں بھوسہ بھریا گیا ہو۔

الزَّوَالِمُ: دیر کا حلقہ۔

زَأَى يَزِي رَأْيًا وَزَوَيْتُهُ وَزَأَةٌ: وَرِئِيَانًا۔
بصارت یا بصیرت سے دیکھنا۔ يَزِي كِي اَصْلُ
يَزِي ہے اور اصل کا استعمال نادر ہی ہوتا ہے۔

اور امر کا صندز ہے۔ کہا جاتا ہے "يَأْتُرِي وَيَأْتَاهُلُ
تُرِي" یعنی اسے غصہ کیا تو گمان کرتا ہے؟ اور
مضارع کا صندز گمان کے معنی میں مجمل ہی بنا گیا
ہے۔

زَأَةُ الشَّقِيِّ: دیکھنا۔

زَأَى (ف) زَأِيًا: الزَّجْلُ: پھینچنے پر مارنا
الزَّيْدُ: جھمکان سے آگ نکالنا۔

الزَّيْدُ: آگ لگانا۔ الزَّيَاةُ: جھنڈا
گاڑنا۔

زَأَيْتُهُ تَزَيْتُهُ: خلاف حقیقت دکھانا۔

زَأَى يَتَهُ مَوَاءً آفًا وَرِئَاءً: خلاف حقیقت دکھانا۔
وَزَأَيْتُهُ مَوَاءً آفًا: باہم مشورہ کرنا۔

أَزَاى إِزَاءً: عجل ورائے والا ہونا۔ چہرے
میں حماقت ظاہر ہونا۔ آئینہ میں دیکھنا۔ دکھلاوے

کے لیے کام کرنا۔ پھینچنے کے درو والا ہونا۔ بہت
خوش منظر ہونا۔ دیکھنے کے وقت پکوں کو بلانا

الزَّيَاةُ: جھنڈا گاڑنا۔ الخَائِلُ مِنْ
غَيْرِ ذَوَاتِ الخَائِلِ وَالسَّبِيحِ: تھن سے حاملہ

معلوم ہونا۔ صفت (مُزَيَّةٌ وَمُزَيَّتَةٌ)

أَزَاهُ يَزِيهِ إِزَاءً قَوًّا وَإِزَاءً الشَّقِيُّ: دکھانا۔ صفت
نکر (مُزِي) صفت مَوْنَتْ مُزِيَّةٌ: کہا جاتا ہے "أَرُونِي
بِزَأِيكَ" مجھے مشورہ دو۔ و "أَزَى اللَّهُ بِنُفْلَانِ"
اللہ تعالیٰ فلاں کو عذاب دیں اور اس کے دشمن کو

دو دکھلائیں جس پر وہ خوش ہو۔

تَرَأَى وَتَرَأَى: لَئِي المِزَاءُ: آئینہ میں دیکھنا۔
تَرَأَى وَتَرَأَى لَهُ: دیکھنے کے درپے ہونا۔

وَتَرَأَى النَّاسَ: ایک دوسرے کو دیکھنا۔ اور کہا
جاتا ہے "تَرَأَى يَتَاهَى الْأَمْرُ" ہم نے معاملہ میں

غور کیا۔ و "تَرَأَى بَرَأَى فُلَانٌ" وہ فلاں کا ہم خیال
ہو گیا۔ و "تَرَأَى لِي أَنَّ الْأَمْرَ كَيْتٌ كَيْتٌ"
میرے لئے یہ ظاہر ہو گیا کہ معاملہ ایسا ہے۔ و

"تَرَأَيْتُمَا الْهَيْلَانَ" ہم نے چاند دیکھنے کی کوشش
کی۔

إِزَأَى: الْأَمْرُ: غور کرنا۔ ٹھک کرنا۔ سوچنا۔

اسْتَزَأَى: دیر چاہنا۔ رائے طلب کرنا۔ کہا
جاتا ہے "اسْتَزَأَيْتُهُ وَاسْتَزَأَيْتُهُ" استزأى
بِالمُضَرَّةِ: آئینہ سے دیکھنا۔

الزَّيَا: رائے۔ اعتقاد۔ تم کہتے ہو "زَأَيْتُ كَذَا"
میرا اعتقاد ایسا ہے۔ تدبیر کی رسائی۔ جِ آزَاءُ
وَأَزَاءُ۔

الرَّيُّ وَالرَّيُّ وَالرَّيُّ وَالرَّيُّ وَالرَّيُّ: منظر اور حسن
منظر۔

الزَّوَيْتَا: خواب جِ زَوَيْتُ: کہا جاتا ہے "جَاءَ
جِنَّنٌ زَوَيْتًا أَوْ زَأِيًا" وہ اس وقت آیا جبکہ
تاریکی خوب ہوگی۔

الزَّوَيْتَةُ: آگھ یا دل سے دیکھنا۔ جِ زَوَيْتُ:
الرَّيَّةُ: دیکھنا۔

میرا اعتقاد ایسا ہے۔ تدبیر کی رسائی۔ جِ آزَاءُ
وَأَزَاءُ۔

الرَّيُّ وَالرَّيُّ وَالرَّيُّ وَالرَّيُّ وَالرَّيُّ: منظر اور حسن
منظر۔

الزَّوَيْتَا: خواب جِ زَوَيْتُ: کہا جاتا ہے "جَاءَ
جِنَّنٌ زَوَيْتًا أَوْ زَأِيًا" وہ اس وقت آیا جبکہ
تاریکی خوب ہوگی۔

الزَّوَيْتَةُ: آگھ یا دل سے دیکھنا۔ جِ زَوَيْتُ:
الرَّيَّةُ: دیکھنا۔

الرَّيَّةُ: ص۔ حقیقت کے خلاف دکھانا۔ کہا جاتا
ہے "فَعَلَّ ذَلِكَ رِئَاءً" اس نے اس کو نمود اور

دکھانے کے لیے کیا۔ اور کہا جاتا ہے "هَمْ رِئَاءُ
أَلْفٍ" وہ لوگ دیکھنے میں تقریباً ہزار ہیں۔ و "فَوَقَّ
رِئَاءً": ایک دوسرے کے مقابل قوم۔ و

"ذُو ذُرِّ رِئَاءً": ہمارے گھر ایک دوسرے کے
مقابل ہیں۔

التَّزَيْتَةُ: منظرًا حسن منظر۔

الرَّيَّةُ آء: بہت دیکھنے والا۔

الرَّيَّةُ: پھینچنا۔ جِ رِئَاتٍ وَرِئُونٍ اور نسبت
کے لیے (رِئَوِيٌّ)

رِئِيٌّ القَوْمُ: قوم کا سردار جس کی رائے سے
سب اتفاق کریں۔ الرِّئِيُّ: بڑا سانپ۔ کہرا جو

خریدار کے سامنے پھیلایا جائے۔ هُوَ (أَزَاى)
بِكَذَا: وہ اس کے لائق ہے۔

المِزَاءُ: آئینہ۔ جِ مَوَاءُ وَمَوَائِيَا: اس سے فعل
کا اشتقاق کرتے ہیں جیسے يَتَمَزَأَى یعنی وہ آئینہ

میں اپنا چہرہ دیکھ رہا ہے (اس کو سیویہ نے بیان کیا
ہے)

المِزَاى وَالمِزَاةُ: منظر۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
مِزَاةٌ بِكَذَا" وہ اس کے لائق ہے۔ و تُجْزَعُنْ
مِنْهُنَّ وَهُنَّ مِزَاةٌ: اس کا ظاہر باطن پر دلالت کرتا

ہے و "هُوَ مِزِيٌّ مِزَاى وَ مِشْمَعٌ أَوْ مِزَاى وَ
بِمِشْمَعٍ" وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اس کو دیکھ
سکتا اور اس کی بات سن سکتا ہوں۔

رَبُّ (ن) رَبًّا: القَوْمُ: بلا دست ہونا۔ انتظام
کرنا۔ اليَهْمَةُ: زیادہ کرنا۔ الشَّقِيُّ:

جمع کرنا۔ مالک ہونا۔ الْأَمْرُ: کسی کام کو
درست کرنا۔

وارد ہونا۔ الابل۔ پالی پر جانے کے لیے آزاد چھوڑنا۔ اَرْبَعُ الزَّوْجِلِ: بوحالے میں بچ پیدا ہونا۔

اَرْبَعُ الزَّوْجِلِ: چوتھا بخار والا ہونا۔

تَرْبَعٌ: فی جُلُوبِهِ: چار زانوہ کر بیٹھنا۔

(واَرْبَعَةُ الحَمَلِ: اونٹ کا بار بار کا بنوہ

چر کے موٹا ہونا۔ بِالْمَكَانِ: فصل بار

میں اقامت کرنا۔ وَاَرْبَعَةُ الحَجَرِ: پتھر اٹھانا۔

اِسْتَرْبَعُ الزَّمَلَ: ریت کا تہہ بہہ ہونا۔

السَّقَى: طاقت رکھنا۔

الزَّبَعُ: سہ گھر۔ گھر کا گرد گرد۔ اترنے کی جگہ۔

موسم گزارنے کی جگہ۔ لوگوں کی جماعت۔ لاش۔

ج رَبَاعٍ وَزُبُوعٍ وَأَرْبَعٍ وَأَرْبَاعٍ (وَالزَّبَعُ) مِیَانَتِد۔

الزَّبَعُ وَالزَّبَعُ: چوتھائی ج ارباع و زبوع۔

الزَّبَعُ: اونٹنی کا بچہ جو ابتدائی موسم ہمار میں

پیدا ہوا اور اگر آخر میں پیدا ہو تو اس کو ھنبح کتے

ہیں۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُمْ زَبَعٌ وَلَا ھُنْبَعٌ" ج

وَبَاعٍ وَأَرْبَاعٍ مَوْتٌ زَبَعَةٌ: ج زَبَعَاتٌ وَرَبَاعٍ۔

الزَّبَعُ: تین دن اونٹوں کو روک کر چوتھے دن

پالی پلانا۔ حُمَّى الزَّبَعِ: چوتھا بخار۔

الزَّبَاعِ: فا۔ چوتھا۔ زَبَعٌ زَبَاعٍ: بہت فراخی اور

ارزانی کا موسم ہمار۔ اِبِلٌ رَوَابِعٍ: چوتھے دن پالی

پینے والے اونٹ۔

زَبَاعٍ: چار چار۔

کہا جاتا ہے "اَنْوَأَرْبَاعٌ" وہ لوگ چار چار آئے۔

الزَّبَعَةُ: مِیَانَتِد (قد کرو مَوْتٌ) ج زَبَعَاتٌ وَ

زَبَعَاتٌ: عطر فروش کا ڈبہ۔ کہا جاتا ہے "فَتَّحَ

العَقْلَ وَزَبَعَتَهُ" عطر فروش نے اپنا ڈبہ کھولا۔

الزَّبَاعِ: اچھی حالت۔ کہا جاتا ہے "ھُمَّ عَلٰی

زَبَاعِهِمْ" وہ لوگ اپنی اچھی حالت پر ہیں۔

الزَّبَاعَةُ وَالرَّبَاعَةُ: اچھی حالت۔ کہا جاتا ہے

"لَیْسَ فِیْھِم مِّنْ یُّضَبِّطُ زَبَاعَتَهُ اِلَّا فُلَانٌ" ان

لوگوں میں فلاں کے علاوہ کوئی اپنی خوشحالی کو

برقرار رکھنے والا نہیں۔ سرداری۔ کہا جاتا ہے "لَا

یَقْبِیْمُ زَبَاعَةَ القَوْمِ اِلَّا فُلَانٌ" قوم کی سرداری کو

فلاں ہی برقرار رکھ سکتا ہے۔ و "ھُوَ زَبَاعَةُ

قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ مملوک چیز جس

زَابِطُ الحَاشِی: قوی دل غیر خائف۔

الزَّبِیْطَةُ: رابطہ کا مَوْت۔ تعلق۔ علاقہ۔

الزَّبِیْطَةُ: بندھا ہوا۔ راہب۔ زاہد۔ فلسفی۔ زَبِیْطَةُ

الحَاشِی: ہمار۔

الزَّبِیْطَةُ: باندھے ہوئے جانور۔

خِلَافِ قِیَاسِ ذَابِئَةِ رَبِیْطَةٍ: اور ذَوَاتِ زَبِیْطَةٍ کَمَا

جَانَاہُ اُور دَابِئَةُ رَبِیْطَتِہِی کَمَا جَانَاہُ۔

الزَّبَاتُ: تانت کو باندھنے والا۔

الزَّبِیْطُ: بندھے ہوئے اور چارہ دیئے ہوئے

گھوڑے۔ واحد (زَبِیْطٌ)

المَرْبِیْطُ وَالْمَرْبِیْطُ: جانوروں کے باندھنے کی

جگہ۔ ج مَرْبِیْطٌ۔

المَرْبِیْطَةُ: آپس میں تعلق رکھنے والی جماعت۔

ج مَرْبِیْطَاتٌ۔

زَبِیْعٌ (ف) زَبِیْعًا: توقف کرنا۔ انتظار کرنا۔ کہا جاتا

ہے "اَزْبِیْعُ عَلَیْکَ اَوْ عَلٰی نَفْسِکَ اَوْ عَلٰی

ظَلْمِکَ" یعنی ٹھہرو۔ توقف کرو۔

بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ عِنْدَ: کرنا۔

عَلٰیہ: ہمرائی کرنا۔ الزَّوْجِلُ: فراخی سال

میں پہنچنا۔ اَزْمَأَش قُوْتٌ کِیْلَہُ پتھر اٹھانا۔

بِعَرَبِیْہ: راضی رہنا۔ الابلُ: چوتھے دن

پالی پینے آنا۔ زَبَعَتْ عَلٰیہِ الحُمَّى: چوتھے دن

بخار آنا۔ زَبِیْعًا (ف) زَبِیْعًا: موسم ہمار آنا۔

زَبِیْعٌ (ف ن م) زَبِیْعًا: الخبیل، چار بل کی

رستی بننا۔ القَوْمُ: اپنے آپ کو ملا کر چار یا

چالیس کرنا۔ چوتھائی مال لینا۔

زَبِیْعٌ: القَوْمُ: موسم ہمار کی بارش پانا اور ایسا ہی

زمین کے لئے۔ زمین کی صفت (مَزْبِیْعَةٌ)۔

الزَّوْجِلُ: چوتھے دن بخار آنا۔

زَبِیْعٌ: التَّیْبَتِ اَوْ الحَوْضُ: مکان یا حوض چوکور

بنانا۔

زَابِعُو: الحَمَلُ: بوجہ جس کٹڑی کے ذریعہ

اٹھایا جائے اس کو بوجہ کے نیچے داخل کرنا۔ کہا جاتا

ہے "وَزَبَعْتَهُ" میں نے اس کے ساتھ بوجہ کو کٹڑی

کے سارے سے اونٹ کی پیٹھ پر لاوا۔

اَزْبِیْعٌ: چوتھے سال میں داخل ہونا۔

القَوْمُ: چار ہونا۔ موسم ہمار میں داخل

ہونا۔ موسم ہمار کی اقامت گاہ یا بنوہ دار اور پالی پر

زمین سے لگے۔ چوکور میان۔

الرَّبِیْضُ: مِنَ التَّبَعِ: بیٹھی ہوئی گائے کا گدہ۔

الزَّبِیْضُ: بکریوں کا باڑہ۔ قوم کے رہنے کی جگہ۔

شہر کا گرد و نواح۔ شہر کی فیصل۔ آنتیں۔ کواہ کی

رستی۔ ہر وہ چیز جس کی پناہ لی جائے یا جس سے

آرام حاصل کیا جائے۔ ج اَزْبِیْضًا۔

الزَّبِیْضَةُ وَالزَّبِیْضَةُ: ضعف کی وجہ سے

ٹھہرنے والا یا بہت بیٹھے والا مرد۔

الرَّبِیْضَةُ: لاشوں کے ڈھیر کی جگہ۔ لاش۔

بکریوں کا گدہ۔ آدمیوں کا گردہ۔ بکری کے بیٹھے کی

بیٹ۔

الزَّبِیْضُ: مِنَ القَرَى: ایلو گاؤں۔ مِنَ

الذُّوْعِ: کشادہ زرہ۔ مِنَ الشَّجَرَةِ: بڑا

درخت۔ ج زَبِیْضٌ: فَرِیْقَةٌ زَبِیْضٌ: بڑی ٹنگ جو

اٹھائی نہ جاسکے۔

الزَّبِیْضُ: بازے میں بیٹھی ہوئی بھیڑیں۔ مع

اپنے چرواہوں کے۔ بیٹ میں آنتوں کی جگہ۔

المَرْبِیْضُ: جانوروں کے بیٹھے کی جگہ۔ ج

مَرْبِیْضٌ (والمَرْبِیْضُ) بیٹ میں آنتوں

کی جگہ۔

الزَّبِیْضُ: عَصْفَرٌ۔

زَبِیْطَةٌ (ن م) زَبِیْطًا: باندھنا۔ مضبوط کرنا

۔ اللہ عَلٰی قَلْبِہِ: قوی کرنا۔ مبروتہ۔ (ا

زَبِیْطَةٌ) مضبوط دل ہونا۔

زَابِطٌ رِبَاطًا وَرَبِیْطَةٌ: اَلَا مَرٌ: مدامت کرنا

۔ الحَیْضُ: لشکر کا دشمن کی سرحد کے پاس

بیش قیام رکھنا۔

تَوَابِطُ: المَاءُ فِی الْمَكَانِ: پالی کا جمع ہو کر

ٹھہرا رہنا اور گدلا ہونا۔

اَزْبِیْطٌ: قَوْمًا: حفاظت سرحد کے لیے تیار

کرنا۔ فِی الحَبْلِ: بندھنا اور لگانا۔

الرباط۔ سہ۔ جس سے کسی چیز کو باندھا جائے۔

دل۔ گھوڑا۔ قلعہ یا وہ جگہ جہاں لشکر حفاظت

سرحد کے لیے قیام کرے۔ ج۔ زَبِیْطٌ: الرباط:

فقرام کے لیے مکان موقوفہ۔ ج۔ رباطات۔ کہا

جاتا ہے "قَرَضَ رَبِیْطَةً" یعنی وہ مر گیا یا مرض

سے تندرست ہو گیا۔

الزَّبِیْطُ: فا۔ راہب۔ زاہد۔ تارک الدنیا فلسفی۔

سے انسان کی حالت اچھی ہو۔

الزَّبَاعِيَّةُ۔ سامنے کے چار دانتوں اور پچھلوں کے درمیان والدانت۔ ج زَبَاعِيَّات۔

الزَّبَاعِي۔ وہ جانور جس کے رباعی دانت گر گئے ہوں۔ ج زُبُعٌ وَزُبُعٌ وَرَبْعَانٌ وَرَبَاعٌ وَزُبُعٌ وَرَبَاعٌ۔

مؤنث زَبَاعِيَّةٌ ج زَبَاعِيَّات۔ الزَّبَاعِيَّةُ۔ چار سے مرکب۔

الزَّبُعُ۔ ج أَرْبَعَةٌ وَرَبَاعٌ وَأَرْبَعَاءٌ: موسم بہار۔ موسم بہار کی بارش۔ موسم بہار کی پیداوار۔ سبز چارہ۔ کہا جاتا ہے ”زُبُعٌ زَبَاعِيٌّ“ فراخی اور

ارزائی کا موسم بہار۔ ج أَرْبَعَاءٌ وَزُبْعَانٌ: زمین کیلے پانی کا حصہ۔ ج زُبُعٌ: چوتھائی۔

الزَّبُعِيُّ: مِنَ الْمَسَاكِينِ: موسم بہار کی اقامت گاہ۔

الزَّبُعِيَّةُ۔ پتھر جو طاقت کی آزمائش کے لیے اٹھایا جائے۔ باغ۔ لوہے کا خور۔ توشہ دان۔ خوشبو وغیرہ رکھنے کا برتن۔

الزَّبُعُ۔ کزور۔ کینڈ۔ الزَّبُعِيَّةُ۔ پستہ قد۔ چار زانو بیٹھے والے کی نشست۔ اونٹ کے بچوں کی ایک بیماری۔

أَرْبَعَةٌ۔ چار۔ مؤنث أَرْبَعٌ۔ الرِّيَاحُ الْأَرْبَعُ: چھوٹی۔ پروائی۔ دکھنی۔ آری ہوائیں۔

قَوَائِمُ الْأَرْبَعِ: چار بارے۔ أُمَّ الْأَرْبَعِ وَأَرْبَعِينَ: ایک قسم کا کثیرا۔

الْأَرْبَعَاءُ۔ مثلثة الباء: بدھ کا دن۔ تنزیہ أَرْبَعَاوَانٌ۔ ج أَرْبَعَاوَاتٌ وَأَرْبَعَاوَاتٌ۔ قَعْدَةُ (الْأَرْبَعَاءُ وَالْأَرْبَعَاوَاتِي) وہ چار زانو بیٹھا۔

الْأَرْبَعَاءُ: ستون خانہ۔ أَرْبَعُونَ۔ چالیس۔

الْمَرْبُوعُ۔ موسم بہار کی بارش () وَالْمَرْبُوعِ ”موسم بہار کی اقامت گاہ۔“

الْمَرْبُوعُ وَالْمَرْبُوعَةُ۔ لکڑی جو جانور پر بوجھ لانے کے لیے استعمال کی جائے۔

الْمَرْبُوعُ۔ موسم بہار میں بچہ جننے والی ادنیٰ۔ الْمَرْبُوعُ۔ چوتھا بخار والا۔

الْمَرْبُوعُ۔ چار ستون والا یا چار ضلعوں والی شکل۔ حاصل ضرب جو کسی عدد کو اسی سے ضرب دے کر حاصل ہو چکے

۱۶×۳۲=۳

الْمَرْبُوعُ۔ وہ جگہ جہاں کی سبزی ابتدائی موسم بہار میں اگے۔ مال غنیمت کی چوتھائی جو زمانہ جاہلیت میں سردار لیا کرتا تھا۔ موسم بہار میں بچہ دینے والی ادنیٰ۔

() وَالْمَرْبُوعُ وَالْمَرْبُوعَةُ (درمیانہ قد۔ الْمَرْبُوعِ۔ ابتدائے موسم بہار کی بارشیں۔

الْمَرْبُوعُ۔ ایک قسم کا چہا جس کی اگلی ٹانگیں چھوٹی اور پچھلی بڑی ہوتی ہیں۔ ج مَرْبُوعِيَّةٌ۔

زُبُعٌ (ف) زَبَاعُ۔ الْقَوْمُ لِيَنِ التَّعِيمِ: خوشحال زندگی بسر کرتا۔

زُبُعٌ (س) زَبَاعُ۔ عَيْشُهُ: فراخ و آسودہ ہونا۔ الزُّجُلُ۔ بدکار و شوخ چشم ہونا۔ صفت (زُبُع)

زُبُعٌ (ک) زَبَاعَةٌ۔ بہت ہونا۔ الْأَرْبَعُ۔ کثیر و کشادہ۔

زُبُعَةٌ (ن) زُبُعًا وَزُبُعَةً: پھندے سے باندھنا۔ وَفِي الْأَمْرِ: کام میں ڈالنا۔

وَزُبُعِ الْكَلَامِ: جھوٹ سے مزین کرنا۔ کہا جاتا ہے ”زُبُعِ الْوَجْلِ أَثْنَاءَ حَبْلِهِ وَأَرْبَاعُهُ“ مرنے اپنے بکری کے بچوں کیلئے رشتی کا پھندا بنایا۔

تَوَزُّعًا: لگانا۔ کہا جاتا ہے ”تَوَزُّعْتُ السَّنَى لِيَنِ عُنُقِي“ میں نے چیز کو اپنی گردن میں لٹکایا۔

إِزْتَبَعْتُ لِيَنِ الْجِبَالَةَ: لٹکانا۔ لِيَنِ الْأَمْرِ: کسی کام میں پھنسا۔ اور اسی سے ہے ”إِزْتَبَعْتُ لِيَنِ حَبْلِي“ یعنی میں اس کے کمر و فریب میں پھنس گیا۔

الرَّبِيقُ۔ پھندوں والی رشتی۔ الزَّبِقَةُ وَالرَّبِيقَةُ۔ رشتی کا پھندا۔ ج وَرَبِيقٌ وَرَبِاقٌ وَأَرْبَاقٌ۔ کہا جاتا ہے ”حَلٌّ رَبِيقَةٌ“ اس نے اس کے رنج و غم کو دور کر دیا۔ وَ”نَقَضُوا الْجِبَالَ وَآكَلُوا الرِّبَاقَ“ انہوں نے عمد و پیمان توڑ دیئے۔

الزَّبِيقُ۔ پھندے سے باندھا ہوا پھندے میں پھنسا ہوا۔

الْمَرْبُوعَةُ۔ چربی سے ترکی ہوئی روٹی۔ الِزْبِيقُ۔ بکری باندھنے کی رشتی۔ أُمَّ الزُّبَيْقِ۔ بلا۔

زُبُكٌ (ن) زُبُكًا۔ السَّنَى: ملانا۔ الزَّبَيْكَةُ: گارا بنانا۔ ہ: بچہ میں گرا۔

زُبُكٌ (س) زُبُكًا۔ بچیدہ و دشوار معاملہ میں پھنسا۔ صفت (زُبُكٌ وَزُبُكٌ) إِزْتَبَعْتُ لِيَنِ الْوَجْلِ: بچہ میں گرا۔

فِي الْأَمْرِ: پھنس کے رہ جانا۔ لِيَنِ كَلَامِهِ: رُكٌ كَمَا كُنْتُ كَرْنَا۔ الصَّنْدُ لِيَنِ الْجِبَالَةَ: شکار کا جال میں ترننا۔ پھنسا۔ لِيَنِ الْأَمْرِ: معاملہ کا پچیدہ ہونا۔

إِزْتَبَعْتُ لِيَنِ الْوَجْلِ: رائے کا ٹکڑا ہونا۔ الزُّجُلُ عَنِ الْأَمْرِ: کام سے رک جانا۔ الزَّبَيْكَةُ۔ گارا۔ دودھ ماہو اہمکن۔ کہا جاتا ہے ”رَمَاهُ زُبَيْكَةً“ اس نے اس کو بچیدہ معاملہ میں پھنسا دیا۔ وَالرَّبِيقُ وَالرَّبِيقَةُ: ایک قسم کا کھانا جو پیچر، کھجور اور گھی ملا کر تیار کرتے ہیں اور کبھی پانی ڈال کر پیتے ہیں۔

الزُّبُكُ۔ جِنُّ الْأَبْلِ: کانا اونٹ۔ زُبُكٌ (ن) ض) زُبُكًا۔ الْقَوْمُ: بڑھتا۔ زیادہ تعداد والی ہونا۔ زُبُكٌ وَالْمَرْبُوعِيُّ: بہت گھاس والی ہونا۔

زُبُكٌ وَأَرْبَلٌ۔ الْمَكَانُ: موسم خزاں کی جمادات والی جگہ ہونا۔ زَابِلٌ۔ بدکار ہونا اور بُرئاً کا شہر رہنا۔ تَوَابِلٌ۔ لوگوں پر لوث ڈالنا۔ تَوَابِلٌ۔ موسم خزاں کی سبزی کھانا۔ شکار کرنا۔ بہت گوشت والا ہونا۔ جَسْمُهُ: پھولنا۔ الْأَرْضُ: موسم خزاں کی بہت سبزی والی ہونا۔ موسم خزاں کے آنے پر خشک ہونے کے بعد سرسبز ہونا۔ تَوَابِلٌ الْقَوْمُ: موسم خزاں کی سبزی چرانا۔ إِزْتَبَلٌ۔ مائلہ۔ بہت ہونا۔ الزُّبُلُ۔ موسم خزاں کے پودے و سبزی جو بغیر بارش کے رات کی نمی کی وجہ سے پھولتے۔ ج زُبُولٌ۔ الزُّبُلُ۔ بہت سبز رنگ کی ایک قسم کی گھاس۔ زُجْلٌ (زُبُلٌ)۔ موٹا مرد۔ الزُّبُلَةُ وَالزُّبُلَةُ۔ ران کی جڑیں۔ موٹا گوشت۔ ج زُبُلَاتٌ۔

الزئبۃ - الغلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔ الزئبۃ - مرتبہ۔ ن زئب۔ الزئبۃ والذئب۔ قائم و ثابت چیز۔ بیٹگی۔ منی۔ غلام جس کے لیے بعد دیگرے تین مالک ہوں۔ کہا جاتا ہے "جاءَ وَاوْتَبَتْ" وہ سارے آئے۔ الزئبۃ راستے کے مانند جس پر آدمی چلے۔ الزئبۃ - فاعلٌ عینش زائبت: عیش دائم۔ والزئبۃ عند المحدثین: حنواہ و طیفہ۔ ج ز و ائب۔ الزو ائب: سنن مؤکدہ۔ المزئبۃ - درجہ۔ اعلیٰ درجہ۔ ج حو ائب۔ رَتَجٌ (ن) رَتَجًا۔ الثَّابِتُ: دروازہ بند کرنا۔ رَتَجْنَا الصَّبِيَّ: بچے کا چلنے لگانا۔ رَتَجٌ (س) رَتَجًا۔ الخَطِيبُ: خطیب کا تقریر میں بند ہو جانا۔ أرَتَجَ الثَّابِتُ: دروازہ مضبوط بند کرنا۔ الْفُلُجُ: برف کا لگا تار کرنا۔ الخَضْبُ: ساری زمین کو عام ہونا۔ الدَّجَاجَةُ: مرغی کا ننڈوں سے بھر جانا۔ السَّخْرُ: سمندر کا جوش مارنا۔ أرَتَجَ وَأرَتَجَ وَأَسْتَرَجَ: الخَطِيبُ: خطیب کا تقریر میں بند ہو جانا۔ الرَّتَجُ والرَّتَاجُ: بھانگ۔ بڑا بند دروازہ جس میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہو۔ سَبَكَةٌ (رَتَج) بندگی۔ مثال رَتَجٌ مال جس کے حاصل کرنے کی کوئی سبیل نہ ہو۔ الرَّتَاجَةُ: چٹان۔ ج ز تائج۔ (و) المَرَّتَجُ: ننگ راستہ۔ ج حو ائج۔ المِرَّتَاجُ: ننگ راستہ۔ کبھی۔ مکان (مَرَّتَج) بہت جانات والی جگہ۔ رَتَجٌ (ف) رَتُوجًا۔ العَجِيزُ: گندھے ہوئے آنے کا پانی زیادہ کرنے سے چلا ہونا۔ بِالمَكَانِ: اقامت کرنا۔ مِّنَ الخَيْرِ: پیچھے رہنا۔ الرَّتَجَةُ: سخت کچڑ۔ جلد (رَتَج) ننگ کھال۔ رَتُوتٌ: حرف تباہی کے بولنے میں پھلانا۔ رَتَجٌ (ف) رَتَجًا و رَتُوجًا و رَتَجًا۔ آسودہ	نَبْوَةٌ عِنْدَ الحَمَّاسِ: دوس لاکھ۔ الرَّبْوَةُ: بڑی جماعت (مانند دس ہزار کے) ج رہی۔ الرَّبْوَةُ: حشرات الارض کی ایک قسم۔ ملی۔ الرَّبْوَةُ: جملیت۔ نیلہ۔ الرَّبْوَةُ: چڑھی ہوئی سانس۔ جماعت۔ ج ازباء۔ الرَّبْوَةُ عِنْدَ الاطْبَاءِ: جوف کی سوجن۔ ایک بڑی جو پیچھے سے میں ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سانس لینی دشوار ہوتی ہے۔ الرَّبْوَةُ: عجزا و زہامی۔ کہا جاتا ہے "جاءَ فِي الرَّبْوَةِ قَوْمٌ" یعنی وہ اپنے اہل اور اپنے قبیلہ میں آیا۔ ران کی چڑیا ران کے بالائی حصہ اور پیٹ کے درمیان کا حصہ۔ الْاِزْبَانُ: جھینگا۔ رَتٌ (ض) رَتًا۔ پھلانا۔ تھلانا۔ صفت مذکر (رَتٌ) بوصفت مؤنث (رَتَاءٌ و رَتِيٌّ) ج رَتٌ۔ أرَتَدَا رَتَاتًا۔ اللہ پھلانا کرنا۔ الرَّتُّ: سخت۔ زر سوز۔ جنگلی سوز۔ ج رتتہ۔ الرَّتُّ: رکبیس۔ سردار۔ ج رتوت۔ کہا جاتا ہے "هُومِن رَتُوتِ الناس" وہ لوگوں کا سردار ہے۔ الرَّتَّةُ: پھلانا۔ لکت۔ زبان کی بیٹگی۔ رَتًا (ب) رَتُوءًا۔ گلا گھوسنا۔ العَفْدَةُ: گرہ مضبوط کرنا۔ فِي المَكَانِ: اقامت کرنا۔ الرَّتْجُلُ: چلا جانا۔ أرَتَا۔ رک رک کرنا۔ رَتَبٌ (ن) رَتَبًا و رَتُوبًا۔ الشَّيْ: قائم و ثابت ہونا۔ سیدھا کھڑا ہونا۔ کہا جاتا ہے "رَتَبٌ فِي الضَّلُوءَةِ" وہ نماز میں سیدھا کھڑا ہوا۔ رَتَبَةٌ: ثابت کرنا۔ مرتبہ کے لحاظ سے رکھنا۔ أرَتَبَ: سیدھا کھڑا ہونا۔ باوجود بے نیازی کے سوال کرنا۔ الغَلَامُ الكَعْبُ: نصب کرنا۔ کھڑا کرنا۔ تَوَتَّبَ: ترتیب وار ہونا۔ سیدھا کھڑا ہونا۔ الرَّتَبُ: سختی و سختی۔ بلند زمین، قریب قریب چٹانیں جن میں بعض بعض سے بلند ہوں۔ و الرَّتَبُ: خضر و نمر کے درمیان کا فاصلہ۔ بھنگیوں کے پاس والی انگلی اور بیچ کی انگلی کے درمیان کی جگہ۔	الرَّبِيبُ: تھالٹ ڈالنے والا چور۔ مونا۔ الرَّبِيبَةُ والرَّبِيبَةُ: گوشت کی زیادتی کا جانا ہے "مَضْمَرٌ بَعْدَ رَبِيبَةٍ" وہ موٹائی کے بعد دبلا ہو گیا۔ الرَّبِيبَةُ: تری۔ نعمت۔ فراخی۔ زندگی۔ الرَّبِيبَالُ: کسی پیچیدہ جانات۔ شیر۔ ج ربایبل۔ المِرَّتَبَالُ: بہت موسم خزاں کے جانات والی زمین۔ الرَّبِيبُ: ناز و نعم میں ملی ہوئی موٹی عورت، موٹی اونٹنی۔ الرَّبِيبُ: باہمی ملی ہوئی گھاس۔ أرَبَّتہ۔ بیچا دینا۔ قَوَّتِنَ: جواز کا پیمان ہونا۔ السَّفِينَةُ: کشتی چلانا۔ الرَّبِيبُونَ والْاَوْتُونَ والْاِزْبَانُ: بیچا۔ الرَّبِيبَانُ والرَّبِيبَانِيَّ: جواز کا پیمان۔ ج ربایبہ و ربایبن۔ رَبِيبَانِ: رَتَبَانٌ کَمَلُ شَيْءٍ: ہر چیز کا بڑا حصہ۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ رَبِيبَانَهُ أَوْ رَبِيبَانِيَّةً" اس نے سارے لیا۔ رَبَا يَرَبُوتًا رَبَاءً و رَبُوتًا۔ المَالُ: زیادہ ہونا۔ برہنا۔ الرَّبِيبَةُ: نیلہ پر چھنا۔ (رَبُوتًا) القَرُوشُ: پھولنا۔ سانس چھنا۔ (رَبُوتًا) و رَبُوتًا) الرُّؤْدُ: لڑکے کا برہنا۔ اور نیز کہا جاتا ہے "رَبِيبٌ و رَبِيبَةٌ رَبَاءٌ و رَبِيبَانِ" میں نے شوہرنا پائی۔ رَبِيٌّ تَرَبِيَّةٌ و تَرَبِيٌّ: لڑکے کا پرورش کرنا۔ غذا دینا۔ مذہب بنانا۔ رَبِيٌّ الشَّفَاحُ بِالسَّكْرِ: حریہ ڈالنا۔ رَبِيٌّ مُرَاتِبَةٌ: سو در مال دینا۔ الرَّبِيبُ: بہتر سلوک کرنا۔ أرَبِيٌّ (رَبَاءً) سولینا۔ الشَّيْ: بڑھانا۔ ہ: امید دلانا۔ عَلَيْهِ فِي كَذَا و اِزْتَبَا الرَّبِيبَةَ) زیادہ کرنا۔ الرَبَا: زیادتی۔ سوز۔ بیاج۔ نسبت کے لیے۔ رَبِيبٌ۔ الرَبَا: زیادتی۔ احسان۔ کہا جاتا ہے "بِالْفَلَانِ عَلَيَّ رَبَاءً" فلاں کا میرے اوپر احسان ہے۔ الرَّبِيبَةُ: ج ز و ائب و (الرَّبِيبَةُ والرَّبِيبَةُ والرَّبِيبَةُ) رَتَبِيٌّ و رَتَبِيٌّ۔ نیلہ۔
--	--	---

زندگی بسر کرنا — فی المکان: اقامت
کرنا اور فراموشی کے ساتھ کھانا پینا۔ صفت (زایع)
نَزَعَ وَزَعَّ وَرَنَعَ وَرَنَعٌ وَرِنَعٌ وَرِنَعٌ
فی مال فلان: دوسرے کے مال سے کھانے
پینے میں فائدہ اٹھانا۔ فی لحم فلان: غیبت کرنا۔
أَزَعَ الفؤم: سرسبز زمین میں پھینا اور چرانا
الأرض: چرنے والے کو آسودہ کرنا
— الغیش: بارش کا چارہ کو آگانا۔

الدواب: جانوروں کو چرانا۔
الزئعة: سبزے کی کثرت۔ اور اسی سے ہے
"أَسْمَنُ القیندو الزئعة" مجھ کو قید اور آسودگی
نے موٹا کر دیا۔

الزروع: آسودہ زندگی والا جس کو ہر چیز حاصل
ہو۔ کلا زرع: چرنے والے کے لیے کافی گھاس۔
الأزراع: من الناس: بہت لوگ۔ کہا جاتا ہے
"وَأَيْتَ أَزْرَاعًا مِنَ النَّاسِ" میں نے بہت
لوگوں کو دیکھا۔

الزراع: سرسبز چراگاہ میں اپنے اونٹوں کو لے
جانے والا۔
المزروع: آسودہ زندگی والا جس کو ہر چیز حاصل
ہو۔

المززع: چراگاہ۔
زَتَقَ (ن) زَنْقًا الشَّوْبَ: جوڑنا۔
الفشَق: درست کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ الزَّائِقُ
الفائق" وہ اصلاح کرنے والا ہے۔ و "زَتَقَ
فَفَقَهُمْ" اس نے ان کے درمیان صلح کرادی
— الشئی: بند کرنا۔

إِزْتَقَ الشئی: جڑ جانا۔
الزَّائِقُ: دو کپڑے جن کے کنارے جوڑ دیے
گئے ہوں۔

الزئعة: انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔
الزئوق: عزت و شرف۔
زَتَكَ (ض ن) زَنْكًا وَرَنْكًا وَرَنْكًا
البعیض: اونٹ کا چھوٹے چھوٹے قدم سے
دوڑنا۔

أَزَنَكَ: البعیر: اونٹ کو چھوٹے چھوٹے
قدم سے دوڑانا۔ أَزَنَكَ الصُّحْلَكَ: آہستہ ہلنا۔
المزئک: مردانگ۔

زَيْلٌ (س) زَيْلًا الشئی: عمدہ نظم و ترتیب سے
ہونا۔ صفت (زویل)
زَيْلٌ: الكَلَامُ: اچھی طرح ترتیب دینا۔
— القرآن: قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر عمدہ طریقے
سے پڑھنا۔
تَوَزَّلَ: فِي القَوْلِ: ٹھہر ٹھہر کے اچھی طرح
بولنا۔

الزتل: مہ۔ عمدہ گفتگو۔ تاکہ ہے "كَلَامٌ
زَتَلٌ" خوبی۔ آراستگی۔ ہر چیز کو خوبی۔ نَفَرٌ زَتَلٌ:
خوبصورت ہوا روات۔

التزئیل: پڑھنے کے وقت آواز پست کرنا۔ آواز
کو عمدہ بنانا۔ مولدین کے نزدیک ترتیل آواز کو
پڑھنے یا گانے میں اس طرح بنانا کہ سارے حرف
اچھی طرح آدا ہوں۔

الأزتل: اچھی ترتیب والا۔ تملانے والا۔
الزئلاء: کپڑے کوڑے وغیرہ جیسے کڑی
کسی وغیرہ۔ زَنْزَلًا وَات: ایک قسم کی بناات
جس کے پھول سوسن کے پھول کی طرح ہوتے
ہیں۔

زَنْمَةٌ (ض) زَنْمًا: توڑنا یا کوٹنا — فی بیہی
فُلَانٍ: پرورش پانا۔ اور کہا جاتا ہے "مَا زَنْمَ
بِكَلِمَةٍ" وہ ایک لفظ نہیں بولا۔ (— زَنْمًا)
رتم کے دانے کھانے سے بیوش ہونا۔ بہت ہونا۔
أَزَنْمَ وَتَوَزَّمَا وَإِزَنْمَ: یاد رکھنے کے لیے انگلی پر
دھاگا پھینا۔ أَزَنْمَتْ زَنْدًا: یاد آنے کیلئے میں نے
زید کی انگلی میں دھاگا باندھ دیا۔

الزئم: ایک قسم کا درخت جس کے دانے مسور
کی مانند ہوتے ہیں۔ واحد (زَنْمَةٌ) الزئم: بھرا ہوا
توشہ دان۔ کمال حیاء۔ آہستہ گفتگو۔ راستہ۔
الزئام: بوسیدہ۔

الزئمة: زئم و زئام و الزئمة (ج زئام)
دھاگا جو کسی مقصد کے یاد رکھنے کے لیے انگلی پر
پھیٹ لیا جائے۔

الزئیم: آہستہ چال۔ وہ شخص جس کو رتم کے
دانے کھانے سے بیوشی طاری ہوئی ہو۔ ج
زئامی۔

شَرٌّ تَوَزَّمَا وَتَوَزَّمَا: راہ کی نسا۔
زَنْنٌ (ن) زَنْنًا: الشَّحْمُ بالعَجین: گندھے

ہونے آگے میں چھل ملانا۔
زَنَاهَ يَزْنُوهُ وَزْنًا: ڈھلانا کرنا۔ باندھنا۔ القلب:
دل کو قوی کرنا — هَالِيَهُ: ملانا۔ الذلُّ: ذول
کو آہستگی سے کھینچنا۔ (— زَنْوًا وَزَنْوًا)
پڑا بہ: سر سے اشارہ کرنا — الزجل:
قدم رکھنا۔

زَنَى فِي ذَرْعِهِ: بہت باز ہونا۔
الزئوة: قدم بلند زمین۔ تھوڑا سا وقت۔ حد
نظر تک۔ کہا جاتا ہے "يَنْتَظِرُ وَيَنْتَظِرُ زَنْوَةً"
ہمارے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے جو
مقدار حد نظر کے ہے۔

الزئوی: دوسروں سے زائد علم والا۔
زَنْثٌ (ض) إِزْنَانًا وَزَنْوَةً: الشَّوْبَ: کپڑے کا
بوسیدہ ہونا۔ صفت (زَنْثٌ) ج زَنْثًا
أَزَنْثَ إِزْنَانًا: الشَّوْبَ: کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔
پرانے کرنا۔

أَزْنَثٌ: زخمی کو میدان جنگ سے لایا جانا۔
صفت (عزْتًا)
الزئث: مہ۔ گھر کا ردی سلمان۔ ج زئث۔ کہا
جاتا ہے "كَلَامٌ عَثَّ زَنْثٌ" یعنی کھیا درجہ کا
کلام۔

الأزئث: بوسیدہ۔ پرانا۔
الزئث: بوسیدہ۔ پرانا۔ زخمی نیم ٹمرہ۔
الروث: گھر کا ردی سلمان۔ ج زئث و زئث۔
کمزور لوگ۔

الزئاة: مہ۔ کھٹکی۔ بوسیدگی۔
زَنْأٌ (ف) زَنْأًا: اللَّبَنُ: دودھ کا ڈھیلا ہونا۔ گاڑھا
کرنا — الشئی بالشئی: ملانا —
عَضْبُهُ: غصہ کا ٹھنڈا پڑنا۔

أَزْنَأُ وَإِزْنَأًا: اللَّبَنُ: دودھ کا گاڑھا ہونا۔
إِزْنَأِي زَيْبًا: رائے میں گڑبڑی کرنا۔ إِزْنَأًا
عَلَيْهِمْ أَلَامٌ: گڑبڑ ہونا۔ إِزْنَأًا: الرئيفة: دوی
پینا۔

الزئو والرئاة: یوقونی کم کھٹی۔ کمزور دی۔
الرئيفة: زَنْأَ اللَّبَنِ کَا مَ: دوی۔ یوقونی۔ بیضا
ملا ہوا ترش دودھ۔

زَجَلٌ (مَزْجُوذٌ) کمزور دی۔ کم سمجھ۔
زَلَدٌ (ن) زَلْدًا وَإِزْنَدًا: المَتَاعُ: سلمان کو

<p>کرتا۔ اِنْ تَجَعَ النَّاقَةُ: ایک اونٹنی کی قیمت سے اس بھی دو سری خریدنا۔ اِنْ تَجَعَ إِلَى الشَّيْءِ: واپس کرنا۔ اِنْ تَجَعْتَ: واپس کرنا۔ الْمَرْؤَةُ جَلِيئَاتُهَا: چہرہ پر دوبارہ ڈال لینا۔ اِنْ تَجَعَ عَلَى الْغَرِيمِ: مطالبہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "بِئْسَ خَيْلَهُ فَازْتَجَعَ مِنْهَا رَجْعَةً ضَالِحَةً" اس نے اپنے گھوڑے کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کو نفع بخش کام میں خرچ کیا۔ تَوَاجَعَ الْقَوْمُ: اپنے اپنے مقالات پر واپس آنا۔ الْقَوْمُ الْكَلَامَ بَيْنَهُمْ: قوم کا آپس میں گفتگو میں اٹھ پھیر کرنا۔ اِسْتَجَعَ مِنْهُ الشَّيْءُ: واپس لینا۔ الْمُصِيبَةُ: ﴿إِنَّا لَنَلِدُوا أَثَالَئًا لِّئِيْرَاجِعُونَ﴾ کہنا۔ الْحَمَامُ فِي خَيْبَانِهَا: کبوتری کا گٹھ کرنا۔ الرَّجْعُ: نہ۔ خط کا جواب۔ بارش کے بعد بارش۔ نفع۔ موسم بہار کی سبزی۔ تالاب۔ ج۔ رَجَاعٌ وَرَجْعَانٌ وَرَجْعَانٌ: الرجوع: لید۔ مِنَ الْأَرْضِ: زمین کا وہ حصہ جس میں سیلاب زور تک پھیلا ہو۔ مِنَ الْكَيْفِ: مونڈھے کا ٹھکانا۔ كَتَوَاهُ عِنْدَ رَجْعِ كَفْهِهِ: اس کی مونڈھے کے نیچے حصہ پر اس نے داغ لگایا۔ رَجْعُ الصُّدَى: آواز باز گشت۔ الرَّجْعِ: مِنَ الْكَلَامِ: واپس کی ہوئی گفتگو۔ لید۔ گور۔ تالاب۔ موسم بہار کی سبزی۔ اونٹ کی جگلی۔ ہر واپس کی ہوئی چیز۔ پرانا کپڑا۔ بیس۔ ٹھنڈا کھانا جو دوبارہ گرم کیا جائے۔ بَعِيرٌ رَجْعِيٌّ: سفر سے تھکا ہوا اونٹ۔ ج۔ رَجَاعٌ: ذابۃ رَجْعِيٌّ: اُسفاری: بار باز سفر میں لوٹ لوٹ جانے والا چوپایہ۔ الرَّاجِعُ: فام عورت جس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہو اور وہ اپنے کنبہ میں چلی گئی ہو۔ ج۔ رَوَاجِعُ۔ الرَّجْعَةُ: رجوع کا اسم نوع۔ حجت۔ اونٹ چھوٹے چھوٹے معمولی جن کی قیمت سے دوسرے اونٹ خرید کر نفع اٹھائیں۔ الرَّجْعَةُ: واپس۔</p>	<p>وَأَرْجَسَ يَأْتِي كَالْمَرَاةِ كَالْمَرَاةِ كَرْنَا۔ رَجَسَ (س) وَرَجَسَ (ك) رَجَسًا: بڑا کام کرنا۔ صفت (رَجَسَ) اِنْ تَجَسَّتِ: سَمَاءُ: گزگڑانا۔ الْبِنَاءُ: عمارت کے بننے سے آواز شائی دینا۔ الرَّجْسُ وَالرَّجْسُ وَالرَّجْسُ: گندی پلیدی۔ الرَّجْسُ: بڑا عمل۔ بڑے عمل کی سزا۔ شیطان کا دوسرا۔ خفیف حرکت۔ الرَّجَّاسُ: سمندر۔ کہا جاتا ہے "بَعِيرٌ أَوْ سَحَابٌ رَجَّاسٌ" بہت تیز آواز والا بادل یا اونٹ۔ بَعِيرٌ رَجَّاسٌ مَرَجَسٌ: تیز آواز نکالنے والا اونٹ۔ الْمِرْجَسُ: پانی کی گمرانی ناپنے کا آلہ۔ الْمَرْجُوسَةُ: فساد و گزبڑا ہٹ۔ رَجَعَ (ض) رَجُوعًا وَمَرْجَعًا وَمَرْجَعَةً: وَرَجْعِيٌّ وَمَرْجَعَانًا: واپس آنا۔ لوٹنا۔ () رَجَعًا وَمَرْجَعًا وَمَرْجَعًا الْكَلَامَ فِيهِ: فائدہ دینا۔ کہا جاتا ہے "مَا هُوَ إِلَّا سَجْعٌ لَيْسَ فِيهِ رَجْعٌ" یہ صرف سجع ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ الْعِلْفُ فِي الدَّابَّةِ: چارہ کا جانور میں اثر کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَجَعَ عَوْدُهُ عَلَى بَدَنِهِ" وہ جس راستہ سے آیا تھا اسی سے واپس گیا۔ الشَّيْءُ عِنْدَهُ أَوْ إِلَيْهِ: پھیرنا۔ واپس کرنا۔ رد کرنا۔ رَجُوعًا وَرَجَاعًا: الطَّيْرُ: گرم جگہ سے سرد جگہ میں جانا۔ رَجَعَ فِي صَوْتِهِ: حلق میں آواز کو گھمانا۔ () وَتَوَجَّعَ فِي الْمُصِيبَةِ: ﴿إِنَّا لَنَلِدُوا وَأَنَا الْيَتِيمَ إِجْفُونَ﴾ کہنا رَجَعَتِ الدَّابَّةُ: قدم رکھنا۔ تَوَجَّعَ النَّاقَةُ: ایک اونٹنی کی قیمت سے اسی بھی دوسری خریدنا۔ رَجَعَتْ فِي الْأَمْرِ: دوسرے سے معاملہ میں بات چیت کرنا۔ ه الْكَلَامَ: دوبارہ گفتگو کرنا۔ الرَّجْلُ: اپنی پہلی چلی یا بڑی عادت کی طرف لوٹ جانا۔ أَرْجَعَهُ: رد کرنا۔ پھیرنا۔ الدَّابَّةُ: چوپایہ کا گور کرنا۔ النَّاقَةُ: اونٹنی کا لاغر ہونا۔ لاغری کے بعد موٹا ہونا۔ الرَّجْلُ فِي الْمُصِيبَةِ: ﴿إِنَّا لَنَلِدُوا وَأَنَا الْيَتِيمَ إِجْفُونَ﴾ کہنا۔ اللُّهُ تَبَّعْتَهُ: نفع</p>	<p>حکومت دینا۔ الْمَاءُ: کھود کر پانی نکالنا۔ تَوَجَّعَ: لہنا۔ بے قرار ہونا۔ کا پنا۔ الشَّيْءُ فِي مَخْلَبِهِ: آنا جانا۔ الرَّجُوحُ: لہنے والا۔ کا پٹنے والا۔ الرَّجُوحُ: ہر مضطرب ہونے والی چیز۔ لعاب۔ الرَّجُوحُ: ایک قسم کی گھاس۔ الرَّجُوحُ: ایک دوا۔ رَذْفُ رَجُوحٍ: چلنے میں لہنے والا سرین۔ نَاسُ رَجُوحٍ: کمزور عقل والے۔ الرَّجُوحَةُ: حوض کا قبیلہ مٹی سے بنا ہوا پانی۔ لڑائی میں بہت بڑی جماعت۔ شوک۔ بے عقل۔ رَجْوًا (ن) رَجْوًا: رجز پڑھنا۔ صفت (رَجْوًا) وَرَجَاؤٌ وَرَجَاؤَةٌ: رَجْوِيٌّ: کسی کے سامنے رجز پڑھنا۔ رَجْوَةٌ: کسی کے سامنے رجز پڑھنا۔ رَجْوًا: صَاحِبُهُ: رجز پڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ تَوَجَّعَ: رجز پڑھنا۔ الرَّعْدُ: لگاتار گزگڑانا۔ السَّحَابُ: بادل کا پانی کی کثرت کی وجہ سے آہستہ حرکت کرنا۔ اِنْ تَجَعَلَ: رجز پڑھنا۔ الرَّعْدُ: لگاتار گزگڑانا۔ بَقْلَانِ: کسی کے متعلق رجز کے اشعار کہنا۔ الرَّجْوِيُّ فِي الْقِتَالِ: لڑائی میں رجز کے اشعار پڑھنا۔ تَوَاجَعَ الْقَوْمُ: رجز پڑھنے میں باہم مقابلہ کرنا۔ الرَّجْوُ وَالرَّجْوُ: گندگی۔ عذاب۔ بتوں کی پرستش۔ بت۔ الرَّجْوِيٌّ: گناہ۔ الرَّجْوُ: اوزان شہر میں سے ایک وزن کا نام۔ اونٹوں کے سرین کی ایک بیماری کا نام۔ الرَّجَاؤَةُ: عورتوں کے لئے اونٹ پر کی ہوج سے چھوٹی ایک سواری۔ برتن یا کبل جس میں پتھر ڈال کر بوج برابر کرنے کے لئے ایک طرف لٹکادیا جاتا ہے۔ الْأَرْجُؤَةُ: بحر جز کا قبیلہ۔ ج۔ آر جیو۔ الْأَرْجُو: رجز کی بیماری والا۔ رَجَسَ (ن) ض) رَجَسًا: البَعِيرُ: اونٹ کا آواز کرنا۔ السَّمَاءُ: آسمان کا گزگڑانا۔ فَلَانًا عَنِ الْأَمْرِ: روکنا ()</p>
---	--	---

مطلق کچھ امید لگانا۔

رَجَبِي (س) اَرْجَا۔ کلام سے رک جانا۔

رَجَبِي عَلَيهِ۔ کلام منقطع ہونا۔

رَجَبِي وَتَرَجَبِي وَارْتَجَبِي۔ الشَّقِي: امید کرنا۔

رَجَبِي وَارْتَجَبِي فَلَانَا: امید لگانا۔ وَارْتَجَبِي

الشَّقِي: خوف کرنا۔

أَرْجِي الْأَمْرَ: مَوْخَرُ کرنا۔ الصَّيْدَ: نہ

پانا۔ أَرْجِي الْبَيْتَ: کنوئیں کا من پانا اَوْ رَجَبَتِ

النَّاقَةَ: بھنے کے تڑپ پھینا۔

الرَّجَاوُ الرَّجَاءُ: کنارا۔ رَجَاوُ الْبَيْتِ: کنوئیں

کے دونوں پہلو۔ الرَّجَاءُ: چھوٹا حمل کہ دیکھنے

میں تو حمل معلوم ہو مگر واقعی نہ ہو۔

الرَّجِيَّةُ: امید کی چیز۔ کہا جاتا ہے "الْيَسْرُ لِي

فِي فَلَانٍ رَجِيَّةٌ" فلاں سے مجھے کوئی امید نہیں۔

الرَّجِيَّةُ: جو چیز مَوْخَرِ مَلُوتِي کی جائے۔

الرَّوْحَةُ: سانپ جو کندھی مارے ہوئے ہو۔

الرَّوْحُ: کھر کی چوڑائی۔

الرَّوْحُ: چوڑے پيالے۔

الرَّوْحُ: بھرے تلوے والا۔ مَوْنُثُ رَحَاءِجِ

رَحْبُ

رَحْبُ (س) رَحْبًا وَرَحْبًا (ک) رَحْبًا

وَرَحَابَةً: المَكَانُ: جگہ کشادہ ہونا۔ صفت

(رَحْبٌ وَرَحِيْبٌ وَرَحَابٌ) اور کہا جاتا ہے

"رَحْبُكُمْ الْأَمْرُ" یعنی معاملہ ہمارے لئے

وسیع ہے (اور یہ سزا ہے)۔

رَحْبُ: المَكَانُ: کشادہ کرنا () بہ

مُرَحَبَةً بہتر طریقہ سے استقبال کرنا۔ خوش آمدید

کہنا۔ مرحبا کہنا۔

أَرْحَبُ: المَكَانُ: کشادہ ہونا۔

المَكَانُ: کشادہ کرنا۔ اور کہا جاتا ہے "أَرْحَبْنَا

وَلَدًا" یعنی اسے لڑکے ہٹ جا۔

تَوَارْحَبُ: کشادہ ہونا۔

الرَّحْبُ: کشادہ۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ رَحْبٌ

وَأَرْضٌ رَحْبَةٌ" کشادہ جگہ و کشادہ زمین۔

"وَرَحْبُ الصَّدْرِ" کشادہ دل۔ و "رَحْبُ

الْفَهْمِ" زیادہ عقل والا۔ و "رَحْبُ النَّبَاحِ" او

الذِّبَاعِ" فیاض۔ مخی۔

الرَّحْبِيُّ: سب سے چوڑی پہلی۔ الرَّحْبِيَّانِ:

الرَّحْبَةُ الرَّجْمَةُ: قبر قبر کا پتھر جو بطور نشان لگایا

جائے۔ بَجْرًا کھمت۔ رَجْمٌ وَرَجَامٌ۔

الرَّجْمُ: سنگسار کیا ہوا۔ لمعون۔

الرَّجَامُ: کنوئیں کی من۔ پتھریا پتھر کی مانند کوئی

چیز جس میں رشتی باندھ کر کنوئیں کی گمراہی معلوم

کی جائے۔ ثَلْبٌ وَاحِدٌ (رَجْمَةٌ)

الرَّجَاهَانِ: کنوئیں کی من پر کی دو لکڑیاں جن

میں چرخ لگائی جاتی ہے۔

الرَّجْمُ: من الرجال: مضبوط قوی مرد۔

فَرَسٌ مَرَجَمٌ: بہت روندنے والا گھوڑا۔

حَدِيثٌ (مَرَجَمٌ) ظنی بات۔ بات جس کی حقیقت

معلوم نہ ہو۔

الرَّجْمُ: پتروں کے بھینکنے کا آلہ۔ من الاہل:

مضبوط اونٹ۔

الرَّجْمُ: قبیح کلمات۔ کہا جاتا ہے "تَرَامُوا

بِالرَّجْمِ" انہوں نے ایک دوسرے سے قبیح

کلمات کہے۔

رَجْنٌ (ن) اَوْ رَجْنٌ (س) اَوْ رَجْنٌ (ک) اَوْ رَجْنًا:

بِالمَكَانِ: اقامت کرنا۔ الرَّجْوَانُ: بانوس

ہونا۔

رَجْنٌ (ن) رَجْنًا وَرَجْنٌ اَوْ رَجْنٌ الدَّائِبَةُ:

چارہ کھانے کیلئے گھر پر روکنا۔ رَجْنٌ فَلَانًا: شرم

کرنا۔ اَوْ رَجْنَتِ النَّاقَةَ: گھر پر ٹھہرنا۔

اِرْتَجَنَ: بِالمَكَانِ: اقامت کرنا۔

الرَّيْدُ: پکالے سے صاف نہ ہونا اور خراب ہو جانا

عَلَى الْقَوْمِ اَمْرُهُمْ: گزیر ہونا سد ہونا۔

الرَّجِيْنُ: مسلک زہر۔

الرَّجِيْنَةُ: جماعت۔

الرَّجْوَانَةُ: ٹوکرا۔ خُكٌ کدو اندر سے خالی جس

میں عورتیں روٹی رکھتی ہیں۔ کہا جاتا ہے "هَمْ فِي

مَرَجْوَانَةٍ" وہ لوگ اقامت کرنے یا کوچ کرنے میں

متروک ہیں۔

رَجَةٌ (ض) رَجْبُهُا: ہلنا۔ بِالشَّقِي: دائیوں

سے پھرنا۔

أَرْجَةُ الْأَمْرِ: وقت سے پیچھے ہٹانا۔

رَجَا (ن) رَجَاءٌ وَرَجْوًا وَرَجَاءٌ وَرَجَاةٌ

وَرَجَاوَةٌ وَرَجَاءَةٌ: پُر امید ہونا۔ الشَّقِي:

امید کرنا۔ خَوْفٌ کرنا۔ الرَّجْلُ: کسی کے

الرَّجْلُ: مِنَ الدَّوَابِّ: ایک ٹانگ میں سفید

دماغ والا جانور۔ رَجُلٌ أَرْجُلٌ: بڑے پاؤں والا

مرد۔ مَوْنُثٌ رَجْلًا: رَجُلٌ اور کہا جاتا ہے

"هُوَ أَرْجَلُهُمْ" وہ ان لوگوں میں کامل مرداگی

والا ہے۔

الرَّجْرَجِيلُ: نہ جانور کے ایک ٹانگ کی سفیدی۔

الرَّجْرَجِيلُ: کرفس (ایک دو اکانام)

الرَّجْرَجِيلُ: ویک۔ کٹھنی۔ رَجْمَرَجِلُ:

الرَّجْرَجِيلُ: مِنَ التَّيْسِجِجِ وَنَحْوَهُ: کپڑا جس پر

آدمی کی تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ شراب سے

بھری ہوئی مٹک۔

الرَّجْرَجِيلُ: مِنَ الشَّيْبِ: کپڑا جس پر ویک

کی صورت بنی ہوئی ہو۔

إِمْرَأَةٌ مَرَجِلٌ: لڑکے ہی جھنڈے والی عورت۔

رَجْمَةٌ (ن) رَجْمًا: سنگسار کرنا۔ پتھراؤ کرنا۔

لَعْنَتٌ کرنا۔ گالی دینا۔ چھوڑنا۔ وھلکانا۔

الرَّجْمَةُ: نشان کے لئے پتھر لگانا۔

الرَّجْلُ: اَنكَلٌ سے بات کرنا۔ کہا جاتا ہے

"جَاءَتِ رَجْمٌ" وہ تیز بھاگتا ہوا آیا۔

رَجْمٌ: اَنكَلٌ سے بات کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَجْمٌ

بِالغَيْبِ" اس نے اَنكَلٌ بچو باتیں کیں۔ الرَّجْمَةُ:

نشان کے لئے پتھر لگانا۔

وَأَجْمَةٌ مَرَجْمَةٌ: ایک دوسرے کو پتھراؤ

کرنا۔ عَن قَوْمِهِ: بداعت کرنا۔ هُ فِي

الرَّحْبِ: او الرَّحْبِ او الرَّحْبِ: لڑائی یا گفتگو یا

دوڑنے میں سخت مقابلہ کرنا۔

تَوَارْحَمُوا: ایک دوسرے کو پتھرا کرنا۔

بِالرَّحْبِ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔

إِرْتَجَمَهُ: الشَّقِي: نہ بہتہ ہونا۔

الرَّجْمُ: مدد دست۔ ہم نہیں۔ وہ چیز جس سے

پتھراؤ کریں۔ رَجْمٌ رَجْمٌ: اَنكَلٌ کی گفتگو۔

کہا جاتا ہے "رَجْمًا بِالغَيْبِ" اَنكَلٌ بچو۔ و حَسَارٌ

فَلَانٌ رَجْمًا: فلاں حقیقت حال سے واقف

نہیں۔

الرَّجْمُ: کنواں۔ تَوْرُ: قبر۔ رَجْمٌ وَرَجَامٌ:

الرَّجْمُ: ستارے کی مانند جو آسمان سے گرتے

ہوئے معلوم ہوں۔ کوئی علامت یا پتھر جو قبر پر لگایا

جائے۔ وَاحِدٌ (رَجْمٌ)

بغل سے متصل دونوں طرف کی پہلیاں۔

الزَّحْبَةُ وَالزَّحْبِيَّةُ: کشادہ زمین جس میں

بکھرت گھاس ہو اور بہت لوگ آتے ہوں۔

مکانوں کے درمیان کھلی ہوئی جگہ۔ مِنْ

الذَّارِ: مکان کا معنی۔ مِنَ الزَّادِ: وادی

کے دونوں جانب پانی بننے کی جگہ۔ جِ رِحَابٍ وَ

زَحَبٍ وَزَحَابٍ وَزَحَبٍ وَزَحَابٍ۔

الزَّحْبِيَّةُ: بہت کھانے والا۔

الزَّحَابُ: خوش آمدید۔

زَحَابِيَّةٌ: النَّجْمُ: کشادہ اطراف۔ واحد

زَحْبِيَّةٌ۔

الْمَزْحَبُ: کشادگی۔ اور مسافر سے خوش

آمدید کہنے کے موقع پر کہا جاتا ہے "مَزْحَبِيَّكَ"

یعنی تم نے کشادگی پائی۔ و "مَزْحَبَتِكَ اللَّهُ وَ

مَسْهَلُكَ" اللہ تم کو کشادہ اور نرم زمین میں

آتارے۔ "أَهْلًا وَمَزْحَبِيًّا" یعنی اپنے لوگوں میں

نازل ہوئے اور کشادگی پائی اس لئے مانوس ہو

جاؤ۔ وحشت مٹ کر۔ اور بددعا کے موقع پر کہا

جاتا ہے "لَا مَزْحَبِيَّكَ"

زَحْرُوحٌ: مراد کی گمراہی کو نہ پہنچنا۔

السُّبْحُ عَنِ فُلَانٍ: چھپانا۔ بالكلام:

واضح کلام نہ کرنا۔

تَزْحْرُوحُ: الفَرْسُ: گھوڑے کا پیشاب کے

لئے ٹالکس پھیلانا۔

الزَّحْرُوحُ وَالزَّحْرُوحَانُ: پھیلا

ہوا کشادہ اٹھلا۔ تھوڑی گمراہی والا۔ اور کہا جاتا

ہے "عَيْشٌ زَحْرُوحٌ وَزَحْرُوحٌ" یعنی آسودہ و

فراخ زندگی۔

زَحَضٌ (ف) زَحَضًا أَوْ حَضٌ: الْقَوْبُ:

کپڑا ہونا۔

زِحَضٌ: الْمُخْمُومُ: ہمیشہ آتا۔

إِزْحَضٌ: الزَّجْلُ: رومال ہونا۔

قَوْبٌ (زِحَضٌ) کپڑا جو دھویا جائے یہاں تک کہ

پڑانا ہو جائے۔ الزَّحَضُ: منگ۔ پرانہ توشہ

دان۔

الْمُحَضَّاءُ: بخارا اترتے وقت کا ہمیشہ۔ ہمیشہ جو

کھال کو شربور کر دے۔

الْمُزْحَضُ: دھویا ہوا۔

الْمِزْحَضُ: غَسْلُ غَانَةٍ: ہاتھ پاؤں دھونے کی

جگہ۔ دھوبی کا تختہ جس پر کپڑے پلک کر دھوتا ہے

(عوام اس کو میخباط کہتے ہیں) پاخانہ۔ جِ

مَزْحَضِيضٌ۔

الْمِزْحَضَةُ وَالْمِزْحَضَةُ: کوئی چیز جس میں

وضو کیا جائے۔

أَزْحَفُ إِزْحَافًا: اللَّسْكِيْنُ: چھری تیز کرنا۔

الزَّحَاقُ وَالرَّحِيْقُ: شَرَابٌ: الرَّحِيْقُ: ایک

تسم کی خوشبو۔ حَسْبُ زَحِيْقٍ: بے داغ حسب

وَسَلْتُ زَحِيْقًا: خالص منگ۔

زَحَلٌ (ف) زَحَلًا وَزَحِيلًا وَتَزَحَالًا: عَنِ

الْمَكَانِ: تَرَكَ وَطْنَ كَرْنَا۔ إِلَى الْمَكَانِ:

متنقل ہونا۔ التَّبَعِيْرُ: کجاوہ کسنا۔ سوار ہونا۔ کما

جاتا ہے "زَحَلْتُ لَهُ نَفْسِي" میں نے اس کی

تکالیف پر صبر کیا۔ هَ بِالسَّيْفِ: کسی پر تلوار

اٹھانا۔ الْبِلَادُ: پھرنا۔ گھورنا۔

زَحَلَةٌ: کوچ کرنا۔ کوچ کرنے میں کوشش کرانا

الْقَوْبُ: نقش و نگار کرنا۔

زَحَلَةٌ: کوچ کرنے میں مدد دینا۔

إِزْحَلُ: سواری کے بہت جانور والا ہونا۔

الذَّابَةُ: چپائے کا کمزوری والا غری کے بعد موٹا

مضبوط ہونا۔ هَ: سواری دینا۔

الْإِبِلُ أَوْ النَّاقَةُ: اونٹ یا اونٹنی کو سواری

کے لئے سدھانا۔

تَزَحَلُ: الْقَوْمُ عَنِ الْمَكَانِ: متنقل ہونا۔

فَلَانًا: کسی کے ساتھ ناپسندیدگی سے پیش آنا۔

إِزْحَلُ: عَنِ الْمَكَانِ: متنقل ہونا۔ کوچ کرنا

التَّبَعِيْرُ: اونٹ پر کجاوہ کسنا۔ سوار ہونا۔

الْأَهْرُ: کسی معاملہ پر غالب ہونا۔

إِسْتَزْحَلُ: سواری طلب کرنا۔ سواری پر کجاوہ

کسنے کے لئے کسنا۔ النَّاسُ نَفْسَهُ: اپنے

آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا۔

وَأَلْقَى زَحْلَهُ" اس نے اپنا کجاوہ اتارا اور سامان

ڈال دیا۔ یعنی اس نے اتاقت کر لی۔ جِ رِحَابٌ

وَأَزْحَلُ: الرِّحَالُ: مقام حیرہ کے بنے ہوئے

نالیچے۔

الرَّحْلَةُ: کوچ۔ تم کہتے ہو "عَدَا زَحْلُنَا" کل

ہمارا کوچ ہے۔ سفر نامہ۔

الرَّحْلَةُ: جت سفر۔ تم کہتے ہو "وَمَشَقُ

زَحْلُنَا" ہماری جت و سفر دشمن ہے۔ سفر۔

عَالِمُ زُحْلَةٍ: ایسا عالم جس کے پاس لوگ کوچ کر

کے آئیں۔ بَعِيْرٌ ذُو زَحْلَةٍ وَرِحْلَةٍ: مضبوط و

قوی اونٹ۔

الزَّجْلُ: مہ کوچ۔ اونٹ جس پر کجاوہ کسا

جائے۔ جَمَلٌ زَّجْلٌ وَنَاقَةٌ زَّجِيْلَةٌ: چلنے میں

قوی اونٹ۔

الزَّاجِلُ: نَاجِزٌ زَاجِلُونَ وَزَحَلٌ وَزَحَالٌ۔

الزَّاجِلَةُ: مِنَ الْإِبِلِ: سواری کے لائق

اونٹ۔ سفر و بار برداری کے لئے مضبوط اونٹ و

اونٹنی (تاماقت کے لئے ہے) جِ زَوَاجِلُ۔

الرِّحَالَةُ: بَغِيْرٌ لَكْرِيٌّ: صرف پھڑے کا زین۔

جِ زَحَالٍ۔

الْأَزْحَلُ: مِنَ الْغَيْلِ وَالشَّاءِ: سفید پیٹھ والا

گھوڑا یا بکری۔

الزَّحَالُ: کجاوے بنانے والا۔ بہت سفر کرنے

والا۔ جِ زَحَالَةٌ۔

الزَّحَالَةُ: بہت سفر کرنے والا۔

الزَّحْوَلُ: بہت متنقل ہونے والا۔

الزَّحْوَلُ: کجاوہ۔

الْمَزْحَلَةُ: مسافر کے ایک دن کا سفر۔ جِ

مَزْرَجِلُ۔

الْمَزْرَجِلُ: بہت سواری کے جانور والا۔)

وَالْمِزْحَلُ مِنَ الْعَجْمَالِ: مضبوط و

قوی۔

الْمُرْحَلُ مِنَ الْإِبِلِ: کجاوہ کسا ہوا اونٹ۔

مِنْ الشَّيْبِ: کجاوہ کے مانند نقش و نگار

والا کپڑا۔

مَزْحَلٌ: التَّبَعِيْرُ: اونٹ کے کوچ کرنے کی

جگہ۔

زَحْمَةٌ: (س) زَحْمَةٌ وَزَحْمَةٌ وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

وَزَحْمًا

التَّخَوُّمُ وَالنِّزْحُومُ وَالنِّزْحُومُ - نرگدہ۔
رُخِي (س) رُخَاوِرُغُوَّةٌ وَرُخُو (ك) رُخَاوِفَةٌ -
نرم ہونا۔ آسان ہونا۔ آسودہ زندگی والا ہونا۔
صفت (رُخُو وَرُخُو وَرُخُو)

رُخَاوِن (ن) وَرُخِي (ف) وَرُخِي (س) وَرُخُو
(ك) رُخَاءُ الْعَيْشِ : زندگی کا آسودہ ہونا۔
صفت (رُخَاوِرُغُوَّة)

رُخَاوَةٌ مُرَاخَاةٌ - دور کرنا۔ جیسے کہتے ہیں
”جَلَسْتُ الْفِرَازَ يُرَاخِنِي الْأَجَلَ“ میرا خیال تھا
کہ گریز موت کو دور کر دے گی۔ الشَّقِي :
نرم کرنا۔ الْفَقْدَةُ - گرہ کھولنا۔ کہا جاتا ہے
”رُخِي خَنَافَةً أَوْ رُبَاغَةً“ یعنی اس نے اسے
مہلت دی۔ رُخِيَتْ الْمَرْأَةُ : پختہ ہونے کے قریب
ہونا۔

أَرُخِي لِرُخَاءِ - الشَّقِي : نرم کرنا۔
الْفَرَسُ وَالْفَرَسُ : گھوڑے کی رتی ڈھیلی کرنا۔
کہا جاتا ہے ”أَرُخِي لُهُ الْخَيْلَ“ اس کی رتی
ڈھیلی کر دو۔ یعنی اس کو کام کرنے کا موقع دو
۔ السَّقِيُّ : پرہیزگارانہ اور کہا جاتا ہے ”أَرُخِي
عِمَامَتَهُ“ یعنی وہ مطمئن و مامون ہوا۔
ذَابَتَهُ : جانور کو آزادانہ چلنے دینا۔ زِمَامُ
التَّاقَةِ : اونٹنی کی لگام کو ڈھیلا چھوڑنا۔
رُخِي - الشَّقِي بِالشَّقِي - ملانا۔

تَرُخِي تَرَاخِيًا - عَنَتَهُ : دور ہونا۔ پیچھے ہٹنا۔ دیر
کرنا۔ کہا جاتا ہے ”تَرُخِيَتْ السَّمَاءُ“ یعنی
بارش میں دیر ہوئی۔ تَرُخِي الْفَرَسُ : گھوڑے
کا دوڑنے میں سست ہونا۔ کہا جاتا ہے ”إِنَّ لِي
الْأَمْرَ تَرَاخِيًا“ معاملہ میں وسعت و گنجائش ہے۔

إِرْخِي وَاسْتَرُخِي - نرم ہونا۔
استرخیت بہ حالہ : تنگی اور سختی کے بعد اس کی
حالت اچھی ہو گئی۔

الرُّخَاءُ - نرم فرامی زندگی۔
الرُّخَاءُ - نرم ہونا۔

الرُّخِيَّةُ - ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے۔ جِزْ أَرُخِي -
المُرُخَاءُ - تیز دوڑنے والا جانور۔ جِزْ مَرَاخِ
(نُكْر) وَ مَوْنٌ دُونُوں كَيْلِي (ہے) كَمَا جَاتَا هِي
”فَرَسٌ مِرْخَاوَةٌ وَأَنْ مِرْخَاوَةٌ“
رُخِيَّة (ن) رُخَاوَةٌ وَ مَرُخَاوَةٌ وَ رُخِيَّة -

عَنْ كَثَدًا : بھیرنا۔ واپس کرنا۔ لُونَاوَةٌ رُخَاوَةٌ فَلَانَا : خطا
کار ٹھہرنا۔ النَّبَاتُ : بھیرنا۔ عَلِيَّةُ
الشَّقِي : بھیرنا۔ قبول نہ کرنا۔

إِلَيْهِ جَوَابًا : جواب بھیننا۔ هِ الْي
يَنْبِيهِ : لُونَاوَةٌ اور کہا جاتا ہے ”مَا يَزِدُّ هَذَا عَلَيْكَ
شَيْئًا“ یہ تم کو کچھ نفع نہیں دے گا۔
الشَّقِي : ایک حالت سے دوسری حالت پر کرنا
جیسے ”فَزِدَّ شَعْوَرَهُنَّ الشَّوْبَةَ بَيْضًا“ ان کے
کالے بالوں کو سفید کر دیا۔ زِدَّ الْقَوْلُ تَزَادًا : بار
بار دہرانا۔

زِدَّةُ - الْقَوْلُ : بمعنی زِدَّ الْقَوْلُ (تشدید کثرت
کے لئے ہے)

رَادَةٌ - الشَّقِي : واپس کر دینا۔ هِ الْي
الْكَلَامِ : بحث کرنا۔

أَرِدُّ - الْبَيْحُ : جوش میں آنا۔ الرُّخْلُ :
غُمر سے بھول جانا۔ الشَّافَةُ : ٹھن والی
ہونا۔ صفت (مُرْدٌ)

تَوَدَّدَ - رُوهُنَا : فِي الْأَمْرِ : شک و شبہ
میں پڑ جانا۔ إِلَيْهِ : بار بار آنا۔ وَ تَوَادَّدَ
فِي الْجَوَابِ : زبان کا لڑکھانا۔

تَوَادَّدَ - الْبَيْعُ : بیچ فسخ کرنے پر رضامند ہونا۔
تَوَادَّدَ الْمَاءُ : روک کی وجہ سے پیچھے ہٹنا۔
إِرْتَدَّ - الشَّقِي : واپس کرنا۔ واپس کرنے کو کہنا

عَلَى أَمْرِهِ أَوْ عَنِ طَرَفِهِ : لُونَا
عَنْ دَيْبِهِ : وین کو چھوڑنا۔ دین سے پھر جانا۔ عَنِ
هَيْبَةٍ : بہہ کو لونا لینا۔ إِلَى الصَّوَابِ :
صواب کی جانب لوٹ جانا۔

اسْتَرَدَّ - الشَّقِي : واپس کرنے کو کہنا۔ هِ
الشَّقِي : واپسی جانا۔ إِلَيْهِ : بہہ کو لونا لینا۔
الرُّدَّةُ - نہ زبان کی لڑکھائیت۔ نہ بات کی کثرت۔
کہا جاتا ہے ”صَبِيحَةُ كَيْبَرَةَ الرُّدَّةُ“ بہت نہاتات

والی جائیداد۔ شَقِي رُدِّي جِزْ - أَمْرٌ رُدِّي : مخالف
سنت کام۔ وَ زَهْمٌ رُدِّي : کھوٹا نرم۔ کہا جاتا ہے ”لَا
تُعْطِي مِنْ رُدِّي الدَّرَاهِمَ“ مجھے کھوٹے درہم
مت دو۔

الرُّدَّةُ - جِزْ كَاسَارَا -
الرُّدِي - طَلَقَ دِي هُوَ عَوْرَتِ -
الرُّدَّةُ - رَدَّ كَاسَمَ مَرَّةً - کچھ بھال کے ساتھ زشت

روئی۔ کہا جاتا ہے ”لِي وَجْهَهُ رُدَّةٌ“ اس کے
چہرہ میں کچھ بھال کے ساتھ بد صورتی ہے۔

الرُّدَّةُ - إِرْتَادَا كَاسَمَ - تُحَوِّزِي كَاسَمَ - پھاڑی
گوج۔ پختہ ہونے سے پہلے ٹھن کا بھیرنا۔ کہا جاتا ہے
”شَرِبْتُ الْإِبِلَ رُدَّةً“ اونٹ نے دوسری بار پانی
پیا۔

الرُّدَادُ وَ الرُّدَادُ - واپسی۔
الرُّدِيدُ - بادل جو برس چکا ہو۔

التَّرْدَادُ - رَدَّ - تَحْمَارُ -
الْأَرْدُ - نَافِعٌ تَرُ -

الرُّوَادَةُ وَ الْمُرْدَةُ - فَاكِدَةٌ - كَمَا جَاتَا هِي
أَوْ لَامْرَدَةً فِيهِ “ اس میں کوئی فائدہ نہیں۔

الرُّوَادَةُ - فَاكِدَةٌ - تِمْكٌ سَمْرِيں رَهْنَةٌ وَ الْيَا زَمَانَهُ
وَرَاذٌ تِكٌ بَغِيرِي وَيُوكِي رَهْنَةٌ وَ الْيَا - غُفِينَاكُ -
سوچے ہوئے تھنوں والی اونٹنی۔ اونٹ جس نے
پانی بہت پیا ہو۔ جِزْ مَرَادٌ -

الرُّوَادَةُ - مِنْ الرُّوَادِ : بہت رُد کرنے والا۔
بہت حملہ کرنے والا۔

الرُّوَادَةُ - مَعَهُ مَعُ زَمَانَهُ وَ رَاذٌ تِكٌ بَغِيرِي وَيُوكِي
رَهْنَةٌ وَ الْيَا يَدِ تِكٌ سَمْرِيں رَهْنَةٌ وَ الْيَا -

الرُّوَادَةُ - جِرَانٌ وَ سَمْرَكَةُ -
رَدَّ (ن) رَدَّ - الْحَاظِطُ : دیوار کو ٹک لگانا۔

الرُّجْلُ : مد کرنا۔ رَدَّ أَمْرَهُ بِحُجْرٍ : پھارنا۔
رَدَّ (ك) رَدَّ - رَدِّي ہونا۔ صفت (رَدِّي)
جِزْ أَرْدِيَاءُ وَ أَرْدِيَاءُ -

أَرْدِيَاءُ - جِزْ كَامٌ كَرْنَا يَارِي جِزْ پانچانا۔ هِ :
خراب کرنا۔ بگاڑنا۔ السَّقِيُّ : لٹکانا۔
الْحَاظِطُ : دیوار کو ٹھن لگانا۔ فَلَانَا :
تسکین دینا۔ برقرار رکھنا۔ هِ عَلِيَّ مَانِيَّةُ :
زیادہ کرنا۔ بڑھانا۔

تَوَادَّدَ - الْقَوْمُ : ہانم مد کرنا۔
الرُّوَادَةُ - مَدَّ كَارَ - مَدَّ - اِيكُ جَانِبُ كَاسَارِي بُوَجْهٍ
جُو جَانُورِ بِلَادِيں - جِزْ أَرْدِيَاءُ -

تَوَادَّدَةُ - نَرِي سے پیش آنا۔
الرُّدْبُ - رَاَسَتْ جِزْ كَآخِرِي سَرَابِدُ -

الرُّدْبُ - جِزْ مِيسَالُ كَآيِكُ بُوَ بِيَانَهُ - سَلَّ
زَمِيں پَر بِنِيءِ وَ جِزْ أَرْدِيَاءُ -

الإزْدَابَةُ: چوپچہ - بڑی اینٹ۔

رَدْحٌ (ن) رَدْحَانًا: جانا۔ گزرتا۔

الرَدْحُ: نوپید بھنے کی بیٹی۔ نوپید بھڑے کی لید۔

الأزْدَاجُ: سیاہ چڑا۔

رَدْحٌ (ف) رَدْحًا: ثابت قدم رہنا۔ الشَّيْءُ:

زمین پر پھیلا کر رابر کرنا۔ (وَأَزْدَحَ) البَيْتُ:

گاڑھا گاڑھا لینا۔

رَدْحُ الشَّيْءِ: زمین پر پھیلا کر ہموار کرنا۔

الرَدْحُ: ہمہ جگہ ہموار۔

الرَدْحُ: لمبی مدت کہا جاتا ہے "أَقَامَ رَدْحًا مِ

الدَّهْرِ" اس نے زمانہ دراز تک اقامت کی۔

الرَدْحُ: بہت بڑا لشکر۔ تاریکی بڑا درخت۔ بڑا

پالہ۔ مِّنَ الْكِبَائِشِ: بڑی چگی والا دنبہ۔

ج: رَدْحٌ:

الرَدْحَةُ: خیمہ کے پچھلے حصہ کا پردہ۔ کشادگی

رُوحَةُ الضَّائِدِ: پتھر جن کو شکاری اپنے گھر کے

اورد گرد کھڑا کر لے۔

الرَدَاخَةُ والرَدَاخَةُ: بچو کے شکار کے لئے

مکان۔

الرَدْحُ: ح: گنجانا۔ کشادگی۔

الرَدْحِيُّ: دیانت کا سبزی فروش۔

رَدْحٌ (ف) رَدْحَانًا: سہرا۔ سرتوتنا۔

رَدْحٌ (ن) رَدْحًا: رَدْحًا: القَوْمُ: پھرانا۔

المَحَائِظُ: گرانہ ڈھانا۔ الرُّجُلُ: ذیل

کرنا۔ الأَرْضُ: ہموار کرنا۔

بالشَّيْءِ: لے جانا۔ الحَصْبُ: بالحَصْبِ:

پتھر سے پتھر توڑنا۔

رَادَسَةٌ: ایک دوسرے پر پتھر پھینکانا۔

تَوَدَّسَ: مین ہنکانہ: کرنا۔

المِرْدَسُ والمِرْدَاسُ: پتھر توڑنے کا آلہ۔ سر۔

پتھر جو کونوں میں پانی معلوم کرنے کیلئے ڈالا

جائے۔

رَجُلٌ (رَدْوَسٌ ورَدَيْسٌ) بہت دفع کرنے والا۔

رَدْعَةٌ (ف) رَدْعًا: عَنِ سَمَكًا: روکنا۔ ہٹانا

ہ بالشَّيْءِ: تھمیرنا۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ

فَرَدَعَهُ بِه الأَرْضُ" اس نے لے کر زمین پر پٹک

دیا۔

السَّهْمُ: تیر کے پھل کو بیٹھ جانے کیلئے

زمین پر بارنا۔ الغُرَاةُ: جماع کرنا۔

رُدْعٌ: رَدْعَةٌ: خاموش ہونا اور چرے کا رنگ

زرد پڑ جانا۔ رُدْعٌ بِه: بچھاڑا جانا۔

رَدْعَةٌ: بالزَعْفَرَانِ: زعفران میں لت پت

کرنا۔

تَوَدَّعٌ: لت پت ہونا۔

تَوَادَّعَ القَوْمُ: ایک دوسرے کو بازار کھنا۔

الرَّدْعُ: باز رہنا۔ بالقطبِ: خوشبو سے

لت پت ہونا۔ السَّهْمُ: تیر کا نشانہ پر لگ کر

ٹوٹنا۔

الرَدْعُ: ہر گردن۔ زعفران۔ جسم میں خوشبو کا

اثر۔ کہا جاتا ہے "رَكِبَ فُلَانٌ رَدْعَةً" جبکہ روکا

جائے اور وہ نہ رکے۔ و "رَكِبَ البَيْعُ رَدْعَةً"

جبکہ وہ گرجائے اور اس کی گردن اس کے جوف

میں داخل ہو جائے۔

فَقَبِيضٌ (زادع) قیص جس میں خوشبو کا اثر

ہو۔

الرَدَاعُ: کچھڑیانی۔

الرَدَاعُ: جسم میں خوشبو کا اثر۔ مرض کی واپسی۔

الرَدِيْعُ: بچھاڑا ہوا۔ ثَوْبٌ رَدِيْعٌ: زعفران سے

رنگا ہوا کپڑا۔ سَهْمٌ (رَدِيْعٌ و مِرْدَعٌ) تیر جس کا

پھل گر گیا ہو۔

المِرْدَعُ: محروم واپس آنے والا۔ کابل۔ پست

قد۔ خوشبو کے اثر والا۔

الرِدْعُ: چھوٹے بچے۔

رَدْعَتْ (ف) رَدْعًا: السَّمَاءُ: تھوڑی بارش

برساتنا۔ رَدْعٌ بِه الأَرْضُ: پٹک دینا۔

الرَدْعُ: المَسْكَانُ: بہت کچھڑیالی ہونا۔ صفت

(رَدْعٌ)

الرَدْعُ: کچھڑیالی ہونا۔

الرَدْعُ والرَدَاعُ: کچھڑیالی ہونا۔

الرَدْعَةُ والرَدْعَةُ: سخت کچھڑیالی ہونا۔

وَرْدَاعٌ: وِرْدَاعَاتٌ: مائے رَدْعَةٌ: کچھڑیالی ہونا۔

الرَدِيْعُ: بچھاڑا ہوا۔ بیوقوف۔

المِرْدَعَةُ: گلے اور نپٹی کی ہڈی کے درمیان کا

حصہ۔ عمدہ پر رونق باغ۔ ج: مِرْدَاعٌ۔

رَدْعَةٌ (ف) وِرْدَعٌ لَه (س) رَدْعًا: بچھے ہونا۔

رَدْعَةٌ وِرْدَعٌ لَه: بچھے سوار ہونا۔ ردیف بننا۔

رَدْفُ الأُمُرِ القَوْمُ: پیش آنا۔

رَدْفَةٌ: ردیف بننا۔ کہا جاتا ہے "رَدْفَةٌ لَأ"

ثُرَادِفٌ" جانور جو ردیف نہیں سوار کرتا۔

أَرْدَفٌ: پے در پے ہونا۔ ہ: اپنے بچھے

سوار کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَدْفَةٌ لَأ ثُرَادِفٌ" جانور جو

ردیف کو نہیں سوار کرتا۔ أَرْدَفَ الشَّيْءُ و

بِالشَّيْءِ و غَلَبَهُ: کسی چیز کے بچھے کسی چیز کو کرنا۔

تم کہتے ہو "أَرْدَفْتُ خَيْلًا عَلَى خَيْلِي لِي" میں

نے اپنے گھوڑے کے بچھے ایک گھوڑے کو کر

لیا۔ أَرْدَفَ لَهُ: بچھے آنا۔ الأُمُرُ القَوْمُ:

پیش آنا۔

تَوَادَّفَا: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ ایک

دوسرے کے بچھے ہونا۔ ایک کا دوسرے کا بچھے

سوار ہونا۔ تَوَادَّفَتِ الكَلِمَاتُ: کلمات کا ہم

معنی ہونا۔

الرَدْفَةُ: بچھے ہونا۔ الرَدْفَةُ العَدُوُّ: دشمن کو

بچھے سے پکڑنا۔ ہ: اپنے بچھے سوار کرنا۔

تَوَدَّفَةُ: بچھے سوار ہونا۔

الرَدْفَةُ: بچھے سوار کرنے کی درخواست

کرنا۔

الرَدْفُ: بچھے سوار ہونے والا۔ بیروی کرنے

والا۔ کام کا نتیجہ۔ ہر چیز کا آخری الجاہلیتہ:

زمانہ جاہلیت میں بادشاہ کا ہم نشین جو بادشاہ کی

دائمی جانب بیٹھتا تھا اور تمام کاموں میں بادشاہ کا

عالی سمجھا جاتا تھا اور اگر بادشاہ جنگ میں چلا جاتا

کرتا تھا تو وہ بادشاہ کی قائم مقامی کرتا تھا اور جب

فوج واپس آتی تھی تو مال غنیمت کی چوتھائی

وصول کیا کرتا تھا۔ ج: أَرْدَفَ: الرَدْفُ: سرواق

ستارہ کے قریب ایک ستارہ کا نام۔ الرَدْفَانُ:

رات دن۔

الرَدْفُ والرَدْفَانُ: مین الذابۃ: جانور کا

چوڑا۔

الرَدِيْفُ: سوار کے بچھے سوار ہونے والا۔ ج:

رَدْفُ وِرْدَعًا: سرواق ستارہ کے قریب ایک

ستارہ کا نام۔ والرَدِيْفُ فِي اصطلاح

الجندلیتہ: وہ فوجی جو آزاد کر دیا جائے اور

ضرورت کے وقت بلا لیا جائے۔

الرَدَقَةُ وَالرَدَاؤُفُ - رَدَاؤُفٌ كَادَا حِدَةً
اور رَدَاؤُفٌ درخت خرمائی پر لگ جائے اور اس کی جڑ
زمین میں نہ ہو۔ کوہان کے پیچھے حصہ میں یہ بت
چلی۔ اگر اگلے حصہ میں ہو تو اس کو رَدَاؤُفٌ کہتے ہیں۔
رَدَاؤُفٌ کما جاتا ہے "إِنَّ جَزْوَ رَهْمَ لَدَاؤُفٌ"
رَدَاؤُفٌ - سُرین - پیچھے رہنے والی قوم۔
الرَدَاؤُفَةُ - بادشاہ کی قائم مقامی۔
الرَدَاؤُفِيُّ - مددگار لوگ۔ کما جاتا ہے "جَاءَهُ وَآ
رَدَاؤُفِيُّ" وہ لوگ آگے پیچھے آئے۔
الرَدَقِيُّ - جانور کے نوزائیدہ بچہ کا پاجانہ جو کچھ
کھانے سے پہلے کرے۔
رَدَقٌ كَدٌ - آراستہ کرنا۔ خوبصورت بنانا۔
الرَدَقُ - خوش شکل لڑکا۔ مؤنث رَدَقَةٌ۔
رَدَمٌ (ن) رَدَمًا - التَّلْمَعَةُ او التَّابُ - رخسار یا
دروازہ بند کرنا۔ القَوْمُ: کمان کو کھینچ کر
آواز لگانا۔ البَعِيْرُ: چھوٹا۔
رَدَمٌ (ن) رَدَمًا - الشَّيْءُ: ہٹا۔
السَّحَابُ: ہمیشہ گھرا رہنا۔ الحمِيٌّ:
ہمیشہ بخار رہنا۔ الشَّجْوَةُ: خشک ہونے
کے بعد سبز ہونا۔ رَدَمٌ الشَّيْءُ: کسی چیز کے ایک
حصہ کو دوسرے کے ساتھ جوڑا جانا۔
أَرَدَمٌ - السَّحَابُ: ہمیشہ گھرا رہنا۔
الحمِيٌّ عَلَيْهِ: ہمیشہ بخار رہنا۔
رَدَمٌ القَوْمُ: پیوند لگانا۔ التَّاقَةُ عَلَيَّ
وَلِدَهَا: اونٹنی کا اپنے بچے پر مریبان ہونا۔
تَرَدَمٌ - قَبْرُهُ: کپڑے میں پیوند لگانا۔
القَوْمُ: کپڑے کا بوسیدہ پرانا ہونا۔
الْخَصْمُومَةُ: جھگڑے کا طویل ہونا۔ ہ
درپے ہو کر حقیقت معلوم کرنا۔ التَّاقَةُ
عَلَيَّ وَلِدَهَا: اونٹنی کا اپنے بچے پر مریبان ہونا
القَوْمُ الارضُ: زمین کی پیداوار کو بار بار
کھانا۔
الرَدَمُ: مددگار کالمبہ۔ کمان کی آواز۔
(الرَدَامُ وَالْمَرْدَامُ) ہر وہ چیز جو بے نفع
ہو۔
الرَدَمُ - رخسار کی بندش۔ جَزْوَ رَدَمٌ۔

الرَدَمُ مِنَ الصِّيَابِ: بڑا کپڑا۔ جَزْوَ رَدَمٌ۔
الأَرْدَمُ: ماہر صلاح۔ جِ الأَرْدَمُونُ۔
قَوْبٌ (مَرْدَمٌ وَمَرْدَمٌ) پرانا کپڑا پیوند لگانا ہوا۔
المَرْدَمُ - پیوند لگائی ہوئی جگہ۔ زمانہ جاہلیت
کے شاعر عترہ کے قول "هَلْ عَاذَرَ الشُّعْرَاءُ مِنْ
مَرْدَمٌ" کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شعراء نے کیا
کوئی جگہ پیوند لگانے کی پائی چھوڑی ہے یعنی سب
کچھ کہ گئے ہیں اب کسی شاعر کے لئے کوئی چیز باقی
نہیں رہی کہ اس پر کچھ کہہ سکے۔
رَدَمٌ (ض) رَدَمًا - الأَشْيَاءُ: بدبتہ رکھنا۔
المَرْأَةُ: نکلے پر کانا۔ النَّارُ: آگ
لگانا۔
رَدَمٌ (س) رَدَمًا - الجِلْدُ: سکرنا۔
رَدَمٌ وَأَرْدَمٌ - القَمِيصُ: آستین لگانا۔ أَرْدَمْتُ
الحمِيَّ: بخار کلدت تک رہنا۔
أَرْدَمْتُ - المرأةُ: کھلانا۔
الرَدَمُ - آستین کی جڑ۔ آستین کا کشادہ کنارہ۔
عرب اسی میں درانہم و درنا نیز رکھارتے تھے۔ اسی
وجہ سے عمارہ ہو گیا "نُقِلَ رَدَمُهُ" یعنی وہ المدار
ہو گیا۔ جِ أَرْدَمَانُ۔
الرَدَمُ: مدد بخاری کی جھکار۔
الرَدَمُ - سوت۔ رَشْمٌ - جِ أَرْدَمَانُ۔
الرَدَمَانُ - قازعفران۔
احمر (زادنی) سرخ جس میں زردی ملی ہو۔
الأردن - ایک قسم کا سرخ رنگ کا ریشم۔
الرَدَمِيُّ - نیزہ۔ روینہ نامی عورت کی جانب
منسوب جو عمدہ نیزہ بنانے میں مشہور تھی۔
المِرْدَمُ - نکلا۔
المِرْدَمُ - تاریک۔ اندھیرے والا۔ عِرْقُ مِرْدَمٍ:
بدبودار پینہ۔
خَيْطٌ (مَرْدَمٌ) ملایا ہوا رھاگا۔
رَدَمَةٌ (ف) رَدَمًا - فِلَانًا بحجر: سنگسار کرنا
التَّيْبَتُ: بڑا مکان بنانا۔
رَدَمَةُ الرَّجُلِ: شجاعت یا سخاوت وغیرہ کی وجہ
سے سردار قوم بننا۔
الرَدَمَةُ - پہاڑ یا چٹان کا گڑھا جس میں بارش کا
پانی جمع ہو جائے سب سے بڑا گھر۔ گھر کی سب سے
کشادہ جگہ۔ جَزْوَ رَدَمٌ وَوَاهُ رَدَمَةٌ۔

رَدَمِيٌّ (ض) رَدَمًا وَرَدَمَانًا - الشَّيْءُ: توڑنا۔ ہ
وہکا دینا۔ ہ بخجور: پتھر مارنا۔
القَوْمُ: گھوڑے کا اچھلے ہوئے دوڑنا۔
الجَارِيَةُ - لڑکی کا ایک پاؤں اٹھا کر دوسرے پاؤں
سے اچھلے ہوئے چلنا۔ فُلَانٌ: جانا۔ تم کہتے
ہو "مَا أَذْرَى أَيْنَ رَدَمِيٌّ" میں نہیں جانتا کہاں گیا
فی البئر: کنوئیں میں گرنا۔
فُلَانٌ: بلند پہاڑ سے گرنا۔
عَلِيٌّ
الْخَمْسِيْنَ مِنْ عُمْرِهِ: زائد ہونا۔
رَدَمِيٌّ (س) رَدَمِيٌّ - ہلاک ہونا۔ گرنا۔
رَدَمِيٌّ الرَّجُلُ: ہلاک کرنا: چادر اوڑھنا۔
ہ فی البئر: کنوئیں میں گرنا۔
مَالَةٌ: زیادہ ہونا۔ عَلِيٌّ الخَمْسِيْنَ:
زائد ہونا۔ القَوْمُ: کلدانا۔
رَدَمِيٌّ مَرْدَمًا - الرَّجُلُ: پھسلانا۔ نرمی برتنا
عَنِ القَوْمِ: کسی قوم کی جانب سے
دوسروں پر پتھر اڈ کرنا۔
تَرَدَمِيٌّ - چادر اوڑھنا۔ تَرَدَمِيٌّ فِي البئر:
کنوئیں میں گرنا۔
أَرْدَمِيٌّ - چادر اوڑھنا۔ گلے میں تلوار لگانا۔
أَرْدَمْتُ الجَارِيَةَ: لڑکی کا ایک پاؤں اٹھا کر
دوسرے پاؤں سے اچھلے ہوئے چلنا۔
الرَدَاءُ - چادر۔ عَمِيْلًا جبہ کی مانند اوپر کی پوشش۔
جَمِيْلٌ - تلوار۔ کمان۔ عقل۔ نادانی۔ باعث زینت۔
باعث عیب۔ رَدَاءُ الشَّيْبِ: جوانی کی رونق۔
رَدَاءُ الشَّمْسِ: آفتاب کی روشنی۔ کما جاتا ہے
"هُوَ عَمُّو الرَّدَاءِ" وہ قیاض اور بھلائی کرنے والا
ہے و "خَفِيْفُ الرَّدَاءِ" وہ کم مقروض اور کم
عیال والا ہے۔ جِ أَرْدَمِيَّةٌ۔
الرَدَاءَةُ - بڑی چادر۔
الرَدَاءَةُ - چٹان۔ جِ رَدَمِيٌّ۔
الرَدَمِيُّ - ہلاک ہونے والا۔
الرَدَمِيُّ - گونجنے والا شجر۔
المِرْدَمَةُ - لڑائی کا پکر۔ اور اسی سے ہے
"عَلَيْتَنِي مِرْدَمَةٌ تَلْحُوْنُ" لڑائی کے پکرے
آسے نہیں کر رکھتے نیا۔ وَالْمِرْدَمِيُّ: بڑی
چادر۔ ازار۔ پتھر توڑنے کا پتھر۔ جِ مَرْدَمِيٌّ۔
المَرْدَمِيُّ: گھوڑے یا اونٹ کی ٹانگیں زمین پر

<p>الرؤء۔ ج أرزاء و الرؤیة والرؤیة ج رؤایا: بڑی ملیبت۔ المؤزأ فیاض سخی ج مؤزؤؤون والمؤزؤؤون: قوم جس کے منتخب لوگ مر گئے ہوں۔ المؤزؤة۔ بڑی مصیبت۔ رؤیة (ن) رؤیانا۔ چھٹے رہنا۔ الإرؤب۔ جھوٹا۔ بڑے ذیل ڈول والا۔ المؤزؤة والمؤزؤة۔ لوہے کی سلاح۔ لوہار کا بھھوڑا۔ ج مؤزؤب۔ المؤزؤب۔ پرنا۔ بڑی یا لمبی کشتی۔ ج مؤزؤب۔ المؤزؤبان۔ فارسیوں کا رئیس۔ ج مؤزؤبنة و المؤزؤبنة۔ فارسیوں کی سرداری۔ رؤح (ف) رؤحاً ورؤوحاً ورؤاخاً۔ الجمئل: لاغری یا تمسکن کی وجہ سے گر جانا۔ صفت (زایح) ج رؤح — الرؤجل: کمزوری کی وجہ سے ہاتھ کی چیز چھوٹ جانا — الرؤجل بالوضع: تیز مارنا (— أرؤح العتب: گریے ہوئے انگوڑا اٹھانا (رؤح و ترواح) حالہ: بڑا حال ہونا۔ رؤح القاف: اونٹنی کو لاغری کرنا۔ إبل أرؤحی ورؤحی ورؤح ورواح لاغرو کمزور اونٹ۔ المؤزح۔ ہموار زمین۔ المؤزح والمؤزحہ۔ انگوڑی تیل کو زمین سے اٹھانے کیلئے کھڑی۔ ج مؤزوح۔ الموزح: آواز۔ المؤزاح۔ مین الاہلی: بہت ہی لاغراونٹ جو ہلنے کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو۔ ج مؤزایح۔ رؤحہ (ف) أرؤحاً بالوضع: تیز چھوٹنا۔ الرؤق۔ لوگوں کی صف۔ درخت خرما کی قطار (جدید) الرؤذاق۔ رہات اور اس کے ارد گرد کی زمینیں۔ ج رؤذاقات ورؤذیق۔ أرؤع الماء: پانی کم ہونا — المسکان: بہت کچھڑ والی جگہ ہونا — المصحف: کھوڑنے والے کا نناک مٹی تک پہنچنا —</p>	<p>نڈھال ہونا۔ صفت (رذی) رؤذاة۔ مؤنث رؤذیة۔ أرذاه۔ نڈھال کر دینا۔ پھینک دینا۔ صفت مفعولی (مؤذی) الرؤذی۔ بیماری سے نڈھال۔ کمزور۔ لاغر۔ رؤب (ن) رؤأ۔ العجؤة: ٹڈی کا انڈے دینے کیلئے دم کو زمین میں بھجونا۔ السماء: گرجنا۔ ہ: تیز مارنا — الباب: دروازہ میں کٹری لگانا۔ السهم فی الحائط: تیر کو دیوار میں گاڑنا۔ أرؤب العجؤة: ٹڈی کا انڈے دینے کے لئے دم کو زمین میں بھجونا۔ رؤز۔ الرؤق: کافڑ کو چھٹا کرنا — الأمر: کسی معاملہ کو درست کرنا۔ إرؤت۔ السهم فی الحائط: تیر کا دیوار میں گڑ جانا۔ البخیل عند المسئلة: بخیل کا سوال کے وقت بخل کرنا۔ الرؤ: جاول (أرؤ میں ایک لخت ہے) الرؤ والرؤی۔ دور کی آواز۔ بیٹ کی گڑگڑاہٹ۔ بادل کی گرج۔ آواز۔ الرؤة۔ زنجیر کا حلقہ جس میں تالا لگایا جاتا ہے۔ کٹرا جس کو دیوار یا زمین میں گھوڑا وغیرہ باندھنے کے لئے ٹھونکتے ہیں۔ ج رؤذاورؤات ورؤز۔ الرؤة۔ بیٹھ میں ایک قسم کا در۔ الرؤاز۔ سیسہ۔ الرؤاز۔ جاول کا سوداگر۔ الإرؤب۔ کچی۔ تیز کا گھٹنا۔ چھوٹے اولے۔ لمبی آواز والا۔ الرؤی۔ ایک قسم کی نباتات جو رنگنے کے کام میں آتی ہے۔ رؤیة التوغید: گرج کی آواز۔ المؤز۔ مین الطعام: جاول سے تیار کیا ہوا کھانا۔ المؤرة۔ جاول آگنے کی جگہ یا وہ جگہ جہاں جاول جمع کئے جائیں یا جہاں جاول بست ہوں۔ رؤأ (ف) رؤأ ورؤأ و مؤزؤة۔ الرؤجل مائلہ: کچھ حاصل کرنا۔ کم کرنا۔ کہا جاتا ہے "هؤیرؤأ" یعنی وہ سخی ہے لوگ اس کے فضل کو حاصل کرتے ہیں — ورؤی (س) رؤأ وإرؤا۔ الرجل: بھلائی حاصل کرنا۔ إرؤة الشئی: کم کرنا۔ وإرؤأ الشئی: کم ہونا۔</p>	<p>پاؤں کو کھینچنے والا گھوڑا۔ المرادی: ہاتھی۔ المؤدی۔ سلاح کا بچو۔ ج مؤدی۔ رؤت (ن) رؤذأ و أرؤت۔ السماء: چھوڑ برسانا۔ و أرؤت الرؤیة: بہر پڑنا۔ الرؤاد۔ چھوڑا۔ الرؤق۔ آتری ہوئی کھال۔ بھونسنے کے لئے پالوں سے صاف کیا ہوا بکری کا بچہ۔ سالہ ملا کر پکا ہوا گوشت۔ ج رؤایق۔ الرؤذکة۔ بکری کے چھوٹے بچے۔ ج رؤایک۔ رؤل (ک) رؤل (س) رؤالہ۔ قابل حمارت ہونا۔ صفت (رؤل) ج أرؤال ورؤال و رؤل ورؤلؤون (رؤیل) ج رؤذلا و رؤذال۔ رؤذکة (ن) رؤذلا و أرؤذکة۔ حقیر کرنا۔ ناپسند کرنا۔ حقیر سمجھنا۔ أرؤل۔ بڑا کام کرنا۔ کینوں کا ساتھی ہونا — ہ: حقیر کرنا۔ ناپسند کرنا۔ حقیر سمجھنا۔ الرؤاهم: کھونٹے کر کے واپس کرنا۔ الرؤذکة۔ حقیر سمجھنا۔ الرؤال۔ حقیر و کمینہ (— والرؤالہ) چیز کا روی حصہ۔ رؤذالہ کل شئی: ہر چیز کا گھٹیا۔ الرؤیة۔ تالائق۔ بڑی عادت۔ ج رؤایل۔ الرؤل۔ اسم تفضیل۔ گھٹیا۔ روی۔ ج أرؤل و أرؤلؤون۔ المؤیل۔ رذیل ساتھیوں والا یا حقیر جانور والا۔ رؤم (ن) رؤم و رؤمنا و رؤم (س) رؤمنا و أرؤم۔ الیاء: بابا ہو کر بنا۔ صفت (رؤم) و أرؤم علی الخمصین مین عؤمہ: زانہ ہونا۔ الرؤم و الرؤمان۔ مین الناس: متفرق جماعت۔ کہا جاتا ہے "رؤیت رؤمنا مین الناس" میں نے لوگوں کی متفرق جماعت دیکھی۔ "وکان فی رؤمان مین الناس" وہ ایسی جماعت میں تھا جس کے افراد بہت نہیں تھے۔ الرؤام و الرؤم۔ کمزور جس میں مروت نہ ہو۔ الرؤوم۔ بننے والا۔ لباب پیالہ جس میں سے گرے۔ ج رؤوم و رؤم۔ رؤی (س) رؤاوة و أرؤی۔ بیماری سے</p>
---	---	---

المظوظ الارض : بارش کا زمین کو تر کر دینا
 الزجل : حیب سے آلودہ کرنا _____ فی
 فلان : بہت تکلیف پہنچانا، حشرات کرنا، عیب
 لگانا، طعن و تشنیع کرنا۔
 رزاعہ : کشتی کرنا اور فریب دینا۔
 استرزاعہ : کمزور سمجھنا۔
 الرزاعۃ : پتلا گارا۔ کچھڑ۔ ج رزغ رزاع۔
 الرزغ : تری۔
 الرزغ والرزاع : کچھڑ میں پھنسا ہوا۔
 رزف (ض) رزفعا و رزف و آرزف ایہ :
 آگے بڑھنا _____ الحجل : اونٹ کا بلبلانا۔
 دوڑنا۔ رزف الاض : قریب ہونا۔ آرزف
 الناقۃ : ذکی چلانا۔ آرزف القوم : جلدی سے
 نکلت وغیرہ میں پھنسانا۔
 ناقۃ (رزوف) کشادہ قدم تیز رفتار اونٹنی۔
 رزافات۔ البلید : شہر کے قریب کی جگہیں۔
 رزفۃ (ان) رزفا۔ روزی پہنچانا۔ کہا جاتا ہے
 ”رزفۃ اللہ العنی“ اللہ سے تو انگری دے۔
 رزقی : روزی پانا۔ خوش نصیب ہونا۔
 ارتزقۃ : روزی مانگنا _____ الجندۃ : روزی
 لینا۔
 استرزقۃ : روزی مانگنا۔
 الرزق : روزی۔ ج آرزاق۔ بارش۔
 الرزق الحسن : بغیر محنت و مشقت کے حاصل
 ہونے والی روزی (_____ والرزقۃ ج
 رزقات۔ سپاہیوں کی رسد۔ کہا جاتا ہے
 ”أخذت رزقۃ۔ هذا الشهر أو هذا العام“
 میں نے اس مہینے یا اس سال کی رسد لے لی۔
 الرزاق : کمزور۔ ایک قسم کا لمبا سفید انگور۔
 شراب۔
 الرزاقۃ : کتاں کے سفید کپڑے۔ شراب۔
 الرزاق : روزی دینے والا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء
 حسنیٰ میں سے ہے (صرف باری تعالیٰ پر اطلاق
 ہوتا ہے)
 المرزوق : منہ۔ جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔
 المرزوقۃ : وہ لوگ جنہوں نے اپنی رسد
 حاصل کر لی ہو۔
 المرزوق : منہ خوش نصیب۔

رزم (ان) رزما۔ الشی : جمع کر کے باندھنا
 بالشی : پکڑنا _____ علی عدوۃ :
 دشمن پر غالب ہونا اور چڑھ بیٹھنا _____
 الرزجل : مرنا _____ الاہیہ : جنا۔
 رزم (ض) رزوما و رزاما۔ البعیر۔ اونٹ کا
 لاغری کی وجہ سے اٹھ نہ سکتا۔ صفت (رازم) ج
 رزام (_____ رزماۃ الشیاء : سرد ہونا۔
 رزم۔ الشیاب : کپڑوں کا گھڑی میں باندھنا۔
 القوم : کسی جگہ میں چٹ کر رہنا۔
 رازم : بیٹھنا : جمع کرنا _____ فی
 المظاعم : بدل بدل کر کھانا کھانا _____ الدار :
 دیر تک رہنا۔
 آرزم۔ الرعد : سخت گرجنا۔ آرزمت الناقۃ :
 پتہ کیلئے آواز نکالنا۔ کہا جاتا ہے ”لا أفعله ما
 آرزمت أم خانیل“ میں اس کام کو جب تک
 اونٹنی آواز نکالتی رہے گی نہیں کروں گا۔
 إرزام إرزیمانما : غضبناک ہونا۔
 الرزماۃ : دن میں ایک مرتبہ کھانا۔
 الرزماۃ : من الشیاب وغیرہا : گھڑی۔ ج
 رزم۔
 الرزماۃ : بچے کی آواز۔ تیز آواز۔ پتہ پر مریان
 ہونے کے وقت بغیر منہ کھولے ہوئے صرف حلق
 سے نکلنے والی اونٹنی کی آواز اور اسی سے مثال ہے
 ”لا تخیر فی رزماۃ لا ذرۃ فیہا“ اس اونٹنی کی
 آواز سے کوئی فائدہ نہیں جس سے دودھ حاصل
 نہ ہو۔ اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو وعدہ
 کرے اور پورا نہ کرے یا اس کے حق میں جو
 چالیسی کرے اور کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔
 غیث (رزم) وہ بارش جس میں بادل کی گرج
 ختم نہ ہو۔
 الرزام : سخت مرد۔ ج رزوم۔
 أسد رزماۃ و رزام) اپنے شکار پر چڑھ بیٹھنے والا
 شیر۔
 الرزوم : شیر کی گونج۔
 الرزام والمرزوم : اپنے شکار پر جگر لگانے والا
 اور غراے والا شیر۔ کہا جاتا ہے ”تروکنۃ
 بالمرزوم“
 المرزوم : گھڑی باندھنے کی چیز جیسے رسی۔

أم المرزوم : باوشالی یا مطلقاً ہوا۔
 المرزومان : دوستارے جو دونوں شعری کے
 ساتھ ہوتے ہیں اور ان دونوں کو محسوس سمجھا
 کرتے تھے اور کہا کرتے تھے ”لا تخیر فی
 الزمان ما طلع المرزومان“ یعنی اس زمانہ میں
 خیر نہیں جب مرزبان طلوع ہوں۔
 رزن (ان) رزنا۔ الشی : ہاتھ سے اٹھا کر وزن
 کا اندازہ کرنا _____ بالمکان : اقامت کرنا۔
 رزن (ک) رزناۃ : سنجیدہ ہونا۔ باوقار ہونا۔
 بھاری بھرکم ہونا۔ بوجھل ہونا۔ صفت مذکر
 (رزن) صفت مؤنث (رزان) رزینہ نہیں بولا
 جاتا۔
 رزان۔ الرزق : دوست ہونا۔ ساتھ آرتنا۔
 تزانا۔ ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔
 تزرن : فی الامر اوفی مجالیسہ : سنجیدہ و
 صاف رائے ہونا۔
 الرزن والرزن : بلند جگہ جس میں پانی رک
 جائے۔ ج رزن و رزان و آرزان۔ الرزن : کنارہ۔
 الرزناۃ : پانی جمع ہونے کی جگہ۔ ج رزان۔
 الارزن : سخت گڑھی کا ایک درخت جس کی
 لکڑی سے لاشھی بناتے ہیں۔
 الرزین : ساکن۔ پختہ رائے والا۔ کہا جاتا ہے
 ”هو رزین الزای“
 الرزناۃ : روشن دان۔ ج رزوان۔
 رزی (ض) رزنا۔ فلانا : احسان قبول کرنا۔
 أرزی (ارزناۃ) البیو أرزی ایہ ظہورہ : سارا
 لینا۔ چاہ لینا۔
 رس (ان) رسا۔ البئر : کنواں کھودنا _____
 الشی : دھنسا _____ لہ الخیر : بیان کرنا
 المیت : میت کو دفن کرنا _____
 خیر ہم : معلوم کرنے کی کوشش کرنا۔ بیتہم :
 صلح کرنا۔ فساروا لنا _____ (ضد) _____ رسا
 ورسبسا و آرس) السقم فی حسدہ : بیماری
 کا لازم ہو کر ٹھہر جانا۔
 راسہ مرساۃ۔ بالامر : کسی کام کی کسی کے
 ساتھ ابتدا کرنا۔
 تراس۔ القوم الخیر : رازدارانہ کتنا۔
 ارتس۔ الخیر فی الناس : پھیلانا۔ ظاہر ہونا۔

نری و آسودگی میں ہیں۔ الزمّلة: وہ عورت جس کی پنڈلیوں پر بہت اور لمبے لمبے بال ہوں۔
الرِسَالَةُ وَالرِسَالَةُ: پیغام۔ پیغامبری خط۔ ج رسائل و رسالات۔
الرِسُولُ: بھیجا ہوا۔ پیغام بر۔ پیغامبری۔ تیر اندازی وغیرہ میں جو تمہارا موافق ہو۔ ج رُسُل و رُسُل و رُسُل و رُسُل و رُسُل: چھوٹی پٹی جو ابھی اوڑھنی نہ ڈالتی ہو۔

الرِسُولُ: بھیجا ہوا۔ پیغام بر۔ پیغامبری۔ پیغام بھیجنے والا۔ تیر اندازی وغیرہ میں جو تمہارا موافق ہو۔ گھوڑ دوڑ میں دوڑنے والا گھوڑا۔ کشادہ۔ سائز۔ بیٹھاپائی۔ ج اُرْسُل و رُسُل و رُسُل۔
الرِسَالَةُ: الرِسَالَةُ کی تفسیر۔ کہا جاتا ہے "الْقِي الْكَلَامَ عَلَى رُسَيْلِيهِ" یعنی اس نے بے اتفاقی کی۔

الرِسَالَةُ: لہذا ہر جو سینہ تک واقع ہو۔ ج مرسلات۔ المرسلات: ہوا میں یا فرشتے یا گھوڑے۔
المرسلان: چھوٹا تیر۔ پیغامبر۔ ناقة مرسلان: نرم رفتار اونٹنی۔ ج مرسلان۔

رَسَمٌ (ن) رَسَمًا: المَطَرُ الذَّيَارُ: متاثر زمین سے ملا ہوا نشان باقی رکھنا۔ لَهْ كَذَا: حکم دینا۔ عَلَى كَذَا: لکھنا۔ الْكِتَابُ: لکھنا۔ نَحْوُهُ: دوڑتے ہوئے جانا۔ ه الْأَسْفَلُ: گرجا کا کوئی عمدہ دینا۔ اس "الرِسَامَةُ" ہے۔

رَسَمٌ (م) رَسِمًا: البَيْهِيُّ: پاؤں کا نشان چھوڑنا۔ تیز چلنا۔ صفت (رَسْمٌ)

رَسَمٌ: العُزْبُ: دھاری دار بتانا (رَسَمٌ وَأَرْسَمَ) النّاقَةَ: چلا کر پاؤں کے نشان ڈالنا۔ تَوَسَّمَ: الذَّازُ: گھر کے نشانات وغیرہ غور سے دیکھنا۔ الشَّيْءُ: یاد کرنا۔ البانف و الحافض: عمارت بنانے یا کھودنے کیلئے زمین دیکھنا۔

إِرْسَمَ: الأَمْزُ: فرمانبرداری کرنا۔ کہا جاتا ہے "رَسَمٌ لَهْ كَذَا" اَفَا رَسَمَهُ" اس نے اس کو فلاں حکم دیا اور وہ بحال آیا۔ لِلّٰهِ تَعَالَى: تکبیر کہنا اور دعا کرنا۔ الرُّجُلُ: گرجا کے کسی عمدہ

پر پہنچنا۔

الرِسْمُ: مہ۔ گھر کے مٹے ہوئے نشانات۔ مٹی میں دیا ہوا کنواں۔ کسی چیز کا خاکہ۔ علامت۔ غیر واقعی جیسے شاعر کے قول میں "أَزَى وَذَكْمٌ" رَسْمًا وَرِثِيَّةً حَقِيقَةً میں تمہاری دوستی کو غیر واقعی اور اپنی دوستی کو واقعی سمجھتا ہوں۔ ج رَسْمٌ وَأَرْسَمَ: معاملہ۔ عِنْدَ أَهْلِ الْجَبَابَةِ: نکلیں۔

الرِسْمُ: فا۔ بہتا ہوا پانی۔

الرِسْمُ: رفتار کی خوبی۔

الرِسْمُ: ج رَوَائِسِمٌ و (الرِسْمُ) ج رَوَائِسِمٌ: مہر۔ منگے وغیرہ پر مہر کرنے کی چیز۔ کھدی ہوئی لکڑی جس سے غلہ کے ڈھیر پر مہر کی جائے۔ الرِسْمُ: علامت۔ نشان۔ مصیبت۔ الرَوَائِسِمُ: زمین پر پاؤں کے نشان ڈال کر چلنے والے اونٹ۔ واحد (رِسْمٌ و رَائِسِمَةٌ)

الرِسْمُ: مہر۔ لکھا ہوا۔ سرکلر۔ ج مَرَائِسِمٌ و مَرَائِسِمٌ۔

الرِسْمُ: نقش کرنے والا۔ نقش بنانے والا۔ الرِسْمَانُ و المِرْسَمُ: زمین پر نشان ڈالتے ہوئے اونٹ کی چال۔

رَسَمٌ (ن) رَسَمًا: الرِسْمُ: الدَّابَّةُ: جانور کے سر میں رسی ڈالنا۔ رَسَمٌ و رَسَمٌ: الدَّابَّةُ: جانور کو چرنے کیلئے آزاد چھوڑ دینا۔ اور اسی سے ہے "رَسَمِيٌّ بِرِسْمِهِ عَلَى عَارِيهِ" اس نے اس کے کندھے پر اس کی رسی ڈال دی یعنی اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا۔ أَرْسَمَ: المَهْمُزُ: پچھری کا نالغ ہونا۔ گردن میں رسی ڈالنے کے لئے سر دینا۔

الرِسْمُ: جانور کے گلے میں ڈالنے کی رسی۔ ج أَرْسَمَانُ و أَرْسَمٌ۔

الرِسْمُ و المِرْسَمُ: مِنَ الدَّابَّةِ: رسی ڈالنے کی جگہ۔ ج مَرَائِسِمٌ: تاک۔

رَسَمًا يَرْسُمُ رَسْمًا و رَسْمًا: ٹھہرنا۔ ثابت ہونا۔ استوار ہونا۔ صفت مذکر (رَسَمٌ) صفت مؤنث

(رَائِسِيَّةٌ) ج رَوَائِسِمٌ و رَائِسِيَّةٌ: رست السَّقِيَّةُ: لنگر انداز ہونا۔ رَسَمَاتِيْنِ الْقَوْمِ: صلح کرنا۔ عِنْدَ حَدِيثِنَا: کسی سے روایت کرنا۔ لَهْ الْحَدِيثِ: کسی کے سامنے کچھ حصہ بیان کرنا

الرِسْمُ: روزے کی نیت کرنا۔ رَائِسِيَّةٌ: تیراکی میں مقابلہ کرنا۔

أَرْسَمِيَّةٌ: الشَّيْءُ: ٹھہرنا۔ ثابت ہونا۔ استوار ہونا۔ السَّقِيَّةُ: کشتی کو لنگر انداز کرنا۔ الرِسْمُ: الأَرْضُ: کھونٹے کو زمین میں گاڑنا۔

الرِسْمُ: خبر کا ایک حصہ۔

الرِسْمُ: فا۔ قَدْرًا رَائِسِيَّةً: ایک جگہ پر رہنے والی بڑی ایک۔

الرِسْمُ: مضبوط پہاڑ۔

الرِسْمُ: ثابت۔ خیمہ کے درمیان کا تھم۔

الرِسْمُ: بندرگاہ۔ ج مَرَائِسِمٌ۔

الرِسْمُ: مہ۔ باری تعالیٰ کے قول "بِنَسْأَلِكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسَمُهَا" کے معنی یہ ہیں کہ "لوگ آپ (ﷺ) سے دریافت کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی؟"

الرِسْمَةُ: کشتی کا لنگر۔ ج مَرَائِسِمٌ: کہا جاتا ہے "الرِسْمَةُ مَرَائِسِمَةٌ" یعنی اس نے قیامت کی "وَالْقَبْرِ السَّحَابُ مَرَائِسِمَةٌ" بادل جم کر برسا۔

رَسَمٌ (ن) رَسَمًا: الرِسْمَةُ: المَاءُ: پانی چھڑکنا۔ السَّمَاءُ: آسمان کا پھوار برساتا۔ الشَّيْءُ: دھونا۔

أَرْسَمْتُ: السَّمَاءُ: آسمان کا پھوار برساتا۔ الطَّعْنَةُ: کشادہ زخم ہونے سے خون پھیل کر لکھنا۔ الشَّوَاءُ: بھونے ہوئے گوشت سے چرپی ٹپکانا۔ الرِسْمُ: گھوڑے کو دوڑا کر پھینکنا۔

رَسَمْتُ: عَلَيْهِ المَاءُ: متفرق چھینٹے پڑنا۔ برنا۔ الرِسْمُ: مہ۔ پھوار۔ ج رَسَمًا: تھکاف دہار۔ الرِسْمُ: پانی خون وغیرہ کا چھینٹنا۔

الرِسْمَةُ: پانی وغیرہ چھڑکنے کا آلہ۔

رَسَمًا (ف) رَسَمًا: الرِسْمُ: الرِسْمُ: ہرن کا قوی ہو کر ماں کے ساتھ چلنا۔ الرِسْمَةُ: ہرن کا جھنڈا۔ الرِسْمُ: ہرن کا پتھر یا وہ جو چلنے لگے۔ ج ارشاد۔ الرِسْمَةُ: مغز سے خالی ناریل جس سے پانی نکالیں۔

الرِسْمُ: مٹی جس سے ٹھکوں کا مہر بنا کر

دیں۔

رَشَحَ (ف) رَشَحًا وَرَشْحَانًا وَأَرَشَحَ
وَأَرَشَحَ: الإِنَاءُ: برتن کا چمکانا۔ رَسًا
الْحَمْدُ: بدن کا بھینسا والا ہونا وَرَشَحَ الظَّبْيُ:
ہرن کا اچھلنا۔ کودنا۔ کہا جاتا ہے "لَمْ يَرَشَحْ لَهْ:
بَشِيئًا" اس نے اس کو کچھ نہیں دیا۔
رَشَحَتِ النَّاقَةُ وَلَدَهَا رَشْحًا وَأَرَشَحَتْهُ
وَرَشَحَتْهُ: اونٹنی کا اپنے بچے کی دم کی جڑ کو اپنے
سر سے رگڑنا اور آگے بڑھانا اور خود ٹھہر ٹھہر کر
جانا تاکہ بچے اس سے لائق رہے۔ صفت (ر) اَشِح
مُرَشِحٌ وَمُرَشِحَةٌ
رَشِحٌ: بھینسہ سے ترونا۔

رَشَحَ: المَالُ: بہتر انتظام کرنا۔ الْوَلَدُ:
پرورش کرنا اور کام کے لائق بنانا اور اس سے ہے
"هُوَ يُرَشِّحُ لَوْلَايَةِ الْعَهْدِ" وہ ولی عہدی کیلئے
تیار کیا جا رہا ہے۔ الظَّبْيَةُ وَلَدَهَا: جننے
کے وقت آلائش جانا۔ النَّاقَةُ وَلَدَهَا:
بھمنی رَشَحَتْهُ الْغَيْثُ النَّبَاتُ: بارش کا
نباتات کو بڑھانا۔

تَرَشَّحَ: وَلَدَ النَّاقَةَ: ہاں کے ساتھ چلنے کے
لائق ہونا۔ الظَّبْيَةُ: جننے کے وقت آلائش
جاننا۔ المَاءُ: پتھروں سے نچکانا۔
الرَّجُلُ لِأَخْرَجَ: لائق ہونا۔ اہل ہونا۔
اسْتَرَشَّحَ: النَّبَاتُ: بلند ہونا۔ بڑھنا۔
النَّبَاتُ: چرانے کیلئے بڑھنے کا انتظار کرنا۔
الرَّشْحُ: بھینسہ۔

الرَّوْاحِشُ: فَا: پتھروں سے نچکنے والا پانی۔
مِنَ الْفَضْلَانِ: چلنے میں قوی۔ پیاز جس
کا ٹھلا حصہ تر ہو۔ زمین پر رینکنے والا کھڑا۔ ج
رَوَّاشِحٌ:
الرَّوْشِیحُ: بھینسہ۔ ایک قسم کی نباتات۔
المُرَشِّحُ والمُرَشِّحَةُ: زین کے نیچے کا
خوگیر۔

الأَرَشِحُ: بہت ذہین۔ ذکی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
أَرَشِحٌ فَوَادًا" وہ تیز خاطر ہے۔
رَشَدٌ (ن) رُشْدًا وَرَشَادًا وَرَشِدٌ (س)
رَشَدًا: ہدایت پانا۔ راہ راست پر چلنا۔
أَمْرًا: ہدایت یا تیز ہونا۔

رَشَدَةٌ وَأَرَشَدَةٌ: إِلَى كَذَا وَعَلَيْهِ وَلَهُ:
ہدایت کرنا۔ رَشَدَةُ القَاضِي: سیدھے راستہ پر
چلنا۔

اسْتَرَشَدَ: لِأَمْرِهِ: راہ راست پانا۔
ه: ہدایت طلب کرنا۔

الرُّشْدُ: سہ۔ ہدایت۔ راہ راست پر ہونا۔
الرُّشْدَةُ والرُّشْدَةُ: حلال زادہ۔
الرُّشْدِيُّ: ہدایت۔

الرُّشِيدُ: سیدھے راستہ پر چلنے والا۔ ہدایت
یافتہ۔ ہدایت کرنے والا۔

الرُّشَادُ والرُّشْدُ: ایک قسم کی نباتات۔
الرُّشَادَةُ: چٹان۔ مٹی بھر کا پتھر۔ ج رَشَادُ:
المُرَّاشِدُ: سیدھے و متوسط راستے (جمع ہے
واحد نہیں)

أَمْرٌ (ر) اَشِيدٌ: چوبیا۔
رَشْرَشٌ وَرَشْرَشَةٌ: الشَّيْءُ: ڈھیلا ہونا۔
الرَّبِيعِيُّ: اونٹ کا اچھی طرح بیٹھنے کیلئے سیدھے
سے زمین رگڑنا۔

تَرَشَّرَشَ: المَاءُ: بہنا۔ حُبْرٌ أَوْ عَظْمٌ
(رَشْرَشٌ وَرَشْرَاشٌ) نرم روٹی یا ہڈی۔
رَشَفٌ (ض) رَشْفًا وَرَشِيفًا وَرَشَافًا
وَرَشِيفٌ (س) رَشْفًا وَرَشْفَانًا المَاءُ وَنَحْوَهُ:
چوسنا۔ الإِنَاءُ: پی کر خالی کرنا۔

رَشَفٌ وَأَرَشَفٌ وَتَرَشَّفٌ وَأَرَشَفٌ
المَاءُ: خوب چوسنا۔
الرَّشْفُ والرَّشْفُ: حوض کا تیز تھوڑا پانی۔ کہا
جاتا ہے "حَوْضٌ رَشْفٌ" بے پانی کا حوض۔

الرَّشَافُ: بہت چوسنے والا۔
المُرَشِّفُ: پانی چوسنے کا آلہ۔ ج مَرَّاشِفٌ
المُرَّاشِفُ: ہونٹ۔

رَشَقَهُ (ن) رَشَقًا: بالسَّهْمِ: تیر مارنا۔
بِتَبَصْرِهِ: گھور کے دیکھنا۔ هِيلَسَانِيَه: طعن و
تفتیش کرنا اور اسی سے ہے "إِيَّاكَ وَرَشَقَاتِ
اللِّسَانِ" زبان کی طعن زنی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

رَشَقٌ (ك) رَشَاقَةٌ: الغَلَامُ: خوبصورت قد
والا ہونا۔ چابک دست ہونا۔ پھر پٹلا ہونا۔ صفت
(ر) شِيقٌ (ج) رَشَقٌ:
رَشَقَةٌ مَرَّاشِقَةٌ: ہمراہ چلنا۔ ایک دوسرے کو تیر

مارنا۔

تَرَشَّقَ: القَوْمُ: باہم تیر اندازی کرنا اور کہا
جاتا ہے "تَرَشَّقُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَتَرَشَّقُوا
بِأَعْيُنِهِمْ" انہوں نے اپنی زبانوں سے طعن و
تفتیش کی اور اپنی آنکھوں سے گھور گھور کر دیکھا۔
تَرَشَّقَ فِي الْأَمْرِ: تیز ہونا۔

أَرَشَقَ: التَّنْظَرُ إِلَيْهِ: تیز نظر سے دیکھنا۔
القَوْمُ بِتَبَصْرِهِ: نگاہ ڈالنا۔ الظَّبْيَةُ: ہرنی کا
گردن پھیلا کر تیز نظر سے دیکھنا۔

الرَّامِي: سیدھا تیر پھینکانا۔ کہا جاتا ہے "أَرَشَقَنِي
مَقْصِدِي": اس نے میرے مقصد کی طرف
چلنے میں میرا مقابلہ کیا و "مَا أَرَشَقَ هَذِهِ
الْقَوْسُ" یہ کمان کس قدر تیز تیر پھینکنے والی ہے۔

الرَّشَقُ: تیز تیر پھینکنے والی کمان۔ رَشِيقِي
ج: جمع۔

الرَّشَقُ والرَّشِقُ: قلم کی چرچر اہٹ۔ تم کہتے
ہو "سَمِعْتُ رَشَقَ قَلَمِهِ" میں نے اس کے قلم
کے چلنے کی آواز سنی۔ تیر اندازی ج
أَرَشَاقٌ:

الأَرَشَقُ: سیدھا کھڑا۔ کہا جاتا ہے "جِنْدٌ
أَرَشَقٌ" تیزی گردن۔

الرَّشِيقُ: نازک اندام خوبصورت۔
مِنَ اللَّفْظِ وَالْحِطِّ: پاکیزہ نہیں لفظ یا خط۔
الرَّشِكُ: گھنی داڑھی۔ گھنی داڑھی والا۔
بچھو۔

رَشِمَ (ن) رَشْمًا: يَبْدُرُ الحِنَطَةَ: گیوں
کے کھلیان پر ٹھہر کرنا۔ (وَرَشْمٌ) لکھنا۔
رَشِمَ (س) رَشْمًا: کھانے کی بو سو گھننا اور
خوابش کرنا۔ صفت (أَرَشِمٌ)

أَرَشِمَ: الشَّجَرُ: درخت کا پتے والا ہونا۔
الأَرَشِمُ: بہزی لگنا شروع ہونا۔ البُرْقُ:
بجلی چمکانا۔ المَاشِيَةُ: ابتدائی بہزی چرنا۔ ()
وَأَرَشِمَ: الإِنَاءُ: برتن پر ٹھہر کرنا۔

الرَّشِمُ: ابتدائی بہزی۔ بجو کی منہ کی سیاہی ()
والرَّشِمُ: زمین پر بارش کا اثر۔ پھر پڑنا کا
اثر۔

الأَرَشِمُ: داغدار۔ کتا (جو کتہ اس کے تختوں
کے درمیان سیاہی ہوتی ہے)۔ مِنَ الْغَيْثِ

إِزْتَصَّ الشَّيْءُ: تَوَضَّأَ.
 الْأَرْضُ: جَمْعُ رَيْبِضٍ وَاللَّامُ:
 الرِّبِضُ وَالْمَرْبُوضُ: كَوْنُهُوا.
 الرِّبِضُ: رَيْبُ جُورِ.
 الرِّبِضَةُ وَالْمَرْبُوضَةُ وَالرِّبْضُ: تَحْطِئُ كَالرِّبِضِ
 دَوْدَهُ فِي بَحْلُوئِي هَوِيَّ كَجُورِي. الرِّبِضَةُ:
 كَوْنُهُ يَأْكُلُ كَالرِّبِضِ.
 رَضَبٌ (ن) رَضَبًا وَرَضَبٌ: الرِّبِضُ: الرِّبِضُ: زُورُ
 سَ بَارِشٌ هُوَا ____ السَّمَاءُ: آسَمَا كَابِرَسَا
 (رَضَبٌ وَتَرَضَبٌ) الرِّبِضُ: تَهْوِكُ چوستا.
 الرِّبِضُ: فَا- مِنَ الرِّبِضِ: زُورُ سَ بَرَسَ
 دَالِي بَارِشِ.
 الرِّبِضُ: جُورِ هُوَا تَهْوِكُ. شَدُّ كَالعَلَبِ أَوِ
 جَهَاكُ. مَلِكُ كَ رَيْبِ. بَرَفٌ أَوِ شُكْرُو غَيْرُهُ
 كَ كَلَرُ. اُولُ- مَاءٌ وَرَضَابٌ: بِشَمَالِي.
 الرِّبِضُ وَالْمَرْبُوضُ: خُوشِ مَزِ
 تَهْوِكُ.
 رَضَحٌ (ف) رَضَحًا: التَّوَيُّ أَوِ الرِّبِضُ:
 تَحْطِئُ يَأْكُلُ كَرِي تَوَضَّأَ ____ رَأْسَهُ بِالْحَجَرِ:
 كَلَنَا.
 تَرَضَحٌ: الرِّبِضُ: كَلَرِي كَالرِّبِضِ: الرِّبِضُ:
 رُوئِي كَابُورَا كَرِنَا.
 تَرَضَحُوا: بِالرِّبِضِ: أَيْكُ دُوسَرُ سَ پَرِ تِيرِ
 اِنْدَا زِي كَرِنَا.
 إِزْتَصَّحَ مِنَ الْأَمْرِ: عَزَرَ كَرِنَا.
 الرِّبِضُ: تَهْوِزَا عَطِيه. كَمَا جَاتَا سَ "بَلْعَانَا"
 رَضَحٌ مِنَ الرِّبِضِ: "هَمُّ كُو تَهْوِزِي خَبْرِي"
 الرِّبِضُ: تَحْطِئُ.
 الرِّبِضُ: تَوِي هُوِي تَحْطِئُ.
 الرِّبِضُ: تَحْطِئُ جُو تَوِزَتِ وَتِ قَتِ تَحْرُ كَ نِيچِ
 سَ چَمَكُ جَاغَ. كَمَا جَاتَا سَ "وَقَعَتْ رَضَحَةٌ"
 مِنَ الرِّبِضِ: "لِيَعْنِي تَهْوِزِي سِي بَارِشِ هُوِي. ج.
 رَضَحُ.
 الرِّبِضُ: تَحْطِئُ كَالرِّبِضِ.
 رَضَحٌ (ض) ف) رَضَحًا: التَّوَيُّ أَوِ
 الرِّبِضُ: تَحْطِئُ يَأْكُلُ كَرِي تَوَضَّأَ أَوِ كَمَا جَاتَا سَ
 "رَضَحٌ لَهْ مِنْ مَالِهِ رَضَحًا" لِيَعْنِي اسَ نَ اسَ
 كُو بَسْتِ مِي سَ تَهْوِزَا سَاوِيَا ____ الرِّبِضُ:

رَضَفٌ.
 الرِّبِضُ: نَظِيرُ- دُوسْتِ- عَمَلٌ رَضِيفٌ:
 مَضْبُوطٌ كَامُ أَوِ مَوْلِدِيْنِ كَ نَزْدِيكُ رَضِيفٌ كَا
 اِطْلَاقُ تَحْرُ كَ فَرَشِ كِي هُوِي سَ رَاسْتِ پَرِ هُوَا
 سَ.
 الرِّبِضَةُ: پُجَا جُو چَمْرِي سَ تِيرِ كَ چَلِ كَ دَاغِلِ
 هُوِي كِي جَلْدِ سَ اُو پَرِ لَگَا جَاتَا سَ. اِطْرَافُ شَمْرُ كَا
 سَبِزُ زَارُ أَوِ عَمُوَا سَ كَا اِطْلَاقُ بَعْدَا كَ اَيْكُ مَقَامُ
 پَرِ هُوَا سَ.
 الرِّبِضَةُ: ثَابِتُ قَدِي.
 الرِّبِضَةُ: تَهْوِزَا.
 الرِّبِضُ: تِيرُ- رَجُلٌ مُرَضِيفٌ الْأَسْتَنَانُ:
 قَرِيبُ قَرِيبِ دَانِوِي وَالْأَمْرُ-
 إِزْتَصَّقَ إِزْتَصَاقًا: چِيكُ كَرِ مَضْبُوطُ هُوَا.
 رَضِمٌ (س) رَضِمًا: پَاڑِي كِي تَنگُ گھائی مِي
 دَاغِلِ هُوَا.
 رَضِنٌ (ن) رَضِنًا: الْأَمْرُ: پُورَا كَرِنَا. مَضْبُوطُ كَرِنَا
 ____ الدَّابَّةُ: دَاغُ لَگَا ____ هِيلَسَا نِيه: گَالِي
 رِنَا.
 رَضِنٌ (ك) رَضِنًا: الْعَقْلُ وَغَيْرُهُ: سَبِيحُهُ
 هُوَا. مَضْبُوطُ هُوَا. ثَابِتُ قَدَمُ هُوَا. صِفْتُ
 (رَضِينٌ)
 رَضِنٌ: الشَّيْءُ مَعْرِفَةٌ: خُوبُ اِجْمَعِي طَرَحُ سَبْحَانَا
 أَوِ كَمَا جَاتَا سَ "رَضِنٌ لِي هَذَا الْخَبِيرُ" مِيرِ
 لَئِي اسَ جَبْرِي تَحْقِيقُ كَرُو.
 رَضِنَةٌ: مَضْبُوطُ كَرِنَا. كَمَلُ كَرِنَا.
 الرِّبِضُ: اَيْكُ حَسْمُ كِي نَابَاتِ.
 الرِّبِضُ: اِپَنِي سَاتَمِي كِي ضَرُورَتِ كِيلِي اِصْوَارُ
 كَرِنَا دَاوَا- دُورُ مَنَدُ- دُورُ نَاكُ.
 الرِّبِضُ: جَانُورُو كُو دَاغُ لَگَا نِي كَالوَا.
 رَضَا (ن) رَضَوًا: الشَّيْءُ: مَضْبُوطُ كَرِنَا. اِسْتَوَارُ
 كَرِنَا.
 رَضِي: بِالْمَكَانِ: جَمْعُ كَرِنَا.
 رَضَا (ن) رَضَا: كُوْنَا- دَلِنَا.
 رَضِي: الشَّيْءُ: اِجْمَعِي طَرَحُ كُوْنَا- دَلِنَا.
 تَرَضِي: كُوْنَا جَانَا- دَلِنَا.
 رَضِي: سَتُ وَبُجَمَلُ هُوَا. تِيرُ دُورِنَا ____
 فِي الْأَرْضِ: جَانَا- التَّغَبُّ التَّوَقُّقُ: بِيَسْتِ بَرَانَا.

دَانِوِي كَابُوسْتِ وَقَرِيبُ قَرِيبُ هُوَا.
 تَوَضَّعَ: جَزَاؤُ هُوَا. شَارِدَا هُوَا. كَامُ وَغَيْرُو مِي
 چَسْتِ هُوَا.
 تَرَضَعَتِ: الْعَضَا فَيُزِي: تَحْقِيقُ كَرِنَا.
 الرِّبِضَةُ: كُوْنُهُ هُوِي دَانِي- لَگَامُ كِي گَرِه-
 تَلَوَارُ يَا زِيْنِ وَغَيْرُهُ كَا حَلْقَةُ يَا گُولُ زِيورُ- ج.
 رَضَاعُ.
 الْأَرْضُ: لَاغْرَسِيْنِ وَالْأَرْضُ: طَلْعُ الرِّبِضِ: پُورَا
 گَمَسَا هُوَا تِيرِ.
 الرِّبِضُ: بَسْتِ جَمْعُ كَرِنَا وَالْأَرْضُ:
 الرِّبِضُ: لُورُ- هِرُوهُ كَلَرِي جَمْعُ سَ كِي چِيوُ كُو
 چُو رَا كَرِنَا.
 الرِّبِضُ: بِنْدُوسْتِ- گَمَا.
 الرِّبِضُ: بِمَعْنِي الرِّبِضُ.
 رَضَفٌ (ن) رَضَفًا: الرِّبِضُ: تَحْرُ كُو
 تَرْتِيبُ سَ جُو رِنَا ____ الرِّبِضُ: قَدَمِيهِ أَوِ
 نِيچِ قَدَمِيهِ: نَمَازِي قَادِمُو كُو قَرِيبُ قَرِيبُ كَرِنَا
 يَا اَيْكُ كُو دُوسَرُ سَ مَلَانَا أَوِ كَمَا جَاتَا سَ "هَذَا
 الْأَمْرُ لَا يَرَضِفُ بَلْ" يِي كَامُ تَمَارِ سَ لَاتِقُ
 نِيچِ.
 رَضَفٌ (ك) رَضَفًا: الْعَمَلُ: مَضْبُوطُ هُوَا.
 رَضَفْتُ (س) رَضَفًا وَرَضِفْتُ رَضَفًا
 اِسْتَنَانُهُ: دَانِوِي كَاتَرْتِيبُ دَاوِو هُوَا رِنَا.
 رَضَفٌ: شَرَابُ وَغَيْرُهُ مِي پَاڑِي چَشْمِ كَابَانِي
 مَلَانَا.
 تَرَضَفْتُ وَتَرَضِفْتُ وَارْتَضَفْتُ
 الرِّبِضُ: تَحْرُ كُو تَرْتِيبُ دَاوِو مَلَانَا.
 ____ الرِّبِضُ: فِي الرِّبِضِ: تَرْتِيبُ سَ اَيْكُ
 دُوسَرُ سَ مَل كَر كَرِنَا هُوَا ____ اِسْتَنَانُهُ:
 دَانِوِي كَاتَرْتِيبُ دَاوِو هُوَا.
 الرِّبِضُ: پَانِي بِنِي كِي جَلْدِ مِي اَيْكُ دُوسَرُ
 كَ سَاتَمِ جُزُ هُوِي تَحْرُ- وَاحِدُ (رَضَفَةٌ)
 الرِّبِضُ: گَمْنُو كِي پُڑِيُو كَ پُڑِي- گَمْنُ.
 الرِّبِضُ: پَانِي كَا بِنْدُ- مَاءُ الرِّبِضِ: پَاڑِي كَا
 صَافِ پَانِي جُو چَشَانُ پَرِ گَرِ.
 الرِّبِضُ: پُجَا جُو چَمْرِي سَ تِيرِ كَ چَلِ كَ
 دَاغِلِ هُوِي كِي جَلْدِ سَ اُو پَرِ لَگَا جَاتَا سَ.
 گَهْوِزُ كَا پُجَا- پِلُو كِي پُڑِيَا- ج. رَضَفٌ وَ

معلوم کرنا۔ الرُّجُلُ: دوڑنا۔
 رطل۔ الشَّوْرُ: تیل لگا کر نرم کرنا اور کھسی
 کرنا۔ الشَّيْءُ: رطل پیمانہ سے وزن کرنا
 _____ وَأَرْطَلُ، الرُّجُلُ: ڈھیلے لگے ہوئے
 کانوں والا ہونا۔
 رطل۔ رطل سے بچنا۔
 الرُّطْلُ والرُّطْلُ: بارہ اوقیہ کا ایک وزن۔ ۳۰
 تولد۔ جِ أَرْطَالٍ۔ الرُّطْلُ مِنَ الرُّجَالِ:
 بیوقوف۔ سست۔ کمزور بڑھا۔ لاغر اندام۔ قریب
 البلوغ لڑکا۔ سب رفتار گھوڑا۔
 الرُّطْلَةُ: سب رفتار گھوڑی۔
 الرُّطْلِيَاءُ: رتلا کی تعریف ہے۔
 الرُّطْلُ مِنَ الرُّجَالِ: نرم۔ لمبا۔
 رطل۔ (ن) اَرْطَلًا۔ کچڑ میں گرانا۔ پیچیدہ اور
 مشکل کام میں پھنسانا۔
 رَطَمَ وَأَرْطَمَ: فِي قَفْوَهِ: جم کے بیٹھنا۔
 وَأَرْطَمَ الرُّجُلُ: خاموش رہنا۔
 رَطَمَ: التَّبَعِيُّ: اونٹ کو قبض کی بیماری ہونا۔
 تَرَطَّمَ: التَّسْلِحُ: پاخانہ روکنا۔
 إِزْطَمَ: کچڑ میں گرنا یا پیچیدہ و مشکل کام میں
 پھنسانا۔ فِي الْأَمْرِ: کسی معاملہ میں پھنس
 جانا۔ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مشتبہ ہونا۔
 الشَّيْءُ: ڈھیر لگانا۔
 الرُّطْمَةُ: پیچیدہ و مشکل کام جس سے خلاصی
 دشوار ہو۔
 الرُّطَامُ: قبض۔
 الرُّطْمُ: بیوقوف مرد۔
 الرُّطِيمُ: کسی چیز کو چھڑے رہنے والا۔
 إِمْرَأَةٌ مَرْطُومَةٌ: بدی کے ساتھ متم عورت۔
 رَطْنٌ لَدَى (ن) رَطَانَةٌ وَرَطَانَةٌ وَرَطَانَةٌ مَرْطَانَةٌ:
 عجمی زبان میں گفتگو کرنا۔
 تَرَاتُظَنَ: الْقَوْمُ وَتَرَاتُظُوا فَيَمَّا يَتَّبِعُهُمْ: باہم
 عجمی زبان میں گفتگو کرنا۔
 الرُّطْنِيُّ: کلام جو سمجھ میں نہ آئے۔ کہا جاتا
 ہے "مَاءٌ رَطْنِيَّكَ هَذِهِ" تمہاری یہ کیا بکواس
 ہے۔
 رَطَانٌ (ن) اَرْطَاؤُا: الجارية: جماع کرنا۔
 رَعَتْ (ن) رَعَا الرَّبِيْعُ: ہوا کا ٹھہر جانا۔

الرُّجُلُ: بیوقوف سمجھنا۔
 الرُّطْلُ: بیوقوفی۔
 الرُّطْلِيُّ: بیوقوف۔ جِ رِطَاءٌ مَوْثٌ رِطْفَةٌ وَ
 رِطَاءٌ۔
 رَطَبُ (ن) رِطَابَةُ البَشَرِ پختہ ہونا۔ بسر گھجور کا
 رطب ہونا۔
 رَطَبُ (ن) رِطْبًا وَرِطْفًا: الذابئة: جانور کو
 تازہ چارہ کھلانا۔
 رَطَبُ (س) وَرَطَبُ (ك) رِطْبَةٌ وَرِطَابَةٌ:
 تر ہونا۔ نمناک ہونا۔ نازک ہونا۔ رَطَبُ البَشَرِ:
 پختہ ہونا۔
 رَطَبٌ وَأَرْطَبُ: القُوبُ وَنَحْوُهُ: تر کرنا۔
 رَطَبٌ وَأَرْطَبُ البَشَرِ: پختہ ہونا۔ رَطَبٌ
 الْقَوْمُ: پختہ گھجور کھلانا۔ وَأَرْطَبُ الْأَرْضُ:
 زمین کا پختہ گھجور والی ہونا۔ اَرْطَبُ التَّخْلُ:
 گھجور کے پینے کا وقت آنا۔ اَرْطَبُ الْقَوْمُ: پختہ
 گھجوروں کے درخت خرما کا مالک ہونا۔
 تَرَطَّبَ: تر ہونا اور اسی سے ہے "تَرَطَّبَ
 لِسَانِي بِذِكْرِكَ" تمہاری یاد سے میری زبان تر
 ہے۔
 الرُّطْبُ والرُّطْبِيُّ: تر۔ نرم و نازک شئی یا پر
 وغیرہ۔ کہا جاتا ہے "عَيْشٌ رَطْبِيٌّ" خوش حال
 زندگی۔
 الرُّطْبُ والرُّطْبِيُّ: بڑھاپہ۔
 الرُّطْبِيُّ: پختہ تازہ گھجور۔ واحد (رِطْبَةٌ) ج
 رِطَابٌ وَأَرْطَابٌ۔
 الرُّطْبِيَّةُ: کھاری کنوئیں کے درمیان بیٹھا
 کنواں۔
 الرُّطَابُ: بروزن نظام: عورتوں کے لئے ایک
 گال۔
 الرُّطْبُ: کمزور بال وغیرہ۔
 الرُّطَابَاتُ: خرافات۔
 رَطَسَ (ن) رِطْسًا: تھپھارنا۔
 إِزْطَسَتْ: عَلَيْهِ الْجَحَازَةُ: پھروں کا تہ بہ
 ہونا۔
 رَطَعَ (ف) رِطْعًا: الجارية: جماع کرنا۔
 الرُّطْعُ: زکام۔
 رَطَلُ (ن) رِطْلًا: الشَّيْءُ: ہاتھ میں اٹھا کر وزن

جاتا ہے "رَضِيَ اللَّهُ عَنْ فُلَانٍ وَرَضِيَ عَنْهُ"
 یعنی اللہ اس کے اعمال کو قبول کرے اور اس سے
 خوش رہے۔ "رَضِيَتْ مَعِي عَيْشَةٌ": اس کی زندگی
 پسندیدہ ہے۔
 رَاضِي رِضَاءً وَمَرْضَاةً: الرُّجُلُ:
 رضامندی طلب کرنا۔ پسندیدگی میں مقابلہ کرنا۔
 أَرْضِي وَرَضِي: الرُّجُلُ: رضامند کرنا۔
 خوش کرنے کے لائق رہنا۔
 تَرْضِي: الرُّجُلُ: رضامندی طلب کرنا۔
 تَرْضِي: الْقَوْمُ الشَّيْءُ: قوم میں سے ہر ایک
 کا کسی چیز کو پسند کرنا۔
 إِزْطَاءً: لِيُجْدِمِيهَا أَوْ لِيُصْحِيْبِي: پسند کرنا۔
 اسْتَرْضَاءً: رضامندی طلب کرنا۔ و
 اسْتَرْضِيْتُهُ: کسی سے یہ کہنا کہ مجھے رضامند
 کرو۔
 رَجُلٌ وَإِمْرَأَةٌ (رَضِيٌّ): پسندیدہ مرد یا عورت
 (چونکہ یہ مصدر بمعنی مفعول ہے اس لئے مفرد
 تشنیہ جمع نہ کر مونت سب کیلئے ہی ہے)
 عَيْشَةٌ (رَاضِيَةٌ): پسندیدہ و اچھی زندگی (اس میں
 اساد مجازی ہے)
 رَضَوِي: مدینہ طیبہ اور یثرب کے درمیان
 ایک پہاڑ کا نام اور نسبت کے لئے رَضَوِي۔
 الرِّضَاءُ: خوشنودی۔
 الرِّضْوَةُ: خوشنودی۔ کہا جاتا ہے "مَفَاعَلْتُ
 ذَلِكَ إِلَّا عَنِ رَضْوَتِهِ" میں نے اس کو اس کی
 رضامندی سے کیا۔
 الرِّضِيُّ: عاشق۔ دیلا۔ چھریرا۔
 اِرْطَأَ اِرْطَاظًا: بیوقوف ہونا۔ چلانا۔ شور مچانا۔
 فِي مَقْعَدِهِ: جم کے بیٹھنا۔
 اسْتَرْطَأَ: بیوقوف سمجھنا۔
 الرِّطْبِيَّةُ: شور۔ جج۔ بیوقوفی۔ بیوقوف۔ ج
 رِطَاظٌ۔
 الرِّطَابِيَّةُ: بیوقوف (جمع ہی ہے اس کے لئے
 واحد نہیں)
 رِطَاظٌ (ف) رِطَاظُ الْقَوْمِ: قوم کو تہ پسندیدہ امر
 میں پھنسا دینا۔ بِسَلْبِهِ: پاخانہ کرنا۔
 الرِّمَاءَةُ: جماع کرنا۔
 اسْتَرْطَأَ: الرُّجُلُ: بیوقوف ہونا۔

الرَّعَاعُ: کینے و زبیل لوگ۔
الرَّعَاعَةُ: شتر مرغ۔ بے عقل اور بغیر دل کا آدمی۔

رَعَبٌ (ف) رَعْبًا و رَعْبًا: خوف کرنا۔
الرَّجُلُ: خوف دلانا (رَعْبًا) الإِنَاءُ او
المَحْوُضُ: برتن یا حوض کا بھرنا۔ السَّنَامُ
و نَحْوُهُ: کوہان وغیرہ کے لیے بے کلڑے کاٹنا۔
رَعَبَتِ المَحْضَامَةَ: کبوتر وغیرہ کا شترغوں کرنا۔
رَعَبٌ تَرَعِبًا و تَرَعِبًا: الرَّجُلُ: خوف دلانا
الإِنَاءُ: برتن بھرنا۔
السَّنَامُ: کوہان کے لیے بے کلڑے کاٹنا۔
فَلَانًا: کسی کیلئے تیر میں پیکان کو بٹھانا۔
إِرْتَعَبَ: ڈرنا۔

الرَّعْبُ: جادو کا منتر۔ متقی شتر برا وعدہ۔
الرَّعْبُ و الرَّعْبُ: گھبراہٹ۔ تیر میں پیکان
لگانے کی جگہ۔ رَعْبَةٌ:
الرَّعْبُ: خوفزدہ۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ رَعِبٌ
العَيْنُ و مَرَعِبٌ العَيْنُ" بزدل جو ہر چیز کو دیکھ
کر خائف ہو جائے۔ مونا جس سے چربی ٹپکے۔
الرَّعَابُ: جادو کرنے والا۔ متقی شتر بولے والا۔
الرَّعَابَةُ: لوگوں کو بہت ڈرانے والا۔

الرَّعْبُوبُ: بزدل۔ رَجْرَعَابِيْبُ (____)
الرَّعْبُوبَةُ و الرَّعِيْبُ: مِنَ العَجْوَارِي: نازک
اندام لڑکی۔
الرَّعْبُوبُ: مونا جس سے چربی ٹپکے۔
الرَّعْبُوبَةُ: کوہان کا کلڑا۔ رَجْرَعَابِيْبُ:
الرَّعْبُوبَةُ: ڈرانے والی مچھل کو کہ کوئی شخص
تمہاری غفلت کی حالت میں کود کر تمہارے پاس
بیٹھ جائے اور تم ڈر جاؤ۔
الرَّعْبُوبُ: اللُّحْمُ: گوشت کے پارچے پارچے
ہوتا۔

الرَّعْبُوبُ: کپڑے کا کلڑے کلڑے کرنا۔
الرَّجُلُ: بیوقوف ست عورت سے نکاح
کرنا۔
الرَّعْبُوبُ: اللُّحْمُ: گوشت کا پارچے پارچے
ہوتا۔ الرَّعْبُوبُ: کپڑے کا کلڑے کلڑے
ہوتا۔
الرَّعْبُوبُ: مِنَ النِّسَاءِ: بیوقوف عورت

پرانے کپڑے پہننے والی عورت۔ جَمَلٌ رَعْبٌ:
مونا ونٹ۔

الرَّعْبَةُ و الرَّعْبُوبَةُ: پراٹا یا بوسیدہ کپڑا۔ رَجْرَعَابِيْبُ
رَعَابِيْلُ و رَعَابِيْلُ: اور کہا جاتا ہے "رَجْرَعَابِيْبُ
رَعَابِيْلُ" یعنی پراٹا کپڑا۔
الرَّعْبَةُ و الرَّعْبُوبَةُ: مِنَ الرِّيحِ: ایک رخ
پر نہ چلنے والی ہوا۔
الرَّعْبُوبَةُ: پھانا ہوا۔ چھوڑا۔ گوشت کا کلڑا۔
رَعْبَتْ (ف) رَعْبًا و رَعْبَتْ (س) رَعْبًا:
الرَّعْبُوبُ: کانوں کے سفید کناروں والی ہوا۔
رَعْبَتْ و إِرْتَعَبَتْ: المَرَاةُ: عورت کا بالی
پسننا۔ آویزہ پہننا۔

الرَّعْبُ و الرَّعْبُ: رکتیں اون جس کو ہوج
کے اوپر لٹکتے ہیں۔ رَعْبُ الرَّمَانِ: انار کی کٹی۔
الرَّعْبَةُ و الرَّعْبَةُ: بالی۔ مرغ کی کفنی، مرغ کی
داڑھی۔ رَعْبَاتُ و رَجْرَعَابِيْبُ:
الرَّعْبَةُ: بگڑی جس کے کانوں کے کنارے کٹے
ہوئے لٹک رہے ہوں، لمبے دانہ والا انور۔
الرَّعْبُوبَةُ: پتھر جس پر کھڑے ہو کر پانی کھینچیں یا
وہ پتھر جس کو کتوں کھودتے وقت کتوں میں ڈال
دیں تاکہ آئندہ اسی پر بیٹھ کر کتوں کو صاف
کریں۔

رَعْبَةٌ (ف) رَعْبًا و رَعْبًا و رَعْبَةٌ: غنی
کرنا۔ قَلْبٌ مِّنْ دَانِ: رَعْبٌ التَّبَرُّقُ: بجلی کا لگاتار
چمکنا۔ رَعْبُ الرَّجُلِ: بہت مال موٹی والا ہونا۔
رَعْبٌ (س) رَعْبًا المَالُ او العَدُوُّ: بہت ہونا۔
الرَّوَادِي: وادی کا بھر جانا۔ إِرْتَعَبَ الرَّجُلُ: کانچا۔
کہا جاتا ہے حَزْرَجُوا و لَهُمُ إِرْتَعَابٌ: لوگ نکلے
اس حال میں کہ ان کے لئے اضطراب تھا۔ التَّبَرُّقُ
بجلی کا لگاتار چمکنا۔ الوادِي: بھر جانا۔ المَالُ: بہت
ہونا۔

الرَّعْبُوبُ: بہت موٹی۔
رَعْبٌ (ف) رَعْبًا و رَعْبًا: السَّحَابُ:
بالوں کا گڑبڑانا۔ گرجنا۔ کہا جاتا ہے "وَرَعْدٌ لِي
فَلَانٌ و بَرَقٌ" یعنی مجھ کو فلاں نے دھمکی دی۔ و
"رَعْدَتِ المَرَاةُ و بَرَقَتْ" یعنی وہ عورت بناؤ
سکھار کے سامنے آئی۔
أَرَعَدَ الرَّجُلُ: کسی شخص پر گڑبڑا ہٹ ہونا

گڑبڑا ہٹ سنا۔ زَيْدًا: دھمکی دینا
و الخَوْفُ: جسامتے اضطراب کرنا۔ کپکپا
دینا۔ الرِّزَابُ:

أَرَعَدَ: کپکپی ہونا۔
تَرَعَدَ: حرکت کرنا۔ کانچا۔
إِرْتَعَدَ: اضطراب کرنا۔ کانچا۔
الرَّعْدُ: وہ۔ بادل کی گرج۔ کہا جاتا ہے "جاء
بِذَاتِ الرَّعْدِ و الصَّلْبِلِ" یعنی وہ لڑائی لایا۔
الرَّعْدَةُ و الرَّعْدَةُ: کپکپی۔
الرَّعْدُ: بہت بولنے والا۔ بہت گرجنے والا
بالوں۔ ایک قسم کی مچھلی جس کے چھوٹے سے
کپکپی طاری ہو جاتی ہے اور اس کو "سَمَكَةُ
الرَّعْدِ" بھی کہتے ہیں۔

الرَّعْدَةُ: بہت بولنے والا۔
الرَّعْدَةُ: گرجنے والا بالوں۔ صَلْبٌ نَحْتُ
الرَّعْدَةِ: اس شخص کے لئے بطور مثال کے
کہتے ہیں جو بہت بک بک کرے اور ڈبک سا رہے
اور اس سے کچھ خیر حاصل نہ ہو۔ رَجْرَعَابِيْبُ:
ذَاتُ الرَّعْدِ: بہت ہونے والا۔
الرَّعْدَةُ: گیسوں کا پھوڑن۔
رَعْدَدَ: سوال کرنے میں اصرار کرنا۔
تَرَعَدَدَ: کپکپی ہونا۔

الرَّعْدُ و الرَّعْدَةُ: بزدل۔ بہت کانچنے
والا۔ تَبَاتَ رَعْدِيْدٌ: نرم و نازک نباتات۔ رَجْرَعَابِيْبُ:
رَعْدِيْدٌ:

رَعْوَعُ: المَاءُ: پانی کا سطح زمین پر لہریں مارنا
الرَّعْوَسُ: گھوڑے پر سدھانے کے لئے
سوار ہونا۔ وَ اللّٰهُ: آگاہ۔

الرَّعْوَعُ: الصَّيْبُ: بچہ کا بڑھنا جو ان ہوتا۔
المَاءُ او المَرَابُ: پانی یا سراب کا
مٹا مٹا ہونا۔ المَرَابُ: دانت کا بلنا۔

الرَّعْوَعُ و الرَّعْوَعُ: الرَّعْوَعُ و الرَّعْوَعُ: اچھے قدر اور
اچھی جوانی والا۔ رَجْرَعَابِيْبُ و رَعَابِيْبُ:
الرَّعْوَعُ: بزدل۔ لسان نکل۔

رَعْوَعٌ (ف) رَعْوًا: الجَارِيَةُ: جماع کرنا۔
رَعْوًا مَرَاةً: سکرنا۔
الرَّعْوَعُ و الرَّعْوَعُ: المَرَاةُ: بھڑکے
لئے بالوں کے نیچے کے چھوٹے چھوٹے روئیں۔

<p>گھوڑا۔ رَعَقَ (ف) رَعَقًا وَرَعِيقًا. بَطَلْنَ الذَّابِقَةُ: جانور کے پیٹ سے دوڑنے میں آواز نکلتا۔ رَعَلَ (ف) رَعَلًا الشَّيْءُ: کشادہ۔ پھاڑنا۔ فَلَانًا: سخت نيزہ مارنا۔ رَعِلَ (س) رَعَلًا: بیوقوف ہونا۔ التَّبَابُ: لہی اور لٹکتی ہوئی شاخوں والی ہونا۔ صفت (أز رعل) رَعَلُ الكَنْوَمِ: انگور کی کونپلیں پھوٹنا۔ أرَعَلَهُ: سخت نيزہ مارنا۔ إِسْتَرَعَلَ: الغنم: بکریوں کا آگے پیچھے تظار میں چلنا۔ اِسْتَرَعَلَ الرَّجُلُ: جنگ میں آگے آگے چلنا۔ الأرْعَلُ: بیوقوف۔ مؤنث رَعْلَاءُ ج رَعْلٌ لہی اور لٹکتی ہوئی شاخ والی نباتات۔ ضَرْبٌ أَرْعَلٌ: گوشت کو کاٹ کر لگا دینے والی تلوار کی ضرب۔ الرَّعْلُ: پہاڑ کی نقلی ہوئی نوک۔ رَعْلٌ الرَّجُلُ: کپڑے۔ الرَّعْلُ: شد کی زکھی۔ الرَّعَالُ: رینٹ۔ تاک کی رطوبت۔ الرَّعَالَةُ: بیوقوفی۔ الرَّعْلَةُ: شتر مرغ۔ بکری یا اونٹنی کے کان کے پچھلے حصے کو کاٹ کر لٹکایا ہوا ٹکڑا۔ عیال۔ تھوڑے گھوڑوں کا یا گاٹیوں کا گلد۔ ج رَعَالٌ وَرَعَالٌ أَرْعَالٌ وَأَرَاعِيلٌ۔ کہا جاتا ہے "أَقْبَلْتُ الرَّعِيلُ رَعَالًا وَأَرَاعِيلًا" أَرَاعِيلُ الرِّيحِ أَوْ السَّحَابِ: ابتدائی ہوا آئیں یا بادل۔ الرَّعْلَةُ: انگور وغیرہ کو کھیل۔ ج رَعْلُ ریحان و آس وغیرہ کا پانا ہوا تاج۔ أَبْوَرَعْلَةٌ: بھیڑیا۔ الرَّعِيلُ: آگے آگے رہنے والی جماعت (گھوڑوں یا آدمیوں یا پرندوں کی) ج رَعَالٌ۔ الْمِرْعَالُ: شمشیر برائے۔ الْمِرْعَالُ: عمدہ مال۔ المُسْتَرَعِلُ: گلہ سے نکلا ہوا جانور۔ گلہ بان۔ اوشٹ والا۔ رَعِمَ (ن) رَعِمًا الشَّيْءُ: گہمبانی کرنا۔</p>	<p>گلد ہونا۔ پیکان کی جگہ توڑنا۔ رَعِظَةٌ عَن كَذَا: ست کر دینا۔ جلدی کرنا _____ الوتد: اُکھڑنے کے لئے ہلانا۔ أرَعِظَ السَّمِيمَ: پیکان لگانے کی جگہ بتانا۔ _____ فَلَانًا: ست کر دینا۔ الرَّعِظُ: تیر میں پیکان لگانے کی جگہ۔ ج أرْعَظُ۔ کہا جاتا ہے "كُنَسَ عَلَيْهِ أَرْعَظُ التَّبَابِ" یعنی وہ اس پر ست غشبتاک ہوا اس لئے کہ شدت غضب میں آدمی تیر کو زمین میں گھساتا ہے یہاں تک کہ پیکان ٹوٹ جاتا ہے۔ رَعَفَ (ف) ن) رَعَفًا: الفَرَسُ الخَيْلُ: آگے بڑھ جانا۔ رَعَفَ (س) رَعَفًا: الدَّمُ: نکسیر پھوٹنا۔ (_____ وَرَعَفَ (ف) ن) رَعَفًا وَرَعَاقًا، الرَّجُلُ: نکسیر والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "رَعَفَ بِهِ التَّبَابُ" یعنی وہ اچانک داخل ہوا۔ أرَعَفَهُ: جلدی کرنا _____ القَرْيَةَ: ملک کو لہا لب بھرنا _____ القَلَمُ: قلم میں زیادہ روشنائی لگانا۔ إرْتَعَفَ وَاسْتَرَعَفَ: آگے بڑھنا۔ وَاسْتَرَعَفَتِ الحَصَى رَجُلَهُ: نکسیریوں کا پیر کو خون آلود کر دینا۔ الرَّعْفُ: نيزہ مارنے کی پھرتی۔ الرَّعَافُ: نکسیر۔ بہت بارش۔ الرَّعَافُ: بہت نکسیر والا۔ بہت آگے بڑھنے والا۔ الرَّعَافِيُّ: بہت دینے والا۔ (رَعَافٌ بمعنی کثیر بارش سے ماخوذ ہے۔) الرَّعَافُ: نا۔ نٹھنے کا کنارہ۔ پہاڑ کی چوٹی گھوڑوں سے آگے بڑھنے والا گھوڑا۔ ج رَوَاعِفُ الرَّوَاعِفُ: نيزے۔ الرَّعُوفُ وَالرَّعُوفُ وَالرَّعُوفَةُ وَالأرْعُوفَةُ: مِنَ البِشْرِ: کنوئیں کا پتھر جس پر کھڑے ہو کر پانی نکلتی ہیں۔ الرَّعُوفُ: ہلکی بارش۔ المَرَّاعِفُ: تاک اور اس کا ارد گرد۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَّه عَلَى الرَّعِيمِ مِنَ الرِّيحِ" یعنی میں نے اس کو اس کے مزاج کے خلاف کیا۔ المُسْتَرَعِفُ: مِنَ الخَيْلِ: آگے رہنے والا</p>	<p>لَوْبٌ (مُسْتَرَعِفٌ) چھوٹے چھوٹے روس سے بنا ہوا کپڑا۔ مَرَّاعِزُ: غشبتاک۔ رَعَسَ (ف) رَعَسًا: کانپنا۔ ٹھکن وغیرہ سے آہستہ چلنا (رَعَسًا وَرَعَسَانًا) رَاسًا: بڑھاپے کی وجہ سے ہلانا۔ أرْعَسَهُ: کپکپا دینا۔ لرزانا۔ تَرَعَسَ وَارْتَعَسَ: کانپنا۔ نَاقَةٌ (رَاعِسَةٌ) اونٹنی جو نشاط میں ہو۔ الرَّعُوسُ: خوشی یا نیند کی وجہ سے سر ہلانے والا۔ الرَّعِيسُ: چلنے میں لڑکھڑانے والا۔ الرَّعَاسُ: نرم نيزہ جس میں لچک ہو۔ المِرْعَسُ: خمیس آدمی جو کوزے کرکٹ میں سے دانوں کو پختے۔ رَعَشَ (س) رَعَشًا وَارْتَعَشَ: کانپنا۔ صفت (رَعِشٌ وَرَعِيشٌ) أرْعَشَهُ وَرَعَشَهُ: کپکپا دینا۔ لرزانا۔ عاجز کرنا۔ الرَّعِشُ وَالرَّعِيشُ: بزدل۔ جلد باز۔ الرَّعِشَةُ: جلد بازی۔ الرَّعَاشُ: مرض کی وجہ سے کچلی۔ نَاقَةٌ (رَعُوشٌ) بڑھاپے کی وجہ سے سر ہلانے والی اونٹنی۔ الرَّعِشَاءُ: مِنَ النِّعَامِ: تیز رفتار شتر مرغ۔ _____ مِنَ النَّوْقِ: تیز رفتاری کی وجہ سے جھومنے والی اونٹنی۔ المُرْعَشُ وَالمَرْعَشُ: ایک قسم کا سفید کبوتر جو فضائے آسمانی میں چکر لگاتا ہے۔ الرَّعِشَنُ: کانپنے والا۔ بزدل۔ جلدی کرنے والا۔ رَعَصَ (ف) رَعَصًا وَأَرَعَصَ: الشَّيْءُ: حرکت دینا۔ ہلانا۔ کھینچنا _____ عَلَيْهِ جَلْدُهُ: کھال کا پھڑکانا۔ تَرَعَصَ وَارْتَعَصَ: عَلَيْهِ جَلْدُهُ: کھال کا پھڑکانا _____ الجَدِيُّ: بکری کے پچھلے کاغوش میں آکر اُچھلنا۔ رَعِظَ (ف) رَعِظًا: السَّهْمُ: پیکان لگانے کی</p>
--	--	--

الرَّغِيْبَةُ: رَغِيْبٌ كَامُوْنَةٌ - امر مرغوب -
 بست صلیب - حج و غائب -
 الرَّمَاغِبُ: خواہشیں - وہ عورتیں جو معاش
 کے لیے مضرب ہوں -
 الرُّغَابِيُّ: جگر کی زیادتی -
 رَغَثٌ (ف) رَغَا: أَلُوْدًا مَّهً: ماں کا دودھ
 پینا ہے: ہ: لگاتار نیزے مارنا _____ الْقَوْمُ
 فَلَانًا: سوال کر کے سارا مال ختم کر دیا -
 رَغَثٌ: کسی سے بست سوال کیا جانا اور اس کی
 وجہ سے سارا مال ختم ہونا - پستان کی رگوں میں
 درد ہونا -
 أَرْغَثَ: المَرْؤَةُ: والی پلائی ہونا -
 وَلَدَهَا: دودھ پلانا - صفت (رَغُوْتُ وَرَغُوْتُهُ وَ
 مَرْؤُغٌ): أَرْغَثَهُ: پستان کی رگوں میں نیزہ مارنا -
 بار بار نیزہ مارنا -
 إِرْغَثَ: الْوَلَدُ أُمَّه: بچے کا اپنی ماں کا دودھ
 پینا -
 الرُّغَاةُ: پستان کی وہ رگیں جن سے دودھ
 نکلتا ہے -
 المَرْغَثُ: انگلی میں انگوٹھی کی جگہ -
 رَغَدٌ (س) رَغَدًا وَرَغْدٌ (ک) رَغَادَةٌ
 عَيْشُهُ: آسودہ و خوش حال ہونا - عیش کی صفت
 (رَغْدُوْا رَغْدًا وَرَغِيْدًا)
 أَرْغَدَ: القَوْمُ: آسودہ زندگی والی ہونا _____
 مَوَاشِيَهُمْ: جانوروں کے چرنے کے لیے آزاد
 چھوڑنا _____ اللَّهُ عَيْشُهُ: آسودہ - تانا -
 إِرْغَادٌ: رائے میں متردد ہونا _____ اللَّيْنُ:
 دودھ کا کچھ کچھ گاڑھا ہونا -
 اسْتَرْغَدَ: العَيْشُ: آسودہ زندگی پانا - قَوْمٌ
 (رَغْدًا) وَنِسَاءٌ رَغَدٌ: آسودہ زندگی والی قوم -
 اور ریز انڈی کی جمع ہے جیسے خدام کی جمع خدام -
 الرُّغِيْدَاءُ: گیسوں کا بھجورن -
 الرُّغِيْدَةُ: ایک قسم کا کھانا جو جوش ویسے ہوئے
 دودھ میں آٹا ڈال کر تیار کیا جاتا ہے -
 المَرْغَدَةُ: باغ -
 رَغْرَغٌ: آسودگی کی زندگی ہونا - آسودگی میں
 ڈوب جانا - رَغْرَعَتِ اِبْنُهُ: اونٹوں کا ہر روز
 جب جی چاہے گھاس پر آنا _____ الْأَمْرُ: پھیلانا -

رَغَسَةٌ (ف) رَغَسًا وَأَرْغَسَةٌ: اللَّهُ مَالًا
 وولدا بہت دینا -
 اسْتَرْغَسَةٌ: نرم کھانا -
 الرُّغْسُ: نعمت دیرکت - نموج از غاس -
 المَرْغَسُ: مِنَ العَيْشِ: فراخ زندگی -
 المَرْغُوسُ: مبارک -
 المَرْغُوسَةُ: اطراغوس کامونٹ - کثرت سے
 بچے جننے والی عورت -
 رَغَسَ (ف) رَغَسًا عَلَيْهِ: شور مچانا -
 رَغَفٌ (ف) رَغْفًا: العَجِيْنُ: گندھے ہوئے
 آنے کا بیڑہ بنانا _____ التَّبِيْعَةُ: اونٹ کے منہ
 میں کسی چیز کا ڈالنا -
 أَرْغَفٌ: چلنے میں جلدی کرنا _____ إِلَهٌ: تیز
 نظر سے دیکھنا -
 الرُّغِيْفُ: گندھے ہوئے آنے کا بیڑا - چپائی
 روٹی - جِ أَرْغِفَةٌ وَرُغْفٌ وَرُغْفٌ وَرُغْفَانٌ وَ
 تَوَارِيْفٌ
 وَرُجَةٌ (مَرْغِفٌ) ختم چہرہ -
 رَغَلٌ (ف) رَغَلًا: الْوَلَدُ أُمَّه: بچے کا اپنی ماں کا
 دودھ پینا -
 أَرْغَلَ: الرُّجْلُ: غلطی کرنا - گمراہ ہونا _____
 إِلَهٌ: ناکل ہونا _____ الزُّرْغُ: کھیتی کے خوشوں
 میں اچھا واند بیٹھنا _____ الشَّقِيُّ: بے موقع
 رکھنا -
 الجَدِيْ أُمَّه: بکری کے بچے کا اپنی ماں کا
 دودھ پینا _____ الْمَكَانُ: رغل نامی گھاس آگاتا
 _____ المَاءُ: بہت گراٹا -
 الرُّغْلُ: ایک قسم کی کڑوی گھاس - جِ أَرْغَالُ -
 الرُّغُولُ: اپنی ماں کا دودھ پینے والا بکری کا بچہ - کہا
 جاتا ہے "هُوَ زَمٌ رَغُولٌ" وہ ہر چیز کو قیمت سمجھتا
 ہے اور چٹ کر جاتا ہے -
 الْأَرْغَلُ: مِنَ العَيْشِ: فراخ زندگی -
 الرُّغْلَةُ: بکری - بھیڑ کا بچہ -
 رَغَمَةٌ (ف) رَغَمًا: مغلوب و مجبور کرنا - رَغَمٌ
 الشَّقِيُّ: ناپسند کرنا -
 رَغِمٌ (س) وَرَغَمٌ (ن) رَغَمًا وَرَغَمًا: أُنْفُهُ
 إِلَهُ: ذلیل ہونا - فروتنی کرنا - صفت (رِغِمٌ)
 الْأَنْفُ: جِ رَغَمٌ الْأَنْفُ: وَرَغَمَهُ: ناپسند کرنا -

رَغَمَةٌ: ذلیل کرنا اور دشمنی کرنا -
 أُنْفُهُ: خاک آلود کرنا - کہا جاتا ہے "رَغَمَ اللَّهُ
 أُنْفَهُ": یعنی اللہ اس کو ذلیل کرے _____
 فَلَانٌ أُنْفَهُ: فروتنی کرنا -
 أَرْغَمَةٌ: ذلیل کرنا - ناراض کرنا - ناپسندیدہ کام
 پر آسانا _____ هَذَا: خاک آلود کرنا - أَرْغَمَ
 أَهْلَهُ: اپنے اہل کو ناپسندیدگی سے چھوڑنا
 _____ اللُّغْمَةُ: مِنَ الفِه: لقمہ کوند سے مٹی میں
 ڈالنا _____ اللَّهُ أُنْفَهُ: ذلیل کرنا - أَرْغَمَتِ
 الْعَيْنُ أَوِ الطَّبَاءُ: بکری - بھیڑا ہرن کی ناک سے
 پانی بہنا -
 رِغَمَةٌ: باہم غھیناک ہونا - ایک دوسرے کو
 چھوڑنا - وشمی کرنا - غصہ سے علیحدہ ہونا -
 تَوَرَّغَمٌ: عَلَيْهِ: غھیناک ہونا - تَوَرَّغَمْتُ
 الرُّجْلُ: کسی کے مزاج کے خلاف کام کرنا -
 الرُّغْمُ وَالرُّغْمُ وَالرُّغْمُ: ناپسندیدگی -
 مجبوری - زلت - مٹی - کہا جاتا ہے "اتى على
 رَغْمِهِ" وہ باجوہ اس کی ناپسندیدگی کے آیا -
 الرِغْمُ: نا - رِغْمٌ الْأَنْفُ: ذلیل: جِ رَغْمٌ
 الْأَنْفُ:
 الرِّغَامُ: مٹی یا مٹی ملی ہوئی ریت -
 الرُّغَامُ: رینٹ - جِ أَرْغَمَةٌ -
 الرُّغَامَةُ: حاجت - مطلوب - کہا جاتا ہے "لین
 عِنْدَ فَلَانٍ رُغَامَةً" مجھے فلاں کے پاس ضرورت
 ہے -
 الرُّغَمَاءُ: مِنَ الشَّاءِ: ناک کے کنارے پر
 سفیدی والی یا جسم کے رنگ کے مخالف رنگ
 والی بکری -
 المَرْغَمُ وَالمَرْغَمُ: جِ مَرَاغِمٌ وَ(الرُّغَامِيُّ)
 ناک الرُّغَامِيُّ: جگر کی زیادتی - پھپھڑوں کی
 رگیں -
 المَرْغَامُ: بقہ - بھانگے کی جگہ - جانے کی جگہ -
 کہا جاتا ہے "إِذْ لِي عَنْ ذَاوِ الْهَوَانِ مَرَاغِمٌ"
 میرے لیے زلت کے مکان سے بھانگے کی جگہ
 ہے - قلعہ -
 المَرْغَمَةُ: ناپسندیدگی - کہا جاتا ہے "فَعَلْتُ
 ذَلِكَ عَلَيَّ مَرَاغِمَةً" میں نے اس کو باجوہ اس
 کی ناپسندیدگی کی کیا -

المزغام۔ غضب میں ڈالنے والا۔ مؤنث
مِزْغَامَةٌ۔

رَعْنٌ (ف) رَعْنًا۔ فِيهِ رَاجِحٌ لَهَا۔ كَانَ لَهَا۔

أَرْغَنَهُ۔ طبع دانا۔ أَرْغَنَ الْأَمْرُ : آسان کرنا
إِلَيْهِ : كَانَ لَهَا۔ أَرْغَنَ لِقُلَانٍ : اطاعت و
فرمان برداری کرنا۔

الْأَرْغَنُ وَالْأَرْغَنُونَ : (آرغمن) ایک باجہ کا
(م)

رَعَا (ن) رِعَاةً الْجَبْرِ أَوْ التَّعَامُ وَالصَّبِيحُ :
بہلانا۔ جِنَا : الصَّبِيحُ : بہت رونا۔
الرَّعْدُ : زور سے گرجنا۔

رَعَا (ن) رَعَوًا وَرَعَى تَرْغِيَةً وَأَرْغَى
إِرْعَاءَ اللَّيْنِ وَتَحْوَةً : دودھ پر جھاگ آنا۔ کہا
جاتا ہے "أَرْغَى الرَّجُلُ وَأَرْبَدَ" مرد غضب کی

وجہ سے چیخا اور اس نے دھمکی دی۔ "وَأَتَيْتُهُ
فَمَا أَقْبَى وَلَا أَرْغَى" میں اس کے پاس آیا تو
اس نے نہ تو بکری دی نہ اونٹنی۔ ہ ذلیل
کرنا۔ مغلوب کرنا۔ وَرَعَى فَلَانًا : غضبناک کرنا۔

إِرْتَعَى : اللَّيْنُ : دودھ سے جھاگ آنا لینا
الرَّعْوَةُ : جھاگ پینا۔

الرَّعْوَةُ وَالرَّعْوَةُ وَالرَّعْوَةُ : رَجُوعٌ وَرَعَى
وَالرَّعَايَةَ وَالرَّعَايَةَ وَالرَّعَايَةَ وَالرَّعَايَةَ
وَالرَّعَايَةَ : مِنَ اللَّيْنِ : دودھ کا جھاگ۔

الرَّاعِيَةُ : اونٹنی۔ کہتے ہیں "مَالَةٌ لِرَاعِيَةٍ وَلَا
رَاعِيَةٍ" نہ تو اس کے پاس بکری ہے نہ اونٹنی۔
المِزْغَامَةُ : کفگیر۔

المُرْعَى : مِنَ الْكَلَامِ : بہم گفتگو۔
رَفَّ (ن) رَفًّا بِمَثَلِ كَمَا : ہ
خدمت کرنا۔ بہلائی و احسان کرنا۔ ہر قسم کی

خدمت کرنے میں کوشش کرنا۔ التَّامُّ
بِهِ : گھبر لینا۔ یہ : اکرام و تنظیم کرنا۔ کہا جاتا
ہے "ذَهَبَ مَنْ كَانَ رِخْفَهُ وَيَرَفُهُ" وہ شخص چلا
گیا جو اس پر نوازش و مہربانی کرتا تھا۔

الْبَيْتُ : گھر میں الگ بنانا۔ الیٰ كَذَا :
خوش ہونا۔ رَفَّتْ عَيْنُهُ : پھر کرنا۔ التَّبْرِيقُ :
بجلی کا چمکنا۔ شَفَقِيهِ : ہونٹ کا چوسنا۔

اللَّبْنُ : ہر روز دودھ پینا۔ قُوْبَةُ :

دوسرا کپڑا لگا کر نیچے سے کشادہ کرنا۔
الذَّائِبَةُ : بھوسہ کھلانا۔

رَفَّ (ض) رَفًّا وَرَفِيًّا وَإِرْتَفَافًا : التَّبَاتُ :
لہلہانا۔ رَفَّتِ الْعَيْنُ : پھر کرنا۔

رَفَّ التَّبْرِيقُ : بجلی چمکنا۔ رَفَّ لَوْنُهُ : چمک اٹھنا۔
أَرْفَ إِزْفَافًا : الطَّائِرُ : پرندہ کا دونوں بازو
پھیلاتا۔

الرَّفِّ : الِغْنَى : کٹڑی وغیرہ جس کے دونوں
کنارے دیوار میں لگا کر گھر کا سالن رکھ دیں۔
ریت کی باریک نوک۔ مویشی کا گلہ پرندوں کی

ڈال۔ بکریوں کا بازو۔ سلام کپڑا ج زُفُوفٍ وَرَفَافٍ :
الرَّفِّ : اونٹوں کا گلہ۔ ہرون کا پینا۔ کہا جاتا ہے
"أَخَذَتْهُ الْحُمَّى رَفًّا" اس کو روزانہ بخار آیا۔

الرَّفِّ وَالرَّفَّةُ : بھوسہ و بھوسہ کا چورہ۔
الرَّفَّافُ : بھوسہ کا چورہ۔

الرَّفِيْفُ : مہ۔ چھت۔ فراخ سالی۔ فنی
رَفِيْفٌ أَلْخَلَاقُ : اچھے اخلاق والا جوان۔
الرَّفَافُ : اسم مبالہ۔ کہا جاتا ہے "نَعَزَّ رَفَافٌ"
سفید و شفاف دانت۔

رَفًّا (ف) رَفًّا : الرَّوْبُ : کپڑے کو رن کرنا۔
مرمت کرنا۔ ہ : خوف سے تسکین دینا۔ مدد
دینا۔ يَبْنُهُمْ : صلح کرنا۔ السَّفِيْنَةُ :
کشتی کو کنارہ پر لانا۔

رَفًّا تَرْفِيَةً وَتَرْفِيَةً : مبارک باد دینا اور
"بِالرَّفَاءِ وَالرَّبِيْنِ" کہنا۔ (بِالرَّفَاءِ وَالرَّبِيْنِ) :
شادی کرنے والے کیلئے دعا ہے کہ تم دونوں میں

اتفاق و اتحاد رہے اور تمہارے بیٹے پیدا ہوں۔
أَرْفَأَ إِلَيْهِ : قریب ہونا اور بنا دینا۔
السَّيِّئُ إِلَيْهِ : قریب کرنا۔ الرَّجُلُ : کھٹھی
کرنا۔

السَّفِيْنَةُ : کشتی کا کنارہ سے قریب ہونا۔
أَرْفَأَهُ وَرَفًّا : مدارات کرنا۔ مدد کرنا۔
الرَّفَاءُ : اتفاق۔

الرَّفَاءُ : رن کرنا۔
الرَّفَاءُ وَالْمُرْفَأُ : مِنَ الْبَحْرِ : بندر گاہ۔ ج
مَرَأِيٌّ۔

رَفَّتْ (ن) رَفَّتًا : السَّيِّئُ : توڑنا، کوٹنا، چورہ
کرنا۔ وَرَفَّتْ وَتَرَفَّتْ : ٹوٹنا، چورہ ہونا

الرَّفِّ : الرَّيْزُ : ریزہ ریزہ ہونا۔
الرَّفِّ : الرَّيْزُ : رستی کا کٹ جانا۔

الرَّفِّ : الرَّيْزُ : ریزہ۔ ہر چیز کو توڑنے والا۔
الرَّفَاتُ : چورہ۔ ریزہ۔ ہر وہ چیز جو ٹوٹ جائے
اور بوسیدہ ہو جائے۔

رَفَّتْ (ن) رَفَّتًا وَرَفَّتْ (س) رَفَّتًا
وَأَرْفَتٌ : فنی کلامیہ : بخش گوئی کرنا۔
الرَّفِّ : مہ۔ گندی مٹھنگو۔ جماع۔

رَفَّتَهُ : نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔
رَفَّحَ : عَيْشٌ رَفِيْحٌ : ناز و نعمت کی آسودہ
زندگی۔

الرَّفِّ : مہ۔ گندی مٹھنگو۔ جماع۔
رَفَّتَهُ : نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔
رَفَّحَ : عَيْشٌ رَفِيْحٌ : ناز و نعمت کی آسودہ
زندگی۔

الرَّفِّ : مہ۔ گندی مٹھنگو۔ جماع۔
رَفَّتَهُ : نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔
رَفَّحَ : عَيْشٌ رَفِيْحٌ : ناز و نعمت کی آسودہ
زندگی۔

الرَّفِّ : مہ۔ گندی مٹھنگو۔ جماع۔
رَفَّتَهُ : نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔
رَفَّحَ : عَيْشٌ رَفِيْحٌ : ناز و نعمت کی آسودہ
زندگی۔

الرَّفِّ : مہ۔ گندی مٹھنگو۔ جماع۔
رَفَّتَهُ : نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔
رَفَّحَ : عَيْشٌ رَفِيْحٌ : ناز و نعمت کی آسودہ
زندگی۔

الرَّفِّ : مہ۔ گندی مٹھنگو۔ جماع۔
رَفَّتَهُ : نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔
رَفَّحَ : عَيْشٌ رَفِيْحٌ : ناز و نعمت کی آسودہ
زندگی۔

الرَّفِّ : مہ۔ گندی مٹھنگو۔ جماع۔
رَفَّتَهُ : نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔
رَفَّحَ : عَيْشٌ رَفِيْحٌ : ناز و نعمت کی آسودہ
زندگی۔

الرَّفِّ : مہ۔ گندی مٹھنگو۔ جماع۔
رَفَّتَهُ : نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔
رَفَّحَ : عَيْشٌ رَفِيْحٌ : ناز و نعمت کی آسودہ
زندگی۔

الرَّفِّ : مہ۔ گندی مٹھنگو۔ جماع۔
رَفَّتَهُ : نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔
رَفَّحَ : عَيْشٌ رَفِيْحٌ : ناز و نعمت کی آسودہ
زندگی۔

الرَّفِّ : مہ۔ گندی مٹھنگو۔ جماع۔
رَفَّتَهُ : نئی شادی والے کو مبارکباد دینا۔
رَفَّحَ : عَيْشٌ رَفِيْحٌ : ناز و نعمت کی آسودہ
زندگی۔

الرفیض والرفیض جھوڑا ہوا۔ الرفیض۔ من الوادی: سیلاب بننے کی جگہ۔ ج مرفض۔ رَفَعَ (ف) رَفْعًا الشَّيْءَ: اُثْمَانًا _____ فَلَانًا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْمَجْلِسِ: آگے بڑھانا الْكَلِمَةَ: رَفْعُ كِي عِلَامَت لگانا الشَّيْءَ: لِينًا _____ الشَّيْءَ فِي خَزَائِنِهِ: چھپانا الْحِجْلُ فِي السِّيَرِ: چلنے میں جلدی کرنا الْقَوْمَ: ملکوں میں بھٹتے چلے جانا الْحِجْلُ: تیز چلانا _____ الْحَدِيثَ: پہلے قائل تک سند پہنچانا۔ (_____ رَفَعًا وَرَفَاعًا وَرَفَاعَةً الْقَوْمَ الزَّرْعُ: کانٹے کے بعد کھلیان میں لے جانا) رَفَعًا وَرَفَعَانًا زَيْدًا إِلَى الْحَاكِمِ: فیصلہ کرانے کے لیے جانا _____ ه إِلَى السُّلْطَانِ: پیش کرنا۔ قَرِيبَ كَرْنَا: کما جاتا ہے "هَذَا مُؤَيَّرٌ بِرَفْعِ الزَّائِسِ" یہ ایسا امر ہے جو سر کو بلند کر دیتا ہے یعنی باعث مجدد و بزرگی ہے۔ و "فَلَانٌ لَا يَرْفَعُ الْقَصَاعِنَ عَلَيْقِهِ" یعنی وہ بہت سرفر کرتا ہے۔ رَفَعَ (ك) رَفْعَةً وَرَفَاعَةً: عالی مرتبہ ہونا۔ صفت (رَفِيعٌ) وَرَفَعَ رَفَاعَةً: بلند آواز والا ہونا الْفَتْرُوبَ: باریک ہونا۔ صفت (رَفِيعٌ) رَفَعَ لَةَ الشَّيْءِ: دور سے دیکھنا۔ رَفَعَهُ: بلند کرنا۔ رَفَعَ الْقَوْمَ: لڑائی سے دور کرنا۔ رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ: شکایت کر کے فیصلہ کے لئے حاضر کرانا _____ ه: قطع تعلق کرنا بہم: رحم کرنا۔ تَوَفَّعَ: برتری ظاہر کرنا۔ کما جاتا ہے "تَوَفَّعْتُ بَيْنَ هَيْبَتَيْنِ عَن كَثْمًا" میری ہمت نے مجھ کو اس سے برتر بنا دیا ہے _____ الشَّيْءَ أَوْ الرَّجُلَ: بلند کرنا۔ تَوَفَّعًا: ایک دوسرے کو بلند کرنا الْخَصْمَانِ إِلَى الْحَاكِمِ: فیصلہ کے لیے جانا۔ إِرْتَفَعَ: بلند ہونا _____ السَّبْعُ: بھاڑ کرنا ہونا _____ النَّهَارَ: دن کا چڑھنا _____ دَرَاذِ ہونا۔ مِنْ بَيْنِهِمُ الْخِصَامَ: دشمنی زائل ہونا۔	کما جاتا ہے "هُوَ زَفِيفُكَ" وہ تسمار پانی پینے میں ساتھی ہے۔ إِرْتَفَعَ: السَّبْعُ: بھاڑ کرنا ہونا۔ الزَّفِيفَةُ: پانی پینے کی باری۔ رَفَضَ (ان ض) رَفَضًا وَرَفْضًا: الشَّيْءَ: پھینکنا" جھوڑا۔ صفت زَفِيفٌ ج زَفِيفُونَ وَرَفْضُهُ وَرَفْضًا (_____ وَأَرَفَضَ) الْأَيْلَ: چراگہ میں متفرق کرنا۔ رَفَضَ وَ أَرَفَضَ الْوَادِي: کشادہ ہونا۔ رَفَضَتْ (ان) زَفِيفًا: الْأَيْلَ: چرواہے کی نگاہ کے سامنے تھما تھما کرنا۔ تَوَفَّضَ: بکھرا۔ متفرق ہونا۔ نُوثًا _____ الذَّمْعُ: آسو بہانا اور بکھرا۔ إِرْفَضَ: الذَّمْعُ: آسو بہنا و ٹپکانا _____ الْحَنْجُ: زخم سے پیپ بہنا _____ الشَّيْءِ: متفرق ہو کر جانا اور اسی سے ہے "إِرْفَضَ النَّاسَ عَنَّمُ": لوگ متفرق ہو کر چلے گئے _____ الْوَجْعُ: درد کا زائل ہونا۔ إِسْتَرْفَضَ: الوادِي: کشادہ ہونا۔ الرفیض۔ ہ۔ _____ رِفَاضٌ وَ (الرفیض) ج أَرِفَاضٌ: اونٹنیوں یا ہرنیوں کا متفرق گلہ۔ کما جاتا ہے "تَعَامَ رَفِضٌ" تھوڑے متفرق شتر مرغ۔ چیز کا بکھرا ہوا حصہ۔ تھوڑی چیز۔ کما جاتا ہے "فِي الْقَرْيَةِ رَفِضٌ مِّنْ مَّاءٍ" منگ میں تھوڑا سا پانی ہے۔ الزَّفِيفَةُ: جنگ وغیرہ میں اپنے قائد و رہنما کو چھوڑ دینے والی جماعت۔ ج زَوَافِضٌ: اور اسی سے ہے "لَا خَيْرَ فِي الزَّوَافِضِ" الزَّفِيفَةُ: شیعوں کی ایک جماعت اور نسبت کے لیے "زَفِيفِي" الرفیض۔ پریشان راستے۔ الرفیض۔ مین الشَّيْءِ: بکڑے۔ ریزے۔ وَجْلٌ فَقِصَّةٌ زَفِيفَةٌ: قبضہ کرنے والا اور چھوڑ دینے والا مرد۔ الزَّفِيفُ: متفرق گھاس۔ زَفِيفُ النَّاسِ: لوگوں کے گروہ۔ زَفِيفُ الْأَرْضِ: زمین جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ زمین جو جمعی ہونے کے بعد چھوڑی گئی ہو۔ الرفیض۔ چھوڑا ہوا۔ ہمیں۔ نُوثًا ہوا نیزہ۔	میں کبھی ختم نہ ہو۔ الْمُؤَلَّدُ: بازی گر۔ رَفُوفٌ: الظَّائِرُ: پرندہ کا پھڑپھڑانا _____ الشَّيْءَ: آواز کرنا۔ الزَّفُوفُ: ککڑی وغیرہ جس کے دونوں کنارے دیوار میں لگا کر گھر کا سامان اس پر رکھ دیں۔ خیمہ کا دامن۔ زرہ کے کنارے زرہ کا لنگھتا ہوا حصہ۔ درخت وغیرہ کی لکٹی ہوئی شاخیں۔ ہر چیز جو زائد ہونے سے موڑ دی جائے۔ قرش۔ چھوڑا۔ بکڑے۔ باریک ریشی کپڑا۔ کپڑے کی ایک چٹ جس کو پردہ یا خیمہ کے نچلے حصہ میں بیٹے ہیں۔ کما جاتا ہے "ضَرَبْتُ الرِّيحَ وَرَفُوفَ الْفَسْطَاطِ" ہوائے خیمہ کے دامن کو ادھر ادھر کروا۔ زَفُوفُ الذَّرْعِ: زرہ کا وہ حصہ جس کو خود سے باندھ کر پیٹھ پر ڈال لیتے ہیں۔ ج زَفَارِيفُ: الزَّفُوفُ: ایک پرندہ جس کو "خَاطِفٌ ظِلِّهِ" بھی کہتے ہیں۔ زَشْتَرْمُغُ۔ رَفُوفٌ (ض) زَفُوفًا: مارنا۔ الزَّفُوفُ: حرکت کرنے والی رگ۔ رَفِيسَةٌ (ان ض) رَفِيسًا وَرَفِيسًا: سینہ پر مارنا _____ البَعِيرُ: اونٹ کے پاؤں باندھنا الْمُخَمَّ وَنَحْوَهُ: گوشہ کا قیمہ کرنا۔ الرفیض۔ اونٹ کے پاؤں باندھنے کی رسی۔ الزَّفِيسَةُ: سینہ پر لات مارنا۔ قَائِلَةٌ (رَفُوفٌ) دوتلی مارنے والی اونٹنی۔ رَفِيسٌ (ان) رَفِيسًا: کھانے پینے میں فائدہ اٹھانا۔ خوب کھانا پینا _____ الْقَمِيحُ: گیہوں کو پیلے سے اٹھا کر لے جانا _____ الشَّيْءَ: کوشا _____ رَفُوفًا فِيهِ الْأَمْرُ: کشادہ ہونا۔ رَفِيسٌ (س) رَفِيسًا: چوڑے کالوں والا ہونا۔ صفت (أَرَفِيسٌ) مَوْتَرٌ فَرِيسًا: ج زَفِيسٌ۔ رَفِيسٌ: لَحِيئَةٌ: وراثی میں کٹھن کرنا۔ الرفیض۔ گیہوں کو پیلے سے اٹھا کر مارنے والے کے پاس ڈالنے والا۔ الرفیض۔ ہ۔ پیلے۔ کشتی کا چھو۔ الْمِزْفِيسَةُ: پیلے۔ رَفِيسٌ: أَرَفِيسًا الْمَاءَ: باری باری پانی پر آنا۔ ہر ایک، آنے والے کو (رَفِيسٌ) کہتے ہیں۔
---	--	---

الرفاق: اونٹنی کے بازو باندھنے کی رتی۔ ج زرفق۔
الرفیق: ساتھی۔ مہربان۔ ج زرفقاً۔
المیزق والمزق: کھنی۔ ہر وہ چیز جس سے
سارایا جائے۔ ج مزرافق۔

المزرفق: ہر وہ چیز جس سے نفع اٹھایا جائے اور
اس سے ہے "مزرافق الذار" یعنی گھر کے منافع
جیسے کواں یا اورچی خانہ یا خانہ وغیرہ۔ "مزرافق
البلاد" شہر کے منافع جس سے سارے باشندے
مستفید ہوں۔

المزفقة: چھوٹا ٹکڑے جس پر سوتے ہوئے
رخسار رکھتے ہیں۔

المزفوق المرفق: تکیہ لگانے کی جگہ۔

المزرفق: ہجرۃ۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔

زفل (ن) زفلأ وزفلوأ وزفلأنا۔ دامن
تھمٹے ہوئے ناز سے چلنا۔ ہاتھ ہلاتے ہوئے چلنا۔

صفت مذکر (زفل)

صفت مؤنث زفلأ۔

زفل (ن) زفلأ وزفل (س) زفلأ۔ بد نما لباس
پہننا۔ بے ڈھنگے طریقے سے کام کرنا۔ صفت مذکر
(زفل) وزفل (س) صفت مؤنث زفلأ۔

زفل۔ دامن گھسیٹنا۔ ناز سے چلنا۔

ثباتہ: کپڑوں کو لٹکانا۔ کہا جاتا ہے "زفل
رفلہ" اس نے دامن لٹکایا۔

زفلأ۔ تعظیم کرنا۔ سردار بنانا۔ مالک بنانا۔ ذلیل
کرنا۔ الإزار: ازار لٹکانا اور ناز سے چلنا۔

تزفل۔ تکبر کی وجہ سے ناز سے چلنا۔

تزفل۔ عذیبہ: رتھیں اور سردار بننا۔

الرفل۔ دامن۔

الرفل۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ من البینو: کنوئیں کی تہ کا تھوڑا
پانی۔

الرفل۔ لمبے دامن والا۔ لمبی دم والا گھوڑا۔
بست گوشت والا۔ کشادہ کمر۔

عیش زفل: کشادہ زندگی۔

الرفال من الشعر: لمبے بال۔

المزفال: من الرجال والنساء: دامن
گھمٹتے ہوئے ناز سے چلنے والا یا چلنے والی۔

إزفان إزفینان: بھانگنا اور پھر ٹھہرنا۔ إزفان
عصبیة: غصہ کا ٹھہرا پڑنا۔

ہو جاتا ہے۔

الزفغ: ناخن کا میل۔

المزرافغ: کج دان و بخل (جمع ہے اور اس کا
واحد نہیں)۔

المزرفغہ: تک اندام نہانی والی عورت جس
سے کوئی بھلا نہ کر سکے۔

زفقة (ن) زفقا: نفع پہنچانا۔ مدد کرنا۔ کھنی پر مارنا
_____ التاقفة: اونٹنی کے بازو کو باندھنا۔ العفل:
مضبوطی سے کرنا۔

زفق و زفقی (ن و ک) وزفقی (س) زفقا
ومزفقا ومزفقا ومزفقا۔ بہ ولہ وعلیہ: مہربانی
کا برتاؤ کرنا۔

زفق (س) زفقا: الجینو: پہلو سے مڑی ہوئی
کھنی والا ہونا۔ صفت (ازفقی)

زفقی (ک) زفقا: الزحلی: ساتھی ہونا۔

زافقة: رفیق ہونا۔ ساتھی ہونا۔ کہا جاتا ہے
"زافقة فی السفر" وہ سفر میں اس کے ساتھ رہا۔

ازفقة: مہربانی کا برتاؤ کرنا۔ نفع پہنچانا۔
تزفقی: مہربانی کا برتاؤ کرنا۔

علیہ: سارا لینا۔

تزافق: الرجلان: ایک دوسرے کا ساتھی
ہونا۔

ازفقق: کھنی یا تکیہ پر ٹیک لگانا۔ مدد طلب کرنا۔
الإناء: بھرجانا القوفم: سفر میں باہم ساتھی ہونا۔

بہ: نفع اٹھانا۔
استزفقة: مہربانی طلب کرنا۔ نفع رسائی طلب
کرنا۔

تمزفقی: تکیہ لینا۔

الرفق: ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ نرم برتاؤ۔ مہربانی۔ ہر وہ چیز جس سے
مدد ملی جائے۔

الرفق: ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ کہا جاتا ہے "هذا أمر
زفقی البغیة" یہ سسل المحمول معاملہ ہے۔ الزفقی:
تھن میں دودھ کی تالیوں میں خرابی۔ ناقفة (رفقة):
وزفقاء: اونٹنی جس کے تھن کے اندر دودھ کی
تالیوں میں خرابی ہو۔

الرفقة والرفقة والرفقة: ساتھیوں
کی جماعت۔ ج رفقا ورفقا ورفقا ورفقا۔
الرفقة: لطف و مہربانی۔ بہتر سلوک۔

الشقی: بلند ہونا۔

استزفغ: الشقی: اٹھانے کو کہنا۔
الخوان: دسترخوان خالی ہونا اور اٹھانے کا وقت
آنا۔

الزرافغ: قابض زرافغ: چمکنے والی بجلی۔
الرفقة: ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ بلندی و مرتبہ۔

الزرافغ والرفاغ: کھیتی میں دانے کا موٹا ہونا۔
کٹی ہوئی کھیتی کا ٹکلیاں میں لے جانا۔

الزرافعة والزرافعة والرفاعة: من
الصوت: آواز کی بلندی و شدت۔ الرفاعة
والرفاعة: گدی جس کو عورتیں اپنے سر میں
پیدا معلوم ہونے کیلئے باندھتی ہیں۔

الزرفعة: حاکم کے سامنے پیش کیا ہوا معاملہ۔
المزفوع: سفر۔ ایک قسم کی تیز دوڑ۔

من الکلام: بلند گفتگو۔ والمحدث المرفوغ
عند المحدثین: وہ حدیث جس کی سند نبی
کریم ﷺ تک متصل ہو۔

المزفوع: بلند کرنے کا آلہ۔

المزفوع والمزفوع: عند المسیحین:
مسیحوں کے روزہ سے پہلے کچھ مقررہ دن۔

زفغ (ک) زفاعة: العیش: کشادہ و آسودہ
ہونا۔ صفت (الزفغ وزفغ وزفغ)

ازفغ: لہ المعاش: آسودہ و کشادہ بنانا۔
تزفغ: آسودگی میں زندگی بسر کرنا۔

جماع کے لیے عورت کی دونوں رانوں کے
درمیان بیٹھنا۔

الزفغ: ج ازفغ ورفاغ: وادی کی بست بری
جگہ۔ بست خاک والی زمین۔ کہا جاتا ہے "جاء
بمآل تزفغ الثراب" یعنی وہ بست زیادہ مال لایا۔

گوشہ۔ ج ازفاغ وزفوغ: جسم میں میل
جمع ہونے کی جگہ۔ جوار کا بھوسہ۔

ازفاغ الناس: ناہل دیکھنے لوگ۔

(الزفغ والزرافعة والزرافعية) آسودہ زندگی
کیلش زفغ: نرم چوڑے کا گارہ۔ الزفغ: ناخن کا
میل۔

الزفغ: بخل۔ اندام نہانی کا ارد گرد۔ اور اسی
سے ہے "إذا التقى الزفغان وجب الغسل"
یعنی جب دونوں شرمگاہ مل جائیں تو غسل واجب

الرَّقَابِيَّةُ: فراخی زندگی۔
الرَّقَبُ: انڈا۔

الرِّقَانُ: آہستہ آہستہ قطروں والی بارش۔
الرَّقَابِيَّةُ: تازے چلنے والی عورت۔

الرَّقَبُ: لمبی ڈوم والا کھوڑا۔

رَقَّةٌ (ف) رَقْفًا وَرَقْفًا وَرَقْفًا: خوش حال
ہونا۔ صفت (زالفہ و زلفھان)

رَقْفَتِ الْاِبْلِ: حسب مرضی روزانہ پانی پر آنا۔
صفت (زالفیة) ج زوافہ۔

رَقَّةٌ (ك) رَقْفًا وَرَقَابِيَّةٌ وَرَقَابِيَّةٌ
الْعَيْشُ: زندگی کا خوش گوار و آسودہ ہونا۔ صفت
(زالفہ و زلفہ)

رَقَّةٌ وَرَقَّةٌ: الرِّجْلُ: آسودہ و خوشحال بنانا۔
رَقَّةٌ عَنهُ: مہلت دینا۔ بار غم ہلکا کرنا۔ کشادگی کرنا۔

أَرْقَفَهُ وَرَقَّةً الرَّاعِي: الْاِبِلُ: حسب مرضی آنے
دینا۔ أَرْقَفَتِ الْاِبِلُ: اونٹ کا پانی کے قریب
رہنا۔ أَرْقَفَ الْقَوْمَ قَوْمَ كَيْسِ: حسب مرضی

روزانہ پانی پر آنا۔
رَقَّةٌ عَنهُ: چنگی درج دور کیا جانا۔

أَرْقَفَهُ وَرَقْفَةً وَاسْتَرْقَفَهُ: آرام لینا۔
الرَّقْفَةُ: چھوٹے چھوٹے کھجور کے درخت۔

الرَّقْفَةُ: رحمت و مہربانی۔
هُوَ (ر) رَقْفًا: وہ اس پر مہربان ہے۔

الرَّقْفِيَّةُ: فراخی، عیش، آرزوئی۔
الرَّقْفَةُ: خشک گھاس اور اسی سے مثل ہے

”أَخْفَى مِنَ الثَّقَفَةِ عَنِ الرَّقْفَةِ“
رَقَا (ن) رَقْفًا: التَّوْبُ: کپڑے پر رفو کرنا۔

درست کرنا۔ صفت (زالفہ) ج زوافة اور صفت
مفعولی (مَرْقُوقٌ) ہ: ڈر دور کرنا۔ فاقہ دور

کرنا۔
رَقْفِي تَرْقِيَّةٌ: العَرِيْسُ: شادی شدہ کو عاریتاً

اور ”بِالرَّقَابِيَّةِ وَالْبَيْتِيْنِ“ کہنا۔
رَالِي رِقَابًا وَرَقَابِيَّةً: الرِّجْلُ: موافقت کرنا۔

أَرْقَى: الْبَيْتُ: بنا لینا۔
تَرَقَى: الْقَوْمَ عَلَى الْأَمْرِ: باہم موافق ہونا۔

الرِّقَابَةُ: اتفاق و موافقت۔
الرَّقْفِي: ڈھیلے پن کے ساتھ لمبے کانوں والا۔

مَوْسِرٌ رَقَابًا ج رَقْفًا: مویشیوں کے ساتھ لمبے کانوں والا۔

الرَّقْفِيُّ: ہرن کا دودھ یا مطلقاً دودھ۔

رَقِي (ض) رَقَّةً: چلا ہونا۔ لُحْمٌ رَقِيٌّ: رحم کرنا
وَجُحْمٌ: شرم کرنا۔ الرِّجْلُ: بڑے

حال والا اور کم مال والا ہونا۔ کہا جاتا ہے ”رَقْفٌ
عِظَامُهُ“ یعنی پوڑھا ہو گیا۔

رَقِي (ض) رَقْفًا: الْعَبْدُ: غلام بنانا یا غلام رہنا۔
رَقْفَةٌ: چلا کرنا۔ رَقْفُ اللَّفْظِ: نرمی سے پڑھنا

الْكَلَامِ: خوبصورتی سے گفتگو کرنا۔
مَنْشِيَةٌ: آہستہ چلنا۔ مَا يَتَيْنِ الْقَوْمَ:

فساد زانا۔
أَرْقَى: الشَّمْسُ: چلا کرنا۔ الرِّقَابَةُ: عِظَامُهُ:

دل کو نرم کرنا۔ الرِّجْلُ: کم مال والا ہونا۔
الْعَبْدُ: انور کا پتے جھلکے اور زیادہ شیرہ

والا ہونا۔ الْعَبْدُ: غلام کمالک ہونا۔
تَرَقَّى: الشَّمْسُ: چلا ہونا۔ لُحْمٌ رَقِيٌّ:

ترس کہنا۔
اسْتَرْقَى: الشَّمْسُ: چلا ہونا۔ الْعَبْدُ: غلام

کمالک ہونا۔ اللَّيْلُ: رات کا اکثر حصہ گزر
جانا۔ الْمَاءُ: پیاب ہو جانا۔

الرَّقِي: غلامی۔ چنگی چیز۔ چنگی کھال۔ جس پر کھما
جائے۔ سفید کانڈ کا تختہ۔ درخت کے پتے یا

جانوروں کے لیے آسانی سے حاصل ہونے والی
شہنائی۔
الرَّقِي: کھنے کے لیے چنگی کھال۔ سفید کانڈ کا تختہ۔

پتلا۔ مگر چھج کے مشابہ ایک آبی جانور۔ بڑا یا نہ بڑا۔
ج رَقْفًا:

الرَّقِي وَالرَّقِي وَالرَّقِي: نرم و کشادہ زمین۔ الرَّقِي
: مسند ریادادی کا پتلا پانی۔

الرَّقِي: کمزوری۔ باریکی۔ کھانے کا پتلا پن۔
الرَّقْفَةُ: زمین جو پانی سے بھر جائے اور پھر خشک ہو

جائے۔ ج رَقْفًا: الرَّقْفَةُ: ایک شہر کا نام۔ الرَّقْفَانُ:
دو شہر ہیں جن کے نام رَقْفَةُ وَرَقْفَةُ ہیں اور یہ باب

تعلیل سے ہے۔
الرَّقْفَةُ: رحمت۔ مہربانی۔ شرم۔ باریکی۔ رَقَّةٌ

الْعَيْشُ: زندگی کی آسودگی۔ رَقْفَةُ الْحَايِبِ:
ضعف و کمزوری سے کہنا ہے۔

الرَّقَابِي: بیابان۔ ہموار نرم زمین یا وہ زمین جس
پر سے پانی خشک ہو چکا ہو۔

الرَّقَابِي: پتلا۔ چنگی روٹی۔ واحد (الرَّقَابِيَّةُ) نرم
مٹی والی کشادہ زمین یا وہ زمین جس پر سے پانی

خشک ہو چکا ہو۔
الرَّقَابِي: پتلا۔ ج أَرْقَاءُ مَوْسِرٌ وَرَقْبِيَّةٌ: ج

رَقَابِي: کہا جاتا ہے ”هُوَ رَقْبِيٌّ مَعَالِي“ وہ
لطیف معالی والا ہے۔ و ”عَيْشٌ وَرَقْبِيٌّ

الْحَوَائِشِي“ یعنی خوش حالی اور آسودگی والی
زندگی و ”رَجُلٌ رَقْبِيٌّ الْحَالِ“ کم مال والا مرد۔

و ”لَقَطٌ رَقْبِيٌّ“ یعنی آسان و خوشگوار لفظ۔
الرَّقَابِي: غلام۔ (واحد و جمع دونوں کے لئے) کہا

جاتا ہے۔ عَبْدٌ رَقْبِيٌّ وَعَبِيدٌ رَقْبِيٌّ اور کبھی
أَرْقَاءُ جمع بولتے ہیں اور باندی کے لیے رَقْبِيٌّ

اور رَقْبِيَّةٌ دونوں کا استعمال ہے۔ رَقْبِيٌّ الْأَنْفِ:
ناک کا نرم حصہ۔ الرَّقَابِيَّانُ: ناک کے تھنوں

کے کنارے۔
مَرَاتِقُ الْبَطْنِ: پیٹ کا نرم و پتلا حصہ۔

الرَّقَابِي: چوڑی چنگی روٹی۔
الرَّقَابِي: بیلن۔

الرَّقَابِي: چیز کا نرم حصہ۔
رَقَا (ف) رَقْفًا وَرَقْفًا: الْذَمُّ أَوْ الدَّمُّ:

آسویا خون کا خشک ہونا۔ منقطع ہونا۔ رَقَا
بَيْتَهُمْ: صلح کرنا۔ فساد ڈالنا۔ فِينِ

الدَّرَجَةِ: چڑھنا۔ کہا جاتا ہے ”أَرْقَا عَلَى
صَلْعِكَ“ اِرْقَى عَلَى ظَلْعِكَ میں ایک لغت

ہے۔ یعنی اپنے اوپر نرمی کرو اور استطاعت سے
زیادہ بوجھ مت لا دو۔

أَرْقَا الدَّمَّ وَالذَّمَّ: خشک کرنا۔
الرَّقْفُ: خون بند کرنے والی چیز۔ قوم کے

درمیان صلح کرانے والا۔
الرَّقَابِي وَالرَّقَابِيَّةُ: بیڑھی۔ زینہ۔

الرَّقَابِي: نسا۔
رَقْبِيَّةٌ (ن) رَقْفًا وَرَقْفًا وَرَقَابِيَّةٌ وَرَقَابِيَّةٌ

وَرَقْبِيَّةٌ وَرَقْبِيَّةٌ: تمہاری کرنا، انتظار کرنا، ڈرانا
الْتَجَمَ: ستاروں کی دیکھ بھال کرنا

ہ: گلے میں رتی ڈالنا۔
رَقْبِيَّةٌ: تمہاری کرنا۔ رَقَابِيَّةٌ: اللہ فی امرہ:

خوف کرنا۔
أَرْقَبِيَّةٌ: الدَّارُ: بشروط رَقْبِيَّةٌ زندگی بھر کے

لئے دینا (دیکھو لفظ رقبہ) ارقبہ الرقبی: کسی کے لیے رقبہ کرنا (دیکھو لفظ رقبہ)
 تَوَقَّبُوا رُقَبَهُ انظار کرنا۔ اِرْقَبَ الْمَكَانَ
 چڑھنا۔
 تَوَقَّبْنَا اِیْکَ دُورِیِّہِ کِی تگھبانی کرنا۔
 الرقبہ۔ گردن کی موٹائی۔
 الرقبی۔ کسی کو مکان وغیرہ اس شرط پر دینا کہ
 اگر میں تم سے پہلے مرجاؤں تو یہ مکان تمہارے
 لیے ہے اور تم مر گئے تو پھر میں واپس لے لوں گا۔
 الرقبۃ۔ احتیاط۔ بچاؤ۔ تگھبانی۔ خوف۔ ڈر۔
 گھبراہٹ۔ کہا جاتا ہے "وَرِثَ مَا لَا عَنْ رِقْبَةٍ"
 جبکہ مال آہام و اجاد سے حاصل نہ کیا ہو۔ ایسے ہی
 کہا جاتا ہے "وَرِثَ مَجْدًا عَنْ رِقْبَةٍ" جبکہ
 آباؤ اجداد صاحب مہر نہ ہوں۔
 الرقبۃ۔ گردن یا پس گردن۔ رجب رقباب و
 رقباب و رقب و ارقب۔ الرقبۃ: مملوک غلام
 (مجازاً) کہا جاتا ہے "هَمَّ غِلَاطُ الرِقَابِ" وہ
 سخت اور سرکش لوگ ہیں۔
 الرقبۃ۔ چیتے کے شکار کے لیے گڑھا جسے زبیر
 شیر کے لئے۔
 الازقب۔ مؤنث رقباء۔ و (الزقبان
 والزقبانی) مؤنث گردن والا۔ الازقب: شیر۔
 الرقبوب۔ میراث کے لیے اپنے شوہر کی موت
 کا انتظار کرنے والی عورت۔ وہ عورت جس کا بیٹہ
 مر گیا ہو یا وہ جس کا بیٹہ زندہ نہ رہتا ہو۔ الرقبوب
 مِنَ الشُّبُوخِ وَالْاَزَابِلِ: وہ لوگ جن کی کوئی
 کمائی نہ ہو اور نہ وہ کمائی کرنے کی طاقت رکھتے
 ہوں۔ اُمُّ الرقبوب: مصیبت۔
 الرقبیب۔ رجب و رقباء۔ تگھبان۔ محافظ۔ گھڑ پیر
 ماندگان۔ بچاؤ دار بھائی جوئے کے تیروں میں سے
 تیسرا تیر۔ ایک ستارہ کا نام۔ رقبیب الجنیش:
 وہ دیان۔ رجب و رقبیبات: ایک غیبی قسم کا
 زہریلا سانپ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ رِقْبِیْبٌ لِنَفْسِہِ"
 وہ اپنے اعمال کا خود ہی نقاد ہے۔ کسی کو کچھ کہنے کا
 موقع نہیں دیتا۔ نیز "الرقبیب" اللہ تعالیٰ کے
 اسمائے حسنیٰ میں سے ہے۔
 الرقبایۃ۔ مالک کی غیوبت میں مال کی گھرائی
 کرنے والا خادم۔

المزقب والمزقبۃ۔ گھرائی کرنے کی اونچی جگہ
 رجب مزقاب۔
 المزقب۔ دور بین۔
 رقب۔ مآلہ۔ بہتر انتظام کرنا۔
 ترقب۔ لعیالیہ: کمائی کرنا۔
 اِرْقَبَ۔ زیادہ ہونا۔
 الرقبۃ۔ کمائی تجارت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 (رَالِحٌ) اَهْلٌ" وہ اپنے اہل و عیال کیلئے کمائی
 کرنے والا ہے۔
 الرقباجی۔ سوداگر۔
 رَقْدٌ (ن) رَقْدًا وَرَقْدًا وَرَقَادًا۔ سونا۔ صفت
 (از اید) رجب رَقْدٌ وَرَقْدٌ۔ السونق: بازار کا مندر پڑنا
 _____ الحو: گرمی کم ہونا۔ عَنِ الْاَمْرِ: کام سے
 غافل ہونا _____ عَنِ ضَنْفِہِ: مہمان کی خبر گیری
 نہ کرنا _____ الفوب: پرانا ہونا۔
 اِرْقَدَ۔ سلاٹا اِرْقَدَ بِالْمَكَانِ: آقامت کرنا۔
 تَوَقَّدَ۔ سونا ہوا ظاہر کرنا _____ الْقَوْمِ عَلٰی
 فُلَانٍ: قوم کا کسی کے خلاف مدد دینا۔
 اِرْقَدَ اِرْقَادًا۔ جلدی کرنا۔
 اِسْتَرْقَدَ۔ نیند کا غالب ہونا۔
 الرقڈۃ۔ نیند۔ کہا جاتا ہے "اَصَابَتْنا رَقْدَةٌ مِنْ
 الْحَوِّ" یعنی ہمارے اوپر دس دن کے برابر گرمی
 پڑی۔
 الرقڈۃ و الرقڈۃ۔ بہت سونے والا۔
 الرقڈۃ۔ ہمیشہ سونے والا۔ کہا جاتا ہے "اِمْرَاةٌ
 رَقْدٌ الضحیٰ" چاشت تک سونے والی۔ یعنی
 آسودہ حال عورت۔
 الرقڈان۔ بکری کے بیٹے وغیرہ کی اچھل کود۔
 الرقڈۃ۔ بڑا منکا۔ رجب و راقب۔ ایک قسم کی چھوٹی
 مچھلی۔ ایک قسم کا پیانہ۔
 الرقید۔ ایک قسم کی چال۔ ترقید البینض:
 بیچنے والے کے لیے مرغی کے بیچنے والے رکھنا۔
 المزقید۔ خواب گاہ۔ رجب مزرقید۔
 المزقید۔ خواب آور دوا۔ واضح راستہ۔
 رَقْرَقَ۔ المماء: چھڑکنا _____ العین: آنسو
 برانا _____ الخمر: پانی مانا _____ الطیب: لہن
 الفوب: خوشبو لگانا۔
 تَوَقَّرِقَ۔ المماء: آہستہ آہستہ بہنا۔ چمکانا۔ آنا جانا

العین: آنسو مانا _____ الذمغ: آنسو
 کا آنکھ میں چکر کھانا۔ الشمس: آلتاب کا گھومتا
 ہوا معلوم ہوتا۔
 الرقراق۔ وہ جو چمکے۔ آئے جائے۔ من
 الذمغ: آنسو جو آنکھوں ہی میں پھر رہا ہو۔
 مِنَ السحاب: آنے جانے والا بادل۔
 الرقراق۔ سمندر یا وادی کا رقبہ پانی۔ باریک
 کپڑا۔ بہت آبدار کھوار۔
 رَقْرَقَ (ن) اِرْقَرًا۔ ناچنا _____ العزفی: اچھلنا۔
 الرقاز۔ ناچنے والا۔
 رَقَشَ (ن) رَقَشًا۔ نقش کرنا _____
 الکلام: لکھنا۔ سجانا۔ گھڑنا _____
 رَقَشَ۔ الکلام: لکھنا۔ سجانا۔ گھڑنا _____
 المصحفۃ۔ سطریں کرنا _____ الرجل: عتاب
 کرنا _____ الرجل: چھل خوری کرنا۔
 تَوَقَّشَ۔ مزین ہونا۔
 اِرْقَشَ۔ حسن زینت ظاہر کرنا _____
 الجنیش: لڑائی میں گھم جانا۔
 الازقش۔ سفید و سیاہ چھیتوں والا۔ مؤنث
 رَقَشَاء۔
 الرقش و الرقشۃ۔ ایک قسم کا رنگ جس میں
 نیلا لہن اور سیاہی ہو۔
 الرقشۃ۔ مِنَ الحیات: جتنی دار سانپ۔
 ایک قسم کا کپڑا۔ اونٹ کے مستی کے وقت کے
 جھاگ۔
 رَقَصَ (ن) رَقَصًا۔ ناچنا۔ اضطراب کرنا
 التبیذ: جوش مارنا _____ فی الکلام:
 جلدی جلدی بولنا _____ رَقَصًا وَرَقَصًا وَ
 رَقَصَانًا الْجَمَلُ: اونٹ کا دوڑنا۔
 رَقَصَ وَرَقَصَ اِرْقَصَ۔ نچانا۔ کہا جاتا ہے۔ "اِرْقَصَ
 الْقَوْمُ فِی سَبْرِہِمُ" جبکہ وہ اپنی چال میں کبھی
 بلند ہوں اور کبھی پست۔
 اِرْقَصَ۔ السعز: بھاؤ گراں ہونا۔
 تَوَقَّصَ۔ الشی: جلدی جلدی پست و بلند
 ہونا۔
 الرقاص۔ بہت ناچنے والا۔ اور اسی سے ہے
 رِقَاصُ السَاعَةِ (گھڑی کا پنڈولم)
 الرقاصۃ۔ راقص کا مؤنث۔ عربوں کے ایک

رَمَتْهُ (ن) رَمَتْهُ - درست کرنا۔ ہاتھ سے پونچھنا۔ چرانا۔ الشئ بالشئ: ملانا۔ خلوط کرنا۔
رَمَتْ (س) رَمَتْهُ: اَلْبَجِيضُ: رَمَتْ رِخْتِ كَعِ
چوڑے کھانے سے بیمار ہونا۔ اَمْرُهُمْ: گڈمڈ
ہونا۔ خلوط ہونا۔

رَمَتْ عَلَى الْمَاءِ: زانڈ ہونا۔ () و
أَرَمَتْ: الْحَالِبُ فِي الصَّرْعِ: تھن میں کچھ
دودھ چھوڑ دینا۔

أَرَمَتْ وَاسْتَرَمَتْ: فِي مَالِهِ: باقی رکھنا۔
أَرَمَتْ الشئ: نرم کرنا۔

الرْمَتْ: غَسَا كَعِ شَبَابٍ: ایک درخت کا نام۔
ایک قسم کی شور و تلخ گھاس جس کو اونٹ چرتے
ہیں۔ پراسے کپڑوں والا مرد۔ کمزور پیٹھ والا۔

الرْمَتْ: تھن کا بقیہ دودھ۔ دریا کے عبور
کرنے کے لیے لکڑیوں کا تختہ۔ زیادتی۔ فضیلت۔

کما جاتا ہے۔ اَلْفَلَانِ عَلَى فُلَانٍ رَمَتْ: فلاں کو
فلاں پر فضیلت ہے۔ پرانی رستی۔ جِ رَمَتْ: آرمات و
رِمَات: اور کما جاتا ہے۔ "خَبَلٌ أَرَمَاتٌ" پرانی
رستی۔

الرْمَقَةُ: دھونے کے بعد تھن کا بقیہ دودھ۔
الرْمَقَاءُ وَالْمَرْمَقَةُ: رَمَتْ گھاس اگلانے والی
زمین۔

الرْمَقَةُ: مادہ نیکل گائے۔

رَمَقِ (ن) اَرَمَقًا: الطَّائِبُ: برہنہ کا بیٹ کرنا۔
رَمَقِ: الْكَاتِبُ: لکھنے کے بعد خراب کرنا۔

رَمَقِ: فَا: برہنہ جس کو چال میں باندھ دیتے
ہیں تاکہ اس کے ذریعہ سے شکاری پرندوں کا
شکار کریں یا لوگ اس کے پر باندھ دیتے ہیں
تاکہ اس کے ذریعہ سے باز کا شکار کریں۔

الرْمَاجُ: نِيزَةُ: کی گریں اور پورے۔
رَمَقِ (ف) رَمَقًا: نِيزَةُ: مارنا۔ رَمَقَتُهُ
الذَّابَةُ: جانور کالات مارنا۔ رَمَقِ التَّبْوِ: بجلی کا

آہستہ آہستہ چمکانا۔
رَمَقَتُوا: بِأَهْمِ نِيزَةُ: بازی کرنا۔

تَوَامِحُ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو نیرہ مارنا۔
الرْمَحُ: نِيزَةُ: جِ رَمَاحٍ وَأَرْمَاحٍ: کما جاتا ہے

مَكْسَرًا وَبِئْتُهُمْ رَمَحًا: یعنی ان کے درمیان
شروع و ناسد واقع ہو گیا۔ و "رَمِينَا يَوْمَ كَطَلَّ"

الرْمَحُ: یعنی ہم ایسے دن میں پھنس گئے جو لمبا تھا
اور تنگ تھا۔ و "هَمَّ عَلَى نَبِي فُلَانٍ كَرْمَحٍ
وَاجِدٍ" وہ لوگ بنی فلاں کے خلاف مانند جماعت
واحدہ کے ہیں۔ "وَأَخَذَتِ الْإِبِلُ رَمَاحَهُمْ": یعنی
اونٹیاں موٹی ہو گئیں یا دودھ دینے لگیں اور ان
وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو زخ ہونے سے
بچالیا۔ الرْمَحُ: قنروفا۔

الرْمَاحُ: نِيزَةُ وَاللَّاسُ: اس معنی میں فاعل ذی کذا
ہے اور اس کے لیے فعل نہیں)

تَوَزَّرَ الرْمَحُ: سینگوں والا تیل۔ السَّمَكَ الرْمَاحُ:
ایک ستارہ کا نام۔

الرْمَاحُ: نِيزَةُ سَازُ: نِيزَةُ لِيْنَةُ وَاللَّاسُ جِ رَمَاحَةٌ
وَالرْمَاحَةُ مِنَ الْقَيْسِيِّ: زور سے نیرہ پھینکنے والی
کمان۔

الرْمَاحَةُ: نِيزَةُ سَازُ:
ذَابَةٌ (رَمَاحَةٌ وَرَمُوحٌ) بہت کائے والا جانور۔

رَمَاحُ: الْجَنِيِّ: طاعون۔
الرْمَاحِيسُ: دیکھو بہادر مرد۔ شیر۔

أَرْمَقُ: الرَّمْحُ: نرم و نال ہونا۔
أَرْمَقَتِ الذَّابَةُ: چوپائے کے دانت لگانا۔ مونا
ہونا۔

الرْمَقُ: بہت سے درخت جو آپس میں گتے
ہوئے ہوں۔

رَمَدٌ (ض) رَمَدًا: رَمَدًا: سردی سے ہلاک
ہونا۔ (ض) رَمَدًا: الْقَوْمُ: قوم پر پہنچ کر ہلاک
کر دینا۔

رَمَدَتْ (س) رَمَدًا: الْعَيْنُ: آنکھ دکھنا
الرْمَدُ: الرَّمْحُ: آشوب چشم والا ہونا۔ رَمَدَ عَيْنُ
الْقَوْمِ: ہلاک ہونا۔

رَمَدَ الشئ: راکھ میں ڈالنا۔ رَمَدَتِ التَّاقَةُ:
تھن والی ہونا۔

أَرَمَدَ: حَمَاحُ: ہونا۔ الْقَوْمُ: قتل و خشک
سالی میں پڑنا۔ قوم کے مویشیوں کا ہلاک ہونا۔

الْعَيْنُ: جِ لَانِ: آشوب چشم کرنا۔ أَرَمَدَةُ:
راکھ جیسا کر دینا۔ ہلاک کر دینا۔

إَرَمَدَ الشئ: خاستری رنگ کا ہونا۔
الْعَيْنُ: آنکھ دکھنا۔ فُلَانٌ: شتر مرغ
کی طرح دوڑنا۔

الرْمَدُ: آشوب چشم۔ آنکھ کا دکھنا۔ ہر وہ چیز جو
آنکھ کے لیے تکلیف دہ ہو۔

الرْمَدُ: آشوب چشم والا۔ مِنَ الْجِنَاةِ:
حقیربانی۔ مِنَ الْجِنَابِ: میلا کچلا کپڑا۔
مَوْنَتُ رَمَدَةٍ:

الرْمَدُ: آشوب چشم والا۔ خاستری رنگ کا۔
قَوْبُ الرْمَدِ: میلا کچلا کپڑا۔ مَوْنَتُ رَمَدَاءُ:
الرْمَدَاءُ: شتر مرغ۔ جِ رَمَدًا:

الرْمَدُ: راکھ۔ جِ أَرَمَدَةً: اور عرب کا قول "هُوَ
يَنْفَعُ فِي رَمَدٍ" مثال ہے اور اس شخص کے
حق میں بولتے ہیں جو بے فائدہ کام کرے۔

الرْمَدَةُ: ہلاکت۔
الرْمَدَةُ: تھوڑی سی چیز۔
الرْمَدَةُ: خاستری رنگ۔

الرْمَدِيُّ: خاستری رنگ کا۔
الرْمَدِيَاءُ: الرْمَدَاءُ: خاستری راکھ۔
الرْمَدِيُّ: آشوب چشم والا۔
الرْمَدِيُّ: گرم راکھ میں بھوننا ہونا۔

رَمَزَمَ: حالت درست کرنا۔
تَوَمَزَمَ: تنگو کیلئے ہونٹ ہلا کر رہ جانا۔
رَمَزَ (ن) رَمَزًا: الْإِيْبَةُ: اشارہ کرنا۔

هَ بَكَدًا: برا لگینے کرنا۔ الرْمَزَةُ:
مکھ بھرنا۔

رَمَزَ (ن) رَمَزًا: الْعَيْنُ: ہرن کا چھلانگ
مارنا۔ غَمَزَةً: ایک چرواہے سے ناراض
ہو کر بکریوں کو دوسرے کے سپرد کرنا۔

رَمَزَ (ك) رَمَزًا: بہت حرکت کرنا۔ غَمَزَ
ہونا۔ بزرگ و شریف ہونا۔

رَمَزَ وَإِرْمَزَ: تیار ہونا۔ مِنَ
الرْمَزَةِ: مار سے تھلا اُغْمَا: الْقَوْمُ:
اُتْحَنَ کے لیے یا خصومت کے لیے اپنی جگہ ہی پر
کھلانا۔

إِرْمَزًا: الرْمَزَةُ: الرْمَزَةُ: جگہ سے ہٹنا۔ جگہ
سے چنے رہنا (ضد) متبص ہونا۔ متحرک ہونا۔

تَوَامَزَ: الْقَوْمُ: ہر ایک کا دوسرے کی جانب
اشارہ کرنا۔ کما جاتا ہے "وَدَخَلَتْ عَلَيْهِمْ
فَقَصَّامُوا رَمَزًا" میں ان کے پاس گیا تو وہ
آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے۔

الزَّمْزَمُ وَالزَّمْزَمِيُّ وَالزَّمْزَمِيُّ: اشاره - ج زَمْزَمٌ -
 الزَّمْزَمِيُّ: کرم و معطم - اصل - محمد - بت
 حرکت کرنے والا - کہا جاتا ہے "زَجَلٌ زَمْزَمِيٌّ"
 الْفَوَائِدُ: تنگ دل مرد -
 الزَّمَاةُ: دیر - زامیہ - رنڈی - بڑا فکر -
 التَّوَاهِزُ: مِنَ الْإِبِلِ: پوری قوت والا اونٹ
 اِبِلٌ (مَوَاهِيزٌ) بت حرکت کرنے والا
 اونٹ -
 الزَّمْزَمِيُّ: سندر - اصل - نمونہ - ج زَوَاهِيزُ -
 الزَّمْزَمِيُّ: چٹری -
 زَمْسَةٌ (ض ن) زَمْسًا: ڈھانچا - دفن کرنا
 الْعَجَبِيُّ: چھپانا - الْقَبْرِيُّ: قبر پر مٹی ہموار
 کرنا -
 هَذَا بِالْحَجَرِ: کسی پر پتھر پھینکانا - صفت
 مَعْوَلِيٌّ (زَمِيْسٌ وَمَعْوَسٌ)
 أَرَمَسَ الْعَمِيَّتَ: دفن کرنا -
 إِزْتَمَسَ فِي الْمَاءِ: پانی میں ڈوبنا -
 الزَّمَسَ: مٹی پر جو سطح زمین سے بلند ہو -
 قَبْرِيٌّ مِثْلِيٌّ: پت - آواز - ج زَمْزَمٌ وَأَرَمَسَ -
 الزَّوَامِسُ: رات میں اُڑنے والے پرندے -
 ہر جالور جو رات کو نکلے - واحد (زَامِسٌ)
 (الزَّوَامِسَاتُ) نشانات کو مٹا دینے والی
 ہوائیں -
 الزَّوَامِسُ: قبر - ج زَوَامِيسُ -
 الْقَرْمَسُ: چٹری جگہ -
 زَمَسَ (ن ض) زَمْسًا: الشَّيْءُ: انگلیوں سے
 پکڑنا - زَمَسَتِ الْعَنْمُ: بکریوں کا تھوڑا چرنا
 هَذَا بِالْحَجَرِ: کسی کو پتھر مارنا - ه
 پیندہ ہاتھ سے چھوٹا -
 أَرَمَسَ الشَّجَرُ: درخت پر پڑے آنا - چلدار
 ہونا - الزَّمَجُ: کزوری و سستی سے کسی
 چیز کی طرف بت دیکھنا - فِي الدَّمْعِ:
 تھوڑے آنسو ہانا -
 الزَّمَسَ: پلکوں کی سرخی سیلان آب کے
 ساتھ - پلک کے بالوں کا آپس میں چسٹ جانا -
 الزَّمَسَ: نوجوانوں کے ناخن کی سفیدی -
 الزَّمَسَ: مہ - پھولوں کا دست - زَمَسَ الْعَيْنُ:
 پلک -

الْأَرْمَسُ: خوبصورت بناوٹ والا - مَوْسَتْ
 زَمْسَاءُ: ج زَمْسٌ (س وَالْمَوْسَمُ) چند مہ
 آنکھوں والا - الْأَرْمَسُ: مختلف رنگوں والا -
 أَرْضٌ (زَمْسَاءُ) بت گھاس والی زمین - تنگ
 بے گھاس کی زمین (ضد)
 الْجَمْرَمَاشُ: دیکھتے وقت آنکھوں کو بت پھرانے
 والا - ج مَرَامِيشُ -
 زَمَصَ (ن) زَمَصًا: اللَّهُ مُصِيبَةُ: مصیبت کو
 دفع کرنا - دور کرنا - نَبِيْنَهُمْ: صلح کرنا
 الشَّيْءُ: شُؤْنَا: اِلَيْهِ: کسی طرف
 پت نگاہ سے دیکھنا - الدَّجَاجَةُ: بیٹ کرنا -
 صَفَتُ (زَمْوَصٌ) السَّبَاعُ: بچہ جننا - کہا
 جاتا ہے "فَتَبَّحَ اللَّهُ أَمَارَ مَصَّتْ بِهِ" بڑا کرے اللہ
 اس ماں کے لیے جس نے اس کو جننا ہے -
 زَمَصَتِ (س) زَمَصًا: عَيْتُهُ: بچہ رہنا - صفت
 مذکر (أَرْمَصٌ) صفت مَوْسَتْ (زَمَصَاءُ) ج
 زَمْصٌ - زَمْصُ الزَّجَلُ: بچہ بہتی ہوئی آنکھوں
 والا ہونا -
 الزَّمَصُ: مہ - آگہ کا کچیز -
 زَمْصٌ (س) زَمَصًا: النَّهَارُ: دن کا سخت گرم
 ہونا - الشَّمْسُ: ریت و پیرہ پر سخت
 دھوپ پڑنا - الزَّمَجُ: گرم زمین سے پاؤں
 جلنا -
 الطَّائِرُ: پیاس کی تیزی سے پرندہ کے
 جوف کا گرم ہونا - عَيْتُهُ: گرم ہو کر جل
 اُحْمًا: لِأَمْرِ: غم سے جل اُحْمًا -
 زَمْصٌ (ن ض) زَمَصًا: التَّصَلُّ: باریک
 ہونے کیلئے دو ہموار پتھروں کے درمیان رکھ کر
 کوشا (س) وَزَمْصٌ وَأَرْمَصٌ (عَنْمٌ) گرم
 زمین میں چرانا - وَزَمْصُ الصُّومِ: روزہ کی نیت
 کرنا - زَمْصُ الزَّجَلُ: کچھ انتظار کر کے چلا جانا -
 وَأَرْمَصُ الشَّيْءِ: جلانا - أَرْمَصُ الزَّجَلُ:
 تکلیف پہنچانا - دُكُ: دیکھنا - أَرْمَصُ الْحَوْءِ الْقَوْمُ:
 گرمی تیز ہونے سے تکلیف پہنچانا - الْأَمْرُ
 فَلَانًا: غم سے جلانا -
 تَوَمَّصَ: الصَّيْدُ: سخت گرم جگہ میں شکار کرنا -
 تَوَمَّصَتْ نَفْسُهُ: جی مٹلانا -
 إِزْتَمَّصَ: مِنَ الْحَزَنِ: غم سے جل اُحْمًا

فَلَانًا: کسی کے لیے غمگین ہونا
 كَيْدُهُ: خراب ہونا - الْفَرَسُ بِهِ: کودنا -
 الزَّمَصُ: مہ - گرمی کی جلن - خریف سے پہلے
 کی بارش جو گرم زمین پر ہو -
 الزَّمَصِيُّ: مِنَ السَّحَابِ وَالْمَطَرِ: گرمی
 کے آخر اور خریف کی ابتداء کی بارش یا بادل -
 زَمَصَانٌ: قمری مبینوں کا نواں مینہ - ج
 زَمَصَانَاتٌ وَزَمَصِيْنٌ وَأَرْمِصَاءٌ وَأَرْمِصَةٌ -
 الزَّمَصَاءُ: گرمی کی تیزی - دھوپ کی تیزی کی
 وجہ سے گرم زمین -
 الزَّمَصَاءُ: ہرجی کی تیزی -
 الزَّمِيزُ وَالزَّمِيزَةُ: مِنَ الْبِضَالِ: تیز
 بھالا -
 زَمَطَةٌ (ض) زَمَطًا: عیب لگانا - طعن و تشنیع
 کرنا -
 زَمَعٌ (ف) زَمَعَانًا: أَنْفُهُ: غم سے یا بڑھاپے کی
 وجہ سے کانچا - صفت (زَمِعٌ) - عَيْتُهُ
 بِالذَّمْعِ: آنسو ہانا - پیندہ ہاتھ سے
 اشارہ کرنا - زَامَةُ: سر ہلانا - زَمَعَتِ
 الْمَرْأَةُ بِالصَّبِيِّ: عورت کا بچہ جننا (س)
 زَمَعًا وَزَمَعَانًا: الزَّمَجُ: تیز چلنا -
 زَمَجٌ وَأَرَجٌ: السَّاقِي: شراب پلانے والے کی
 پیٹھ یا پیٹ میں درد ہونا -
 زَمَعَتِ الْمَرْأَةُ بِالصَّبِيِّ: عورت کا بچہ جننا -
 تَوَمَّعَ: غم سے کانچا -
 الزَّمَاعُ: فا - سر کو جھکا رکھانے والا -
 الزَّمَعَةُ: کلوا - کہا جاتا ہے "زَمَعَةُ مِنَ نَبْتِ"
 گھاس کا ایک قطعہ -
 الزَّمَاعَةُ: دیر - بچہ کا تالو جو حرکت کرتا رہتا
 ہے -
 الزَّمَعُ: پھر کی - سفید چمکتی ہوئی نکلیاں جو
 توڑنے سے ٹوٹ جائیں - ج زَمَاعٌ - کہا جاتا ہے
 "فَوَرَكْتُهُ يَفْتُ الزَّمَعُ" میں نے اس کو نکلیاں
 توڑتے ہوئے چھوڑا - یعنی وہ معوم و شکستہ دل
 تھا -
 الزَّمَوَقَةُ: بیابان - کہا جاتا ہے "أَفَى
 بِمَوَقَعَاتِ الْأَخْبَارِ" وہ جھوٹی خبریں لایا -
 الزَّمَاعُ: سالی کی پیٹھ کا ورد جس کی وجہ سے وہ

زَمَانَةٌ مَرَامَةٌ وَرَمَاءٌ وَرَمَاءَةٌ: ایک دوسرے کو رخ کرنا۔ ایک دوسرے پر تیر پھینکنا۔ رَمَى عَنِ قَوْضِهِ: تیر اندازی کرنا۔
تَرَامَى تَرَامِيًا: القَوْضُ: بعض کا بعض پر تیز اندازی کرنا اور پتھراؤ کرنا۔ الأَمْرُ: تاخیر ہونا۔

السَّحَابُ: بعض کا بعض سے مل جانا۔ تَرَامَتْ بِهِ الْبِلَادُ: وطن سے دور کرنا۔ تَرَامَى الشَّمْسُ: لگاتار ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا زَالَ الشَّمْسُ يَتَرَامَى بَيْنَهُمْ" شران کے درمیان لگاتار ہوتا رہا۔ "وَتَرَامَى أَمْرُهُ إِلَى الظُّفْرِ أَوْ الخُدْلَانِ" اس کا معاملہ کامیابی یا ناکامی کی طرف پہنچ گیا۔
إِزْتَمَى إِزْتِمَاءً: پھینکا جانا۔ کہا جاتا ہے "زَمَاهُ فَارْتَمَى" اس نے اسے پھینکا وہ پھینکا گیا۔
الصَّبْدُ: شکار پر تیر مارنا۔ إِزْتَمَتْ بِهِ الْبِلَادُ: وطن سے دور کر دینا۔ إِزْتَمِيًا: ایک کا دوسرے پر تیر پھینکنا۔

تَرَمَى: تیر پھینکنا اور شکار کرنا۔
الرَّمَى: پتھر پھینکنے کی آواز۔
الرَّمَاءُ: زیادتی۔ ریوا۔ سود۔
الرَّمِيَّةُ: زیادتی "فِي هَذَا رَمِيَّةٌ عَمَّا قِيلَ لِي" جو کچھ مجھ سے کہا گیا ہے اس سے اس میں زیادتی ہے۔ و"هُوَ صَاحِبُ رَمِيَّةٍ" وہ باتوں میں زیادتی کرنے والا ہے۔ رَمَى كَأَسْمِ مَرَّةٍ أَرَعِبَ كَأَقُولُ "رَمِيَّةٌ مِنْ غَيْرِ رَامٍ" مثال ہے اس شخص کے حق میں بولتے ہیں جو غلط کار ہو اور اتفاقاً کوئی صحیح کام کرے۔

الرَّمِي: فاج زَمَاءَةٌ وَرَامُونُ: ایک ستارہ کا نام۔

الرَّمِيَّةُ: سخت بارش برسائے والا بادل۔ رَجَ أَرْمَاءَهُ وَأَرْمِيَّةٌ وَرَمَانِيَا: الرَّمِيَّةُ: شکار جس پر تیر پھینکا جائے۔ رَجَ رَمَانِيَا: الجِمْزِيُّ: تیر پھینکنے کا آلہ۔ رَجَ رَمَانِيَا: الجِمْزِمَاءَةُ: چھوٹا زکروز تیر کھر۔

الرَّمِيَّةُ: مصدر رمى۔ تیر پھینکنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الكَلَامُ بَرِيءٌ مِنَ الرَّمِيَّةِ" یہ کلام دور رس ہے۔ "وَمَا بَعْدَ رَمِي هَيْعَتِهِ" اس کی ہمت کا میدان کتنا وسیع ہے "وَلَهُ هَيْعَةٌ قَبِيصَةٌ"

الرَّمِيَّةُ: اس کی ہمت دور تک پہنچنے والی ہے۔
رَمَى (ض) رَمِيًا وَأَرَمَ: رونے میں آواز بلند کرنا۔ فریاد کرنا۔ رَمَى وَأَرَمَ إِلَيْهِ: کان لگانا۔ رَمَيْتُ وَأَرَمْتُ القَوْضُ: آواز کرنا (رَمَى وَأَرَمَ) وَاسْتَوْتَنَّا لِكَيْلَا: کھیل کود کرنا۔
رَمَيْتُ القَوْضُ: آواز لگانا (رَمَى) تَرَمِينًا وَتَرَمِينَةً: چننا۔

الرَّمِيَّةُ: آواز مطلقاً مکان وغیرہ کی آواز کے لئے خاص ہے۔
الرَّمِيَّةُ: آواز مطلقاً غمگین آواز۔
الرَّمِيَّةُ: تھوڑا پانی۔ ایک جانور جو گرمی کے زمانہ میں راتا ہے۔
قَوْضُ (مُرِيَّةٌ وَمِرْمَانُ): ہمت آواز کرنے والی مکان۔

الرَّمِي: تمام مخلوق۔ ماہِ جَمَادَى الْآخِرَى كَأَنَّمَا اس معنی میں اس پر الف لام نہیں آتا۔
رَمَى (ف) رَمَى: آواز کرنا۔ إِلَيْهِ: دیکھنا۔
فِي مِشْنِيَّتِهِ: گرفتار چلنا۔

الأَرْمَتُ: خرگوش۔ (یہ بزدلی کے لیے ضرب المثل ہے) ایک قسم کا زیور۔ رَجَ أَرْمَانِ (رَمَى) وَالرَّمِيَّةُ: چھوٹی دم کا ایک قسم کا جنگلی چوہا۔
الأَرْمِيَّةُ: أَرْمِيَّةٌ كَأَوَّادِ نَاكٍ كَأَبْنَسٍ "جَدَعَ فَلَانَ أَرْمِيَّةً فَلَانَ" فلاں نے فلاں کی ناک کاٹ لی یعنی اہانت کی۔ رَجَ أَرْمَانِ: نَسِيحٌ (مُؤَرَّمٌ وَرَمِيَّةٌ) خرگوش کے بال ملا کر بنا ہوا۔

أَرَضُ (مُرْمِيَّةٌ وَرَمِيَّةٌ وَرَمِيَّةٌ) ہمت خرگوش والی زمین۔
الرَّمِيَّةُ: سیاہ پگھلا کر کھجور۔ اِخْرُوتُ: رَمِيَّةٌ تَرَمِيحًا: کزور کرنا۔ الرَّمِيَّةُ الغَضَنُ: جھکانا۔ کہا جاتا ہے "مَرْمِيَّةٌ حَقِيْقَةٌ رَمِيحَتُهُ" میں نے اس کو مارا یہاں تک کہ اس پر بیوشی طاری ہو گئی۔

رَمِيحٌ: غشی طاری ہونا۔ فرار یا خوف یا غم کی وجہ سے سست و کزور ہو کر جھک پڑنا۔ صفت (مُرْمِيحٌ)
تَرَمِيحٌ وَرَمِيحٌ: نشہ وغیرہ کی وجہ سے جھکانا۔
عَلَيْهِ: غمزداری ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے

تَرَمِيحٌ بِالكَلَامِ عَلَيَّ جَهْلًا: اس نے جملات کی وجہ سے میرے اوپر غم ظاہر کیا۔
الرَّمِيحُ: چکر۔ دورانی سفر۔
الرَّمِيحَةُ: جہاز کا گلا حصہ۔
رَمِيحٌ (ن) رَمِيحًا: سست ہونا۔
رَمِيحَةٌ: خوار و ذلیل ہونا۔
تَرَمِيحٌ: خوار و ذلیل ہونا۔ یہ: کسی چیز سے لگ جانا۔
الرَّمِيحُ: ایک قسم کی خوشبودار جنگلی گھاس جو آس کے مشابہ ہوتی ہے۔ کھجور کی پتیوں سے بنی ہوئی چھوٹی گول۔
الرَّمِيحُ: حوالہ۔
رَمِيحٌ (ف) رَمِيحًا: بولا دلا وغیرہ۔ لَوْنُهُ: رنگ کا متغیر ہونا۔ الذَّبَابَةُ: جانور کا سر بلا کر کھسی اڑانا۔ الرَّمِيحُ: کھیلنا۔
رَمِيحٌ: رَمِيحًا: حرکت دینا۔
الرَّمِيحَةُ: کھیل کود کی آواز۔ وسعت۔ باغ۔
ارزانی و فراخ سالی۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ فِي الرَّمِيحَةِ لِكُلِّ قَوْمٍ مَفْتَنَةٌ" ارزانی اور فراخی سال میں ہر قوم کے لیے آسودگی ہے۔
أَرْمِيحُ: الرَّمِيحُ: تیز چلنا۔ البَحِيْرُ: اونٹ کا سر ہلاتے ہوئے چلنا۔ التَّنَاقُطُ: بَأْدَانِيَّتُهَا: اونٹنی کا تھکن کی وجہ سے کان ذھیلا کرنا۔
الرَّمِيحُ: مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: ہر ایک چیز کا کنارہ۔
الرَّمِيحَةُ: ناک کا کنارہ۔ کان کی نرم پٹی کا کنارہ۔ چوڑا کاوہ حصہ جو بیٹھے میں زمین سے لگے۔
مِنْ الكَيْمِ: آستین کا کنارہ۔ رَجَ رَمِيحًا: اور کہا جاتا ہے "عَلَوُ رَمِيحِ الْاِكْرَامِ" وہ ٹیلوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے۔
رَمِيحٌ (ن) رَمِيحًا وَرَمِيحًا وَرَمِيحًا (س) رَمِيحًا: المَاءُ: پانی کا گدلا ہونا۔ صفت (رَمِيحٌ وَرَمِيحٌ) وَرَمِيحٌ: پانی کا گدلا کرنا۔ پانی صاف کرنا۔
القَوْمُ بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا۔ ٹھہرنا۔
الطَّائِرُ: پرندہ کا بغیر اڑنے کے پر پھرنے والا۔
الرَّمِيحُ فِي عَيْنِي: آنکھوں میں تیر پھرنے والا۔

جَنَاحُ الطَّائِرِ : بازو ٹوٹنے سے پرندہ کا
 کرنا عَيْنَاهُ : بھوک وغیرہ سے نگاہ کا
 پست ہونا جَسْمُهُ اور زَانِيَةٌ : کمزور ہونا
 السَّفِينَةُ : کشتی کا اپنی جگہ پر گھومنا
 الزَّجَلُ : حیران ہونا۔
 الصَّبِيَّةُ مَيَّةٌ : موت قریب ہونا اور کہا جاتا
 ہے ”رَبِّقٌ وَلَا تَعْجَلْ“ یعنی ٹھہرو انتظار کرو
 جلدی مت کرو النَّظَرُ إِلَيْهِ : دیر تک
 دیکھنا۔
 أَرْقَى : الماءُ : پانی گدلا کرنا اللِّوَاءُ :
 حملہ کرنے کے لیے جھنڈا ہلانا اللِّوَاءُ :
 جھنڈے کا پلٹا۔
 تَوَلَّقَى : الماءُ : پانی کا گدلا ہونا۔
 الرِّقْ : مہ۔ جھوٹ۔
 الزَّنْفَاءُ : مِنَ الطَّيْرِ : انڈے سینے والا پرندہ۔
 عوام اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ أَرْضٌ زَنْفَاءٌ : بجز
 زمین۔ جَزَنْفَاوَاتٍ۔
 الزَّنْفَاءُ : بچھڑا ہوا پانی۔ حوض کا پتیرہ گدلا پانی۔
 جَزَنْفَانِي (یہ رنائن کا مطلب ہے)
 الزُّوْفِقُ : چمک۔ دک۔ خوبصورتی۔
 التَّرْنُوقُ وَالتَّرْنُوقُ وَالتَّرْنُوقَاءُ : شروں کا
 کچھڑ سیلاب کے بننے کی جگہ جبکہ پانی خشک ہو چکا
 ہو۔
 زَنْمٌ (س) زَنْمًا وَزَنْمٌ وَتَرْنَمٌ : خوش آوازی
 سے گانا۔
 الزَّنْمُ وَالتَّرْنَمَةُ : ایک قسم کی نباتات۔
 الزَّنْمُ : گانے والی عورتیں۔ خوش الحانی سے
 گانے والیاں۔ ہو شیار لوتھیاں۔ اور کہا جاتا ہے
 ”مُؤَدِّ زَنْمٌ“ بچنے والا بربط۔
 زَنْانٌ (زَنْانٌ) زَنْانًا وَزَنْانًا : تھلکی یا تاندھ کر
 دیکھنا الزَّجَلُ : مشغولی قلب کے ساتھ
 طرب اور کھیل کود میں ہونا (وَتَوَالِي)
 عَنَتُهُ : غفلت برتنا۔
 زَنْتِي تَزِينَةٌ : گانا اللہ : مشتاق ہونا۔
 (وَأَزْنِي) الْحَسَنُ فَلَانًا : تعجب میں ڈالنا
 اور دیکھنے پر برا بھلا کرنا۔ أَرْنَاهُ إِلَى الطَّاعَةِ :
 کسی کو طاعت پر متوجہ کرنا اور اس کا طاعت پر
 مداومت کرنا۔

وَأَنَاهُ : سلوک کرنا۔ مقابلہ کرنا جیسے ”لَعْنَةُ شَرْفٍ“
 يَرَانِي الْكُفْرَ أَكْبَرُ : یعنی اسے ایسی شرافت حاصل
 ہے جو لوگوں کی نظر کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں
 ستاروں سے مقابلہ کرتی ہے۔
 تَرْنَمِي : محبوب کی طرف لگانا دیکھنا۔
 الزَّنَاءُ : مہ۔ وہ چیز جس کی طرف خوبصورت
 ہونے کی وجہ سے دیر تک دیکھیں۔
 الزَّنَاءُ : خوبصورتی۔
 الزَّنَاءُ : اچھی آواز۔ طرب۔
 الزَّنَاءُ وَالتَّرْنَمُ : دل پسند و خوبصورت چیز کی
 طرف دیر تک دیکھنے والا۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ زَنْوٌ
 الْأَمَانِيُّ“ وہ مہ سی آرزوؤں کی توقع کرتا ہے۔
 زَهَبٌ (س) زَهَبَةٌ وَزَهْبَانٌ وَزَهْبَانٌ وَزَهْبَانٌ
 وَزَهْبَانًا وَزَهْبَانًا : خوف کرنا۔ کہا جاتا ہے ”لَمْ
 أَرْهَبْ بَلًا“
 زَهَبٌ : الْجَمَلُ : اٹھنے لگانا پھر کمزوری کی وجہ
 سے بیٹھ جانا۔ زَهَبَتِ النَّاقَةُ : سڑکی وجہ سے ٹھکنا۔
 صفت مذکر مؤنث (زَهَبٌ) جَزْهَابٌ۔
 أَرْهَبٌ : ٹھکے ہوئے اونٹ پر سوار ہونا۔ آستین
 لمبی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”أَرْهَبَ عَنْهُ النَّاسُ بِأَسْهُ
 وَنَجْدَتُهُ“ یعنی اس کے دیدہ اور دلیری نے
 لوگوں کو ڈرنے پر برا بھلا کیا۔
 تَرَهَّبٌ : راہب بنا ہوا۔ دھمکی دینا۔
 اِسْتَرْهَبَهُ : خوف دلانا۔
 الزَّهَبُ : نیزہ کا باریک پھل۔ مِنَ الْإِبِلِ : سفر کی
 وجہ سے تھکا ہوا اونٹ یا اونٹنی۔ جَزْهَابٌ۔
 الزَّهَبُ : آستین۔
 الزَّهْبَةُ وَالتَّرْهَبِيُّ وَالتَّرْهَبِيُّ وَالتَّرْهَبَاءُ : ڈر۔
 خوف۔
 الزَّهْبَانِيَّةُ وَالتَّرْهَبَانِيَّةُ : دنیا اور لدا نڈ دنیا سے
 بے تعلقی۔
 الزَّهَابُ : قا۔ شیر۔ گرجاؤں کا گوشہ نشین۔ ج
 زَهْبَانٌ : مؤنث زَابِيَةٌ جَزَابَاتٌ وَزَوَاهِبٌ۔
 الزَّاهِبَةُ : بڑا اونٹنی حالت۔
 الزَّهْبَانُ : بہت زیادہ خوف کرنے والا۔ ج
 زَهَابِيْنٌ وَزَابِيَةٌ وَزَهْبَانِيُونٌ : مؤنث زَهْبَانَةٌ ج
 زَهْبَانَاتٌ۔
 الزَّهْبَانُ : راہب۔ جَزْهَابِيْنٌ مؤنث زَهْبَانَةٌ

جَزْهَبَانَاتٌ۔

الزَّهْبَانُ وَالتَّرْهَبَانُ : بہت ڈر۔ شدید
 خوف۔
 الزَّهْبَانَةُ : راہبوں کا طریقہ اختیار کرنا۔
 المَزَاهِبُ : خوفگیاں۔
 الزَّهْبُ وَالمَزْهَبُ : خوفگاہ۔ شیر۔
 زَهْبِيلٌ : غیر مفہوم کلام کرنا۔
 تَوَهَّبِلٌ : تیز چال چلنا۔
 الزَّهْبِيلُ : مہم کلام۔ غیر مفہوم کلام۔
 الزَّهْبِيلَةُ : تیز چال۔
 أَرْهَجٌ : غبار۔ أَرْهَانٌ : بَيْنَ الْقَوْمِ : بعض
 کو بعض پر بھڑکانا السَّمَاءُ : آسمان کا
 برسنے لگانا۔
 الزَّهْجُ وَالتَّرْهَجُ : اڑایا ہوا غبار۔ وَالتَّرْهَجُ :
 قدر و شمار۔ شور و شغب۔ بغیر پانی کے بادل۔ واحد
 (زَهْبَجَةٌ)
 الزَّهْبُوحَةُ : ایک قسم کی چال۔
 زَهْدَةٌ (ف) : زَهْدًا : باریک بینی۔
 زَهْدٌ : سخت نادانی و حماقت کرنا۔
 زَهَادَةٌ : العَيْشُ : زندگی کی آسودگی۔
 الزَّهْوَدِيَّةُ : مہربانی و نرمی۔
 الزَّهْدُ : نرم و نازک۔ ارزائاں۔
 الزَّهْدِيَّةُ : نرم و نازک عورت۔ الزَّهْدِيَّةُ :
 ایک قسم کا کھانا جو کونے ہوئے گیہوں اور دودھ
 سے تیار ہوتا ہے۔
 أَمْرٌ (مَزْهُودٌ) : غیر محکم کلام۔ اور کہا جاتا ہے
 ”لَمْ يَكُنْهُمْ مَزْهُودِيْنٌ“ یعنی میں نے ان کو اس
 حال میں چھوڑا کہ وہ کسی امر کا عزم نہیں رکھتے
 تھے۔
 الزَّهْدَلُ : بیوقوف۔ کمزور۔
 الزَّهْدَنُ وَالتَّرْهَدَنُ وَالتَّرْهَدَنُ : بزدل۔
 بیوقوف۔ چڑیا کی مانند ایک پرندہ کا نام۔ ج
 زَهَادِيْنٌ وَزَهَادِيَّةٌ۔
 الزَّهْدُونُ : جھوٹا۔
 زَهْرَةٌ وَزَهْرَةٌ : مابذتہ : جو دو سخاوت سے
 دسترخوان پھیلاتا۔
 تَوَهَّرَهُ : الشَّرَابُ : سراب کا متواتر چمکنا
 جَسْمُهُ : جسم کا آسودگی کی وجہ سے سفید

دو نم و نازک ہوتا۔

الزہرة۔ م۔ چروکی بياشت۔ بشو کی چمک و مک۔

جسّم (زہرة و زہراء و زہرؤة) سرخ سفید نازک بدن۔ طسّنت زہرة و زہراء: خموی گمرائی کاست۔ و مائة و زہراء و زہرؤة: صاف پانی۔

زہز (ف) زہز او زہزائا۔ المتبايع: جماع کرنے والے کا حرکت کرنا۔

إزتهزّ يلاّمو: خوشی سے جمونا۔

زہسّ (ف) زہسنا۔ الشئ: سخت روندا۔ بہت پامال کرنا۔

توہسّ۔ الشئ: بلنا۔ ادھر ادھر ہونا۔

إزتهسّ۔ القوم: بھیڑ کرنا۔ إزتهسّ رجالاً الذابة: رگڑ کھانا۔ الوادی: بھر جانا۔ الجراد: بدبند ہونا۔

إزتهسّ۔ الرجل: کانپنا۔ القوم: قوم کے درمیان لڑائی واقع ہونا۔ القوس: ترم و ست ہونا۔ القوس: گھوڑے کا ٹکراتا۔

توہسّ۔ الرجل: کریم و سخی ہونا۔ التافّة: اوٹنی کا بہت دودھ والی ہونا۔

الزہسّ۔ جالوروں کا گلے ٹانگوں کا آپس میں رگڑ کھانا۔

الزہيش۔ من الثواب: گرتی ہوئی مٹی جو نہ رکے۔ کمزور۔ باریک۔ کم گوشت والا۔ باریک پیکان۔ پتلا تیر۔ ناقة زہيشة: بہت دودھ والی اونٹنی۔

الزہيشان۔ بازوؤں کے باطن کی دو رگیں۔

الزہيشة۔ گرم حیا۔

الزواہش۔ ہتھیلی کے ظاہری رگیں۔ جانور کے بازوؤں کے اندر کی رگیں۔ واحد (زاہش و زاہشة)

زہصّ (ف) زہصا۔ الشئ: سخت ٹھوڑنا

الصيّد: شکار کو ست کر دینا۔ ہ۔

ملا مت کرنا۔ جلدی کرنا۔ الحايظ: دیوار

کاپسلا ردھ رکھنا۔ القوس: کھروشی کرنا۔

زہصّ (س) و زہصّ زہصا۔ القوس:

گھوڑے کا زخمی کھروالا ہوتا۔

أزھصّ۔ الحايظ: دیوار کا پسلا ردھ رکھنا۔ الشئ: بنیاد رکھنا۔ ثابت کرنا۔ ہ۔

بجلائی کا بیج مانا۔ القوس: گھوڑے کے کھر کو زخمی کرنا۔

زأهصّ۔ غريمه: قرض دار کی عمرانی کرنا۔

توأهصّت۔ الضخوخ: چٹانوں کا آپس میں جتنا۔

الريھصّ۔ من الحايظ: دیوار کا پسلا ردھ۔ مٹی جس سے دیوار بنائی جائے۔

الزہاصّ۔ مٹی گارہ بنانے والا۔

الزہصّة۔ گھوڑے کے سم کا زخم۔

الزہيحصّ۔ من الخيل: سم کے زخم والا۔

خُفّ زہيحصّ: اونٹ کا کھر جس کو پتھر لگ گیا ہو۔

أسدّر زہيحصّ: شیر جو اپنی جگہ سے لٹا نہ ہو۔

الزواہصّ۔ من الحجازة: سم کو زخمی کرنے والا پتھر۔ مضبوط جی ہوئی چٹانیں۔ واحد (زأهصّة)

الزہصّة۔ مرتبہ۔ سورج۔ مع مزأهصّ۔

زہظّ۔ (ف) زہظا۔ اللقمة: بڑا لقمہ لینا۔ کما

جاتا ہے "هُوَ يَظْهَطُ" وہ بہت کھاتا ہے۔

زہظّ۔ بہت کھانا۔ اللقمة: بڑا لقمہ لینا

الزجلّ: سواری کی پیٹھ پر جم کے بیٹھنا۔ گھر سے نہ لگانا۔

إزتهظّ۔ القوم: اکٹھا ہونا۔

الزھط و الزھط۔ آدمی کی قوم اور قبیلہ تین

سے دس تک کا گروہ جس میں کوئی عورت نہ ہو

اور اس لفظ کا واحد نہیں۔ ج. أزھط و أزھاط و ج

أزأهيط و أزأهيط اور جب رہط کی جانب عدد کی

اشاعت ہوتی ہے تو اس سے مراد اشخاص و افراد

ہوتے ہیں جیسے "عشرون زھظا" یعنی بیس

فحص۔ اور کما جاتا ہے "نحى ذؤر هظ" ہم اٹھے

ہیں۔ الزھط: دشمن۔

الرهاط۔ گھر کا سامان۔

الزھطة و الزھطاء و الزأهطاء۔ من جُحرة

النيربوع: جنگلی چوہے کا وہ سوراخ جس سے وہ

مٹی باہر نکالتا ہے۔ ج. زأهطی۔

الترهوط۔ بہت کھانے والا۔

زہفّ (ف) زہفّا۔ السيف: تلوار کو باریک

کرنا۔

زہفّ (ک) زہافّة و زہفّا۔ باریک و پتلا ہونا۔ صفت (زہيف)

أزہفّ۔ السيف: تلوار کی دھار پتلی کرنا۔

أزہفّ بالكلام: بی الہدیہ کہنا۔

الزہيف۔ پتلا۔ پتلی کی ہوئی دھار والی چیز۔

المزہف۔ مہ۔ سيف مزہف: تیز پتلی دھار

کی ہوئی تلوار۔ قوس مزہفّ: دبلے پیٹ اور

قریب قریب پسلیوں والا گھوڑا۔ خصم مزہفّ:

پتلی کر۔ مزہفّ الجسيم: ڈبلا پتلا۔

زجلّ (مزہفّ) التبدن: پتلے جسم والا مرد۔

زہقّ (س) زہقّا۔ يوقوف ہونا۔ صفت

(زہق) ہلکا ہونا۔ ظلم کرنا۔ بڑائیوں کا مرتکب ہونا۔

جھوٹ بولنا۔ جلدی کرنا۔ السقوف: قریب

ہونا۔ وقت آنا۔ کما جاتا ہے "زہقّت الجلاب

الصيّد" یعنی کتے شکار پر جا پھینچے۔

زہقّا۔ برای کی حسرت لگانا۔

زأهقّ۔ الغلام: جوانی کے قریب پہنچنا۔ صفت

(مؤاھق) کما جاتا ہے "صلى الصلوة مؤاھقا"

اس نے وقت ختم ہونے کے قریب نماز پڑھی۔

أزہقّا۔ غلظّا: جلائے ظلم کرنا۔ ہ۔

أشفا: گناہ پر برا لگینے کرنا۔ ہ۔ غسّوا:

تکلیف دینا۔

ہ۔ بالیاء۔ فوق الطاقة کام پر آسانا۔

الصلوة: آخر وقت تک مؤخر کرنا۔

زیدّا أن یضلى: نماز پڑھنے کی جلدی کرنا۔ کما

جاتا ہے "لا تزہقنّی لأزہقک اللہ" تو میرے

اوپر سختی نہ ڈال اللہ میرے اوپر سختی نہیں ڈالے

گا۔

الزہقّ۔ مہ۔ گناہ و حسرت۔ سبکی عقل۔ جمالت۔

فوق الطاقة کام پر برا لگینے کرنا۔

الزہقی۔ ایک قسم کی ڈور۔ کما جاتا ہے "هُوَ

یغذو الزہقی"

الرهاق و الزہاق۔ مقدار۔ تقریباً۔ کما جاتا ہے

"کأنوارهاق مائة" وہ لوگ سو کے قریب تھے۔

الزہیق۔ شراب۔

الزہیقان۔ زعفران۔

المزہقّ۔ قتل کرنے کے لیے گرفتار۔ نکلی میں

ڈالا ہوا۔

المُرْهَقُ - مہ - خفیف العقل و جاہل - بدی و شرارت سے متم - فیاض۔

زَهَكَ (ف) زَهَكَ - الشَّيْءُ : باریک پینا۔ صفت مفْعُول (زَهَيْكُ وَ مَرَهَوْكُ)

بِالْمَكَانِ : اقامت کرنا۔

إِزْهَكَ - چلنے میں سست ہونا۔

الزَّهْكَ - مہ - نیک کام۔

الزَّهْكَةُ - کمزوری۔

الزَّهْكَةُ وَ الزَّهْكَةُ : مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْإِبِلِ : کمزور ناتواں۔

زَهْلٌ (س) زَهْلًا : ڈھیلے اور پھولے ہوئے گوشت والا ہونا۔ صفت (زَهْلٌ) کہا جاتا ہے

”فَلَانٌ فِيهِ زَهْلٌ“ فلاں میں آس کے ساتھ ڈھیلا پن ہے۔

زَهْلَةٌ وَ زَهْلَةٌ : النَوْمُ : نیند کاست و ڈھیلا کرنا۔

تَوَهَّلَ : ڈھیلا ہونا۔

الرَّهْلُ - جہنم کے مشابہ پتلا پتلا بادل۔

المُرْهَلُ - عِنْدَ الْأَطْيَاءِ : ڈھیلے بدن والا۔

أَزْهَمَتِ - السَّمَاءُ : نرم بارش برسانا۔

الرَّهْمَةُ - نرم لگنا بارش - جِ رِهْمٍ وَ رِهَامٍ -

الزَّهَامُ وَ الزَّهْوَمُ : دلی بکری۔

الزَّهَامُ - غیر شکاری پرندہ - بڑی تعداد۔

الْأَزْهَمُ - زیادہ فراخی و ارزانی والا۔

المَرْهَمُ - مرہم - جِ مَرَاهِمٍ

مَكَانٌ (مَرَهْوَمٌ) : وہ جگہ جہاں ہلکی بارش ہوئی

ہو۔

الزَّهْمَجُ - کشادہ۔

زَهْمَسَ زَهْمَسَةً : باہم راز کی باتیں کرنا۔ لُذَّةٌ

بِرَأْيِي كِي تَعْرِيفٍ کرنا۔

زَهْنٌ (ف) زَهْنًا - الشَّيْءُ : فَلَانًا وَ عِنْدَ فَلَانٍ :

گرور رکھنا۔ الشَّيْءُ : ہمیشہ رہنا اور اسی سے ہے

”بِعِزَّةِ اللَّهِ وَابْتِئَانًا“ اللہ کی نعمت ہمیشہ رہنے والی

ہے۔ الشَّيْءُ : ہمیشہ رکھنا۔ بِالْمَكَانِ :

اقامت کرنا (زَهْوَانًا) ڈھلا ہونا۔ صفت (زَاهِنٌ)

زَاهِنَةٌ وَهَانًا وَ مَرَاهِنَةٌ - عَلَى الْخَيْلِ :

دوڑانے کیلئے شرط لگانا۔ عَلَى كَذَا : شرط

شہرنا۔

أَزْهَنَةُ - الشَّيْءُ : کسی کے پاس گرور رکھنا۔ أَزْهَنٌ

فُلَانًا : کمزور کرنا۔ بَطِيئٌ رِيًا - فِي السَّلْعَةِ : گران

کرنا۔ لِيَصِيفِهِ الطَّعَامُ وَ الشَّرَابُ : ممان

کے لیے ہمیشہ کھانا پانی تیار رکھنا۔ أَزْهَنُ المَيْتِ

القَبْرِ : میت کو قبر میں رکھنا۔

تَوَاهَنَ - القَوْمُ : آپس میں شرط لگانا۔

إِزْقَهْنَ - الشَّيْءُ : منہ : گروری لینا۔

بِالْأَمْرِ : کسی معاملہ میں متقید ہونا۔

اسْتَوْهَنَتِ - الشَّيْءُ : گروری طلب کرنا۔

الزَّاهِنُ - فا - تیار۔ ہمیشہ رہنے والا۔ محکم و

مضبوط۔ کہا جاتا ہے ”هَذِهِ خُجَّةٌ زَاهِنَةٌ“ یہ

مضبوط دلیل ہے۔ ہمیشہ رہنے والی خوراک وغیرہ۔

لاغر ڈیلا۔

الزَّاهِنَةُ - گھوڑے کی ناف اور اس کا ارد گرد۔

الزَّهْنُ - مہ - گروری۔ کسی چیز کا روکنا۔ گروری رکھی

ہوئی چیز - جِ رِهَانٌ وَ زُهُونٌ وَ زُهَيْنٌ وَ زُهْنٌ - کہا

جاتا ہے ”إِنِّي لَكَ زُهْنٌ بِكَذَا“ میں تمہارے

لیے اس کا ضامن ہوں۔

هَذَا (رِهْنٌ) مَالٌ : یہ مال کے برابر ہے۔ شَيْءٌ

مَرَهْوَةٌ کے لیے بولتے ہیں کہ وہ مال جو لیا جا رہا

ہے اس کے یہ برابر ہے۔

الرَّهَانُ - مہ - خَيْلٌ الرِّهَانُ : شرط لگانے کے

گھوڑے اور ”هُمَا كَفَرَسِي رِهَانٌ“ : دو ہم

رہنے چیز کے بارے میں بطور مثال کے بولتے ہیں۔

الزَّهَيْنُ - گروری رکھا ہوا۔ کسی چیز کے بدلے میں

روکی ہوئی چیز - کہا جاتا ہے ”أَنَا زُهَيْنٌ بِأَعْمَالِي“

میں اپنے کاموں میں پھنسا ہوا ہوں۔

الزَّهْيَةُ - گروری رکھی ہوئی چیز - کہا جاتا ہے ”أَنَا

زَهْيَةٌ بِكَذَا“ میں اس میں پھنسا ہوا ہوں یا میں

اس کا ضامن ہوں۔ و ”كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

زَهْيَةٌ“ ہر ایک نفس اپنے کماے ہوئے کے ساتھ

گروری ہے۔ و ”الْخَلْقُ زَهَائِنُ المَوْتِ“ مخلوق

موت کے ساتھ محبوس ہے۔

المُرْهَنُ - مہ - ہر وہ چیز جو کسی چیز کے بدلے

میں روکی جائے۔ المُرْهَنُ بِالْأَمْرِ : کام میں پھنسا

ہوا۔ کہا جاتا ہے ”كُلُّ أَمْرٍ بِالْمَوْتِ مُرْهَنٌ“

یعنی ہر انسان موت کے ساتھ متقید ہے۔

الْمُرْزُ (مَرَهْوَةٌ) : بِأَوْ قَاتِيهَا : کام اپنے وقت پر واقع ہوتے ہیں۔

الزَّهْمَجُ وَ الزَّهْمَجُ : ملاحوں کے لیے

بحری راستہ کا نقشہ (راہ نامہ کا معرب)

زَهَانٌ (ن) زَهْوًا - نرمی کرنا۔ نرم چال چلانا۔ کہا

جاتا ہے ”جَاءَتْ بِالْخَيْلِ زَهْوًا“ گھوڑے نرم

چال سے آئے۔ و ”أَزَّهُ عَلَى نَفْسِكَ“ اپنے اوپر

نرمی کرو۔ التَّخَوُّ : دریا کا ساکن ہونا

بَيْنَ رَجُلَيْنِ : کھولنا۔ الطَّائِرُ :

پرندہ کا بازو پھیلانا۔

زَاهِي مَرَاهَةٌ - الزُّجْلُ : قریب ہونا۔ انکشا

ہونا۔ باہم حماقت کرنا۔

أَزْهَى إِزْهَاءً - کشادہ جگہ پانا۔ رہو پرندہ کے

کھانے پر مدامت کرنا۔ لَهُمُ الطَّعَامُ :

ہمیشہ تیار رکھنا۔ عَلَى نَفْسِهِ : نرمی کرنا۔ کہا

جاتا ہے ”أَزَّهُ عَلَى نَفْسِكَ“ اپنے اوپر نرمی کرو

و ”أَزْهَى لَكَ الشَّيْءُ“ تمہارے لیے یہ چیز ممکن

ہے و ”أَزْهَيْتُ لَكَ“ میں نے تم کو اس پر قدرت

دی۔

تَوَاهَى - القَوْمُ : باہم نرمی برتنا۔

إِزْقَهَى - القَوْمُ : باہم مغلطہ ہونا۔ رہیہ تیار کرنا۔

(دیکھئے لفظ زَهِيَّة)

الزَّهْوُ - سارس یا اس کے مشابہ ایک پرندہ ج

رہاؤ (وَالزَّهْوَةُ) لوگوں کی جماعت۔ بندی پاست

جگہ - بِنْفُزٌ بِنْفُزٌ : چوڑے منہ کا توال۔

تَوْبُتٌ وَ هَوٌّ : باریک کپڑا۔ خَازِقٌ وَ هَوٌّ : لگاتار

لوٹ۔ اور کہا جاتا ہے ”النَّاسُ وَ هَوٌّ مَا بَيْنَ

الْمَدِينَةِ وَ الْجَبَلِ“ لوگ شہر اور پہاڑ کے

درمیان لگاتار آرہے ہیں۔

الزَّهَاءُ - مِنَ الْأَمَانِ : کشادہ جگہ۔

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ : ہر چیز کا ہوا رخصتہ۔

الزَّاهِي - مِنَ الْعَيْشِ : آسودہ زندگی۔

الزَّاهِيَةُ - الرَّاهِي كَالْمَوْتِ - شہید کی کمی۔

الزَّهْيَةُ - ایک قسم کا کھانا جو خوش کوبہا محسوس سے

مل کر کوٹا جاتا ہے اور دودھ ڈال کر تیار کیا جاتا

ہے۔

الزَّهْوَانُ - پست زمین۔ ترکی گھوڑے کو بھی

زَّهْوَانٌ کہتے ہیں جبکہ چلنے میں نرم پیچھے کا ہو

(معرب)

الأزهاء اطراف وجوانب۔

الغزهي من الخيل: تيز رفتار گھوڑا جو دیکھنے میں تیز نہ ہو اور مقابلہ کے وقت ہاتھ نہ لگے۔ ج الغزاي۔

زَهْوَكُ الزَّجْلُ: چلنے میں ڈھیلے جوڑوں والا ہوتا۔ القَوْمُ: مضطرب ہوتا۔

الزَّهْوَكُ: موٹا بکری کا پتیرا ہرن) شَاب۔

زَهْوَكُ: نازک بدن جوان۔

زَهْنًا كَرُورًا اور ست ہونا۔ فاسد ارادے ہونا۔ محنت یا بھاپے کی وجہ سے کسی کی آنکھوں کا اندر گھس جانا۔ السحاب: برسنے کے لیے تیار ہونا۔

تَوَهْنًا: مضطرب ہو کر حرکت کرنا۔ فی الأمر: کام میں کھلی کرنا۔ کبھی ارادہ کرنا کبھی چھوڑنا۔ السحاب: برسنے کے لیے تیار ہونا۔

زَوَّأْتُوَيْثًا وَتَرَوَيْثًا فِي الْأَمْرِ: کام کے انجام میں غور و فکر کرنا۔

الزَّوَيْثَةُ وَالزَّوَيْثَةُ: غورو فکر۔

الْإِزْتِيَاءُ: سوچ بچار غورو فکر کرنا۔

الزَّاءُ: حروف تہجی کا ایک حرف۔ سمندر کا جھاگ۔ ایک درخت کا نام۔ واحد (زَاءَةٌ)۔

زَابٌ (ن) زَوَيْثًا وَزَوَيْثًا الْمَيْتُ: جتنا۔ صفت

(زَابٌ) کہا جاتا ہے "زَابٌ دَهْمٌ" اس کی پلاکت

کا وقت قریب آ گیا۔ الزَّجْلُ: تھمیر ہونا۔

جَمُوتٌ بولنا۔ عقل میں فتور ہونا۔ ست ہونا۔ نیند

بھوک یا دنگھ کی وجہ سے متوالا جیسا ہونا۔

زَوَيْتٌ الذَّابَةُ: جانور کا ٹھکانا۔

زَوَيْبٌ وَأَزَابٌ الْمَيْتُ: دی، جانا۔

الزَّايِبُ: فنا، جما ہوا دودھ، دی۔

الزَّايِبُ مِنَ الْأَمْوَالِ: صاف معاملات جن میں کوئی شبہ نہ ہو۔ نیز مشتبه امور (ضد)

الزَّابُ: اندازہ کہا جاتا ہے "هَذَا زَابٌ كَذَا"

یہ اس کے مقدار کا ہے۔

الزَّوْبُ: جما ہوا دودھ۔ کھن نکلا ہوا دودھ

دی۔ کہا جاتا ہے "مَا عِنْدَهُ شَوْبٌ وَلَا زَوْبٌ"

اس کے پاس نہ تو شہد ہے نہ جما ہوا دودھ اور

صحت میں ہے "لَا شَوْبٌ وَلَا زَوْبٌ لِي الْبَيْعِ وَ

الشَّرَا" خرید و فروخت میں دھوکا قریب اور

اور گریز نہیں ہونی چاہئے۔

الزَّوَيْتَةُ وَالزَّوَيْتَةُ: جان (یعنی چھاپہ جو وہی

جمانے کے لیے دودھ میں ڈالا جائے، دودھ کا

بقیہ۔)

الزَّوَيْتَةُ: حاجت اور اسی سے ہے "فَلَانٌ لَا

يَقْتَوِمُ بِزُورِيَةِ أَهْلِهِ" فلاں اپنے لوگوں کی حاجت

کیلئے مستعد نہیں۔ مدار زندگانی۔ محتاجی۔ حیرانی۔

زیادہ پینے سے کسل مندی۔ الزَّوَيْتَةُ مِنَ اللَّحْمِ:

گوشت کا ٹکڑا۔ مِنَ اللَّيْلِ: رات کا ایک

حصہ۔

الزَّجْلُ: مرد کی عقل۔ تم کہتے ہو "هُوَ يُحَدِّثُنِي

وَأَنَا إِذْ ذَاكَ غَلَامٌ لَيْسَتْ لَهُ زُورِيَةٌ" وہ مجھ سے

بات کر رہا تھا اور میں اس وقت ایسا لڑکا تھا جس کے

لیئے عقل نہ ہو۔

الزَّوْبُ: حیران۔ ست۔ اونگھ یا غم سیری کی

وجہ سے کسل مندی۔

الزَّوَيْبِيُّ: وہ لوگ جو چلنے کی وجہ سے ست

ہو گئے ہوں۔ قَوْمٌ زَوَيْبِيُّ: ست طبیعت کے لوگ،

وہ لوگ جنہوں نے وہی پیا ہو اور ست ہو گئے

ہوں۔ واحد (زَابٌ وَزَوَيْبَانٌ)

الْمَجْزُوبُ: دودھ جمانے کا برتن۔

سِقَاءَةُ (مَزْوُوتٌ) مظہیرہ جس میں دودھ جمایا گیا

ہو۔

زَابٌ (ن) زَوَيْثًا: القروش لید کرنا۔

الزَّوَيْثُ: لید۔ ج آزواٹ۔

الزَّوَيْتَةُ: روٹ کا واحد۔ ناک کے سرے کا کنارہ۔

کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَنْضَرِبُ بِلِسَانِهِ زَوَيْتَةَ نَفْسِهِ"

فلاں اپنی ناک کے کنارے تک زبان کو لے جاتا

ہے۔ کنایہ ہے زباں دراز ہونے سے۔ چوچ۔

العَوَاثُ وَالْمَزْوُوتُ: لید کا ٹھکانہ۔

زَاجٌ (ن) زَوْجًا وَزَوْجًا: الامتور: جلدی ہونا

زَوْجٌ الشَّقِيُّ وَبِهِ: جلدی کرنا

السَّلْعَةُ وَالذَّرَاهِمُ: راج کرنا۔ فَلَانٌ

كَلَامُهُ: مزین و مجسم کرنا۔

تَوْرُوجٌ: حوض کے گرد گرد گھومنا۔ صفت

(زَوَّاجٌ)

الزَّوَيْجَةُ: جلدی۔

زَاحٌ (ن) زَوَّاحًا: شام کے وقت آنا یا جانا کام

کرنا اور بغیر وقت کی تخصیص کے مطلقاً جانے

کے معنی میں مستعمل ہے۔

(زَوَّاحًا وَزَوَّاحًا) الْقَوْمُ وَالنَّيْهَمُ

وَعِنْدَهُمْ: شام کے وقت کسی کے پاس جانا

(مطلقاً جانا)۔

(زَوَّاحًا) الْقَوْمُ: تیز ہوا والا ہونا۔

زَاحٌ تَوْرِيْعٌ زَيْحًا: الشَّقِيُّ: بوجھوس کرنا۔

زَاحٌ يَرِيْحٌ زَيْحًا: الْقَوْمُ: تیز ہوا والا ہونا

الْبَيْتُ: ہوادار ہونا۔ کہا جاتا ہے "اِفْتَحَ

الْبَابَ حَتَّى يَرِيْحَ يَرِيْحَ الْبَيْتِ" دروازہ کھولا تاکہ

گھر ہوادار رہے۔ الرِّيْحُ الشَّقِيُّ: ہوا

لگنا۔ الْقَوْمُ الرِّيْحُ: ہوا میں داخل ہونا۔

زَاحٌ يَرِيْحٌ زَاحَةً: لِلْمَفْرُوفِ: بھلائی کو

خوشی سے کرنے کے لیے جلدی کرنا۔

يَدُهُ لِأَلْمُرِ: سبک ہونا۔ الشَّحْزُ: نئے

چے نکالنا۔ الشَّقِيُّ: بوجھوس کرنا۔ کہا جاتا

ہے "زَاحٌ مِنْكَ مَفْرُوفًا" اس نے تم سے بھلائی

حاصل کی۔

زَاحٌ يَرِيْحٌ زَوَّاحًا وَزَاحَةً وَرِيْحًا حَتَّى

وَزَوَّاحًا وَرِيْحًا حَتَّى: لِلْأَمْرِ: کسی کام کیلئے خوشی

کے ساتھ متوجہ ہونا۔

زَاحَتْ تَرَاخٌ رِيْحَةً: الْإِبِلُ: اونٹوں کا شام

کے وقت واپس آنا۔ رِيْحٌ هُوَ الْكَلْبُ: صفت مَفْرُوعٌ

مَرِيْعٌ۔

زَوْجٌ يَرِيْحٌ زَوَّاحًا: كَشَادُ هُوَ۔

زَوْجٌ الْقَوْمُ: قوم کے پاس شام کے وقت جانا

عَلَيْهِ بِالْمَرْوَةِ بِكَمَا تَهْلِكُ.
 أَرَاخُ إِزَاحَةً. الْقَوْمُ: هُوَ مِمَّنْ دَاخِلٌ هُوَا
 ۵: آرام پہنچانا _____ علی فلان
 حَقَّه: داہیں کرنا _____ الإبل: باڑہ کی طرف
 اوٹوں کو واپس لانا _____ الْمُعْرُوفُ: بھلائی
 حاصل کرنا پانا _____ الشَّيْءُ: بوجھوس کرنا
 _____ الْمَاءُ او الْمَحْمُومُ: پانی یا گوشت کا بدبودار
 ہونا۔
 الرَّجُلُ: سانس لینا۔ شام کے وقت میں داخل
 ہونا۔ مرنا۔ کہا جاتا ہے "أَرَاخُ لَهَا رَاحٌ" اس نے
 مر کر آرام پہنچایا۔
 أَرُوْحُ: الْمَاءُ: پانی کا بدبودار ہونا _____
 الشَّيْءُ: بوجھوس کرنا _____ عَلَيْهِ حَقَّه:
 داہیں کرنا۔
 رَاوْحٌ: بَيْنَ الْعَضَلَيْنِ: باری باری مشغول
 ہونا _____ تَيْنَ رَجُلَيْنِ: باری باری ایک ایک
 ٹانگ پر کھڑا ہونا۔
 تَرَوُّحٌ: شام کے وقت چلنا یا عمل کرنا۔
 _____ الْقَوْمُ: قوم کے پاس شام کے وقت جانا
 _____ الشَّجَرُ: نئے پتے نکالنا _____ التَّبَيُّتُ:
 بناگت کا طویل ہونا _____ الْمَاءُ: پانی کا بدبودار
 ہونا _____ بِالْمَرْوَةِ: بیکسا ہلانا۔
 الشَّيْءُ: بھڑک دار خوشبودار ہونا۔
 تَرَاوَحَ: الرَّجُلَانِ الْأَمْرُ: باری باری کرنا۔
 اور اسی سے یہ قول ہے "إِنَّ يَدَيْهِ تَتَرَاوَحَانِ
 بِالْمَعْرُوفِ" اس کے دونوں ہاتھ باری باری
 بھلائی کو کرتے ہیں۔
 إِزَاحٌ: خُوشٌ هُوَا _____ اللَّهُ لَهُ يَرْحَمُنِي:
 مصیبت سے چھڑانا۔ کہا جاتا ہے "هَمَّا يَوْ قَوْ حَا نِ
 عَضَلًا" وہ دونوں نوبت نوبت خیر کرتے ہیں۔
 إِسْتَرَاوَحَ: إِسْتَرَاوَحَ: آرام پانا۔ إِلَيْهِ: سکون
 پانا۔
 إِسْتَرَاوَحَ: إِسْتَرَاوَحَا: آرام پانا۔ الشَّيْءُ:
 سوگنا _____ الْفَضْلُ: شئی کا ہوا سے ہلنا
 _____ الصَّيْدُ: شکار کا انسان کی بوجھوس کرنا
 _____ الشَّجَرُ: سرسبز کرنا۔
 الرَّاحُ: مے۔ شراب۔ خوشی۔ نشاط۔ يَوْمٌ رَاوَحَ:
 سخت ہوا کا دن۔

الرَّاحَةُ: مے۔ آرام۔ الرَّاحُ: کاواہد۔ یعنی بھلی۔
 مَحْنٌ: کف دست۔ کہا جاتا ہے "تَوَكَّنْتُ عَلَى الْفُحَى
 مِنَ الرَّاحَةِ" میں نے اس کو ایسی حالت میں چھوڑا
 کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ کپڑے کی۔ کہا جاتا
 ہے "إِطْلُو النَّوْبَ عَلَى رَاحَتِهِ" کپڑے کو اس کی
 تہ پر لیٹو۔ رَجَ رَاحَاتٍ: لیلۃ رَاحَةٌ: تیز ہوا والی
 رات۔
 الرَّوْحُ: آرام۔ نرم ہوا۔ انصاف جو شکایت
 کرنے والے کو آرام پہنچانے۔ مدد۔ خوشی۔ رحمت
 و مہربانی۔ يَوْمٌ رُوْحٌ: عمدہ و خوشگوار دن۔ سہانوں۔
 الرَّوْحَةُ: راح کا اسم مرۃ۔ رَجَ رَاحَاتٍ: لیلۃ
 رُوْحَةٌ: سہانی رات۔
 الرَّوْحُ: جان (نذکر مومنٹ) نفس۔ کہا جاتا ہے
 "هُوَ حَفِيْفُ الرَّوْحِ" یعنی وہ لطیف و پاکیزہ ہے۔
 وَجِي: حلم خداوندی۔ امر الہی۔ قرآن۔ پیغام
 خداوندی۔ جبرئیل۔ الرَّوْحُ الْأَعْظَمُ: اللہ تعالیٰ۔
 رُوْحُ الْقُدُسِ: جیسا یوں کے نزدیک اقامت ملائکہ
 کا تیسرا قوم: الرَّوْحُ الْأَمِينُ: حضرت جبرئیل
 عَلَیْہِ السَّلَامُ کیلئے (رُوْحَانِي) رَجَ أَرُوْحٍ اور
 محتدمین حکماء کے نزدیک معنیات کی ایک قسم۔
 جیسے پارہ پر اطلاق ہوتا ہے۔ نیز دواؤں کے ست و
 جواہر پر بولا جاتا ہے۔ الْأَرُوْحُ الْحَفِيْفَةُ:
 شیاطین۔
 الرَّوْحُ: دونوں ٹانگوں کے درمیان کشادگی
 وسعت۔
 الرَّوْحُ: مے۔ شام یا زوال آفتاب سے رات
 تک۔ اس کے مقابلہ میں صبح ہے۔ کہا جاتا ہے
 "نَحْرُ جَوَابِ رُوْحٍ مِنَ الْعَشِيِّ" وہ شام کی ابتدا
 میں لگے۔ و "أَفْعَلُ ذَلِكَ لِي مَسْرَاوِحٌ وَرُوْحٌ"
 میں صبح شام اس کو کرتا ہوں (و الرُوْحِيَّةُ
 و الرُوْحَةُ و الرَّاحَةُ) خوشی جو یقین حاصل ہونے
 سے پیدا ہو۔
 الرَّوْحُ: ہوا (مومنٹ) رَجَ أَرُوْحٍ و أَرُوْحٍ
 و رِيَاوِحٍ و رِيحٍ و رِيحٍ و أَرِيحٍ۔ بوجھوس
 چیز۔ رحمت۔ مدد۔ غلبہ۔ وقت اور ہوا میں چار ہیں۔
 الْحُضُوبُ: و کھنی۔ التَّسْمَلُ: آنری۔ الضَّمَاءُ:
 پُرُوَالِي۔ الدَّلُورُ: بچھوالی۔
 الرَّوْحِيَّةُ: ہوا۔ بوجھوس۔

الرَّوْحَانُ: ہر ایک خوشبودار پودہ۔ مصیبت و
 روزی۔ فرزند۔ رَجَ رُوْحَانِيْنِ۔
 الرَّوْحَانَةُ: گلہ سہ۔
 الرَّوْحُ: مِنَ الْأَيَّامِ: تیز یا تھپی ہوا والا دن۔
 الرَّوْحَةُ: الرَّاحُ: کامنٹ۔ بوجہ رَاحَاتٍ
 وَرُوْحِيَّةٍ۔ الرَّوْحُ: شام کے وقت کی بارش یا
 بادل۔ کہا جاتا ہے "عَالَمُهُ مَسْرَاوِحَةٌ وَلَا رَاحِيَّةٌ"
 یعنی اس کے پاس موشی میں سے کچھ نہیں۔
 الْأَرُوْحُ: ٹانگوں کے درمیان کشادگی والا۔
 مومنٹ رُوْحَانِي رَجَ رُوْحُ (_____ وَالرَّوْحُ)
 کشادہ۔
 الْأَرُوْحِيَّةُ: کشادہ اخلاق والا۔
 الْأَرُوْحِيَّةُ: وہ خصلت جو انسان کو افعال حمیدہ
 اور فیاضی کرنے سے مسرور کرتی ہے۔
 الرَّوْحُ: ترویجہ کی جمع۔ جس کے معنی مطلقاً
 بیٹھنے کے ہیں۔ پھر اس بیٹھنے پر اطلاق ہونے لگا جو
 رمضان کی راتوں میں چار رکعت پڑھ لینے کے
 بعد آرام حاصل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ پھر ہر
 چار رکعت ہی کو ترویجہ کہنے لگے اور تراویح کا
 اطلاق پوری میں رکعت نماز پر بھی ہوتا ہے جن
 کو رمضان میں پڑھتے ہیں۔ الرَّوْحُ: روانہ
 ہونے یا داہیں آنے کی جگہ۔
 الرَّوْحُ: اونٹ یا گائے یا بکری کا باڑہ۔
 الرَّوْحُ: البرص۔ ہر وہ چیز جس کو ہوا لگے۔
 يَوْمٌ مَرُوْحٌ: اچھی ہوا والا دن۔
 الرَّوْحُ: بِمَرُوْحَةٍ: بیکسا۔ رَجَ مَرُوْحٍ۔
 الرَّوْحُ: بیابان۔ رَجَ مَرُوْحٍ۔
 الرَّوْحُ: مے۔ ذُھْنٌ مَرُوْحٌ: خوشبودار تیل۔
 الْمُسْتَرَاوِحَةُ: پاخانہ۔
 الرَّوْحُ: لِي الطَّيْنِ: بچھڑیں پڑنا۔
 رَاوِحٌ يَوْمٌ رُوْحًا وَرُوْحًا وَرِيَاوِحًا: الشَّيْءُ: طلب کرنا
 _____ الْأَرْضُ: قیام کے لیے چراگاہ و پانی وغیرہ
 کی دیکھ بھال کرنا _____ قَوْمَةٌ مَرُوْعِي او
 مَرُوْعِي: قوم کے لیے چراگاہ یا منزل کی تلاش
 کرنے کی کوشش کرنا۔
 رَاوِحٌ يَوْمٌ رُوْحًا وَرُوْحًا وَرِيَاوِحًا: کسی چیز کی تلاش
 میں گھومنا اور آنا جانا۔ رَاوِحٌ يَوْمٌ رَاوِحٌ:
 چراگاہ میں آگے پیچھے آنا جانا۔

بانگوں کے بہترین نکلائے۔ الزوۃ: حوض کا بقیہ پانی۔ کہا جاتا ہے "لھی الخوض زوۃ من الماء" حوض میں تھوڑا پانی ہے جس نے زمین کو چھایا ہے۔

الریضة: الزوۃ میں ایک لغت۔
الریاضة: مہ۔ جسمانی ورزش۔ بڑی حالت کو اچھی حالت سے بدلنا۔ اخلاق نفسانی کی ترمیم۔ عبادت اور حقائق ایمانی میں غور و فکر کرنا۔

العلم الرياضي و علم الرياضيات: علم حساب الجبرا و جیومیٹری وغیرہ علوم۔
الریض: وہ جانور جس کو سدھایا جانا شروع کیا گیا ہو۔ مذکورہ مؤنث اس میں برابر ہیں۔ "أمرّ ریض" غیر محکم کام۔

الریضة: بلخ۔
المراض: نرم نشیبی زمین میں سخت جگہ جو پانی کو روک لے۔ سب مرایض و مراضات۔

أرض (منسز وضة) عمدہ نباتات اگانے والی زمین۔ نباتات منسز وضة: نباتات جو بڑھنے اور لے ہونے میں اتنا کچھ بھیج گئی ہو۔

زاط یروظ و یروظ زوفا و ریظا۔
بالمکان: پناہ ڈھونڈنے والے کی مانند ہونا۔

زاع یروغ زوفا و زووعا۔ منہ: گھبرانا۔ صفت ازواع و زوع: لھی یندی کذا: قائمہ دینا۔ زاعا لامز: گھبرانا۔ تعجب میں ڈالنا۔ زاع یروغ و یروغ زواعا لومنا۔ واپس ہونا۔

ریغ: فلان: گھبرانا۔ ڈرنا۔ تعجب میں ڈالنا۔
ازاع و زوع: گھبرانا۔ ڈرنا۔ تعجب میں ڈالنا۔

زوع (س) زوعا: ازوع ہونا۔ (دیکھئے لفظ ازوع)
ازوع ازواعا: الزاعی الغنم: چرواہے کا بکریوں کو ڈھنٹا۔

ازواع و تزوع: منہ و لہ: ڈرنا۔ ازواع للخبیر: خبر کی وجہ سے خوش ہونا۔
الزوع: مہ۔ خوف۔ ڈر۔ لڑائی۔

الزوعة: ڈر۔ حسن و جمال کا حصہ۔
الزوع: دل کا سیاہ نقطہ اور بقول بعض دل میں ڈر کی جگہ۔ ذہن۔ عقل۔ کہا جاتا ہے "أفرغ

زوعک" اپنے دل کو مطمئن رکھو۔

الزوع: ازوع کا اسم (دیکھئے لفظ ازوع) الازوع: حسن یا بہادری وغیرہ سے تعجب میں ڈالنے والا۔ ہوشیار۔ ذکی۔ ج زوع و ازواع۔ مؤنث زوعاء۔ قلب ازوع: جلدی گھبرا جانے والا دل۔

فلان (زواع) القلب: ہوشیار۔ ذکی۔
الزواع: فا۔ حسن یا بہادری وغیرہ سے تعجب میں ڈالنے والا۔ ج زاعون و زوع مؤنث۔ زاعنة ج زواع و زوع: کلام زواع: خوشگوار کام۔
زاعنة الشیب: بڑھاپے کی ابتداء میں زاعنة النهار او الضحی: دن یا چاشت کے وقت کا بڑا حصہ۔

الزوع: خوفزدہ۔ درست السام پانے والا۔
زاع (ن) زوعا و زوعانا: الضیغ: شکار کا ادھر ادھر جانا۔ الزجل عن الطريق: کمرو فریب سے ہارنے سے کتر اکر چلنا۔

القی کذا: بچکے سے کسی جانب مائل ہو جانا۔
علیہ بالضرب: مارنے کیلئے ٹوٹ پڑنا۔
زوع اللقمة فی الذسم: لقمہ کو اچھی طرح چکنا کی میں الٹ پلٹ کر تر کرنا۔

زواعه مزواعة: کشتی لڑنا۔ فریب دینا۔ زواعہ علی الامر: بھسلانا و رغلانا۔
زواع القوم: کمرو فریب سے ایک دوسرے کو طلب کرنا۔

ازاعہ ازاعہ و ازاعہ ازیتاعا: کمرو فریب سے طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "مازلت أریغ حاجة لی" میں ہمیشہ اپنی حاجت کو طلب کرتا رہا اور کہا جاتا ہے "ازواع العقاب الضیغ" عقاب شکار کا پھینکا کرنے میں ادھر ادھر جانا۔ ازاعہ علی امر و عن امر: بھسلا بھلا کر طلب کرنا۔ ازاع الزجل: بھوکا رہنا۔

تروغ الحمام: گدھے کا خاک میں لوٹنا۔
تروعا: ایک دوسرے کو فریب دینا۔ باہم کشتی کرنا۔

الزواع: فا۔ طریق زواع: کج راستہ۔
الزواع و الزوینعة: کمرو جیلہ۔

الزواع: بہت فریب و مکر کرنے والا۔ لومڑی۔ کہا

جاتا ہے "یو نعلت زواع" و "ہم نعلت زواعة" وہ یا وہ لوگ فریب دینے والی لومڑی کی مانند ہیں۔

الریاغ: سرسبزی۔
الریاغة و الرواغة: کشتی کا کھارہ۔
زاف یزاف: زاف یزاف میں ایک لغت ہے۔

الزوف: سکون، اطمینان۔
الزوفة: رحمت۔
زاق یزوق زوقا: الشراب: صاف ہونا۔
علیہ: بغیلت و خوبی میں بڑھ جانا۔
زاقہ زوقا و زوقا: الشی: تعجب میں ڈالنا۔ پسند آنا۔ خوش کرنا۔

زوق یزوق زوقا: اوپر کے دولہے و استوں والا ہونا۔ صفت (ازوق) مؤنث زوقا ج زوق۔
زوق: الشراب: صاف کرنا۔ زوق بضاعته: سامان بیچ کر عمدہ سامان خریدنا۔ زوق و ازوق (ازوقا) اللیل: تاریکی پھیلانا۔

زوق البیت: سامان بنایا جانا۔
زوقہ مزوقہ: کسی کے برآمدہ کے مقابل برآمدہ بنانا۔ کہا جاتا ہے "هو مزوقی" اس کا برآمدہ میرے برآمدہ کے مقابل ہے۔

ازاق ازاقہ: الماء: بہانا۔ ذمہ: خون گرانہ۔ کنایہ قتل کرنے سے۔
الزائق: فا۔ ج۔ زوق و زوقہ۔

الزوق: مہ۔ سینگ۔ من البیت: ساتیان برآمدہ۔ من الشباب: جوانی کی رونق و ابتداء۔ من الخیل: خوبصورت گھوڑا۔ من اللیل: رات کا ایک حصہ۔

من الماء و نحوہ: صاف۔ زوق القریس: تیزہ جو گھوڑے کے کانوں کے درمیان میں رکھا ہوا ہو۔ اس صورت میں گھوڑے کو "ازوق" کہتے ہیں۔
الزوق: خالص غنیمت۔ چیز کی زیادتی۔ بارش۔ عمر۔ پردہ۔ بڑا خیمہ۔ جماعت۔ کہا جاتا ہے "ذاہیة ذات زوقین" یعنی بڑی مصیبت و

"زعی بازواقہ علی الذاہیة" یعنی وہ سوار ہووا "القنی بازواقہ عن الذاہیة" یعنی وہ دابہ سے اتر پڑا۔ و "القنی ازواقہ" یعنی وہ تیز دوڑا۔ نیز بمعنی

الطینان کے ساتھ اقامت کی۔ و "صَرَبَ رَوْقًا بِمَنْزِلٍ كَذَا" وہ فلاں منزل پر آتا اور اس نے خیر لگایا۔ و "الْقَى عَلَيْكَ اَرْوَاقَهُ وَسَوَّاهُ" اس موقع پر بولتے ہیں جب یہ کہنا ہو کہ تم فلاں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ و "الْقَتَّ السَّحَابَةُ اَرْوَاقُهَا" بادل نے اپنا رخا کھول دیا۔

الرَّوِاقُ وَالرَّوِاقُ برآمدہ۔ سائبان۔ پھت سے لے کر چیخ تک کا پرہ۔ ج اَرْوَاقُهُ وَرِوَاقَاتُ وَرَوْقٌ رِوَاقُ الْعَيْنِ: ابرو۔ رِوَاقُ اللَّيْلِ: رات کا ابتدائی حصہ۔

الرَّوِاقُ: چھنا۔ برتن جس میں شراب صاف کی جائے۔ پیالہ۔

رِوِاقِي السَّيَابِ: جوانی کی رونق و ابتداء اور کہا جاتا ہے "كُنْتُ فِي رِوِاقِ زَمَانِي" میں اپنے زمانہ کی ابتداء میں تھا۔ و رِوِاقِي كُلِّ شَيْءٍ: ہر چیز کا افضل حصہ۔

الرَّوْقُ: اوپر کے دو دانتوں کا لمبا ہونا (اور یہ عیب ہے)

الرَّوْقَةُ: بہترین حسن و جمال۔

الرَّوْقَةُ: رائق کی جمع۔ بہتر لوگ۔ کہا جاتا ہے "عَلِمْنَا رَوْقَةَ" خوبصورت لڑکے اور بچیوں کو "مؤنث" واحد اور جمع کے لیے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "غَلَامٌ رَوْقَةٌ جَارِيَةٌ رَوْقَةٌ وَجَوَارٌ رَوْقَةٌ"

الاروق: سینگ والا۔ اوپر کے دو بڑے ہونے والے والا۔

المرووق: صاف کیا ہوا۔ تمھارا ہوا۔ بیت

مرووق: سامنے پردہ لگا ہوا مکان۔

الرؤقۃ والرؤقاء: نرالوں کی آواز۔

رؤق: القرض: گھوڑے کی رال ہونا۔ رؤق: العجن: گھی سے روٹی کو اچھی طرح تڑکنا۔

الرؤال: گھوڑے کی رال۔ ج رؤال و اویل۔

الجرؤال: بہت رال والا۔

زام (ن) رؤفا و مراما: الشقی: ارادہ کرنا۔

صفت (زائیم) ج رؤم و رؤام۔

رؤم: ٹھہرنا۔ فلاننا و بہ: خواہش دلانا۔

زایۃ: ایک چیز کے بعد ایک چیز کا ارادہ

کرنا۔

تروؤم: بہ: ٹھہرنا۔

الزوام: ایک درخت کا نام۔

الزوامۃ: جوہر۔ ایک دیہاتی موضع کا نام۔ اشعار میں اکثر اس کا استعمال تشبیہ سے ہوتا ہے۔

الزؤوم و الزؤوم: کان کی لو۔

الزؤوم و الازؤوام: بحر متوسط کے شمال کے رہنے والے لوگ۔ واحد (زؤومی) نهرانیوں کا ایک گروہ۔

بخر الزؤوم: بحر متوسط جس کو بحر ایض بھی کہتے ہیں۔

زؤومۃ و زؤومیۃ: قدیم اور مشہور شراب کا نام جو اٹلی کا دارالسلطنت ہے۔ نسبت کے لیے زؤومائی۔

الزؤومی: خالی کشتی کا بادبان۔

الزؤومۃ: سریش جس سے تیر کا پر جوڑا جاتا ہے۔

المزام: مقصد۔ مطلب۔ ج مزامات۔

زان یروؤن زؤونا: الأمؤ: سخت ہونا۔ زانیت

اللیبۃ: سخت خوفناک ہونا۔

الزؤون: سختی۔ ج زؤؤون۔

زؤونۃ الشقی: چیز کا بڑا حصہ۔ چیز کی سختی۔ کہا جاتا ہے "كشَفَ اللهُ عَنْكَ زؤونَةَ هَذَا الْأَمْرِ" اللہ تعالیٰ تم سے اس معاملہ کی سختی کو دور کریں۔

الأزؤنان: سخت۔ دشوار (الأزؤنان و الأزؤنائیق) ہر چیز کی سختی (مثلاً سردی، گرمی، خوشی، غمی، شور وغیرہ کی) مؤنث اَزؤونَاة و اَزؤونَائِيَّة۔

مَرؤونٌ: بہ: مغلوب۔

زَاه (ن) زؤوها و زؤاها: الماء: پانی کا سطح زمین پر لہرانا۔

زؤی (ض) رِوَايَةُ الْحَدِيثِ: نقل کرنا۔ بیان کرنا۔ صفت زای۔ ج رِوَاةٌ وَ رَاؤُونَ۔

الحخبل: رستی بنا۔ الرخبل: اونٹ پر رستی سے کجاہ باندھنا۔ القوم: قوم کے لیے پانی لانا۔

رؤی (س) رِوَاةٌ وَ رِوَاةٌ وَ رِوَاةٌ: مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔ صفت (رِوَاةٌ) مؤنث رِوَاةٌ وَ رِوَاةٌ۔

الشحؤ: سرسبز ہونا۔

زؤی تروؤیۃ: سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔

الشعؤ: شعر کی روایت کرنے پر آمادہ کرنا۔

التبسات: نباتات کو پانی دینا۔ زؤی فی الأمر: غور و فکر کرنا۔

تروؤی تروؤیۃ: سیراب ہونا۔ غور و فکر کرنا۔

الحدینث: نقل کرنا۔ بیان کرنا۔

القؤوم: سفر میں پانی ساتھ لے جانا۔ تروؤت مفاصلۃ: جوڑوں کا معتدل و مضبوط ہونا۔

ارؤوی: اِرؤوَاةٌ مِنَ الْمَاءِ: سیراب ہونا۔

الحخبل: رستی کاٹ جانا۔ مفاصلۃ: جوڑوں کا معتدل و مضبوط ہونا۔

الروی: سیرابی۔ ایک درخت کا نام۔ خوش حالی و زیادتی نعمت۔

الروی: سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔

الزؤ: سرسبز (اس کی اصل زؤی ہے یا کواد سے بدل دیا گیا ہے)۔

الرؤا: عمدہ خوشبو۔ عین (رؤیۃ) بہت پانی والا چشمہ۔ اور کہا جاتا ہے "مِنْ أَيْنَ رِوَاةِ كَمَلٍ" سے تم پانی لاتے ہو۔

الرؤیۃ: زؤی کا اسم نوع۔ بھجھڑا۔ رؤیۃ التبخؤ: سمندر کے حیوانات میں سے ایک قسم ہے۔

الزؤی: مِنَ الشؤب: پوری سیرابی۔ کہا جاتا ہے "شَرِبْتُ شُرؤًا رِوَاةً" میں نے خوب سیراب ہو کر پیا۔ ماءٌ رِوَاةٌ: اور اور سیراب کرنے والا پانی اور ایسا ہی کہا جاتا ہے "كشَفَ رِوَاةً" الزؤی سخت بارش والا ہادل۔ تندرست و صحیح المعنی۔

پلانے والا۔ قافیہ کا حرف۔

الزؤویۃ: الزؤی کا مؤنث۔ امور میں غور و فکر۔ حاجت۔ قرض وغیرہ کا بقیہ۔

الرؤان: سیراب۔ سرسبز شئی وغیرہ۔ مؤنث رِوَاةٌ وَ رِوَاةٌ وَ جِغَرِوَانٌ: پرگشت چہرہ اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ رِوَاةٌ مِنَ الْعِلْمِ وَ هُمْ رِوَاةٌ" ہنہ: فلاں یا وہ لوگ بہت علم والے ہیں۔

الرؤاء: ج اَزؤوِيَّة (المؤزوی) ج مَرؤا و مَرؤاوی: جانور پر جو بھاندھنے کی رستی۔

الرؤاء: خوشگوار پانی۔ سیراب کرنے والا۔ بہت پانی۔

الرؤاء: خوشنالی۔ چہرہ کی رونق۔ کہا جاتا ہے "رِوَاةٌ لَؤ رِوَاةٌ" مرد کو اس کے چہرہ پر رونق ہے۔

الزواویۃ۔ حدیث یا اشعار کو نقل کرنے والا تا ماہلغ کے لیے ہے۔ ج زَوَاوِیَا: جانور جس پر پانی لا کر لایا جائے۔ پانی کی پکھال۔

الزَوِیَّةُ وَالِإِزْوِیَّةُ۔ پہاڑی بکری۔ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے مستعمل ہے۔ ج آزَوِی و آزَوِی۔

یَوْمُ (التَّزْوِیَةِ) ماہ ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ۔ اس وجہ سے کہ اس تاریخ میں عرفات میں جانے کے لیے اونٹوں کو پانی پلایا کرتے تھے یا وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تاریخ میں اپنے خواب کے معاملہ میں غور و فکر کیا تھا۔

رَابِعٌ یُرِیْبُهُ زَبْنًا۔ شک یا تممت میں ڈالنا۔ کسی سے کوئی ناپسند بات دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا یُرِیْبُهُ أَحَدٌ یَسْتَشِی" فلاں کو کوئی کسی چیز سے قلق میں نہیں ڈال سکتا۔

أَرَابَةٌ إِزَابَةٌ۔ شک میں ڈالنا۔ قابل شک ہونا۔ بے قرار کرنا۔ الزَّجْلُ الْأَمْتُ: قابل شک ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَرَابَهُ مِنْهُ أَمْتُ" یعنی اس نے اس کے ساتھ بدگمانی کی اور تممت کا یقین نہیں کیا۔

تَوَرَّیْتُ تَرَّیْتُ۔ منہ: خوف کرنا ڈرنا۔ یہ: کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔

إِزْقَابٌ إِزْقَابًا۔ مِنَ الشَّیْءِ: شک کرنا۔

بِفُلَانٍ: تممت لگانا۔

اسْتَوْرَابٌ اسْتِوْرَابَةٌ۔ شک میں پڑنا۔ یہ: کسی سے کوئی شک کی چیز دیکھنا۔

الزَّیْبُ۔ تممت۔ شک۔ حاجت۔ زَبْنُ الْمُنُونِ۔ گردش زمانہ۔

الرَّیْبَةُ۔ شک و تممت۔ بے قراری۔ بے کلی۔ ج رَبٌّ۔

أَمْرٌ (رَبٌّ) ذُرَّانٌ وَالْمَعَالِمُ۔ زَائِدٌ یُرِیْبُ زَبْنًا وَتَوَرَّیْتُ۔ تاخیر کرنا، دیر کرنا۔

رَبٌّ۔ سھلانا۔ کہا جاتا ہے "رَبٌّ عَشَاكَانَ عَلَیْهِ" یعنی جس معاملہ میں وہ تمہاراں میں کو تابی کی۔ الشَّیْءُ: نرم کرنا۔

أَرَابَةُ إِزَابَةٌ۔ دیر کرنا۔ اسْتِوْرَابَةٌ اسْتِوْرَابَةٌ۔ دیر کرنے والا پانا۔ دیر کرنے والا سھلانا۔

الزَّیْبُ۔ مقدار۔ مہلت۔ کہا جاتا ہے "وَقَفَّ (زَبْنًا) صَلَّیْنَا" جب تک ہم نے نماز پڑھی وہ ٹھہرا رہا۔ و "مَا قَعَدْتُ عِنْدَهُ إِلَّا زَبْنٌ أَغْفَدُ یَسْتَعْنِی" میں اس کے پاس تسمہ باندھنے کی مقدار بیٹھا۔ یہاں لفظ ریث بفریاد کے اور فعل مضارع بغیر ان کے مستعمل ہے جیسے کہ یُرِیْدُ یَفْعَلُ بجائے یُرِیْدُ أَنْ یَفْعَلَ کے ہے۔

الزَّیْبُ۔ ست۔ دیر کرنے والا۔ زَجَلٌ (مُزَوَّیْتُ) الْعَیْنِیْنِ: کمزور نظر والا۔

زَاخٌ یُرِیْبُ زَبْنًا وَزَبْحَانًا وَزَبْحًا۔ ذلیل ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔

رَبَّیْحَةٌ۔ کمزور کرنا۔ العَرَبِیُّخ۔ سیگ کے اندر کی نرم چھوٹی ہڈی۔ ج أَمْرِیْحَةٌ۔

الزَّیْدُ۔ پہاڑ کا باہر کو نکلا ہوا کنارہ۔ ج زَبْوَدٌ۔ رَبِیْعٌ (رَبِیْعَةٌ وَزَادَةٌ وَزَبْدَةٌ) نرم ہوا۔

رَبَّیْرٌ۔ القَوْمُ: ارزانی و فراخ سالی میں پینچنا۔ زَبَّیْرٌ۔ القَوْمُ: جو ناپا عاب ہونا۔ زَبَّیْرُ الْجِلَادِ:

ارزانی و فراخ سالی والے ہونا۔ زَبَّیْرُ القَوْمِ: ارزانی و فراخ سالی میں پینچنا۔

الزَّوِیْرُ۔ رال جو بچے کے منہ سے نکلے۔ (الزَّوِیْرُ وَالرَّوِیْرُ وَالزَّارِ) ہڈی کا مغز جو لاغری کی وجہ سے پھل چکا ہو۔

الزَّوِیْرَةُ۔ زانو کی ہڈی کا مغز۔ زَائِسٌ یُرِیْبُ زَبْنًا وَزَبْحَانًا۔ سھکیرنا۔ چال چلنا۔ الشَّیْءُ: کسی چیز کی پوری حفاظت کرنا۔

القَوْمُ: برتر ہونا، غالب ہونا۔ الزَّیْسُ۔ سردار قوم۔

زَائِسٌ یُرِیْبُ زَبْنًا۔ مال و متاع جمع کرنا۔ ہ: کھلانا۔ پھاننا۔ مدد کرنا۔ غنی بنانا۔ ہ مَالًا:

دینا۔ میں حالہ: درست کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لَا یُرِیْبُ وَلَا یَبْیْرُ" فلاں نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ فائدہ و "لَا تَرَوْسَ عَلَیْ" میری ننگو میں دخل مت دو۔ () و آزَائِسٌ وَزَبَّیْسٌ

السَّهْمُ: پر لگانا۔ زَبَّیْسٌ السَّهْمُ فُلَانًا: کمزور کرنا۔ إِزْقَابُ۔ السَّهْمُ: تیر میں پر لگانا () وَتَرَّیْسٌ خوش حال ہونا۔

الزَّیْبُ۔ پندے کے پر۔ واحد (رَبِیْشَةٌ) ج

رَبَّیْشٌ۔ پندے کے پر۔ واحد (رَبِیْشَةٌ) ج

رَبَّیْشٌ وَآزْبَیْشٌ۔ الرِّیْشُ: لباس فاخرہ۔ متاع فاخرہ۔ سال۔ سرسبزی۔ معاش۔

الزَّوْشُ۔ پندے کے پر۔ ج آزْبَیْشٌ۔ جَمَلٌ رَاشٌ: کمزور اونٹ۔ زَجَلٌ زَائِسٌ: بالدار مرد۔

زُبْحٌ زَائِسٌ: کمزور نیزہ۔ ظَلِیْرٌ زَائِسٌ: پندہ جس کے پر نکل آئے ہوں۔ مَوْنُثٌ زَائِسَةٌ كَلَامًا (رَبَّیْشٌ وَرَبَّیْشٌ) بہت پتیوں والی گھاس۔

الزَّیْبُشُ۔ کان یا چہرہ پر بکھرتا بال۔ الزَّیْبَاشُ۔ مِنَ التَّوْفِیْقِ: کانوں پر بکھرتا بال والی اونٹنی۔

الرِّیْبَاشُ۔ عمدہ لباس و سامان۔ سرسبزی۔ معاش۔ سال۔

الزَّوْیَاشُ۔ تیروں پر لگانے والا۔ الزَّوْیَاشُ۔ فا۔ رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے کا بچہ لیا۔ پر دار تیر۔

الزَّوْیَاشُ۔ کانوں یا چہرہ پر بہت بال والا۔ مَوْنُثٌ زَبَّیْشٌ ج رَبَّیْشٌ وَزَجَلٌ آزْبَیْشٌ: مال و لباس والا مرد۔

الرِّیْبَاشُ وَالرِّیْبَاشُ۔ مِنَ السَّهْمِ: پر لگایا ہوا تیر۔ وَالتَّبْوَدُ الْمَوْنُثُ: پروں کے نقش والی چادر۔ الْمَوْنُثُ۔ بہت بالوں والا، کم گوشت والا۔ کمزور پیٹھ والا۔

الرِّیْبَاشُ مِنَ الرِّجَالِ: سر میں شاہی اعزاز کا پر لگانے والا۔

الزَّوْیَاطَةُ۔ ایک پاٹ کی چادر۔ پر لگایا ہوا چادر کی مانند ہو۔ کفن۔ ج زَبَّیْطٌ وَرَبَّیْطٌ۔

الزَّوْیَاطَةُ۔ ایک پاٹ کی چادر۔ زَاخٌ یُرِیْبُ زَبْنًا وَزَبْحَانًا وَزَبْحًا۔ الشَّیْءُ: نشوونما پانا۔ زائد ہونا۔ الزَّرْعُ: کھیتی کا بڑھنا () زَبَّیْعًا السَّرَابُ: سرب کا

کبھی ظاہر ہونا کبھی ناپید ہونا۔ ہنہ: ڈرنا۔ عَنَهُ وَإِلَیْهِ: واپس آنا۔ کہا جاتا ہے "هَرَبْتُ الْإِبِلَ فَصَاحَ بِهَا الزَّاعِمُ فَرَاغَتْ إِلَیْهِ" اونٹ بھاگ پڑے اور جردا بے آواز دی تو سب اس کے پاس واپس آ گئے و "فُلَانٌ لَا یُرِیْبُ لِكَلَامِكَ" فلاں تیری بات نہیں مانتا۔

زَبَّیْعٌ۔ القَوْمُ: جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھانا اور زیادہ

زَبَّیْعٌ۔ القَوْمُ: جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ ہونا۔

زَبَّیْعٌ۔ القَوْمُ: جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ ہونا۔

زَبَّیْعٌ۔ القَوْمُ: جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ ہونا۔


زَبَّیْعٌ۔ القَوْمُ: جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ ہونا۔

زَبَّیْعٌ۔ القَوْمُ: جمع ہونا۔ الطَّعَامُ: بڑھنا اور زیادہ ہونا۔

یادول کا ہمیشہ گھرا رہتا۔
 الزیم۔ مہ۔ زیادتی۔ تم کہتے ہو "فنی هذا العبدل زیم علی الآخر" اس گھمڑی میں دوسری سے زیادتی ہے۔ چھوٹی پہاڑی۔ قبر۔ قبر کا درمیان۔ تاریکی پھیلنے تک دن کا آخری حصہ۔ وقت کا سبب عرصہ۔ میڑھی۔ ذبح شدہ جانور کی ہڈی جو تقسیم کے بعد بیچ جائے اور قصائی کو دیدی جائے۔ (والریم) خالص سفید اونٹنی۔
 زان یزین زینا و زینا۔ الشی فلانا و علیہ وہ: غالب ہونا۔ تم کہتے ہو "زان ہواہ علی قلبہ" اس کی خواہشات اس کے دل پر غالب آئیں۔ زانت لنفسہ: جی متلانا۔ زان الموت علیہ وہ: موت کا آجانا۔
 رین۔ وہ: لاغیل مشکل میں پڑنا۔ مرنا۔ غم میں جلا ہونا۔
 آزان ازانة۔ القوم: ہلاک شدہ موسیٰ والی ہونا۔ صفت (مزینون)
 الزان۔ موزہ کی طرح جوتا۔
 الزین۔ میل کیل۔
 الزینة۔ شراب۔ ج زینات۔
 زجل (مہرین) علیہ: شخص جس کے مال موسیٰ ہلاک ہو گئے ہوں۔
 زاہ یزینہ زینہا۔ الزجل: آنا جانا۔ آمد و رفت کرنا۔
 زینہ تزینہا۔ آمد و رفت کرنا۔
 تزینة۔ السراب: سراب کا کبھی نمایاں کبھی ٹاہر ہونا۔
 ازنی ازانة۔ الزایة: جھنڈا گاڑنا۔ جھنڈا نصب کرنا۔
 زنی۔ الزایة: جھنڈا بنانا۔
 الزایة۔ علامت جو بچان کے لیے لگائی جائے۔ جھنڈا اور اس کی کنیت "أم الحزب" ہے اور یہ لواسے بڑا ہوتا ہے۔ ج زایات و زانی۔
 الزی۔ مملکت ایران میں ایک شہر کا نام۔ نسبت کے لیے (الرازی)
 الری۔ خوش منظر۔ کہا جاتا ہے "لفلان ری حسن" فلاں خوش منظر ہے۔ عین (زینہ) بہت پائی والا چشمہ۔

الریف۔ سبزہ دار۔ پانی کے قریب کی زمین۔ ج ازیاف و زیوف۔ الریف: کھانے پینے میں وسعت۔ مکان (زیف) سرسبز جگہ۔ مؤنث ریفة۔ زاق یزین زینا۔ الماء علی وجہ الارض: سطح زمین پر پانی کا بہنا۔ الشی: چمکنا۔
 السراب: سراب کا چمکنا اور نمایاں ہونا۔
 (زیف و زیوفا) بنفسہ: جان دینا۔
 ریفة۔ السراب: نمار منہ پانا۔
 ازیاف ازیافة۔ الماء: گرا نا۔
 تزیق۔ السراب: سراب کا چمکنا اور نمایاں ہونا۔
 الزیق۔ مہ۔ باطل۔ پانی۔ حُبز زیق: بغیر سالن کے خشک روٹی (الزیق و الزیق و الزیق) من کل شی: ہر چیز کا اول و افضل۔
 الریق۔ ج ازیاف و زینا و (الریقة) تھوک۔ کہا جاتا ہے "انی علی الریق" میں نمار منہ ہوں و "شربت علی الریق و علی ریق النفس أو ریقة النفس" میں نے نمار منہ پیا۔ الریق: قوت بقیہ جان۔
 الزائق۔ فا۔ خالص۔ نمار منہ والا مفلس۔ حُبز زائق: بغیر سالن کے خشک روٹی۔ الماء الزائق: وہ پانی جو نمار منہ پیا جائے۔
 الزیق۔ نمار منہ والا۔
 زان یزین زینا۔ الصیہ: بچے کے منہ سے لعاب بہنا۔ رال بہنا۔
 الریال۔ رال۔ منہ کا لعاب۔ چاندی کا ایک بڑا سکہ (اس کے منی کے لحاظ سے دخیل ہے)
 زام یزیم زینا۔ حمل البعیر: بوجھ کا بھگ پڑنا۔ مکان و منہ: دور ہونا۔ طیمہ ہونا۔
 بالمکان: اقامت کرنا۔ عنہ: ہٹ جانا اور کہا جاتا ہے "ہازام یفعل کذا" وہ ہمیشہ ایسا کرتا رہا اور یہ کان جیسا گھل کرتا ہے جیسے "اذا رمت منن لایزیم متیناً" بمعنی لایزال متیناً۔ (زیف و زینا و زینا) الحزب: زخم کا اگور باندھنا۔
 ریم۔ وہ: چھوڑ دیا جانا۔
 زیم تزیمنا۔ بالمکان: اقامت کرنا۔
 علی کذا: بڑھنا۔ السحابیة:

کرنا۔
 ازیاف ازیافة۔ الزرع: کھیتی کا بڑھنا۔
 اللة الزرع: کھیتی کو بڑھانا۔ القوم: بڑھی ہوئی کھیتی والی ہونا۔ الیل: اونٹوں کا ست۔ بچوں والے ہونا۔
 تزیع۔ ٹھہرنا۔ بے قرار ہونا۔ حیران ہونا۔
 الصاء: بہنا۔ السراب: سراب کا کبھی ظاہر ہونا کبھی ٹاہر ہونا۔ القوم: اکٹھا ہونا۔
 یذاه بالجوذ: فیاضی کرنا۔
 استیواع استیاعة۔ حیران ہونا۔ یذاه بالجوذ: فیاضی کرنا۔
 الزیع۔ مہ۔ سراب کی اضطرابی کیفیت۔ خوف۔
 من کل شی: ہر چیز کا اول و افضل۔ من الصخی: جاہت کے وقت کی روشنی و چمک۔
 من الذرع: دامن و آستین کی زیادتی۔
 الزیع: ہر چیز کی زیادتی اور کہا جاتا ہے (لیس لہ ریغ) اس کے لیے پیداوار نہیں۔
 الریع۔ بلند ٹیلہ۔ بلند جگہ۔ پہاڑ کا کشادہ راستہ۔
 وادی کی بلندی سے پانی بہنے کی جگہ۔ عیسائیوں کا گرجا۔ کبوتروں کا برج۔ ج ریاع و زقوق و ازیاع۔
 الریقة۔ بلند زمین۔ اکٹھی جماعت۔
 الزیمان۔ من کل شی: ہر چیز کا اول و افضل۔ ارض (مویقة) سرسبز والی زمین۔
 منظر (مرفیع) سرسبز لانے والی بارش۔ ناقة (زیفانہ و ہریاع) جلدی اور بہت دودھ والی اونٹنی۔
 زاع تزیع زینا۔ بھاننا۔
 زیع تزینا۔ التریفة: گھی میں تر ہونا۔
 تزینت۔ التریفة: گھی میں تر کرنا۔
 الریغ۔ گردوغبار۔ مٹی۔
 المرفیع۔ خاک آلود۔
 زاف یزین زینا و ازیاف ازیاف و تزینت۔ سبزہ دار زمین آنا۔ زاف الماشیة: سبزہ چرا۔
 زایف مزایفة۔ اللظنة: قسمت کے قریب ہونا۔
 ازیاف ازیافة و ازیاف ازیافا۔ المکان: سبزہ دار ہونا۔
 الزاف۔ شراب۔



زَاب (ف) زَابَا - وگدگاکے پینا۔ الذَّهْر
 پہ: زمانہ کا لٹنا۔ الماشية: موٹی ہانپنا۔
 يَحْضِلُهُ: بوجھ کھینچنا۔ وَاِزْدَابٌ اِزْدَابًا
 القزينة: منگ اٹھا کر تیز روڑنا۔
 زَابِرٌ القزوب: کپڑے کا رواں والا ہونا۔
 القزوب: کپڑے سے رواں نکالنا۔
 الزئير والزؤير والزؤير: کپڑے کا رواں۔ کہا
 جاتا ہے "فَهَبْتَ الْاَيَّامَ بِنَضْرَاقِهِ وَنَقَضْتَ
 زَيْتِيَه" زمانہ اس کی رونق کو لے گیا اور اس کے
 روئیں کو بھاڑ دیا۔ یعنی اس کا زمانہ پرانا ہو گیا۔
 زَابِقٌ الشئ: پارہ کی قلعی کرنا۔
 الزئيق والزئيق: پارہ۔
 زَاَج (ف) زَاَجًا - پشہم: بھڑکانا۔ آسنا۔
 ایک کو دوسرے پر مسلط کرنا۔
 زَاَدَةٌ (ف) زَاَدًا وَزَاَدًا وَزَاَدًا - گھبرا
 زبنا۔
 الزؤد والزؤد: گھبراہٹ۔
 لَيْلَةٌ (مَرْوُودَةٌ) خوف و گھبراہٹ کی رات۔
 زَاَر (ف) زَارًا وَزَارًا (س) زَيْرًا وَزَارًا وَزَارًا
 وَزَارًا وَزَارًا وَزَارًا - الأسد: شیر کا چنگھاڑنا۔
 صفت (زَيْرٌ وَزَيْرٌ مَزْرِي)۔
 الفحل: آواز کو گڑگڑانا۔
 الزارة: زَارَ كَلَامَ مَرَّةٍ - جنگل، جھاڑی، باغ۔
 مِنَ الْاَيْلِ وَالْعَنَمِ: اونٹوں اور بکریوں کا چھان
 ریوڑ۔
 زَاَرًا: سرواوردم اٹھا کر تیز چلنا۔ ہ: خوف
 دلانا۔ الشئ: ہلانا، حرکت دینا۔
 قَزَاَرًا: ڈر کر چھپنا۔ اپنے دونوں پلوؤں کو
 ہلاتے ہوئے چلنا۔ مئة: ڈر کر خاکساری
 کرنا۔ الشئ: ہلانا۔

زَاَط (ف) زَاَطًا - بہت شور مچانا۔
 زَاَفَةٌ (ف) زَاَفًا - جلدی کرنا۔
 اَزَافٌ اِزَافًا - غلبہ: ادھ مری کو مار ڈالنا۔
 اَزَافَةٌ بَطْلَةٌ: بوجھل کرنا کہ چل نہ سکے۔
 الزؤاف - جلدی کرنا۔ مَوْتٌ زؤَافٌ: جلدی کی
 موت۔
 زَاَك (ف) زَاَكًا - ناز سے چلنا۔
 قَزَاءٌ لَقَزَاؤُكَ - منہ: شرم کرنا۔
 زَاَم (ف) زَاَمًا وَزَاَمًا - جلدی مرنا۔ خوب ڈٹ
 کے کھانا۔ ہ: گھبراہٹ۔
 ہ البؤد: بیکپارہنا۔ لینی کلمتہ: ایسی
 بات کہنا جس کا حق یا باطل ہونا معلوم نہ ہو اور کہا
 جاتا ہے "مَا زَاَمَ بِحَرْفٍ" یعنی اس نے کچھ نہیں
 کہا۔
 زَيْمٌ زَاَمًا وَزَيْمٌ (س) زَاَمًا وَزَاَمًا - بہت
 گھبرانا۔ زَيْمٌ بَقْلَانٍ: چلانا۔ آواز دینا۔
 زَاَمَةٌ تَزِيمًا - گھبراہٹ میں ڈالنا۔
 اَزَاَمَةٌ عَلَى الْأَمْرِ: کسی کام پر مجبور کرنا۔
 المجرح: زخم کا ایسے ہونے تک علاج کرنا۔
 القوت (الزؤام) مکروہ موت۔ جلدی کی موت۔
 الزؤم: آنکھ۔ حسب۔ کہا جاتا ہے "طَعَنُوا فِي
 زَيْمَةٍ" لوگوں نے اس کی حسب کے متعلق طعن و
 تشفیج کی۔
 الزؤم: بہت خوفزدہ۔
 الزؤمة: حاجت۔ بہت کھانا پینا۔ ہوا۔ سخت آواز۔
 کلمہ۔ کہا جاتا ہے "مَا يَغْضِبُهُ زَاَمَةٌ" وہ اس کے
 ایک کلمہ کی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ الزؤمة مِنْ
 الطعمام کھانے کا ذخیرہ جو کافی ہو۔
 الزؤان: ایک قسم کا دانہ جو عموماً گیہوں کے کھیت
 میں آگیا ہے اور گیہوں کے مشابہ، عجم اس سے کچھ

چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے نیم بہت
 آتی ہے۔ واحد (زؤانة)
 زَاَمِي (ف) زَاَمِيًا - تکبر کرنا۔
 اَزَاَمِي - فَلَانًا بَطْلُهُ: بیعت بھر جانے کی وجہ
 سے حرکت پر قادر نہ ہونا۔
 زَب (ض) زَبِيًا - چرے اور کانوں پر بہت بال
 ہونا۔ الشمس: آفتاب کا ڈوبنے کے
 قریب ہونا۔
 زَب (ن) زَبًا - القزينة: منگ بھرنا۔
 الحضل: بوجھ اٹھانا۔
 زَبِيَتٌ - الشمس: آفتاب کا ڈوبنے کے
 قریب ہونا۔ العتب: انگور خشک کرنا۔
 الزؤجل: زیادہ بولنے سے جھاگ آنا۔ کہا جاتا ہے
 "تَكَلَّمْتُ فَلَانًا حَتَّى زَبَّتْ فَمُهُ" فلاں نے گفتگو
 کی یہاں تک کہ اس کے منہ سے جھاگ آنے
 لگا۔
 اَزَبٌ اِزْبَاتًا - العتب: انگور خشک کرنا۔
 الشمس: ڈوبنے کے قریب ہونا۔
 قَزَيْبٌ - العتب: انگور خشک ہونا۔
 الزؤجل: غصہ سے بھر جانا۔ فِي الْكَلَامِ:
 زیادہ بولنے سے جھاگ لگانا۔
 اِزْدَبَّتْ - اِزْدَبَاتًا القزينة: منگ کا بھر جانا۔
 الزؤب: مع۔ بالوں کی زیادتی و لمبائی۔
 الزؤبانية: ایک قسم کا بڑا چوہا جو سیرا ہوتا ہے اور
 چوری میں اس کی مثال دیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں
 "أَسْرَقَ مِنْ زُؤَابِيَةٍ"
 الزؤب: خشک انگور یا انجیر بیٹنے والے کو
 "زُؤَاب" کہتے ہیں۔ سانپ کے منہ کا زہر۔
 الزؤبينة: زؤب کا واحد۔ ایک قسم کا زخم جو ہاتھ
 میں ہوتا ہے۔ منہ کے جھاگ۔ الزؤبستان: سانپ

<p>داؤد علیہ السلام کی کتاب۔ الزَّبُورُ۔ کلمی ہوئی چیز۔ قوی مرد۔ مصیبت۔ ظریف۔ ہوشیار مرد۔ کچھڑ۔ الأَزْبُورُ۔ بڑے کندھوں والا۔ ایذا رسان۔ مؤنث زَبُورَاءُ۔ ج زُبُورُ۔ التَّبْوِيزَةُ۔ زَبُورٌ کا مصدر۔ تحریر۔ کتابت۔ المِزْبُورُ۔ قلم۔ المِزْبُورُ۔ بڑے کندھے والا۔ أَرْضٌ (مَزْبُورَةٌ)۔ بہت بھڑوں والی زمین۔ اَسَدٌ (مَزْبُورَانِي)۔ بہت ایال والا شیر۔ بِنُو۔ (مَزْبُورَةٌ)۔ کچھڑوں سے من بنایا ہوا کنواں۔ زَبُورُجٌ۔ الشَّمْسِيُّ۔ خوبصورت بنانا۔ مزین کرنا۔ آراستہ کرنا۔ الزَّبُورُجُ۔ نقش و نگار کی زینت۔ ہر خوبصورت چیز۔ سونا۔ سرخ پتلا ابدل۔ ج زَبُورَانِجُ۔ الزَّبُورُجِدُ۔ زمرہ کے مشابہ ایک قیمتی پتھر زَبُورَانِجُ۔ زَبُورُقٌ۔ الضُّوبُ۔ سرخ یا زرد رنگنا۔ الزَّبُورُفَانُ۔ پوری رات کا چاند۔ سبک داڑھی والا مرد۔ زَبُورَبٌ۔ غضبناک ہونا۔ گلست کھانا۔ الزَّبُورَبُ۔ لمبی کی مانند ایک جانور۔ ایک قسم کی کشتی۔ ج زَبُورَابٌ۔ زَبُورَبَطٌ (ض)۔ زَبُورَابٌ و زَبُورَابَطٌ۔ بڑا کڑوا۔ الزَّبُورَابَطَةُ و الزَّبُورَابَطَةُ۔ بَطُ۔ تَوَرُّعٌ۔ بد خلق ہونا۔ غضبناک ہونا۔ جھگڑا ہونا۔ الزَّبُورِيعُ۔ غصہ ور جھگڑا لو۔ الزَّبُورِيعُ۔ حقیر۔ بہت قد۔ الزَّبُورِيعَةُ۔ گولہ۔ اس کو اَمٌّ و زَبُورِيعَةٌ اور اَبُو زَبُورِيعَةَ بھی کہا جاتا ہے۔ ج زَبُورِيعُ۔ الزَّبُورِيعُ۔ مصیبتیں۔ الزَّبُورِيعَةُ۔ چرمی موزے یا جوتے کی نوک۔ الزَّبُورِيعِيُّ و الزَّبُورِيعَانِيُّ۔ بد خلق۔ الزَّبُورِيعُكُ و الزَّبُورِيعِيكِيُّ۔ شوخ چشم و بیباک مرد۔ زَبُورِيعُو۔ الزَّبُورِيعِيُّ۔ بد خلق۔ سخت۔ چہرے اور ابرو پر زیادہ بالوں والا۔ ماہہ مگر مجھ اور بقول بعض ایک جانور ہے جو اپنے سینگوں پر ہاتھی کو اٹھا لیتا ہے۔</p>	<p>عَنِ الزَّبِيدِ۔ خالص جھاگ سے علیحدہ ہو گیا۔ اس موقع پر بولتے ہیں جبکہ خبر مضمون کے بعد بھی بات معلوم ہو۔ الزَّبَادُ۔ ایک قسم کی خوشبو جو ایک جانور سے حاصل کی جاتی ہے اور یہ جانور لمبی کی مانند اس سے کچھ بڑا ہوتا ہے اور اس جانور کو بھی الزَّبَادُ و مَسْتَوُزُ الزَّبَادُ اور قِطْطُ الزَّبَادُ کہا جاتا ہے۔ الزَّبَادُ۔ ایک قسم کی نباتات۔ و تَبَادُ اللَّيْنِ۔ غیر مفید چیز اور اسی سے مثل ہے "اِخْتَلَطَ الخَالِيزُ بِالزَّبَادِ" یعنی عمدہ ردی سے مل گیا۔ الزَّبَدِيَّةُ۔ مٹی کا پیالہ۔ ج زَبَادِيٌّ۔ المِزْبَدُ۔ مکھن نکالنے کا آلہ۔ ج مَزْبَدٌ۔ المِزْبَدُ۔ فا۔ جھاگ چھیننے والا۔ بَحْرُ مَزْبَدٌ۔ جھاگ چھیننے والا سمندر۔ المِزْبَدِيدُ۔ مکھن والا۔ زَبُورَةٌ (ن) (ض) زَبُورَانِ۔ عَنِ الْأَمْوِ: کام سے منع کرنا۔ رُوکنا۔ السَّنَابِلُ: جھجھکنا۔ الزَّبُجْلُ: پتھر مارنا۔ البِنَاءُ: عمارت کو ایک کے اوپر ایک بنانا۔ عَلِيَّهِ: ممبر کرنا۔ و زَبُورٌ و اَزْدَبَرٌ (الکِتَابُ): لکھنا۔ زَبُورٌ (ک) زَبَاوَةٌ۔ بڑے جسم کا ہونا۔ صفت (زَبُورِي) أَزْبُورُ۔ الزَّبُجْلُ: دلیر ہونا۔ بڑے جسم کا ہونا۔ الكِنْدَشُ: موٹا کرنا۔ إِزْبَارًا و اَزْبَارًا۔ الكِنْدَشُ: کتے کے بال کھڑے کرنا۔ الشَّعْرُ: بال کھڑے ہونا۔ الزَّبُجْلُ: آمادہ شمرات ہونا۔ النَّبَاتُ و الزَّبُورُ: نباتات یا اوٹ کے بالوں کا آگنا۔ الزَّبُورُ۔ مہ۔ عقل۔ قوی۔ مضبوط۔ پتھر۔ تحریر۔ کلام۔ الزَّبُورُ۔ کتاب۔ ج زَبُورٌ عقل۔ کہا جاتا ہے "عَالَهُ زَبُورٌ" اس کو عقل نہیں۔ أَخَذَهُ (بِزَبُورِهِ) او بِزَبُورِهِ) یعنی اس نے اس کو پورالے لیا۔ الزَّبُورُ۔ بہت قوی۔ الزَّبُورَةُ۔ لوہے کا بڑا ٹکڑا۔ کاندھا اور پیٹھ ایال (شیر وغیرہ کی) نالی۔ ج زَبُورٌ و زَبُورُ۔ الزَّبُورُ۔ فرشتہ۔ گروہ۔ کتاب۔ ج زَبُورُ۔ حضرت</p>	<p>یا کتے کی آنکھ کے اوپر دوسیاہ نقطے۔ اور اسی وجہ سے سانپ کو "ذَاتُ الزَّبِينِيْنِ": کہتے ہیں۔ الأَزْبُ: چہرے اور کانوں پر بہت بال والا۔ مؤنث زَبَاءٌ۔ عام أَزْبُ: سر سبز اور زیادہ پیداوار والا سال۔ امثلہ عرب میں ہے "مِثْلُ أَزْبِ نَفْوَرٍ" یعنی چہرے پر بالوں والا اوٹ بد کنے والا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ بالوں کی زیادتی کے سبب سے اپنی دیکھی ہوئی چیز کو کچھ اور خیال کرتا ہے اور بد کہتا ہے۔ ذَاهِبَةٌ زَبَاءٌ: بڑی مصیبت۔ الزَّبِينِيُّ: کشش بیچنے والا۔ جھگڑے ہوئے خشک انگوڑی۔ خشک انگوڑی شراب۔ المِزْبُ و المِزْبُوتُ۔ فا۔ بہت مال والا۔ الزَّبُتْلُ۔ بہت قد۔ زَبِيدٌ (ن) زَبِيدًا۔ مکھن کھلانا۔ السِّقَاءُ مٹک میں مکھن نکلنے کے لئے بلوانا۔ زَبِيدٌ (ض) زَبِيدًا۔ السَّوْفِيُّ: ستو میں مکھن ملانا لُہ: مکھن دینا۔ زَبِيدٌ اللَّيْنُ: دودھ کے اوپر مکھن آنا۔ شِدْقُهُ: جڑے سے جھاگ لگانا۔ القَطْنُ: روکی دھتلا۔ أَزْبَدُ۔ البَحْرُ او القُدْرُ او القَمُّ: سمندر یا ہاٹی یا منہ سے جھاگ لگانا۔ کہا جاتا ہے "أَزْبَعِي الزَّبُجْلُ و أَزْبَدُ" یعنی اس کا غیظ و غضب جوش میں آیا اور اس نے دھکی دی۔ الشَّمْسِيُّ: بہت سفید ہونا۔ السِّدْرُ و نَحْوُهُ: جھگڑا لگانا۔ تَزْبَدُ۔ الشَّدْقُ: جڑے سے جھاگ لگانا۔ الزَّبُجْلُ: غضبناک ہونا اور دھکی دینا۔ الزَّبُدَةُ: مکھن لینا۔ الشَّمْسِيُّ: خلاصہ لینا۔ خلاصہ نکالنا۔ لگانا۔ البِجِينُ: قسم کھانے میں جلدی کرنا۔ الزَّبْدَةُ و الزَّبْدُ۔ مکھن۔ ج زَبْدٌ و زَبْدَةُ الشَّمْسِيِّ: چیز کا عمدہ و افضل حصہ اور اِخْتَلَطَ زَبْدُهُ بِخَالِيهِ ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے معاملہ میں حقیر ہو جائے۔ الزَّبْدُ۔ داد و دھش۔ الزَّبْدُ۔ ج أَزْبَادٌ و (الزَّبْدَةُ)۔ ج زَبْدٌ: جھاگ۔ میل۔ اور اسی سے مثل ہے "صَرَخَ المَحْضَلُ</p>
--	---	--

<p>الزَّبْنِي. جلدي۔ نشاط۔ ایک قسم کی چال۔ برائی۔ برامعالم۔ ج. اَزَابِي۔ زَبْتٌ (ن) زَبْتًا۔ آراستہ کرنا۔ تَزَوَّتْ۔ العزوفس۔ دلن کا آراستہ ہونا۔ زَبَحَ (ن) زَبْحًا۔ القواد: چھڑی لگانا۔ زَجَّ (ن) زَجًّا۔ دوڑنا۔ کسی کو نیزے کے پچھلے سرے کے لوہے سے مارنا۔ زَجَّةٌ بالوئح: کسی کو نیزہ مارنا۔ بالمشي: کوئی چیز پھینکانا۔ زَجَّ (ض) زَجَجًا وَاوْجًا: حاجتہ: لمبی اور باریک ابرو والا ہونا۔ صفت (اَزَج) مؤنث زَجَاءٌ ج. زَجَّ (لمبی بھوں کو بھی اَزَجَ کتے ہیں)۔ زَجَّجَ۔ الحاجب: ابرو کو لمبی اور باریک بنانا _____ المؤضج: درست و ہموار کرنا۔ کہا جاتا ہے "نَقَرَ حَشَبَةً ثُمَّ زَجَّجَ مَوْجِعَ النَّقْرِ" اس نے لکڑی کو کھودا پھر کھدی ہوئی جگہ کو ہموار کیا۔ اَزَجَّ الزومع: نیزے کا پچھلا حصہ لگانا۔ نیزے کا پچھلا حصہ لگانا۔ الزج: نیزے کا پچھلا ہوا اس کے مقابلہ میں اوپر کا لوہا سنان ہے) مثل ہے "جَعَلَ الزَجَّ قَدَامَ السِّنَانِ" یعنی اس نے ادنیٰ کو اعلیٰ پر فضیلت دی۔ کسئی کی نوک۔ تیر کا پھل۔ ج. زَجَّاجٌ وَاوْجَةٌ وَجَجَّجَةٌ اور بھی الزججاج کو رماح کے معنی میں بھی مجازاً استعمال کرتے ہیں۔ الزجاج والزجاج والزجاج۔ شیشہ (زجاجة زجاجة زجاجة) شیشہ کا گلا۔ شیشہ کا برتن۔ حَشَبِيَّةُ الزجاج: ایک قسم کی گھاس جس سے شیشہ صاف کیا جاتا ہے۔ الزجاجي۔ شیشہ بیچنے والا۔ الزجاج. شیشہ بنانے والا۔ الزجاجة. شیشہ گری کا پیشہ۔ الزجاج. پھل لگے ہوئے چھوٹے نیزے۔ سردھائے ہوئے گدھے۔ الازج۔ لمبی پنڈلیوں والا۔ لمبے لمبے قدم والا شتر مرغ۔ مؤنث زَجَاءٌ ج. زَجَّ المزج. چھوٹا نیزہ۔ زَمَجٌ (مَزَجٌ) پچھلا ہوا نیزہ۔ المزجة۔ وہ چیز جس سے ابرو کو باریک اور لمبی</p>	<p>تَزَابِنُ القَوْمِ: ایک دوسرے کو ہٹانا۔ الزبن. القوم: علیحدہ ہونا۔ کنارہ پر ہونا۔ تَزَبَنَةٌ. زبردستی غلبہ کرنا۔ استزبتة. غالب ہونا۔ الزبن. مہ۔ بیت زبن: گھروں سے علیحدہ گھر۔ مقام زبن: تنگ مقام جہاں کھڑے نہ ہو سکیں۔ الزبن. گوشہ۔ الزبن والزبن. بہت دفع کرنے والا۔ زَبَنًا. التافة: اونٹنی کی دونوں ٹانگیں۔ الزبن. پیشاب پاشنا نہ کوروکنے والا۔ الزبنة. سخت۔ جن و انسان میں سے سرکش۔ سپاہی ج. زَبَانِيَّةٌ۔ الزبانية. عند الغروب: سپاہی۔ ان فرشتوں کو بھی کہتے ہیں جو گنہگاروں کو ہانک کر جنم کی طرف لے جائیں گے۔ الزبون. من الثوق: دوھنے کے وقت بہت زانو مارنے والی اونٹنی۔ حَزْبٌ زَبُونٌ: سخت لڑائی۔ الزبون: بیوقوف غبی (اس معنی میں فصیح نہیں) الزبونة والزبونة: گردن اور کہا جاتا ہے "فِيهِ زَبُونَةٌ" اس میں تکبر ہے۔ زباني. العقرب: بچھو کا زنگ۔ زبانيا. العقرب: بچھو کے سر کی جانب وہ دونوں حصے جو آنکڑے کے مانند ہوتے ہیں۔ المزبنة. مہ۔ اندازہ سے بیچ کرنا۔ الزبتو. پست قدم۔ بد صورت و پست قدم بلاو صحبت۔ الزبتوي. بلا وقتہ۔ زبني (ض) زَبِنًا وَاوْجِي: ہ: اُحْثَا بَاكُنَا۔ زبناہ پشتر: حسرت لگانا۔ اَزَبَاہُ اَزَابًا۔ اُحْثَا۔ زبني. فَلَا تَا بَاكُنَا اللخم: شکار کے گڑھے میں گوشت کبیرنا۔ زبني و تزبني. الزبنة: شکار کا گڑھا کھودنا۔ تزبني فی الزبنة: شکار کیلئے گڑھے میں چھپنا۔ تزباني تزبينا. تکبر کرنا۔ الزبنة. دردوں کے شکار کا گڑھا۔ پست جس پر پانی نہ چڑھے۔ ج. زبني. کہا جاتا ہے "بَلَّغَ السِّنْبُلُ الزبني" یعنی معاملہ بہت سخت ہو گیا۔</p>	<p>الزبوعی۔ لمبے پر والا تیر۔ زَبِنٌ (ض) زَبِنًا. شغوفہ: بال اکھیرنا۔ ہ فی السخن: قید کرنا۔ تنگی ڈالنا۔ ہ فی السخی: داخل کرنا۔ السخی بالسخی: مخلوط کرنا۔ ملانا۔ الفقل: کالا کھولنا۔ المزأة یولیدھا: بھینک دینا۔ الزریق. فی التبت: گھر میں داخل ہونا۔ _____ فی الحبالہ: جال میں پھنسا۔ چھیننا۔ الزبونة. من التبت: مکان کا گوشہ۔ الأزبق. بیوقوف جو اپنی حماقت کی وجہ سے اپنی داڑھی کے بال نوپے۔ المزبونة والزبنة. من اللخی: نوچی ہوئی داڑھی۔ زَبِلٌ (ض) زَبَلًا وَاوْجِلٌ. الأرض: زمین میں کھاڈا انا۔ وَاوْجِلٌ السخی: اُحْثَا۔ الزابل والزابل. پست قدم۔ الزبال والزبال۔ وہ چیز جس کو چوٹی منہ میں اُٹھا کر لے جائے۔ کہا جاتا ہے "مَا أَصَابَ مِنْهُ زَبَالًا" اس نے اس سے کچھ نہیں پایا۔ الزبل والزبلہ والزبیل۔ گور کھاڈ۔ الزبیل والزبیل. خشک کدو اندر سے خالی جس میں عورتیں روئی وغیرہ رکھتی ہیں۔ الزبلہ. لقمہ۔ الزبالة. تھوڑا پانی۔ کہا جاتا ہے "مَا لِي السبئر زبالة" کوئیں میں تھوڑا پانی نہیں ہے۔ الزبیل. ج. زَبِلٌ وَاوْجِلَانٌ وَاوْجِلٌ ج. الزبیل ج زَبَابِيلٌ وَاوْجِلٌ ج. الزبیل ج. الزبیل ج. الزبیل ج. نوکرا۔ برتن۔ توشہ دان۔ المزبلة والمزبلة. کوڑا خانہ۔ ج. مزابل۔ زَبَنَةٌ (ض) زَبَنًا. دفع کرنا۔ ٹکر لگانا۔ علیحدہ کرنا۔ زَبَنَتِ التافة: اونٹنی کا دوھنے کے وقت زانو سے مارنا۔ کہا جاتا ہے "زَبَنَ عَشَاءٌ مَعْرُوفَةٌ" اس نے ہم سے بہتر سلوک کو روک لیا۔ زَبَنَ العنصر: درخت پر چل پھینا۔ أزبن. یبتہ عن الظریق: راستہ سے ہٹ کر علیحدہ مکان بنانا۔ زَابَنَةٌ مَزَابِنَةٌ. ایک دوسرے کو ہٹانا۔ ایک دوسرے سے ٹکرانا۔ درخت پر چل پھینا۔</p>
--	---	---

تَزَجِي تَزَجِيًا بِالشَّيْءِ: اکتفا کرنا۔ قاعدت کرتا۔
 الْمَزْجِي: تھوڑی چیز۔ رومی چیز۔ مؤنث مَزْجَاةٌ۔
 الْأَزْجِي: اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ أَزْجِيٌّ مِنْ فُلَانٍ بِهَذَا الْأَمْرِ" یعنی فلاں شخص اس کام کو فلاں سے زیادہ نافذ کرنے والا ہے۔
 الْمَزْجِي: کمزور جس کو کاموں میں رغبت دلانے کی ضرورت ہے۔
 زَحَاةٌ (ان) زَحَاةٌ: دفع کرنا، ہٹانا یا جلدی سے کھینچنا۔ عَنِ مَكَانِهِ: علیحدہ کرنا۔
 زَحَبٌ (ف) زَحَبًا وَ زَحْوَبًا: إِلَيْهِ نَزْدِيكٌ ہوتا۔
 زَحْوٌ (ف) ض) زَحِيْرًا وَ زَحَاْرًا وَ زَحَاْرَةً: پیش میں جلا ہونا۔ عمل یا سختی کی وجہ سے آہ بھرا۔
 زَحَوْتُ بِهِ أُمَّهُ: جنتا۔ زَحْوٌ بِالْوَفْحِ: سر پر نیزہ مارنا۔
 زَجْرٌ: جملائے پیش ہونا۔
 زَحْرٌ: پیش میں جلا ہونا۔
 زَاخِرَةٌ: دشمنی کرنا۔
 تَزَحَّرَ: پیش میں جلا ہونا۔ عَنَّا أُمَّهُ: جنتا۔
 الزَّحَارُ وَالزَّحِيرُ: پیش۔
 الزَّحْرُ وَالزَّحَارُ وَالزَّحْوَانُ: بخیل اس وجہ سے کہ وہ سوال کے وقت آہ بھرتا ہے۔
 زَحْرَحَهُ: عَنِ مَكَانِهِ: دور کرنا۔ ہٹانا۔
 تَزَحَّرَحَ: دور ہونا۔ ہٹنا۔
 الزَّحْرَحُ: دوری۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَزَحْرَحُ مِنْهُ" وہ اس سے دوری پر ہے۔
 الزَّحْرَاحُ: دور۔
 زَحْفٌ (ف) زَحْفًا وَ زَحْفَانًا وَ زُحُوفًا: آہستہ آہستہ زانو یا سر پر رکھنا۔ إِلَيْهِ: چلنا۔ کہا جاتا ہے "زَحْفَ الْعَشْكَوَالِي الْعَدُوَّ" لشکر دشمن کی طرف گیا گیا کثرت کی وجہ سے گھٹ کر چلا۔ الشَّيْءُ: آہستہ آہستہ کھینچنا۔
 التَّبَعِيَّةُ: اونٹ کا تھلکا۔ صفت مذکر۔
 زَاخِفٌ وَ زَاخِفَةٌ: مبالغہ کیلئے ہے۔ صفت

الزُّجْلَةُ: لوگوں کی جماعت۔ ہرج مز کھڑا۔ دونوں آنحوں کے درمیان کی کمال۔ حالت۔ ج زُجْلٌ۔
 مَسَافَةٌ زُجُونٌ: دور کی مسافت۔
 لَزَجَلٌ وَ الزَّجَلُ: حلقہ کی مانند لکڑی جو رستی کے سرے پر باندھتے ہیں۔ نیزے کے نچلے حصہ کے اوپر ہاتھ۔ فوج کا سردار۔ ج زَوَاجِلٌ۔
 الزُّجَالَةُ: چھوٹے نیزے سے مارنے والے لوگ۔
 الْمَزْجَلُ وَ السُّزْجَالُ: چھوٹا نیزہ۔
 الْمَزْجَلُ: کوہ کی روانگی کی جگہ۔ نَاقَةٌ (زُجْلَاءٌ) تیز رفتار اونٹنی۔
 الزُّجَيْجِلُ: کمزور بدن والا مرد۔
 الزُّوْجِلُ: کمزور دست بدن والا مرد۔
 الزُّجْنَجِلُ: آئینہ۔
 زَجَمٌ (ان) زَجَمًا: آہستہ بولنا۔ آہستہ بات سنانا۔
 کہا جاتا ہے "سَكَّتَ فَمَا زَجَمَ بِحُجُوبٍ" وہ خاموش رہا ایک حرف نہیں بولا۔
 الزُّجَمُ: ایک قسم کا پرندہ۔
 الزُّجْمَةُ وَ الزُّجْمَةُ: آہستہ بات۔ کہا جاتا ہے "لَمْ أَسْمَعْ لَهُ زُجْمَةً" میں نے اس سے ایک بات بھی نہیں سنی۔ وَهُوَ لَا يُخَالِفُهُ بِزُجْمَةٍ: وہ اس کی ایک کلمہ کی بھی مخالفت نہیں کرتا۔
 الزُّجْمَةُ: رطوبتیں جو پختے کے ساتھ حکم ہار سے نکلیں۔
 قَوْسٌ (زُجُومٌ) کمزور آواز والی کمان۔
 الزُّجْمَةُ: نرم و خمی آواز۔ اس کا استعمال نفی میں ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے "مَا سَمِعْتُ لَهُ زُجْمَةً" میں نے اس سے ایک کلمہ نہیں سنا۔
 زَجَا (ان) زَجَوًا وَ زَجِيًّا تَزْجِيَّةً وَ أَرْجِيًّا إِزْجَاءً وَ إِزْجِيًّا: ہ۔ ہٹانا۔ کہا جاتا ہے "تَخَفَّ تَزْجِيًّا يَا مَلِكُ" تم اپنا زمانہ کس طرح بسر کرتے ہو؟" وَ "زَجِيًّا فُلَانٌ حَاجِبِي" فلاں نے میری حاجت کے حصول کو آسان کر دیا۔ أَرْجِيًّا الْأَمْرُ: مؤخر کرنا۔ أَرْجِيًّا الدِّزْهَمُ: در اہم کاراج کرنا۔
 زَجَا (ان) زَجَوًا وَ زَجَوًا وَ زَجَاءً الْأَمْرُ: کامیاب ہونا۔ آسان ہونا۔ الْحَرَاجُ: خراج کا آسانی سے جمع ہونا۔ فُلَانٌ: ہنسی منقطع ہونا۔

کریں۔
 الزُّجْبَةُ: کلمہ۔ کہا جاتا ہے "مَا سَمِعْتُ مِنْهُ زُجْبَةً" میں نے اس سے ایک کلمہ نہیں سنا۔
 زَجْرَةٌ (ان) زَجْرًا: عَنِ كَذَا: روکنا۔ منع کرنا۔
 ذَاثُنَا: چلا کر دھکارنا۔ الرِّبْحُ السَّخَابُ: ہوا کا بادلوں کو اٹھا کر لانا۔ الكَلْبُ وَ بِالْكَلْبِ: کتے کو ڈانٹنا۔ دھکارنا۔ العَطِيَّةُ: شگون لینے کیلئے پرندہ کو اڑانا۔ (اگر وہ اپنی جانب سے پرندہ اڑاتا تو اچھا شگون لیتے تھے ورنہ برا) زَجْرُ الرَّجُلِ: کمانت کرنا۔ کہتے ہیں "زَجْرَتٌ أَنْ يَكُونُ كَذَا وَ كَذَا" یعنی میں نے ایسا ہونے سے ڈرایا تھا۔
 إِزْجَرَهُ: منع کرنا، روکنا۔ چلا کر دھکارنا)۔
 وَ انْزَجِرْ رُكْبَانًا: تَزَجِرُ الْقَوْمَ عَنِ الشَّيْءِ: ایک دوسرے کو برائی سے منع کرنا۔
 الزُّجْرُ: مہ۔ (۔) وَ الزُّجْرُ: ایک قسم کی بڑی چھلی۔ ج زُجُورٌ۔
 الزَّاجِرُ: زَاجِرًا لِإِنْسَانٍ: ضمیر۔ أَبُو زَاجِرٍ: کوا۔
 الزُّجَارُ: بہت ڈانٹنے والا۔
 نَاقَةٌ (زُجُورٌ) اونٹنی جو بغیر ڈانٹے ہوئے دو دو نہ دے۔
 الْمَزْجَرُ: ڈانٹنے کی جگہ (۔) وَ الْمَزْجَرَةُ: ڈانٹنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے "ذَكَرَ اللَّهُ مَزْجَرَةَ لِلْمَشِيْطَانِ" اللہ کا ذکر شیطان کے ڈانٹنے کا وسیلہ ہے۔
 زَجَلٌ (ان) زَجَلًا: ہ۔ وہ یہ تیر مارنا۔ دفع کرنا۔
 ہ بِالْوَفْحِ: نیزہ مارنا۔ الحَمَامُ: کبوتر کو دور جانے کے لیے روانہ کرنا۔ ایسے کبوتر کو حَمَامٌ الزَّاجِلُ یا حَمَامَةُ الزَّجَالِ کہتے ہیں۔
 زَجَلٌ (س) زَجَلًا: خوش ہونا۔ گانا۔ شور و فریاد کرنا۔ صفت (زَجَلٌ وَ زَاجِلٌ)۔
 الْقَوْمُ: کھیل کو کرنا۔
 الزَّجَلُ: شعر کی ایک قسم۔ سَخَابُ ذُو زَجَلٍ: گرجنے والا بادل۔ زَجَلُ الْعَيْنِ: جھٹوں کی گنگناہٹ۔
 الزُّجْلَةُ: لوگوں کا شور۔ ج زَجَلَاتٌ۔

مَوْنَتْ زَاخِفَةَ جِ زَوَاجِفٍ وَ (زَخُوفٍ) جِ
 زُخْفٌ _____ السُّهْمُ: تیر کا نشانہ سے ورے
 گرا پھر گھٹ کر نشانہ کو لگتا۔ صفت (زَاجِفٍ)
 جِ زَوَاجِفٍ۔
 أَرْحَفُ: اپنے انتہائی مطلوب پر پہنچنا _____ ہ
 طَلُولُ السَّفَرِ: تھکا رہنا _____ البَعِيْزُ: اونٹ کا
 ٹھکانا _____ الرَّجُلُ: ٹھکے ہوئے اونٹ یا
 گھوڑے والا ہوتا۔ أَرْحَفُ بَنُو فُلَانٍ: بڑا لشکر
 بنا۔
 زَاخِفْنَا هُمْ: ایک دوسری کی طرف گھسنا۔
 تَرَحَّفَ وَارْذَحَفَ: اَلَيْهَ: چلنا۔
 تَرَاخَفَ: الْقَوْمُ فِي الْحَزْبِ: بعض کا بعض
 کی طرف جانا اور قریب ہونا۔
 الزَّخْفُ: مہ۔ بڑا لشکر جو دشمن کی طرف
 جائے۔ جِ زُخُوفٍ۔
 الزُّخْفَةُ: قریب قریب کا سفر کرنے والا۔ جو دور
 نہ جائے۔
 الزَّخَافُ: فِي الْعُرُوضِ: علم عروض کی
 اصطلاح میں وہ تغیر جو سب خفیف یا ثقیل کے
 دوسرے حرف میں واقع ہو۔
 الرَّخَافُ: گھسنے والا۔ مَوْنَتْ زَخَافَةٌ۔
 الرَّخَافَاتُ مِنَ الْخَيْتَانِ: ریگنے والے جانور۔
 الْمَرْخَفُ: گھسنے کی جگہ جِ مَرَاخِفٍ۔
 مَرَاخِفُ الْخَيْتَاتِ: سانپوں کے ریگنے کی جگہ
 مَرَاخِفُ السَّحَابِ: قطرہ گرنے کی جگہ۔
 بَعِيْزٌ (مِرْخَافٍ) اُونٹ جس کو ٹھک جانے کی
 عادت ہو۔ جِ مَرَاخِفٍ وَ مَرَاخِيفٍ۔
 زَحَلَكُ (ف) زَحَكًا: بِالْمَكَانِ: اقامت کرنا
 _____ مِثْنَةً: قریب ہونا _____ عَنَّةً: بعید ہونا
 _____ البَعِيْزُ: اونٹ کا ٹھکانا۔
 أَرْحَكُ: ٹھکے ہوئے جانور والا ہونا۔
 زَاخِكَةٌ: عَنِ نَفْسِهِ: دور کرنا۔
 تَرَاخَكَ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے بعید
 ہونا۔ ایک دوسرے سے قریب ہونا (مُشَدِّ)
 زُحَلٌ (ف) زُحُولًا: عَنِ مَكَانِهِ: زائل ہونا۔
 دور ہونا۔ علیحدہ ہونا۔ صفت (زَاجِلٍ وَ زَجَلٍ)
 زُحَلٌ (ف) زُحَلًا: ٹھکانا۔
 أَرْحَلُهُ اِلَيْهِ: پناہ لینا۔

أَرْحَلَهُ وَ زَحَلَهُ: دور کرنا۔
 تَرَحَّلَ: عَنِ مَكَانِهِ: علیحدہ ہونا۔ دور ہونا۔
 زُحَلٌ: ایک سیارہ کا نام جس کو بلندی اور بعد کے
 لیے بطور مثال کے بیان کرتے ہیں _____
 وَ زُجَلٌ زُحَلٌ: کام سے علیحدہ رہنے والا خواہ اچھا
 کام ہو یا بُرا۔
 الزُّحَلَةُ: کلاہوں سے علیحدہ رہنے والا۔ قریب
 قریب کا سفر کرنے والا۔ اپنے سوراخ میں دم کی
 طرف سے داخل ہونے والا جانور۔ مَسَافَةٌ
 (زُحُولٌ) دور کی مسافت۔
 الزُّحُولِيُّ: تیز۔ علیحدہ رہنے والا _____
 وَ الزُّحُولِيُّ: ٹھک پھسلنے کی جگہ۔ الزُّحُولِيُّ: ہلکے
 پھلکے جسم والا۔
 الْمَرْحَلُ: وہ جگہ جہاں کہیں سے علیحدہ ہو کر
 جائیں۔ زَحَلٌ كَامِدٍ رَيْسِي: کہا جاتا ہے "اِذَا لَمْ
 يَكُنْ عَنِ شَفْرَةِ السَّيْفِ مَرْحَلًا" جبکہ تلوار کی
 دھار سے علیحدہ ہونے کی جگہ نہ ہو۔
 زُخْلَفُ: الشَّيْءُ: لاهٹا۔ علیحدہ کرنا _____
 الْإِنَاءُ: برتن کو بھرنا۔ زُخْلَفٌ فِي الْكَلَامِ:
 جلدی جلدی بولنا۔
 تَرَزَخْلَفُ: لاهٹنا۔ علیحدہ ہونا۔
 تَرَزَخْلَفَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا مائل مغروب
 ہونا۔ دوپہر میں ڈھلنا۔
 الزُّخْلُوفَةُ: چکنی ڈھلوان جگہ جس پر لڑھکا
 جائے۔ جِ زَخَالِفٍ وَ زَخَالِفٍ۔
 الزَّخَالِفُ: چھوٹے چھوٹے کپڑے جو چوٹی
 کے مشابہ ہوتے ہیں۔
 زَخَلِقُ وَ زَخَلِكُ وَ تَرَزَخَلِقُ وَ تَرَزَخَلِكُ
 وَ الزُّخْلُوفَةُ وَ الزُّخْلُوكَةُ: بمعنی زَخْلَفٌ وَ
 تَرَزَخْلَفٌ وَ الزُّخْلُوفَةُ۔
 الزُّخْلُوفَةُ: لمبے تختے کا جھولا جس کے دونوں
 جانب بیٹھ کر چھولیں۔
 الزَّخْلُوقُ: تیز رفتاری۔
 زَحَمَةٌ (ف) زَحَمًا وَ زَحَامًا: ٹنگی کرنا۔ بھیڑ
 کرنا۔
 زَاخَمَةٌ: ٹنگی کرنا۔ زَاخَمَ الْخَفْسَيْنِ: قریب
 ہونا۔
 أَرْدَحَمَ وَ تَرَاخَمَ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر

ٹنگی کرنا۔ ایک دوسرے کو دھکیلنا۔
 الْأَمْوَاجُ: موجوں کا آپس میں ٹکرائنا۔
 الزَّحْمُ: مہ۔ بھیڑ کرنے والے لوگ۔
 الزُّحَمَةُ: بھیڑ۔ ٹنگی۔
 الزَّحَامُ: مہ۔ يَوْمَ الزَّحَامِ: قیامت کا دن۔
 المِزْحَمُ: بہت بھیڑ کرنے والا (أَبُو مَرْجَمٍ)
 ہاتھی۔
 زَحَمَوُ الْقَبْرَةَ: ٹھک بھرنا۔
 زَحَنٌ (ف) زَحْنًا: دیر کرنا _____ ہ عَنِ
 الْمَكَانِ: دور کرنا۔
 تَرَزَحَنُ: دیر کرنا۔ مِثْلًا _____ عَنِ مَكَانِهِ: بلنا
 _____ عَلَى الشَّيْءِ وَ عَنَّةً: ناپسندیدگی کے
 باوجود کرنا۔
 زُجَلٌ زُحْنٌ: پست قدم۔ مَوْنَتْ زُحْنَةٌ۔
 الزُّحْنَةُ: سخت گرمی۔ مع ساز و سلیمان کے
 قافلہ۔ کہا جاتا ہے "لَهُمْ زُحْنَةٌ" ان لوگوں کے
 لیے دیر کا کام ہے۔ "وَلَكُذْ زُحْنَةٌ نَعْدُ" جب کہ سفر
 کا ارادہ کرے اور کوئی کام نکل آئے جس سے
 تاخیر ہو جائے۔
 الزُّحْنَةُ: وادی کا موڑ۔
 زَحٌ (ن) زَحًا: غھبٹناک ہونا _____ بِالْأَيْلِ:
 اونٹوں کو تیز چلانا _____ ہ: گڑھے میں دھکیلنا
 _____ الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔
 زَحٌ (ن) زَحًا وَ زَحِينًا: الْحَمْرُ: چنگاری کا
 تیز چلنا۔
 الزَّحُ: مہ۔ كَيْدٌ: غم۔ غمضب۔
 الزُّحَّةُ: كَيْدٌ: غم۔ غمضب () _____
 وَ الْمَرْحَةُ وَ الْمَرْحَةُ: ہوی۔
 زَحْرُخُ الْمَرْأَةُ: جماع کرنا۔
 زَحْرٌ (ف) زَحْرًا وَ زَحْرًا وَ تَزَحْرًا:
 البَحْرُ: دریا کا چڑھنا اور موج مارنا _____
 الْوَادِي: لمبی اور پانی سے بھری ہوئی ہونا
 _____ الْبَيْتَاتُ: نباتات کا لمبا ہونا _____
 الْقَوْمُ: جنگ یا روانگی جنگ کیلئے پر جوش ہونا
 _____ الْحَزْبُ أَوْ الْقِدْرُ: جوش مارنا _____
 ہ: بھرنا۔ موٹا کرنا۔ آراستہ کرنا۔ خوش کرنا _____
 بِمَاجِنْدَةٍ: فخر کرنا۔
 زَاخَرَةٌ: فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا جاتا ہے

الزَّرَّةُ - دانت کے کائے کا نشان - عقل۔
 الزَّرَاةُ - ہر وہ چیز جو پورا پر پھینکی جائے اور وہ اسے چمت جائے۔
 الزَّرَارُ وَالزَّرِيرُ - سرج الفسم - تیز خاطر۔
 الزَّرِيرُ: ایک قسم کی گھاس جو رنگے کے کام میں آتی ہے۔ واحد (زَّرِيرَةٌ)
 الزَّرَاةُ - جانوروں کو کھنے والی کھسی۔
 حِصَاةُ (مَزْرٍ) دانت سے کائے والا گدھا۔
 زَرَامٌ اِزْرَامٌ اِزْرَامًا وَاِزْرَامًا - اِزْرَامًا -
 كَلَامُهُ اَوْ ذَمُّهُ اَوْ بَيِّنَةٌ - گفتگو یا خون یا پیشاب کا منتقع ہونا۔
 زَرَبٌ (ن) زَرَبًا - المَوَاشِي - جانوروں کو بازے میں داخل کرنا۔ اَلْيَغْنَمِ: بکریوں کے لیے بازہ بنانا۔
 زَرَبٌ (س) زَرَبًا المَاءُ - پانی کا برسا۔
 اِزْرَبٌ - بازہ میں داخل ہونا۔
 اِزْرَبٌ - التَّبَاتُ - نباتات کا زرد ہونا۔ سبزی ملی ہوئی سرخ ہونا۔
 الزَّرْبُ - مہ - داخل ہونے کی جگہ - شکاری کے چھپنے کی جگہ (وَالزَّرْبُ) بازہ - ج زُرْبُ
 الزَّرْبُ - پانی بننے کی جگہ۔
 الزَّرَابُ - جِنْدُ العَامِيَةِ - لمبی پتی گلی - فصیح لفظ الزَّرْبُ ہے۔
 الزَّرْبِيُّ وَالزَّرْبِيَّةُ - سمنڈ - گدے کی عملی نمالچہ - ہر وہ چیز جو بچھائی جائے اور اس پر ٹیک لگائی جائے۔ مِنَ التَّبَاتِ - گھاس جو زرد ہو یا سبزی آمیز سرخ ہو۔ ج زَرَابِيَّةُ۔
 الزَّرْبِيَّةُ - جی حضوری۔
 الزَّرْبِيَّةُ - بازہ - شیر کی بھائی - شکاری کے چھپنے کی جگہ۔ ج زَرَابٌ وَزَرَابٌ۔
 المِزْرَابُ - پر نالہ۔ ج مِزْرَابِيَّةُ۔
 الزَّرْبُونُ - جوتا۔
 زَرَبٌ (ف) زَرَبًا - گھاگھوٹنا۔
 زَرَبَةٌ - قریب دینا۔ القَوْمُ - شرکاء مکان میں سے کسی کامکان لینا اور کسی کا زمین۔
 الزَّرْبُونُ - انکور کی شٹیاں۔ واحد۔
 (زَرَبُونَةٌ) ایک قسم کا سرخ رنگ۔ شراب

أَزْدَرٌ - لوٹنا۔ (أَصْدَرٌ میں ایک لغت ہے)
 الْأَزْدَرَانُ - دونوں مونڈھے۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ يَصْطَرِبُ أَذْدَرِيَّةً" یعنی وہ خالی ہاتھ آیا۔
 إِزْدَرَمٌ - لگانا۔
 زَدَعٌ (ف) زَدَعًا - المِزْرَاةُ - جماع کرنا۔
 المِزْدَعُ - کاموں کو جلدی سر انجام دینے والا۔
 تَزْدَعٌ - تکیہ لگانا۔ تکیہ بنانا۔
 المِزْدَعُ - تکیہ (مضدغ میں ایک لغت ہے)
 أَرْدَفٌ - اللَيْلُ - تاریک ہونا۔ اَسْدَفٌ میں ایک لغت ہے)
 الزَّرْدِقُ - سچائی (الصدق میں ایک لغت ہے)
 زَدَانٌ (ن) زَدَوًا - الضَّبِيُّ المَجْوُزُ وَبِالْمَجْوُزِ: سچے کا خروٹ کو گڑھے میں پھینک کر کھینا۔
 المِزْدَاةُ وَالمِزْدَاءُ - اخروٹ سے کھینے کا گڑھا۔
 أَرْدَى اِرْدَاءً - سلوک کرنا۔ بھلائی کرنا۔
 زَرْدٌ (ن) زَرْدًا - القَمِيضُ - کرتے میں گھنڈی لگانا۔
 بِنٌ لَگَانَا - الشَّيْءُ - جمع کر کے باندھنا۔
 المِصْطَاعُ: سلمان کو بھانڑنا۔ الزَّرَجُلُ: دھسکارنا۔ دانت سے کائنا۔ زَرَّةٌ بِالرُّمَحِ: نیزہ مارنا۔
 الشَّعْرُ: بال اکھیرنا۔ نوچنا۔ عَيْنُهُ: آنکھ تنگ کرنا۔
 زَرْدٌ (س) زَرْدًا - الزَّرَجُلُ: گھنڈی لگانا۔ اپنے مخالف پر سختی کرنا۔ عقل و تجربہ بڑھانا۔
 زَرْدٌ (ض) زَرْدًا - بَسْنَانُ الرُّمَحِ: نیزے کے پھل کا چکینا۔ العَيْنُ: آنکھ چمکنی ہونا۔
 أَرْدَى القَمِيضُ: بِنٌ لَگَانَا۔
 زَرْدٌ - قَوْبِيَّةُ: بِنٌ لَگَانَا۔ بِنٌ بِنَانَا۔
 تَزَرَّرَ القَمِيضُ: بِنٌ لَگَانَا۔
 الزَّرَّةُ گھنڈی۔ بِنٌ - ج اَزْرَارٌ وَزُرُورٌ - ول کے نیچے کی چھوٹی ہڈی۔ گڑھا جس میں شانے کی ہڈی گھومتی ہے۔ سرین کا وہ کنارہ جو گڑھے میں ہے۔
 خِمْرٌ کی گڑیوں میں سے ایک گڑی زَرُّ السَّيْفِ: تلوار کی تیزی۔ زَرُّ الشَّيْءِ: وہ چیز جس پر کسی چیز کا مدار ہو۔ کہا جاتا ہے "هُوَ زَرُّ مَالٍ" وہ مال کے مصالح کا جاننے والا ہے۔ و"أَعْظَاهُ الشَّيْءُ بِنَزْرَةٍ" اس نے اس کو ساری چیزوں سے دی۔ و"جَاءَ فَلَانٌ بِنَزْرَةٍ" فلاں گھص بڑاتا آیا۔
 الزَّرَّةُ - دانت کا کائنا۔ تلوار کی دھار کا زخم۔

"زَاخُوهُ فَرَحُوهُ" اس نے اس سے فخر کرنے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔
 تَزَخَّرَ - البَحْرُ اَو الوَادِي: دریا یا وادی کا چڑھنا اور موج مارتا۔
 تَزَخَّرَ - بِمَا عِنْدَهُ: فخر کرنا۔
 الزَّاخِرُ - فَا - کریم - شرمیں - بھرا ہوا۔ چمکنے والا۔
 مِنَ الشَّرَفِ: بلند عزت۔
 زَوَاخِرُ الوَادِي: وادی کی گھاس۔
 الزَّخَارُ - زَخْرٌ كَامٌ مَبْلَغٌ۔
 نَبَاتٌ (زَخْوَرٌ وَوُخْوَرٌ) وَوُخْوَرِيٌّ اِسْمٌ اَلْمِزْجَانِ پودہ۔ زَخْرِيٌّ التَّبَاتِ: پودہ کی تروتازگی جبکہ گھنجان ہو اور گھونڈ نکل آئے۔ کہا جاتا ہے "قَدْ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زَخْرَانِيَّتَهَا" جبکہ زمین کی نباتات لمبی و طویل ہو جائے۔ کلام زَخْوَرِيٌّ: شکر بارندہ مسمی آمیز گفتگو۔
 الزَّخْوِيَّةُ - لمبا۔
 زَخْوَفَةٌ - خوبصورت بنانا۔ آراستہ کرنا۔ مزین کرنا۔ الكَلَامُ: جھوٹ سے آراستہ کرنا۔
 تَزَخَّوْفٌ - الزَّرَجُلُ: مزین ہونا۔
 الزَّخْوَفُ - سونا۔ چیز کی خوبصورتی۔
 زَخْوَفٌ الكَلَامُ: جھوٹ سے آراستہ کی ہوئی گفتگو۔ زَخْوَفُ الْأَرْضِ: زمین کے سبزی کے رنگ۔ ج زَخْوَفٌ - الزَّخْوَارُفُ: بکشتیاں پانی پر اڑنے والے کیڑے۔ زَخْوَارُفُ العَاءِ: پانی کے راستے۔
 زَخْفٌ (ف) زَخْفًا وَزَخْفِيًّا - تکبر کرنا۔
 زَخْفٌ - فِي القَوْلِ: بہت بولنا۔
 تَزَخَّفٌ - مزین ہونا۔ آراستہ ہونا۔ خوبصورت بنانا۔
 المِزْخَفُ - فخر کرنے والا تکبر۔
 زَخْمَةٌ (ف) زَخْمًا - سختی سے ہٹانا۔
 زَخِمٌ (س) زَخْمًا وَأَزْحَمٌ - اللِّحْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ صفت (زَخِمٌ)
 إِزْدَحَمَ - الحِمْلُ: بوجھ اٹھانا۔
 الزَّخْمَةُ - بدبودار گوشت۔
 الزَّخْمَاءُ - بدبودار عورت۔
 الزَّرْبُ - حصہ۔ ج اَزْدَابٌ۔
 زَرْدٌ - لوٹنا۔ (أَصْدَرٌ میں ایک لغت ہے)

النَّاقَةُ الرَّحْلُ: اونٹنی کا کجاوہ پیچھے کی جانب ڈال دینا۔

زَرِقًا (س) زَرِقًا الرَّحْلُ: ابدھا ہونا۔

عَيْنُهُ: نیلگوں ہونا _____ الشَّيْءُ: نیلگوں ہونا۔ آسمانی رنگ کا ہونا۔

أَزْرَقَتْ: عَيْنُهُ نَحْوِي: آنکھ کا پھرنا اور سفیدی کا ظاہر ہونا _____ النَّاقَةُ حَمَلُهَا: اونٹنی کا کجاوہ کو پیچھے کی جانب ڈال دینا۔

أَزْرَقَ إِزْرَاقًا وَإِزْرَاقًا إِزْرَاقًا: نیلگوں ہونا _____ عَيْنُهُ نَحْوِي: بمعنی أَزْرَقَتْ عَيْنَهُ: إِزْرَاقًا: پیچھے ہٹنا۔ چت لیتنا۔ السَّهْمُ: آر پار ہونا۔

الزَّرَقُ وَالزَّرَقَةُ: آسمانی رنگ۔ نیلگوئی۔ الزَّرَقُ: کمر کے کچھ اوپر کی سفیدی۔ الزَّرَقَةُ: تعویذ کا سرہ۔

الزَّرَقُ: ایک شکاری پرندہ۔ جِ زَرَّاقٍ: گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی۔ حِيزَ نِظَرِ وَالِا۔

الأَزْرَقُ: نیلگوں۔ مَوْنَتْ زُرْقَاءَ: جِ زُرُقٍ: الأَزْرَقُ: باز۔ نَصْلُ أَزْرَقٍ: چکلیلا تیر کا پھل۔

مَاءُ أَزْرَقٍ: صاف پانی۔ عَدُوُّ أَزْرَقٍ: سخت دشمن (اور یہ اس وجہ سے کہ رومیوں اور دہلیویوں کی آنکھیں نیلگوں ہوتی ہیں اور ان میں اور عربوں میں سخت دشمنی تھی۔ اس وجہ سے ہر سخت دشمن کو عدو ازرق کہنے لگے) اور چونکہ نیزے اور ہمالے میں بھی نیلگوئی ہوتی ہے اس لیے ان پر بھی زرق کا اطلاق کرتے ہیں۔

الزَّرْقَاءُ: أَزْرَقُ كَالْمَوْنَتْ: جِ زُرُقٍ: شراب۔ آسان۔

الزَّرَقِيُّ وَأَبُو زُرُقٍ: چڑیا سے کچھ بڑا ایک پرندہ۔

الزَّرَقَاءُ: دودھ اور زیتون کے تیل میں ترکیب کیا ہوا شہید۔ ایک جانور جو بلی کے مشابہ ہو تا ہے مگر اس کی ٹانگیں چھوٹی اور جسم لمبا ہوتا ہے۔

الزَّرَاقَةُ: وَالْعَامَّةُ تُسَمِّيْهَا الزَّرَاقَةَ: پیکاری (عوام اسے زاروقہ کہتے ہیں۔)

الزَّرَاقَةُ: خارجوں کا ایک گروہ جو نافع بن الازرق کے ساتھی تھے اور مخالفین کو قتل کرتا اور ان کی عورتوں کو قید کرنا جائز سمجھتے تھے۔ واحد

(الأزرقی)

المِزْرَاقُ: چھوٹا نیزہ _____ مِنَ الْأَبَاعِرِ: پیچھے کی طرف بوجھ ڈالنے والا اونٹ۔ جِ مِزْرَاقِيُقٍ:

زَرَقَفَ وَإِزْرَقَفَ: جلدی کرنا۔

زَرَقَلُ زَرَقَلَةً: لِحِي بِحَقِيْقِي: حق رہنا۔ الشَّهْرُ: بالوں کو جھاڑنا۔

الزَّرَقِمُ: بست نیلگوں آنکھ والا (قد کرو مَوْنَتْ) جِ زَرَّاقِمٍ:

الزَّرَاقِمُ: بست سے سانپ۔

زَرَقًا (س) أَزْرَقًا: بد خلق ہونا۔

زَرَمَهُ (ض) زَرَمًا وَزَرَمَهُ وَأَزْرَمَهُ: کانا۔ کہتے ہیں "زَرَمَتْ بِهِ أُمُّهُ" اس کی ماں نے اس کو جتا۔

وَزَرَمَهُ الدَّهْرُ: زمانہ نے اس سے خیر منقطع کر دیا۔ زَرَمَ (س) أَزْرَمًا: الشَّيْءُ: منقطع ہونا۔

إِزْرَمَهُ: لگانا۔

إِزْرَامٌ: غضبناک ہونا۔ سَکْرَانًا:

الزَّرَمُ: ذمیل تھوڑے جتنے والا۔ بَخِيلٌ: تنگ حال۔

الأَزْرَمُ: منقطع۔ بلی۔

الزَّرِمُ: تھوڑے جتنے والا۔ ذمیل۔

الزَّرْمُوجُ: جوتا۔

الزَّرْمَانِقَةُ: بے آستین کا ادنیٰ جبہ۔

الزَّرْمَبُ: ایک خوشبو دار پودہ۔ جس کو زخمل العجوز بھی کہتے ہیں۔ زعفران۔ تیل گائے۔

الزَّرْمِيْحُ: ہڑتال۔

زَرَزَقَ زَرَزَقَةً: الأَرْضُ: چھوٹی نہر سے پانی دینا۔ کنوئیں پر زرنوق لگانا۔ دیکھئے "زرنوق"

فَلَأْنَا اللَّيْسَانَ: کسی کو لباس پہنانا۔

تَزَرَّقَ: بالیشیب۔ کپڑے پہنانا _____ الرَّحْلُ: چھوٹی نہر سے اجرت پر آب کشی کرنا۔

الزَّرْنُوْقُ: چھوٹی نہر۔ چکی کا دستہ۔

الزَّرْنُوْقَانُ: کنوئیں کے من پر کے دو کھجے جس میں چرئی لگی ہوئی ہوتی ہے۔

الزَّرْنَقَةُ: مہ۔ زیادتی۔ حسن کمال۔

الزَّرْنِيْقُ: ہڑتال۔

الزَّرَاهِمَةُ: آزاد لونڈی۔ نوجوان موٹی عورت۔ زَرَيٌ (ض) زَرِيًّا وَزَرِيًّا وَزَرَانَةً وَمَزْرِيَّةً وَمَزْرَاقَةً وَأَزْرِيًّا وَتَزْرِيًّا: عَلَيْهِ عَمَلُهُ: کسی کام

پر عتاب کرنا۔ عیب لگانا۔ أَرَزَى بِالْأَمْرِ: سستی

کرنا۔ أَرَزَى بِهِوَأَرَزَاهُ: عیب لگانا۔ حق گھٹانا۔

زَارًا فَمَزْرَاقَةً: ایک دوسرے کو عتاب کرنا۔

إِرْدَزَى وَإِسْتَزَرَى: ہ۔ حقیر سمجھنا۔

الزَّرِي: ناکارہ۔ ذمیل۔

المِزْرَاءُ: لوگوں کو عیب لگانے والا۔

رَظَانٌ (ن) رَظَا: الذَّنْبَانُ: کبھی کا بھینچنا۔

الرَّظَا: جاٹ (ہندوستان کی ایک قوم) واحد رَظِيٌّ:

رَعَبٌ (ف) رَعْبًا: الإِنَاءُ: برتن کو بھرنا _____ القِرْبَةُ: بھگ بھری ہوئی اٹھانا۔

القِرْبَةُ: پانی گرانا _____ السَّبِيْلُ: سیلاب کا وادی کو بھر دینا _____ الوادِي: وادی کا بھر جانا

الشَّيْءُ: کانا _____ لَهُ مِنَ الْمَالِ:

رَعْبًا وَرَعْبَةً وَرَعْبَةً: مال کا کچھ حصہ دینا _____ العَرَاةُ: جماع کرنا۔

رَعَبٌ (ف) رَعْبِيًّا: العَرَابُ: کائیں کائیں کرنا۔

تَرَعَّبَ: غضبناک ہونا۔ شادماں ہونا۔

فِي أَكْبَلِهِ وَشَرِيْهِ: بست کھانا پینا۔ القَوْمُ: قوم کمال میں سے اپنا اپنا حصہ لینا۔

إِرْوَعَبَ الشَّيْءُ: کات لینا۔

الرَّعْبَةُ وَالرَّعْبَةُ وَالرَّعْبُ: مال کا ایک حصہ۔

الأَرَعْبُ: پستہ قد کینہ۔ مونا۔ مَوْنَتْ رَعْبَانًا جِ رَعْبَتٍ:

سَبَلٌ "رَاعِبٌ وَرَعْوَبٌ" وادی کو بھرنے والا سیلاب۔

الزَّرَاعِبُ: اچھا رہبر۔

رَعِيْبٌ: التحلُّلُ: شد کی کھپوں کی بھینچنا۔

الرَّعْوَبُ: پستہ قد کینہ۔

الرَّعِيْبُ وَالرَّعِيْبُ: سفید بال۔ پتلا بال۔ ہر چیز میں کا خوبصورت۔ زیتون۔

الرَّعِيْبِيُّ: ایک قسم کا تیر۔

رَعْبِيٌّ: القَوْمُ: پریشان و متفرق کرنا۔

الشَّيْءُ: جدا جدا کرنا۔

تَرَعَّبِيٌّ: الشَّيْءُ مِنْ يَدِي: بکھر جانا اور متفرق

<p>الزُّعْفُوفَةُ: زُعْفُوفٌ. زُعْفُوفٌ كَالسَّمِ الزُّعْفُوفِ مِنَ الخَيْلِ: بَسِطٌ وَرِجْلٌ مِثْلُ مُحَوَّرٌ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا يَحْتَمِلُهُ بِنَاحَتَيْهِ وَالا- الزُّعْفُوفِيُّ: خَوْفُوهُ- المِزْعُوقُ: زَمِينٌ كُحُولٌ كَالوَادِرِ- الزُّعْفُوفَةُ: بَهِيمَةٌ كَالوَادِرِ- الزُّعْفُوكَةُ: وَرِيءٌ اِقَامَتْ: كَمَا جَاءَتْ "لَهُمْ زُعْفُوكَةٌ فِي الْمَكَانِ" اِنْ كُوجِدَ فِيهَا كَمُحَمَّرَةٌ هِيَ- الزُّعْفُوكُوكَةُ: مَوْنٌ اَوْنَتْ: بِسْتٍ تَدْحِيضُ زُعْفُوكِ وَزُعْفُوكِيكٍ- الْاَزْعُوكِيُّ: بِسْتٍ تَدْحِيضُ زُعْلٌ (س) زُعْلَانٌ: شَادِمٌ هُوَا _____ مِنْ الْمَوْضِعِ وَغَيْرُهُ: يَتَّكِبُ دَلٌّ وَمُضْطَرِبٌ هُوَا- اَزْعُوكَةٌ: شَادِمٌ كَرَامٌ مِمَّنْ كَانُوا: يَثَابُ- تَزْعَلُ: شَادِمٌ هُوَا- الزُّعْلُ وَالزُّعْلَانُ وَالْاَزْعُوكِيُّ: شَادِمٌ- الزُّعْلُ: يَهْوِكُ سَ بِلْبَالَةٍ وَالا- الزُّعْلَةُ: اِيكٌ سَالٌ كَيْ تَمُتُ سَ بِحَدِّ دِيْنِهِ وَالا- مَادَةُ شَرْمُغٌ- الزُّعْلُوقُ: سَبَكٌ- الزُّعْلُجَةُ: بِدْخَلِي- الزُّعْلُوقِيُّ: شَادِمٌ- زُعَمٌ (ف ن) زُعْمًا وَزُعْمًا وَزُعْمًا وَ مَزْعَمًا: يَجْجُوتُ كَرَامًا وَرَاكِرًا مَكْلُوكٌ يَأْتِي بِزِيوٍ فِي جَسَدِهِ كَجَمُوتٍ هُوَا كَالْبَقِيْنِ هُوَا اِسْتِمَالٌ كَمَا جَاءَتْ هِيَ (زُعَامَةٌ) _____ عَلَيَّ الْقَوْمِ: سِرْوَارِثًا- زُعَمٌ (ف ن) زُعْمًا بِالْمَعَالِي: كَفِيْلٌ هُوَا- ضَامٌ هُوَا _____ اللَّبْنُ: دُوودٌ مَزِيْدٌ هُوَا لَئِن- زُعَمٌ (س) اَزْعَمًا لِيُوِيهِ: اِلَّا جُ كَرَامًا- اَزْعَمٌ: الْاَهْتَرُ: مُمْكِنٌ هُوَا _____ اللَّبْنُ: دُوودٌ مَزِيْدٌ هُوَا لَئِن- هُوَا مَالِجٌ هُوَا _____ عَلَيَّ الْقَوْمِ: سِرْوَارِثًا- الْاَزْعَمِيُّ: بَهِيْمَةٌ كَالْبَهِيْمِثَا هُوَا: كَلْمَانًا- اَزْعَمَةٌ الْمَعَالِي: مَالٌ كَالضَامِنِ يَثَابُ-</p>	<p>زُعْفُوفٌ (ف) زُعْفُوفًا: كَالْمُحَوَّرِثَا _____ الْجَمْرَانُ: كَدَمٌ كَارِيْمًا- الزُّعْفُوفَةُ: مَوْتٌ زَاعِيظٌ: جَلْدِي كِي مَوْتِ- زُعْفُوفَةٌ (ف) زُعْفُوفًا وَزُعْفُوفَةً: اَزْعَمَةٌ- فُورًا مَارِ وَالا- زُعْفُوفٌ الْجَمْرَانُ وَاَزْعَمٌ عَلَيَّ: زُخْمِي كُو فُورًا مَارِ وَالا- زُعْفُوفٌ الْحَدِيْثُ: زِيَادَةٌ كَرَامًا وَرِ جَمُوتٌ يُوَانُ- مَسْمُومٌ (زُعْفُوفٌ) زُهْرٌ قَاتِلٌ- مَوْتٌ (مَزْعُوفٌ) فُورًا اَبْلَاكٌ كَرَامَةً وَالا مَوْتِ- سَيِّفٌ مَزْعُوفٌ: فُورًا اَبْلَاكٌ كَرَامَةً وَالا مَوْتِ- الزُّعْفُوفُ: اَبْلَاكٌ كِي يَجْمَعُهَا- الزُّعْفُوفَةُ: تَهْرُجُ سَ كُو كُوْنِيْسَ كِي فِي مِيْنِ وَاَلِ دِيْسِ اَو رَا سَ بِرِيْمَةٍ كَرِيْمَةٍ وَغَيْرُهُ صَافٌ كَرِيْمٌ- المِزْعُوفَةُ: سَابِ- زُعْفُوفَةٌ: زُعْفُرَانٌ سَ رَنَكْنَا _____ الطَّلَاعُ: كَمَانَةٌ فِي زُعْفُرَانِ وَاَلَا- تَزْعُوفُ: زُعْفُرَانٌ سَ خُوشِيوَادِرٌ هُوَا- زُعْفُرَانٌ سَ رَنَكْنَا هُوَا هُوَا- الزُّعْفُرَانُ: زُعْفُرَانٌ: كِيْسَرٌ جَ زُعْفَاغِرِ- زُعْفُرَانٌ الْحَدِيْدُ: لُوْسَةٌ كَارِيْمٌ- زُعْفُوقٌ: الزُّعْفَاغِقُ: يَجْمَعُ بِدْخَلِي جَ زُعْفَاغِقِ- زُعْفُوقٌ (ف) زُعْفُوقًا: يَجْمَعُ اَبْلَاكًا هُوَا وَزُعْفُوقٌ بِهِ: ذُرْمَانٌ _____ بِالْمَدَائِيَةِ: يَتَهْرُجُ اَبْلَاكًا- الرِّيْحُ التُّوَابُ: هُوَا كَامِيْسِي كُو اَثْرَانًا _____ هُوَا العُقُوبُ: يَجْمَعُ كَاوَسَا _____ الْقِيْدَرُ: اَبْنَذِي مِيْنِ بِسْتٍ تَمَكُّ وَاَلَا- زُعْفُوقٌ (ك) زُعْفَاغِقَةٌ: پَانِي كَابَسَةٌ حِدْ كَهَارِي هُوَا- زُعْفُوقٌ (س) زُعْفُوقًا: شَادِمٌ هُوَا _____ وَزُعْفُوقٌ وَالزُّعْفُوقِيُّ: الزُّعْفُوقِيُّ: رَا تِ مِيْنِ ذُرْمَانِ- الزُّعْفُوقِيُّ: آغَمٌ يَرُدُّ هُوَا وَرِيْمَةٌ يَجْمَعُهَا- اَزْعَمَةٌ: ذُرْمَانٌ: خُوفٌ وَاَلَا _____ السِّيْرُ: حَلِي مِيْنِ جَلْدِي كَرَامًا _____ الْقِيْدَرُ: اَبْنَذِي مِيْنِ بِسْتٍ تَمَكُّ وَاَلَا- الزُّعْفُوقِيُّ: رَا تِ مِيْنِ ذُرْمَانِ وَالا- شَادِمٌ هُوَا كَمُ كَمُ رَا يَجْمَعُ هُوَا- الزُّعْفُوقَةُ: يَجْمَعُ الزُّعْفَاغِقُ: بِسْتٍ كَهَارِي پَانِي هُوَا يَثَابُ سَ كَمُ</p>	<p>هُوَا جَوَانُ- زُعْفُوقٌ: بِيْسْتٍ اَو رِيْمَةٍ كَرَامَتِي وَالا- بِيْسْتٍ سَابِ- كَرَامَتِ- ذُوَل- رُوْمِي كَالوَادِرِ- جَ زُعْفَاغِقِ- زُعْفُوقَةٌ (ف) زُعْفُوقًا وَاَزْعَمٌ: بِيْسْتٍ قَرَارِ كَرَامَتِ- يَثَابُ وَهَكَذَا: زُرْعُوقٌ الزُّعْفُوقِيُّ: يَجْمَعُهَا- اَزْعَمَةٌ اِلَى الْمَعْصِيَةِ: كَمَانَةٌ بِرَا اَبْلَاكًا- اَزْعَمٌ: بِيْسْتٍ قَرَارِ هُوَا يَثَابُ- الزُّعْفُوقِيُّ: بِيْسْتٍ قَرَارِي- المِزْعُوقُ: اِيكٌ جَمُوتٌ بِرَا نَهْ نَهْرِي وَالا مَوْتِ- الزُّعْفُوقَةُ: بِدْخَلِي- زُعْفُوقٌ (س) زُعْفُوقًا وَاَزْعَمٌ وَاَزْعَمًا: شَعْرَةٌ اَوْ رِيْمَةٌ: كَمُ اَو رِيْمَةٌ هُوَا يَالِ يَابِرٌ وَاَلَا هُوَا- زُعْفُوقٌ الزُّعْفُوقِيُّ: بِيْسْتٍ خَيْرِ هُوَا- الزُّعْفُوقَةُ وَالزُّعْفَاغِقَةُ: بِدْخَلِي وَتَدْحِيضُ مَزِي- الزُّعْفُوقِيُّ وَالاَزْعَمُ: كَمُ اَو مَقْرَبٌ يَالُو وَالا- مَوْضِعٌ زُعْفُوقٌ وَاَزْعَمٌ: كَمُ پِيَادِرٌ وَاَلَا جَمُوتِ- مَوْتٌ زُعْفُوقٌ وَزُعْفُوقًا- الزُّعْفُوقَةُ: بِبِيْسْتٍ مُضْطَرِبٌ اَو خَوْفُوهُ رَسَبٌ وَاَلَا اِيكٌ بِرَا- الزُّعْفُوقَانُ: نُوُجُوَانٌ لُوُكٌ- الزُّعْفُوقِيُّ: اِيكٌ وَرِخْتِ جَسَدِ كَا يَجْمَعُ سِرْخِ رِيْمٌ كَا اَو رِيْمَةٌ كَمُ بِيْسْتٍ هُوَا يَالِ جَسَدِ كِي وَجِ سَ مَقْرَبٌ هُوَا هِيَ- وَاحِدٌ (زُعْفُوقَةٌ) زُعْفُوقٌ زُعْفُوقٌ: بِدْخَلِي بِيْسْتٍ خَيْرِ مَرْدِ- جَ زُعْفَاغِقِ- الزُّعْفَاغِقِيُّ: كُو رُوْمِي وَغَيْرُهُ جَوَانِ مِيْنِ لُكٌ جَاءَتْ اَو جَمُوتِ- الزُّعْفُوقَةُ: اِيكٌ كَسْمٌ كَا شَتَالُو- بِيْحُوْرٌ (زُعْفُوقٌ) بِسْتٍ پَانِي وَالا سِنْدَرِ- زُعْفُوقَةٌ زُعْفُوقَةٌ: سَخْتٌ حَرَكَتِ رِيْمَتِ- _____ الْاِبْلُ فِي السِّيْرِ: اَبْلَاكًا- تَزْعُوقٌ: يَثَابُ- الزُّعْفُوقَةُ: مَسْمُومٌ جَ زُعْفَاغِقِ- الزُّعْفَاغِقُ: زَمَانٌ كِي مَصَابِ- رِيْمٌ (زُعْفُوقٌ) وَزُعْفُوقٌ وَزُعْفَاغِقٌ وَزُعْفَاغِقٌ وَ زُعْفَاغِقَانٌ اَنْدَمِي- هُوَا كَا طُوقَانٌ _____ جَزْمِي زُعْفُوقٌ: يَتَهْرُجُ- بِيْحُوْرٌ (زُعْفُوقٌ) بِسْتٍ پَانِي وَالا سِنْدَرِ-</p>
---	--	--

زَعْرَدٌ زَعْرَدَةٌ: البَعِيْرُ: اونٹ کا اپنے حلق میں آواز کو لواتے ہوئے بلبلانا۔
 زَعْرَغُ الكَلَامِ: ریک بگنگو کرنا۔ الشَّيْءُ: چھپانا۔ بِالزَّجْلِ: تسمیر کرنا۔ ٹھٹھا کرنا۔
 الزُّعْفُغُ: سبک و چست آدمی۔
 حسب و نسب میں مطعون۔
 الزُّعْفُغُ: پستہ قد حقیر ایک پرندہ۔
 الزُّعْرُغِيَّةُ: عجم میں سے بعض لوگوں کی زبان۔
 الزُّعْرُغِيَّةُ: ایک قسم کا کھانا جو کھئی اور آئے سے تیار کیا جاتا ہے۔
 زَعْفُ (ف) زَعْفًا: المَاءُ: پانی بہت ہوتا۔
 فِي حَدِيثِهِ: بہت بولنا اور جھوٹ بولنا۔
 کہا جاتا ہے "زَعْفٌ كَلَامًا كَثِيْرًا" و "زَعْفٌ لَنَا مَالًا كَثِيْرًا" اس نے بہت بکواس کی اور اس نے ہم کو بہت مال دیا۔
 بِالزُّومِخِ: بیڑہ مارنا۔
 اِذْ زَعَفَ الشَّقِيُّ: سارالے لینا۔
 الزُّعْفُ: مہ۔ کشادہ اور لمبی زرہ۔ بادل جو برس چکا ہو اور ابھی گھرا ہوا ہو۔
 دِنْعٌ (زَعِيْفٌ) كَشَاهِدٌ: مضبوط، اچھے حلقوں والی زرہ اور کہا جاتا ہے "ذُرُوْعٌ زَعْفٌ وَزَعْفٌ وَآزَعَاْفٌ وَزَعُوْفٌ"
 الزُّعْفُ: جھپٹیاں۔ درخت کی کمزور شاخیں۔
 الزُّعَاْفُ: بہت بولنے والا۔
 الزُّعْفَةُ وَ الزُّعْفَةُ: کشادہ یا مضبوط زرہ۔
 المِزْعَافُ: حریص۔ بہت خواہش مند۔
 زَعْفَلٌ زَعْفَلَةٌ: جھوٹ بولنا۔
 زَعْلٌ (ف) زَعْلًا: المَاءُ: پانی بار بار گرانا۔
 الشَّرَابُ: کھلی کرنا۔ الصَّبِيْءُ اُمَّةٌ: بچہ کا دودھ پینا۔
 اَزْعَلُ المَاءُ: گرانا۔ اَلْأُمُّ وَ لَدَهَا: بچہ کو دودھ پلانا۔ الظَّائِرُ فَرَحُهُ: پرندہ کا بچہ کو چوگرانا۔ الشَّرَابُ: کھلی کرنا۔
 الزَّعْلُ: دھوکا۔
 الزُّعْلِيُّ: دھوکا دینے والا۔
 الزُّعْلَةُ: کھلی کا پانی جو مٹ سے پھینکا جائے۔ ایک مرتبہ پانی گرانے کی مقدار۔
 الزُّعْلُوْلُ: بچہ۔ ہلکا پھلکا جلد باز مرد۔ ج

الزَّعْبُ: پردوں یا بالوں کے روئیں۔ واحد (زَعْبَةٌ)
 الزُّعْبِيُّ وَ الزُّعْبَانَةُ: چھوٹے روئیں۔ کہا جاتا ہے "مَا اصْبَتْ مِنْهُ زَعْبَانَةٌ" میں نے اس سے روئیں کے برابر بھی کچھ حاصل نہیں کیا۔
 الأَزْعَبُ: روئیں دار۔ مؤنث زَعْبَاءُ۔ ج زُعْبٌ۔ تھا چوڑہ۔
 الزُّعْبَةُ: گھری۔
 الزُّعْبِيُّ: پستہ قد بچل۔
 زُعْبُو: القُوْبُ: روئیں دار ہوتا۔
 الزُّعْبُو وَ الزُّعْبُو وَ الزُّعْبُو: رواں۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ الشَّقِيُّ يَزْعِبُهُ" اس نے ساری چیز لے لی۔
 الزُّعْبِيَّةُ: عِنْدَ العَامَّةِ: رواں۔ کلمہ محرف ہے صحیح لفظ الزَّعْبُ ہے۔
 الزُّعْبِيَّةُ: کھن۔
 زَعْدٌ (ف) زَعْدًا: السِّقَاءُ: منگ چھوڑنا۔
 فَلَآئِنَا: گلا دینا۔ البَعِيْرُ: اونٹ کا تخت بلبلانا۔ النَّهْرُ: دریا کا چڑھنا۔ موج مارنا۔
 ہاں کَلَامِ: آکسانا۔ بھڑکانا۔
 اَزْعَدتِ: المَرْأَةُ وَ لَدَهَا: عورت کا بچہ کو دودھ پلانا۔
 الزُّعْبِيَّةُ وَ الزُّعْبِيَّةُ: کھن جو منگ کو دبانے سے اس کے منہ سے نکلے۔
 نَهْرٌ (زَعَادٌ) بہت پانی والا چڑھا ہوا دریا۔
 المِزْعَبَةُ: غھبناک۔
 زَعْدَبٌ: غھبناک ہونا۔ سوال کرنے میں اصرار کرنا۔
 الزُّعْدَبُ: سخت آواز۔ بہت جھاگ۔ پھللی ہوئی چرلی۔
 الزُّعَادِبُ: بہت جھاگ۔ کہہ کر المنظر مرد۔
 زَعْرُو (ف) زَعْرُوًا: الشَّقِيُّ: جھین لینا۔ زبردستی لینا۔ الشَّقِيُّ: بگھرت ہونا۔ البَعِيْرُ: چڑھنا۔ موج مارنا۔
 الزُّعْرُ: مین کھل شقی۔ زیادتی۔ افراط۔
 الزُّعَارُ: کٹیچوا۔
 زَعْرَبٌ: ہنسا۔
 الزُّعْرَبُ: بہت پانی۔ بٹر زَعْرَبٌ وَ زَعْرَبَةٌ: بہت پانی والا کتوں۔

زَاعَمَهُ: بھڑکنا۔
 تَزَعَمَهُ: جھوٹی باتیں بیان کرنا۔
 تَزَاعَمَ القَوْمُ عَلَى الأمرِ: ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ باہم غیر موافق باتیں کرنا۔
 الزُّعْمُ مِنَ الشُّبُوْهِ: بہت چرلی والا جس سے بھوتے ہوئے چرلی آگ پر لپکے۔
 الزُّعْمَةُ: زَعْمٌ کا اسم مرہ۔ ج زُعْمَاتٌ کہا جاتا ہے "هَذَا وَ لَا زُعْمَتِكَ وَ اَوْعَمَاتِكَ" یعنی یہی صحیح ہے اور میں تمہارا گمان نہیں خیال کرتا ہوں۔
 الزُّعْمِيُّ: جھوٹا۔ سچا۔ ضد۔
 الزُّعَامَةُ: مہ۔ شرف۔ سرداری۔ تھیاری۔ زرہ۔
 مہ مال یا انظر مال۔ گائے۔
 الزُّعْمُومُ: گنگو میں عاجز۔ چرلی دار عورت۔ کم چرلی والی عورت (مُتَد)۔
 الزُّعْمُومُ: گنگو میں عاجز۔
 الزُّعِيْمُ: ضامن۔ کفیل۔ سردار۔ رکنیں۔ ج زُعْمَاءُ۔
 المِزْعَمُ: مہ۔ لالچ کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا اَمْرٌ مِزْعَمٌ" یعنی یہ امر غیر موثوق ہے کوئی کچھ کتا ہے اور کوئی کچھ و "هَذَا اَمْرٌ لِيْمَةٌ مِزْعَمٌ" یہ ایسا امر ہے جس میں جھگڑے ہیں۔
 المِزْعَامَةُ: سانپ۔
 زَعْفَبٌ: المَائِيْطَةُ العَرُوْسُ: مشابہ کا دلہن کو آراستہ کرنا۔
 الزُّعْفَةُ وَ الزُّعْفَةُ: پستہ قد مرد یا عورت۔ ہر چیز کا ایک حصہ۔ جسم کے اطراف مانند ہاتھ پیر کے۔ روی۔ قبیلہ کا ایک ٹکڑا جو علیحدہ ہو یا دوسرے کے ساتھ مل جائے۔ کپڑے کا ٹکڑا یا ٹپلا پھینا ہوا حصہ۔ مہمیت۔ ج زَعْفَابٌ الزُّعَايِفُ: چھلی کے پر۔ ہر وہ جماعت جن کی کوئی ایک اصل نہ ہو۔
 زَعَايِفُ عَزُوْرُ عَزُوْرًا: منصف ہونا۔ عادل ہونا۔
 زَعْبٌ (س) اِزْعَابًا وَ زَعْبٌ وَ اِزْعَابٌ الصَّبِيْءُ أَوْ القُرْبُ: بچہ یا چوڑہ کا رواں لگانا۔ صفت (زَعْبٌ)
 اَزْعَبُ: الكِزْمُ: انگور کی تیل میں پتے نکلنے لگنا۔

زَعَالِيلُ-

الزَّغَلِيَّةُ بدخلتي- تدمراہی۔

الزَّغَلْمَةُ وَالزَّغَلْمَةُ كَمَا نَ - وسم - کینہ - ولی دشمنی۔

تَزَعَمَ الْجَمَلُ : اونٹ کا جھاگ کو اپنے جڑوں میں پھرانا اور اسی سے ہے "تَزَعَمَ الزَّجُلُ" یعنی اس نے غمناک ہو کر گھٹکی۔
الزُّغُومُ وَالزُّغُمُومُ : گھٹکی کرنے میں عاجز و درماندہ۔

الزُّغْمَلُ - کینہ - ولی دشمنی۔

زَعَانُ (ض) زَعَاوُ الصَّبِيَّ : بچہ کاروٹا۔

زَفَّ (ض) زَفَا وَزَفُوهُ تَزَوُّنًا
الرَّيْحُ : ہوا کا چلنا (ض) زَفَا وَزَفِيهَا الطَّائِرُ
پرندہ کا پھیلا کر اترنا۔زَفَّ (ن) زَفَا وَزَفَا فَا - الْعُرُوسُ إِلَى
زَوْجِهَا : دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔
الزُّوْفِيُّ : چمکا۔أَزَفَ - الْعُرُوسُ إِلَى زَوْجِهَا : دلہن کو شوہر
کے پاس بھیجنا۔ تَزَوُّنًا
ہ : تیزوڑنا۔إِزْدَفَ الْجَمَلُ : بوجھ اٹھانا۔
الْعُرُوسُ : دلہن کو شوہر کے پاس بھیجنا۔

إِسْتَزَفَةَ السَّبِيلَ : سیلاب کا بہا لے جانا۔

ہ السَّبِيْرُ : سبک بنانا۔

الزَّفَ : چھوٹے چھوٹے پر۔

الزَّفَفُ : پرندہ کے زون میں کا ایک پر ایک چپکا
ہوا ہوتا۔الزَّفِيَّةُ زَفَّ كَأَسْمِ مَرَةٍ كَمَا جَاءَ فِي "جَفْنَةُ زَفِيَّةٌ
أَوْ زَفِيْنٌ" میں اس کے پاس ایک ہاریا دو بار آیا۔
الزَّفِيَّةُ : گروہ۔

الْأَزَفُ : تیز رفتار - باریک پروں والا۔

الزُّوْفِيُّ وَالزُّوْفَانُ وَالزُّوْفَانُ : سبک تیز رفتار۔
الزُّوْفِيُّ : شتر مرغ۔ مِنْ الثُّوْقِ : عمدہ
چال والی تیز رفتار اونٹنی۔ قَوْسُ زَفُوفٍ : آواز

دینے والی کمان۔

الْمِزْفَةُ : پاگلی۔

زَفَّتْ (ن) زَفَّتَا - الْإِنَاءُ : بھرنا۔
الزُّجُلُ : غنیمت میں ڈالنا - منع کرنا - دھکارتا - تھکانا۔کما جاتا ہے "زَفَّتِ الْخَلِيْبَةُ فِي أُذُنِ الْأَصْحَمِ"
اس نے میرے کان میں بات ٹھوس ٹھوس دی۔

زَفَّتِ السَّفِيْنَةُ : کشتی پر زفت لگانا۔

الزَّفْتُ : تار کول جیسی ایک چیز جس کو کشتی
دیگر پر ملا کرتے تھے۔

زَفَّةٌ (ن) زَفَّةٌ الْإِنَاءُ : برتن بھرنا۔

فَرَسُهُ شَعِيْرًا : گھوڑے کو بہت جو کھلانا۔

إِزْدَفْتُ - الْعَمَلُ : سارا لے لینا۔

زَفَوْتُ (ض) زَفُوًا وَزَفِيْرًا - النَّارُ : آگ سے
بڑھنے میں آواز لگانا۔ الْأَرْضُ : نباتاتآگاہ۔ زَفَرُ الزُّجُلِ : لمبی لمبی سانس لینا۔ الْجِمَارُ :
گدھے کا رنگنا شروع کرنا۔ وَزَفَرُ الشَّيْءِ زَفْوًا :
اٹھانا۔ الْمَاءُ : پانی کھینچنا۔

إِزْدَفَرُ الشَّيْءِ : اٹھانا۔

الزُّوْفَرُ : بھاری بوجھ - ٹھک - مسافر کا سامان۔
جماعت یا دست فوج - ج آ ز ف ا ر۔

الزُّوْفَرُ : درخت کے نیچے لگانے کی تھوپی۔

الزُّوْفَرُ : شیر - بہادر - سندر - بہت پانی والا دریا۔
تختی - سردار - ٹھک کے اٹھانے کیلئے مضبوط آدمی۔
بہت عظیم - دست فوج۔الزُّوْفَرُ : مہم - مصیبت - گدھے کی آواز کی ابتداء
اور اتھا کا کٹھنہتی کہتے ہیں۔الزُّوْفَرُ وَالزُّوْفَرَةُ : لمبی سانس - گرم سانس - زَفُوْرَةُ
الذَّابِيَّةُ زَفُوْرَتُهَا : جانور کا پھولا ہوا پھلو۔ الزُّوْفَرَةُ :
زَفَرُ الزُّجُلِ أَوْ الْجِمَارِ كَأَسْمِ جِ زَفَوَاتٍ - بھیضرورت شہری کی بنا پر فاکو ساکن کر کے زَفَوَاتٍ
کہتے ہیں۔ قَوْسُ (أَزْفَرُ) بڑے پیلوؤں والا گھوڑا۔

ج زَفُوْرُ-

الزَّوْفَرَةُ - جماعت - دست فوج - مصیبت - تیرے پر
کے علاوہ یا بیگان کی جانب دو ٹھٹ سے کم - کندھااور اس کے گرد گرد - کمان - بڑا سردار - زَفُوْرَةُ
الزُّجُلِ : مرد کے اتار ب و انصار - زَفُوْرَةُ الْبِنَاءِ :
عمارت کا ٹھم - ج وَوَأَفِرُ الزُّوْفَرِ : پھیلانا۔ کما جاتاہے "فَرَسٌ شَدِيْدَةُ الزُّوْفَرِ" مضبوط پسیوں والا
گھوڑا۔ پانی لانے والی لوٹیاں - انھور کی تیلاٹھانے کی ٹٹی - زَوَأَفِرُ الصَّخِيْدِ : بزرگی کے
اسباب۔

الْمُزْفَرُ وَالْمُزْدَفَرُ - لمبی سانس - سانس لینے کی

جگہ۔

الْمُزْفَرُ - مِنَ الدَّوَابِّ : مضبوط جوڑوں والا
جانور۔زَفْرَفُ - الزُّجُلُ : تیز چلنا۔ عمدہ چال چلنا
الطَّائِرُ : پر پھیلا کر اترنا۔ الرَّيْحُالْحَبِيْبِيُّش : ہوا کا کھاس کو حرکت دینا اور اس
سے سانس سانس کی آواز لگانا۔الْمُزَكَّبُ : سواری کے چلنے سے آواز سنائی دینا۔
الزُّوْفَرُ وَالزُّوْفَرُ وَالزُّوْفَرَةُ : متواتر تیز

چلنے والی ہوا۔ الزُّوْفَرُ : شتر مرغ ہلکا۔

زَفَقَلُ زَفَقَلَةٌ : تیزوڑنا۔

الْأَزْفَلُ - غصہ - تیزی۔

الْأَزْفَلَةُ : جماعت۔ کما جاتا ہے "جَاءَ وَ
أَزْفَلَةٌ يَا زَفَلِيْبِهِمْ" وہ سب مع اپنی جماعت کے

آئے۔

الْأَزْفَلَةُ : سبکی حمل۔

زَفَرْنَا (ض) زَفْنَا - ناچنا - سخت دھکارتا اور لات
مارنا۔ کما جاتا ہے "ذَفَرْنَا مِنْهُ فَرَقْنِيْبِي" میں اس

سے قریب ہوا اس نے مجھے دھکایا۔

الزُّوْفَنُ - چھت کے اوپر کا سامان۔ النَّاقَةُ
(الزَّائِقَةُ وَالزُّوْفَنُ) لنگڑی اونٹنی۔

الزُّوْفَانُ - ٹاپنے والا۔

الْأَزْفَلَةُ - حرکت - زُجُلُ الْأَزْفَلَةُ : متحرک مرد۔
الزُّوْفُونُ - ایک درخت جس کے پھول سفید
ہوتے ہیں اور اس میں چھل نہیں آتا۔ نَاقَةُزَفَرُونُ : تیز رفتار اونٹنی۔
زَفِي يَزْفِي زَفِيًا وَزَفِيَانًا - زَفِيَتِ الْقَوْسُ :آواز دینا۔ الرَّيْحُ السَّحَابُ وَالرَّوَابِ :
ہوا کا بادل یا مٹی کو اڑانا۔ الزُّجُلُ : بنفسہ

: جان دینا۔

أَزْفِي - الشَّيْءُ : ایک جگہ سے دوسری جگہ لے
جانا اور اسی سے ہے "أَزْفَيْتِ الْعُرُوسُ" جبکہ

میکہ سے دلہن کو سسرال لے جائیں۔

الزَّوْفِيُّ : سبک تیز رفتار۔

الزُّوْفِيَانُ - مہم - ہلکا پن - ہلکا۔ نَاقَةُ زَفِيَانٍ : تیز
رفتار اونٹنی۔الْمُزْفِيُّ وَالْمُزْفِيْنُ وَالْمُزْفِيْنَةُ : ڈرا ہوا۔
زَفِي (ن) زَفَا - الطَّائِرُ : پرندہ کا بیٹ کرنا۔

فَرْخَه: چوزہ کو چوگا دینا۔
الکَبَش: سینڑھے کی کھال امارۃ الجِلْد: بال
کاٹنا۔

الزَّق: مٹک۔ زَقُّ الحَدَّاد: بوبار کی بھیجی۔ ج
أَزْقاقُ وَزَقاقُ وَوَزَقاقُ وَأَزْقُ:
الزَّق: شراب۔ ج زَقَقَة:
الزَّقَقَة: چوزہ کو چوگا دینے والی فانتائیس۔
چھوٹے بچوں کو تیار کرنے والے۔

الزَّقاق: گلی۔ مٹک راستہ (مذکر مؤنث) ج
أَزَقَه وَزَقانَ الزَّقانَ وَبَحَرَ الزَّقاقِ: جبر الِزَّقِ
آہٹانے۔
الزَّقَة وَالزَّقِقُ: پن ڈبی نامی ایک پرندہ۔
الزَّقاق: مٹک بنانے والا۔

زَقَب (ن) زَقَبًا: الجَزْدُ فِي الحُجْر: چوہے
کاسوراج میں داخل ہونا۔ وَزَقَبَهُ فِي الحُجْر:
داخل کرنا (لازم و مستحق)
زَقَب: المَكْأ: آواز کرنا (مکاء ایک پرندہ ہے)
الزَّقَب: الجَزْدُ فِي الحُجْر: چوہے کا
سوراخ میں داخل ہونا۔
الزَّقَب: مٹک راستہ۔ نزدیکی۔ کہا جاتا ہے
”رَحِبَةُ عَيْنِ زَقَبٍ“ میں نے اس کو نزدیک سے تیر
مارا۔

زَقَعَ (ف) زَقَعًا وَزَقَعًا: القَزْدُ: بندر کا
آواز کرنا۔

الزَّقِر: شکر۔ الصَّقْرُ میں ایک لغت ہے۔
الزَّقِر: دوزخ (السَّقْر میں ایک لغت ہے)۔
زَقَوَقُ زَقَوَقًا وَزَقَوَقًا: الطَّائِرُ: پرندہ کا بیٹ
کرنا۔ پھمانا۔ فَرْخَة: چوزہ کو چوگا دینا
الصَّبِي: بچہ کو کہانا۔ الزَّجْلُ:
آہستہ آہستہ ہلکا ہونا۔

الزَّقَواق: آہستہ چلنے والا۔ ایک قسم کی
چوہیاں۔

زَقَعَ (ف) زَقَعًا وَزَقَعًا: الدَّبْكُ: مرغ کا
گڈڑوں کوں کرنا۔ الجَمَّازُ: گدھے کا زور
سے گوز کرنا۔

زَقَف (ن) زَقَفًا وَتَزَقَفَ وَارْدَقَفَ الشَّيْ:
چھین لیتا جلدی سے آپک لیتا۔ اور اسی سے ہے
”تَزَقَفَ الحُكْرَةُ بِالضُّو لِحْبان“ وہ گیند کو بولے

سے جلدی سے لے گیا۔ تَزَقَفَ وَارْدَقَفَ
اللَّفْقَمَة: لقمہ لگانا۔

الزَّقَفَة: ہر وہ چیز جو نگل لی جائے۔ ہر وہ چیز جو ہاتھ
میں لی جائے۔

زَوَقَل: العِمَامَة: سر کے دونوں جانب کناروں
کو لگانا۔

زَواقِل: العِمَامَة: عمامہ کے نیچے سے نکلے
ہوئے بال۔

الزَّقَل وَالزَواقِل: چور۔ لیرے۔
الزَّقِيلَة: مٹک گلی۔

زَقَمَة (ن) زَقَمًا وَارْدَقَمَة: لگانا۔
أَزَقَمَة: الشَّيْ: لگانا۔

زَقَمَة: تھوہر کھلانا۔
تَزَقَمَ: لقمہ کرنا۔ لگانا۔ تھوہر کھلانا۔ اللَّبَنُ: دودھ
بست پینا۔

الزَّقوم: جہنم کے ایک درخت کا نام۔ تھوہر
ملک خوراک۔ ایک جنگلی گھاس جس کا پھول
چنبیلی کی مانند ہوتا ہے۔

الزَّقَمَة: زقم کا اسم مرۃ۔ طامون۔
زَقَم (ن) ض) زَقَمًا: الجَمَل: بوجھ اٹھانا۔
أَزَقَمَة: اٹھانے میں مدد دینا۔

زَقًا يَزُقُو زَقْوًا وَزَقَاءً وَزَقِيًا وَزَقِيًا وَزَقْوًا
وَزَقِي (ض) زَقِيًا: الطَّائِرُ: پرندہ کا پھمانا۔ صفت
مذکر ازاقی ج زَواق: صفت مؤنث (زاقیہ) ج
زَواق: الصَّبِي: بچہ کا ہست رونا۔

أَزَقاء: رلانا۔
الزَّقِيَة: روپے پھیسوں کا چیز۔
الزَّقِيَة: بیج۔

زَكَّ (ن) زَكًا وَزَكًّا وَزَكِيًّا الشَّيْخُ:
دوڑنے یا چلنے میں کمزوری کی وجہ سے قریب
قریب قدم رکھنا۔ (زَكًا) العَلَامُ: دوڑنا

القِرْبَة: مٹک بھرنا۔ بِسَلْجِه: بیٹ
کرنا۔ زَكَمَة المَاءُ: آسورہ کرنا۔ عَلِي
فَلان: غصب ناک ہونا۔

زَكَمَة: بُوڑھا ہونا۔ بیماری کی وجہ سے
کمزور ہونا۔

أَزَكَّ: عَلِي الأَمْرُ: اصرار کرنا۔ بِزَوَابِه:
خود رائے ہونا۔

تَزَكَّتْ: ساز و سامان لینا یا ہتھیار اٹھانا۔
إِزْدَكَّ: الزُّرْغ: سیراب ہونا۔
الزُّكَة: فاختہ کا چوزہ۔
الزُّكَة: ہتھیار۔
الزُّكَة: غم و غصہ۔

زَكَاهُ (ف) زَكًا: مارنا۔ زَكَاهُ
الذَّرَاهِم: نقد دینا یا جلدی نقد دینا۔ زَكَاهُ
حقہ: پورا کرنا۔ إِلَيْهِ: پناہ لینا۔
إِزْدَكًا: حَقَّة مُنَة: جن وصول کرنا۔
رَجُلٌ (زَكًا وَزَكَاةً وَزَكَاةً) التَّقْدِ: جلدی نقد
دینے والا۔
الزُّكَا: جائے پناہ۔

زَكَب (ن) زَكَبًا وَزَكَبَاتٍ: الإِنَاءُ: برتن کو
بھرنا۔ المَزْأَة: عورت کا ایک ہی مروڑ میں
بچہ کو بھنا۔ المَزْأَة: جماع کرنا۔
الزُّكَب: البَحْرُ: سمندر کے پانی کا ہست زمین
میں یا گڑھے میں داخل ہونا۔
الزُّكَبَة: لڑکا۔ لطف۔

زَكَّت (ن) زَكَّتًا وَزَكَّتًا وَزَكَّتًا: الإِنَاءُ:
برتن کو بھرنا۔
أَزَكَّت: المَزْأَة بِعَلَامٍ: لڑکے کو بھنا۔
الزُّكَبَاتُ: ائمہوں سے بھری ہوئی ندی۔ بھرا
ہوا عمیق۔
زَكَّت (ن) زَكَّتًا وَزَكَّتًا: الإِنَاءُ: برتن کو بھرنا۔
زَكَّت وَتَزَكَّت: الإِنَاءُ: برتن کا بھر جانا۔
الزُّكَبَة: شراب وغیرہ کیلئے چڑھے کا برتن۔ ج
زَكَّر:

زَكَّرَكَ: الشَّيْخُ: قریب قریب قدم رکھ کر
چلانا۔
تَزَكَّرَكَ: ہتھیار اٹھانا۔
زَكَمَة (ن) زَكَمًا وَزَكَمًا: العَلَامُ: دوڑنا
القِرْبَة: مٹک بھرنا۔ زَكَمَتْ بِهِ أُمَّهُ:
جنا۔
زَكَمَ: زکام زدہ ہونا۔ صفت (مَزَكَمُوم)
الزُّكَمَة: زکام۔ اولاد۔ کہا جاتا ہے ”إِفْلاَنِ
زَكَمَة سُوءٍ“ فلاں کی اولاد غیر صالح ہے۔
الزُّكَمَة: اُجْد۔ آخری بچہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ
زَكَمَة وَلِدًا أَبِيهِ“ وہ اپنے باپ کا آخری بچہ ہے۔

الزَّلَاجَةُ: جلیبی۔
 زَلَجَ (ض) زَلَجًا وَزَلَجًا وَزَلَجَانًا: تیزی سے چلنا۔
 زَلَجَ (ن) زَلَجًا وَأَزْلَجَ: الباب: دروازہ کو مزلاج سے بند کرنا (دیکھئے مَزْلَاجُ)
 زَلَجَ (ن) زَلَجَانًا: فَلَانًا: آگے ہونا۔
 زَلَجَ (س) زَلَجًا وَتَزَلَجَ: پھسلنا۔ اور اسی سے مَزْلَجٌ ہے۔ ان سواروں کو کہتے ہیں جن میں پتے نہیں ہوتے اور برف پر پھسلتی ہیں۔
 مَزْلَجٌ: زَلَجَ الْكَلَامُ مِنْ فَيْهِ: بات کا منہ سے نکل پڑنا۔ الْمَاءُ عَنِ الْعَجْزَةِ: پانی کا حلق سے پیٹ میں اتر جانا۔
 زَلَجَ الْكَلَامُ: لوگوں میں مشہور کرنا۔
 عَيْشُهُ: تھوڑی سی چیز پر زندگی بسر کرنا۔
 تَزَلَجَ الشَّيْءُ: پھسلنا۔ کہا جاتا ہے "تَزَلَجَ السَّهْمُ عَنِ الْقَوْسِ" تیر کمان سے پھسل گیا۔
 التَّجِيدُ: نیپے پنے پر اصرار کرنا۔
 مَكَانٌ زَلَجٌ وَزَلَجٌ وَزَلِيجٌ: پھسلنے کی جگہ۔
 الزَّلِيجُ: فا۔ صہیبوں سے نجات پانے والا۔
 بہت پینے والا۔ سَهْمٌ زَالِجٌ: تیر جو زمین پر پھسلتا ہوا جائے۔
 الزَّلُوجُ: تیز رفتار۔ سَهْمٌ زَلُوجٌ: کمان سے پھسلنے والا تیر۔ قَدْحٌ زَلُوجٌ: ہاتھ سے پھسل جانے والا پیالہ۔ عَقْبَةُ زَلُوجٌ: دور دراز لمبی گھالی۔
 الزَّلُوجُ: چکنی پٹائیں۔
 نَاقَةٌ زَلِيجِيٌّ وَزَلِيجَةٌ: تیز رفتار اونٹنی۔
 الزَّلَاجُ وَالْمِزْلَاجُ وَالْمِزْلَاحُ: ایک قسم کا تالا جو بغیر کچی کے چل جاتا ہے۔
 الْمِزْلَجُ: کم پھیل۔ قوم میں اجنبی آدمی۔ بے مروت۔ ہمزج کا گھٹیا۔
 زَلَجَ (ف) زَلَجًا وَتَزَلَجَ: چکھنا۔
 الزَّلَجُ: باطل۔ کہا جاتا ہے "أَمْزُوزُ زَلَجٍ" امر باطل۔
 الزَّلِيجُ: بڑے کشادہ پیالے۔
 تَزَلَجَتْ: عتقہ: پھسلنا۔
 زَلَجَفَ: علیحدہ کرنا۔
 تَزَلَجَفَ وَأَزْلَجَفَ: علیحدہ ہونا۔

وَمَزَلَجَةٌ وَزَلِيجِيٌّ وَزَلِيجَاءٌ: پھسل کر گرنے۔
 عَنِ الْحَقِّ أَوْ الصَّوَابِ: پھر جانا۔ غَمُزُهُ: گزر جانا۔ (زَلَّ زَلِيلًا وَ زَلُولًا) جلدی گزرتا۔
 زَلَّ زَلُولًا: الذَّوْهَمُ: کم وزن ہونا۔ صفت (زَالٌ) ج زَوَالٌ: کہا جاتا ہے "ذَرَاهِمُ زَوَالٌ" کم وزن والے درہم۔
 زَلَّ (س) زَلِيلًا: ہلکے سرین والا ہونا۔ صفت (أَزَلَّ) مَوْثٌ زَلَاءٌ: ج زَلٌّ۔
 أَزَلَّهُ: پھسلانا۔ لغزش کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَزَلَّ إِلَيْهِ بَعْدَهُ" اس نے اس کے ساتھ بہتر سلوک کیا اور نعمت دی۔ و "أَزَلَّ إِلَيْهِ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا" اس نے اس کو اپنے حق میں سے کچھ دیا۔ "أَزَلَّهُ إِلَى الْقَوْمِ" اس نے اس کو قوم کے سامنے پیش کیا۔
 اسْتَزَلَّهُ: پھسلنا۔ لغزش کرنا۔
 الزَّلُّ: پھسلنے کی جگہ (مذکورہ مؤنث) کہا جاتا ہے "مَكَانٌ زَلٌّ وَأَرْضٌ زَلٌّ"۔
 الزَّلِيلُ: سہم۔ گناہ کا ارتکاب۔ کہا جاتا ہے "اسْتَفْغَرُوا لِلَّهِ مِنْ زَلِيلِي" میں اللہ سے اپنے ارتکاب گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ پھسلنے کی جگہ (مذکورہ مؤنث) کہا جاتا ہے "فِي هَيْزَابِهِ زَلِيلٌ" اس کے ترازو میں نقصان ہے۔
 الزَّلَّةُ: زَلٌّ کا اسم مرہ۔ ایک مرتبہ گرتا۔ گناہ۔ دلیر۔ دلیرانہ۔ خوراک جو دوست یا رشتہ دار کے دسترخوان سے اٹھایا جائے۔ ج زَلَاتٌ۔
 الزَّلَّةُ: پھیلنے پھروا حد زَلٌّ۔
 الزَّلَّةُ: احسان۔ دہہ۔
 مَاءٌ (زَالٌ) وَزَلُولٌ وَزَلِيلٌ وَزَلِيلٌ: صاف مینھا خوشگوار پانی۔ الزَّلَالُ: بہت پھسلنے والا الزَّلِيلُ: فالودہ۔ بھلی چال۔
 الْأَزَلُّ: تیز رفتار۔ ہلکے سرینوں والا۔ مؤنث زَلَاءٌ قَوْضٌ زَلَاءٌ: کمان جس سے تیر جلد نکل جائے۔
 الْمَوْثَةُ وَالْمِوْثَةُ: پھسلنے کی جگہ۔ ج مِزَالٌ۔
 الْمِزْلِيلُ: فا۔ بہت بھلائی کرنے والا۔
 زَلِبَ (س) زَلْبًا: یہ لازم رہنا۔ چپٹا رہنا۔ جدا نہ ہونا۔
 الزَّلْبَةُ: لقمہ۔ تیر۔

زَكَنَ (س) زَكَنًا: الْأَمْرُ: تاڑ جانا۔ سمجھنا۔ گمان کرنا۔ کہا جاتا ہے "زَكَنْتُ أَنَّهُ زَجَلٌ مُشْوَعٌ" میں نے جانا کہ وہ بڑا آدمی ہے۔ مِنْهُ عَدَاوَةٌ کسی کی دشمنی کا علم ہونا۔ زَكُونًا: إِلَيْهِ: پناہ لینا۔ بل جل جانا۔
 زَكَنَ: گمان کرنا۔ عَلَيْهِ: مشتبہ کرنا۔
 زَاكِنَةٌ: ایک دو سرے کے قریب ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْجَيْشُ يُرَاكِنُ الْأَلْفِينَ" یہ لشکر دو ہزار کے قریب ہے۔ ہ: قریب و ہم نشین ہونا۔
 أَرَاكِنَةُ الْأَمْرِ: جتانا۔ سمجھنا۔ الشَّيْءُ: صحیح گمان کرنا۔
 الزَّكَاةُ وَالزَّكَايَةُ: صحیح گمان۔
 زَجَلٌ (زَكَنٌ): سمجھدار مرد۔
 زَجَلٌ (زَكَنٌ): اچھی یادداشت والا مرد۔
 زَكَايَةُ كُوزٍ زَكَاةٌ وَزَكَاوَةٌ كِيٌّ (س) زَكَنِي: الزُّرْغُ: بڑھنا۔ الزُّجْلُ: نیک و صالح ہونا۔ خوش عیش ہونا۔ زکی ہونا۔ الْأَرْضُ: عمدہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا لَا يُزَكُّوكَ" یہ تمہارے لائق نہیں۔
 زَكَنِي: بڑھنا۔ زائد ہونا۔ پیاسا ہونا۔
 هُ اللَّهُ: نشوونما کرنا۔ پاک کرنا۔ صالح بنانا۔ زَلْوَةٌ لینا۔ زَكَنِي لَهُ: زَكْوَةٌ ادا کرنا۔ نَفْسُهُ: خود ستانی کرنا۔
 أَرَاكِنِي: الزُّرْغُ: بڑھنا۔ هُ اللَّهُ: نشوونما کرنا۔
 تَزَكَّى: صدقہ ادا کرنا۔ زکی ہونا۔ الشَّيْءُ: بڑھنا۔ زیادہ ہونا۔
 الزَّكَاةُ: جفت عدد۔ کہا جاتا ہے "أَخَشْتُ هَذَا مِمَّ زَكَاةً" یہ طاق ہے یا جفت۔
 الزَّكَاةُ: چیز کا عمدہ حصہ۔ زَكْوَةٌ: صدقہ۔ پاکیزگی۔ ج زَكَاوَةٌ وَزَكَاوَاتٌ۔
 التَّزَكِّيَّةُ: زَكَنِي كَالصَّادِرِ۔
 الزَّكَايَةُ: فا۔ عمدہ نشوونما لینے والا۔ ج زَكَاةٌ۔
 الزَّكَنِي: اچھی نشوونما پانے والا۔ ج أَرْكَبَاءُ مَوْثٌ زَكِيَّةٌ: کہا جاتا ہے "أَرْضٌ زَكِيَّةٌ" عمدہ زر خیز زمین۔
 زَلَّ (ض) زَلًّا وَزَلْلًا وَزَلُولًا وَزَلِيلًا

الزَّلْعَةُ: كجھوا (سلحفاہ کی تحریف ہے)

الزَّلْعُخ: ہلکا ہلکا مرد۔

الزَّلْعُخَةُ: ہلکا چپاتی۔ گن۔

زَلَعٌ (س) زَلَعًا: مونا ہونا۔

زَلَعٌ (ض) زَلَعًا وَزَلَعَانًا: الزَّجَلُ: چلنے میں آگے ہونا۔ رِجْلُهُ: پھسلنا۔

زَلَعٌ (ض ن) زَلَعًا: فَلَانًا بِالْوَضْعِ: بھونکنے کی زانہ: زخمی کرنا۔

زَلَعَةٌ: چکنا چور کرنا۔

أَزْلَعُ: التَّيَابُ: دروازہ کو مزلاج سے بند کر دینا (دیکھئے مزلاج)

تَزْلَعُ: پھسلنا۔

مَكَانٌ زَلَعٌ وَزَلْعٌ: پھسلنے کی جگہ۔

الزَّلُوحُ: تیز رفتار۔ يَتَزَلَّوْحُ: کتوں کی حس کے من پر پھسلنا ہو۔

الزَّلْعَةُ: بچوں کے پھسلنے کی جگہ۔

زَلَعٌ وَزَلْعَةٌ: اللَّفْمَةُ: لقمہ ٹکانا۔

زَلْعٌ (س) زَلْعًا: بے قرار ہونا۔

الزَّلْوُ وَالزَّلْيُ: سلمان خانہ۔ آنے کا راستہ۔

زَلْوٌ زَلْوَةٌ وَزَلْوٌ زَلْوَةٌ وَزَلْوٌ زَلْوَةٌ: الأَرْضُ: بھونچال لانا۔ هُ: ڈرانا، خوف

دلانا۔ الأَيْلُ: اونٹ کو سختی سے ہانکنا۔

تَزَلَّوْبُ الأَرْضِ: بھونچال ہونا۔

نَفْسُهُ: موت کے وقت جان کا گھومرو میں بولنا۔

الزَّلْوَةُ: بھونچان۔ ج زَلْوٌ۔

الزَّلْوِي: سختیاں۔ ہولناک چیزیں۔

الزَّلْوِيُّ: ماہر طیل۔ فخرچی۔ غَلَامٌ زَلْوِيٌّ: ہلکا پھلکا لڑکا۔

الزَّلْوِيُّ: سلمان خانہ۔

الزَّلْوِيُّ: سبک ظریف۔ سبکی۔ جنگ و بدی۔

الزَّلْوِيُّ: تیز چال۔

الزَّلْوِيُّ: جلدی حلق سے اترنے والا لقمہ (مولد)

زَلَعٌ (ف) زَلَعًا: الشَّيْءُ: فریب سے چھیننا۔

رِجْلُهُ: جلاتا۔ جَلَانًا: المَاءُ مِنَ الجَيْزِ:

پانی ٹکانا۔

زَانَةٌ: سر پھاڑنا۔ تم کہتے ہو "زَلَعْتُ لَهْ"

مِنْ مَالِي زَلَعَةً" میں نے اپنے مال میں سے ایک

حصہ دیا۔

زَلَعْتُ (س) زَلَعًا وَزَلْعًا وَتَزَلَعْتُ:

قَدَمُهُ: قدم کے ظاہر یا باطن کا پھٹنا۔ كَفَّهُ:

اوپر سے پھٹنا۔ الجَزْحُ: خراب ہونا۔

تَزَلَعُ رِيشَهُ: ہر کار کا جانا۔

زَلَعْتُ (ن) زَلْعًا: الشَّفْسُ: آفتاب طلوع

ہونا۔ النَّازُ: آگ کا بلند ہونا۔

أَزْلَعَهُ: لَمِي الشَّيْءُ: کسی چیز کا لالچ دلانا۔

إِزْدَلَعُ: الشَّيْءُ: فریب سے چھیننا۔

حَقَّهُ: کسی کا حق کاٹ لینا۔ الشَّجْوَةُ: درخت کاٹنا۔

الزَّلْعَةُ: خراب شدہ زخم۔

الزَّلْعُ: پھٹی ہوئی ابرویں والا۔

الزَّلْعُ: چھوٹی کوڑیوں کی ایک قسم۔

المُزَلَعُ: پھٹے ہوئے بیروں والا۔

إِزْلَعْتُ: المَسْحَابُ: گھبرا گھرنا۔

سَبَلٌ مُزْلَعٌ: بڑا سیلاب۔

زَلَعٌ (ن) زَلْعًا: التَّجْحُمُ: ستارہ طلوع ہونا۔ النَّازُ: آگ کا بلند ہونا۔

تَزَلَعْتُ: رِجْلُهُ: پھٹنا۔ (جدید لغت تَزَلَعْتُ ہے)

إِزْلَعْتُ: الفَزْحُ: چوڑے کے پر ٹکانا۔ الشَّعْوُ:

موندنے کے بعد آگنا۔

زَلَعٌ (ن) زَلْعًا وَزَلْعًا وَزَلْعًا وَتَزَلَعْتُ

وَإِزْدَلَعْتُ: آگے ہونا۔ قَرِيبٌ ہونا۔

زَلَعٌ (ن) زَلْعًا وَزَلْفًا: الشَّيْءُ: آگے کرنا۔

زَلْفٌ فِي الكَلَامِ: زیادہ کرنا۔

أَزْلَعُهُ: نزدیک کرنا۔ الأَشْيَاءُ: جمع کرنا۔ الدَّلِيلُ القَوْمُ: رہبر کا قوم کو آگے بڑھنے پر

براگیختہ کرنا۔

الزَّلْفُ وَالزَّلْفُ وَالزَّلْفِيُّ: نزدیکی۔ درجہ۔

مرتبہ۔

الزَّلْفُ: باغ۔

الزَّلْفَةُ: نزدیکی۔ درجہ۔ مرتبہ۔ رات کا ایک

حصہ۔ بڑا پیالہ۔ ج زَلْفٌ وَزَلْفَاتٌ وَزَلْفَاتٌ اور

يقول بعض الزَّلْفُ: بمعنی رات دن چلنے کے

اوقات۔

الزَّلْفَةُ: بھرا ہوا حوض۔ چھٹی۔ کپڑے دھونے کا

طشت۔ بڑا پیالہ۔ چکنا چقر۔ سخت یا جھاڑوئی ہوئی

زمین۔ باغ۔ ج زَلْفٌ۔

العَقْبَةُ (الزَّلُوفُ) اور دراز گھائی۔

المُزَلْفَةُ: آبادی جو یہاں اور پشت زار کے

درمیان ہو۔ ج مَزَالِفُ: کوچ کرنے

کی جگہیں۔ واحد مُزَلْفَةٌ۔

زَلَعْتُ: (س) وَزَلَعْتُ (ن) زَلْعًا: القَدَمُ:

قدم پھسلنا۔ بِمَكَانِهِ: جوں جوں پھیلنا۔

زَلَعَهُ (ض) زَلْعًا وَزَلْعَهُ وَأَزْلَعَهُ: پھسلانا

عَنْ مَكَانِهِ: دور کرنا۔ طبعہ کرنا۔

زَانَةٌ: سر موڑنا۔ زَلَعُ المَوْضِعِ: پھسلنے والی

جگہ بنانا۔ زَلَعٌ بَدَنُهُ: بدن پر تیل لگانا۔ أَزْلَعُهُ

وَزَلْعَهُ: بھسورہ۔ غَضَبٌ: وجہ سے تیز نظر سے

دیکھنا۔ اِزْلَعْتُ الفَوْضَ: گھوڑی کا تمام پتہ کرنا۔

تَزَلَّوْحُ: اس طرح بڑا سنورنا کہ چہرے کی رونق

بڑھ جائے۔

الزَّلِقُ وَالزَّلِقُ وَالزَّلِقُ وَالزَّلِقَةُ: پھسلنے کی

جگہ۔ أَرْضٌ زَلِقٌ: چھٹی سپاٹ زمین جس میں کچھ

نہ ہو۔

الزَّلِقُ: وہ شخص جس کو جماع کرنے میں دخول

سے پہلے انزال ہو جائے۔

الزَّلِقَةُ: چھٹی چٹان۔ آئینہ۔ نَاقَةٌ (زَلُوقٌ) تیز

رفتار والی۔ عَقْبَةُ زَلُوقٌ: دور دراز گھائی۔

الزَّلِقِيُّ: ناتمام گرا ہوا پتہ۔

الزَّلِقِيُّ: ایک قسم کا شفتالو۔ واحد زَلِقِيَّةٌ۔

المِزْلَاقُ: ایک قسم کا کالا جو بغیر کچی کے کھل

جاتا ہے۔ ناتمام پتہ کرانے والی گھوڑی۔

المُزَلَّقُ وَالْمُزَلَّقَةُ: پھسلنے کی جگہ۔

الزَّلْفُومُ: کلا۔

زَلَمَ (ن) زَلْمًا: خَطَاكَرًا: الإِنَاءُ: برتن

بھرنا۔ الأَنْفُ: ناک کاٹنا۔ العَقَاةُ:

کم دینا۔

زَلَعَهُ: نرم کرنا۔ بھوار کرنا۔ الزُّخْمِيُّ:

چکی کو گھمانا اور کناروں سے پکڑنا۔

العَقَاةُ: کم دینا۔ العِدَاةُ: بڑی خوراک

دینا۔

إِزْدَلَمَ: الشَّيْءُ: کاٹنا۔ جڑ سے کاٹنا۔

إِزْلَامٌ: إِزْلَمَاتًا: الشَّيْءُ: سیدھا اکھڑا ہونا

القَوْمُ: جلدی کوچ کرنا۔ إِزْلَامَتْ

الضَّمْحِي: چاشت کے وقت کاروشن ہونا۔
الزَّمْلَم: کھریا اس کا پھیلا۔ بے پر کا تیز۔ ج
أَزْلَام: فال نکلنے کا تیز۔ الزَّمْلَم: ایک قسم کی بولی
جس کے پھل پھول نہیں ہوتے اور اس کی
جزیریں زمین کے بہت اندر اور گرہ دار ہوتی ہیں
جس میں چوڑے خم ہوتے ہیں اور عوام کے
نزدیک حب العزیز کے نام سے مشہور ہے۔

الزَّمْلَمَةُ وَالزَّمْلَمَةُ وَالزَّمْلَمَةُ: بیتِ تَدَد۔ کہا جاتا
ہے "هُوَ الْعَيْدُ زَلْمَةً" وہ غلام کے مشابہ ہے۔
الزَّمْلَمَةُ: کبری کے کان کا کٹا ہوا ٹکڑا جو ٹکٹا
رہے۔

زَلْمَةٌ: الإِبْرَيْقِي عِنْدَ الْعَامَةِ: ٹوٹی۔ فصیح لفظ
بلیبل ہے۔

الْمُزَلْمُ: پست تَد۔ سبک و چست۔ عریف
الْمُزَلْمُ وَالزَّلِيمُ: مِنَ السَّهَامِ: عمدہ ہاتھ اتیر۔
الْمُزَلْمُ وَالزَّلِيمُ: کئے ہوئے کان والا۔
الزَّلِمَاءُ: الْأَزْلَمُ كَامُونْتِ: مادہ شکر۔ پھاڑی
کبری۔ عمدہ بنایا ہوا تیر۔

زَمَّةٌ (ن) زَمًا: باندھنا۔ الْقَزْبَةُ: مٹک
بھرتا۔ زَمٌ التَّبَعِيٌّ بِأَنْفِهِ: ناک میں تکلیف کی وجہ
سے سر اٹھانا۔ الزَّجَلُ بِرَأْسِهِ: سر بلند کرنا
بِأَنْفِهِ: تکبر و گردن کشی کرنا
الْقَوْمُ: رفاہ میں قوم سے آگے بڑھنا۔
وَزَمَّمُ، الْجَمْعَانُ: اونٹ کے گھیل ڈالنا۔ زَمٌ
التَّغْلُ: جود میں ترم لگانا۔ الذَّنْبُ
السَّخَلَةُ: بھیرنے کا کبری کے بچے کو سراو پھا کر
کے لے جانا۔

زَمَّتْ (ن) زَمُوْنَا: القَبْرَةُ: مٹک کا بھرتا
نَابُ التَّبَعِيَّةِ: اونٹ کے دانت لگانا۔

(زَمِيْنَا) الزَّمُوْنَا: بھرا، کھینچنا۔
أَزَمَ: التَّغْلُ: جود میں ترم لگانا۔

زَامٌ مَرَامَةٌ: تکبر کرنا۔ زَامَمْتُ فَلَانًا: مقابلہ
کرنا۔
إِلْزَمٌ: بندھنا۔

إِلْزَمٌ: تکبر سے سر بلند کرنا۔ الذَّنْبُ
السَّخَلَةُ: بھیرنے کا کبری کے بچے کو سر بلند کر
کے لے جانا۔

الزَّمَامُ: جس سے کوئی چیز باندھی جائے۔ مہار۔

بَاگ۔ گھیل۔ لگام۔ جِ أَمَّةٌ: زَمَامٌ التَّغْلُ: جوستے کا
تسم۔ کہا جاتا ہے "هُوَ زَمَامٌ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کا
سر دار و چودھری ہے۔ و "هُوَ زَمَامٌ الْأَمْرِ": یعنی
اس پر کام کا دار و مدار ہے و "الْقَوَائِي يَدِيهِ زَمَامٌ
الْأَمْرِ": لوگوں نے اپنا معاملہ اس کے ہاتھ میں دے
دیا کہ جس طرح چاہے فیصلہ کرے۔ و "هُوَ عَلِيُّ
زَمَامٌ أَمْرِهِ": وہ اپنے کام کے پورا ہونے کے
قریب ہے و "هُوَ يَتَصَرَّفُ أَمَّةً الْأَمْرِ": وہ جس
طرح چاہتا ہے امور میں تصرف کرتا ہے۔

الزَّمَامُ: قَا۔ وَجَلَّ زَامٌ: گھرانے والا مروج زَمَمٌ
کہا جاتا ہے۔ "ذَارِي مِنْ ذَارِهِ (زَمَمٌ)" میرا گھر
اس کے گھر کے قریب ہے و "أَمْرُ الْقَوْمِ زَمَمٌ"
قوم کے معاملے قریب قریب ہیں و و جُهِى زَمَمٌ
بیتے میرا چہرہ اس کے گھر کے مقابل ہے۔

الزَّمَامُ: اونچی گھاس۔
الْأَزْمِيمُ: مینے کے آخر کا چاند۔

زَمَّتْ (ك) زَمَاتَةٌ وَتَزَمَّتْ: سنجیدہ و صاحب
وقار ہونا۔ صفت (زَمِيْتُ) جِ زَمَتَاءُ (زَمِيْتُ)
زَمَتَةٌ (س) زَمَتًا: گامٹھنا۔

زَمَجَ (ن) زَمَجًا: القَبْرَةُ: مٹک بھرتا۔
عَلَيْهِمْ: بغیر بلائے ہوئے آکر کھانا۔

زَمِيحٌ (س) زَمِيحًا: غصبتاک ہونا۔ صفت
(زَمِيحٌ) کہا جاتا ہے۔ أَخَذَهُ (بِرَأْسِهِ) یعنی اس
نے سارا لے لیا۔

الزَّمِيحُ: عقاب سے چھوٹا ایک سرخ رنگ کا
شکاری پرندہ۔ جِ زَمَامِيحٌ: زَمِيحٌ الْمَاءِ: ایک آبی
پرندہ جو صرف چھل کھاتا ہے۔

الزَّمِيحِيُّ: پرندہ کی دم کی جڑ۔
زَمِيحَةٌ: الظَّلِيمُ: شتر مرغ کی چوچ۔

الْمُزَمِيحُ: غصبتاک۔
زَمِيحٌ زَمِيحَةٌ: شور مچانا (و تَزَمِيحٌ)
الْأَسَدُ: شیر کا چنگھلانا۔

إِلْزَمِيحٌ: آواز کرنا۔
الزَّمِيحَةُ: مہ۔ بامسری۔ زَمِيحَةٌ كُلُّ شَيْءٍ: ہر
چیز کی آواز۔ جِ زَمَامِيحٌ وَزَمَامِيحِيَّةٌ

الزَّمِيحِيُّ: چیتا۔
الزَّمِيحُ الزَّمِيحُ: کینڈ۔ پست تَد۔ بد صورت۔

کالے رنگ کا۔ بد صورت و شریر۔

الزَّمِيحُ: پھوٹا۔

الزَّمِيحِيُّ: مرد۔ بد خلق۔ بخیل۔

زَمِيحٌ (ف) زَمِيحًا: تکبر کرنا۔ صفت (زَمِيحٌ)
جِ زَمِيحٌ۔

عَقَبَةُ (زَمِيحٌ وَزَمِيحٌ) اور روراز و سخت گھالی۔

زَمِيحٌ: التَّمَرُ: چیتے کا غصتہ سے دھاڑنا۔

(الْعَشْبُ): گھونڈ والا ہونا اور بڑھنا۔

(وَأَزَمِيحٌ الصَّوْتُ): آواز کا تیز ہونا۔

تَزَمِيحٌ: التَّمَرُ: چیتے کا غصبتاک ہونا اور
دھاڑنا۔

الزَّمِيحُ: بڑی بامسری۔ بہت گھبان درخت۔
زَمِيحٌ زَمِيحٌ: عالی مرتبہ مرد ()

وَالزَّمِيحِيُّ: کھوکھلی ہڈی۔

الزَّمِيحَةُ: زانسی عورت۔ زَمِيحَةُ
الشَّيْبِ: بھریور جوانی۔ الشَّجَرُ:

درخت کا گھبان ہونا۔

الزَّمِيحِيُّ: تھوڑا۔

زَمَرٌ (ض ن) زَمَرًا وَزَمِيْرًا: بامسری بھانا
بِالْحَدِيثِ: بات پھیلانا () زَمَرًا

القَبْرَةُ: مٹک بھرتا۔ فَلَانًا بِفُلَانٍ:

آکسانا۔ بھراکانا (ض) زَمَرْنَا، الظَّنِّي: ہرن
کا بھانا۔ پدکانا۔ زَمَرْنَا التَّعَامَ: شتر مرغ کا
آواز کرنا۔

زَمَرٌ (س) زَمَرًا: کم ہالوں والا ہونا۔ بے مروت
ہونا۔ الشَّاةُ: کم اون والی ہونا۔

زَمَرٌ: بامسری بھانا۔ القَبْرَةُ: مٹک بھرتا۔
إِلْزَمَارٌ: غصتہ سے سرخ آنکھوں والا ہونا۔

إِسْتَزَمَرُ: الرَّجُلُ عِنْدَ الْهَوَانِ: ذلت کی وجہ
سے منتبض ہونا۔

الزَّمَرُ: مہ (و الزَّمَرُ) آواز جِ زَمُوْنَا۔

الزَّمَرُ: بامسری بھانے والا۔ يَغْنَاءُ زَمِيْرٌ: عمدہ
گانا۔ کم ہالوں یا کم اون والا۔ کم مروت والا۔ مَزَمِيحٌ
زَمِيْرَةٌ عَطِيَّةٌ زَمِيْرَةٌ: تھوڑی داود و حش۔

الزَّمَارُ: مہ۔ شتر مرغ کی آواز۔

الزَّمِيْرُ: سخت و درشت۔

الزَّمِيْرُ: مہ۔ پست تَد۔ جِ زَمَارٌ ()

وَالزَّمُوْنَا) خوبصورت لڑکا۔ يَغْنَاءُ زَمِيْرٌ: عمدہ
گانا۔

الزَّمَكَةُ مِنَ الرِّجَالِ: جلدی غضبناک ہونے والا۔ بیوقوف۔ پست۔ قد۔ ج۔ الزَّمَكُونُ:
 الزَّمَكِيُّ وَالزَّمَكِيُّ: پرنہ کی دم یا اس کی جز۔
 زَمَلٌ (ن ض) زَمَلًا وَالْأَعْرُجُ: لنگڑے کا ایک جانب بٹکے ہوئے دوڑنا۔
 زَمَلَتْ (ن) زَمَلًا وَزَمَلًا وَزَمَلًا وَزَمَلَانًا۔
 الذَّابَّةُ: نشاط کی وجہ سے لنگڑاتے ہوئے چلنا (زَمَلًا) الْقَوَسُ: کمان سے آواز نکلتا) _____
 زَمَلًا) الزَّمَلِيُّ: اپنے پیچھے سوار کرنا _____
 الزَّمَلُ: بیروی کرنا _____ الشَّيْءُ: لادنا۔
 زَمَلٌ: الشَّيْءُ: چھپانا _____ الشَّيْءُ بِقُوْبِهِ
 اوفیٰ قُوْبِهِ: پلٹنا۔
 زَامَلٌ الزَّمَلِيُّ: حمل میں ایک جانب سوار کرنا۔
 تَزَمَلٌ وَارْتَمَلٌ وَارْتَمَلٌ: بِقُوْبِهِ: پلٹنا۔
 اِرْتَمَلٌ الْجَمَلُ: ایک دفعہ میں لادنا۔
 الزَّمَلُ: جانور پر پیچھے سوار ہونے والا ساتھی بوجھ۔
 الزَّمَلُ وَالزَّمَلَةُ وَالزَّمَلَةُ: عیال۔ بال۔ بچے۔
 الزَّمَلُ وَالزَّمَلُ وَالزَّمَلُ وَالزَّمَلَةُ وَالزَّمَلَةُ وَالزَّمَلُ
 وَالزَّمَالُ وَالزَّمَالَةُ وَالزَّمَالُ وَالزَّمَالَةُ: کمزور۔ بزدل۔
 الزَّمَلَةُ: ساتھی لوگ۔ جماعت۔ گروہ۔
 الزَّمَالَةُ: الزَّمَالُ کا مؤنث۔ بار برداری کا جانور۔ ج۔ زَوَامِلُ۔
 الزَّمِيلُ: جانور پر پیچھے سوار ہونے والا ساتھی۔
 آج کل کی زبان میں پیشہ میں شریک کے لئے مستعمل ہے۔
 الْأَزْمَلُ: مخلوط آواز۔ ج۔ الْأَزْمَلُ: تمام۔ سارا۔
 کما جاتا ہے "أَخَذَ الشَّيْءَ بِأَزْمَلِهِ وَبِأَزْمَلِهِ"
 اس نے چیز کو ہاتھ لے لیا۔
 الْأَزْمَلُ: بزدل۔ کمزور۔
 الْأَزْمَلَةُ: کمان کی آواز۔ تمام سارا۔ کما جاتا ہے
 "أَخَذَهُ بِأَزْمَلِهِ"
 اس نے ساری چیز لے لی اور کما جاتا ہے "لَهُ عِيَالٌ أَزْمَلَةٌ"
 اس کے ہتھ بال بچے ہیں۔
 الْأَزْمَلَةُ وَالْأَزْمَلَةُ: آواز کرنے والا پہاڑی بکریا ہرن وغیرہ۔

زَمَعٌ (ف) زَمَعًا وَزَمَعَانًا: الْأَزْمَتُ: خرگوش کا تیز چلنا۔ آہستہ آہستہ چلنا۔
 أَرْمَعٌ وَزَمَعٌ: الْأَمْزُ وَعَلَيْهِ وَبِهِ: ثابت قدم رہنا۔ پختہ ارادہ کرنا۔
 وَأَرْمَعُ الْكُورُ: انگور کی شاخوں کا گروہ دار ہونا۔
 زَمَعُ الزَّمْرُورُ: بھڑکا بھینٹنا۔
 أَرْمَعَتِ الْأَزْمَتُ: خرگوش کا ہلکا پھلکا اور تیز دوڑنا۔
 الزَّمْعُ: مہ۔ چھوٹی تک نالیاں۔ کینے و رزیل لوگ۔
 کما جاتا ہے "هُوَ مِنَ الرِّجَالِ وَالزَّمْعُ: وہ پست اور ادنیٰ لوگوں میں سے ہے۔
 انگور کی شاخ کی گروہ۔ آہستہ سیلاب۔ انگلی کی مقدار متساوی زائد بے قراری۔ کسی کام کے سوچنے کے وقت کی کچی ج۔
 الْأَزْمَاعُ: پختہ ارادہ۔
 الزَّمْعَةُ: ٹکڑا۔ کما جاتا ہے "أَرْمَعُ فِيهَا زَمْعَةٌ مِنَ التَّبِتِ"
 زمین کہ اس میں گھاس کا ایک ٹکڑا ہے۔
 الزَّمْعَةُ: ج۔ زَمْعٌ وَزَمَاعٌ: بکری یا ہرن کی ٹانگ میں پھیلی جانب کے ٹکڑے ہوتے ہال۔
 ج۔
 الْأَزْمَاعُ: چھوٹا ٹیلہ۔
 الزَّمْعِيُّ: خیس۔ جلدی غصہ میں آجانے والا۔
 الزَّمْعُ: بے ڈنک کی بھڑ۔ وہ شخص جو اپنی ضروریات میں پست نہ ہو۔
 الزَّمَاعَةُ: در۔
 الزَّمِيْعُ: پختہ ارادہ والا بہادر۔ عمدہ رائے والا۔
 زَمَعًا وَزَمَعَانًا) _____ وَالزَّمْعُ: جلد باز۔
 الْأَزْمَعُ: جلاک مرد۔ کمزور بات۔ ج۔
 الْأَزْمَاعُ: زَمَلٌ أَرْمَعٌ: زائد انگلی والا مرد۔
 الزَّمْرُوعُ: قاہ۔ ثابت قدم پختہ ارادہ والا۔
 زَمَعٌ (ن ض) زَمَعًا: الْقَفْلُ: کالا کھولنا۔
 _____ اللَّيْحِيَّةُ: دائرگی ٹوچنا۔ صفت مفعولی۔
 (زَمِيْقَةٌ وَزَمُوْقَةٌ) کما جاتا ہے "مَا أَغْنَى عَنْهُ"
 (زَمِيْقَةٌ) یعنی اس نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔
 زَمَكَ (ن) زَمَكًا: چپ رہنا۔ _____ وَزَمَكَ) الْبَزْبَةُ: ٹھک بھرا۔ زَمَكَةٌ عَلَيَّ: بھڑکا بھڑکا کر غصہ دلانا۔
 اِرْمَاكَ: سخت غضبناک ہونا۔
 الزَّمَكُ: سخت غصہ۔ کسی چیز کا آپس میں سخت جانا۔

الزَّمْرُوعُ وَالزَّمْرُوعُ: ایک قسم کی پھلی جس کی پٹیہ پر کڑے کاٹے ہوتے ہیں۔
 الزَّمَارُ: بانسری۔ بجانے والا۔
 الزَّمَارَةُ: بانسری۔ زَمَارَةُ الزَّمَارِيِّ: ایک قسم کی نباتات۔
 الزَّمْرَةُ: گروہ۔ جماعت۔ فوج۔ ج۔ زَمْرٌ۔
 الزَّمْرُورُ: گروہ۔ خوبصورت لڑکا۔
 الزَّمَارَةُ: الزَّمَارَةُ: الزَّمْرُورَةُ: کم مروٹی۔
 الزَّمَارَةُ: بانسری۔ بجانے کا پیشہ۔
 الزَّمْرَارُ: بانسری (_____ الْمَزْمُورُ وَالْمَزْمُورُ: گیت۔ ج۔
 الْمَزْمُورُ: مَزْمُورٌ أَوْ مَزْمُورَةٌ: حضرت داؤد علیہ السلام کی زماور اس کے مجموعہ کا نام زَبُورٌ ہے۔
 الزَّمْرُودُ وَالزَّمْرُودُ: ایک سبز رنگ کا بیش قیمت پتھر واحد (زَمْرُودَةٌ)۔
 زَمْرُورٌ: الوعاء: برتن کو اچھی طرح سے بھرنے کے لئے ہلانا۔
 زَمْرُورٌ وَزَمْرُورَةٌ: الشَّيْءُ: دور سے گلگٹا ہٹ سالی دینا _____ النَّازُ: آگ کے بھڑکنے میں آواز نکلتا _____ الْمَغْنَمُ: سُر سے گانا۔
 الْعَلُوجُ: جلی کافروں کا کھانے کے وقت حلق یا نتوں سے آواز نکالنا اور ایک کا دوسرے کے مفہوم کو سمجھنا۔ زَمْرَمَه: بکھری ہوئی چیز کو جمع کرنا _____ الشَّيْءُ: مخالفت کرنا۔
 تَزَمَّرَ: الْجَمَلُ: بڑبڑانا۔ تَزَمَّرَتْ بِهِ شَفَقَاتُهُ: حرکت کرنا۔
 مَاءٌ (زَمْرَمٌ وَزَمْرَمٌ وَزَمْرَمٌ وَزَمْرَمٌ) بہت پانی۔ کچھ کھاری پانی۔ زَمْرَمٌ: کعب مظہر حرسا اللہ کے نزدیک ایک کنوئیں کا نام۔
 الزَّمْرَمَةُ: مہ۔ بادل کی کرج۔ آگ کے بھڑکنے کی آواز۔ شیر کی گونج۔ ج۔ زَمْرَامُ۔
 الزَّمْرَمَةُ: اونٹوں یا آدمیوں کا گروہ۔ ج۔
 زَمْرَامٌ وَزَمْرَمٌ۔
 الزَّمْرَمُومُ وَالزَّمْرَمُومُ: مِنَ الْإِبِلِ: عمدہ اونٹوں کی جماعت۔ اونٹوں کا گلد۔ ج۔
 زَمْرَامِيْمٌ۔
 زَمِيْعٌ (س) زَمَعًا: مینہ: سرگشتہ و حیران ہونا۔ گھبراہٹ۔

الإزْمِيل - راہی - چھینی - تھوڑا - مضبوط مرد -
 کزور مرد - (ضد)
 الْمُرْمِلُ وَالْمُرْمِلُ - کپڑوں میں لپٹنے والا -
 الْمُرْمِلَةُ - الْمُرْمِلُ کا سونٹ - پانی سرد کرنے کا
 گھڑا یا ٹکا -
 زَمِين (س) زَمْنَاوُ زَمْنَةً - لجا ہوتا -
 أَرْمَنَ - الشَّيْءُ: دیر تک باقی رہنا _____ ہ
 اللَّهُ: لٹے پین میں مبتلا کرنا _____ بِالْمَكَانِ:
 مدت تک اقامت کرنا - کہا جاتا ہے "أَرْمِنَ عَيْنِي
 عَطَاوُكَ"
 الزَّمَنُ - جِ أَرْمَانَ وَأَرْمَنُ وَالزَّمَانُ - جِ
 أَرْمِنَةٌ وَالزَّمِنَةُ: وقت - أَرْمِنَةُ السَّنَةِ: سال کی
 چاروں فصلیں - ہمار - گرمی - برسات - جاڑا -
 زَمَنٌ (زَمِين) سخت زمانہ -
 الزَّمَانَةُ: آفت - لجا پین - قوتوں کی بے حسی -
 محبت -
 الزَّمِينُ - جِ زَمُونٌ وَالزَّمِينُ - جِ زَمْنِي وَ
 زَمْنَةً - لجا - کہا جاتا ہے "فَلَانٌ زَمِينٌ الزَّمِينَةُ"
 فُلَانٌ کزور خواہش والا ہے -
 عَامِلَةٌ (مُزَامِنَةٌ) اس نے اس سے کچھ وقت
 کے لئے معاملہ کیا -
 الْمُزْمِنُ - فَا مَزْمُونٌ مُزْمِنٌ: پرانا مرض -
 زَمِينَةٌ (س) زَمْنَهَا: مَحْوٌ: گرمی تیز ہونا -
 الزَّمِيلُ بِالْحَيِّ: گرمی تیز لگنا -
 زَمَهَتْ (س) زَمْنَهَا: الشَّمْسُ الزَّمِيلُ: تیز
 دھوپ لگنا -
 زَمَهَوْتَ: العَيْنُ: آنکھ کا غصہ سے سرخ ہونا -
 إِزْمَهَوْتُ: اليَوْمُ: سخت سردی والا ہونا -
 _____ الزَّمِيَّةُ: چہرہ کا بگڑنا _____ الكَوَامِيَّةُ:
 ستاروں کا چمکنا _____ العَيْنُ: آنکھ کا غصہ سے
 سرخ ہونا -
 الزَّمَهْوِيُّ: سخت سردی -
 الْمُزْمَهْوِيُّ: سخت غضبناک - ہسنے والا -
 إِزْمَهْلُ: المَطَرُ: برسا _____ الفَلْجُ: برف
 کا کھلنے کے بعد برسا -
 زَمَانٌ (س) زَمْنَا عَصْبَةً: شے کا خشک ہونا -
 _____ الرَّجُلُ: ڈھیلے جوڑوں والا ہونا (زَمْنَةً
 وَأَزْمَةً) بِغَيْرِ أَوْشَرٍ: نیک یا بد گمان کرنا _____

بِكَذَا: قسمت لگانا -
 زَمَّنَ: الرَّجُلُ: ہمیشہ ماش کھانا -
 الزَّمَانُ - ماش -
 الزَّمَنُ - نکل - مَاءٌ زَمْنٌ: تھوڑا پانی - جِلٌّ (زَمَانٌ)
 تھوڑا سا یہ -
 حِنْفَةٌ (زَمْنَةٌ) گیہوں جس کو بارش کے علاوہ پانی
 دیا گیا ہو -
 الزَّمِينُ: یا خاندان پیشاب روکنے والا -
 أَبْوَرَةٌ: نکلور -
 زَمْنَا (ف) زَمْنَاوُ زَمْنًا: إِلَيْهِ: بناہ لینا _____ فِينِ
 الْجَبَلِ: پھاڑ چڑھنا _____ الظُّلُ: سایہ کا سناٹا
 _____ الرَّجُلُ: خوش ہونا - جلدی کرنا - زمین سے
 چٹنا _____ يَزْلَهُ زَمْنَا: پیشاب روکنا -
 _____ يَزْلَهُ زَمْنًا: پیشاب روکنا -
 زَمْنَا عَلَيْنِهِ: نکل کرنا -
 أَزْنَاهُ أَزْنَاءُ: مجبور کرنا - چڑھانا - باز رکھنا -
 الزَّمَاءُ: پستہ قد - پیشاب یا خاندان روکنے والا -
 نکل - قبر -
 الزَّمِينِيُّ: چھوٹی مٹک -
 زَمِبٌ (س) زَمِنًا: موٹا ہونا -
 الأَزْمِبُ: موٹاپہ پستہ قد -
 الزَّمْبُ: بزدل - ایک خوشبو دار خوش منظر
 درخت -
 الزَّمَانِيُّ: آہستہ چال -
 زَمَانِيَّةُ: العُقُوبُ: بچھو کا ٹک -
 تَزْمِينٌ: عَلَيْنِهِ: تکبر کرنا - تشریف کرنا -
 الزَّمِينُ: شیر -
 الزَّمِينِيُّ: بھڑا - ایک درخت جو چنار کی مانند ہوتا
 ہے -
 الزَّمِينِيُّ: بھاری بھرم مرد - بڑی کشش - کہا جاتا
 ہے "سَفِينَةٌ زَمِينَةٌ"
 أَرْضٌ (مُزْمِنَةٌ) بہت بھڑوں والی زمین -
 الزَّمِينُ: گھڑی کا اسپرنگ (یہ کلمہ فارسی ہے)
 اس کے مقابلہ میں "التَّابِضُ" کا کلمہ وضع کیا گیا
 ہے -
 الزَّمِينَةُ: چرمی سوزے یا جوتے کی نوک -
 الزَّمِينُ: سوسن سفید یا سفید چٹیل - واحد زَمِينَةٌ -
 چینیلی کا تیل - بانسری - جِ ذَمَانِيٌّ أَمْ زَمِينِيٌّ: شراب -

الزَّمَانِيُّ: ایک قسم کا ساگ -
 الزَّمِينُ: پستہ قد مرد -
 تَزْمِينٌ: ناز سے چلنا -
 الزَّمِينَةُ: نکل - عسرت -
 زَمِينٌ (س) زَمْنًا: حیا سے آسٹوں کا سکرنا -
 زَمْنَةً: بڑائی یا بھلائی کا بدلہ دینا -
 تَزْمِينٌ: عَلَيْنِهِ: دوست درازی کرنا -
 الزَّمِينُ وَالزَّمِينُ: جھٹی واحد (زَمِينِيٌّ) جِ
 زَمْنُوجُ -
 الزَّمَانُ: بدلہ -
 الزَّمِينُ وَالزَّمِينُ: کمر بند -
 الزَّمِينَةُ: گدی جس کو عورتیں اپنے سرین پر
 بڑا معلوم ہونے کیلئے باندھتی ہیں -
 الزَّمِينِيُّ: سوٹھ - شراب -
 زَمْنُوجٌ: انگوٹھے کے ناخن کو اگھت شہادت
 کے ناخن سے مارنا -
 الزَّمِينُ: تانچے کا رنگ -
 الزَّمِينِيُّ وَالزَّمِينَةُ: سپیدی جو جوانوں کے
 ناخن پر ہوتی ہے - الزَّمِينِيُّ: ناخن کا لٹکا ہوا
 حصہ - زَمِينٌ: اس سے نکل کا اشتقاق کرتے ہیں
 اور کہتے ہیں (زَمِينَةٌ فَتَزْمِينُ) یعنی اس نے
 اسے قید کیا اور وہ قید ہو گیا اور عوام کہتے ہیں -
 جَمِينٌ وَجَمِينَةٌ -
 الزَّمِينِيُّ وَالزَّمِينَةُ: شگرف -
 الزَّمِينُ: کزور دست بدن والا مرد -
 زَمْنَةً (ف) زَمْنًا: تعریف کرنا - دفع کرنا -
 معاملہ میں نکل کرنا -
 زَمْنَةً: ایک دوسرے کی تعریف کرنا -
 زَمْنٌ وَتَزْمِينٌ: بار بار پانی پینا و تَزْمِينٌ
 الرَّجُلُ: کھل کر گفتگو کرنا - اپنے آپ کو مرتبہ
 سے زیادہ ظاہر کرنا - کسی معاملہ یا فرض میں نکل
 برتا -
 الزَّمِينُ: بدلہ -
 زَمْنٌ (ف) زَمْنًا: الدهنُ: تیل کا بگڑنا -
 خراب ہونا - صفت (زَمِينٌ)
 زَمْنٌ (س) زَمْنًا: الفَوَاحِشُ: چھیڑی کا چمکنا -
 زَمْنَةً: ایک دوسرے کو ہانا -
 تَزْمِينٌ: تکبر کرنا - کھل کر گفتگو کرنا -

اہل (زندقہ) پیاس کی وجہ سے سٹے ہوئے
پیٹ والے اونٹ۔
زَنَعْرُ بِمَنْعَرِهِ: خرا لے لیتا۔
زَنَدَان (ض) زَنَدَا: الإِنَاءُ: برتن کو بھرتا۔
النَّازُ: جھمکان سے آگ نکالنا۔
زَنَد (س) زَنَدَا: الزَّجَلُ: پیاسا ہونا۔
زَنَدٌ: جھوٹ بولنا۔ جھمکان سے آگ نکالنا۔
السَّيَاءُ مَكْبٌ: بھرتا _____ فی الأمرِ:
نگ دل ہونا _____ علی اہلبہ: سختی برتنا۔ کہا
جاتا ہے "مَا يُزِيدُكَ أَحَدًا عَلَيْهِ" یعنی تمہارے
لئے کوئی زیادہ نہیں کرے گا۔
أَزَنَدُ: الشَّيْءُ: زیادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا
يُزِيدُكَ أَحَدًا عَلَيْهِ" یعنی تمہارے لئے کوئی زیادہ
نہیں کرے گا _____ الزَّجَلُ فِيهِ وَجَعٌ: مرد کا
اپنی بہاری میں دوبارہ مبتلا ہو جانا۔
تَزَنَدُ: غھیناک ہونا۔ جواب نہ دے سکتا۔ تم
کہتے ہو "سَأَلْتَهُ مَسْئَلَةً فَتَزَنَدَ" میں نے اس
سے ایک مسئلہ پوچھا اور وہ جواب نہیں دے سکا۔
_____ فِي الْأُمُورِ كَذَا: نگ دل ہونا۔
الزَّنْدُ: سہ ہاتھ کا گنا۔ جھمکان کی اوپر والی لکڑی
یا پتھر اور نچلے کو (الزَّنْدَةُ) اور دونوں کو (الزَّنْدَانُ)
کہتے ہیں۔ جَزْدَانُو أَزْنَدُوا: ازادنا۔
اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَإِثْنُ الزَّنْدِ" فلاں
کامیاب ہے۔ و "فَلَانٌ كَامِيِبُ الزَّنْدِ" فلاں نا
کامیاب ہے و "هَمَّا كَزْنَدِيَيْنِ" وہ دونوں
مساوی ہیں اس کا استعمال عموماً دعات و حسرت
میں ہوتا ہے اور ان دونوں آدمیوں کیلئے بھی
بولتے ہیں جن کی وجہ سے حاجت پوری ہو اور جو
تمہاری مدد کرے اس کیلئے کہتے ہو "وَزَتْ بِلَكْ
زَنَادِي" یعنی تمہاری وجہ سے میری حاجت
پوری ہوئی۔
الْمُزْنَدُ: نگ۔ تجیل۔ منہ بولا بیانا۔ کم چوڑا کپڑا۔
عِظَاءُ مُزْنَدٌ: تھوڑی بخشش۔
الزَّنْدِيْلُ: بڑا ہاتھی۔ (عرب)
تَزَنَّقُ: بے دین ہونا۔ خود دانا۔ باطنی کافر
ہونا۔ صفت زَنْدِيْقُ: جَزْدِيْقَةٌ وَزَنَادِيْقُ
الزَّنْدَقَةُ: ظاہری ایمان و باطنی کفر۔ زَجَلٌ
(زَنَدٌ وَزَنَدٌ فِي) بہت تجیل۔

زَنَوَان (زَنَوَانُ) الإِنَاءُ: برتن بھرتا۔
_____ الْغَلَامُ: لڑکے کو جنینوں پر سنانا۔
زَنَوُ: الٰہی یعنی بہ: گھور کر دیکھنا۔
تَزَنَوُ: جنینوں پر سنانا _____ الشَّيْءُ: باریک ہونا۔
الزَّنَارُ: جَزْنَانِيْرٌ وَ الزَّنَارَةُ) جِنِيْرٌ: الزَّنَانِيْرُ:
چھوٹی ٹکریاں۔
الزَّنَزَلْعَتُ: ایک درخت کا نام۔
زَنَيْف (س) زَنَفَاو تَزَنَفٌ: غھیناک ہونا۔
زَنَق (ن) ض) زَنَقَاو زَنَقٌ: الفَرَسُ: گھوڑے کا
نچلے جڑے کے نیچے تسمہ لگانا۔
_____ التَّغْلُ: ٹھجری ٹانگوں میں پائے بند باندھنا۔
_____ وَزَنَقٌ وَآزَنَقٌ: عَلٰی أَوْلَادِهِ: اولاد پر نقتہ
میں ٹھجی کرنا۔
الزَّنَقُ: نیزے کی نوک۔ گھوڑے کا ٹھجلا جڑا
جہاں تسمہ باندھتے ہیں۔ جَزَنَقٌ وَزَنَقٌ:
الزَّنَقَةُ: نگ گلی۔
الزَّنَاقُ: گھوڑے کے نچلے جڑے کے نیچے کا
تسمہ۔ ٹھجرا کپائے بند۔ عورتوں کا ایک زیور۔
جَزَنَقٌ:
الزَّنَاقَةُ: گھوڑے کے جڑے کے نیچے کے تسمہ
کا حلقہ۔
الزَّنِيْقُ: درست۔ مضبوط۔ کہا جاتا ہے "زَانِقٌ
زَنِيْقٌ" درست رائے۔
الْمُزْنَوِقُ: صفہ۔ بند پٹیاب والا۔
الزَّنِيْقِيُّ: تراشہ ناخن۔
زَنَقَلٌ: الٰہی مَشِيْبَةٌ: اگر انار ہو کر چلنا۔
الزَّنَاكِي: شوخ و بیباک۔
الزَّنَوْنِكُ: بد صورت۔ پستہ تہ منکبر۔ اپنے
مرتبے سے آپ کو زیادہ سمجھنے والا۔
زَنَمٌ لَدَةُ الْخَصْمِ: کسی کو وکیل خصوصت بنا کر
بھیجنا۔
الزَّنَمَةُ: کان کا وہ حصہ جو کاٹ دیا جائے اور لٹکتا
رہے۔ حلق کے نیچے کا لٹکا ہوا گوشت۔ علامت۔
زَنَمَتَا الْأُخْنِ: کان کی لو کے قریب ابھرا ہوا حصہ۔
کہا جاتا ہے "فِي كَلَامِهِ زَنَمَةٌ خَيْرٌ أَوْ زَنَمَةٌ
شُرٌّ" یعنی اس کے کلام میں خیر یا شر کی علامت ہے۔
الزَّنِمُ: مِنَ الْجِمَامِ: اونٹ جس کے کان کا
کچھ حصہ کاٹ دیا جائے اور وہ لٹکتا رہے۔ مؤنث

زَنَمَةٌ:
الزَّنِمُ: مِنَ الْجِمَامِ: بمعنی الزَّنِمُ: مؤنث
زَنَمَاءُ: جَزَنَمُ:
الزَّنَامُ: معیبت۔
الزَّنِيمُ: کینہ۔ منہ بولا بیانا _____ وَالْمُزْنَمُ)
ابلی آدمی جو قوم میں داخل ہو جائے اور قوم
کے لوگ اس کے حاجت مند نہ ہوں۔
نَاقَةٌ مُزْنَمَةٌ: اونٹنی جس کے کان کا کچھ حصہ
کاٹ کر لٹکتا ہوا چھوڑ دیا جائے۔
زَنَان (ن) زَنَوَانُ: نگ ہونا۔ صفت (زَنِيْقٌ)
زَنِيْقٌ تَزَنِيْقٌ: عَلِيْبِهِ: ٹھجی کرنا۔
زَنِي (ض) زَنِي وَزَنَاءٌ وَزَنَانِي مَزَانَةٌ وَزَنَاءُ:
زنا کرنا۔ صفت (زَانٌ) جَزَنَاءُ: صفت مؤنث
زَانِيْعٌ جَزَوَانُ:
زَنِي: ہ: زنا کی نسبت کرنا یا زانی کہنا۔
أَزْنِي: أَزْنَاءُ: زنا کرنے پر آسانا۔
الزَّنِيْبَةُ: زنا کرنے والا۔ (تساہلہ کیلئے ہے)۔
الزَّنَاءُ: بہت زنا کرنے والی۔ بندر یا۔
الزَّنِيْبَةُ: مرد کا آخری پتھر۔
زہ۔ کلمہ استحسان بمعنی خوب اور کبھی تخمک کے
طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے بڑائی کرنے
والے کے لیے کہا جائے "أَحْسَنَتْ"
الزَّهْبُ وَ الزَّهْبَةُ: مال کا ایک حصہ۔
زَهْدٌ وَ زَهْدٌ (س) ن) وَ زَهْدٌ (ک) زُهْدًا وَ
زَهَادَةً: فِي الشَّيْءِ وَ عَنَهُ: بے رغبتی کر کے
چھوڑ دینا اور اسی سے ہے "زَهْدٌ فِي الدُّنْيَا" اس
نے دنیا سے منہ موڑ کر اپنے آپ کو عبادت کے
لیے فارغ کر لیا۔ صفت فاعلی (زَاهِدٌ) و صفت
مفعولی (مُزْهَدٌ) فَيُذَوِّدُ عَنَهُ:
زَهْدٌ زَهْدًا: التَّخَلُّعُ: گھجور کے درخت پر
پھلوں کا اندازہ کرنا۔
زَهْدَةٌ: فِي الشَّيْءِ وَ عَنَهُ: بے رغبت کرنا۔
(زَهْدٌ وَ أَزْهَدٌ) التَّخَلُّعُ: گھجور کے درخت پر
پھلوں کا اندازہ کرنا۔
تَزَهَّدُ: عبادت کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا۔
تَزَاهَدَ: الْقَوْمُ فَلَانًا: حثارت کرنا۔
أَزْهَدَ: الشَّيْءُ: کم سمجھنا کہا جاتا ہے "مُحَدُّ
(زَهْدٌ) مَا يَكْبِيْتُكَ" جتنا کم کو کافی ہو اس کو لے

۱۔ _____ ہ بالشو: بڑائی پر آسانا _____ بضا
 طلبیہ: پورا کرنا _____ بالشی: تعجب کرنا
 _____ الخیر: خبر میں زیادتی کرنا _____ لہ
 حدیثاً: جموںی بات بیان کرنا _____ الیہ
 حدیثاً: قول روئی کی نسبت کرنا۔
 انزھفت۔ الذابۃ: بارو غیر سے اچھلنا۔
 تزھف۔ عنۃ: امراض کرنا۔
 ازڈھف۔ الی المویب: موت سے قریب
 ہونا _____ عنۃ: امراض کرنا _____ الشی:
 منحرف ہونا _____ ہ: جلدی کرنا۔ ہلاک کرنا
 _____ ہ الذابۃ: جانور کا گردنا _____ الشی
 وہ: بے جا _____ العداۃ و بہا: دشمنی
 اختیار کرنا _____ الجھل: بوجھ اٹھانا _____
 فلائی: ہدی میں گھسا۔ گھنگو میں زیادتی کرنا
 _____ فی کلابہ: سختی کرنا اور آواز بلند کرنا۔
 زھق (ف) زھوقاً۔ العظم: ہڈی کا مغز سے پڑ
 ہونا _____ الباطل: نیست و نابود ہونا۔ کزور
 ہونا (_____ زھقاً و زھوقاً) النفس: _____
 روح کا جسم سے لگانا _____ الزاجلۃ: سواری
 کا آگے بڑھنا _____ الشی: تاجہ ہونا۔ ہلاک ہونا
 _____ السہم: تیر کا نشانہ سے گزر جانا۔
 ازھق۔ العظم: ہڈی کا مغز سے پر ہونا۔
 _____ الاناء: برتن بھرنا _____ الباطل:
 باطل کو نیست و نابود کرنا _____ السہم: تیر کا
 نشانہ سے گزانا _____ الناقۃ السنج: زمین کو
 آگے بڑھا کر گردن پر ڈال لینا _____ فی
 السیر: تیز چلنا۔
 زھق۔ الحق الباطل: حق کا باطل کو نیست و
 نابود کرنا _____ الاناء: برتن کو الٹ دینا۔
 انزھق۔ آگے بڑھنا۔ انزھقت الذابۃ: بار
 وغیر سے اچھلنا۔
 الذھق۔ پست زمین _____ والذھق: گڑھا۔
 الزاھق۔ فا۔ موٹا جانور۔ قوی۔ لاغر (ضد)
 کھست خوردہ _____ من السہام: نشانہ سے
 تیزوز کرنے والا تیر _____ من السہام: تیز بینے
 والا پانی۔ ج زھق و زھق (_____ والذھق)
 ہلاک ہونے والا۔ باطل۔ گمراہیوں۔
 الزھق۔ پھرنا۔ سبک۔

"فَضِيَتْ مِنْهُ زَهْرِي وَزَهْرِي" اس سے میں
 نے اپنی حاجت پوری کی۔
 الزھر۔ سینے کی پہلی تین راتیں (مانند غورد کے)
 الزھوۃ۔ خوبصورتی۔
 الزھوۃ۔ ایک سیارہ کا نام۔ یونانیوں کے علم
 الامان میں اس کو حسن و جمال کی دیوی مانتے تھے۔
 الزاھر۔ فا۔ خوشنما پودہ۔ چکدار صاف رنگ
 والا۔ کہا جاتا ہے "أخمر زاهر" بہت سرخ۔
 الزاھریتۃ۔ نازکی چال۔ کہا جاتا ہے "ھونئیشی
 الزاھریتۃ" وہ ناز سے چلتا ہے۔
 الأزھر۔ روشن۔ صاف رنگ والا۔ روشن چہرہ
 والا۔ جھکاوں۔ تازہ دودھ۔ سپید رنگ کا شیر۔ چاند۔
 جنگلی تیل۔ مومنٹ زھوا۔ عجم زھو۔
 الأزھوان۔ آفتاب و ماہتاب۔
 الزھراوان۔ من سور القرآن: سورۃ بقرۃ و
 سورۃ آل عمران۔
 الزھار۔ بہت چکدار۔ کہا جاتا ہے "نجم زھار"
 و قمر نواز۔"
 الزھوۃ۔ فا۔ ممانوں کیلئے آگ روشن رکھنے
 والا۔
 المیزھر۔ ایک قسم کا باجا۔ ج مزراھر۔
 زھرف۔ الشی: کھوٹا ہونا۔
 زھرق۔ الزجل: بہت ہنسنا۔ زھرقب الأم
 ولدھا۔ بیل کا پچھڑ کو کدنا۔
 الزھرق۔ کینہ۔ فرمایا۔
 زھف (ف) زھوقاً۔ الزجل: ذیل ہونا۔ ہلاک
 ہونا۔ جموت ہونا _____ للمویب او الی
 المویب: قریب المرگ ہونا۔
 زھف (س) زھقاً۔ للشی: جلدی کرنا۔ جست
 ہونا۔
 ازھف۔ الیہ الطغنة: قریب کرنا۔
 ازھقۃ الطغنة: قریب بہ ہلاک کرنا۔ ازھف
 علی البحریح: حمد کر کے نور آرا ڈالنا _____
 الزجل: جموت ہونا۔ خیانت کرنا۔ چھل خودی
 کرنا۔ بڑائی کی طرف جلدی کرنا _____ فلانا:
 ذیل کرنا۔ کسی کے ساتھ ہدی کرنا۔ ہلاک کرنا
 _____ الشی: ڈھیلنا۔ جلدی کرنا۔ لے جانا۔
 خراب کرنا۔

الزھد و الزھادۃ۔ حارث کی وجہ سے بے
 رغبتی۔
 الزھد۔ زکوٰۃ۔ ج زھاد۔
 أرض زھاد (زمین جو بہت پانی برسنے سے بچے۔
 الزاھد۔ فا۔ آخرت کی محبت کی وجہ سے دنیا
 سے بے رغبت۔ تک خو۔ ج زھد و زباد و
 زاهدون۔
 الزھید۔ کم حقیر مومنٹ زھیدۃ۔ کہا جاتا ہے
 "ھو زھید الخلق" وہ تک خو ہے۔ "ھو زھید
 العین" وہ سیر چشم ہے۔ تھوڑے پر تعامت کرتا
 ہے۔ و "واذ زھید" کہ پالی کو لینے والی وادی۔ ج
 زھدان۔
 الزھید۔ بہت بے رغبتی کرنے والا۔
 الزھید۔ کم مال والا۔
 زھو (ف) زھوزاً۔ السواج او القموز او
 الوجھ: چمکانا۔ روشن ہونا _____ الشی:
 صاف رنگ وال ہونا _____ الزند: بہت مقل سے
 آگ روشن ہونا۔ کہا جاتا ہے "زھرت بک
 زنادی اوتاری" تمہاری وجہ سے مجھے قوت
 حاصل ہوئی اور میں معزز ہوا۔
 زھو (س) زھوا او زھو (ک) زھوزۃ۔
 الوجھ: خوبصورت و بارون ہونا۔
 ازھر۔ التباث: کلی لگانا _____ التاز: آگ
 روشن کرنا۔
 ازڈھو۔ روشن ہونا۔ چکدار ہونا۔
 بالامر: گمراہی کرنا۔ دل میں رکھنا۔ کہا جاتا
 ہے "ازڈھو بهذا افاق لہ شاناً" اس کی حفاظت
 کرو اس لیے کہ اس کیلئے ایک خاص شان ہے۔
 ازھو و ازھار۔ التباث: کلی لگانا۔ شگوف دار
 ہونا۔
 تزاھر۔ السواج و نحوہ: چراغ وغیرہ کا
 روشن ہونا۔
 الزھر و الزھر۔ کلی۔ شگوف۔ واحد (زھوۃ و
 زھوۃ) زھوۃ الدنيا: دنیا کی رونق و خوبی۔ ج
 ازھر و ازھار و زھور۔ ج ازاھر و ازاھیر۔
 زھو التزد: تاش۔
 الزھو و الزھوۃ۔ حاجت۔ کہا جاتا ہے

فروش (زَهْمِي) سبقت لے جانے والا گھوڑا۔
 الزَاهِقَةُ: الزاهق کاموٹ۔ پُتْرُ زَاهِقَةٍ: گھرا
 کنواں۔
 الزَّهَاقُ وَالزَّهَاقُ: مقدار۔ تقریباً۔ کہا جاتا ہے
 ”عِنْدِي زَهَاقٌ مِائَةٌ دِينَارٌ“ میرے پاس تقریباً
 سو دینار ہیں۔
 جَاءَتِ الْخَيْلُ (أَزْهَقٌ وَأَزْهِيقٌ)
 گھوڑوں کی متفرق جماعتیں آئیں۔
 الْأَزْهَقَةُ: عجیب قسم کی دوڑ۔ جِزْجِزٌ أَزْهِيقٌ کہا
 جاتا ہے ”فَرَسٌ ذَاتُ أَزْهِيقٍ“ عجیب قسم سے
 دوڑنے والا گھوڑا۔
 الْمَرْهَقَةُ: سب بھلاں۔ سب ہلاکت۔ کہا جاتا
 ہے ”جَمَلٌ مَرْهَقَةٌ لِأَزْوَاجِ الْمَطِيِّ“ اونٹ
 سواریوں کی روح کیلئے باعث ہلاکت ہیں۔ یعنی
 سواریاں پوری کوشش کرتی ہیں اور اونٹوں کے
 ساتھ لاحق نہیں ہوتیں۔
 زَهَكَ (ف) زَهَكَ: کوٹنا۔ الرِّيحُ
 الْأَرْضِ: ہوا کا خاک کو اڑانا۔
 زَهَلَ (س) زَهَلَ الشَّيْءُ: سفید و چمکانا ہونا۔
 زَهَلَ (ف) زَهَلَ عَنِ الشَّيْءِ: دور ہونا۔
 الزَّاهِلُ: فا۔ مطمئن دل والا۔
 الزُّهْلُولُ: چمکانا۔ جِزْجِزٌ زَهَالِيْلٌ۔
 زَجَلٌ (زَهَلْبٌ) سبک و اڑھی والا مرد۔
 زَهَلَجَ زَهَلَجَةً: ایک دوسرے کے ساتھ
 نرمی کرنا۔
 تَزَهَلَجَ: الترفیح: بیزے کا سیدھا لگانا۔
 زَهَلَفَ: الشَّيْءُ: جاری کرنا۔ جائز رکھنا۔
 زَهَلَقَ: الشَّيْءُ: چمکانا سفید کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”زَهَلَقَ لَهُ الْخَدِيثُ“ اس نے اس کو نرم و منگھو
 سے مخاطب کیا۔
 تَزَهَلَقَ: چمکانا سفید ہونا و تَزَهَلَقَ الْخَيْوَانُ“
 موٹا ہونا۔
 الزَّهْلِقُ: چمکانا۔ ہلکا چمکانا تیز آدمی۔ تیز ہونا۔ ہی کی
 لوکی جگہ۔ حَمَازٌ زَهْلِقٌ: ہوا پر بیٹھ و موٹا گدھا۔
 جِزْجِزٌ زَهَالِيْقٌ۔
 الزُّهْلُوْقُ: موٹا۔
 زَهَمَ (ن) زَهَمًا وَأَزْهَمَ: الْعَظْمُ: ہڈی کا
 پُرمغز ہونا۔ زَهَمَهُ عَنْ كَذَا: روکنا۔ زَهَمَ

الزَّجْلُ عَلَيْهِ: بہت باتیں کرنا۔
 زَهَمَ (س) زَهَمًا: بد ہنسی والا ہونا۔ صفت
 (زَهْمَانٌ) چمکانا ہٹ والا چربی دار ہونا۔ صفت
 (زَهْمٌ) موٹا زَهْمَةٌ۔
 زَاهَمَهُ: باہم دشمنی کرنا۔ باہم دوستی کرنا۔ ایک
 دوسرے سے جدا ہونا۔ ایک دوسرے کے قریب
 ہونا۔ (ضد)
 الزَّهْمُ: بددوار ہونا۔ چربی۔ ایک خوشبو کا نام جو
 الزبار کے نام سے مشہور ہے۔ (دیکھئے لفظ الزَّيَادُ)
 الزَّهْمَةُ وَالزُّهْمَةُ وَالزَّهْمُ: سڑے ہوئے
 گوشت کی بدبو۔
 زَهَا (ن) زَهَوًا وَزَهْوًا وَزَهَاءً: چمکانا۔ روشن
 ہونا۔ بوجھنا۔ نشوونما پانا۔ التَّخَلُّ: درخت
 خرما کا لہنا ہونا۔ البَشْرُ: رنگ پکڑنا۔
 الْعُلَامُ: بلا کے کا جان ہونا۔ التَّبْتُ: پھل
 دار ہونا۔ الشَّاةُ بَكْرِيٌ قَرِيبٌ وَوِلَادَتُهَا كِي وَجْهٍ
 سے تھن والی ہونا۔ الرِّيحُ: چلنا۔
 الزَّجْلُ: جھوٹا ہونا۔ تکبیر کرنا۔ (زَهَا) (ن) زَهْوًا
 فُلَانًا: تجارت کرنا۔ الْكِبْرُ فُلَانًا: خود پسند
 بنانا۔ زَهَا السَّوْجُ: روشن کرنا۔
 الرِّيحُ النَّبَاتُ: تر شدہ گھاس میں ہوا
 کی وجہ سے لہنا ہٹ ہونا۔ الْأَمْوَاجُ
 الشَّيْفِيَّةُ: موجوں کا کشتی کو بلند کرنا۔ فُلَانٌ
 بِالسَّيْفِ: تلوار چمکانا۔ فُلَانًا بِالْعَصَا:
 لاشھی سے مارنا۔ الْمَسْرَابُ الْأَكْمَةُ:
 بڑھا ہوا: نمایاں کرنا۔ (يَزْهُوها مستعمل نہیں
 ہے)۔
 زَهِي: الزَّجْلُ بَكَدًا: تکبیر کرنا۔
 أَزْهِي: تکبیر کرنا۔ التَّخَلُّ: لہنا ہونا
 البَشْرُ: رنگ اختیار کرنا۔
 زَهِي: البَشْرُ: رنگ اختیار کرنا۔ زَهَتْ
 الْمَرْوَجَةُ الرِّيحُ: بچھے کا ہوا کو حرکت میں لانا۔
 إِذْهَى: الزَّجْلُ: مغرور بنانا۔ تجارت سے
 دیکھنا۔ هَ عَلَى الْأَمْرِ: مجبور کرنا۔ هَ وَبِهِ:
 تجارت کرنا۔
 الزَّهَاءُ: مہ۔ مقدار۔ تقریباً۔ کہا جاتا ہے
 ”عِنْدِي زَهَاءٌ خَمْسِيْنَ دِرْهَمًا“ میرے پاس
 تقریباً پچاس درہم ہیں۔

الزَّهْمُ: مہ۔ فخر۔ تکبر۔ غرور۔ جھوٹ و باطل۔
 ظلم۔ سرسبز نباتات۔ زردیا سرخ کچی کھجور۔
 (____) (الزَّهَاءُ) تروتازگی و خوبصورتی۔ زَهَا
 الدُّنْيَا: دنیا کی زینت و آرائش۔
 الزَّهْوُ: زردیا سرخ کچی کھجور۔
 الزَّهْيُ: فا۔ پر رونق چمکانا چہرے والا۔
 مَوْتٌ زَاهِيَةٌ۔
 الْمَرْوَجَةُ وَالْمَرْوَجَةُ: منگھرو مغرور۔
 زَاءٌ يَزْوَعُ زَوْءَهُ: بِهَ الذَّهْرُ: ____ زمانہ کا
 پلٹ جانا۔
 زَابٌ يَزْوُبُ زَوْبًا: چپکے سے بھاگ جانا
 ____ الْمَاءُ: جاری ہونا۔
 رَاحٌ (ن) زَوْجًا: يَبْتَهِمُهُمْ: بھڑکانا۔ فساد ڈالنا۔
 زَوْجَةٌ: امْرَأَةٌ أَوْ بَاهِرَةٌ أَوْ لِامْرَأَةٍ: نکاح کرنا
 ____ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ وَالْيَهُ: ملانا۔
 زَاوَجَهُ: باہم میل ملاپ رکھنا۔ باہم قریب ہونا
 (____) وَأَزْوَجَ (بَيْنَهُمَا): قریب کرنا۔
 تَزَوَّجَ: امْرَأَةً أَوْ بَاهِرَةً: نکاح کرنا ____
 فِي قَوْمٍ: کسی قوم میں نکاح کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”تَزَوَّجَهُ النَّوْمُ“ اس کو نیند آگئی۔
 إِذْوَجَ وَتَزَاوَجَ: الْكَلَامُ: کلام کا ایک حصہ
 دوسرے حصہ کے صحیح یا وزن میں مشابہ ہونا
 ____ الْقَوْمُ: باہم شادی بیاہ کرنا۔
 الزَّوْجُ: چمکری (کلمہ فارسی) عوام ”البحجاز“
 کہتے ہیں۔
 الزَّوْجُ: شوہر۔ بیوی۔ ساتھی۔ جوڑا۔ کہا جاتا
 ہے ”عِنْدِي زَوْجًا حَمَامٌ“ میرے پاس ایک
 جوڑا کبوتر ہے۔ وَأَشْتَرَيْتُ زَوْجِي نَعَالٌ“ میں
 نے ایک جوڑہ جوٹا خریدا۔ ہر چیز کی قسم۔ ج
 أَزْوَاجٌ وَزَوْجَةٌ: جِزْجِزٌ أَزْوَاجٌ۔
 الزَّوْجَةُ: بیوی۔ جِزْجِزٌ زَوْجَاتٌ۔
 الزَّوْجُ: شادی بیاہ۔
 رَاحٌ يَزْوُجُ زَوْجًا وَزَوْأَخًا ____ عَنِ
 الْمَكَانِ: دور ہونا۔ بُنَا: جانا ____ الْعِلَّةُ:
 زائل ہونا (____ زَوْجًا) الْإِبِلُ: پُراگندہ کرنا۔
 جمع کرنا۔ (ضد)
 أَزَاخَةٌ: جگہ سے ہٹانا ____ الْأَمْرُ: کام کو
 پورا کرنا۔ انجھام کو پھینکانا۔ کہا جاتا ہے ”أَزَاخَهَا

الزاعة۔ پولیس کی جماعت (جمع ہے مثل باعة وسادة کے)
الزوق والزوج۔ کڑی۔

زاع يزوق زوعا۔ الشئ: کسی چیز کو جگانا
_____ التافة: اوستی کو مٹانے کے لیے
زوعا وزوعانا، مائل ہونا۔ علم کرنا
البيض: ننگہ میں خلل ہونا۔
ازاعه ازاغة جگانا۔
الزاع۔ کو۔

زافت تزوف زوفاً۔ الحصاة: کبوتر کا زود
دم کو پھیلنا کر زمین پر کھینچنا
الضواہ: پرندہ کا نصاب گولائی میں اڑنا
الزجل: مرد کا ہاتھ پاؤں چھوڑ کر اعصاب ڈھیلے کر
کے چلنا
_____ الماء: پانی کا بلبلے والا ہونا
_____ وتزواف: اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کرنے کے
لیے ورزش کی مشق کرنا۔

الزؤوف۔ چلنے میں ڈھیلپن۔
الزؤوفی والزؤفاء۔ ایک دوا کا نام۔ موت
(زؤاف) جلدی کی موت۔

زؤق۔ الکلام: آراستہ کرنا۔ مزین کرنا
_____ البیت: نقش و نگار کرنا
_____ اللبؤم: پارہ کا طمع کرنا۔

الزواق۔ لڑکی کی نسبت۔
الزؤفة۔ گھروں میں نقش و نگار کرنے والے۔
الزؤوق والزؤوق۔ پارہ۔

زاک يزوك زوكا وزوكا۔ موٹھوں کو
حکرت دینا اور ناگھوں کو کشادہ کرنا۔ کھیر سے چلنا۔
تزاولك تزاولكاً۔ شرم کرنا۔

الزوک۔ کوئے کی چال۔
زال يزول زولا وزولا وزولا وزولا
وزولا وزولاً۔ جا رہا۔ پھر جانا اور اسی سے

ہے "زال عنہ منکة" اس کی سلطنت جاتی
ری۔ جدا ہونا۔ ہلاک ہونا
_____ زولاً حرکت
کرنا اور اسی سے ہے "ازی النجوم تزول ولا

تغيب" یعنی میں دیکھ رہا ہوں کہ ستارے
حکرت کر رہے ہیں اور غائب نہیں ہوتے۔ و۔
"فلان يزول في القاص" فلاں لوگوں میں بہت
چلا پھرتا ہے۔

ذالت (ن) زوالاً وزؤولا وزولاً وزولاً۔
الشفس: آفتاب کا چلنا۔ الخيل بزواياها:
لے کر اٹھنا اور اسی سے ہے "زبل بتغيبه" یعنی
اس کی غش اٹھائی گئی۔ کہا جاتا ہے "زال زابل
الطل" یعنی دوپہر ہو گئی۔ و "زال اوزبل زولته
وزواله" ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی جانب
بھٹک گئی۔

ازالو زولوا وازدالة۔ ہٹانا۔ کہا جاتا ہے "ازال
الله زواله" یعنی اللہ اسے ہلاک کرے۔ زؤل
الشئ: کسی چیز کو لانا۔

زاوله۔ کو شش کرنا۔ تصد کرنا۔ تلاش کرنا۔
تزؤل۔ الشئ: کسی چیز کو لانا
_____ الغلام:
لڑکے کا اسمائ زبرک و ظریف ہونا۔

تزاول۔ القوم: باہم کو شش کرنا۔
إززال۔ عنہ: جدا ہونا۔
إزولاً وزولاً۔ الشئ: زائل ہونا۔

الزؤل۔ مع۔ تعجب۔ عجب۔ کہا جاتا ہے "مسير
زؤل" یعنی عجب سیر و "شهوة زولة" عجب
سروری۔ الزؤل: وجود انسانی۔ فیاض مرد سبک و
ظریف وزیرک۔ ہمار۔ بلاج۔ ازوال۔

الزوال۔ مع۔ سورج کا چلنا۔ کہتے ہیں الساعة
الرابعة زوالاً۔
الزابل۔ قا۔ کہا جاتا ہے "ليل زابل النجوم"
یعنی لمبی رات۔

الزوال۔ بہت حرکت کرنے والا۔
الزائلة۔ الزابل کامؤنٹ۔ زندہ یا متحرک چیز۔ ج
زوايل۔ الزوايل۔ ستارے۔ مور تیں۔ شکار۔
الزويل۔ مع۔ حرکت۔ جانب۔

الجزولة۔ دھوپ کڑی۔ جزاویل
زائم يزوم زوعا۔ الزجل۔ مرنا۔
الزوم۔ ہرجی کی چو تھالی۔ زام من النهار۔ یوں کی
چو تھالی۔ زامان من النهار۔ دن کا نصف حصہ۔

الزامة۔ جماعت۔ گروہ۔ ج زاعات۔
الزوم۔ عند العامة: عوام کے نزدیک کسی چیز کا
شیرہ یا نجوم زامو اور اس کے لیے فصیح لفظ النسخ
ہے۔ وہابی۔ جس سے کپڑا ہموایا جائے اور اس کیلئے
فصیح لفظ الغسالہ ہے۔

الزوم۔ ہرجی کا گروہ۔
الزوم۔ عند العامة: عوام کے نزدیک کسی چیز کا
شیرہ یا نجوم زامو اور اس کے لیے فصیح لفظ النسخ
ہے۔ وہابی۔ جس سے کپڑا ہموایا جائے اور اس کیلئے
فصیح لفظ الغسالہ ہے۔

الزوم۔ ہرجی کا گروہ۔
الزوم۔ عند العامة: عوام کے نزدیک کسی چیز کا
شیرہ یا نجوم زامو اور اس کے لیے فصیح لفظ النسخ
ہے۔ وہابی۔ جس سے کپڑا ہموایا جائے اور اس کیلئے
فصیح لفظ الغسالہ ہے۔

زومل۔ الايل: اونٹوں کو بانگنا۔

الزوملة۔ مع۔ گدھے مع یوں جھوسوں کے۔ کہا جاتا
ہے "هو ايل زوملها" وہ اس کا جاننے والا ہے۔
الزوان۔ بد بھنی۔

الزؤن والزؤن والزؤن۔ پستہ۔ قد۔ الزؤن۔ بہت
یامندر۔
الزؤنة۔ زنت۔ سمجھدار عورت۔

الزوان والزوان والزوان۔ دیکھنے والے الزوان
بالهخرة۔
زوی يزوي زويًا وزويًا۔ الشئ: جدا کرنا۔ یکسو
کرنا۔ روکنا۔ جمع کرنا۔ جمع کرنا
_____ العال
وغیره: اکٹھا کرنا عند السور: راز کو پوشیدہ رکھنا
_____ عنه حقة: کسی کا حق روک لینا۔

الدهور القوم: زمانہ کا قوم کو تباہ و برباد کرنا۔
زؤی و تزؤی و تزؤی۔ گوشہ نشین ہونا۔
تزؤی و تزؤی: سکڑنا۔ زؤی الکلام: دل
میں سوچنا۔ تزؤی القوم: بغضہم الی بغض:
سمٹنا۔ ایک دوسرے کے قریب ہونا۔

الزوانة۔ من البیت: گوشہ۔ ج زوايا۔
والزوانة: عند الحجارين والتجارين
وغیرہم: دو مستقیم ضلعوں کا ایک آلہ کہ جس
کے ضلعوں کا ایک ایک سر باہم اس طرح جڑا ہوا
ہوتا ہے کہ ان کا درمیانی گوشہ زاویہ قائمہ بن
جاتا ہے۔

تزؤب۔ لحمه: گوشت کے ٹوٹنے سے بنا۔
الزؤب۔ ہوا کی تیزی۔
زؤبل (زؤب و اؤب)۔ ہمارو دلیہ مرد۔

الأؤب۔ شاولی۔ پست قدم۔ قریب قریب
قدم رکھنے والا۔ کینہ۔ مشہور بلائیا۔ اجبی۔ امرید۔
بلا مصیبت۔ دشمنی۔ بہت پائی۔ شاولی۔ سی۔
جھولی ہوا۔

الأؤب۔ شہید۔ بخیل۔
الزؤب۔ پارہ۔

زات يزوت زوتًا وزوتًا۔ الطعام: کھانے
میں زیتون کا تیل و زانا
_____ الشئ: کسی چیز پر
زیتون کا تیل لگانا
_____ القوم: لوگوں کو زیتون
کا تیل کھانا تو شہ دینا۔

ازات ازاتة۔ بہت تیل والا ہونا۔

زینت دینا۔

تَزَيَّنَ تَزْيِينًا وَازْتَانًا وَازْدَانًا إِذْبَانًا
وَازْتَيْنًا إِزْتَيْنَانًا وَازْتَانًا إِزْتَيْنَانًا۔ آراستہ ہوتا۔

الزَّائِنُ - فَا - اِمْرَاةً زَائِنًا : آراستہ عورت۔

الزَّيْنُ - م - اَرَاغْلِي حَ اَزَّيْنَانِ - الزَّيْنُ : ایک
درخت کا نام جس سے تیر بناتے ہیں۔ زَيْفُنُ
الذَّيْبُكُ : مرغ کی کلتی۔

الزَّوَانَةُ - ب - بَعْضِي -

الزَّيْنَةُ - اَرَاغْلِي حَسَّ : زینت کی جائے۔

اَمْرَاةٌ زَائِنَةٌ عِنْدَ الْاَطْبَاءِ : بال یا کمال یا ناخن
کے امراض۔

الزَّيْنَانُ - خَوْبُصُورَت - کما جاتا ہے "قَمَرُ زَيْنَانٍ"

الزَّيْفُلُ - دونوں رانوں کے درمیان کی دوری۔
الْاَزْفُلُ - دونوں رانوں کے درمیان فاصلہ

والا - زَجْلٌ اِمْرِيْلٌ وَهَزْبَانٌ اَخْرَشٌ طَبْحٌ - زيرک۔

زَامٌ يَزِيْمٌ وَيَزَامُ زَيْمًا - يَفْلَانٌ فَاَسْكَنَهُ :
ایک کلمہ بول کر خاموش کر دینا۔

تَزَيَّعَتِ - المَخِيْلُ وَغَيْرُهَا : گھوڑے وغیرہ کا
پرانگنہ ہوتا۔ الخَمُّ : گوشت کا کٹڑے
کٹڑے ہوتا۔ آپس میں گتھا ہوا ہوتا۔

الزَّيْفَةُ - گوشت وغیرہ کا کٹڑا۔ حَزِيْمٌ

زَانَةٌ يَزِيْنَةُ زَيْنًا - زینت دینا۔ الشَّيْءُ :
خوبصورت بنانا۔ آراستہ کرنا۔

زَيْكَةٌ تَزِيْنُهَا وَازَانَةٌ اِزَانَةٌ وَازْتَانَةٌ اِزْتَانًا۔

خوبصورت جانے۔

الزَّيْنَانُ - ہر وہ چیز جس سے زینت کی جائے۔

المُزَيِّنُ - فَا - نَالِي - (مولد)

زَيْتَاهُ تَزْيِينَةٌ - پوشاک پہنانا۔ کما جاتا ہے "هَذِهِ


زَائِيٌّ فَزَيَّيْنَاهَا" یعنی اس کو حرف زاب سے پڑھو۔

تَزَيَّنَا - آراستہ ہونا۔ بَنِي الْقَوْمِ : قوم کا
لباس پہننا۔

الزَّيْنِي - بَيْت - شَكْل - پوشش۔ کما جاتا ہے

"اَقْبَلُ بَنِي الْعَرَبِ" وہ عرب کے لباس میں آیا

و "جَاءَ نَابِزِي غَرِيْبٌ" وہ ہمارے پاس عجیب
لباس میں آیا۔ حَزِيْمٌ اَزَّيْنًا۔



السین۔ فصل مضارع کو مستقبل قریب کے معنی کے لیے خاص کر دیتا ہے۔

سَأْتُهُ (ف) سَأْتًا۔ گلا گھوٹنا۔ السقاء: مٹک کو کشادہ کرنا۔ وَسَيْبٌ (س) سَأَبًا) مِنْ السَّوَابِ: آسودہ و سیراب ہونا۔

السَّابِ۔ مہ۔ بڑی مٹک۔ ج سَوُوبٌ۔ السُّوَبَانُ۔ مال کا بہترین قسم۔ السَّابِ بڑی مٹک۔ بہت پانی پینے والا۔ سَأْتُهُ (ف) سَأْتًا۔ گلا گھوٹنا۔ گلا گھوٹ کر مار ڈالنا۔

السَّاتِ۔ گلے کی ایک جانب۔ سَأْدَةٌ (ف) سَأْدًا وَسَأْدًا۔ گلا گھوٹنا۔ شَبْدٌ۔ کھاری پانی کے پینے سے بیمار ہونا۔ صفت (مشفؤد)

سَبْدٌ (س) سَأْدًا۔ بِنَا۔ الجَحْجَحُ: رُحْمٌ لُوثٌ کر مٹا۔ صفت (سَبْدٌ)

أَسَاءَ إِسَاءًا۔ ساری رات چلنا۔ کہتے ہیں "أَسَعَدَ يَوْمَهُ إِسْعَادًا مِنْ أَسَاءٍ وَلَيْلَةً إِسَاءًا" جو شخص ساری رات چلتا رہا اس نے اپنے دن کو کامیاب بنایا۔

السُّوَادُ۔ کھاری پانی پینے کی وجہ سے بیماری۔ السُّوْدَةُ۔ بقیہ جوانی۔

السَّادُ۔ تیل یا شہد کی مٹک۔ سَأَرٌ (ف) سَأَرًا وَأَسَارًا۔ الشَّارِبُ فِي الْإِنَاءِ: کچھ باقی چھوڑنا۔ صفت (سَأَرٌ) اور کہا جاتا ہے "أَسَارٌ الْحَاسِبُ لِيُنْجِسَ بِهِ" حساب لگانے والے نے حساب کو پوری طرح سے نہیں کیا۔

سَبْرٌ (س) سَأَرًا۔ الشَّيْءُ: باقی رہنا۔ تَسَارٌ۔ التَّيْبُدُ: جمونا نیندینا۔

السُّوْرُ۔ جمونا پانی وغیرہ۔ بقیہ۔ ج أَسَارٌ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سُورٌ سُورٌ" وہ شریک ہے۔

السُّوْرَةُ۔ بقیہ جوانی۔ لِقِنُ الصَّالِ: عمدہ مال۔ ج سُورٌ۔

السَّائِرُ۔ فَا مِنْ الشَّيْءِ: بقیہ۔ سَأَسًا سَأَسًا۔ بِالْحَمَارِ: گلہ سے کو روکنے کیلئے ڈانٹنا پینے یا چلنے کیلئے آواز دینا۔ تَسَأَسَاتِ الْأَمْوَالُ: مختلف ہونا۔

سَأَلْتُ (ف) سَأْفًا وَسَيْفَتْ (س) سَأْفًا يَدُهُ: ناخن کے ارد گرد پھٹنا۔ ہاتھ کی صفت (سَيْفَةٌ) (سَيْفٌ) وَالسَّافُ: لَيْفُ النَّخْلِ: پھٹنا۔ پراگندہ ہونا۔ چھلنا۔

السَّافُ۔ کھجور کی شاخ۔ دم کے بال۔ السَّائِفَةُ۔ ریت کے تودے کے نیچے کی باریک ریت۔ ج سَوَائِفٌ۔

سَأَلٌ (ف) سَأَلًا وَسَأَلَةً وَسَأَلَةً وَمَسْأَلَةً وَتَسْأَلًا۔ طلب کرنا۔ مانگنا۔ درخواست کرنا۔ اس کا تعدیہ دو مفعول کی طرف ہوتا ہے۔ جیسے "سَأَلْتُ اللّٰهَ نِعْمَةً" اور جب استہجار کے معنی میں ہو تو مفعول اول کی طرف بتسم اور مفعول ثانی کی طرف عن سے تعدی ہوتا ہے جیسے سَأَلْتُهُ عَنْ خَاجِيْبِهِ" اور کبھی حمزہ کی تخفیف ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے "سَأَلُ تَسْأَلُ سَلٌ" مثل خاف يخاف خُفٌّ خَفٌّ" اور اسم مفعول "مَسْئُولٌ" مانند خُوفٌ كَـ۔

سَاءَةٌ لَّهُ وَسَائِلُهُ مُسَاءَةٌ لَّهُ وَ مُسَائِلَةٌ وَسَاءَةٌ لِي عَنْهُ: بمعنی سال۔

أَسْأَلُهُ۔ سُؤْلُهُ وَسُؤْلَتُهُ وَمُسْأَلَتُهُ: حاجت پوری کرنا۔

تَسْأَلٌ وَتَسْوَلٌ۔ مانگنا۔

تَسْأَلٌ وَتَسْوَلٌ وَتَسْأُولٌ۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے پوچھنا۔

السُّؤْلُ وَالسُّؤْلُ وَالسُّؤْلَةُ وَالسُّؤْلَةُ۔ درخواست۔ التَّحِيَا۔

السَّأَلُ وَالسُّؤْلَةُ وَالسُّؤُولُ۔ بہت سوال کرنے والا۔

السَّائِلُ۔ فَا۔ مانگنے والا۔ ج سَائِلُونَ وَسُؤْلٌ وَسُؤَالٌ وَمَسْأَلَةٌ۔

المَسْئَلَةُ۔ حاجت۔ مطلب۔ ج مَسَائِلُ الْمَسْئُولِيَّةِ۔ ذمہ داری۔

سَبِمٌ (س) سَأَمَةٌ وَسَأَمًا وَسَأَمَةً وَسَأَمًا وَسَأَمَةً۔ الشَّقُّ وَوَيْدُهُ: کسی چیز سے ملول ہونا۔ آتا جانا۔ صفت (سَوْدَمٌ)

أَسَاءَهُ إِسَاءًا لَوْلَا كَرَاهِيَتَا

سَأَانَ (س) سَأَوًا۔ دُوْرًا۔ الشَّقُّ: کسی چیز کی نیت کرنا۔ قصد کرنا۔ الزَّجْلُ: کسی کو گلین کرنا۔ النَّوْبُ: کپڑے کو کھینچ کر پھاڑنا۔ يَنْهَمُّهُمُ: لوگوں میں فساد ڈالنا۔

السَّأُوْ۔ مہ۔ وطن۔ وہ جت جہاں کارا وہ کیا جائے اور کہا جاتا ہے "هُوَ يَبْعِدُ السَّأُو" وہ بڑی بہت دور ہے۔

سَبْتٌ (ن) سَبًا وَسَبِيْبِيٌّ۔ سخت گل رہنا۔ مقعد میں نیزہ مارنا (سَبًا) الخَبْلُ: رستی کو کاٹنا۔ الْفَرْصُ: گھوڑے کو زخمی کرنا۔ کو نہیں کاٹنا۔

سَبِيْبَةٌ۔ بہت گل رہنا۔ الْأَسْبَابُ: اسباب پانا۔ لِلْمَاءِ مَجْرَى: پانی کے لیے تلی درست کرنا۔ الْأَمْرُ: سبب بنتا۔

سَبَابَةٌ مُسَابَةٌ وَسَبَابَةٌ۔ گل رہنا۔ تَسَبَّبَ: اسباب ڈھونڈنا۔ بِه الْيَبِيْه: وسیلہ بنتا۔ بِالْأَمْرِ: سبب ہونا۔

سَبَابَةٌ۔ بہت گل رہنا۔ الْأَسْبَابُ: اسباب پانا۔ لِلْمَاءِ مَجْرَى: پانی کے لیے تلی درست کرنا۔ الْأَمْرُ: سبب بنتا۔

سَبَابَةٌ مُسَابَةٌ وَسَبَابَةٌ۔ گل رہنا۔ تَسَبَّبَ: اسباب ڈھونڈنا۔ بِه الْيَبِيْه: وسیلہ بنتا۔ بِالْأَمْرِ: سبب ہونا۔

سَبَابَةٌ۔ بہت گل رہنا۔ الْأَسْبَابُ: اسباب پانا۔ لِلْمَاءِ مَجْرَى: پانی کے لیے تلی درست کرنا۔ الْأَمْرُ: سبب بنتا۔

سَبَابَةٌ۔ بہت گل رہنا۔ الْأَسْبَابُ: اسباب پانا۔ لِلْمَاءِ مَجْرَى: پانی کے لیے تلی درست کرنا۔ الْأَمْرُ: سبب بنتا۔

نَسَبًا - الزَّجْلَانِ: باہم قطع تعلق کرنا اور گال گلوچ کرنا۔

إِسْتَبَّ - الْقَوْمُ: باہم گال گلوچ کرنا۔

إِسْتَبَّ لَهُ: گال کیلئے پیش کرنا۔

إِسْتَبَّ لَهُ الْأَمْرُ: کام کا درست ہونا۔

السَّبَّ وَالسَّبِيَّةَ وَالْمَسْبُوبَ وَالْمَسْبُوتَةَ۔

بست گالی دینے والا۔ السَّبَّ: بیخ مشبُوب: رستی۔

عاصم۔ کھوئی۔ کٹاں کا پاریک کھڑا پرورد۔

السَّبِيَّةُ - مِنَ الْحَرَوِ الْبُرْدِ أَوْ الدَّهْرِ: عرصہ

مقتد۔

السَّبِيَّةُ - أَمَّحَتْ شَارَاتٌ عِنْدَ

الْمَوْلُودِينَ: ہفتہ۔

السَّبِيَّةُ - جَسَ كَوْلُوكَ بَسْتِ غَالِي - رِي - عَارُ بِي

عَزَلِي -

السَّبَبُ - رَسِي - ذُرِّيَّة - رَا سْت - كَمَا جَا تَا هِ

"مَالِي الْيَوْمَ سَبَبٌ" مِيرے لیے اس کی طرف

کوئی راستہ نہیں۔ و "قَطَعَ اللَّهُ بِهِ السَّبَبُ"

اللہ نے اس کی زندگی ختم کر دی۔ دوستی۔ رشتہ

داری۔ فِی الْفُرُوضِ: دو حرف متحرک یا ایک

متحرک اور ایک ساکن۔ جَ اسْتَبَابَ - اسْتَبَابَ

السَّعَاءُ: آسمان کے اطراف یا آسمان میں چڑھنے

کی جگہ اور کہا جاتا ہے "تَعَاظَى الْأَسْتَبَابُ"

اس نے امورِ معیشت کے اسباب حاصل کئے۔ و

"تَفَقَّطَتْ بِهِمُ الْأَسْتَبَابُ" ان کی دوستیاں اور

تعلقات ختم ہو گئے۔

السَّبِيْبُ وَالسَّبِيْبَةُ: بالوں کا گچھا۔

_____ مِنَ الْقَوْمِ: گھوڑے کے دم کے بال۔

گھوڑی کی پیشانی کے بال۔ اہمال۔ جَ سَبَابِيبَ: کہا

جاتا ہے "لَقَدْ عَفَّذُوا مَسَابِيْبَ خَيْلِهِمْ" انہوں

نے اپنے گھوڑوں کے دم کے بالوں میں گرہ لگائی۔

السَّبِيْبَةُ: کٹاں کا پاریک گھڑا۔

السَّبَابُ: بست گالی دینے والا۔ مَوْنَمْتُ مَسَابِيْبَةَ -

الْأَسْبُوْبَةَ: باعث گالی۔ کہا جاتا ہے "بَسَبْتُهُمْ

أَسْبُوْبَةً يَتَسَابَوْنَ بِهَا" ان کے درمیان گالی کا

سبب ہے۔ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو گالی

دیتے ہیں۔

السَّبَابُ وَالْمَسْبُوبَةُ: اَمَّحَتْ شَارَاتٌ -

سَبَا (ف) مَسْبَاً وَ مَسْبَاً وَ مَسْبَاً - الْعَصْرُ:

شراب کو پینے کیلئے خریدنا۔ الْجِلْدُ: کھال اتارنا

_____ الْجِلْدَ بِالنَّارِ: کھال کو آگ میں جلا دینا۔

_____ الزَّجْلُ: کوزے مارنا۔ مصافحہ کرنا۔

_____ النَّازِ الْجِلْدُ: آگ کا کھال کو جھلس دینا۔

أَسْبَأَ _____ لِأَمْرِ اللَّهِ: حکم الہی کے لیے جھک

جانا۔

_____ عَلَى الشَّمْرِ: مطع ہونا۔

إِسْتَبَأَ الْجِلْدُ: کھال کا اتارنا۔ چھل جانا۔

إِسْتَبَأَ اسْتِبَاءً - الْعَصْرُ: شراب کو پینے کے

لئے خریدنا۔

السَّبَا وَالسَّبِيْبَةُ: شراب۔

السَّبَا: سے فروش۔

السَّبَا: دور کا سفر۔

السَّبِيْبُ - مِنَ الْحَيَّةِ: سانپ کی کینچلی۔

السَّبِيْبَةُ: ہماڑی راستہ۔ راستہ۔

سَبَتَ (ن ض) مَسْبَتًا: ہفتہ کے دن میں داخل

ہونا۔ سبت منانا۔ آرام لینا۔ الشَّيْءُ كَيْ جَزَى كُو

كَانَا _____ الزَّوْاسِ: سر موڑنا۔ الزَّجْلُ:

حیران ہونا۔ الشَّعْرُ: بال لٹکانا۔

عَنْقَهَ: گردن پر مارنا۔

سَبَتَ الزَّجْلُ: نیند کا آجانا۔

أَسْبَتَ: ہفتہ کے دن میں داخل ہونا۔

إِسْتَبَتَ الشَّيْءُ: کسی چیز کا راز ہونا۔

_____ الْجِلْدُ: کھال کا نرم ہونا۔ الوَجْهُ:

چہرہ کا رہا ہونا۔

إِسْتَبَتَ التَّيْهُوْدُ: یہودیوں کا ہفتہ کھون مٹانا۔

السَّبَتُ: مہ - سَبَجٌ - شَبْرٌ - جَ اسْبُوتَ و

سَبُوْت - السَّبَتُ: بست سونے والا۔ عمدہ گھوڑا۔

وَلِرَ لِرَا - جَا لَا كَ مَرُو - زَمَانٌ - هَفْتَةٌ - (_____

السَّبِيْبَةُ) زمانہ کا ایک عرصہ۔

السَّبَتُ: پکائی ہوئی کھال۔ رنگی یا دباغت دی

ہوئی کھال۔

السَّبَتُ وَالْمَسْبُوبَةُ: مصلیٰ لی ماندر ایک پرورد۔

السَّبَاتُ: نیند یا اونگہ۔ زمانہ۔ جَا لَا كَ مَرُو -

إِسْتَبَاتَاتُ: دن رات (السَّبَاتُ) ایک جسم کی

سمندری چھلی۔

السَّبَاتَانُ: بیوقوف۔

السَّبَاتَاءُ: بیابان۔

السَّبَتِيُّ: دلیر پیش قدمی کرنے والا۔ جیتا۔ ج

سَبَاتِيْبٌ وَ سَبَاتِيْبِيٌّ مَوْنَمْتُ سَبْتَانَا - السَّبْتَانَا:

زبان اور از عورت۔

السَّبِيْبَةُ: فاقہ۔ وہ شخص جو مرض وغیرہ کی وجہ

سے نہ حرکت کرے نہ آنکھیں کھولے۔

السَّبِيْبَةُ: مضم۔ میت یا بیہوش سر منڈا ہوا۔

تَسْبِيْحٌ: سیاہ کپیل اوڑھنا۔

السَّبِيْبَةُ: کالا کپیل۔ جَ مَسْبُوْحٌ - بَغِيْرَ اسْمِيْنَ كَا

کرتا۔

السَّبِيْحُ: سیاہ مہرے۔

السَّبِيْحُ: کالا کپیل بیچنے والا۔

لَوْثٌ (مَسْبُوْحٌ) چوڑا کپڑا۔

سَبِيْحٌ (ف) سَبِيْحًا: الزَّجْلُ: اپنی معاش کیلئے

تصرف کرنا۔ سونا اور آرام لینا۔ دور تک نکل جانا

_____ عَنِ الْأَمْرِ: فارغ ہونا۔ فِی الْكَلَامِ:

بست بولنا۔ فِی الْأَرْضِ: کھودنا۔

الْقَوْمُ: پھر ناورد زمین میں پھیلنا۔ مَسْبُوْحًا

سَبَاخَةً: فِی الْمَاءِ وَ بِالْمَاءِ) تیرنا اور بطور

استعارہ کے گھوڑے کی رفتار اور سیراے کی

چال کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے (_____

سَبِيْحًا) سبھا (سبحان اللہ)۔

سَبِيْحٌ تَسْبِيْحًا: نماز پڑھنا۔ سبحان اللہ کرتا

_____ اللَّهُ وَ لِيْلَهُ: خدا کی پائی بیان کرنا۔

أَسْبِيْحُهُ: تیرنا۔

السَّبِيْحَةُ: سَبِيْحٌ كَا سَمْرَةٌ - كَهَالِ كَيْ كَبْرُؤُ -

السَّبِيْحَةُ: دعا تم کہتے ہو "فَصَبِيْبٌ

سَبِيْحِي" میں نے اپنی دعا پوری کر لی۔ نفل نماز۔

تَسْبِيْحٌ - سَبِيْحَةُ اللَّهِ: اللہ تعالیٰ کا جلال۔ جَ سَبِيْحٌ و

سَبِيْحَاتٌ وَ سَبِيْحَاتٌ وَ جَبَدُ اللَّهِ: اللہ تعالیٰ کے

انوار یا وہ دلائل عظمت جن سے باری تعالیٰ کی

تقدیر کی جائے۔ السَّبِيْحَةُ: بَرُوْبِي كَا كَبْرًا -

سَبِيْحَانٌ - مہ - کہا جاتا ہے "سَبِيْحَانَ اللَّهِ"

یعنی میں اللہ تعالیٰ کی عیوب و نقائص سے پائی بیان

کرتا ہوں۔ و "سَبِيْحَانَ اللَّهِ مِنْ كَذْبًا" موعج تعجب

کیلئے اور یہ اضافت کے معنی میں ہے۔ یعنی

"سَبِيْحَانَ اللَّهِ مِنْ كَذْبًا" کے معنی میں۔ و "أَنْتَ

أَعْلَمُ بِمَا فِي سَبِيْحَاتِكَ" یعنی جو کچھ تیرے

نفس میں ہے اس کا تو زیادہ جاننے والا ہے۔

التسبخة. مع - تسبخ کے کلمات۔ ج تسابیح۔

التسابع۔ فا۔ ج۔ سابعون و سباح و سباح مؤنث سباحة ج سباحات و سوابح۔ والتسابع من الخيل: تيز رفتار گھوڑا۔ السوابح: تيز رفتار گھوڑے۔ السباحات: کشتیاں۔ ستارے یا موشین کی ارواں جو آسانی سے قبض کی جاتی ہیں یا فرشتے جو آسمان و زمین کے درمیان تسبیح کرتے رہتے ہیں۔

السباح۔ سباح کا مبالغہ۔ بڑا تیراک۔ ج سباحون۔

السباح۔ تیراک ج سباح۔ فزس سباح: تيز رفتار گھوڑا جو اپنی رفتار میں ادھر ادھر نہ ہوتا ہو۔

السبح والمسبح۔ باری تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ اس لیے کہ اس کی تسبیح کی جاتی ہے۔

ثوب مسبخ مضبوط پیرا۔

المسبخة والسباحة۔ انکشت شادت۔

المسبخة۔ عند العامة: عوام کے نزدیک بمعنی نفل نماز۔ تسبیح یا تسلی۔

سبخل مسبخة۔ سبحان اللہ کہنا۔

السبخل۔ موتہ۔ حارۃ۔ مسبخة۔ موتی لپی لڑکی۔

سبخن۔ سبحان اللہ کہنا۔

سبخ (ن) سبخا۔ گرمی نیند سونا۔ فارغ ہونا۔ دور ہونا۔

سبخ (س) سبخا۔ المكان: شورے والی ہونا۔ صفت (سبخ)

سبخ عندہ: ہلکا کرنا۔ کہا جاتا ہے "اللہم سبخ عتق الخمری او الشدة" اے اللہ مجھ سے بخار یا سختی کو ہلکا کر دے۔ الخمر: مٹھا کرنا۔

الظن و نحوه: روٹی دھتا۔

الزجل: گرمی نیند سونا۔ فارغ ہونا۔

العزوق: رگ کا ساکن ہونا۔ الخمر: گرمی کا کم ہو جانا۔

أصبخ: فی الحفر ہکھونے میں زمینی شور

تک پہننا۔ المكان: زمین شور والی ہونا۔ تسبخ: الخمر او الغضب: گرمی یا غصہ کا مٹھا کرنا۔

أرض (سبخة) ج سباح (وسبخة) ج سبخات: زمین شور۔

السبخة والسبخة: نمکین و لدلی زمین۔ کالی کی ہانڈ جو پانی کے اوپر آجائے۔ ج سباح۔

السباح: من الأرض: دیران کھیت جو جو تانہ گیا ہو۔

السبخ: روٹی کا پھایا یا بکھرے ہوئے پروٹیرہ۔

السبخة: دھکی ہوئی روٹی کا گالا۔ ج سباح۔ تم کہتے ہو "طازت سباح الظن" روٹی کے گالے اڑے۔

سبخ (ن) سبخا۔ الشمر: بال موٹنا۔

شاربہ: موٹھوں کا بڑھ کر ہونٹوں کو گھیر لینا۔

سبخ الشمر: بال کا موٹنے کے بعد لگانا۔

الفرخ: چوزے کے پر لگانا اور سخت ہونا۔

الزحل سر میں تیل نہ لگانا۔

رأسه: سر میں کنگھی کرنا اور تر کرنا پھر چھوڑنا۔

شعره: بال کو جڑ سے موٹنا۔

العشب: پرانی گھاس میں نئی گھاس آگنا۔

أسبد الشمر: بال موٹنا۔ العشب: پرانی گھاس میں نئی گھاس آگنا۔

السبد: بھینڑا۔ مصیبت۔ ج أسباد۔

الأسباد: کالے کپڑے۔ أسباد العشب: گھاس کا سرا ابتدائی روئیدگی کے وقت۔ اور کہا جاتا ہے "هو أسبد من الأسباد" وہ چوری میں بڑا ہو سیکر ہے۔

السبد: کم بال۔ کہا جاتا ہے "مائله سبد ولا لبث" اس کے پاس نہ تو بال ہیں نہ اون یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔

السبد: سڑ گھاس کا بقیہ۔

السبد: جھٹرا جس سے حوض کی ٹالی بند کی جائے۔ بدبختی۔ ج سبدان۔ ایک قسم کا پر عہ جس کے پر واری دار ہوتے ہیں اور اس کا منہ کشادہ اور سرو چوڑی ہوتی ہے۔ السبدو السبدة۔

سبد: زمین شور

سبد: صفت (سبخ)

سبخ عندہ: ہلکا کرنا۔ کہا جاتا ہے "اللہم سبخ عتق الخمری او الشدة" اے اللہ مجھ سے بخار یا سختی کو ہلکا کر دے۔ الخمر: مٹھا کرنا۔

الظن و نحوه: روٹی دھتا۔

الزجل: گرمی نیند سونا۔ فارغ ہونا۔

العزوق: رگ کا ساکن ہونا۔ الخمر: گرمی کا کم ہو جانا۔

أصبخ: فی الحفر ہکھونے میں زمینی شور

السبخة۔ لبازلیز چیا (الف الحاق کیلئے ہے تاسیخ کیلئے نہیں) ج سباد۔ و سبادة۔ السبادة: کھیل کو دس رہنے والے لوگ۔

السباح۔ قلب خوراک۔ کہا جاتا ہے "أصبخنا سبادخ و لصینائنا عجاجع من العراب" ہم نے کئی خوراک کے ساتھ صبح کی اور ہمارے بچے بھوک کی وجہ سے بلجا رہے تھے۔

السبادة۔ بیکار لوگ۔ کھیل کو دس مشغول لوگ۔

سبخ (ن) ض) سبتوا و أسبتوا و أسبتوا۔ الخرج او البئر او الماء: گہرائی کی آزمائش کرنا۔

الأمور: تجربہ کرنا۔ آزمائش کرنا۔ کہا جاتا ہے "هذه مفازة لأسبتور" اس پیادوں کی وسعت کا اندازہ معلوم نہیں۔

السبتور۔ مع۔ شبر (والسبتور) اصل۔ رنگ۔ بیعت۔ مشاہد۔ کہا جاتا ہے "فلان حسن الجبر والسبتور" جبکہ اچھی بیعت والا اور جمیل ہو "وزأینہ سبتور السبتور" جبکہ لا فراور رنگ بدلا ہوا ہو "وقد غلب علیہ سبتور فلان" اس پر فلاں کی مشاہد غالب ہے۔

السبتور: دشمنی۔ ج أسبتار۔

السبتور۔ معنی صبح۔ ج سبتورات۔

السبتور والسبتور۔ ایک شکاری پرندہ۔

السبتار۔ ج سبتور (السبتور والسبتار) ج مسابیر و مسابیر: زخم کی گہرائی معلوم کرنے کی سلاخی۔ السبتار: افریقہ کے جنگلوں کا ایک درندہ جو بیوکے مشابہ ہوتا ہے۔

السبتارة۔ ایک قسم کا جہاز۔

السبتاری۔ ساور کی جانب منسوب۔ عمدہ کھجور۔ باریک بینی ہوئی مضبوط زرد۔

السبتورة۔ سلیٹ۔ بلیک بورڈ۔

السبتور۔ بیعت و حسن و جمال۔ کہا جاتا ہے "سبتور سبتور فو مغبورہ"

السبتار۔ زخم کی گہرائی معلوم کرنے والا۔ ج مسابیر۔

مسبتورة۔ الخرج: زخم کی گہرائی۔

سے قریب ہوتا۔

إِسْتَبَقَ اللَّهُ عَلَيْهِ النِّعْمَةَ: نعمت کا کمال کرنا پوری کرنا۔ التَّوْبُ: کپڑے کا لمبا و کشادہ کرنا۔ التَّوْبُ: پوری زہر منبنا۔ لَةُ: التَّفَقُّةُ: کسی کے لیے کشادگی سے خرچ کرنا اور تمام ضروریات پوری کرنا۔

السَّابِقُ: فا۔ ذِئْبٌ سَابِقَةٌ: پوری زہر۔ ج سَوَابِغٌ ذَنْبٌ سَابِغٌ: لمبی دم۔ سَابِغٌ الْإِلْتِمَاتِینِ: بڑے چوڑوں والا۔

السَّنْبِقَةُ: آسورگی۔ وسعت۔ التَّنْبِيعُ وَالتَّنْبِیغَةُ: خود کا وہ حصہ جو زہر کی کڑیوں سے مل کر کڑوں کو چھپاتا ہے۔ ج تَسْبِیغٌ (دونوں لفظ فقہا سے بھی ہیں۔)

سَبَقَ: إِسْتَبَقَ التَّوْبُ: کپڑے کھانی سے تر ہونا۔ السَّبَقُ: بالوں کا تیل سے تر ہونا۔

السَّبَقُ: فَرَاخٌ وَدِرَازٌ۔

سَبَقَهُ (ان ض) سَبَقًا: اِلَى كَذَا: آگے بڑھ جانا۔ وَ عَلَى كَذَا: غَالِبٌ هُوَ۔ سَبَقَ عَلَى قَوْمِهِ: قَوْمٌ سَبَقَ مِنْهُمْ فِي بَدَنِ جَانِبِ صِفَتِ (سَابِقٌ) ج سَابِقُونَ وَ سَبَقٌ۔

سَبَقَهُ: شَرَطٌ لِیَا رِبَا: الشَّاءُ: کبریٰ کا تمام پتہ کرانا۔ الطَّبِیْرُ: پرندہ کے پیر میں بدھن ڈالنا۔ سَبَقَ الْبَدْرُ بَيْنَ الشُّعْرَاءِ: دس ہزار کی قبلی شعراء کے درمیان رکھنا تاکہ جو غالب ہووے۔

أَسْبَقَ الْقَوْمُ إِلَى الْأَمْرِ: سَبَقَتْ كَرْنَا۔ سَابِقَةٌ سَبَاقًا وَ سَبَاقَةٌ: آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ تم کہتے ہو "سَابِقَتْ بَيْنَ الْخَبَلِ" میں نے گھڑوڑوں میں مقابلہ کرایا۔

تَسَابَقَ وَاسْتَبَقَ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے پر آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔ اسْتَبَقَا التَّبَابَ: اِلَى التَّبَابِ: دونوں نے دروازے کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ اسْتَبَقَا الصُّوَاطَ: دونوں آگے بڑھ گئے اور راستہ کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ گمراہ ہو گئے۔

السَّبِقُ: ج اسْبَاقٍ وَ السَّبِقَةُ: شَرَطٌ هُوَ آگے بڑھنے پر رکھی جاتی ہے۔

کما جاتا ہے هُمَا (سَبَقَانِ) وہ دونوں ایک

دوسرے پر بہت کرنے والے ہیں۔

السَّابِقُ: فا۔ گھڑوڑ کے میدان کا پہلا گھوڑا۔ اس کو بجلی بھی کہا جاتا ہے بقیہ گھوڑوں کے نام ترتیب وار یہ ہیں۔ الْمُسَابِقُ: الْمُسَابِقُ: الْقَابِلُ: الْمَرْوَاةُ: الْعَاطِفُ: الْحَظِيَّةُ: الْمَوْجِلُ: الْمَلْطِيمُ: السُّكْنَيْتُ: ج۔ سَابِقُونَ وَ سَبَاقٍ اور کبھی اس کو اسم قرار دے کر سَوَابِقٌ جمع لاتے ہیں۔ جیسے خاتم و نحوہ۔

السَّابِقَةُ: السَّابِقُ كَالْمَوْثِ: اولیت۔ کما جاتا ہے لَةُ سَابِقَةٌ فِي هَذَا الْأَمْرِ "اس کو اس معاملہ میں اولیت حاصل ہے۔ ج سَوَابِقٌ وَ سَابِقَاتُ: السَّوَابِقُ: گھوڑے۔

السَّابِقُ: بہت آگے بڑھنے والا۔

السَّبَاقُ: مِمَّ - پائے بند۔ بندش۔ سَبَاقُ الْخَبَلِ: گھڑوڑ۔

السَّبِقُ وَ الْمَسْبِقُ: مِنَ الْخَبَلِ: آگے بڑھنے والا گھوڑا۔

سَبَقَ (ان ض) سَبَقًا وَ سَبَقًا: الْفِئْتَةُ: بَھلا کر سامنے نہیں ڈھاننا۔ الْكَلَامُ: کلام کو خوشو زداند سے پاک کر کے عمدہ بنانا۔ سَبَقْتَهُ التَّجَارِبُ: مَذِيبٌ بَانَا۔

إِسْبَاقُ الْذَّهَبِ وَ نَحْوُهُ: بَھلانا۔ ڈھلانا۔ السَّبِيقُ: بَھلا ہوا۔ میل کجیل سے صاف کیا ہوا۔ کما جاتا ہے "تَبِيبُ سَبِيقٍ"۔

السَّبِيقَةُ: چاندی وغیرہ کا ڈالا جو بھلا کر سامنے میں ڈھالا گیا ہو۔ ج سَبِيقَاتُ۔

السَّبِيقُ: بَھلانے اور ڈھلانے کی جگہ۔ ج سَبَاقِيكُ۔

إِسْبَاقُكَ: دراز ہو کر لینا۔ الْأَسَدُ: حملہ کے وقت دراز ہونا۔ اسْبَاقَاتُ الْخَبَابِيَّةُ: پورے قدم والی ہوتا۔

سَبَقَ (ان) سَبَقًا: بَھلا دینا۔

سَبَقَ: الْمَالُ: اللہ کی راہ میں خیرات کرنا۔ السَّبَقُ: مباح کرنا۔ السَّبَقُ: پردہ لگانا۔

أَسْبَقَ: السَّبَقُ: پردہ لگانا۔ الذَّمْعُ: آسور بھانا۔ الْمَاءُ: پانی گرانہ۔

السَّبَقُ: بہت آمدورفت والا ہونا۔

السَّمَاءُ: برسا۔ الذَّمْعُ: او الغَطْرُ: بکھرت آسور بھانا یا بکھرت بارش ہونا۔ الزَّمْعُ: خوش لگانا۔

عَلَى فَلَانٍ: کسی کے خلاف بہت گفتگو کرنا۔ السَّبِيلُ: بارش جو ابھی زمین تک نہ پہنچی ہو۔ آگہ کی ایک بیماری جس میں آگہ پر پردہ ہو جاتا ہے۔ جسے والی بارش یا خون۔ خوش۔ تاک۔ اسْبِيلُ الذَّمْعِ: او الغَطْرُ: کما جاتا ہے "سَبِيلٌ مِنْ رِمَاحٍ" تیروں کا مجموعہ خواہ کم ہو یا زیادہ "تَبِيبَاتُ سَبِيلٍ" لٹکانے ہوئے کپڑے۔

السَّبِيلَةُ: مونچھ کے بال۔ اوپر کے لب کے درمیان کا دائرہ۔ دائرہ کا اگلا حصہ۔ ج۔ سَبِيلٌ) وَ السَّبِيلَةُ وَ السَّبِيلَةُ: خوش۔ کما جاتا ہے "مَلَأَ الْإِنَاءَ إِلَى سَبِيلَتِهِ" اس نے برتن کو کنارہ تک بھر دیا۔ و "سَبِيلَتُهُ" اس نے کھمبے سے اپنے کپڑے بچھنے و "بَعْبَرُ حَسَنُ السَّبِيلَةِ" باریک کھال والا اونٹ۔ و "جَاءَهُ وَقَدْ نَشَرَ سَبِيلَتَهُ" وہ دھکی دیتا ہوا آیا۔

السَّبِيلُ: راستہ یا واضح راستہ (مذکر مؤنث) ج سَبِيلٌ وَ سَبِيلٌ وَ اسْبِيلَةٌ وَ سَبِيلٌ اِبْنُ السَّبِيلِ: مسافر۔ سَبِيلُ اللَّهِ: جہاد۔ طلب علم۔ ج۔ امیر خیر جن کا اللہ نے حکم دیا ہو۔ کما جاتا ہے "لَيْسَ لَكَ عَلَيَّ سَبِيلٌ" تم کو میرے اوپر مواخذہ کا کوئی حق نہیں۔ و "لَيْسَ عَلَيَّ فِي كَذَا سَبِيلٌ" میرے اوپر اس میں کوئی مواخذہ نہیں اور مولدین کہتے ہیں "مَا عَلَيَّ الْمُخْبِرِينَ سَبِيلٌ" مہن پر کوئی معارضہ نہیں۔ و "سَبِيلُنَا أَنْ نَفْعَلَ كَذَا" یعنی ہم اس کام کے لائق ہیں۔

السَّبِيلَةُ: راستہ یا واضح راستہ۔

السَّبِيلَةُ: رہ چلا راستہ۔ کما جاتا ہے "سَبِيلٌ سَابِقَةٌ" راستہ پر گزرنے والے لوگ۔ ج سَوَابِلُ۔

عَقِبَ (سَبِيلًا): لمبے پلوں والی آگہ۔ اِمْرَأَةٌ سَبِيلَةٌ: مونچھوں والی عورت۔

الْأَسْبِيلُ وَ الْمَسْبِيلُ وَ الْمَسْبِيلُ وَ الْمَسْبِيلُ: الْوَسْبِيلُ: لمبی سو مونچھوں والا۔ الْمَسْبِيلُ: گودہ جوئے کے تھروں میں سے پانچواں یا چھٹا تھرا۔ ذی الحجہ۔

فَقَلَاءٌ وَ شَهْدَاءٌ وَ شَجَرٌ سَبِيْرٌ : بہت ڈالیں
والاورخت۔
المَسْتَوْرُ : غم پاک دامن ج مَسْتَوْرُوْنَ ج
مَسَابِيْرُ۔
السَّارُ : سائبر کا مبالغہ اور یہ صفات باری
تعالیٰ میں سے ہے۔
الْإِسْتَارُ : مِنَ الْعَدُوِّ : چار — فنی
الْوَزْنُ : چار حشال ج اَسَاتُوْرٌ وَأَسَابِيْرُ۔
المَسْتَوْرُ وَالْإِسْتَارَةُ : برہ۔
المُسْتَرْ : غم - جَارِيَةٌ مُسْتَرْةٌ : پردہ نشین
لڑکی۔
المُسْتَعِ وَالْمُسْتَعِج : چست و جھالاک اور
بہت کار گزار مرد۔
السُّتُوْقُ وَالشُّتُوْقُ : کھوٹا درہم جس پر
چاندی کا طبع ہو۔
المُسْتَنْقَةُ وَالْمُسْتَنْقَةُ : بے آستین کی
پوشین - چنگ و غیرہ بجائے کالہ۔
مَسْتَلٌ (ن) مَسْتَلًا وَتَسَاتَلٌ وَاسْتَعَلَّ
وَاسْتَعَلَّ الْقَوْمُ : بے درپے یکے بعد دیگرے
لگنا — الْقَوْمُ : موتیوں کا لگانا بگھرتا
الذَّمْعُ : آس قطرہ قطرہ بنا۔ صفت (سائیل)
مَسْتَعِلٌ (س) مَسْتَعِلًا وَ مَسْتَعِلًا : بیروی کرتا۔
المَسْتَعِلُ - مہ - عتاب یا ایک قسم کا پردہ جو
عتاب یا گدہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ ج بَسْلَانٌ وَ
بَسْلَانٌ۔
المَسْتَالَةُ : روی چیز۔
المُسْتَعِلُ : ننگ راست۔ ج مَسَابِيْلُ۔
أَسْتَعِنَ الرَّجُلُ فِي السَّنَةِ : قحط سالی میں پڑنا۔
الْأَسْتَعْنُ وَالْأَسْتَعْنُ : بوسیدہ درخت کی
جڑیں۔
الإِسْتَعْنَةُ : شہر تحفظیہ۔
سَعْفَةٌ (ف) سَعْفَتُهُ الرَّجُلُ : بیچھے لگنا۔ چوڑے
بارنا۔
السَّعْفَةُ وَالسَّعْفَةُ : سرخ۔ ج اسعافہ۔
الْأَسْتَعْنُ وَالسَّعْفَةُ : بڑی سرخ والا۔ ج سَعْفَةُ
وَسَعْفَانٌ وَ سَعْفَاهُ : مونت سَعْفَاهُ۔
مَسْعَانٌ (ن) مَسْعَوًا : جلدی کرتا۔
أَسْعَى وَ مَسَى : الْقَوْمُ : کپڑا بننے کے لیے

وے۔
السَّبِيْرُ : قیدی مرد۔ قیدی عورت۔ کہا جاتا ہے
"عَلَامٌ سَبِيْرٌ وَ جَارِيَةٌ سَبِيْرَةٌ" ج۔ سَبَابِيْرًا سَبِيْرًا
الْحَيَّةُ : سانپ کی کینچلی جس کو چھوڑ دے۔
السَّبِيْرَةُ : قیدی عورت۔ ایک شہر سے دوسرے
شہر میں بھیجی ہوئی شراب۔ موتی جس کو غوطہ خور
نکالے۔
السَّبِيْرُ وَالسَّبِيْرَةُ : لکڑی جس کو سیلاب ایک
جگہ سے دوسری جگہ لے جائے۔
السَّبَابِيْرَةُ : شہد۔ بہت اونٹ و بکری۔ اونٹ جو
نسل بڑھانے کیلئے ہوں۔ بہت نسل والی بکریاں۔ ج
سَبَابِيْرُ : السَّبَابِيْرَةُ : جنگلی چوہے کے سوراخ کی
مٹی۔
السَّبِيْرُ : عیب۔ بڑی گفتگو۔
السَّبِيْرَةُ : چوہ۔ مذکر کے لیے مستعمل ہے اور
مؤنث کے لیے سَبِيْرَةٌ۔
السَّبَابِيْرَةُ : چمٹا۔
السَّبِيْرُونَ : ساٹھ (مذکر و مؤنث)
السَّبَبُ : ایک قسم کی تیز چال۔
سَبْرٌ (ن) مَضٍ سَبْرًا وَ سَبْرًا وَ سَبْرًا : الشَّقِيْ
کی چیز کو چھپانا۔ ڈھانکنا۔
مَسَاتِرُهُ مَسَاتِرَةٌ : الْعَدَاوَةُ : عقل دشمنی کرتا۔
تَسَبَّرَ وَاسْتَبَّرَ وَاسْتَبَّرَ : چھپنا۔ ڈھک جانا۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ لَا يَسْتَبِرُ مِنَ اللَّهِ بِسَبْرٍ" یعنی وہ اللہ
تعالیٰ سے ڈرتا نہیں۔
السَّبْرُ : پردہ۔ خوف۔ حیا۔ ج مَسْتَوْرٌ وَ أَسْتَعَارَ
کہا جاتا ہے "مَالَهُ سَبْرٌ وَ لَا جَبْرٌ" یعنی اسے حیا
عقل نہیں۔ و "ہتک اللہ بسبْرہ" اللہ نے اس
کے پردہ کو بچاؤ دیا۔ یعنی اس کی بنائیاں ظاہر کر
دیں۔
السَّبْرُ : مہ۔ ڈھال۔
السَّبَارُ : پردہ۔ ج مَسْرُ : کہا جاتا ہے "مَدَّ اللَّيْلُ
سَبَارَهُ" رات نے اپنے پردہ کو پھیلا دیا۔ یعنی
تاریکی پھیل گئی۔
السَّبْرَةُ : ج مَسْرُ وَ (السَّبَارَةُ) مَن سَبَابِيْرُ : پردہ۔
سَبْرَةُ السَّبْرُ : جہت پر پردہ کی دیوار۔
السَّبِيْرُ : چھپا ہوا۔ پاکہ اسن۔ کہا جاتا ہے
"رَجُلٌ سَبِيْرٌ وَ امْرَأَةٌ سَبِيْرَةٌ" ج مَسْرَاءُ : مثل

أَسْبَتَتْ : الْمَرْأَةُ : بیٹھی سیاہ۔ ہند ہا ہمتا۔
السَّبِيْرَةُ : عورتوں کا سیاہ بند۔
السَّبِيْرَةُ وَالسَّبِيْرَةُ : عرصہ۔ کہا جاتا ہے
"أَقْبَتُ حَيْثُ هُنَّ سَبِيْرَاتٌ" اس کے پاس میں نے
عرصہ تک اقامت کی۔
السَّبِيْرِيُّ : دلیر۔ پیش قدمی کرنے والا۔ چپان۔ ج
سَبَابِيْرُ وَ سَبَابِيْرُ۔
السَّبِيْرِيُّ : دلیر۔ جنگ میں پیش قدمی کرنے
والا۔ ج مَسَابِيْلُ۔
سَبِيْرٌ سَبِيْرًا وَ سَبِيْرَةٌ سَبِيْرَةٌ : بڑھاپے کی وجہ
سے عقل زائل ہونا۔ صفت (مَسْبُوْرٌ وَ مَسْبُوْرَةٌ)
السَّبِيْرَةُ : بڑھاپے کی وجہ سے زوال عقل۔
رَجُلٌ (سَبِيْرٌ وَ سَبِيْرَةٌ) : مغرور مرد۔
السَّبَابِيْرَةُ : سکتہ۔ زوال عقل۔
رَجُلٌ (سَبَابِيْرُ) : بڑھاپے کی وجہ سے عقل
زائل شدہ مرد۔
السَّبِيْرَةُ : فصیح زبان والا۔
سَبِيْرٌ : کہا جاتا ہے "جَاءَ الرَّجُلُ
سَبِيْرًا" مرد بغیر ہتھیار اور ڈنڈے کے آیا۔ یعنی
لاپردہی سے آیا یا بغیر کسی کام کے آیا۔ و "هُوَ
يَسْبِيْرُ سَبِيْرًا" وہ بیکار آتا ہے۔
سَبِيْرٌ : سَبِيْرٌ : سَبِيْرٌ : سَبِيْرٌ : العَدُوُّ : دشمن کو
قید کرنا — الرَّجُلُ : دور کرنا۔ جلا وطن کرنا
— العَدُوُّ : شراب کو ایک شہر سے دوسرے
شہر لے جانا — العَدُوُّ : المَاءُ : پانی تک
کھوٹا — فَلَانًا : کسی کو اپنی محبت میں قید
کرتا۔
إِسْبِيْرٌ : السَّبِيْرَةُ : العَدُوُّ : دشمن کو قید کرنا
— قَلْبُ فَلَانٍ : کسی کے دل کو اپنی محبت میں
قید کرنا — العَدُوُّ : شراب ایک شہر سے
دوسرے شہر لے جانا۔
تَسَابِيْرُ : الْقَوْمُ : بعض کا بعض کو قید کرنا۔
تَسَبَّى : فَلَانٌ فَلَانًا : کسی کا کسی سے اعظام
محبت کرنا اور اپنی طرف مائل کرنا۔
السَّبِيْرُ : مہ۔ قیدی۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ رَجُلًا
بَسْبِيْرًا كَيْفِيْرًا" عموماً امیر کا لفظ مردوں کیلئے اور
سَبِيْرٌ کا اطلاق عورتوں پر ہوتا ہے۔ ج سَبِيْرٌ وَ
سَبِيْرٌ الْحَيَّةُ : سانپ کی کینچلی جس کو چھوڑ

<p>تور میں ایندھن ڈال کر گرم کرنا۔ الناقۃ: اونٹنی کا لمبی آواز نکالنا۔</p>	<p>”وَكَيْبٌ مِّنْجَبْحَةٍ زَائِبَةٍ“ اس نے ایک رائے کو اپنے لئے پسند کیا اور اس پر چل پڑا۔</p>	<p>تائے کو پھیلاتا۔ السَّنَاءُ: تائے۔ بھلائی۔ کہا جاتا ہے ”نَالٌ مِّنْهُ مَسَاءٌ“ اس نے اس سے بھلائی حاصل کی۔</p>
<p>مَسْجَرٌ: المَسْجَرُ: سمندر کا چڑھتا۔ بلند موجوں والا ہونا۔</p>	<p>الْمَسْجِحُ: خوبصورت تناسب اعضاء والا۔ مؤنث مَسْجِحَاءُ۔ ج مَسْجِحُ۔</p>	<p>الْمَسْجِيْقُ: تائنا تھا ہوا کپڑا۔</p>
<p>مَسْجُوْرَةٌ: مخلص دوست بننا۔</p>	<p>مَسْجَاحٌ: بروزن نظام۔ نام ایک عورت کا جس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عمد خلافت میں دعوتِ نبوت کیا تھا۔</p>	<p>مَسَاءَةُ الْغُؤْبِ: کپڑے کا تائے۔ کہا جاتا ہے ”مَا أَنْتَ لِحَمَّةٍ وَلَا مَسَاءَةٌ“ نہ تو توبانا ہے اور نہ تائے۔ یعنی نہ تو توبانے ہے نہ نقصان رسالے۔</p>
<p>الْإِبْلِيُّ فِي مَسْجَرِهَا: اونٹوں کا لگا کار چلانا۔</p>	<p>السَّيْحَاحُ: سائے۔ کہا جاتا ہے ”جَلَسْتُ فِي سَيْحَاحٍ وَجْهِي“ میں اس کے منہ کے سائے بیٹھا۔</p>	<p>مَسْجَعٌ (ن) مَسْجَعٌ: پتلا چلایا خانہ کرنا۔ الحَاثِلَةُ: دیوار لپٹنا۔</p>
<p>السَّخْرَةُ: پانی جو دریا کو بھروسے۔ ج مَسْخَرٌ) _____ وَالْمَسْخَرُ فِي الْعَيْنِ: سرخی ملی ہوئی سپیدی۔</p>	<p>السَّجَاحُ: نفاذ آسانی۔ الْمَسْجُوحُ وَالْمَسْجُوحَةُ: عارت۔</p>	<p>السَّجْحَةُ وَالْمَسْجَاحُ: بہت پانی والا دودھ۔ السَّجْحُ: لمبی ہوئی چھتیں۔ پاک نفوس۔ الْمَسْجَعَةُ: لکڑی کا ایک اوزار جو لپائی کے کام آتا ہے۔</p>
<p>السَّاجِرُ: نا۔ سیلاب جو ہر چیز کو بھروسے۔ وہ جگہ جس کو سیلاب آکر بھروسے۔</p>	<p>السَّجْدُ (ن) السَّجْدُ: فروتنی سے جھکنا۔ عبارت کیلئے زمین پر پیشانی کر کر رکھنا۔ صفت مذکر (ساجد) ج مَسْجِدٌ وَسُجُودٌ صفت مؤنث (ساجدة) ج مَسْجِدَاتٌ وَسُجُودٌ</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّاجُورُ: لکڑی جو کتے کے گلے میں لٹکائی جاتی ہے۔ ج مَسْجُورٌ: اور اسی سے ہے ”سُجُورُ الْكَلْبِ“ یعنی اس نے کتے کے گلے میں لکڑی لٹکائی اور کہا جاتا ہے ”لَمَّا أَعْنَاهُمْ مَسْجُورٌ“ ان کے گلوں میں طوق ہیں۔</p>	<p>السَّجْدَةُ وَالْمَسْجُورُ: تور میں جھونکنے کی لکڑی وغیرہ۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجِيْرُ: مخلص دوست۔ ج مَسْجُوْرَاءُ۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجُوْرُ: آنکھوں میں سرخی والا۔ مؤنث مَسْجُوْرَاءُ۔ خالص کچھڑا والا۔ لپ۔ شیر۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجُوْرُ: مخلص دوست۔ ج مَسْجُوْرَاءُ۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجُوْرُ: مخلص دوست۔ ج مَسْجُوْرَاءُ۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجُوْرُ: مخلص دوست۔ ج مَسْجُوْرَاءُ۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجُوْرُ: مخلص دوست۔ ج مَسْجُوْرَاءُ۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجُوْرُ: مخلص دوست۔ ج مَسْجُوْرَاءُ۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجُوْرُ: مخلص دوست۔ ج مَسْجُوْرَاءُ۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجُوْرُ: مخلص دوست۔ ج مَسْجُوْرَاءُ۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجُوْرُ: مخلص دوست۔ ج مَسْجُوْرَاءُ۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجُوْرُ: مخلص دوست۔ ج مَسْجُوْرَاءُ۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>
<p>السَّجُوْرُ: مخلص دوست۔ ج مَسْجُوْرَاءُ۔</p>	<p>السَّجْدَةُ (س) السَّجْدَةُ: جگہ پر کھڑا ہونا۔</p>	<p>السَّجْبُ: پرائی ملک۔ ج مَسْجِبٌ: سِقَاةٌ (ساجب) خشک ملک۔ ج مَسْجِبَةٌ</p>

سَجِلٌ: لگا ہوا بڑا تھمن۔ ذَلُو سَجِيلٌ و سَجِيْلَةٌ: بڑا ڈول۔ (نَاقَةَ سَجَلَاءَ) بڑے تھمنوں والی اونٹنی۔

السَّوْجَلَةُ والسَّوْجَلُ والسَّوْجَلُ: شیشی کا غلاف۔ ج سَوَاجِلٌ۔

المُسْجَلُ: نم۔ ہر ایک کیلے جائز۔ کہا جاتا ہے "فَعَلْنَا وَالدَّهْرُ مُسْجَلٌ" ہم لوگوں نے اس کام کو ایسے وقت میں کیا کہ کوئی کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔

السَّجَلَةُ: چٹیل۔

سَجَمٌ (ن) سَجُوْمًا و سَجَامًا: الدَّفْعُ: آنسو۔ صفت (سَاجِمٌ)

سَجَمٌ (ن) سَجَمًا و سَجَمًا: سَجُوْمًا عَنِ الْأَفْرِ دیر کرتا۔ (ض) سَجَمًا و سَجَمًا و سَجَمَانًا العَيْلُ أَوْ السَّحَابَةُ الْمَاءُ: آگہ کا آنسو یا بادل کا پانی بہانا۔

سَجَمٌ قَسَجَامًا و قَسَجَمًا و أَسَجَمٌ: الْمَاءُ: پانی گراتا۔ أَسَجَمَتِ السَّحَابَةُ: دیر تک برساتا۔

السَّجَمُ: الْمَاءُ: پانی گرتا۔ برسا _____ الْكَلَامُ: کلام کا مرتب ہونا۔

تَسَاجَمَتِ الدَّمْعُ: آنسو بہنا گرتا۔

أَسَجَمَ: پانی۔ آنسو۔

عَيْنٌ (سَجُوْمٌ) آنسو بہانے والی آگہ۔ ج سَجُوْمٌ: نَاقَةٌ (سَجُوْمٌ و سَجَامٌ) بہت دودھ والی اونٹنی۔ ج سَجُوْمٌ: ہوم مساجیم۔

مَكَانٌ (مَسْجُوْمٌ) بارش شدہ جگہ۔

سَجِيْلَةٌ (ن) سَجِيْلَةٌ: قید کرتا۔ سَجِنَ الْهَمُّ: غم پر مشیدہ کرتا۔

سَجِنَ الشَّقِيَّ: بھارتا۔

السَّجِنُ: قید خانہ۔ ج سَجُونٌ۔

السَّجَانُ: داروغہ جیل۔

السَّجِينُ: قیدی۔ ج سَجِنَاءُ و سَجْنِيٌّ: مؤنث سَجِينٌ و سَجِيْنَةٌ ج سَجْنِيٌّ و سَجْنِيْنٌ: سخت مار جو مضروب کو زمین پر بٹھارے۔

السَّجْنُونُ: نم۔ قیدی۔

السَّاجِنَةُ: السَّاجِنُ: کاموٹ۔ پہاڑ میں پانی

سَجَلٌ (ن) سَجَلَاءُ: وہ اوپر سے پھینکتا۔

السَّجَلُ: بِالشَّقِيَّ: اوپر سے پھینکتا۔ سَجَلٌ الرَّجُلُ: عمدتاً لکھنا۔ الْأَوْزَاقُ: بھری اور گھوموں میں اور ان کو تحریر میں لانا۔

السَّجَلُ: بِالشَّقِيَّ: فیصلہ کرنا۔ عَلَيْهِ بِكَذَا: مشہور کرنا۔ لَهُ بِعَالَةٍ: ثابت کرتا۔

السَّجَلُ: بِالشَّقِيَّ: فیصلہ کرنا۔ وَرُزِيَا شَعْرُ كَوْنِي مِّنْ مَّقَابِلِهِ كَرَا:

سَجَلٌ: بِالشَّقِيَّ: بہت خرد والا ہونا۔ ہ: بہت دینا۔

السَّجَلُ: بِالشَّقِيَّ: بھرتا۔ الْكَلَامُ: کلام کو بلا کسی قید کے بولنا۔ النَّاسُ: چھوڑنا۔

لَهُمْ الْأَمْزُ: لوگوں کے لیے کسی عملہ کو مباح کر دینا اور اسی سے ہے "هَذَا مُسْجَلٌ لِّإِنِّ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ" یہ اس کے لیے مباح ہے

چاہے لے لے چاہے چھوڑ دے۔ "أَسْجَلُ الْأَنْعَامِ فِي الزَّرْعِ": کھیت میں جانوروں کو آزادانہ چھوڑنا۔

تَسَاجَلًا: ہاتھ مقابلہ کرنا۔

إِنْسَجَلٌ: اوپر سے گرتا۔ کہا جاتا ہے "سَجَلُ الْمَاءِ فَلَا تَسْجَلُ" اس نے پانی گرایا پس وہ گرا۔

السَّجَلُ: ہم۔ بڑا ڈول جس میں پانی ہو۔ ڈول بھر۔ عطیہ۔ سخی مرد۔ بڑا تھمن۔ ج سَجَالٌ و سَجُوْلٌ اور کہا جاتا ہے "الْحَزْبُ يَنْتَهِمُ سَجَالًا" یعنی لڑائی میں غلبہ کبھی ایک کو ہوتا ہے

کبھی دوسرے کو۔ السَّجَلُ: حصہ۔ کہا جاتا ہے "أَعْطَاهُ سَجَلَهُ مِّنْ كَذَا" اس نے اس کو اس کا حصہ ملاں چیز سے دیا۔

السَّجَلُ: سعادت کا رجسٹر۔ احکام کا رجسٹر۔ قاضی کا رجسٹر جس میں دعوے اور احکام وغیرہ لکھے جاتے ہیں تاکہ قاضی کے پاس محفوظ رہے۔ ج سَجَلَاتٌ۔

السَّجَلُ: کنگر۔

عَيْنٌ (سَجُونٌ) بہت آنسو بہانے والی آگہ۔

السَّجَلُ: حصہ۔ کہا جاتا ہے "أَعْطَاهُ سَجَلَهُ مِّنْ كَذَا" اس نے اس کو اس کا حصہ ملاں چیز سے دیا۔ شَقِيٌّ سَجِيْلٌ: بہت سخت چیز۔ حَضْرٌ

السَّجَلُ: زمین جو نہ سخت ہو نہ نرم۔ پو پھینے اور آلاب نکلنے کے درمیان کا وقت۔ کہا جاتا ہے "يَوْمَ سَجَسَجَ" دن کہ جس میں نہ تو تکلیف دہ گرمی ہو اور نہ سخت سردی ہو۔ و "هَوَاءٌ سَجَسَجٌ" گرم اور سرد کے درمیان معتدل فضا۔ و "رَيْحٌ سَجَسَجٌ" نرم و معتدل ہو۔ ج سَجَابِجٌ و سَجَابِيحٌ۔

سَجَعٌ (ف) سَجَعًا: الْخَطِيْبُ: معنی کلام بولنا۔ صفت (سَاجِعٌ و سَجَاعٌ و سَجَاعَةٌ) الْحَمَامَةُ: کبوتر کا کورنا۔ صفت (سَاجِعَةٌ) سَجُوْعٌ ج سَجَعٌ و سَوَاجِعٌ _____ النَّاقَةُ: اونٹنی کا بلی آواز نکالنا اور یہ کمان کے لیے بھی مستعمل ہے) _____ کہا جاتا ہے "سَجَعٌ فَلَانٌ ذَلِكَ الْمَسْجَعُ" فلاں نے اس مقصد کا ارادہ کیا۔

سَجَعٌ: الْخَطِيْبُ و الْحَمَامَةُ: بمعنی سَجَعٌ (تشہید مبالغہ کے لیے ہے)۔

السَّاجِعُ: فَالْمَنْكُو: رفتار وغیرہ میں درمیانی چال چلنے والا۔ وَجْهٌ سَاجِعٌ: اچھی خلقت کا معتدل چہرہ۔ نَاقَةٌ سَاجِعَةٌ: طرب و نشاط کے ساتھ آواز نکالنے والی اونٹنی۔

السَّجَعُ: معنی کلام۔ ج أَسْجَاعٌ۔

السَّجَعَةُ و الْأَسْجُوْعَةُ: قافیہ دار کلام کا ایک کلام۔ ج أَسْجَاعِيْعٌ۔

السَّجَعُ: مقصد۔

سَجَفٌ (ن) سَجْفًا و سَجْفًا: الْبَيْتُ: مکان کا پردہ لگانا۔

سَجَفٌ (س) سَجَفًا: پتلی کروا لیا ہونا۔

أَسَجَفَ الْبَيْتُ: پردہ لگانا۔ الْبَيْتُ: مکان کا پردہ لگانا۔ الْمَلِيْلُ: تاریکی پڑھنا۔

السَّجْفُ و السَّجْفُ: ج سَجُوْفٌ و أَسْجَافٌ و (السَّجَافُ و السَّجِيفُ) دروازے کے دو پردے جن کے بیچ میں کھلا ہوا ہو۔ پردہ۔ السَّجَافُ: گوت۔ سَجَافٌ: کہا جاتا ہے "أَزْعَى الْمَلِيْلُ سَجُوْفُهُ" رات نے پردے ڈال لئے۔ یعنی تاریکی پھیل گئی۔

السَّجْفَةُ: رات کا ایک حصہ۔

السَّجَافَةُ: پردہ حجاب۔

بیسے کی جگہ - ح سواجن -

السجین - ہمیشہ - سخت - وہ شخص جو پیشہ بلا بیوی کے رہے - ایک مقام کا نام جس میں کفار و فجار کے اعمال ناسے ہیں - جنم کی ایک وادی کا نام - برلا و اعلائیہ - کہا جاتا ہے "جاء سجینا" وہ برلا آیا - کجور کے درخت کے ارد گرد کاڑھا -

السججل - آئینہ - چاندی کا کلا - ح سناجل -

سجائسجوسجواو سجوا اللیل: رات کا سنان ہونا - ہمیشہ رہنا - النافقہ: کسی آواز نکالنا - سجی سجینة - المیت: میت کو کپڑے سے ڈھکانا - اور اسی سے ہے "سج معائب" اپنے بھائی کے عیوب کو چھپاؤ -

انسجت انسجاء: النافقہ: اونٹنی کا زیادہ دودھ والی ہوتا - انسجی البعور: سمندر کی موجوں میں سکون ہونا - الزجل: کسی چیز کو چھپانا -

سجافہ: کسی کام کو ہمیشہ کرنا - کہا جاتا ہے "انا بالقطاع فمنا سجانہ" وہ ہمارے پاس کھانا لایا ہم نے اس کو نہیں چھوا -

الساجی - نا - ساکن - فراریتہ - نرم - کہا جاتا ہے "عقین ساجیہ" جھکی ہوئی آگہ - و "لیلة ساجیہ" سنان رات - بہت تاریک رات جو ہر چیز کو ڈھانک لے -

افزاة (سجواء) الظرف: جھکی ہوئی نگاہ والی عورت - ناقة سجواء: دوشے کے وقت خاموش رہنے والی اونٹنی - ریح سجواء: نرم ہوا -

السجیة - طبیعت - عادت - ح سجیات و سجاہا -

سج (ان) سجاہا بہت موٹا ہوتا - الماء: پانی کو لگاتار بہت گراتا اور اسی سے ہے "استشده فبندہ فسجها علی سجا" میں نے اس سے قہیدہ پڑھوایا اس نے میرے سامنے لگاتار پڑھا - ہ - مارنا - کہا جاتا ہے "سجہ ما تہ سوط" اس نے اس کو سو کوڑے مارے (سجوا و سجوا و تسجیح) بہت بہنا -

سحت (ح) سجوا و سجواحة: البشاء: بہت موٹی ہونا گویا کہ موٹاپے کی وجہ سے چربی براتی ہے - صفت (سح و سحا و سجح و سجح -

انسح - ایضاً البعور عرفاً: اونٹ کی نبل سے پسینہ بہنا -

السح و السح - خشک تفرق کجوریں - السحاح - نفاء آملی -

سحابة (سجوح) بہت بارش والا بادل - غارة (سحاء) اچھا ک دشمن پر مصیبت لانے والی لوٹ -

عین (سحاحة) بہت آنسوؤں والی آگہ - فوس (سح) تیز رفتار عمدہ گھوڑا -

سحبة (ف) سحبا: زمین پر گھسنا - الزجل: بہت کھانا پینا - کہا جاتا ہے "جاء بسحب ذیلہ" وہ منگھیرا نہ چال چلتا ہوا آیا -

تسحب - علیہ: باز کرنا - من الأکل او الشرب: بہت کھانا پینا - فی حقی فلاں: پھین کر اپنے حق میں ملایا - انسحب - گھسنا -

السحیة - آگہ کا پردہ (سحابة) تالاب کا باقی ماندہ پانی -

السحاب: بادل - ح سحوب (سحابة) ح سحاب: کہا جاتا ہے "أفقت عندہ سحابة یؤہتا" میں نے اس کے پاس پورے دن اقامت کی -

السحیل: کشادہ وادی - براؤول - بڑی مگ - براہیٹ - بڑی گوہ -

سحت (ف) سحوا و سحت: حرام مال کھانا - ہ - ہلاک کرنا - جڑ سے اکھیڑنا - زخ کرنا -

سحت السخیم عن اللعیم: چربی کو گوشت سے علیحدہ کرنا - وجہ الأرض: مٹانا -

أسحتہ: خراب کرنا - ہلاک کرنا - جڑ سے اکھیڑنا - أسحتت یجارتہ: تجارت میں حرام داخل ہونا -

أسجت: مال ضائع ہونا - السحت: مہ - بوسیدہ کپڑا - عذاب - اور کہا جاتا ہے "مائلہ أو ذمہ سحت" اس کا مال یا خون اس

فص کیلئے جوان کو محدود کرے مباح ہے - السحت و السحت: حرام - ہر وہ کمالی جو غیبی کتب و شیخ ہو اور اس سے عار لازم آئے - جیسے رشوت وغیرہ - ح أسحتا -

قال (سحت و سحت و سحت و سحت و منسحت و منسحت) تلف شدہ مال - ہلاک شدہ مال - زجل سحت و سحت: بڑا چوڑا - آسورہ ہونے والا - عام (أسحت) و أرض (سحتاء) بے نباتات والا اسل یا زمین -

السحتوت و السحیبت: کم روغن اور زیادہ پانی والا ستور - تھوڑی چیز -

السحتوت و السحیبت: پرانا کپڑا - السحیبتہ: سب کچھ ہمالے جانے والا بادل - ح سحایت -

سحتوت الجوف و المغدة: آسورہ نہ ہونے والا - زیادہ بدبشمی ہونے والا - (شد) سحجة (ف) سحجا و سحجة: چھیلنا

السئی بالسئی: کسی چیز کو کسی چیز سے رگڑ کر چھیلنا - صفت مفعول (سحتوت و سحیح) -

سحبت الذابة: چھپا یہ کا جلدی پلانا - تسحج و انسحج: چھلنا -

السحاج: بہت بچھنے والا - کہا جاتا ہے "زمن سحاج" بہت سخت زمانہ جو ہر چیز کو چھیل کر رکھ دے -

السحوج و المسحاج: بہت قسم کھانے والی عورت -

المسحج و المسحاج من الذواب: تیز چلنے والا جانور - ذابحوں سے بہت کاٹنے والا -

المسحاج: گلڑی کاٹنے کا اوزار - زہن مسحاج: بہت سخت زمانہ جو ہر چیز کو چھیل دے -

السحد: بہت سرکش و نافرمان - سحوة (ف) سحوا: دھوکا دینا - جاؤ کرنا - فریقت کرنا - ہ - عن کذا: پھیرنا - دور کرنا -

سحر عن الأمر: کسی معاملہ سے دور ہونا - و سحر الفضة: چاندی پر سونے کا جھول چڑھانا -

السحيف. بھل کی آواز پینے کے وقت۔
دودھ روکنے کی آواز۔

السحيفة. سخت بارش جو ہر چیز کو ہمالے
جائے۔ چرئی جو پھیل کر جدا کی جائے۔ ج
سحائف۔

السحوف. سخت بارش جو ہر چیز کو ہمالے
جائے "نافقة سحوف": بے چرئی والی اونٹنی۔
اونٹنی جس کے تھن لیے ہوں اور تھن کے
سوراخ تنگ ہوں۔ جمل انفاقة سحوف:
زیادہ چرئی والا اونٹ یا اونٹنی۔

مسحف. الحقة: زمین پر سانپ کے چلنے
کے نشانات۔

المسحفة. گوشت چھینے اور چڑا کر پنے کا
آلہ۔

زحل (مسحوف) سل کی بیماری والا۔
أرض (مسحفة) باریک گھاس والی زمین۔

مسحفة (ف) مسحفا۔ بت زیادہ کونا۔ باریک
کرنا۔ ہلاک کرنا۔ الريح الارض: ہوا کا تیز

چلنے کی وجہ سے صاف کر دینا۔ الواس: سر
مونڈنا۔ الشق الشديد: نرم کرنا۔

القملة: جون کو مار ڈالنا۔ الثوب: کپڑے
کا پورا بوسیدہ کرنا۔ العين ومعها: آنکھ کا

آنسو برہنا۔ کہا جاتا ہے "سحقه الله" اللہ نے
اس کو دور کر دیا۔

سحق (س) وسحق (ک) سحقا۔ دور
ہونا۔

سحق (ک) سحقفة۔ الثوب: کپڑے کا
بوسیدہ ہونا۔ پراٹا ہونا۔ النخلة: درخت

خرما کا طویل ہونا۔ صفت (سحقوق) سحق
سحق۔ بت باریک پڑنا۔

مسحفة۔ دور کرنا۔ ہلاک کرنا۔ الثوب:
کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔ باوجود نئے ہونے کے

رواں گر جانا۔ خف البعير: گھس جانا۔
الضغ دودھ خشک ہو جانا اور تھن کا پیرت سے

لگ جانا۔

السحق۔ باریک ہونا۔ القلب: دل کا
شکستہ ہونا۔ الشق: کشادہ ہونا۔ دور ہونا

الطوبع: باوجود نئے ہونے کے رواں گر

الخييل: بڑے ہیٹ والا گھوڑا۔
السحار۔ جاوگر۔

الساجر۔ فا۔ عام۔ سحرة و سحاز و
سحاز و ساجوزون۔ مؤنت الساجرة۔ ج

ساجرات و سواجر۔
السؤخر: بید کار رخت۔

السحار والاسحاز والاسحارة۔ ایک قسم
کی نباتات جو مویشیوں کو مونا کرتی ہے۔

المسحور۔ وہ شخص جس کا پیچھڑا اور کر دیا گیا
ہو۔ خوف دلایا ہوا۔ جاو کیا ہوا۔ کھوکھلا۔

المسحورة۔ مغم۔ خراب کیا ہوا کھانا۔ کثرت
بارش یا کسی اور وجہ سے خراب جگہ۔ عنز

مسحورة: کم دودھ والی بھیڑ۔ أرض
مسحورة: بجز زمین۔

السحارة۔ ایک قسم کی چیز جس سے بچے کھیلنے
ہیں۔

تسحسح۔ الماء پانی کا دور سے برتا۔
التسحسح والتسحسحة۔ گھر کا مہن

(التسحسح والتسحسح) من المطر: بت
سخت بارش جو زمین کے کنگر پتھر وغیرہ کو ہمالے

جائے۔

سحط (ف) سحقطا و سحقفا۔ جلدی زنج
کرنا۔ ه الطعام: پھندا لگانا۔ سحق

الشراب: پانی لگانا۔ السحط: بکری کے پتے
کوماں کے ساتھ چھوڑنا۔

انسحط۔ من يده: ہاتھ سے پھسل کر گرنا
عن التخلية ونحوها۔ لٹکانا اور بغیر ہاتھ سے

پکڑے ہوئے اترنا۔
المسحط۔ طق۔

شاة (سحيطو سحقطة) زنج کی ہوئی بکری۔
سحف (ف) سحقفا۔ الشعر عن الجليل:

بال کو کھل سے زائل کرنا۔ الواس: سر
مونڈنا۔ (وأنسحفت) الريح السحاب:

ہوا کا بازوں کو اڑا دینا۔ و أنسحفت سحقفة: پیٹھ
کی چرئی کو پٹنا۔

السحقفة۔ پیٹھ کے اوپر کی چرئی۔ ج سحقاف
و سحقف۔

السحاف۔ سل کی بیماری۔

سحرة (ف) سحورا۔ پیچھڑے پر مارنا۔
صفت مفعول (مسحور و مسحور) —

المطر الطين: خراب کرنا۔
سحور (س) سحورا۔ صبح سویرے آنا۔ ذول

وغیرہ کھینچنے سے پیچھڑے کا کٹ جانا۔ صفت
(سحور و مسحور)

سحورہ۔ جاو کرنا۔ سحری دینا یا کھانا۔ غذا دینا۔
مشغول کرنا۔

أسحور۔ صبح کے وقت جانا۔
تسحور۔ سحری کھانا۔

إسحور۔ صبح کے وقت میں داخل ہونا یا صبح
کے وقت لکنا۔ الدهك: مرغ کا صبح کے وقت

ہانگ دینا۔

السحور۔ مہ۔ وہ چیز جس کا ماخذ لطیف و دقیق
ہو۔ باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرنا۔ جاو۔

و حو کا۔ حیلہ۔ نسا۔ ہر وہ چیز جس کے حاصل کرنے
میں شیطانی تقرب کی ضرورت ہو۔ ج اسحار و

سحور۔ السحور الکلامی: کلام کی لطافت جو
جاو کا کام کرے اور خیالات کو لپٹ دے اور اسی

سے ہے "ان من التبان لسحورا"
السحور۔ صبح سے کچھ پہلے۔ السحور

الأعلى: صبح کا زب۔ والسحور الاخر: صبح
صالح۔ السحور: ہر چیز کا تارہ۔ ج اسحار۔

السحور والسحور والشحور۔ پیچھڑا۔ ج
سحور و سحور و اسحار اور کہا جاتا ہے

"انقطع منه سحری" میں اس سے ناامید
ہو گیا۔ و "انفص سحورہ" وہ بزدل ہو گیا۔ گویا

خوف کی وجہ سے اس کا پیچھڑا پھول گیا۔ و
"مات فلان بين سحری و سحری" فلاں کا

انتقال میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے ہوا۔
السحری والسحریة۔ صبح سے کچھ پہلے۔

السحرة۔ صبح کا زب۔
السحارة۔ پیچھڑا۔ من الشاة: بکری کے

پیچھڑے اور زرخرہ کا وہ حصہ جس کو قصاب
کاٹ لیتا ہے۔

السحور۔ سحری۔ وہ کھانا جو صبح سے کچھ پہلے
کھایا جائے۔

السحير۔ پیٹ کی بیماری والا۔ من

<p>سَحْمٌ وَجْهَةٌ: چہرہ کالا کرنا۔ أَسْحَمَتِ السَّمَاءُ: برساتا۔ السَّحَامُ وَالسَّحَابُ وَالسَّحَابَةُ: سیاہی۔ الْأَسْحَمُ: سیبگ۔ بادل۔ سرپستان۔ شراب کی مٹک۔ بت۔ خون جس میں قسم کھانے والے اپنے ہاتھوں کو بوڑھے تھے۔ السَّحْمُ: لوبا () والسَّحْمِجُ وَالْأَسْحَمَانُ: ایک درخت کا نام۔ السَّحْمَةُ: لوبہ کا گلاب۔ السَّحْمُ: لوبہ کے پتھروٹے۔ سَحْنٌ (ف) سَحْنًا: المَحْوُ: چھروٹا السَّحْنَةُ: گلابی کور گڑ کر زم و چمکدار بنانا السَّحْنُ: باریک پینا۔ سَاحَنَةٌ: ملاقات کرنا۔ بھڑ میل ملاپ سے رہنا۔ سَاحَنَةُ السَّحْنِ: کسی چیز میں شرکت کرنا وَوَسَّحَنَهُ: کسی کے چہرہ مرہ رنگ و روغن کو دیکھنا۔ السَّحْنَةُ وَالسَّحْنَةُ وَالسَّحْنَةُ وَالسَّحْنَةُ: بیت رنگ کمال کی تالیلی۔ السَّحْنَةُ: چھروں کو ٹوڑنے کا اوزار۔ ج سَاحِنٌ۔ سَحَاهُ: سَحَاهُ وَوَسَّحَاهُ وَوَسَّحَاهُ: سَحَاهُ: چھیلنا۔ السَّحْنَةُ: کھینچنا۔ صفت (سَاحٍ) ج سَحَاةٌ وَوَسَّحُونٌ مَوْنَتٌ سَاحِيَةٌ السَّحْرُ: موزنا () وَأَسْحَى: اسْحَاءٌ وَوَسَّحَى: سَحْحِيَّةٌ الْكِتَابُ: خط پر کسی چیز سے مراد۔ السَّحْرُ: موزنا: اسْحَى: منہ: شرم کرنا۔ السَّحَاءُ: مِنَ الْكِتَابِ: خط پر مر کرنے کی چیز۔ وَوَسَّحَاءُ: السَّحَاءُ: دماغ کی جملی ج سَحَايَا۔ السَّحَاءَةُ: میدان۔ جانب۔ ایک قسم کی خاردار گھاس۔ چمکاوڑ۔ ج سَحْحِيَّةٌ۔ السَّحَايَةُ: بادل کا گلاب۔ دماغ کی جملی۔ کسی چیز کا براہ۔ پیلے بنانے کی چیز۔ السَّاحِيَةُ: سیلاب زوری کی بارش۔ السَّحَاءُ: چمکداری والا۔</p>	<p>منگتو جاری کرنا۔ اِنْسَحَلَتِ الذَّرَابِمُ: چمکدار ہونا۔ السَّحْلُ: سح۔ السَّحْلُ: ج اَسْحَالٌ وَوَسْحُولٌ وَوَسْحُلٌ وَالسَّحْلُ: کپڑا جس کا سوت کچا ہو۔ اکری مٹی ہوئی رتی۔ السَّاحِلُ: قاصد۔ سندر کا کنارہ۔ ج سَوَاحِلُ۔ السَّحَالُ: لگام۔ السَّحْلَةُ: چھوٹا خرگوش جو اپنی ماں سے جدا ہو گیا ہو۔ السَّحَالَةُ: ہانڈی سونے کا بڑا۔ کیوں جو کی بھوسی۔ ناکارہ لوگ۔ اِلسَّحْلُ: ایک درخت کا نام جس کی مسواکیں بنائی جاتی ہیں۔ اِلسَّاحِلُ: پانی کی تالیاں۔ اِلسَّحْلُ: سنگ تراشی کا اوزار۔ ریتی۔ زبان۔ لگام۔ بلخ خلیب۔ ہمار۔ چست۔ ساقی۔ جلا۔ حدود کو قائم کرنے والا۔ پختہ ارادہ۔ اکری مٹی ہوئی رتی۔ گراہی۔ کہا جاتا ہے "وَكَبْ فَلَانٌ مِّنْ سَحْلَةٍ" فلاں نے گراہی اختیار کی۔ اِلسَّحْلُ: شیطان۔ داڑھی کی ایک جانب چھپلی۔ توشہ دان کا منہ۔ بہت پانی والا۔ پر جلا۔ بہت بارش۔ خمیس آدمی۔ سخاوت و فیاضی۔ گدھے کا پختہ۔ گور خر۔ ماہر قرآن۔ روٹی کا پاکیزہ کپڑا۔ ج سَاحِلُ۔ السَّحَالُ وَالسَّحْلُ: بہت بہت۔ شَابٌ (مَسْحَلَانٌ) وَمَسْحَلَانِيٌّ: لبا یا سیدھے بالوں والا جوان۔ مَوْنَتٌ مَسْحَلَانَةٌ وَوَسَّحَلَانِيَّةٌ الْمَسْحُولُ: مغم۔ چھوٹا۔ حقیر۔ ہموار کشادہ جگہ۔ رَجُلٌ (اِسْحَلَانِيٌّ) اللّٰحِيَةُ: لہنی داڑھی والا مرد۔ اِمْرَاةٌ (اِسْحَلَانِيَّةٌ) لہجے قد والی خوبصورت عورت۔ السَّحْلَانُ: بڑے بہت والا۔ السَّحْلَوَاتُ: برباک عورت۔ سَحْمٌ (س) وَوَسْحَمٌ (ك) مَسْحَمًا: کالا ہونا۔ صفت (أَسْحَمٌ) مَوْنَتٌ سَحْمَاءٌ: ج سَحْمٌ۔</p>	<p>جانا۔ الدَّلُو: ڈول کا خالی ہو جانا۔ السَّحْقُ: مہ۔ بوسیدہ کپڑا۔ کہا جاتا ہے "ثَوْبٌ مَسْحُقٌ وَوَسْحُقٌ نَوْبٌ" ہاتھ مارو صف یا اضافت کے۔ نیز کہا جاتا ہے "سَحْقٌ دَرَهْمٌ" کھوٹا درہم ج سَحْقُوقٌ۔ السَّحْقُ وَالسَّحْقُ: دوری۔ کہا جاتا ہے "سَحْقَالَةٌ" یعنی اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے۔ السَّحْقِيَّةُ: دور۔ مَسْحَقٌ مَسْحِقِيٌّ: باریک مٹی ہوئی مٹک۔ السَّحْقُوقُ: لبا یا ہمار۔ السَّحْقَالَةُ: بہت پینے والا۔ اِمْرَاةٌ مَسْحَقَالَةٌ: عورت جس کی پستانیں لہنی ہوں اور لنگ آئی ہوں۔ السَّحْقِيَّةُ: سحیق کا مَوْنَتٌ۔ زور کی بارش جو ہر چیز کو بھالے جائے۔ ج سَحْقَانِقٌ۔ وَوَع (مَسْحَقٌ) مئے ہوئے آنسو۔ ج مَسْحَقِيٌّ (نار) کہا جاتا ہے "حَوْرٌ مِّنْ عَيْنِهِ مَسْحَقِيٌّ الدَّمْعُ" اس کی آنکھ سے آنسوؤں کی قطاریں بہ رہیں۔ اِلسَّحْقُ: دور۔ اِلسَّحْقُ: جس سے پیدہ جاتے۔ مَسْحَقٌ (ف) مَسْحَقًا: پینا۔ ریہ ریہ کرنا۔ مَسْحَلٌ (ف) مَسْحَلًا: السَّحْنُ: چھیلنا۔ پینا۔ كَوْنًا: الرَّجُلُ: گلاب رنگ۔ ملامت کرنا۔ الْغَرِيمُ: ماٹہ درہم: قرض خواہ کو نقد ادا کرنا۔ ۵۰ ماہ سوط: بارنا۔ الثَوْبُ: کپڑے دھانے سے بنا۔ اِلسَّحْلُ: رتی کو اکراہنا۔ مَسْحَلَتٌ مَسْحَلًا وَوَسْحَلًا: العَيْنُ: روتا۔ مَسْحَلٌ (ض) مَسْحَلًا وَوَسْحَلًا: اِلسَّحْلُ: چھڑ کا ہننا۔ مَسْحَلَةٌ: ایک دوسرے کو گھلی رہنا۔ ایک دوسرے کو ملامت کرنا۔ مَسْحَلٌ الْقَوْمِ بِأَوْلَادِهِمْ: سائل پر لانا۔ مَسْحَلَةٌ: گلابی خور دھانا۔ اِسْحَلٌ: چمکداری۔ باریک ہونا۔ بِالْكَلَامِ:</p>
--	---	---

طور پر بارنا اور اسی سے ہے "مَا أَسْحَنَ حَضْرَةَ"
اس کی بارگاہ قدر تکلیف رہے۔

سَخِنَتْ (س) سَخِنًا وَسُخُونًا وَسُخُونَةً
عَيْنُهُ: آگہ کا تکلیف سے جل اٹھنا۔

أَسْحَنَ وَسَخِنَ وَالشَّىءُ: گرم کرنا۔ کہا جاتا
ہے "أَسْحَنَ عَيْنَهُ وَيَعِينُهُ" یعنی اس نے اسے
رلا دیا۔

السَّخْنُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ
وَالسَّخْنَةُ وَالسَّخْنَةُ: گرمی۔ بخار۔ کہا جاتا
ہے "عَلَيْكَ بِالْأَمْرِ عِنْدَ سُخْنَةٍ" معاملہ کو اس
کے ابتداء ہی میں ٹھنڈا ہونے سے پہلے سنبھال
لو۔

السُّخْنُ وَالسُّخْنَانُ وَالسُّخْنَانُ
السُّخْنَانُ: گرم۔

مَاءٌ سَيْخِنٌ: گرم پانی۔ حَزَبٌ سَيْخِنٌ:
تکلیف دہار۔ السَّيخِنُ: کدال۔ پیلچہ۔ قھاریوں
کی چھری۔ بل کلا سے۔ ج سَخِنًا: مؤنث

السَّخِينُ: نا۔ گرم۔ ج سَخِنًا: مؤنث
سَخِينَةٌ: کہا جاتا ہے "لَيْلَةٌ سَخِينَةٌ" گرم رات۔
السَّخِينُ: گرم۔ کہا جاتا ہے "مَاءٌ
سَخِينٌ" گرم پانی (کلام عرب میں مقابل کا
وزن اس کے علاوہ کوئی نہیں)۔

السَّخِينُ: ہر وہ چیز جو گرم ہونے لگتی۔
السَّخِينَةُ: ایک گھم کا کمانا جو آئے سے تیار کیا
جاتا ہے۔ گرم کمانا۔

السَّخِينُ: ہانڈیاں۔ موزے۔ چادر کی مانند
ایک کپڑا جس کو علماء سر ڈالتے ہیں۔ (جمع ہے
جس کا واحد نہیں اور یا سَخِنٌ یا سَخْنَانٌ واحد
ہے)۔

السَّخِينَةُ: ہانڈی۔ ج سَخِينُ:
سَخِينَةٌ وَسَخِينٌ وَسَخِينٌ وَسَخِينٌ
يَسْخُونُ سَخَاً وَسَخَاً وَسَخَاً وَسَخَاً وَسَخَاً
سُخُونَةً: فِياض ہوتا۔ سخی ہوتا۔ کہا جاتا ہے
"سَخِيْتُ نَفْسِي وَنَفْسِي عَنِ الشَّيْءِ" یعنی
میں نے اسے چھوڑ دیا اور میرے نفس کا میلان
اوپر نہیں ہوا۔

سَخَا النَّازُ يَسْخُوها سَخَاً وَسَخَاها
سَخَاً وَسَخَاً: راکھ نکال کر آگ جلانا۔

الْقِدْرُ: ہانڈی کے نیچے آگ جلانا۔ الزُّجْلُ:
حرکت سے سکون اختیار کرنا۔

تَسَاخَى وَتَسَاخَى: بگلف فیاض ہونا۔
السَّخَاوَةُ: فِياض۔ بخشش۔

السَّخَاةُ: ایک قسم کی سبزی۔ ج سَخَاةُ:
التَّسَاخَى: فِياض۔ ج أَسْخِيَاءٌ وَسَخَوَاءٌ
مؤنث سَخِيَّةٌ۔ ج سَخَايَا وَسَخِيَّاتٌ۔

الأَرْضُ (السَّخَوَاءُ): کشادہ نرم زمین۔ ج
سُخَاوِيٌّ وَسَخَاوِيٌّ:
أَرْضٌ (سَخَاوِيَّةٌ): نرم کشادہ زمین۔ ج
سَخَاوِيٌّ۔

مَسْخَى: التَّار: وہ جگہ جو ہانڈی کے نیچے کشادہ
کی جائے تاکہ آگ جلنے میں آسانی ہو۔
المَسْخَاةُ: چھپنی۔ آگ کی کربلی۔

سَدٌّ (س) سَدًّا: الاتاقہ: برتن بند کرنا۔
الفَلَقَةُ: رخسہ درست کرنا۔ الثَّيَابُ: دروازہ
بند کرنا۔

سَدٌّ (س) سَدًّا: سَدًّا وَسَدًّا: درست ہونا۔ کہا
جاتا ہے "هُوَ يَسُدُّ قَوْلَهُ" وہ ٹھیک بات کہتا ہے
و "قُلْتُ لَهُ سَدًّا إِذْ أَمِنَ الْقَوْلُ وَسَدًّا" میں نے
اس سے ٹھیک بات کہی۔ الشَّيْءُ: سیدھا ہونا۔
سَدَّدَ: الوَضْعُ: سیدھا کرنا۔ ہ: راہ راست
کی طرف رہنمائی کرنا۔

أَسَدَّ: الشَّيْءُ: سیدھا ہونا۔ الزُّجْلُ: راہ
راست کو پہنچایا طلب کرنا۔

تَسَدَّدَ: سیدھا ہونا۔ الشَّيْءُ: درست
ہونا۔

إِنْسَدَّدُوا سَدًّا إِسْدَادًا: سَدًّا إِسْدَادًا: بند ہونا۔
إِسْتَدَّ: الشَّيْءُ: درست ہونا۔

السَّدُّ وَالسَّدُّ: ج أَسْدَادُ: دو چیزوں کے
درمیان آڑ۔ پھاڑ۔ کہا جاتا ہے "حَضْرَتٌ عَلَيْهِ
الْأَرْضُ بِالْأَسْدَادِ" یعنی اس کے اوپر راستے بند
ہو گئے۔ و السَّدُّ: ج أَسْدَادُ: عیب مثل اندھے پن
کے۔ و السَّدُّ: ج سُدُودٌ: کالا بادل جس نے آفت کو
گھیر لیا ہو اور کہا جاتا ہے "جَزَأْتُ سُدًّا" یعنی ٹڈی
دل۔ و السَّدُّ: ج سِدْدَةٌ: داوی جس میں پتھر اور
پتھان ہوں اور پانی اس میں مدت تک رہے۔
داوی۔ مسابیحہ۔

كَلَامٌ (سَدٌّ) مَحْجُودٌ: درست کلام۔

السَّدُّ: م: درستی۔ جودرستی ہو۔

السَّدَادُ: م: درستی و راستی۔ ہدایت۔

السِّدَادُ: ڈھلکا۔ دودھ جو ٹھن کے سوراخ
میں خشک ہو جائے اور دودھ کی نالی کو بند کر دے۔
السِّدَادَةُ: ڈھلکا۔

السِّدَادُ: ناک کی بیماری جس کی وجہ سے
سانس لینی دشوار ہو۔

رَجُلٌ (سَدَادٌ): راہ راست پر رہنے والا مرد۔

السَّدَّةُ: دروازہ۔ برآمدہ۔ بیٹھے کی جگہ جیسے
منبر۔ ناک کی بیماری جس کی وجہ سے سانس لینی
دشوار ہو۔ ج سَدَّدَ:

عَيْنٌ (سَادَةٌ): اچھی طرح نہ دیکھ سکنے والی آنکھ۔
ج سَدَّدَ:

الْأَسْدُ: ج سَدَّدَ (السَّدِيدُ): ٹھیک درست۔
حق کا تصدیق کرنے والا۔

المَسَدُّ: بند کرنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "سَدُّ
مَسَدَّةٌ" یعنی قائم مقام۔

سَدَجٌ (ن) سَدَجًا: بِالشَّيْءِ: گمان کرنا۔
و تَسَدَّجَ: جھوٹ بولنا۔ جھوٹی باتیں گھڑنا۔
صفت (سَدَجٌ):

إِنْسَدَجَ: اونڈھا کرنا۔

سَدْحَةٌ (ف) سَدْحًا: زنج کر کے زمین پر
پھیلانا۔ جھانڈا۔ النَّاقَةُ: اونٹنی کو بٹھانا۔
القَرْيَةُ: محکم بھرنا۔ سَدْحٌ بِالْمَكَانِ:

اقامت کرنا (سَدْحًا وَسَدْحًا) قتل کرنا۔

إِنْسَدَحَ: چت لیت کرنا گناہیں پھیلانا۔

السَّادِحُ: قا۔ ملدار۔ صاحب فرامی و ارزانی۔
مؤنث سَادِحَةٌ: السَّادِحَةُ: گھٹا نوپ بادل۔

السَّدِيحُ وَالْمَسْدُوحُ: چت لینا ہوا۔
إِنْسَدَحَ: پھیلانا۔

سَدْرٌ (ن) سَدْرًا وَسُدْرًا: الشَّعْرُ: بال
لٹکانا۔ السُّدْبُ: کپڑا پھاڑنا۔ لہا لٹکانا۔

الزُّجْلُ فِي الْبِلَادِ: جا کر واپس نہ آنا۔

سَدِيرٌ (س) سَدِيرًا وَسَدِيرًا: حیران ہونا۔
لا پروا ہونا۔ السَّدِيرُ: شہرت گری کی وجہ سے
چندھا جانا۔ صفت (سَدِيرٌ) کہا جاتا ہے "تَكَلَّمَ
سَدِيرًا" اس نے بغیر تحقیق کے گفتگو کی۔

إِسْدَرُ - الشَّعْرُ: بال لثقا اور کہا جاتا ہے
"إِسْدَرٌ يَرْتَضُ" وہ آہستہ دوڑا۔ نیچے آرتا اور
بیشہ چلتا۔

تَسْدَرُ - بِقُوْبِهِ: اوڑھ لینا۔

السِّدْرُ - بَير کا درخت - ج سَدُوْر۔

السِّدْرَةُ - بَير کا درخت - ج سِيدْرَات۔ و
سِيدْرَات و سِيدْرَات و سِيدْر۔ و سِيدْرَةُ
الْمُنْتَهَى۔ ساتویں آسمان میں عرش اعظم کی
دائیں جانب بَير کا درخت جو لوگوں کے اعمال کے
لیے ختم ہے اور ملائکہ وغیرہ کے علم کی امتداد میں
تک ہے۔

السِّدْرُ - حِمران - سَمْدَر - نَاقَةٌ سِيدْرَةٌ: بوزھی
اونٹنی۔

السِّدْرُ - پردہ کی مانند جو خیمہ کے عرض میں
لگایا جاتا ہے۔

السِّدْرُ - بَير کے پتوں کا بیچنے والا۔

السِّدْرُ - تازہ گھاس۔ جہ کے اطراف میں
ایک دریا کا نام۔ شاہ نعمان کے ایک محل کا نام۔
یمن میں ایک جگہ کا نام جہاں سے یمنی چادریں
آتی تھیں - سِيدْرُ التَّخْلِ: وہ جگہ جہاں درخت
خرابت سے ہوں۔

الْأَسْدَرَانِ - آٹھ کی دو رگیں۔ دونوں
موڑھے۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ يَضْرِبُ أَسْدَرِيَّةً"
وہ بے حصول مقصود خالی ہاتھ آیا۔

سَدَسٌ (ض) سَدَسًا - القَوْمُ: جھٹا ہونا!

سَدَسٌ (ن) سَدَسًا - القَوْمُ: جھٹا ہونا۔

سَدَسٌ - الشَّيْءُ: چھ پہل بنانا۔

أَسْدَسٌ - القَوْمُ: چھ ہونا۔ چھٹے روز گھٹ پر
آنے والے اونٹوں والا ہونا _____ التَّجِيْرُ:
آٹھویں سال میں دانت گراتا۔

السِّدْسُ - اونٹ کے لیے چھ روز پانی پینے کی
باری۔ ست کی اصل سدس ہے۔

السَّدْسُ و السَّدْسُ - جھٹا ہونا۔ ج سَدَسًا
اور کہا جاتا ہے "هُوَ يَضْرِبُ أَحْمَاسًا
لِإِسْدَاسٍ" وہ کمزور بیک کی کوشش کرتا ہے۔

السَّدْسُ - آٹھویں سال کی عمر کا اونٹ۔

السَّدَاسُ - فَا - چھٹا۔ مَوْتٌ - سَدَاسِيَّةٌ۔

السَّدَاسِيَّةُ - چھ سے مرکب۔ چھ حرفوں والا

کلمہ جیسے زَنْجِ نَبَلٍ - کہا جاتا ہے جَاءَ (وَإِسْدَاسٍ)
وہ لوگ چھ چھ ہو کر آئے اور یہ کلمہ عدل اور
وصفیت کی وجہ سے غیر مشرف ہے۔

السَّدُوْسُ و السَّدُوْسُ - سبز رنگ کی چادر۔
السَّدُوْسُ - چراغ کی سیاہی۔

السَّدِيْسُ - جھٹا ہونا۔ ج سَدَسُ - چھ سے
مرکب۔ آٹھویں سال کی عمر کا اونٹ۔ چھ سال والی
بکری۔

السَّدَسُ - شش پہل۔ وہ سطح جو چھ باہم برابر
ضلعوں سے گھری ہو۔ السَّدَسُ: رِوَالُ الرَّجُلِ
میں چھ کارتوس ہوتے ہیں۔

السَّدَعَةُ (ف) سَدَعًا - زَنْجِ کر کے پھیلانا _____
السَّيِّءُ بِالشَّيْءِ: ٹکراتا۔

السَّدِيْعُ - رَنْجِ و اذیت پہنچایا جاتا۔

السَّدَعَةُ - رَنْجِ و اذیت۔

السَّدِيْعُ - اپنے ارادہ پر چلنے والا۔ ہادی رہنما۔
السَّدَفُ (ض) سَدَفًا - القَوْمُ: تاریکی میں داخل
ہونا _____ العَجَبَاتُ: پردہ لگانا۔ صفت مضوی
(مَسْدُوْفُ)

السَّدَفُ - سونا۔ بھوک یا بڑھاپے کی وجہ سے نگاہ
کا دھندلا ہونا _____ القَوْمُ: تاریکی میں داخل ہونا

_____ اللَّيْلُ: تاریک ہونا۔ صفت (أَسْدَفُ)
مَوْتٌ سَدَفًا - ج سَدَفٌ _____ الفَجْرُ: روشن
ہونا _____ السَّبْرُ: پردہ اٹھانا _____ السَّرْفَةُ
الْقِتَاعُ: برقعہ ڈالنا۔ أَسْدَفَ عَنِ كَذَا: الگ

ہونا۔ کہا جاتا ہے "السَّدَفُ النَّبَابُ" یعنی دروازہ
کھول دو یا دروازہ سے ہٹ جاؤ تاکہ گھر میں
روشنی ہو سکے۔
السَّدَفَةُ - کلوے کلوے کرنا۔

السَّدَفُ - تاریکی۔ روشنی (ضد) بھیڑ۔ ج
السَّدَافُ۔

السَّدَفُ - وجود جو ڈور سے دکھائی دے۔ ج
سَدُوْفُ۔

السَّدْفَةُ و السَّدْفَةُ - تاریکی۔ روشنی۔ (ضد)
السَّدْفَةُ: دروازہ۔ دروازے کا چھپر جو اس کو
بارش سے بچائے۔

السَّدِيْفُ - کوہان کی چربی کا ایک ٹکڑا۔ ج۔

السَّدَافُ و السَّدَافُ۔

السَّدَافَةُ - پردہ۔

السَّدَقُ و السَّدُوْقُ - سَدَق و سَدُوْقُ کی
تقیف ہے۔

السِّيْدَاقُ - ایک تندر دار درخت کا نام۔ جس کی
چھال تیز چلتی ہے اور اس کی راکھ سے کتاب کے
دھماکے کو سفید کرتے ہیں۔

سَدَقٌ (س) سَدَقًا و سَدَقًا - بِالْأَمْرِ: لازم
ہونا۔ چٹنا۔ صفت (سَدَقٌ) یہ کہا جاتا ہے "هُوَ
سَدَقٌ بِالرُّوْحِ" بہت تیز مارنے والا ہے۔

سَدَقٌ (ن ض) سَدَقًا و سَدَقًا - الشَّعْرُ أَوْ
النَّوْبُ: بال یا کپڑا لگانا۔ سَدَقٌ النَّوْبُ: کپڑا
پھاڑنا _____ فِي النَّبَاذِ: جانا۔

سَدَقٌ (س) سَدَقًا - خَلْقَةٌ: جھکاؤ والا ہونا۔

تَسَدَقٌ و اِسْتَدَقٌ - لگانا۔

سَدَقٌ - الرَّجُلُ: لمبی مونچھوں والا ہونا۔

السِّيْدَلُ - ہار جو سینہ تک لمبی ہو۔

(_____ و السَّدَلُ) پردہ۔ ج اِسْدَالٌ و اِسْدَلٌ
و سَدَوُلٌ - کہا جاتا ہے اَزْجَعِي اللَّيْلُ سَدَوُلُهُ۔
رات نے اپنے پردے لٹکانے یعنی تاریکی چھا گئی۔

السَّدَلُ - جھکاؤ۔ میلان۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ
سَدَلٌ إِلَى جَانِبٍ" اس کے اندر ایک جانب
میلان ہے۔

السِّيْدَلُ - بوردہ پر چڑھ لایا جائے۔ پاکی وغیرہ کا
پردہ۔ ج سَدَلٌ و اِسْدَالٌ و سَدَاقِلُ۔
شَعْرٌ (مَسْدَقٌ) بہت لمبے بال۔

السَّدَوُلُ - موچھ۔

سَدَمٌ (ن) سَدَمًا - النَّبَابُ: دروازہ بند کرنا۔
بھیڑنا۔

سَدَمٌ (س) سَدَمًا - ندامت کے ساتھ عملیں
ہونا۔ غم کے ساتھ غضبناک ہونا _____ بِالشَّيْءِ:
بہت خواہش مند ہونا۔ حریف ہونا _____ الصَّاءُ:
پانی کا بہت دنوں کی وجہ سے ختم ہونا اور کالی سے
ڈھکا جانا۔

سَدَمٌ - الصَّاءُ طَوْلُ عَهْدِهِ: مختیر کرنا۔ ماءً
(سَدَمٌ و سَدَمٌ و سَدَمٌ) کالی سے ڈھکا ہوا
یا زیادہ دنوں کی وجہ سے مختیر پانی جمع کے لیے کہا
جاتا ہے۔

وِيَاءُ سَدَمٌ و اِسْدَامٌ و سَدَامٌ - زَجَلٌ سَدَمٌ:
مُحْكَم دَلَالٌ و بَرَابِيْنٌ سَمِيْنٌ، مَتْنُوْعٌ و مَفْرُوْدٌ مَوْضُوْعَاتٍ پَرِ مَشْتَمَلٍ مَفْتٍ اَنْ لَاتَنِ مَكْتَبِه

بچے کا مال کاٹنا۔ فلانا: پھولوں کا گلہ ست
دے کر مبارکباد دینا۔

سوز (س) سوزا۔ ناف میں درد ہونا۔

سوز سوزوا۔ خوش ہونا۔ صفت (سوزوز)
الصبی: ولادت کے وقت نال کاٹنا۔

اسوزہ اسوزا۔ خوش کرنا۔ اسوز السوز: ہمید
چھپانا۔ ہمید ظاہر کرنا (خمد)۔ الیہ یکذا چیکے
سے بیان کرنا۔ الیہ المودة و بالمودة:
اپنی دوستی کو پھیلانا۔

سوزوہ خوش کرنا۔ سوزوہ سوزیہ: لوٹزی سے
شادی کرنا۔ اس میں ایک لغت سوزاہ بھی ہے۔
سازوہ پوشیدہ بات کرنا۔ کان میں بات کرنا۔

تسوز۔ لوٹزی بنانا۔ ایک لغت اس میں
تسوزی بھی ہے جیسے تظنن میں تظنی۔
القوب: کپڑے کا بیضنا۔

تساز۔ القوب: باہم سرگوشی کرنا اور ایک
دوسرے کے ہمید پر مطلع ہونا۔ کہا جاتا ہے
”تساز زیدانی ماتکوفہ“ یعنی جس سے تم کو
نفرت ہے زید کو اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔
استسوز استسوزا۔ لوٹزی کو ہم خوابی کے

لیے مخصوص کرنا۔ عنہ: چھپنا۔
القصر: چاند کا ایک دو راتیں پوشیدہ رہنا (یہ
سرار سے ماخوذ ہے)۔ الشی: چھپانے میں
مباہت کرنا۔ الزجل: خوش ہونا۔
الزجل: اپنے ہمید کو کسی سے ظاہر کرنا۔

السوز۔ مع۔ کہا جاتا ہے ”زجل بزوس“ یعنی کر
کے خوش ہونے والا مرد۔ اور اسی طرح ”قوزم
بوزون سوزون“ یعنی کر کے خوش ہونے والے
لوگ۔

السوز۔ ج۔ اسوزار: ہمید۔ راز۔ کہا جاتا ہے
”صدوز الأوزار فبوز الأسرائ“ احرار کے
بیٹے ہمید کے لیے قبر ہیں۔ و ”زجل سوزی“
کاموں کو پوشیدہ طور پر کرنے والا مرد۔ و ”فلان
سوز هذا الأمر فلان“ اس امر کا جاننے والا ہے۔

السوز: طریقہ۔ وسط۔ وادی کا درمیان۔ خالص
چیز۔ عمدہ و افضل چیز۔ پاک و عمدہ زمین۔ قمری مینہ
کی پہلی رات یا آخری رات یا درمیان مینہ۔
اصل ہر چیز کا جوہر و مغز۔ ج۔ امیروہ جیسے فن کی

سذی۔ القوب (سذیة) تاناٹنا۔
الیہ: احسان کرنا۔ معزوزا: بھلائی کرنا
الارض: نمناک کرنا۔

اسذی اسذاء۔ القوب: تاناٹنا۔ کہا جاتا ہے
”الجم ما اسذیت“ یعنی جس احسان کو تم نے
شروع کیا ہے اسے پورا کرو۔ الیہ: احسان
کرنا۔ الارض: نمناک کرنا۔ بینہما:
اصلاح کرنا۔ الامر: بیکار چھوڑنا۔

تسذی تسذیا۔ الشی: سوار ہونا۔ چڑھنا۔
اوپر سے پکڑنا۔ القوب: تاناٹنا۔

السذی۔ تانا۔ ج۔ اسذیة۔ نجی۔ شہم۔ شہد۔
بھلائی (۔ والسذاء) سبز کچی بھجور۔

السذاء۔ من القوب: تانا۔ کہا جاتا ہے ”ما
انت بلحمة ولا سذاء“ یعنی تم سے نہ کچھ نفع
ہے نہ نقصان۔

ابل (سذی و سذی) بیکار چھوڑے ہوئے
ارٹ (واحد و جمع کے لئے) کہا جاتا ہے ”ذہب
اکلامہ سذی“ اس کی گفتگو لغو و بیکار گئی۔
الاسذی و الاسذی۔ وہ کپڑا جس کا تانا کیا گیا
ہو۔

المسذاء۔ تاناٹنے کا آلہ۔
السذاب۔ ایک بد بو دار پودہ جس کے پتے متر
کی طرح ہوتے ہیں۔
السذیة۔ ایک قسم کا برتن۔

الساذج۔ سادہ کا معرب۔ ایک قسم کی گھاس جو
بغیر جڑ کے پالی کے اوپر پھلتی ہے۔ تیزبات۔
السذاجة۔ ساوگی۔

السذق۔ سدہ کا معرب۔ ایرانیوں کا ایک جشن
ہے جس میں رات کے وقت صحرا و بیابان میں آگ
جلا یا کرتے تھے۔

السوذق السذاق والسذقان
و السذقان۔ کنگن۔ شکر۔ السوذق: زنجیر کا
حلقہ۔

السوذقی۔ جست۔ چالاک۔ تکبر۔
السذاق والسوذیق والسوذاق۔ شکر۔
سوز (ن) سوزوا و مسوز و سوزا و سوزی و
تیسوزہ خوش کرنا۔

سوز (ن) سوزا۔ ناف میں نیزہ مارا۔ الصبی:

غضبناک مرد۔
السذم۔ ندامت کے ساتھ غم۔ غم کے ساتھ
غصہ۔

السذمان۔ ندامت کے ساتھ غمگین۔ غم کے
ساتھ غضبناک۔ کہا جاتا ہے ”هو سذمان
تذمان“

سذوم۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا گاؤں۔ بعض
سذوم بالذال کہتے ہیں۔

السذیم۔ ج۔ سذام۔ بہت یاد کرنے والا۔ ج۔
سذم: کرایا باریک کرنا۔

سذن (ن ض) سذنا و سذانة: کعبی بات
خانہ کی خدمت کرنا۔ دربان ہونا۔ صفت (سذان)
ج۔ سذنة کہا جاتا ہے ”هو سذان فلان و اذنة“
یعنی فلان کا دربان ہے۔ سذن السبوز: پردہ لگانا۔
السذن والسذن۔ ج۔ سذان۔ و
(السذران) پردہ۔

سذانة۔ الکعبیة: کعبی کی خدمت۔
السذین۔ ج۔ لی۔ اون۔ خون۔ پردہ۔
السذان۔ نمائی (صحیح لفظ سذان ہے)۔

سذایسذ و سذوا۔ سذوہ نحو الشی: کسی
چیز کی طرف ہاتھ بڑھانا۔ الصبی بالجوز:
اخروٹ سے کھلنا۔ سذت التاقفة فی الشی:
کشاہہ قدم رکھنا اور کہا جاتا ہے ”سذاسذوہ“
اس نے اس کے جیسا قصد کیا اور اس کی پیروی
کی۔

أسذی اسذاء۔ غلاف خرما کا ڈھیلا
پڑنا۔

استذی اسذاء۔ سذوہ: ہاتھ بڑھانا۔
الصبی بالجوز: اخروٹ سے کھلنا۔
الفرس: پیوند والا ہونا۔

السذی۔ فا۔ چھنا۔ مونث ساذیة۔ ج۔ سذاد۔
الثوق السوذی: کشاہہ قدم رکھنے والی
اونٹیاں۔

سذی سذی سذی۔ الشی: غلاف خرما کا
ڈھیلا پڑنا۔ صفت (سذ)۔ الارض: زمین کا
بہت نمناک ہونا۔ الیلثة: بہت شہم والی
ہونا۔ صفت (سذیة)۔

سذی سذی سذیا۔ القوب: تاناٹنا۔

تختے سے کھن لائن ہوتا۔ صفت مسزوب۔
 سزوب۔ الإبل: گروہ گروہ بھیجتا۔
 التي الأشياء: ایک کے بعد ایک دینا
 الخافض: دائیں بائیں کھودنا۔ القزبة: منک
 میں پانی ڈالنا۔ (وَأَسْرَبَ الْمَاءَ مِنَ الْإِنَاءِ:
 برتن سے پانی بہانا۔
 تَسْرَبَ مِنَ الْمَاءِ بِأَنِيٍّ مِمَّنْ جَرَّانَا۔
 الْوُخْشُ فِي خُجْرِهِ: وحشی جانور کا اپنے
 سوراخ میں داخل ہونا۔
 إِنَسْرَبَ: سوراخ میں داخل ہونا۔
 الْمَاءَ مِنَ الْإِنَاءِ: برتن سے پانی برتنا۔
 السزوب۔ مہ۔ جانور۔ جانب۔ سینہ۔ راستہ۔ کہا
 جاتا ہے "فَلَانٌ مُخْلِئُ السزوب" فلاں پر کوئی
 تنگی نہیں کی گئی ہے۔ "ذَخِلَ لَهُ سزوبه" اس کا
 راستہ چھوڑو۔
 السزوب۔ ہرنوں کا گلہ۔ ہرنوں کی ڈار۔
 عورتوں کی جماعت۔ کھجور کے درختوں کا جھنڈ۔
 راستہ۔ ول۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ وَاسِعُ
 السزوب" فلاں کشادہ دل ہے۔ ج اسزوب۔
 السزوب۔ وحشی جانور کا سوراخ۔ یہ خانہ۔ ٹال
 جس سے پانی آئے۔ منک سے بننے والا پانی اور کہا
 جاتا ہے "ظرفيق سزوب" چلتا ہوا راستہ۔ ج
 اسزوب۔
 السزوب۔ بننے والا پانی۔ مزادة سزوبية: بننے
 والی منک۔
 السزوبية۔ قریب کا سفر۔ منک کی سیون۔
 السزوبية۔ ہرن، اونٹ وغیرہ کا ریوڑ۔ طریقہ۔
 انجور کی تیل کی قطار۔ کھجور کے درختوں کا جھنڈ۔
 سینہ کے درمیان میں پیٹ تک کے بال۔ ج
 سزوب۔
 السزوب۔ وہ رنگتالی ریت جو دوپہر کے وقت
 دھوپ کی تیزی کی وجہ سے پانی جیسا نظر آتا ہے
 اور اس میں مکلاں اور درختوں کا سایہ عکس کی
 طرح معلوم ہوتا ہے۔ جھوٹ اور کمزور فریب کے
 لیے اس سے مثال دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 أَخْذَعُ مِنَ السزوب" وہ سرب سے زیادہ
 فریبی ہے۔
 السزوب۔ فا۔ کھلم کھلا ظاہر۔ ظنينة صارية:
 لوگوں کا خوش حالی و بد حالی میں دوست ہے۔
 شکر یہ والی زمین۔ أَرْضُ سزوب: عمدہ زمین۔
 السزوب: بخوف ٹال۔
 السزوب۔ ہتھیلی یا پیشانی کے خطوط۔ کبیرس۔ ج
 امیرۃ۔ السزوب: قمری مینے کی آخری رات۔
 السزوب۔ خالص نسب۔ سزوب الشہر: قمری
 مینے کی آخری رات۔ سزوب الوادی: وادی کی
 عمدہ جگہ۔
 السزوب۔ خالص نسب۔ وادی کا درمیان۔
 سزوب الشبی: عمدہ خالص۔ ج سزوب۔
 السزوب: خلوص۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سزوبینُ
 السزوب" وہ خالص ہے جس کا خالص ہونا ظاہر
 ہے۔ و "هُوَ فِي سزوبه مِنْ عَيْشِهِ" وہ اچھی
 زندگی میں ہے۔
 السزوب۔ خوشی و خوش حالی۔
 الأمزوب۔ کھوکھلا پتھماق۔ مِنَ الرِّجَالِ:
 اچھی۔ زیادہ موٹا۔
 المَسزوب۔ مہ۔ خوشی۔ تازبو کی شاخیں۔ ج
 مسزوب۔
 المَسزوب۔ ایک جوف دار آگ جس کو بننے والے
 کے کان میں لگا کر بات کرتے ہیں۔
 المَسزوب۔ خوش۔ مؤنث مسزوبۃ۔
 سزوب (ف) سزوب سزوبت تَسزوبۃ الْجَزَادۃ
 او السمکۃ او الصنۃ: مڈی یا مچھلی یا گہوہ کا انڈا
 دینا۔ المَزَادۃ: بہت اولاد والی ہونا۔
 امزوب السمکۃ: انڈے دینے والی ہونا۔
 السزوب والسزوب والسزوب والسزوبۃ: مڈی
 مچھلی گہوہ وغیرہ کا انڈا۔
 السزوب۔ مِنَ السمک و نَحْوِهَا: بہت
 انڈے والی۔ ج سزوب و سزوب۔
 أَرْضُ (مَسزوبۃ) مڈیوں والی زمین۔
 سزوب (ن) سزوبنا۔ المَاءُ: پانی کا جاری ہونا
 الرِّجُلُ: گھٹتے چلے جانا۔
 الإبل: چرنے کے لیے جانا۔ (سزوبنا) القزبة:
 منک سینا۔
 سزوب (س) سزوبنا۔ الإناء: برتن ٹپکانا۔
 الْمَاءَ مِنَ الْإِنَاءِ: برتن سے پانی کا بہنا۔
 سزوب۔ ناک کے نچھتوں میں چاندی کا دھواں

جمع ائقۃ۔
 السزوب والسزوب۔ ہتھیلی یا پیشانی کے خطوط۔ ج
 امزوب ج امزوب۔ الأصابیر: چہرہ کی خوبیاں۔
 السزوب۔ ٹال جس کو وادی جنائی ولادت کے وقت
 بچے کی ناف سے کاٹی ہے۔ ج امیرۃ: اور سزوب کا
 اطلاق سرور کے معنی پر بھی ہوتا ہے۔
 السزوب والسزوب۔ ہتھیلی اور پیشانی کے خطوط۔
 ناف کا وہ حصہ جس کو وادی جنائی کے وقت کاٹی
 ہے۔ السزوب: قمری مینے کی آخری رات۔ کسی چیز
 کا کھوکھلا ہونا۔
 السزوبۃ۔ گلہ۔ ست۔
 السزوبۃ۔ ٹال جس کے زریعہ سے جنین کے
 بیٹ میں غذا بنتی ہے۔ ناف۔ ج سزوبت و سزوب
 سزوب الوادی: وادی کا درمیان یا وادی کی
 بحرین جگہ۔ سزوب التبلد: وسط شہر۔ سزوبۃ
 الحوض: حوض کی یہ میں پانی ٹھہرنے کی جگہ۔
 سزوبۃ القزب: ایک ستارہ۔ امزوبۃ سزوبۃ: لوگوں
 کو خوش کرنے والی عورت۔
 السزوب۔ خوشی۔
 السزوب۔ خوشی۔ تازبو کی شاخیں۔
 السزوب۔ تخت۔ عموماً تخت شاہی کیلئے بولا جاتا
 ہے۔ کہا جاتا ہے "زَال عَنْ سزوبہ" یعنی اس کی
 عزت جاتی رہی۔ خواب گاہ۔ گردن اور سر کے
 ملنے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے "سزوبنا امیرۃ
 زووسہم" انہوں نے ان کی گردن میں سر کے
 ملنے کی جگہ پر مارا۔ نعمت۔ فرامی زندگی۔ ٹیلہ پر
 کی ریت۔ ج امیرۃ و سزوب۔
 السزوبۃ۔ بھید۔ راز۔ وہ امر جس کو پوشیدہ رکھا
 جائے۔ نیت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ظَنِيْبُ السزوبۃ"
 وہ پاک دل صاف نیت والا ہے۔ ج سزوب۔
 السزوبۃ۔ لونڈی جو ہم خوابی کے لیے مخصوص
 کی جائے۔ ج سزوب۔ اغلب یہی ہے کہ اس کا
 اشتقاق سزوب سے ہے اور بعضوں کے نزدیک
 سرور سے ہے۔
 السزوب۔ بھائیوں سے اچھا سلوک کرنے والا
 اور ان کو خوش رکھنے والا۔
 السزوب۔ خوشی۔ خوش حالی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 صَدِيقٌ لَهُمْ فِي السزوب والسزوب" وہ ان

سَرَعَانٌ وَسَرَعَانٌ الْقَوْمُ أَوْ الْغَيْلُ: سب سے آگے کے لوگ یا گھوڑے۔ کہا جاتا ہے ”جَاءَ فِي سَرَعَانَ النَّاسِ“ وہ سب سے آگے کے لوگوں میں آیا۔

السَّرِيعُ: جلد باز۔ ج سَرَعَانَ: مؤنث سَرِيعَةً: ج سِرَاعٍ: اشعار کے اوزان میں ایک وزن۔

السَّرِيعُ وَالسَّرَعَانَ: جلد باز۔ مؤنث سَرِيعَةٍ:

الأسانيع: کمان کی کبیریں۔ کہا جاتا ہے ”فَوَسَّ ذَاتَ أَسَانِيَعٍ“ کبیروں والی کمان۔ سفید جسم اور سرخ سروا لے کبیرے۔ واحد (السَّرِيعُ) و (يَسْرِعُ)

المِسْرَعُ وَالْمِسْرَاعُ: خیر یا شرکی طرف جلدی لپکنے والا۔ ج مَسْرَاعٍ وَمَسْرَائِعٍ: السَّرْعُوبُ: نیولا۔

سَرَعَفٌ سَرَعَفَةٌ: الضَّبِيُّ: بچے کی اچھی طرح پرورش کرنا۔

تَسْرَعَفٌ: الضَّبِيُّ: بچے کا اچھی طرح پرورش پانا۔

السَّرْعُوفُ: نازک و سبک گوشت۔ مؤنث سَرْعُوفَةٌ: السَّرْعُوفَةُ: لمبے قد کی نازک بدن عورت۔ ڈبی۔ کپڑے کو کھانٹنے والا کپڑا۔

سَرَعٌ (س) وَسَرَعٌ (ك) سَرَعَةٌ وَسَرَعَاوٌ سَرَعَاوٌ وَسَرَعَاوٌ سَرَعَاوَةٌ: جلدی کرنا۔ سَرَاعٌ: إِلَيْهِ: سَبَقْتُ كَرْنَا _____ فِي الْأُمُورِ: کوشش کرنا۔

أَسْرَعُ فِي الْمَشِيِّ: جلدی چلنا۔ تَسْرَاعٌ وَتَسْرَعٌ: إِلَى الْأُمُورِ: سَبَقْتُ كَرْنَا: جلدی کرنا۔ (تَسْرَعٌ بِالْأُمُورِ): سَبَقْتُ كَرْنَا: تَسْرَعٌ الْأُمُورِ: جلدی ہونا۔

السَّرْعُ وَالْمِسْرَعُ: انگریز کی تازہ شاخ۔ ہر تر شاخ۔ ج سَرْعُوعٍ:

سَرَعَانَ وَسَرَعَانَ وَسَرَعَانَ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمِ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسْرَعَانَ مَا فَعَلْتُ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

سَرَعَانَ وَالسَّرَعَانَ: جلدی کرنا۔ گھن گنا _____ الرَّجُلُ بِالْحَمْرِ: شراب کا تریب ہونا۔

أَسْرَفٌ: الضَّالُّ: فضول خرچی کرنا _____

تَسْرَعُوا اسْتَرْطَ الشَّقَى: لگنا۔ اِنْسَرَطَ: الشَّرَابُ فِي حَلْفِهِ: حلق میں آسانی سے آرتا۔

المِسْرَاطُ: واضح راستہ۔ السَّرَاطُ: مِنَ السَّرِيفِ: بہت کاتنے والی تلوار۔

السَّرَاطِي: بہت کاتنے والی تلوار۔

(_____ وَالسَّرَطُ وَالْمِسْرَاطُ وَالسَّرَطَةُ وَالسَّرَاطُ وَالْمِسْرَاطُ) جلدی لگنے والا۔ بہت کھانے والا۔ السَّرَطُ: تیز چلنے والا۔ السَّرِيفِيُّ: اسم ہے سَرَطُ: کا لگنا۔

السَّرَطَانُ: مہ۔ کپڑا۔ اور اس کا نام عَقْرَبُثُ المَاءِ بھی ہے اور عوام اس کو السَّرَطَانُ کہتے ہیں۔ السَّرَطَانُ: ایک برج آسمانی کا نام ہے۔ ایک پھوڑے کا نام جس میں کپڑے کی ٹانگوں کی طرح رگیں دکھائی دیتی ہیں اور کہا جاتا ہے ”فَوْسُ سَرَطَانَ أَوْ سَرَطَانَ الْجَرِيِّ“ یعنی تیز دوڑنے والا گھوڑا۔

المِسْرَطُ وَالْمِسْرَاطُ: حلق۔ المِسْرَطُ: جلدی کھانے والا۔

سَرَطَعٌ: گھبراہٹ کی وجہ سے تیز دوڑنا۔ السَّرَطَلُ وَالسَّرَطَلُ: بے ذول۔ لبا۔ السَّرَطَلُ وَالْمِسْرَطَلُ: بہت کھانے والا۔

سَرِعٌ (س) وَسَرِعٌ (ك) سَرِعَةٌ وَسَرِعَاوٌ سَرِعَاوٌ وَسَرِعَاوٌ سَرِعَاوَةٌ: جلدی کرنا۔ سَرَاعٌ: إِلَيْهِ: سَبَقْتُ كَرْنَا _____ فِي الْأُمُورِ: کوشش کرنا۔

أَسْرَعُ فِي الْمَشِيِّ: جلدی چلنا۔ تَسْرَاعٌ وَتَسْرَعٌ: إِلَى الْأُمُورِ: سَبَقْتُ كَرْنَا: جلدی کرنا۔ (تَسْرَعٌ بِالْأُمُورِ): سَبَقْتُ كَرْنَا: تَسْرَعٌ الْأُمُورِ: جلدی ہونا۔

السَّرْعُ وَالْمِسْرَعُ: انگریز کی تازہ شاخ۔ ہر تر شاخ۔ ج سَرْعُوعٍ:

سَرَعَانَ وَسَرَعَانَ وَسَرَعَانَ: اسم فعل مثنیٰ بر فتح۔ بمعنی اسرع یعنی جلدی کرو۔ کہا جاتا ہے ”سَرَعَانَ الْقَوْمِ“ یعنی اے قوم جلدی کرو۔ اور کبھی تعجب کے لیے آتا ہے۔ جیسے ”لَسْرَعَانَ مَا فَعَلْتُ“ یعنی تو نے کس قدر جلدی کی۔

سَرَعَانَ وَالسَّرَعَانَ: جلدی کرنا۔ گھن گنا _____ الرَّجُلُ بِالْحَمْرِ: شراب کا تریب ہونا۔

أَسْرَفٌ: الضَّالُّ: فضول خرچی کرنا _____

رکھا۔ سَرَدٌ وَأَسْرَدٌ: الْأَدِيمُ وَنَحْوُهُ: چمڑے وغیرہ میں سوراخ کرنا اور سینا _____ التَّخْلُ: درخت خرابا پانی نہ ملنے سے مرجھانا۔

تَسْرَدٌ: الدُّرُّ: موتیوں کا لڑی میں ترتیب وار ہونا۔ کہا جاتا ہے ”تَسْرَدُ دَمْعُهُ كَمَا يَتَسْرَدُ اللُّؤْلُؤُ“ اس کے آسو موتیوں کی طرح ترتیب وار ہیں۔

السَّرَدُ: مہ۔ ہرزہ اور حلقہ کے لیے اسم ہے۔ کہا جاتا ہے ”لُجُومٌ سَرَدٌ“۔ السَّرَدُ: مہ۔ لگا رہنا۔

السَّرَادُ: پھل کوبانی نہ ملنے سے پڑمری۔ المِسْرَادُ وَالسَّرِيدُ وَالْمِسْرَدُ: ستالی۔ المِسْرَدُ: زبان۔ دہرا سلا ہوا جوتا۔

السَّرَادُ: موچی۔ السَّرَادُ: زہر مٹانے والا۔ المَسْرُودُ وَالْمَسْرُودَةُ: زہر۔ المِسْرَادُ: مہ۔ ج سَرَادِيْبُ: سَرْدَحَةٌ: بیکار چھوڑنا۔

السَّرَادِحُ وَالْمِسْرَادِحَةُ: لمبی اونٹنی اور بتول بعض مضبوط پر گوشت اونٹنی۔

السَّرَادِحُ: کھیلے کے درختوں کا جھنڈ۔ واحد مِسْرَادِحَةٌ: أَرْضٌ مِسْرَادِحَةٌ: ہموار زمین۔ دور کی زمین۔ ج سَرَادِحٌ وَسَرَادِيْبٌ: مَسْرُودٌ: البَيْتُ: پردہ لگانا۔ شامیانہ لگانا۔ خیمہ لگانا۔

السَّرَادِيْقُ: شامیانہ۔ خیمہ۔ بلند غبار یا دھواں جو کسی چیز کو محیط ہو۔ ج سَرَادِيْقَاتُ: مَسْرَسٌ (س) مَسْرَسَةٌ: بدخلق ہونا۔ جمالت کے بعد ادا ہو شیار ہونا۔

السَّرِيسُ: عقل مند۔ زیرک۔ مقبوضہ چیز کا محافظ۔

سَرَسٌ: الشَّفْرَةُ: دھار تیز کرنا۔ السَّرَسُورُ: زیرک۔ محبوب۔ خالص ساتھی کہا جاتا ہے۔ ”هُوَ سَرَسُورٌ مَالٌ“ وہ مال کا بہتر منتظم ہے۔

المِسْرَسَامُ: ایک دماغی بیماری کا نام۔ سَرَطَانُ (ن) وَسَرَطَانُ (س) سَرَطَاوٌ وَسَرَطَانَاوٌ

فی کذا: حد سے تجاوز کرنا۔ زیادتی کرنا۔ خطا کرنا۔ جاہل ہونا۔ غافل ہونا۔ صفت (مُسْرِف)

السَّرْفَةُ: گمن۔ سرخ۔ جسم اور کالے سروا لکیرا جو چھوٹی لکڑیوں کو اپنے لعاب سے جوڑ کر گھیرتا ہے اور اس میں داخل ہو کر مر جاتا ہے۔ اسی سے مثال ہے "هُوَ أَصْنَعُ مِنَ سَرْفَةٍ" وہ سرفہ سے زیادہ کارگر ہے۔

السَّرْفُ: حد و اعتدال سے تجاوز کرنا۔ زیادتی۔ خطا۔ کہا جاتا ہے "اَكَلَهُ سَرْفًا" اس نے جلدی سے کھایا۔

السَّرْفِ: سرفہ (ذکورہ بالا کیڑے) کا درخت کے پتوں کو چاٹ جانا۔

رَجُلٌ سَرْفٌ (سَرْفٌ) الْفَوَادِ: غافل مرد۔ سَرْفٌ الْعَقْلِ: خراب یا کم عقل والا۔

ارض (سَرْفَةٌ) زَمِينٍ جَسْمٍ فِي سَرْفَةٍ كَبِيرَةٍ: بہت ہوں۔

السَّرْفُوفُ: تخت اور بڑا۔

السَّرِيفُ: انگور کی تیل کی قطار۔

السَّرْفِجُ: شیطان کا نام۔

السَّرْفِيفِلُ وَالسَّرْفِيفِينُ: فرشتہ کا نام جو قیامت کو صور پھونکے گا۔

سَرْقٌ (سَرْقٌ) سَرْقًا وَسَرْقَةً وَسَرْقَةً وَسَرْقَةً سَرْقَانًا: مِنْهُ الشَّيْءُ وَسَرْقَةُ الشَّيْءِ: چرانا۔ کہا جاتا ہے "سَرْقُوا لَيْلَةَ مِنَ الشَّهْرِ" جبکہ اس رات میں عیش کے ساتھ رہیں۔ و "سَرْقَتَيْنِ عَيْنَيْنِ" میری آنکھ میرے اوپر غالب ہوئی۔

سَرْقٌ: الرَّجُلُ: کسی کے مال و متاع کا چوری ہو جانا۔ صَوْنُهُ: آواز پڑنا۔ گلا بیٹھ جانا۔ صِفَتٌ مَسْرُوقٍ الصَّرْبُ:

سَرْقٌ (س) سَرْقًا: الشَّيْءُ: پوشیدہ ہونا۔ سَرْقَتٌ مَفَاصِلُهُ: جوڑوں کا سخت ست ہو جانا۔

سَرْقَةٌ: چوری کی نسبت کرنا۔ سَرْقٌ الشَّيْءِ: چرانا۔

سَارَقَةٌ: النَّظَرُ: ایک دوسرے کو دوزیدہ نگاہ سے دیکھنا اس طرح کہ کسی اور کو علم نہ ہو۔

سَارَقٌ النَّظَرُ لَيْلِيَّةً: کسی کو دوزیدہ نگاہ سے دیکھنا۔ تَسْرُقُ: تھوڑا تھوڑا چرانا۔ النَّظَرُ وَالسَّمْعُ: چوری سے دیکھنا یا سنا۔

السَّرْقُ: عَتَّةٌ: جانے کیلئے پیچھے ہٹنا۔ السَّرْقَتُ مَفَاصِلُهُ: جوڑوں کا ست ہو جانا۔

السَّرْقُ: مِنْهُ الشَّيْءُ: چرانا۔ السَّمْعُ: چھپ کر سنا۔ الكَاتِبُ بَعْضُ الْمُحَاسِبَاتِ: چھپایا۔ ظاہر نہ کرنا۔

السَّرْقَةُ: مہ۔ چرائی ہوئی چیز۔

السَّرَاقُ: فَاحِ سَرْقَةٍ وَسَّرَاقٌ وَسَارِقُونَ مَوْثٌ سَارِقَةٌ: السَّرَاقَةُ: بوبے یا ہڑے کا طوق۔

ج سَرَوَارِقُ: السَّرَوَارِقُ: تالے کی زائد جھڑ۔ السَّرْقَةُ: مہ۔ حریر کا ٹکڑا۔ ج سَرَوَقٌ (یہ کلمہ اس

معنی کے لحاظ سے فارسی ہے۔)

السَّرَاقُ: بہت چرانے والا۔

السَّرَوِقُ: چور۔ ج سَرَوِقٌ:

السَّرَاقَةُ: چرائی ہوئی چیز۔

السَّرْقُ: فَاحِ نَاقِصٌ كَمَزُورٌ مُسْتَرْقٍ الْعُنُقُ: چھوٹی گردن والا۔

السَّرْفَعُ: ترش تیز۔

السَّرْفِيفِينَ وَالسَّرْفِيفِينَ: گور۔ کھاد۔

سَرْكٌ (س) سَرْكًا: قوت و توانائی کے بعد کمزور جسم والا ہونا۔

سَرْوَةٌ وَتَسْرُوكٌ: لاغری یا تھکن کی وجہ سے آہستہ چلنا۔

السَّرْوَكُوكُ: لاغروغٹ۔

سَرْوَةٌ: کھڑے کھڑے کرنا۔

تَسْرَمٌ: کھڑے کھڑے ہونا۔

السَّرْمُ: مستقیم آنت کا تارہ۔ ج السَّرْمُ:

السَّرْمُ: ویر کا درو۔

السَّرْمَانُ وَالسَّرْمَانُ: زرد سیاہ بھڑ۔

السَّرْمَدٌ: بيش۔ لَيْلٌ سَرْمَدٌ: لمبی رات۔

السَّرْمَدِيُّ: جس کی ابتدا آسمان ہو۔

تَسْرَمُظُ الشَّعْرِ: بال ہلکے اور کم ہونا۔

السَّرْمَطُ وَالسَّرْمِيطُ وَالسَّرْمِيطُ

وَالسَّرْمِيطُ وَالسَّرْمِيطُ: ہر ایک لمبی چیز۔

السَّرْمِيطُ: ہر کبل وغیرہ جس میں کوئی چیز لکٹی جائے۔ ج رَجُلٌ سَرْوَمِيطٌ: ہر چیز کو ننگے والا مرد۔

السَّرْمِيقُ: ایک گھاس کا نام۔

السَّرْمِيقِيُّ: اپنے کاموں میں جلد باز۔ مَوْثٌ سَرْوَدَاةٌ:

سَرْوَدَاةٌ:

السَّرْوَفُ: ایک شکاری پرندہ۔

السَّرْوَانُ: لمبے قد والا۔

السَّرْوَبُ: بوقرف۔ بہت کھانے پینے والا۔

السَّرْوَبَةُ: اچھے تن و قوت کی اور لمبے قد والی عورت۔

سَرْوَجٌ سَرْوَجَةٌ: سرکشی کرنا۔

السَّرْوَلُ: ریشی کو مضبوط بنانا۔

سَرْوَدٌ: السَّرْوَدُ: کوہان کو کاٹنا۔

السَّرْوِيَّةُ: بچہ کو اچھی خوراک کھلانا۔

السَّرْوَدُ: کوہان کی چربی۔ مَاءٌ سَرْوَدٌ: بہت پانی۔

السَّرْوَدُ: مہ۔ موٹا۔

سَرْوَفٌ: الْعِلْمَةُ: غذا کو عمدہ بنانا۔

السَّرْوِيَّةُ: بچہ کو اچھی خوراک کھلانا۔

سَرْوَاتٌ سَرْوَاتٌ: سَرْوَاتٌ الْجَوَادَةُ: مڈی کا

اٹنے والا۔ و سَرْوَاتٌ تَسْرِيَةٌ وَأَسْرِي

إِسْرَاءٌ الْقَرْبُ عَتَّةٌ: کپڑے اتارنا۔

سَرْوَاتٌ سَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ سَرْوَاتٌ

سَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ وَسَرْوَاتٌ

عمدہ۔ ج سزئی و سزاة و سزاة و اسزیناء و سزواء مؤنث سزینة ج سزینات و سزینا۔
سزولة پاجامہ پستانا۔
سزول پاجامہ پستانا۔
السزوال و السزوالة و السزویل و السزویل۔ پاجامہ۔
ازار۔ کلمہ فارسی ہے اور مؤنث ہے اور بھی مذکر استعمال کیا جاتا ہے۔ ج سزویل۔ فزوش (سزول) بازوؤں اور رانوں تک سفیدی والا گھوڑا۔
حماة (سزولة) ناگوں پر والا کبوتر۔
سزى يسرى سزى و سزينة و سزينة و سزينة و سزينة و سزینا و سزینا و سزینا و سزینا۔ رات میں چلنا۔ صفت (سار) ج سزاة و سزى بہ: رات میں سفر کرنا و سزى عزفی الشجوة: درخت کی جڑ کا زمین کے نیچے چل پڑنا۔ سزى الدم لمن الغزوق: خون کا رگوں میں دوڑنا۔ الهيم: غم زائل ہونا اور کہا جاتا ہے "سزى الجوز الى النفس" یعنی زخم سے اثر کیا یہاں تک کہ ہلاکت واقع ہوگئی۔
سزى۔ عنة: غصہ یا غم کا زائل ہونا۔
أسزى اسزاء۔ رات میں چلنا۔
الزجل: کشادہ زمین کی طرف جانا۔
سزى۔ عنة اور عن قلبہ: کسی سے غم دور کرنا۔ قائد الجیش: کمانڈر کا دستہ فوج بھیجا۔
سزى۔ صاجبہ: ساتھ ساتھ رات میں چلنا۔
سزى و اسزى۔ دیکھئے ماہ س ر و۔
السزى و السزینان و السزینہ۔ مصادر۔ رات کا سفر اور عرب کا قول "عند الصباح یحمد القوم السزى" مثال ہے جو ایسے موقع پر بولتے ہیں کہ مشقت برداشت کرنے میں راحت کی امید ہو۔ ابن السزى: رات کا مسافر۔ السزینة: ڈی کا پتہ جو ابھی کیڑے کی شکل کا ہو۔
السزاة۔ ہر چیز کا بالائی حصہ۔ سزاة الجبل۔ پہاڑ کی چوٹی۔ سزاة الضحی: ابتدائے وقت چاشت۔

السزاء۔ ایک درخت جس سے مکن بنائی جاتی ہے۔ واحد (سزاة)۔
السزاء۔ رات میں بہت چلنے والا۔
السزى۔ فاج سزاة)۔ و السزى و (السزى)۔ شیر۔
السزینة۔ ساری کا مؤنث۔ رات کو چلنے والی جماعت۔ رات کو آنے والا بادل۔ ستون۔ عذ الملاہین: مستول۔ ج سزوار۔
السزینة و السزینا۔ شامی محل (کلمہ فارسی ہے)۔
السزى۔ چھوٹی ڈی۔ ج اسزینة و سزینان۔ السزینة۔ دستہ فوج۔ تیر کا چھوٹا اور گول پھل۔ ج سزینا۔
السزب و السزینب و السزینب۔ ایک درخت کا نام جس کی گڑی سے تیر بناتے ہیں۔
السزینان۔ ایک درخت جس کے پتے چوڑے اور پھول سفید ہوتے ہیں اور اس کا دانہ مٹانے کی پتھری کو توڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
الأسزط۔ لمبی ناگوں والا مرد۔
السطح۔ ظالم لوگ۔
سطأ (ف) سظأ۔ الجاریة: جماع کرنا۔
الأسظبة۔ کناں کا وہ حصہ جو صاف کرنے کے وقت گرے۔
المسظبة و المسظبة۔ چوڑے۔ نمائی ککشاں۔ قراء اور سائلین کے جمع ہونے کی جگہ۔ سرائے۔ ج مسظاب (ساد کے ساتھ ابلغ ہے)۔
سطخة (ف) سظخا۔ بچھانا۔ بچھاڑنا۔ "لانا۔ کہا جاتا ہے "سزبہ فسظخة" اس نے اس کو ہارنے مارے بچھاڑا (سطح) البیت: چھت کو ہموار کرنا۔ سطح و سطح التاقہ: اونٹنی کو بٹھانا۔
سطح۔ ہموار ہونا۔
إنسطح۔ بغیر کسی حرکت کے چت لیٹنا۔ پھیلانا۔
السطح۔ مہ۔ چھت۔ چوڑی چوٹی۔ ج سظوح۔
السطیح۔ پھیلا ہوا۔ کمزوری یا بیماری کی وجہ سے سستی سے اٹھنے والا (و السطحیة) توش دان۔

سَطَعَ (ف) سَطَعًا وَسَطَعًا وَسَطَعًا.
الغبار أو الواحِةُ والنُّورُ: غبار یا ہوا یا روشنی کا بلند ہونا۔ پھیلانا اور اسی سے ہے "سَطَعَتْ زابِحَةُ الْمَسْكِ" یعنی منک کی خوشبو پھیل گئی۔ پیدہ: نال بجانا۔ تم کہتے ہو "سَطَعْنِي زابِحَةُ الْمَسْكِ" جبکہ منک کی خوشبو تمہاری ناک میں پہنچے (سَطَعًا) اِسَاءَةً: گردن لمبی کر کے سر اٹھانا البَجِيْرُ: گردن یا پلو پر لمبا داغ لگانا۔

سَطَعَ (س) سَطَعًا: دراز گردن ہونا۔ صفت (أَسَطَعَ) مَوْنَتْ (سَطَعَاءُ) سَطَعًا: بلند کرنا۔ اٹھانا۔ پھیلانا۔ البَجِيْرُ: گردن یا پلو پر لمبا داغ لگانا۔

السَّطَعُ - مہ - ہر وہ چیز جو بلند ہو اور پھیلے عام اس سے کہ غبار ہو یا روشنی یا بجلی۔ السَّطَعُ - تالی - تالی بجانے یا تیر پھینکنے کی آواز۔ السَّطَاعُ: لمبا اونٹ۔ خیرہ یا گھر کا سب سے لمبا ستون۔ اونٹ کی گردن یا پلو میں لمبا داغ۔ ج سَطَعَ وَأَسَطَعَهُ: السَّطِيْعُ - صبح۔ لمبا۔ السَّطِيْعُ - نصح۔ خوش بیان۔ کہا جاتا ہے "عَطِيْبٌ مِّنْطَعٍ وَمَصْقَعٌ" یعنی بلخ لیکچرار۔ الأَسْطَقْسُ - عمر۔ ج سَطَقْسَاتُ: سَطَلَةٌ (ض ن) سَطَلًا: الدَّوَاءُ: مدہوش کرنا۔

السَّطَلُ وَالسَّطَلُ: مدہوش ہونا (لغت عوام ہے) کہا جاتا ہے جَاءَ (يَسْطَلُ) وہ تما آیا اس کے ساتھ کچھ نہ تھا۔ السَّاطِلُ مِنَ الْغُبَارِ: بلند غبار۔ السَّطَلُ: ایک تانے کا برتن جس میں دست لگا ہوا ہوتا ہے جس کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں۔ ج سَطَلًا وَسَطَلًا: سرور از قامت۔ السَّيْطَلُ: بمعنی سَطَلُ اور بقول بعض بمعنی طشت۔

الأَسْطَلُ: جماڑوں کا بیڑا۔ ج سَطَلِيلٌ (کلمہ عجی ہے) سَطَمَةٌ (ن) سَطَمًا: النَّبَابُ: دروازہ بھیڑنا۔ بند کرنا۔

السَّطَامُ: آگ کی کرہلنی۔ شیشی کی ڈاٹ۔ تلوار کی دھار۔ السَّطَمُ - مہ - تلوار کی دھار۔ السَّطَمُ: بڑیں۔ الإِسْطَامُ: آگ ہلانے کی کرہلنی۔ الأَسْطَمُ وَالْأَسْطَمَةُ: مِنْ كَلْبٍ شَيْءٌ: درمیان۔ بڑا حصہ۔ مِنَ الْبَحْرِ: سندر کا بڑا حصہ اور اسی سے ہے "وَلَيْلٌ ظَمًا أَسْطَمُهُ" رات کی تاریکی بہت بڑھ گئی۔ أَسْطَمَةُ الْقَوْمِ: قوم کے جمع ہونے کی جگہ۔ اشراف قوم۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي أَسْطَمَةِ قَوْمِهِ" وہ اپنی قوم کے درمیان میں ہے۔ ج سَطَامٌ: السَّاطِنُ: خمیٹ۔ لمبید۔ الاسطان - ایک پتیل کا برتن۔ الأَسْطُونُ: مِنَ الْجَمَالِ: لمبی گردن کا اونٹ۔ الأَسْطَوَانَةُ: کھمبا۔ ستون۔ جانور کی ٹانگ۔ ج سَطَاطِيْنٌ (کلمہ اجنبی ہے) کہا جاتا ہے "هُمُ اسطاطين الزمان" وہ لوگ زمانہ کے حکما ہیں۔ و "أَسْطَاطِيْنٌ مُسْطَنَةٌ" مضبوط کھمبے۔ المُسْطَنُ: لمبی ٹانگوں والا۔ سَطَايِسْطُو سَطُوْ او سَطُوْةٌ بِهِ وَعَلَيْهِ: کسی پر حملہ کرنا۔ مغلوب کرنا۔ مضبوط پکڑنا۔ الفَرَسُ: خود سری سے دور دور قدم رکھنا۔ المَاءُ: بہت ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَنَا سَطَلَتْ فِي الطَّعَامِ" میں نے کھانے کو نہیں چکھا۔

أَسْطَى اسطَاءً عَلَيْهِ: بمعنی سطا۔ سَطَى: الوَجَلَ: سختی کرتا۔ نرمی کرنا۔ (ضد) السَّاطِي: فا۔ دور دور قدم رکھ کر چلنے والا گھوڑا۔ وہ گھوڑا جو چلنے میں دم کو اٹھائے۔ تَسَعَبُ الشَّيْءِ: تار سا کھینچنا (جیسے شد شيرہ وغیرہ سے) اِنْسَعَبَ: الماءُ پانی ہنا۔ السَّعْبُ: ہر لذت والی چیز جس سے تار کی مانند کھینچے۔ السَّعْبُوبُ: شد۔ شیرہ۔ لعاب عطمی وغیرہ کا تار۔ ج سَعَابِيْبُ: المُسْعَبُ: جائز۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مُسْعَبٌ لَّهُ"

وہ اس کے لیے جائز ہے۔ السَّعْبُوبُ: بہت پانی والا کواں۔ مَاءٌ سَعْبُوبٌ بہت پانی۔ سَعْبُوبٌ سَعْبُوبٌ: ارزاں نرخ۔ ج سَعَابِيْبُ سَعَابِيْبُ الطَّعَامِ: گیہوں کا بچھوڑن۔ السَّعْبُوبُ: ہاڑی پورینہ (لغت جیدہ صَغْفَرٌ بالصَادِ ہے)۔ السَّعْبُوبِيُّ او الصَّغْبُوبِيُّ: ہمار۔ سختی۔ چالاک۔ سَعَدٌ (ف) سَعْدًا وَسَعْدًا: التَّوْمُ: مبارک ہونا۔ سَعَدٌ (س) وَسَعَدٌ سَعَادَةٌ: نیک بخت ہونا۔ صفت (سَعِيدٌ) ج سَعْدَاءُ و (مَسْعُوْدٌ) ج مَسَاعِيْدُ: سَاعِدَةٌ: عَلَى الْأَمْرِ: کسی کی کسی کام پر مدد کرنا۔ أَسْعَدَةُ عَلَى الْأَمْرِ: مدد کرنا۔ أَسْعَدَةُ اللَّهِ: نیک بخت بنانا۔ صفت (مَسْعُوْدٌ) مُسْعَدٌ نَمِيْسٌ کہا جاتا۔ تَسَعَّدَ: مبارک ہونا۔ الزَّاعِمِي: سَعْدَانٌ گھاس کی چراگاہ تلاش کرنا۔ اِسْتَسْعَدَ: بِالشَّيْءِ: اپنے لیے مبارک سمجھنا۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَسْعَدَ فُلَانٌ بِرُؤْيَا فُلَانٍ" فلاں نے فلاں کے دیکھنے کو اپنے لیے مبارک سمجھا۔ السَّعْدُ: برکت۔ خوش بختی۔ ج أَسْعَدُ سَعُوْدٌ: کہا جاتا ہے "لَيْبِكُ وَسَعْدِيْكُ" یعنی میں تمہاری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں۔ سَعُوْدُ النُّجُوْمِ: دس ستارے ہیں جن میں سے ہر ایک کو سَعْدٌ کہا جاتا ہے۔ السَّاعِدُ: فا۔ سرور۔ کہا جاتا ہے "مَالَهُمْ سَاعِدٌ يَغْتَمِدُوْنَهُ" ان کے لیے کوئی سرور نہیں جس پر اعتماد و بھروسہ کریں۔ بازو۔ کہا جاتا ہے "شَدَّ اللَّهُ عَلَى سَاعِدِيْكُ" اللہ تعالیٰ تمہارے بازو کو مضبوط کریں۔ سَاعِدًا القَطِيْرُ: پرندے کے بازو۔ ج سَوَاعِدُ: کہا جاتا ہے ظَايِرٌ شَدِيْدَةُ السَّوَاعِدِ: مضبوط بازو والا پرندہ۔ السَّاعِدَةُ: چرخی کا ڈنڈا۔ ج سَوَاعِدُ

السواعد: دریا یا سندر کی طرف پانی جانے کے
نالے۔ ہڈی میں مغز کی نالی۔ تھن میں دودھ نکلنے
کے سوراخ۔ الساعدة: سونے یا چاندی کا بارو
بند۔ شیر۔
السعادة: نیک بختی۔

السعادي: موصو جو ایک قسم کی خوشبودار
گھاس ہے جو زخموں کے لیے بہت مفید ہے۔
السعدان: ایک خار دار پودہ جو اونٹوں کے
لئے بہتر چارہ ہے اور اسی سے منسلک ہے "مغزغی
ولا کلا السعدان" اس شخص کے حق میں بولتے
ہیں جو کم پر قناعت کرے۔

السعدان: اسعاد کا اسم ہے۔ کہا جاتا ہے
"سُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ" یعنی میں خدا کی پاکی
بیان کرتا ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں۔
السعدانة: کیوڑ۔ پستان کا سر یا پستان کے سر
کی ارد گرد کی سیاہی۔ حلقہ ڈیر۔ ترازو کی رشتی کی
گہرہ۔

السعودۃ: نیک بختی۔
سعاد و سعدي: فرضی محبوبہ کے نام۔ جن کو
تقدیم شعراء تشبیب میں استعمال کرتے تھے۔

سَعَو (ف) سَعَوْا أَسْعَوْا: التَّاز: آگ بھڑکانا
التَّجْوِزُ الْإِبِلُ بِجَزْبِهِ: کھلی پھیلا سحر
القَوْمُ سَعَوْا: ساری قوم میں ہدی پھیلا دینا۔
سَعَوْا نَاهُمْ بِالْتَبِيلِ: جلانا۔ پیوست کرنا۔ سَعَوْ
الْمَيْلُ بِالْمَطِي: طے کرنا۔ سَعَوْتِ النَّاقَةِ فِي
سَبِيحِهَا أَوْ نَشِي كَاتِيْر دَوْرًا: صفت (سَعَوْر) کہا
جاتا ہے "سَعَوْتِ الْيَوْمَ فِي حَاجَتِي سَعَوْةً"
یعنی میں آج اپنی ضرورت سے تمام دن پھر لگاتا
رہا۔

سَعَوْ (س) سَعَوْانَا: الْفَوْشُ: گھوڑے کا تیز
دوڑنا۔

سَعَوْ: التَّجْوِزُ: اونت کا پاگل ہونا۔ صفت
(مَسْعُوْرٌ) الزَّجْلُ: گرم ہوا سے مجلس
جانا۔

سَعَوْ: التَّاز: آگ بھڑکانا الشَّيْ: کسی
چیز کا بھاد مقرر کرنا یا بھاد کا اندازہ کرنا۔
القَوْمُ: بھاد پڑھانا کرنا۔
سَاعَوْهُ مُسَاعَوْةً: بھاد بھرنانا۔

تَسَعَّرَتِ: التَّاز: آگ بھڑکانا
الحَقْلَبُ: لکڑی کا بصل اٹھنا۔

إِسْتَعْو: بھڑکانا الشَّوْرُ: بڑائی کا پھیلا
العَجْوَبُ فِي التَّجْوِزِ: اونت کی بصل وغیرہ
میں کھلی شروع ہوتا۔

السفر: مع - زَمْنِي سَعَوْ: سخت تکلیف دہ تیر
اندازی۔

السفر: نرغ - جِ اسْعَار: -
السفر: گرمی - سخت بھوک (السفر والسفر)
دیوانگی - السفر: رنج و خراب۔

السفر: پاگل - دیوانہ - جِ سَعَوْ: -
السفر: کام کی ابتداء اور اس کی تیزی۔
کھانسی۔

السفر والسفر: سیاہی مائل رنگ۔
السفر: آگ کی لپیٹ - جِ سَعَوْ: -

السفر: گرمی - بھوک کی تیزی - پیاس کی
شدت۔

السعور: آگ - تور۔
السعور: آگ۔

الأسعور: دہلا پڑنا جس کے پٹھے ظاہر ہوں۔ سیاہی
مائل رنگ والا۔ مؤنث سَعَوْ: جِ سَعَوْ: -

المسعر: آگ جلانے والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
مِسْعَرٌ حَوْبٌ" وہ لڑائی بھڑکانے والا ہے۔ سخت۔

بھی گردن - كَلْبٌ مِسْعَرٌ: دیوانہ کتا (س) و
المسعران آگ جلانے کی چیز۔

المسعر: باوجود غم سیری کے کھانے کا
حریص - نَاقَةٌ مِسْعُوْرَةٌ: دیوانہ اونٹنی۔

مَسَاعِيْرُ: التَّجْوِزِ: اونت کی ران کی جڑیں اور
بصل - کہا جاتا ہے "أَخَذَ الْعَجْوَبُ فِي مَسَاعِيْرِ
التَّجْوِزِ" اونت کی ران کی جڑوں میں کھلی شروع
ہو گئی۔

السفرارة والسفرورة: صج - شعاع - آفتاب
جو روشن دان میں داخل ہو۔

سَعَسَعَسَ وَتَسَعَسَعَسَ: بہت بوڑھا ہونا۔
السفيع: بوسا پے کی وجہ سے لڑکھڑاتا۔

قريب قريب قدم رکھنا۔ سَعَسَعَسَ زَانِسَ: سرکو
تیل سے تر کرنا۔

السفيع: بھیرنا۔

سَعَطَه (ف) سَعَطَا وَسَعَطَه وَاسَعَطَه:
الذَّوَاءُ: ناک میں ڈالنا۔ کہا جاتا ہے "أَسَعَطَه
الزُّمْعُ" اس نے ناک میں نیزہ مارا۔ و "أَسَعَطَه
عِلْمًا" اس نے اس کو علم سمجھانے میں بہت
کوشش کی۔

إِسْتَعَطَ: الذَّوَاءُ: ناک میں چڑھانا۔
إِسْتَسَعَطَه: ناک میں دوا چڑھانے کو کہنا۔

السعيط: خوشبو۔ بان کا درخت۔ بان کا تیل۔
رائی کا تیل (س) والسعاط: بوی کی تیزی۔

السعوط: ناک میں چڑھانے کی دوا۔ نوار
(مولدہ) اور عوام "عظوم" کہتے ہیں۔

المسعطو المَسْطَفُ: نوار کی ذیبا۔
سَعَفَةٌ (ف) سَعَفًا بِحَاجَتِهِ: کسی کی حاجت
پوری کرنا۔

سَعَف (س) سَعَفًا: ناخن کے ارد گرد پھٹی
ہوئی انگلیوں والا ہونا۔

سَعَفَ: الوَجْهُ: پھنسیوں والا ہونا۔ صفت
(مَسْعُوْفٌ)

سَعَفَ: الْمَسْكُ: مشک کو دوسری خوشبوؤں
سے ملانا۔

سَاعَفَه: موافقت کرنا۔ مدد دینا۔
أَسَعَفَهُ بِحَاجَتِهِ: کسی کی حاجت پوری کرنا۔

ه عَلَى الْأَمْرِ: مدد کرنا۔ أَسَعَفَ بِالزَّجْلِ:
کسی کے قریب ہونا الشَّيْ: قریب ہونا۔

أَسَعَفَ لَهُ الصَّيْدَ: شکار کا موقع دینا۔
أَسَعَفَتِ الْحَاجَةَ: حاجت کا قریب پہنچنا۔ وقت

آنا السَّيْبِ: توجہ کرنا۔ قصر کرنا۔
تَسَعَفَتِ: أظْفَاذَه: پھٹنا۔

السعف: مع - سامان - کینہ آدمی۔
السعفة: پھنسیوں جو منہ یا سر میں نکلتی ہیں۔

السعف: مع - دلہن کا جیڑ۔ سامان خانہ۔ ج
سَعُوْفٌ: کھلی کی مانند اونت کے منہ کا ایک
مرض۔ کھجور کی شاخ (واحد سَعَفَةٌ)

السعوف: بڑے پالے۔ انسانی خصلتیں۔
مثل جود و گرم۔ گھریلو سامان (اس کے لیے واحد
نہیں)

الأسعف: مِنَ الْإِبِلِ: منہ کی بیماری والا
اونت (س) مِنَ الْغَنِيِّ: سفید پیشانی والا

فِصَالٌ (سَاعِدَةٌ وَمُسَاعِدَةٌ) اونت کے دو حصے سے آسودہ ہوئے ہیں۔

السفد - نرم و ہلکی بارش (اس کا تمام استعمال نہیں ہوتا) کہا جاتا ہے "أَعْطَاهُ اللَّهُ بِسَعْدٍ مُنْفِيًا" یعنی اللہ تعالیٰ اس کو نرم بارش سے ترو تازہ رکھے۔

السفدائی - ایک قسم کی گھاس۔

سَعْدَةٌ (ف) سفد - جلا وطن کرنا۔

سَفَسَغَ: الوَدَّ: کوٹھنی کو ہلانا _____ فی الثَّرَابِ: مٹی میں دھنسا _____ زَانَةً بِالذَّهْنِ: سر میں تیل لگا کر چرب کرنا۔
الذَّهْنُ فِي رَأْسِهِ: سر میں تیل لگانا۔

تَسَفَسَغَ: مِنَ الْاَفْرِ: کسی معاملہ سے رہائی پانا _____ فِي الْاَضْحَى: داغ لگنا۔

سَهْلٌ (س) سَفْلًا: لاغر ہونا۔ جمروں والا ہونا۔ صفت (سَهْلٌ)

سَفَمَةُ: المَاءُ: گھونٹ گھونٹ پانی پلانا۔ سَفَمَ الْوَلَدَ: بچہ کو اچھی غذا دینا۔ پرورش کرنا۔

أَسْفَمَهُ: تکلیف پہنچانے میں مبالغہ کرنا۔

أَسْفَمَهُمْ وَاسْفَمَ: اچھی غذا دیا جانا۔

الْمُسْفَمُ وَالْمُسْفَمُ: اچھی غذا والا۔ تازہ نعمت سے پرورش پایا ہوا فریہ لڑکا۔

الْأَسْفَانُ: روٹی نڈائیں۔

السَّاعِيَةُ: پینے کی لذیذ چیز۔

سَفٌّ (ن) سَفِيْقًا: الطَّائِرُ أَوْ السَّحَابُ: زمین سے قریب ہو کر اڑنا یا گزرتا۔

الْحَوْضُ: گھوڑ کی پیوں سے بنا _____ المَاءُ: بہت پانی پونا اور سیراب نہ ہونا۔

سَفٌّ (س) سَفَا: الدَّوَاءُ السَّوِيْقُ وَ تَحْوُهُمَا: دوا یا ستونو وغیرہ پھانکنا۔

اسْفَ اسْفَافًا _____ الْحَوْضُ: بنا الرَّجُلُ: بھانکنا۔ اونٹی کاموں کے پیچھے پڑنا۔ اور کہا جاتا ہے "اسْفَ إِلَى الْأُمُورِ الدِّيْنِيَّةِ" یعنی وہ اونٹی کاموں کے قریب ہوا _____ البَجِيْزُ: خشک چارو

رینا _____ الْقَرَسُ اللَّجْجَامُ: گھوڑے کے منہ میں لگام لگانا _____ الطَّائِرُ أَوْ السَّحَابُ: زمین سے قریب ہو کر اڑنا یا گزرتا۔ کہا جاتا ہے

"مَا اسْفَ مِنْهُ بِشَيْءٍ" اس نے اس سے کچھ

الانشاء - رات کے تھے۔

السَّعْوَةُ: نوم۔

السَّعْوِيُّ: بیداری اور ستر ستر مہر کرنے والا۔

سَعَى يَسْعَى سَعْيًا: عمل کرنا۔ چلنا۔ دوڑنا

إِلَيْهِ: قصد کرنا _____ فِي حَاجَةِ الرَّجُلِ: کسی کی حاجت پوری کرنے کی کوشش

کرنا۔

لِلْاَفْرِ: حاصل کرنے کے لیے اہتمام کرنا۔

لِجَنَابِهِ: کمالی کرنا (سبغایۃ) صدقات وغیرہ

وصول کرنا) _____ سَبْغًا وَمَسْبُغًا: بَقْلَانِ عِنْدَ

الْاَمِيرِ: چغل خوری کرنا۔ سَعَتِ الْاُمَّةِ: بدکاری

کرنا۔ زنا کرنا۔

سَاعَى: کوشش کرنے میں مقابلہ کرنا۔ کہا

جاتا ہے "سَاعَيْنِ فُلَانٌ فَسَعَيْتُهُ" فلاں نے

کوشش کرنے میں مقابلہ کیا میں اس پر غالب رہا۔

أَسْعَى اِنْشَاءً: الرَّجُلُ: کوشش کرنا۔

أَسْفَوَاهُ: تلاش کرنا۔

اِسْتَسْعَى اِسْتِنشَاءً: الرَّجُلُ: وصول

صدقات کے لیے مقرر کرنا _____ الْقَبْضُ:

آزادی حاصل کرنے کے لیے کام کرنا۔

السَّبْغِيَّةُ: مص - چغل خوری۔

السَّاعِي: فا - محصل۔ خراج و صدقات

وصول کرنے والا۔ ج سَعَاةُ السَّاعِي: ڈاکیر۔

الْمَسْفِيُّ: کوشش۔ مسلک۔ تصرف۔ ج مَسَاعٍ۔

مَسْعَبٌ (ن) وَمَسْعَبٌ (س) سَفْبًا وَسَفْبًا وَ

سَفْبًا وَسَفْبًا وَ مَسْفَبَةً: بھوکا ہونا۔ صفت

(سَاعِبٌ وَسَعِبٌ وَسَفْبَانٌ) مَوْتٌ سَفْبِيٌّ ج

سَفَابٌ۔

أَسْفَبَ الْقَوْمُ: قوم کا قحط میں مبتلا ہونا۔

السَّفَابُ: بھوک۔

الْمُسْفَبُ: جائز۔

سَفْبَلٌ سَفْبَلَةٌ: بہت زعموں والا ہونا۔

الرَّاسُ: سر کو تیل سے تر کرنا۔

السَّخْمُ: چربی پگھلا کر سائل بنانا۔

تَسْفَيْلُ الذَّرْعِ: زرہ پہننا۔

الْمُسْفَيْلُ: نرم و آسان۔

سَعْدٌ سَعْدًا: سوچنا۔

گھوڑا۔ مَوْتٌ سَعْفَاءٌ: ج سَعْفٌ۔

السَّعْفُ: ناخن کے ارد گرد چٹا کھڑا۔

السَّعْفُ: فا - قریب۔ کہا جاتا ہے "مکان

مُسَاعِفٌ" قریب جگہ۔

سَعَلٌ (ن) سَعْلًا وَ سَعْلَةً: کھانسا) _____

سَعْلًا: کام وغیرہ کے لیے چست ہونا۔

أَسْعَلَهُ: چست بنانا۔ کھانسی پیدا کرنا۔

اِسْتَسْعَلَتِ الْمَرْأَةُ: بھتی جیسی ہونا۔

السَّعَالُ: کھانسی۔ قَصَبُ السَّعَالِ:

پھپھڑے کی رگیں۔

السَّعْلَاءُ وَ السَّعْلَاءَةُ وَ السَّعْلِيَّةُ: بھتی یا

بھوت۔ ج سَعْلًا وَ سَعْلِيَّاتٍ۔

السَّعْلِيُّ: پودہ جو حشیشۃ السَّعَالِ

کے نام سے بھی مشہور ہے۔

السَّاعِلُ وَ الْمَسْعَلُ: طلق یا طلق میں کھانسنے

کی جگہ۔

سَعَمٌ (ف) سَعْمًا: البَجِيْزُ: اونت کا تیز چلنا۔

صفت (سَعْمٌ)

سَعَمَةٌ وَ سَعْمَةٌ: غذا دینا۔

سِيلٌ (مَسْعَامٌ وَ مَسْعَامٌ) تیز سیلاب۔

أَسْعَنُ: بڑا خیر یا سائبان بنانا۔

تَسَعَنَ: الجَمَلُ: خوب موٹا ہونا۔

السَّعْنُ: چربی۔ خالص شراب۔

السَّعْنُ: ملک جس کا نصف حصہ کاٹ کر ڈول

پالیں۔ ج سَعْنَةٌ۔

السَّعْنَةُ: مارک۔ محوس (ضد) کھانے کی

کثرت یا قلت۔ کہا جاتا ہے "مَالُهُ سَعْنَةٌ وَلَا

فَعْنَةٌ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔

السَّعْنَةُ: سائبان۔ اونت کے بالائی ہونٹ کا لٹکا

ہوا حصہ۔ ج سَعْنٌ۔

الْمُسْعِنُ: بڑا ڈول۔

السَّعَانِيْنَ: عیسائیوں کا توراہ جو عیدِ فتح سے

پہلے ہوتا ہے۔ مشہور السَّعَانِيْنَ معجمہ سے

ہے۔ (مغرب)

السَّعْوُ وَ السَّعْوُ وَ السَّعْوَةُ وَ السَّعْوَةُ

وَ السَّعْوَاءُ وَ السَّعْوَاءُ: رات کا ایک حصہ

السَّعْوَاءُ وَ السَّعْوَاءُ: بد زبان خلع کرنے والی

عورت۔

حاصل نہیں کیا۔ اَسْفَ النَّظَرُ: تیز نظر سے دیکھنا
 الشَّيْءُ: بعض کو بعض سے ملا کر جوڑنا
 الأَفْرُ: قریب ہونا۔ اُيَسَّفُ وَجْهَهُ:
 رنگ بدل جانا گویا کہ خاک آلود ہے۔
 اِسْتَفَّ الذُّوَاءُ: دوا پھانکنا۔
 السِّفُّ والسُّفُّ: ایک قسم کا باریک لہبا
 سانپ جو ریکتاوں اور چٹانوں کے درمیان
 اچھلتا ہے جس کی وجہ سے عربوں کا گمان تھا کہ وہ
 اُڑتا ہے اور اس کے نام القَفَّازَةُ وَالظَّفَّازَةُ بھی
 ہیں۔
 السَّفَّةُ: کھجور کے پتوں کی ٹوکری۔ ایک مٹھی
 گیوں یا ستو وغیرہ۔ مویاف ()
 وَالسَّفُوفُ: دوا اور نیرہ کی پتلی۔
 السَّفِينُف: مہ۔ انیس کا نام۔ کھجور کے پتوں کی
 ٹوکری۔ کجاوہ اور ہودہ کا تنگ۔
 السَّفِينْفَه: کجاوہ بانڈنے کی چوڑی تنگ
 مِّنَ الخُوصِ: کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی
 چیز۔ ج سَفَائِفُ
 صَفِيَتْ (س) سَفِيْنَا: بہت پینا اور سیراب نہ
 ہونا۔
 السَّفِيَتْ: بے رکت کمانا۔
 سَفْتَجَةٌ: بھڑی دینا۔
 السَّفْتَجَةُ: بھڑی۔ ج سَفَاتِجُ
 السَّفَجُ: ہوا چلنے کی تیزی۔ السَّفَجُ: جموت۔
 السَّفَجُورُ: چنے۔ اس کے لیے واحد نہیں۔ کہا
 جاتا ہے "ذُرٌّ سَفَجُورٌ"
 سَفَجُ (ف) سَفَجَا وَ سَفُوحَا: الدَّمُ او
 الدَّمْعُ: خون یا آنسو بہانا۔ گرانہا () سَفَجَا
 وَ سَفُوحَا وَ سَفْحَانَا: الدَّمْعُ: آنسو گرانہ
 صفت (سالف) ج سَوَالِجُ (جیسے فاریس کی جمع
 فَوَارِسُ)
 سَفْحُ: الزَّجْلُ: غیر مفید کام کرنا۔
 سَافِحًا وَ سَافِحًا: زنا کرنا۔ بد کاری کرنا۔
 سَفْحُ الجَبَلِ: دامن کوہ۔ ج سَفُوحُ
 الأَسْفَحُ: وہ شخص جس کے سر کے اگلے حصہ
 کے بال گر گئے ہوں۔
 السَّفَاحُ: بہت خون بہانے والا۔ بہت دینے
 والا۔ قاور الکلام فصیح۔

السَّفِينُح: موٹا کھیل۔ جوئے کے تیروں میں سے
 ایک تیر جس کا کوئی حصہ نہیں۔ پورا۔ گون۔
 السَّفَاح: مہ۔ کہا جاتا ہے "يُنْتَهَمُ سَفَاحًا" ان
 کے درمیان خوریزی ہے۔ زنا کاری۔ کہا جاتا ہے
 "تَزْوُجُ المَرْأَةُ سَفَاحًا" اس نے عورت سے زنا
 کاری کی۔
 سَفَدٌ (ض) الذِّكْرُ اُنْثَاهُ وَ سَفِدٌ (س) سَفَادَا
 سَفِدٌ عَلَيَّهَا وَ سَافَدَهَا سَفَادًا وَ مَسَافَدَةٌ: جفتی
 کرنا۔
 سَفْدٌ: اللُّحْمُ: گوشت کو بھوننے کے لیے بیخ
 میں پرونا۔
 اِسْفَدٌ: جفتی کرنا۔
 اِسْتَسْفَدُ: التَّبَعِيْرُ: اونٹ کے پیچھے سے آکر
 سوار ہونا۔
 السَّفُوْدُ: گوشت بھوننے کی بیخ۔ ج سَفَائِيْدُ
 اِسْفِيْدَا ج: سفیدہ۔ قلعی۔
 سَفْرٌ (ن) سَفُورًا: سفر کے لیے روانہ ہونا
 المَرْأَةُ: چہرہ کھولنا۔ صفت (مُساوِرُ)
 الصُّبْحُ: روشن ہونا () الحَزْبُ:
 لڑائی کا ٹیم ہونا () سَفْرًا: البَيْتُ: گھر کو
 جھاڑ دینا () الرَبِيْحُ العَيْنِيْمُ: ہوا کا بادل کو اُڑا
 دینا۔
 الكِتَابُ: لکھنا () الشَّيْءُ: جدا جدا
 کرنا۔
 التَّبَعِيْرُ: ناک میں کھیل لگانا۔ کھیت کے پھل
 حصہ کو چرانا۔
 سَفْرٌ (ن ض) سَفْرًا وَ سَفَارَةً وَ سَفَارَةً بَيْنَ
 القَوْمِ: لوگوں میں صلح کرنا۔ صفت (سَفِيْرُ) ج
 سَفْرَاءُ۔
 اَسْفَرٌ: چہرہ کھولنا () الصُّبْحُ: روشن ہونا۔
 الوَجْهُ: چہرہ خوبصورت و منور ہونا۔
 الحَزْبُ: لڑائی سخت ہونا () مَقْدَمٌ رَايِبُهُ:
 سر کے اگلے حصہ کے بال جھڑنا () اَسْفَرُ
 الشَّجَرُ: بچے کرنا () التَّبَعِيْرُ: جمنی سَفْرَةٌ۔
 سَفْرٌ: الزَّجْلُ: سفر کے لیے بھیجا۔
 التَّبَعِيْرُ: کھیل لگانا () النَّازُ: آگ بھڑکانا۔
 سَافَرٌ سَفَارًا وَ مَسَافَرَةٌ: اِلَى بَلَدٍ كَذَا: روانہ
 ہونا () فَلَانٌ: مرنا۔ سَافَرْتُ عَنْهُ الحُمِيْمُ:

بخارجھوٹا۔
 تَسْفَرُ: ابتدائی رات میں آنا چرانا۔
 شَيْخًا مِنْ حَاجَتِهِ: کچھ حاصل کرنا
 العَجَلُ: کھال کا اثر پذیر ہونا () المَرْأَةُ:
 عورت سے چہرہ کھولنے کو کہنا۔
 اِسْفَرُ: سَفْرَةٌ عَنْ رَايِبِهِ: سر سے بال جھڑنا۔
 العَيْنِمُ: بالوں کا پرانہ ہونا۔
 الإِبِلُ: جانا۔
 اِسْتَسْفَرُ: المَرْأَةُ: عورت سے چہرہ کھولنے کو
 کہنا۔
 السَّفْرُ: مہ۔ جسم انسانی کا داغ۔ ج سَفُورٌ اور
 کہا جاتا ہے "رَجُلٌ سَفْرٌ" یعنی مَسَافِرُو "قَوْمٌ
 سَفْرٌ" یعنی مسافرین۔ و "نَاقَةٌ سَفْرٌ" سز کرنے
 والی اونٹنی۔ اور سز جمع سافر کی ہے جیسے صاحب
 کی جمع صَحْبُ۔
 السَّفْرُ: بڑی کتاب۔ توریت کے ۱۲۱ء میں
 سے ایک جز۔ ج اَسْفَارُ۔
 السَّفْرُ: مسافت کو طے کرنا۔ غروب آفتاب کے
 کچھ بعد کا وقت۔ ج اَسْفَارُ۔
 السَّفْرَةُ: مسافر کا کمانا۔ زاد سفر۔ دسترخوان۔ ج
 سَفْرُ
 السَّفَارُ وَ السَّفَارَةُ: مہار۔ چڑا یا لوبا جس کو
 اونٹ کی ناک پر رکھتے ہیں۔ ج اَسْفِرَةٌ وَ سَفْرُو
 سَفَارِيْنُ۔
 السَّالِفُو: فا۔ مسافر۔ ج اَسْفَارٌ وَ سَفْرٌ وَ سَفْرَةٌ
 وَ سَفَارٌ وَ ج اَسَافِرُ: وَ السَّافِرُ: کاتب۔ ج
 سَفْرَةٌ۔
 السَّافِرَةُ: السَّافِرُ: الشَّافِرُ: ج سَوَافِرُ۔
 مسافرین۔ کہا جاتا ہے "كَتَبْتُ السَّافِرَةَ هُنَا"
 یہاں سز کرنے والے بہت ہیں اور کہا جاتا ہے
 "قَوْمٌ سَافِرَةٌ" سز کرنے والی قوم۔
 السَّفِيْرُ: دو قوموں کے درمیان صلح کرانے
 والا۔ ج سَفْرَاءُ۔ اِسْفِيْرِي: مگرے ہونے کے لیے یا پتے۔
 کھیتی کا پھل حصہ۔
 السَّفِيْرَةُ: چاندی یا سونے کا ہار۔ ج سَفَاتِرُ۔
 السَّفَارَةُ وَ السَّفَارَةُ: اِسْفِيْرِي: قوموں کے
 درمیان اصلاح۔
 السَّفَارَةُ: السَّفَارَةُ: جھاڑو دینے سے جمع کیا ہوا کوڑا

السَّفْعُ: آئنی دیک دان۔
 سَفْعُ-السَّفْسُ: آفتاب کا سیاہ داغ۔ سَفْعُ
 الْفُؤْر: بتل کے چہرہ کی سیاہ جیاں۔
 السَّوْفَاعُ: لوہی لیشیں۔ مفرور (سافعة)
 الأَسْفَعُ: سرخی مائل سیاہ رنگ والا۔ مؤنث
 سَفْعَاءُ ج سَفْعُ: شکر۔ جنگلی بتل۔ السَّفْعَاءُ:
 دیک دان کا ایک پایہ۔ حَصَامَةُ سَفْعَاءُ: سبز
 گردن والا کبوتر۔
 مَسْفُوعٌ-العَيْنُ: دھنسی ہوئی آنکھ والا۔ فُؤْرٌ
 (مَسْفُوعٌ) چہرہ میں سیاہ جتیں والا بتل۔ كَسِيئٌ
 مَسْفُوعٌ: آہن پوش ہمار جو لوہے کے رنگ سے
 کالا ہو گیا ہو۔
 سَفْعَةٌ (ن) سَفْعًا: طمانچہ مارنا۔ سَفْعُ النَّبَابِ:
 دروازہ بھینرنا۔
 أَسْفَعُ النَّبَابِ: دروازہ بند کرنا۔
 الْحَائِكُ الْفُؤْبُ: جلابے کا پڑے کو گف بنا۔
 سَفْعٌ (ك) سَفْعًا: الثَّوْبُ: پکڑے کا گف
 ہوتا۔
 اِنْسَفَعُ النَّبَابُ: دروازہ کا بھینر جانا۔
 السَّفْعَةُ: طمانچہ۔ تھپڑ۔
 الْمَسْفُوعُ: گف پکڑا۔ زَجَلٌ سَفِيحٌ الْوُجْهُ:
 بے حیا مرد۔
 السَّفِيحَةُ: سونے وغیرہ کا باریک تار۔ لکڑی کا
 چوڑا سا ٹکڑا جس پر چٹائی وغیرہ بیٹھی جاتی ہے۔
 سَفَكٌ (ض) سَفَكًا: الحَاةُ او الدَّمُ: پانی یا
 خون بہانا۔ الكَلَامُ: بہت بولنا۔
 سَفَكَةٌ: کسی کے سامنے شفکہ پیش کرنا۔
 (دیکھئے شفکہ)
 اِنْسَفَكَ: گرتا۔ بہتا۔
 السَّفُوكُ والسَّفَاكُ: بہت خون گرانے والا۔
 اور کہا جاتا ہے "مَسْفُوكٌ او سَفَاكٌ بِالْكَلَامِ"
 وہ بڑا جھوٹا ہے۔
 السَّفِيكُ: گریا ہوا۔ بھایا ہوا۔
 زَجَلٌ (مَسْفُوكٌ) بڑا باتونی مرد۔
 الشَّفَاكَةُ: وہ چیز جو مسلمان کے سامنے خدا سے
 پہلے دل ہلاؤ اور وقت گزاری کے لیے پیش کی
 جائے۔
 سَفَلٌ (ن) وسَفِلٌ (س) وسَفَلٌ (ك)

سَفْسُقٌ-الظَّائِرُ: پرندہ کابیت کرنا۔
 السَّفْسُقَةُ والسَّفْسُقَةُ: مِنَ السَّيْفِ: گھوار
 کا جو ہرج سَفْسُقِ: کہا جاتا ہے "ظَرْفِيٌّ وَاصِحُّ
 السَّفْسُقِ" واضح نشانات کا راستہ۔
 السَّفْسُقِيُّ: ہر لمبی چیز۔
 السَّفْسُوقَةُ: راستہ کا درمیان۔ مشابہت۔ کہا
 جاتا ہے "فِيهِ سَفْسُوقَةٌ مِنْ أَبِيهِ" اس میں اس
 کے باپ کی مشابہت ہے۔ و "سَفْسُوقَةٌ
 السَّيْفِ": گھوار کا جو ہر۔
 سَفْطٌ (ن) سَفْطًا-السَّحْكَةُ: مچھلی کے منٹے
 آتا رہتا۔
 سَفْطٌ (ن) سَفْطًا: سخی دیا کیزہ نفس ہوتا۔
 سَفْطٌ-الْحَوْضُ: حوض کو درست کرنا اور بلند
 بنانا۔
 تَسَفْطُهُ: تھوڑا تھوڑا پیانا۔ جذب کرنا۔
 اِسْتَفْطَ الشَّيْءُ: کل لے لینا۔ کل لی جانا۔
 السَّفْطُ: مچھلی کا سفٹا۔ نوکری۔ جامہ دان۔ ج
 اَسْفَاطُ۔
 السَّفَاطُ: نوکری بنانے والا۔
 سَفَاطَةُ النَّبِيِّ: سالمان خانہ۔
 السَّفِيْطُ: پاکیزہ نفس۔ سخی۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 سَفِيْطُ النَّفْسِ" وہ سخی دیا کیزہ نفس ہے۔ کینہ اور
 ہر بے قدر چیز (ضد) درخت سے گری ہوئی سبز
 کھجور۔
 مُسْفَطٌ-الزَّاسُ: بڑے سرو والا۔
 سَفْعَةٌ (ف) سَفْعًا: طمانچہ مارنا۔ الشَّيْءُ: نشان
 لگانا۔ بِنَاصِيئِهِ: پیشانی کے بال پکڑ کر بھینچنا
 و سَفَعْتِ: السَّمُومُ وَجْهَهُ لَوْ كَا چہرہ کو
 جھلس کر رنگ بدل دینا۔
 سَفْعٌ (س) سَفْعًا: سرخی مائل سیاہ ہونا۔
 سَفَعَةٌ: ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا۔ سینہ سے
 لگانا۔ ایک دوسرے کو ہٹانا۔ لڑائی کرنا۔
 تَسَفَعٌ: بالتَّارِ: آگ تاپنا۔
 اِسْتَفَعُ الرَّجُلُ: پکڑا پھینا۔
 اِسْتَفَعُ لَوْثُهُ: خوف وغیرہ سے رنگ بدل جانا۔
 السَّفْعُ: مہ۔ کپڑا۔ رنگا ہوا کپڑا۔ ج سَفْعُ ع۔
 السَّفْعُ والسَّفْعَةُ: سرخی مائل سیاہی۔
 السَّفْعُ والسَّفْعَةُ: دانہ اندرائن۔

کرکٹ۔
 السَّفَاةُ: مسافر لوگ۔
 السَّفَاةُ: کرہ کی شکل کی ایک مچھلی جس میں
 کاتے بہت ہوتے ہیں اور اس کو "فَتَقْدُ الْمَاءِ"
 بھی کہتے ہیں۔
 السَّفَاةُ: تختی کہ جس پر حساب لکھیں اور
 نقل کرنے کے بعد مٹادیں۔
 الْمُسَافِرُ: جنگلی بتل۔ الْمُسَافِرَةُ: گائے۔
 الْمُسْفَرُ وَالْمُسْفَارُ: بہت سفر کرنے والا۔
 مؤنث مِسْفَرَةٌ۔
 الْمُسْفُورُ: سفر سے تھکا ہوا۔
 الْمُسْفُورَةُ: جھاڑو۔ ج مسافر و مسافر
 الْوُجْهُ: چہرہ کے وہ حصے جو نمایاں ہوتے ہیں۔ کہا
 جاتا ہے "مَا أَحْسَنَ مَسْفُورَ وَجْهِهِ وَمَسَافِرُ
 وَجْهِهِمْ" ان کے چہرہ کا نمایاں حصہ کس قدر
 خوبصورت ہے۔
 السَّفْرَجَلُ: بی۔ ج سَفَاعُ ج اور کبھی
 سفارلی بھی کہا جاتا ہے۔ واحد (سَفْرَجَلَةٌ)۔
 السَّفْسِيرُ: دلال۔ خادم۔ تنظیم۔ ظریف و
 زیرک۔ ماہر لوہار۔ داروغہ۔ ج سَفَايِسُ و
 سَفَايِسِيرُ۔
 السَّفْسِظَةُ والسَّفْسِظَةُ: استدلال و قیاس
 جس کی بنیاد مغالطہ پر ہو۔ ج سَفْسِظَاتُ اور
 نسبت کے لیے (سَفْسِظِيٌّ وَسُوفْسِظَانِيٌّ)
 السُّوفْسِظَانِيَّةُ: ایک فرقہ جو محسوسات و
 بدیہیات کا انکار کرتا ہے۔
 سَفْسَفٌ-الدَّقِيْقُ: آٹا چھانٹا۔
 الْعَمَلُ: کام کو اچھی طرح سے نہ کرنا۔ سَفْسَفَتُهُ
 التَّزْيِيعُ ج زَمِنٌ سے آتا۔
 السَّفْسَافُ: ناکارہ و ردی چیز۔ کہا جاتا ہے
 "فَلَا تَنْ سَفْسَافَ الْكَلَامِ" فلاں لغو کو ہے۔ امر
 حقیر۔ مِنَ الدَّقِيْقِ: اُلے کا وہ باریک حصہ
 جو غبار کی طرح اُڑے۔ مِنَ التَّرَابِ:
 باریک مٹی۔ مِنَ الشَّيْءِ: ردی و ناقص
 شعر۔
 الْمُسْفِسِفَةُ: ہوا جو غبار کو اُڑائے۔
 الْمُسْفِسِفُ: مرد کم عطا و لئیم۔
 جُوعٌ سَفَايِسُ تَحْتِ بَحْوِكُ۔

السُّفُونُ: شاخوں کو جھاڑنا۔۔۔ فَلَانًا عَنِ مَالِهِ: فریب دینا۔
تَسَافَةً عَلَيْنَا: نادانی کرنا۔ جمالت کا سلوک کرنا۔
السَّفَه: مہ۔ جمالت۔ عدم و بردباری۔ بد اخلاقی۔
السَّافِه: نا۔ بیوقوف۔ بہت پیاسا۔
وَادٍ مُسْفَهٍ: بھری ہوئی وادی۔
المُسْفَهَةُ: بہت پانی پلانے والی خوراک۔ کہا جاتا ہے ”طَعَامٌ مُسْفَهَةٌ“
سَفَايَسْفُو سَفُوًا: تیز چلنا یا تیز اڑنا۔
سَفِي (س) سَفَاو سَفَاءٌ: پیشانی میں کم بال والا ہونا۔۔۔ الزُّجُلُ: بیوقوف ہونا۔ صفت (سَفِي) سَفِيْتُ بَدُوًا: ہاتھ کا پھینا۔
أَسْفَى: بیوقوف ہونا۔۔۔ فَلَانًا: طیش پر آمادہ کرنا۔۔۔ یہ: بڑا لڑکھا کرنا۔ أَسْفَتِ الثَّاقِفَةُ: دلی ہونا۔ أَسْفَى الزُّرْبُ: خوشہ کے خشک اطراف والی ہونا۔۔۔ الرِّيحُ: ہوا کا چلنا۔
سَافَى: الزُّجُلُ: گالی دینا۔ علاج کرنا۔
السَّفَا: پیشانی میں بالوں کی کمی۔ مٹی۔ ڈبلا پن۔ ہر خاردار درخت۔ واحد (سَفَاءٌ) و السَّفَايِنُ السَّنْبِلُ: خوشہ کا خار۔ السَّفَاءُ: روا۔
بَعْلٌ (أَسْفَى) پیشانی میں کم بال والا بچہ۔ تیز رفتار۔ مؤنث سَفَوَاءٌ۔ و رِيحٌ سَفَوَاءٌ: غیر ہموار تیز چلنے والی ہوا۔
سَفَى يَسْفِي سَفِيًا و أَسْفَى إِسْفَاءً: سَفَتْ و أَسْفَتِ الرِّيحُ الثَّرَابَ: خاک اڑانا۔ صفت (سَافِيَةٌ) ج سَافِيَاتٍ و سَوَافٍ۔
سَفَى يَسْفِي سَفِيًا: الثَّرَابَ: غبار اڑانا۔
السَّافِيَاءُ: غبار۔
السَّفَى: ہوا جس کو اڑائے۔
السَّفَى: پر آگندہ غبار۔
الْأَسْفَى: مِنَ الْخَيْلِ: پیشانی میں کم بال والا گھوڑا۔ مؤنث سَفِيَاءٌ ج سَفَى۔
السَّفَى: جعل خور۔
سَقَبْتُ (س) سَقَبًا و سَقُونًا: الدَّارُ: قریب ہونا۔

السَّافِينُ: باطن۔ پشت کی ایک لمبی رگ کا نام جو دل کی رگوں کی ساتھ متصل ہے۔
السَّفِينَةُ: کشتی۔ ج سَفُونٌ و سَفِينٌ سَفَايِنٌ و (السَّفَانُ) کشتی ساز و (السَّفَانَةُ) کشتی سازی۔
سَفَايِنُ النَّيْرِ: ادوت۔
السَّفَانَةُ: موٹی۔
المِسْفَنُ: چوب تراشی کا اوزار۔
سَفْتَجٌ: جلدی کرنا۔۔۔ يَفْلَانُ التَّقَدُّ: جلدی دینا۔
السَّفْنَجُ و السَّفْنَجُ و السَّفْنَجُ: اسی طرح مردہ بال۔
السَّفْنَجُ: تیز۔ لمبا۔ مؤنث سَفْنَجَةٌ۔
الإِسْفَانَاخُ: پاک کاساگ۔
الإِسْفِنَطُ و الإِسْفِنَطُ: خوشبودار انگوڑی شراب۔ (دخیل)
سَفَه (ن) سَفَهًا: الزُّجُلُ: گالی دینے میں غالب آنا۔ بیوقوفی پر برا گینے کرنا۔۔۔ یا بیوقوفی کی طرف نسبت کرنا۔۔۔ نَفْسُهُ: ذلیل کرنا۔ اپنے آپ کو ہلکا سمجھنا۔ سَفَهٌ نَصَبِيهِ: اپنا حصہ بھوانا۔
سَفَه (س) سَفَهًا: غیر۔ بردبار یا جاہل یا رومی اخلاق والا ہونا۔ صفت (سَفِيهِ) ج سَفَاهٌ و سَفَهَاءٌ۔ مؤنث سَفِيهِةٌ ج سَفَاهَةٌ و سَفَهَةٌ و سَفَاهَةٌ و سَفِيهِاتٌ۔ سَفِيهِةٌ الطَّعْنَةُ: جلدی خون بنا۔ سَفِهَ الشَّرَابَ: بہت پینا۔۔۔ نَصَبِيَهُ: اپنا حصہ بھوانا۔
سَفَه (ک) سَفَاهَةٌ و سَفَاهًا: جاہل ہونا۔ بیوقوف ہونا۔
سَفَهٌ: الزُّجُلُ: بیوقوف بنانا۔ بیوقوفی کی طرف نسبت کرنا۔ کہا جاتا ہے ”سَفَهَ الجَهْلُ حِلْمَةً“ اس کی جمالت نے اس کی عقل کو طیش میں مبتلا کر دیا۔
سَافَهَةٌ: گالی گلوچ کرنا۔۔۔ الدَّنُّ: ہٹکے کے پاس بیٹھ کر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چینا۔ پینے میں زیادتی کرنا اور اکل سے بغیر اندازہ کے پینا۔
أَسْفَهَ اللَّهُ فَلَانًا المَاءَ: بہت پلانا اور سیر نہ ہونے دینا۔
تَسْفَهَةُ الزُّجُلُ: تکلف بیوقوف بنا۔
الرِّيحُ: ہوا کا غیر ہموار چلنا۔۔۔ الرِّيحُ

سَفُوًا و سَفَالًا: پست ہونا۔ نیچا ہونا۔ حقیر ہونا۔ صفت (سَافِلٌ) ج سَافِلُونَ و سَفَلَةٌ و سَفَلٌ و سَفَالٌ و سَفْلَانٌ۔ (سَفَلٌ) (ک) سَفَلًا و سَفَلًا و سَفَالًا: فی علمہ أو خلقہ: ادنیٰ ہونا۔۔۔ سَفُوًا: فی الشئی: نیچے اڑنا۔
سَفَلَةٌ: نیچے اٹارنا (سَافَلَةٌ) کینگی کے افعال میں مقابلہ کرنا۔
تَسْفَلُ: آہستہ آہستہ نیچے اڑنا۔
إِسْتَفَلُ: اڑنا۔
السَّفَلُ و السَّفَلُ: پستی۔
السَّفَلَةُ و السَّفَالَةُ: سب سے نیچا حصہ۔
سَفَالَةٌ كَلُّ شَيْءٍ: پتہ۔ (سَفَلَةُ القَوْمِ و سَفَلَتُهُمْ) ادنیٰ درجہ کے لوگ۔ سَفَالَةُ الرِّيحِ: ہوا کے چلنے کی نیچا جگہ۔
السَّفَالَةُ: کینگی و خشت۔
السَّفَالَةُ: دبر۔ مِنَ الرِّيحِ: نیزے کا نیچا حصہ۔ کہا جاتا ہے ”مَاعَالِيَةُ الرِّيحِ كَسَافِلِيهِ“ سَفَالَةُ النَّهْرِ: ندی کا نیچے حصہ۔ کہا جاتا ہے ”مَرَزَتْ بِعَالِيَةِ النَّهْرِ و سَافِلِيهِ“ میرا گزر ندی کی بلند و پست جگہ پر ہوا۔
الْأَسْفَلُ: پست تر ج اسفائل۔ کہا جاتا ہے ”زِدْ ذُنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ“ ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پست تر کر دیتے ہیں۔
السَّفَلِيُّ و السَّفَلِيَّةُ و السَّفُولُ ضد العُلُوِّ و العُلُوِّيَّةُ و العُلُوِّ: المَسْفَلَةُ: پست تر۔ کہتے ہو ”أَنَا أَسْكُنُ فِي مَعْلَاةِ المَدِينَةِ و فَلَانٌ فِي مَسْفَلِيهَا“ میں شہر کے بالائی حصہ میں اور فلاں نیچے حصہ میں رہتا ہے۔
سَقَنْتُ (ن) و سَقَيْتُ (س) سَقَانًا: الرِّيحُ: ہوا کا سطح زمین پر چلنا۔
سَقَنُ (ض) سَقَانًا: الشئی: چھیلنا۔
سَقَنَهُ: تراشا اور نرم کرنا۔
السَّقَنُ: کمزوری کھال جس کو تلوار کے قبضہ پر لگاتے ہیں۔ چوب تراشی کا اوزار۔
السَّاقِنَةُ و السَّقُونُ: مِنَ الرِّيحِ: سطح زمین پر چلنے والی ہوا۔ ج سَوَافٍ۔
السَّفِينُ: چینی۔ (دخیل)

أَسْقَبَتِ النَّفَاةُ: اکثر زینچ جانا۔

تَسَاقَبَتِ الْبَيْتُوتُ: قریب قریب ہونا۔

السَّقْبُ: ج. اسْقَبٌ وَسَقَابٌ وَسُقُوبٌ۔

سُقْبَانٌ: اونٹنی کانوزائیدہ بچہ اور مثل میں بولا

جانا ہے "أَذَلُّ مِنَ السُقْبَانِ بَيْنَ الْحَلَايِبِ"

دودھ دینے والی اونٹیوں کے درمیان نوزائیدہ

بچوں سے زیادہ ذلیل۔۔۔ ج. سُقْبَانٌ وَ

(السَّقْبِيَّةُ) خیمہ کا ڈنڈا۔ السَّقْبُ: لمبی موٹی

سر سبز شاخ۔ مَنَزَلٌ (سَقَبٌ) قریب منزل۔

السَّاقِبُ: نا۔ قریب۔ دور (شد)

المِسْقَبُ وَالمِسْقَابُ: نوزائیدہ اونٹ کے

بچے کی ماں۔ المِسْقَابُ: اکثر زینچ جننے والی

اونٹنی۔

سَقَدَ (ض) سَقَدُوا وَسَقَدُوا السَّقَدُ: الفَرَسُ:

ڈبلا کرنا۔ چھریا کرنا۔

السَّقْدَةُ: ج. سَقْدَدٌ (السَّقْدِيَّةُ) ج.

سُقَيْدَاتٌ: سرخ رنگ کا ایک پرندہ جس کو

فارسی میں زورک کہتے ہیں۔

السَّقْدُدُ: ڈبلا کیا ہوا گھوڑا۔ چھریا کیا ہوا

گھوڑا۔

سَقَرْتُهُ (ن) سَقَرْتُ السَّمْسُ: جھلنا۔

أَسْقَرْتُ: التَّخَلُّةُ: درخت خرما سے شیرہ

ہرنا۔

السَّقْرَمُ: مہ۔ شکر۔ شیرہ۔

سَقَرٌ: دوزخ کا علم (کلمہ غیر منصرف ہے) کہا

جاتا ہے "جَاءَ (بِالسَّقْرِ) وَالبَقْرُ وَبِنَاتٍ غَيْرِ"

اس نے سفید جھوٹ کہا۔

السَّقْرَةُ: سورج کی سخت تپش۔ ج. سَقَرَاتٌ۔

السَّقَاوَرُ: گرمی۔ جانوروں کو داغنے کا لہوا۔

السَّقَارُ: غیر مستحق کو بہت لعنت کرنے والا

کافر۔ ج. سَقَارَةٌ۔

سَقَسَقَ: الطَّائِرُ: بیت کرنا۔

سَقَطَ (ن) سَقُوطًا وَسَقَطًا: گرنا۔ کہا جاتا

ہے "سَقَطَ مِنْ عَيْنِي" وہ میری آنکھوں سے گر

گیا۔ یعنی حقیر ہو گیا۔ سَقَطَ فِي الْكَلَامِ: غلطی

کرنا۔۔۔ التَّخْمُ: غائب ہونا۔۔۔ الحَرْزُ: گرمی

پڑنا۔۔۔ الحَرْزُ عَنَّا: دور ہونا۔۔۔ عَلِيٌّ ضَالِبٌ:

موقع بازیافت سے مطلع ہونا۔۔۔ القَوْمُ إِلَيَّ:

نازل ہونا۔ اترنا۔۔۔ الْوَالِدُ مِنْ بَطْنِ أَبِيهِ: نکلنا۔

باہر آنا۔ سَقَطَ فِي يَدِهِ: نام ہونا۔ کہتے ہیں "عَلَى

الْخَيْبِرِ سَقَطَتْ" حقیقت کار کے جاننے والے

کے پاس تم نہیں۔

سَقَطَ وَاسْقَطَ: فنی دیدم۔ لغزش کرنا۔ غلطی

کرنا۔ نام ہونا۔ حیران ہونا۔

سَاقِطَةٌ وَسَاقِطًا وَسَاقِطَةٌ: گرانا یا پے بہ پے

گرانا۔۔۔۔۔ الْحَدِيثُ: باری باری گفتگو کرنا۔۔۔۔۔

الْفَرَسُ الْخَيْلُ: دوڑ میں سبقت کرنا۔۔۔۔۔

الْفَرَسُ الْعَدُوُّ: گھوڑے کا ست دوڑنا۔

أَسْقَطَهُ: گرانا۔ اسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ السَّقَطَ:

عورت کا تمام بچہ گرانا۔۔۔۔۔ لَهْ بِالْكَلامِ: گالی

رہنا۔ بیوہ بات کرنا۔۔۔۔۔ الزَّجَلُ: کسی کے ساتھ

ایسی کارروائی کرنا جس سے وہ حقیر ہو جائے کہ

کوئی غلطی کر بیٹھے یا جھوٹ بولے یا اپنے راز کو

ظاہر کر دے۔ کہا جاتا ہے "مَا اسْقَطَ فِي كَلِمَةٍ"

اس نے کسی کلمہ میں غلطی نہیں کی۔

تَسَقَطَةُ: لغزشوں کو ڈھونڈنا۔

الْخَيْبِرُ: تھوڑی تھوڑی خبر حاصل کرنا۔

تَسَاقَطُوا اسْقَاطَ الشَّيْءِ: پے بہ پے کرنا۔

السَّقَطُ: برف یا شبنم لیم۔۔۔۔۔ وَالسَّقِطُ

وَالسَّقِطُ: نا تمام بچہ جو وقت سے پہلے گر جائے۔

السَّقِطُ: خیمہ کا گوشہ۔ پرندہ کا بازو۔ کہا جاتا ہے

"رَفَعَ الطَّائِرُ سَقِطِيهِ" پرندہ نے اپنے دونوں بازو

اُغْمَاةً۔ بالوں کا کنارہ جو زمین پر گرنا ہوا دکانی

دے۔

السَّقِطَةُ: زور سے گرنا۔ ٹھوکر۔ لغزش۔

السَّقَطُ: ناکارہ دے برکت چیز۔ ردی سلمان۔

رسوائی۔ تحریر یا قول یا حساب کی غلطی۔ ج.

اسْقَاطٌ۔

السَّاقِطُ: نا۔ فردایہ۔ کینہ۔ ج. سَقَاطٌ وَسَقَاطٌ

: مؤنث سَاقِطَةٌ۔

السَّاقِطَةُ: کم عقل کینہ۔ وہ بھل جو کچھ سے

پہلے گر جائے۔ ج. سَوَاقِطٌ۔

السَّقَاطُ: مہ۔ سَاقِطٌ کی جمع۔ لغزش۔ وہ بھل جو

کچھ سے پہلے گر جائے۔ پرندہ کا بازو۔

السَّقَاطُ وَالسَّقَاطَةُ: گرمی ہوئی چیز۔

السَّقُوطُ: گرانا۔

السَّقِيطُ: بھوقوف۔ کم عقل۔ مؤنث

سَقِيطَةٌ: برف۔ شبنم۔ ج. اولہ۔

السَّقَاطُ: بہت گرنے والا۔ بہت تیز تلوار جو

متلوغ سے پہلے زمین پر گرے۔۔۔۔۔

وَالسَّقِيطِيُّ: ردی سامان بچنے والا۔ کہا جاتا ہے۔

السَّقَاطَةُ: بہت گرنے والی۔ سَقَاطَةُ الْبَابِ

عِنْدَ الْمُؤَلِّبِينَ: دروازہ کی چوٹی۔

الْمَسْقِطُ وَالْمَسْقِطُ: گرنے کی جگہ۔ ج.

مَسْقِطٌ۔ مَسْقِطٌ زَاوِي الزَّجَلِ: جائے

پیداؤں۔ المَسْقِطُ: پرندہ کا بازو۔

الْمَسْقِطَةُ: گرنے کا سبب۔

مُنْقِطَةُ الْأَخْبَالِ: بڑی مصیبت۔ الْأُمُّ

(الْمَسْقِطُ) نا تمام بچہ گرانے والی ماں۔

السَّقِيطِيُّ: ماہر نقاد۔

سَقَعَةُ (ف) سَقَعًا: کسی کو حقیر مارنا۔ کسی کو

سخت ست کرنا۔ کسی کے ساتھ بڑائی سے پیش آنا۔

سَقَعُ الدَيْنُ: مرغ کا بائگ رہنا۔ کہا جاتا ہے "مَا

أَذْرَى أَيْنُ سَقَعٍ" میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔

أَسْقَعُ لَوْثُهُ: رنگ کا بدل جانا۔

السَّقَعُ: گھڑ زمین کا گوشہ۔ ج. اسْقَاعٌ۔

السَّقَاعُ: اونٹنی کو تیل سے بچانے کا چھتریا۔

برقع۔ اونٹنی کی ناک کو باندھنے کی چیز۔۔۔۔۔

وَالْمَسْقَعُ: لغت ہے۔ صِقَاعٌ وَوَضْعٌ مِمَّنْ

الْأَسْقَعُ: چڑیا کی مانند ایک پرندہ جس کا سر

سفید اور پر سبز ہوتے ہیں اور جو پانی کے قریب

رہتا ہے۔ ج. اسْقَاعٌ وَدُمْنُونَ اور حاسدوں سے

دور رہنے والا۔

السَّوْقَعَةُ: ٹرید کے اوپر کا حصہ۔۔۔۔۔ مِنْ

الزَّوْءِ وَوَالْحِمَارِ وَوَالْعِمَامَةِ: وہ حصہ جو سر

سے متصل ہوا اور جلدی سے میلا ہو جائے۔

السَّقِطْرِيُّ: لہبا آدمی یا اونٹ۔

السَّقِطِمُ: چوبیا۔

سَقَفٌ (ف ن) سَقْفًا وَسَقْفٌ: الْبَيْتِ:

چھت ڈالنا۔

سَقَفٌ (ف ن) سَقِيفِيٌّ وَسَقِيفٌ وَتَسَقَفٌ:

بشپ بننا۔

أَسَقَفَهُ وَسَقَفَهُ: عَلَيْهِمُ: بشپ بنانا۔

سَقِفٌ (س) سَقَفًا: جھکاؤ کے ساتھ لہبا ہونا۔

تَسْقَى تَسْقِيًا، سیراب ہوتا۔ کہا جاتا ہے "تَسْقَى الضَّبْعُ" اس نے رنگ کو جذب کر لیا۔ اِسْتَقَى اِسْتِقَاءً وَاِسْتَقَى۔

اِسْتَقَى مِنْ التَّهْوِيْرِ دیر سے پانی لینا۔ وَاِسْتَقَى الرَّجُلُ: بیماری کی وجہ سے پیٹ و جسم میں پانی جمع ہوتا۔ تے کرتا۔ اِسْتَقَى الرَّجُلُ: کسی سے "سَقَاكَ اللّٰهُ يَا سَقِيًا لَكَ" کہتا۔

السَّقَى والسَّقِي: وہ پانی جو مرض کی وجہ سے پیٹ میں جمع ہو جائے۔ السَّقِي: سیراب کی ہوئی کھیتی یا زمین۔ پانی کا حصہ۔ کہا جاتا ہے "كَمْ سَقِيٍّ اَزْضِكَ" تمہاری زمین کے لیے پانی کا کتنا حصہ ہے۔ بادل۔ ج۔ اَسْقِيَةٌ۔

سَقِيًا وَمُسْقِيًا، لِقُلَانٍ، دعا کے موقع پر بولتے ہیں۔ تقدیر عبارت یہ ہے "سَقَاةَ اللّٰهُ سَقِيًا" اللہ اس کو سیراب کرے۔

السَّقَاءُ: ٹھک۔ ج۔ اَسْقِيَةٌ وَاَسْقِيَات وَاَسَاقِي۔

السَّقِيَّةُ وَالسَّقِيَّةُ: پانی پلانے کی جگہ۔ پانی پینے کا برتن (.....) وَالسَّقِيَّةُ: پانی جمع کرنے کی جگہ۔ حوض۔

السَّقِي: قاح۔ ج۔ سَقَاةٌ وَاَسْقِيَةٌ وَاَسْقِيَةٌ وَاَسْقِيَةٌ۔

السَّقِيَّةُ: السَّقِي کا مؤنث۔ چھوٹی ندی۔ ج۔ سَوَاقٍ وَاَسْقِيَات۔

السَّقِيَّةُ: السَّقِي وَاِسْتِقَاءُ كَالسَّقِيَّةِ۔

السَّقِي: دریاؤں کے پانی سے سیراب کیا ہوا۔ تیز بارش والا بادل۔ درخت خرما اور بروی۔ واحد (سَقِيَّةٌ)۔

السَّقَاءُ: بہت پلانے والا۔ مؤنث سَقَاءَةٌ وَاَسْقِيَةٌ۔

اِسْتَقَى: پانی طلب کرتا۔۔۔۔۔ عِنْدَ الشَّرْعِ: پانی طلب کرنے کیلئے نماز پڑھنا اور دعا کرتا۔۔۔۔۔ عِنْدَ الْاَطْيَاءِ: ایک بیماری کا نام۔

اَلْمُسْقَى: سیراب کا وقت۔

اَلْمُسْقِيُّ: دریا کے پانی سے سیراب کی ہوئی کھیتی۔ (اور وَمُسْقِيًا بَارَشٍ کے پانی سے سیراب

سَقِمَ (س) وَاِسْقَمَ (ك) سَقَمًا وَاِسْقَمًا وَاِسْقَمًا وَاِسْقَمًا: بیمار ہونا یا دیر تک بیمار رہنا۔

صفت (سَقِيمٌ) ج۔ سَقِيمًا وَاِسْقَمًا۔ اَسْقَمُ وَاِسْقَمَةٌ: بیمار ڈالنا۔ وَاِسْقَمَ الرَّجُلُ: بیمار گھروا ہوا۔

السَّقَمُ وَالسَّقِمُ: ج۔ اَسْقَامٌ وَاِسْقَامٌ) بیماری۔

السَّقِيمُ وَالسَّقِيمُ: بیمار۔ كَلَامٌ سَقِيمٌ: تا درست کلام۔ مَكَانٌ سَقِيمٌ: خوفناک جگہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سَقِيمٌ الصَّدْرُ عَلٰى اَخِيهِ" وہ اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔

اَلْمُسْقَامُ: بھگت بیمار رہنے والا۔ اَزْضٌ (مُسْقَمَةٌ) بہت بیماریوں والی زمین۔ السَّقْمُونِيَّةُ: ایک دوا کا نام۔

اَسْقَنَ: سَقِيَّةٌ: تلوار کو پورے طریقے سے صیقل کرتا۔

اَلْاَسْقَانُ: باریک کریں۔ السَّقْمُونُ: ایک جانور کا نام ہے۔

سَقَى (ش) سَقِيًا، الرَّجُلُ: پلانا۔ کسی سے "سَقَاكَ اللّٰهُ يَا سَقِيًا لَكَ" کہتا۔ عیب لگانا۔ غیبت کرتا۔۔۔۔۔ النَّوْبُ: گھبراہٹ۔

سَقَاةَ اللّٰهِ الْغَيْثُ: بارش بھیجنا۔۔۔۔۔ بَطْنُهُ: بیماری کی وجہ سے پیٹ میں پانی جمع ہوتا۔

سَقَى: قَلْبُهُ عِدَاوَةٌ: دل کا دشمنی سے بھر پور ہونا۔۔۔۔۔ بَطْنُهُ: بیماری کی وجہ سے پیٹ میں پانی جمع ہوتا۔

سَقَى تَسْقِيَةً، الرَّجُلُ: بہت پلانا۔ کسی سے "سَقِيًا لَكَ" کہتا۔۔۔۔۔ النَّوْبُ: کپڑے کو بار بار رنگ میں ڈبوانا۔

اَسْقَى اِسْقَاءً، الرَّجُلُ: پانی پینے کیلئے دینا۔ پانی کی طرف رہنمائی کرنا۔ جانوروں کو یا زمین کو سیراب کرنا۔ کسی سے "سَقَاكَ اللّٰهُ" یا "سَقِيًا لَكَ" کہتا۔ اَسْقَاةَ اللّٰهِ الْغَيْثُ: بارش بھیجنا۔

اَسْقَى فَلَانًا: عیب لگانا۔ غیبت کرتا۔ سَقَاةٌ وَاَسْقِيَةٌ: ایک دوسرے کو پلانا۔ وَاَسْقَاةٌ فِي اَرْضِهِ: کسی کو زمین کی دیکھ بھال کے لئے مقرر کرنا اس شرط پر کہ زمین کا کچھ قلم لے گا اور اسی سے ضَرْكَةٌ مَسْقَاةٌ ہے۔

صفت (اَسْقَفٌ) مؤنث سَقْفَاءُ ج۔ سَقْفٌ۔

سَقَفَتِ الرَّجُلُ: پاؤں کا دائیں جانب کو جھکا۔ السَّقْفُ: مِنَ الْبَيْتِ: چھت۔ ج۔ سَقُوفٌ۔ آسمان۔

السَّقِيْفُ: چھت۔ ج۔ سَقْفٌ وَاِسْقَفٌ۔ السَّقِيْفَةُ: چھت پائے کا پتھرا تختہ۔ سونے یا چاندی کا لہبا و باریک تار۔ اونٹ کی پھلی۔ ج۔ سَقَائِفٌ۔ کہتے ہیں "هَذِهِ السَّقُوفُ سَقَائِفٌ الْبَيْعِيَّةُ" سونے اونٹ کی پھلیوں کو توڑ دینا۔ السَّقِيْفَةُ: ڈیوڑھی۔

اَلْاَسْقَفُ: موٹی اور لمبی ڈیوڑھی والا۔۔۔۔۔ مِنَ الْجَمَالِ: بے بال والا اونٹ۔ مِنَ الظَّلْمَانِ: شیروں کی گردن والا شتر مرغ۔

اَلْاَسْقَفُ: بَشِپ پادری۔ جس کا درجہ قمیس سے اونچا اور مطران سے کم ہوتا ہے۔ مطران۔ ج۔ اَسْقَافَةٌ وَاَسْقَافٌ (کھریوتانی ہے)۔

اَلْاَسْقِفِيَّةُ: بَشِپ کا درجہ۔ بَشِپ کی رعیت۔ بَشِپ کی جانب منسوب۔ اَلْمُسْقَفُ: غم۔ لہبا۔

السَّقِيُّ: آدمیوں کی غیبت کرنے والا۔ سَقْلَةٌ (ن) سَقْلًا: صیقل کرنا۔ آئینہ وغیرہ کو جلا دینا۔

سَقَلَ (س) سَقْلًا، الْبَيْعِيُّ: کھریوں والی جانب کو بھی والا ہوتا۔ السَّقْلُ: کمر۔

السَّقْلُ: مِنَ الرَّجَالِ: پتلی کمر والا مرد۔۔۔۔۔ مِنَ الْخَيْلِ: پیٹھ میں کم گوشت والا گھوڑا۔ السَّقْلُ وَالسَّقِيْلُ وَالْاِسْقَالُ: اِسْقَالٌ۔

جنگلی پیاز۔ اَلْاِسْقَالَةُ: اونچی جگہ پر پھینچنے کے لیے پاڑھ۔ ج۔ اَسْقَالٌ۔

سَقْلَبُهُ: بچھاڑنا۔ جَمَاعَةُ السَّقْلَبِ: علاقہ خزر کے باشندوں کی ایک جماعت جو بعد میں یورپ کے ملکوں میں پھیل گئی تھی۔ واحد (سَقْلَبِيٌّ) ج۔ سَقْلَابِيَّةٌ۔

السَّقْلَاطُ: جنیبلی۔ ایک اولیٰ کپڑا ہے جس کو عورتیں ہودہ روڑا لیتی ہیں۔ کتان کا نقش کپڑا جس پر گھومھی کا نقش ہو۔

<p>انسکت۔ کلام منقطع ہوتا۔۔۔ عن الشيء: اعراض کرنا (انسکتہ و سکتہ) چپ کرنا۔</p> <p>ساکتہ فسکتہ۔ چپ رہنے میں مقابلہ کرنا اور غالب رہنا۔</p> <p>السکتة۔ ایک مشہور بیماری کا نام جس میں سارے اعضاء بے حس و حرکت ہو جاتے ہیں۔</p> <p>سکت کا اسم۔</p> <p>السکتة۔ برتن میں باقی ماندہ۔ پتہ وغیرہ کو چپ کرانے کی چیز۔ سکت کا اسم۔</p> <p>السکتة۔ پتہ وغیرہ کو چپ کرانے کی چیز۔</p> <p>السکات۔ مع۔ ایک بیماری جو بولنے سے روک دیتی ہے۔ السکات من الحیات: وہ سانپ جو بے خبری میں ڈس لے۔ کہا جاتا ہے "هو علي سكات الأمل" وہ کام کے پورا کرنے کے قریب ہے (۔۔۔ والسکاتة) من العجواب: خاموش کر دینے والا جواب۔ کہا جاتا ہے "وماه بسکایہ و ضمایہ" اس نے اس کو خاموش کر دیا۔</p> <p>السکت والسکوت والسکوت والسکوتہ والسکینت والسکینت والسکینت۔ سکت چپ رہنے والا۔</p> <p>السکینت گھڑوڑکے میدان کا آخری گھوڑا۔</p> <p>أسکات القوم: قوم کے اوباش لوگ۔</p> <p>السئی: چیز کا بقیہ۔ گرمی کے آخر کے معتدل ایام۔</p> <p>السکت۔ جوئے کے کھیل کا آخری تیر۔</p> <p>سکرت (ان) سکرتا۔ الاناء: برتن بھرنا۔</p> <p>۔۔۔۔ التھیر: دریا میں بند لگانا۔۔۔۔۔ النباب: دروازہ بند کرنا۔۔۔۔۔ سکرتا او سکرتا (ان) الوفیغ: ہوا کارک جانا۔۔۔۔۔ الحوڑ: گرمی کا کم ہو جانا۔</p> <p>(۔۔۔۔۔) وسکرت و سکرت بصره: نگاہ دھندلی ہونا۔</p> <p>سکرت (س) سکرتا۔ الحوض: حوض کا بھر جانا۔</p> <p>۔۔۔۔۔ الزجل علیہ: غصبتاک ہونا۔۔۔۔۔ سکرتا و سکرتا و سکرتا و سکرتا و سکرتا (ان) من سکرتا و سکرتا و سکرتا و سکرتا و سکرتا: غصہ کا ٹھنڈا پڑنا۔۔۔۔۔ الحوڑ: ہوارکنے کے ساتھ گرمی تیز ہونا۔۔۔۔۔ الحوڑکة: ٹھہرنا۔</p> <p>سکت۔ سکت لاجن ہونا۔ صفت (سکرتوت)</p>	<p>السکوک۔ ننگ منہ والا کتواں۔</p> <p>السکاکة۔ فضائے آسمانی۔ خورائے چھوٹے کان والا۔</p> <p>السکاک۔ سکہ ساز۔</p> <p>السکاکة۔ مسافرن۔</p> <p>سکتب (ن) سکتبا و تسکتبا۔ الماء و نحوة: پانی وغیرہ بہانا۔ گراتا۔</p> <p>سکتب (ن) سکوتبا و انسکتب۔ الماء: پانی بہنا۔</p> <p>تسکتب الذمغ: آنسو بہنا۔</p> <p>السکتب۔ مع۔ لگاتار بارش۔۔۔۔۔ من الخیل: تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ ماء سکتب: سینے والا پانی۔</p> <p>أهز سکتب: امر لازم۔ زجل سکتب: سبک روخ چست و پھرتیا سرد۔ (۔۔۔۔۔ والسکتب) تانیا یا بید۔</p> <p>السکتب: ایک خوشبودار درخت۔ واحد (سکتبة) السکتبة: سرکی بھوسی۔</p> <p>السکتبة۔ سکتب کا اسم مرہ: کپڑے کا گول ٹکڑا جو سر کے لیے قطع کیا جائے۔ باریک جھلی جو جنین کے چہرے پر ہوتی ہے۔</p> <p>السکاب و السکوب و السکینب و الأنسکوب۔ بننے والا۔</p> <p>الأنسکوب۔ لگاتار بارش۔ موچی۔ لوہار۔</p> <p>درخت خرما کی ایک قطار۔۔۔۔۔ من البنوق: زمین کی جانب کو نکلنے والی بجلی۔</p> <p>الإنسکاب۔ موچی۔</p> <p>الأنسکوتة و الإنسکاتة۔ کلڑی کا ٹکڑا جس کو منگ کے شکاف میں ڈال کر اس پر کچھ باندھ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے کچھ نہ نکلے۔</p> <p>الأنسکبة۔ چوکھٹ۔</p> <p>المسکبة۔ بہانے یا بننے کی جگہ۔ ج مسکاب۔</p> <p>السکباج۔ سان جو سر کر گوشت اور خوشبو دار مصالحے تیار کرتے ہیں۔</p> <p>سکت (ن) سکنا و سکوتنا و سککتا و ساکوتة۔ چپ رہنا۔ مرنا۔۔۔۔۔ الغضب: غصہ کا ٹھنڈا پڑنا۔۔۔۔۔ الحوڑ: ہوارکنے کے ساتھ گرمی تیز ہونا۔۔۔۔۔ الحوڑکة: ٹھہرنا۔</p> <p>سکت۔ سکت لاجن ہونا۔ صفت (سکرتوت)</p>	<p>کی ہوئی۔)</p> <p>المسقاة و المسقاة۔ پانی پلانے کی جگہ۔</p> <p>سکت (ن) سکتا۔ النباب: دروازہ بند کرنا۔</p> <p>دروازے میں لوہے کی پٹی لگانا۔۔۔۔۔ السکر: کتواں کھودنا۔۔۔۔۔ اذنتہ: کان کو جڑ سے اکھیرنا۔۔۔۔۔</p> <p>التعام مافی نظیہ: پتلی پتلی بیٹ کرنا۔ کہا جاتا ہے "ماستک سفین مغل ذلک الکلام" اس جیسی گفتگو میرے کانوں میں نہیں پڑی "وایین تسکت" تو کہاں جاتا ہے۔</p> <p>سکت (س) سککتا۔ چھوٹے کانوں والا ہونا۔</p> <p>صفت (أسکت) مؤنث سککاء ج سکت کتے ہیں "کل سکتا بیوض و کل شرفاء و لود" ہر چھوٹے کان والی انڈے دیتی ہے اور ہر بڑے کان والی بچے بنتی ہے۔</p> <p>استکت استیکاکا۔ النباب: گنجان ہونا۔</p> <p>استکت المسامیغ: بہرا ہونا۔ النیبث: بند جھری والا ہونا۔ کہا جاتا ہے "ما استکت فی مسامیغی مغلہ" میرے کانوں میں اس جیسی بات نہیں پڑی۔</p> <p>السک و السکت۔ ج سکاک و سکوک: ننگ منہ کا کتواں۔ ننگ حلقوں والی زرہ۔ بند راست۔ السک: کیل۔ سیدھی و درست عمارت۔ السک: بد مستحی۔ چھو کا سوراخ۔ کلڑی۔ ایک قسم کی خوشبو۔ کہا جاتا ہے "صرتنا بیوضتہم سکاکا" انہوں نے اپنے مکانات ایک قطار میں بنائے۔</p> <p>السکک۔ مع۔ بہرا پن۔</p> <p>السکاء۔ ننگ حلقوں والی زرہ۔</p> <p>السکة۔ سیدھا راستہ۔ نل کا پھار۔</p> <p>السکة۔ درختوں کی قطار۔ سکہ ڈھانے کا سانچہ۔ پیغام رسال کا گھر۔ ج سیکک۔</p> <p>أصحاب السکک: وہ وکیل پیغام رسال جو اہم امور کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ کہا جاتا ہے "فلان صعب السکک" فلاں سب کی عقل کی وجہ سے ایک پر نہیں ٹھہرتا۔</p> <p>السکی۔ دینار۔ قاصد۔</p> <p>السکی۔ کیل۔</p> <p>السکاک۔ فضائے آسمانی تیر میں پر کی جگہ۔</p>
---	--	---

سُكُوِيٌّ وَسُكُوَانَةٌ ج سَكُوِيٌّ وَسَكَاوِيٌّ وَ سَكَاوِيٌّ

سَكُوِيٌّ: گلا گھونٹنا۔۔۔ الباب: دروازہ بند کرنا۔

اَسْكُوَهُ: الشَّرَابُ: پھیرنا۔ مست کرنا۔ تَسَاكُوَ: مستی ظاہر کرنا۔ نَشَأَ: اور چیز استعمال کرنا۔

السُّكْرُ: شراب اور ہر نشہ آور چیز۔ سرکہ۔ السُّكْرُ: دریا کا بند۔ جس چیز سے دریا کو بند کیا جائے۔ ج سَكُوْرٌ۔

السُّكْرُ: مہ۔ نشہ۔ مستی۔ سَكْرَةٌ: المَوْتِ اَوِ الهَيْجِ: موت یا غم کی سختی۔ ج سَكْرَاتٍ۔

السُّكْرَةُ: ایک قسم کا دانہ جو گیہوں کے کھیت میں ہوتا ہے اور گیہوں کے مشابہ گراس سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے نیند بہت آتی ہے۔

السُّكْرُ: شکر (سُكْرَةٌ) اس سے خاص ہے۔ السَّاكِرُ: فَا۔ لَيْلٌ سَاكِرٌ: بے ہوا والی رات۔ مَوْنَةٌ سَاكِرَةٌ۔

السُّكَارُ: نشہ آور چیزوں کا پیمانہ والا اور بیچنے والا۔

السُّكَيْرُ وَالسُّكُوْرُ وَالْمِسْكِيْرُ: بہت نشہ والا۔

السُّكُوْرَانُ: ایک قسم کی گھاس جو ہمیشہ سبز رہتی ہے اور اس کے دانہ کو کھلایا جاتا ہے۔ السُّكُوْرُ جَوِ السُّكُوْرَةِ: چھوٹی پالی۔ سَكْسَكٌ: کزور ہونا۔ دلیر ہونا۔ تَسَكْسَكُ: اَلْبَيْتُ: عاجزی کرنا۔

سَكْعٌ وَسَكْعٌ (ف س) سَكْعَاوٌ وَسَكْعَاوٌ۔ علمی میں پھرتا۔ کہا جاتا ہے "مَا اَذْرَى اَيْنَ سَكْعٌ" میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ تَسَكَّعٌ: فِي اَمْرِهِ اَوْ سِيْرِهِ: حیران پھرتا۔ مدت تک باطل میں رہنا۔۔۔ الظَّلْمَةُ: اندھیرے میں ٹاپک ٹوٹیاں مارنا۔

السَّاعِجُ: فَا۔ (و السَّاعِجُ) مرو مسافر اچھی۔

رَجُلٌ (مَسْكُجٌ) تَمِيْرٌ مَرُو السُّكْعِ: ایک قسم

کی نباتات۔

المُسْكَعَةُ: وہ معاملہ جس میں کوئی تدبیر بحال نہ دے۔

اَزْطُ (مُسْكَعَةٌ) بغیر کسی علامت و نشان کے زمین۔

سَكْفٌ (س) سَكْفَا: الباب: دروازے میں چوکھٹ لگانا۔

تَسَكَّفَ: الباب: چوکھٹ پر قدم رکھنا۔ اَسَكَّفَ: موجی بننا۔

السَّنَاكِفُ: فَا۔ دروازہ کے اوپر والی لکڑی جو دہلیز کے مقابل ہوتی ہے۔

الْاَسْكُفُ: مِنَ الْعَيْنِ: پلکوں کے اُٹنے کی جگہ یا نچلا ہوا۔ کہا جاتا ہے "وَقَفَّتِ الدَّمْعَةُ عَلٰى اَسْكُفِ عَيْنِهِ" آنسو اس کی آنکھوں میں پلک اُٹنے کی جگہ ٹھہر گیا۔

الْاَسْكُفَةُ وَالْاَسْكُفَةُ: دہلیز۔ الْاَسْكُفُ وَالْاِسْكَافُ وَالْاَسْكُوفُ وَالسَّكَافُ وَالسَّنِكْفُ: موجی۔ و (السَّكْفَةُ) موجی کا پیشہ۔

السُّكُلُ: ایک قسم کی بڑی سیاہ مچھلی۔ ج اَسْكَالٌ وَسِكْلَةٌ۔

سَكَمٌ (ن) سَكَمًا: کزوری سے چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔ صفت (سَكَمٌ) الْاِسْمَكِيْمُ: راہب کا پتھر یا راہب کا سر ڈالنے کا پتھر (کلمہ معرب ہے)

سَكَنٌ (ن) سَكُونًا: ٹھہرنا۔۔۔ اَلْبَيْتُ: آرام لینا۔۔۔ عَنَةُ الْوَجْعُ: درد کا دور ہونا۔۔۔ الْحَزَفُ: بغیر حرکت کے ہونا۔ جزم والا ہونا۔۔۔ سَكْنَا وَ سَكْنَى: الدَّارُ وَ فِي الدَّارِ: اقامت کرنا۔ رہنا۔ صفت (سَاكِنٌ) ج سَكَاوٌ وَ سَاكِنُوْنَ۔

سَكَنٌ (ن) سَكْنًا: اَوْ سَكْنٌ (ك) سَكُونَةٌ: مسکین ہونا۔ سَكَنٌ: الْمُنْتَحَرِكُ: ٹھہرانا۔۔۔ الْحَزَفُ: جزم دینا۔

سَاكِنَةٌ: فِي دَارٍ وَ اِحْدَى: ساتھ ہو رو یا شکرنا۔ اَسْكَنٌ: الرَّجُلُ: مسکین ہونا۔۔۔ غریب و مسکین بنانا۔۔۔ الدَّارُ: کسی کو بد رو یا شکرانا۔

الفَقْرُ فَلَا تَأْتِي: بے حرکت ہونا۔

تَسَكَّنَ وَ تَمَسَكَنَ: مفلس و مسکین ہونا۔ تَسَكَّنَ: مَطْمَنٌ وَ صَاحِبٌ وَ قَارٍ هُوَ (سَكِينَةٌ) سے ماخوذ ہے۔)

تَسَاكَنُوا فِي الدَّارِ: باہم مل کر رہنا۔ اِسْتَسْكَنَ اِسْتِكَاةً وَ اِسْتَسْكَنَ: ذلیل و عاجز ہونا۔

السُّكْنُ: گھروالے۔ گھر۔ السُّكْنُ: اَلْجُ: رحمت۔ برکت۔ ہر وہ چیز جس سے اُس حاصل کیا جائے۔ الْاَسْكَانُ: کا واحد یعنی غذا و خوراک (۔۔۔) وَالسُّكْنَى: رہنے والا۔ رہنے کی جگہ۔

السُّكْنَةُ: سر اور گردن کے اتصال کی جگہ۔ ج سَكِنَاتٍ اور کہا جاتا ہے "تَوَكَّنْتُهُمْ عَلٰى سَكِنَاتِهِمْ" میں نے اُن کو اُن کی حالت سابقہ پر چھوڑ دیا۔

السُّكْنِيَّةُ: وقار۔ اطمینان۔ بیت۔ السُّكْنِيْنُ: ہلکا پلکا تیز رفتار گدھا۔ السُّكْنِيَّةُ: گدھی۔

السُّكُونُ: عدم حرکت۔ آرام۔ جزم۔ السُّكَاوُنُ: مِنَ السُّكْفِيَّةِ: پتوار۔ ج سَكَاوَاتٍ۔

السُّكَيْنُ: چھری۔ ج سَكَاكِيْنُ وَ (السُّكَاوُنُ) چھری بنانے والا۔

السُّكَيْنِيَّةُ: چھری۔ اطمینان۔ وقار۔ الْمَسْكُونُ وَالْمَسْكُونُ: گھر۔ مکان۔ منزل۔ ج مَسَاكِيْنُ۔

المَسْكَنَةُ: فقیری۔ ذلت۔ کزوری۔ الْمَسْكِيْنُ: وہ شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو یا وہ شخص جس کے پاس اتنا نہ ہو جو اس کے عیال کے لیے کافی ہو۔ ذلیل و مغلوب۔ ج مَسْكِيْنُوْنَ وَ مَسَاكِيْنٌ مَوْنَةٌ مَسْكِيْنٌ وَ مَسْكِيْنَةٌ۔

سَلَّ (ن) سَلًا وَ اِسْتَلَّ: الشَّيْءُ مِنَ الشَّيْءِ: کسی چیز میں سے آہستہ آہستہ نکالنا۔۔۔ السَّنِيْفُ: تلوار سوتلا۔ کہا جاتا ہے "اِسْتَلَّ فَلَانٌ بِكَيْدًا" فلاں شخص فلاں چیز کو چپکے سے لے گیا۔

سَلَّ (ض) سَلًا: گھرے ہوئے داغوں والا

ہوتا۔ صفت فکر (سَلَّ) بوصف مؤنث (سَلَّتْ)
سَلَّ۔ بیل کی بیماری میں جلا ہو کر ڈبلا ہوتا۔
صفت (مَسْلُوبٌ)
أَسَلَّ اسلألاً۔ اللہ فلأنا۔ بیل کی بیماری میں
جلا کرنا۔۔۔ السَّيِّئُ۔ چپکے سے چرانا۔
تَسَلَّلَ وَإِنْسَلَّ۔ مِنَ الزَّحَامِ۔ بھیڑ میں چپکے
سے کھسک جانا۔ کہا جاتا ہے: "أِنْسَلَّ فَبَدَأَ الْفَرْسُ
مِنْ نَبِيهِ" اس کے ہاتھ سے گھوڑے کی رتی نکل
گئی۔
السَّلَّ۔ مہ۔ عطر فروشوں کا ڈبہ۔ ج۔ سِلَالٌ۔
السَّلَّ وَالسَّلَّ وَالسَّلَّ۔ لاغری میں بیل
بیماری۔

السَّلَّةُ۔ پوشیدہ چوری۔ سل کی بیماری۔ حوض
کا نقص۔ نوکری عطر فروشوں کا ڈبہ۔ ج۔ سِلَالٌ۔ کہا
جاتا ہے "أَتَيْنَاهُمْ عِنْدَ السَّلَّةِ وَعِنْدَ السَّلَّةِ"
یعنی ان کے پاس ہم تلوار کھینچنے کے وقت پیچھے
(سَلَّةٌ بِاللَّحْ أَسْمَ مَرَّةً أَوْ مَرَّةً بِالْكَسْرِ أَسْمَ نَوْعٍ) ہے
"فَرْسٌ سَرِيعٌ السَّلَّةُ تَمِزُ وُزْنَهُ وَاللَّهْوُزُ"
السَّلِيلُ۔ کھینچا ہوا۔ سوتا ہوا۔ ولد۔ کہا جاتا ہے
"هُوَ سَلِيلُ الْأَكَارِمِ" وہ بزرگوں کی اولاد ہے۔
خاص شراب۔ حرام مغز۔ کوہان۔ وادی میں پانی
بننے کی جگہ۔ گھوڑے کا مغز۔ پھیرا۔ ج۔ سِلَانٌ۔
السَّلِيلَةُ۔ بیٹی پینے کے گوشت کا لبا کھانا۔ ایک
قسم کی لمبی چھلی۔

السَّلَالَةُ۔ کسی چیز سے نکالا ہوا۔ خلاصہ نسل
ولد۔ کہا جاتا ہے "هُوَ سَلَالَةٌ طَلَبَةٌ وَمِنْ سَلَالَةٍ
طَلَبَةٌ"

السَّلَالُ۔ فا۔ چور۔ وادی میں پانی بننے کی تنگ
جگہ۔ ج۔ سِلَانٌ وَسَوَالٌ۔
السَّلَالُ۔ نوکری بنانے والا۔ چور۔
الْأَسَلُ۔ چور۔

السَّلَّةُ۔ سوجا۔ ج۔ مَسَلَاتٌ وَمَسَالٌ
مَسَلَةٌ فَرَعُونَ لِبَابِ رِيحِ سَتُونَ جَو فَرَعَتِ مَصْرِكِي
يَادُكَرِيهِنَّ۔

سَلَا (ف) سَلَا وَاسْتَلَا۔ السَّمَنُ۔ گھی
صاف کرنا۔ سَلَا السَّمِيمُ۔ تِلَّ سے تیل نکالنا۔
کہا جاتا ہے "سَلَاهُ مَاتَهُ سَوَاطِطٌ" اس نے اس کو
سو کوڑے مارے۔ سَلَا الْجَدْعُ۔ جس سے کانٹے

دور کرنا۔

السَّلَاءُ۔ سَلَاءٌ كَأَسْمٍ۔ صاف کیا ہوا گھی۔ ج۔
أَسْلَفَةُ۔

السَّلَاءُ۔ کھجور کے درخت کا کانٹا۔
واحد (سَلَاءَةٌ) درخت خرما کے کانٹے کی مانند تیر
کا پھل۔ ایک قسم کا پتہ۔

سَلَبٌ (ن) سَلَبًا وَسَلَبًا۔ السَّيِّئُ۔ زبردستی
چھیننا۔۔۔ القَصْبَةُ أَوْ الشَّجْرَةُ۔ چھیلنا۔۔۔
السَّيْفُ۔ تلوار تنگی کرنا۔ صفت (سَالِبٌ) ج۔
سَلَابٌ وَمَسَالِبٌ مَوْثٌ سَالِبَةٌ۔ ج۔ سَالِبَاتٌ
وَسَوَالِبٌ۔۔۔ (وَأَسْتَلَبَهُ) نُؤْبَهُ: کپڑے کو چھین
لینا۔

سَلَبٌ (س) سَلَبًا۔ ماتم کے کپڑے پھینا۔
أَسْلَبْتُ الشَّجْرَةَ۔ پتے یا پھل گر جانا۔

(۔۔۔) وَسَلَبْتُ (التَّاقَةَ أَوْ الْمَرَاةَ) مرے ہوئے
بچے والی ہونا یا تمام بچے گرنا۔ صفت (سَلِبٌ) و
سَلُوبٌ) ج۔ سَلْبٌ وَسَلَابٌ وَسَلَابٌ وَ
مُسَلَبٌ وَمُسَلَبٌ وَمُسَلَبٌ)

أَسْلَبْتُ۔ بہت تیز چلنا (اس کو عموماً تاقہ کے
لیے استعمال کیا جاتا ہے)۔

السَّلْبُ۔ مہ۔ ہلکی تیز چال۔ فَرْسٌ سَلْبٌ
الْقَوَائِمُ۔ پہلی ٹانگوں والا گھوڑا۔

السَّلْبُ۔ چھینی ہوئی چیز۔ تم کہتے ہو "أَخَذْتُ
سَلْبَ الْقَيْلِ" اس نے مقول کے سامان کو لیا۔

ج۔ أَسْلَابٌ۔ لہار درخت۔۔۔ الذَّبِيحَةُ۔ ذبح
شہدہ جانور کا چمرا پانچ اور بیٹ۔

۔۔۔۔۔ مِنَ الْقَصْبَةِ۔ نرکل کا چھلکا۔ السَّلْبُ:
درخت کا ریشہ یا چھلکا جس سے رسیاں بنائی جاتی
ہیں۔

السَّلْبُ۔ لہا۔ لہا۔
السَّلْبَةُ۔ برتنکی۔

السَّلَابُ۔ بہت چھیننے والا۔ رسیوں کے لیے
درخت سے ریٹے نکلنے والا۔

السَّلَابَةُ وَالسَّلَابُوتُ۔ بہت چھیننے کا مادہ (یہ
ذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے)۔

السَّلَابُ۔ ماتی سیاہ لباس۔ کہتے ہو "لَيْسَتْ
الشَّكْلَى السَّلَابُ" تم کردہ فرزند عورت نے
ماتی لباس پہنا۔ ج۔ سَلْبٌ۔

السَّلْبُ۔ بل کا پتہ۔

السَّلْبُ۔ عمل یا مال کھویا ہوا۔ شَجْرَةٌ
سَلْبٌ: درخت جس کی شاخیں اور پتے دور کر
دیئے گئے ہوں۔ ج۔ سَلْبِيٌّ۔

الْأَسْلُوبُ۔ طریقہ۔ راستہ۔ روش۔ ج۔
أَسَالِبُ۔ الْأَسْلُوبُ: ناک کی بلندی اور
اسی سے ہے "أَنْفُهُ فِي الْأَسْلُوبِ" اس کی ناک
وہیں بائیں نہیں ہوتی۔ شکم و مغزور کے لیے کہا
جاتا ہے۔

سَلَّتْ (ض) (ن) سَلَّتَا۔ الجَعِيُّ: آنتوں کو ہاتھ
سے نکالنا۔۔۔ السَّخَرُ أَوْ الزَّوَسُ: بال یا سر
موندنا۔۔۔ الْمَرْأَةُ الْخِضَابُ عَنْ يَدَيْهَا۔۔۔
چھڑا دینا۔ آنا دینا۔۔۔ السَّيِّئُ: کانٹا۔

۔۔۔۔۔ ہ: کوڑے مارنا جیسے "سَلَّتَهُ بِمَاتِهِ سَوَاطِطٌ"
اس نے اس کو سو کوڑے مارے۔۔۔۔۔ بِسَلْبِهِ:
بیٹ کرنا (۔۔۔) (وَأَسْلَبْتُ) الْقَصْبَةَ: پیالہ کو انگلی
سے چاٹنا۔

أَسْلَبْتُ۔ چپکے سے خبری میں نکل جانا۔
السَّلْتُ۔ جو یا بغیر چھلکے کا۔

السَّلَاتَةُ۔ وہ چیز جو دور کی جائے یا نکل جائے۔
پیالہ کو صاف کرنے کے لیے انگلی سے جو چاٹا
جائے۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبَ مِنِّي فَلَتَةٌ (سَلَّتَةٌ)
وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا۔

الْأَسْلَتُ۔ وہ شخص جس کی پوری ناک کٹ
گئی ہو۔ مؤنث سَلَّتَا ج۔ سَلَّتْ۔ امْرَأَةٌ
سَلَّتَا: ہمدردی نہ لگانے والی عورت۔

السَّلَوْتُ۔ نفع۔ سر موندنا ہوا۔ جس سے
گوشت علیحدہ کر دیا گیا ہو۔

السَّلِيمُ۔ بلا۔ تخی۔ بھوت۔ سخت قحط سال۔
بہت بوڑھا اونٹ۔ تھوڑی اور حقیر چیز۔ کہا جاتا
ہے "مَا أَصَابَ مِنْهُ سَلِيمٌ" اس نے اس سے
کچھ نہیں پایا۔

السَّلِيمِيُّنَ۔ کھجور کا درخت کہ جس کے ارد گرد
گڑھا کھود دیا گیا ہو تاکہ اس میں پانی ٹھہر جائے۔

سَلَجٌ (س) سَلَجًا وَسَلَجَانًا۔ اللَّقْمَةُ: لقمہ
لگانا (۔۔۔) وَسَلَجَتْ (ن) سَلَجًا (ج) الْأَبْلُ: سَلَجٌ
گھاس کے چرنے سے پیٹ چلنا۔ سَلَجٌ
الْفَصِيلُ النَّاقَةُ: دو دوہ پیتا۔

السِّلْفُ۔ بیوقوف۔ ست۔ غنباک بھیڑیا۔
بت کھانے پینے والا مرد۔ اشتر گھوڑا۔ مؤنث
سِلْفَةٌ۔

سَلْفٌ سَلْفَةٌ۔ تیز روڑا۔

سَلْفَةٌ۔ گناہ۔

السِّلْفَانُ۔ بمعنی سِلْفَانُ۔

سَلْفٌ (ن) سَلْفًا۔ الْأَرْضُ: زمین کو زراعت
کے لیے تنگ سے ہموار کرنا۔

الْمَرْأَةُ: توشہ دان پر تیل ملنا۔

سَلْفٌ (ن) سَلْفًا و سَلْفًا: گزرتا۔ آگے
ہوتا۔ تم کہتے ہو "سَلْفٌ لَكَ عَمَلٌ صَالِحٌ" اس
سے عمل صالح کا مددور پہلے ہوا۔

و "سَلْفٌ الْقَوْمِ" وہ قوم سے آگے ہو گیا۔

سَلْفَةٌ: مَالًا: قرض دینا۔ الشَّيْءُ: بھٹی
دینا۔ الضَّيْفُ: سمان کے سامنے ناشتہ

پیش کرنا۔ الزَّجْلُ: ساند کھانا۔ (دیکھئے
سلفہ)

أَسْلَفَ: الْأَرْضُ: زمین کو زراعت کیلئے تنگ
سے ہموار کرنا۔ مَالًا: قرض دینا۔

فِي الشَّيْءِ: قبضہ کرنا۔ الشَّيْءُ: کسی کو کوئی
چیز سہرو کرنا۔ أَسْلَفَتِ الْمَرْأَةُ: بیٹیاں سال کی

ہوئی۔ صفت (مُسْلِفٌ) (یہ عورتوں ہی کے لیے
مخصوص ہے۔)

سَالَفٌ: فِي الْأَمْرِ: برابری کرنا۔ هُوَ فِي
الْأَرْضِ: ساتھ ساتھ چلنا۔ الْجَمَلُ: آگے
بڑھنا۔

تَسَلَّفَ و اسْتَسَلَّفَ: الْمَالُ: قرض لینا۔
تَسَلَّفَ الزَّجْلُ: ساند کھانا (دیکھئے سلفہ)

تَسَالَفَ: الزَّجْلَانِ: ہم زلف ہونا۔ یہ دونوں
مرد (سِلْفَانُ) کے جاتے ہیں۔

اسْتَسَلَّفَ: الْمَالُ: قرض لینا۔
السَّلْفُ: مَعَهُ: توشہ دان۔ ج سَلُوفٌ

وَأَسْلَفَ۔

السِّلْفُ: چڑا۔ سِلْفُ الزَّجْلِ: ہم زلف ج
أَسْلَفَ۔

السِّلْفُ: مَعَهُ: قرض۔ ہر عمل صالح پیش کردہ۔
السِّلْفُ: گزشتہ آباء و اجداد۔ و مَذَاهِبُ
السِّلْفِ: حقدین کے مذاہب۔ ج أَسْلَافٌ۔

السِّلْفُ: چڑا۔ ہم زلف۔ زَجْلٌ سِلْفٌ: گزرا
ہوا مرد۔ ج أَسْلَافٌ: أَرْضٌ سِلْفَةٌ: کم درختوں
والی زمین۔

السِّلْفُ: چکور کا چوڑھ۔ ج سِلْفَانُ و سِلْفَانُ۔

السِّلْفَةُ: ہر وہ چیز جس کو خدا سے پہلے وقت
گزاراری کے لئے کھایا جائے۔ کھانا جس کو آنے

والے کے لیے محفوظ رکھیں۔ جماعت حقدین۔
چری موزے کا استر جو باریک چڑے کا ہو۔ ج

سَلْفٌ تنگ سے ہمواری ہوئی زمین۔ کہا جاتا ہے
"جَاؤُوا سِلْفَةً سِلْفَةً" وہ یکے بعد دیگرے آئے۔

السَّلَافُ و السَّلَافَةُ: نچوڑنے سے پہلے جو خود
بخود سے (یہ بہترین شراب ہے) سَلَافٌ

الْعَسْكَرُ: مقدمہ لشکر۔ سَلَافَةٌ كَثَلٌ شَيْءٌ
عَصْرَةٌ: ہر نچوڑی ہوئی چیز کا ابتدائی حصہ۔ ج
سَلَفَاتٌ۔

الْأَسْلُوفَةُ: دامادی۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمْ
أَسْلُوفَةٌ" ان کے درمیان رشہ داری ہے۔

السَّلَافُ: فا۔ گزرا ہوا۔ پیش رفتہ۔ تم کہتے ہو
"كُنَّا ذَلِكَ فِي سَلَفِ الْأَيَّامِ" یہ گزشتہ زمانہ

میں تھا۔ ج سَلْفٌ و سَلَافٌ۔

السَّلَافَةُ: گزری ہوئی۔ گردن کا وہ حصہ جو بالی
لنگنے کی جگہ ہے۔ سَلَافَةُ الْفَرَسِ: گردن کا اگلا

حصہ۔ ج سَوَالِفٌ۔

السَّلُوفُ: مِنَ الْإِبِلِ: گھاٹ پر جاتے ہوئے
آگے آگے رہنے والا اونٹ۔ مِنَ الْخَيْلِ:

تیز رفتار گھوڑا۔ سَنَهُمْ سَلُوفٌ: سب تیز۔ ج
سَلْفٌ۔

السِّلِيفُ: پیش رو۔ جماعت حقدین۔ ج
سَلُوفٌ۔

المُسْلِفُ: بیٹیاں سالہ عورت۔

المُسْلِفَةُ: وہ اوزار جس کو زمین ہموار کرنے
کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جس کا نام بیگا۔ بیگلا۔

سراون ہے۔

المُسْلُوفَةُ: ہمواری ہوئی زمین۔

السَّلْفُ: دیر و فراخ سینہ۔ بیباک و زبان دراز
عورت۔

سَلَقٌ (ن) سَلَقًا: النَّبِيضُ أَوْ النَّبْلُ: اٹلے یا
سبزی اُبلانا۔ جُوش دینا۔ سَلَقَهُ بِالْكَلَامِ: بدزبانی

سے تکلیف پہنچانا۔ قرآن مجید میں ہے

"سَلَقُواكُمْ بِالْبَيْتَةِ جَدِيدًا" تم کو وہ لوگ تیز تیز
زبانوں سے طعنے دیتے ہیں۔ بِالزُّوْمِ: نیزہ

مارنا۔ بِالسُّوْطِ: مار کر کھال اُڈیڑ دینا۔

سَلَقَ اللَّحْمَ عَنِ الْعَظْمِ: گوشت ہڈی سے جدا
کرنا۔ عَلِيْدَهُ كَرْنَا: الشَّيْءُ بِالْمَاءِ الْحَارِّ: گرم پانی

سے بال، اون وغیرہ دور کرنا۔ الدَّابَّةُ
الزَّائِكَةُ: باطن ران کو چھیل دینا۔

الْمَرْأَةُ: توشہ دان پر تیل ملنا۔ النَّبِيُّ
الْتَّبَاتُ: جلا دینا۔ الزَّجْلُ: چت۔ بچاؤ۔ تم

کہتے ہو "أَخَذْنَاهُ لِقَاءَهُ" میں نے اس کو
پکڑا اور چت بچا دیا۔ الْعُوْذِيُّ الْعُوْزِيُّ:

کسی چیز کے دست میں لکڑی لگانا۔ الْقَدْمُ فِي
الظَّرْفِ: قدم کاراستے میں نشان ڈالنا۔

الزَّجْلُ: دیوار چھنا۔

سَلَقَ السِّلْفَةَ وَ عَلِيَهَا: سلیقہ پر پیدا کیا جانا۔
أَسْلَقَ: الْعُوْذِيُّ الْعُوْزِيُّ: کسی چیز کے دست

میں لکڑی داخل کرنا۔ لگانا۔ الزَّجْلُ: مادہ
بھیڑیے کا لکار کرنا۔

تَسَلَّقَ: چت سونا۔ الْجِدَارُ: دیوار پر
چھنا۔ دیوار چھانڈنا۔ عَلِيٌّ فَرَّاشُهُ: وردیا

غم سے تڑپنا۔ بے قرار ہونا۔

إِسْلَقَ: اللِّسَانُ: زبان کا چھیل جانا۔
سَلَقِيْتَهُ سِلْفًا: چت لگانا۔ سَلَفِيْتَهُ

بِالزُّوْمِ: نیزہ مارنا۔

إِسْتَلَقَى: اسْتَلَقَا: وَ اسْتَلَقَى: اسْتَلَقَا: چت
لینا۔ فَعَلَى و افْعَلَى و افْعَلَى: کے اوزان

مطقات رباعی سے ہیں۔)

السَّلَقُ: مَعَهُ: (و السَّلَقُ) زخم کا داغ۔
و السَّلَقُ: ہموار و عمدہ زمین۔ کشادہ راستہ۔ ج

أَسْلَاقٌ و سِلْفَانٌ و سِلْفَانٌ۔

السَّلَقُ: چندر۔ پانی بننے کی جگہ۔ بھیڑیا۔ ج
سِلْفَانٌ و سِلْفَانٌ۔

السِّلْفَةُ: مادہ بھیڑیا۔ ج سَلَقٌ و سَلَقٌ۔
السِّلْفَةُ: زبان دراز عورت۔ لُذِي جُوكَ اَنْذُءُ

دے چکی ہو۔

السَّلَاقَةُ: مِنَ النِّسَاءِ: دو ہتھ مارنے والی۔
داویلا کرنے والی عورت۔ ج سَوَالِقٌ۔

السلّاق۔ زبان کی چڑکی پھسیاں یا دانت کی
بڑوں کی خراش۔ پوٹوں کی موٹائی، سرخی و زخم
کے ساتھ۔

السلّاقۃ۔ بد زبانی۔

السلّاقۃ۔ دواؤں کا جو شانہ۔

السلّاقین۔ راستہ پر قدم وغیرہ کے نشانات۔

السلّوقی و السلّاقی۔ من الکیلاب۔ ایک
خاص قسم کا فکاری کتا۔

السلّوقیۃ۔ السلّوقی کا مؤنث۔ جہاز کے
پہتان کے بیٹھے کی جگہ۔ السلّوقیۃ من
الدّوزع۔ وہ زہر ہے جو عین کے ایک علاقہ سلوق
کی جانب منسوب ہیں۔

السلّاق۔ اسم مبالغہ۔ حَظِیْبٌ (سَلّاقٌ و
مِسلّاقٌ و مِسلّاقٌ) بلع لیکھو۔

السلّاق۔ نصرائیوں کی ایک عید۔ (کلمہ سرانیہ
ہے)۔

السلّیق۔ چھوٹے درختوں کے گے ہوئے
پتے۔ چھتے کی لمبائی میں شہد کی ایک مقدار۔
مِسلّیقُ الظّریق۔ راستہ کا پہلو۔ سَلّیق۔

السلّیقۃ۔ طبیعت۔ ج سَلّاق۔ ابالی ہوئی
سبزی۔

السَّلِیقِیۃ۔ سلیقہ کی جانب منسوب۔ کہا جاتا
ہے "فَلانٌ یَسَلِّقُکُم بِالسَّلِیقِیۃ" اور بغیر کیلئے
ہوئے بالظن منقول کرتا ہے۔ و "اضطرب کلام

العرب و غلبت السَّلِیقِیۃ" یعنی وہ لوگ سلیقہ
سے متفکر کرتے ہیں۔ بغیر اس کے کہ اعراب کا
قصد کریں اور غلطی سے بچنے کا ارادہ کریں۔

السَّلِیق۔ تیز رفتار اونٹنی۔

سَلَّقَد۔ الفرس۔ دیلا کرنا۔

السَّلْقِد۔ دیلا کرنا یا گھوڑا۔

السَّلْق۔ سخت جگہ۔ نر شتر مرغ۔

السَّلْقَع۔ اسلٹقاغا۔ البزق: بجلی کا پرگندہ
کو دنا۔ الحصى: بکریوں کا آتش آفتاب
سے گرم ہونا۔

السَّلْبِقاع۔ پراگندہ کو دنا والی بجلی۔

سَلَّم سَلْمَۃ۔ دانت کڑکڑانا۔

السَّلْم۔ شیر۔ سخت ٹھوڑی اور لمبی ناک والا
اونٹ۔

السَّلْمَۃ۔ مادہ بھینڑیا۔

السَّلْمِیۃ۔ شیر۔

سَلَّمَ (ن) سَلَّمَ و سَلَّوْکَا۔ المکان: داخل

ہونا۔ طریق: راستہ کی اتباع کرتے ہوئے

چلنا۔ و أسلک الشئی فی الشئی: کسی چیز

کو کسی چیز میں داخل کرنا۔

سَلَّمَ المکان و أسلک المکان و فیہ و
علیہ: کسی جگہ میں داخل کرنا۔ و من کلام
المولودین: سبک الغزل: سوت کو چرخیہ پر

چڑھانا۔
إنسلک فی الشئی: کسی چیز میں داخل ہونا۔

السلک۔ لڑی۔ ج سَلَّوْک و أسلک۔

السلک۔ سبک خور یا چکور کا چوزہ۔ مؤنث

سلکۃ ج سلکان۔

السلکۃ۔ سلائی کا دھاگا۔ ج سلک و ج

أسلک و سلوک۔

السلکی۔ نیزہ کی سیدھی ضرب۔ اور کہا جاتا

ہے "أثرهم سلکی" یعنی ان کا معاملہ ایک

طریقہ پر ہے۔

المسلک۔ راستہ۔ ج مسالک۔

المسلکۃ۔ دھجی جو کپڑے کے کنارے سے

پھاڑی جائے۔

المسلکۃ۔ چرخہ۔ (مولد)

المسلک۔ نجف و لاغر۔

سلم (س) سلامۃ و سلافا۔ من غیب او

آفة: نجات پانا۔ بری ہونا لہذا المصال: مخصوص ہونا

اور کہتے ہیں "لأبذی تسلّم ما کان کذا" یعنی

نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جو تمہیں محفوظ رکھتی

ہے "ایسا نہیں تھا اور خطاب کے تشبیہ و جمع "تذکیر

و تانیث کے لحاظ سے "بذی تسلّمان و

تسلّمون و تسلّمین" استعمال کرتے ہیں اور

علیٰ هذا القیاس "أذہب بذی تسلّم" یعنی

سلامتی کے ساتھ جاؤ۔

سَلَّمْتُم (ن) سَلَّمْتُم۔ الحیۃ: سانپ کا ڈنسا۔

سَلَّم (ض) سَلَّمْتُم۔ الجلّد: کھال کو سلم

درخت کے پتوں سے وباغت دینا۔

الدّلّو: ڈول بنانے سے فارغ ہونا اور مضبوط و

عمدہ بنانا۔

سَلَّمْتُم و سَلَّمْتُم عَلَیْہ: السّلام علیک کہا

ہے من الافة: محفوظ رکھنا۔ ہ ابلی

فلان: سپرد کر دینا۔ سَلَّمْتُم بِالْأَمْرِ: راضی ہونا

الئیہ: فرمانبردار ہونا۔ الشئی: خاص

کرنا۔ سَلَّمْتُم الشئی فتلّمْتُم: کسی کو کوئی چیز

سپرد کرنا اور اس کا قبول کر لینا۔

سَلَّمْتُم۔ مصالحت کرنا۔

أسلّم۔ فرمانبردار ہونا۔ دین اسلام اختیار کرنا۔

بیع سلم کرنا۔ العذو: دشمن کو چھوڑ دینا۔

أمرؤہ ابلی اللہ: سپرد کر دینا اور تم کہتے ہو

"أسلّمْتُمہ و سلّمْتُمہ" جبکہ تم کسی کو چھوڑ دو اس

وقت جبکہ کوئی شخص تکلیف پہنچانا چاہتا ہو۔

أسلّم۔ سانپ سے ڈسا جانا۔

تسلّم۔ مسلمان بننا۔ الشئی: قبضہ کرنا

۔ منہ: چیز ہونا۔

تسلّم۔ القوم: باہم مصالحت و موافقت کرنا۔

تسلّمْت الخیل: بغیر لڑے بجزے ساتھ

ساتھ چلنا۔

أسلّم۔ الحجاجو: چھوٹا (سَلْمَۃ) معنی پتھر سے

ماخوذ ہے) بوسہ دینا اور بسا اوقات پتھر کے علاوہ

دوسری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا

کہ تم کہتے ہو "أسلّمْتُم یدّہ" میں نے اس

کے ہاتھ کو چھوا بوسہ دیا۔

الزّورغ: خوش نکلتا۔

أسلّم۔ فرماں بردار ہونا۔

تسلّم۔ مسلمان کہلاتا (یہ مسلم سے ماخوذ ہے

جیسے مسکین سے تسکین)

السلم۔ مہ۔ ایک گوشہ والا ڈول۔ ج أسلم

و سلام سلم میں ایک لغت۔

السلم۔ صلح کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "أنا سلم

لیمن سألنی و حزبت لیمن حازبتنی" میں

صلح کرنے والوں کے لیے صلح جو اور لانے والوں

کیلئے لڑاکا ہوں۔ قوم سلم و سلم: صلح کرانے

والی قوم۔ سلامتی۔ اسلام۔

السلم۔ سلامتی۔ تاجدار ی۔ قید۔ قیدی۔ ایک

قسم کا کانٹا دار درخت جس کے پتوں سے

دباغت دی جاتی ہے اور اسی سے ذو سلم نام

رکھا گیا ہے۔ واحد (سَلْمَۃ)

”أَسْمَحَتْ فَرُوْنَةُ“ یعنی اس کا نفس تابع و فرما ہوا ہو گیا۔

سَمَاحَةٌ فِي الْأَفْرِوِ وَالْأَفْرِوِ: نرم برتاؤ کرنا۔ نرمی کرنا۔ مقصد میں موافقت کرنا۔ ہ بذنبہ: درگزر کرنا۔

تَسْمَحُ وَتَسْمَاحٌ: فنی گنڈا: نرمی برتا۔

السَّمَاخُ: سم۔ بَيْغُ السَّمَاخِ: دو بیج جس میں قیمت گنٹائے میں نرمی ہو۔ کہتے ہیں ”السَّمَاخُ رِيَاخٌ“ یعنی معاملات میں نرمی قطع بخش ہوتی ہے۔

السَّمَاخُ: سم۔ بیجے کاخیمہ۔

السَّمَاخَةُ: السَّمْحُ: کاموٹ۔ جِ سَمَاحُ:

السَّمْحُ: وسعت و فراخی۔

السَّمْحُ: درازیت گھوڑا یا گدھی۔ تہلی کر اور سخت گوشت والا گھوڑا۔

السَّمْحَاقُ: سرکی ہڈی پر باریک جھلی۔

السَّمْحِيثِيُّ: السَّمَاءُ: بالوں کے پتلے گلے۔

اور کہا جاتا ہے عَلِيُّ قُرْبِ الشَّافَةِ سَمَاحِيثِيٌّ مِنَ الشَّمْحِ: بکری کے اوجھ کی چادر پر چہلی کی کچھ جھلی سی ہے۔

سَمْحٌ (ن) سَمْحَةٌ: الزُّوْعُ: کھیتی کا اٹنا۔

سَمْحَةٌ (ف) سَمْحَا: کان کے سوراخ پر چوٹ لگا کر نرمی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”سَمْحِيثِيٌّ بِحِدَّةٍ صَوِيْبِهِ وَكَثْرَةِ كَلَامِهِ“ اس نے آواز کی تیزی اور کثرت گفتگو سے میرے کان کو نرمی کر دیا۔

زُرْعٌ حَمْنٌ (السَّمْحَةُ): اچھی اگنے والی کھیتی۔

السَّمَاخُ: کان کا سوراخ۔

سَمْدٌ (ن) سَمْدٌ: حیران کرا ہونا۔ تھمیر ہونا۔

گانا۔ تکبیر سے سر اٹھانا اور سینہ تانا۔ فی الْعَمَلِ: کوشش کرنا اور تکلیف اٹھانا۔ الْإِبِلُ: اونٹ کا تیز چلنا۔ سَمْدًا: الرَّجُلُ: قصد کرنا۔

سَمْدٌ: الْأَرْضُ: کھاڑا انا۔ الشَّعْرُ: بال کو جڑ سے موڑنا۔ الرَّجُلُ: کھیل کود میں ڈالنا۔ غافل کرونا۔

إِسْمَدٌ إِسْمَدًا وَإِسْمَادٌ إِسْمِدًا

سَمَتْ: راست اختیار کرنا۔ لِلْعَاطِسِ:

یوحکم اللہ کہہ کے دعا کرنا۔ عَلِيُّ الشَّيْءِ: کسی چیز پر اللہ کا نام لینا۔

سَمَاةٌ: مقابل ہونا۔

تَسَمَّتُهُ: قصد کرنا۔

السَّمْتُ: سم۔ راستہ۔ کہا جاتا ہے ”خُذْ فِي بَدَا السَّمْتِ“ اس راستہ کو اختیار کرو۔ جِ سَمُوْتٌ

سَمْتٌ الرَّاسِ فِي عِلْمِ الْهَيْئَةِ: علم ہیئت کی اصطلاح میں کسی کھڑے ہوئے شخص کے سر کی سیدھ میں آسمان کا وہ نقطہ جس پر کمرہ ارض کے مرکز سے نکلا ہوا خط پینچے۔ سمت الراس کہا جاتا ہے اور اس کے مقابل کو سَمْتُ الْقَدَمِ یَا سَمْتُ الرَّجْلِ کہتے ہیں۔ اور سمت کالفظ الہی خیر و صلاح کی ہیئت کیلئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ”مَا أَحْسَنَ سَمْتُ فَلَانٍ“ اس کی ہیئت و حالت کس قدر اچھی ہے۔

سَمْحٌ (ک) سَمَاحَةٌ وَ سَمُوْحَةٌ: قبیح ہونا۔

صَفْتٌ (سَمْحٌ وَ سَمِيْحٌ وَ سَمِيْحٌ) جِ سَمَاحٌ وَ سَمِيْحُوْنٌ وَ سَمْحَاءٌ وَ سَمَاحِيٌّ:

سَمْحَةٌ: قبیح ہونا۔

إِسْتَسْمَحَهُ: قبیح سمجھنا۔

سَمَجْرٌ سَمَجْرَةٌ: اللَّبْنُ: دودھ میں پانی زیادہ ملانا۔

سَمْحٌ (ک) سَمَاحًا وَ سَمُوْحًا وَ سَمَاحَةٌ وَ سَمُوْحَةٌ وَ سَمْحَا: فِیاضٌ وَ خِی ہونا۔

صَفْتٌ (سَمْحٌ وَ سَمِيْحٌ وَ سَمِيْحٌ) جِ سَمَاحٌ وَ سَمِيْحُوْنٌ وَ سَمْحَاءٌ وَ سَمَاحِيٌّ:

”رِجَالٌ وَ نِسَاءٌ سَمَاحٌ وَ سَمْحَاءٌ وَ سَمَاحِيْحٌ“

سَمْحٌ (ف) سَمَاحَةٌ وَ سَمَاحًا: بِكَذَا: بخشش کرنا۔ لَهْ بِالشَّيْءِ: دینا۔ الْغُوْدُ: کڑی کا نرم ہونا۔ الْتَاقَةُ: اونٹنی کا مطیع و تیز رفتار ہونا۔

سَمْحٌ: نرم ہونا اور نرم برتاؤ کرنا۔

الزُّرْعُ: نیزہ کو نرم کرنا۔ الرَّجُلُ: آہستہ چلنا۔ دوڑنا۔ بھاگنا۔

أَسْمَحُ الرَّجُلُ: فِیاضٌ وَ خِی ہونا۔ أَسْمَحَتْ الدَّابَّةُ: سرکشی کے بعد نرم ہونا اور کہا جاتا ہے

بِهِئِ السَّمَامَةَ“ فلاں خوبصورت بدن والا ہے۔

كَمْزَرَاتٍ: جمنا۔ گھوڑے کی گردن کا خوبصورت دائرہ۔ ابابیل کی مانند ایک پرندہ جس کے انڈوں کا حاصل ہونا غیر ممکن ہے۔ اسی وجہ سے عرب کا قول ہے ”كَلَفْتَنِي بَيْضُ السَّمَانِيْمِ“ تم نے مجھ کو تکلیف مالا بطق دی۔

اور ایک قول بَيْضُ السَّمَانِيْمِ کا ہے۔

سَمَانِيْمٌ سَمِيْحَةٌ كِي جمع ہے جس کے معنی سرخ چوٹی کے ہیں۔

السَّمَامُ: زہریلا۔

السَّمَامَةُ: سام کا موٹ۔ خاص۔ کہا جاتا ہے

”عَرَفَ ذَلِكَ السَّمَامَةُ وَالْعَامَةُ“ اس کو خاص اور عام سب جانتے ہیں۔

سَمَامٌ أَبْرُصٌ وَ سَمٌّ أَبْرُصٌ: جھکی۔ ٹھی۔ سَمَامًا

أَبْرُصٌ: جِ أَبَارِصٌ وَ سَوَامٌ أَبْرُصٌ:

يَوْمٌ سَمَامٌ وَ مَسِيْمٌ وَ مَسْمُوْمٌ: گرم ہوا

والادار۔

الْأَسْمُ: الْأَنْفُ: تنگ نھنے والا۔

السَّمَامُ: مِنَ الْجِلْدِ: جسم کے باریک

سورخ اور بعض لوگ۔ اس کو سَمٌّ یعنی سورخ کی جمع قرار دیتے ہیں جیسے صَحَابِيْنٌ حَسَنِيْنٌ كِي جمع۔

أَهْلُ (السَّمْمَةِ): خاص لوگ۔ رشتہ دار۔

سَمَالٌ: الْخَلُّ: کھسی والا ہونا۔

إِسْمَالٌ: إِسْمَالًا: دہلا ہونا۔

الظِّلُّ: کو تہ ہونا۔

السَّمَالُ: سایہ۔

السَّمْوَالُ: سایہ۔ سرکہ کے اوپر کی کھسی۔

ایک شخص کا نام جو فاء عمد کے لیے ضرب المثل ہے۔

السَّمِيْلُ: فا۔ پرانا کپڑا۔

سَمَتْ (ن) سَمَتْ: راست اختیار کرنا۔ راہ

راست پر چلنا۔ گمان سے راستہ پر چلنا۔ سَمَتْ الشَّيْءُ وَ سَمَتْ نَحْوَهُ: قصد کرنا اور اسی سے

ہے ”وَهَنَّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ سَمَامَتْ“ وہ

سب خانہ کعبہ کی جانب قصد کرنے والی ہیں۔

سَمَتْ لَهُمْ: رائے و تدبیر و طریقہ گفتگو کی رہنمائی کرنا۔

کی رات۔	تَسَامَرُ الْقَوْمِ: رات کو باہم باتیں کرنا۔	الزَّجْلُ: غصّے سے پھولنا۔ مَدَّةٌ: ہاتھ کا
الْمَسْتَقِيمُ: رات میں باتیں نہانے والا۔	السَّمْرُ: مہ۔ قَوْمٌ سَمْرٌ: رات کو باتیں کرنے والے لوگ۔	سوجنا۔ الشَّيْءُ ضَالِحٌ ہوتا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ لَكَ (سَفْدًا)" وہ تمہارے واسطے بیخ کے لیے ہے۔
الْمَسْمَارُ: کیل۔ بَخَّ: اونٹوں کا بہتر رکھوالا۔	السَّمْرُ: رات کو باتیں نہانے والا۔ جِ أَسْمَارٌ:	السَّمَادُ: کھاو۔
جِ مَسَامِيرٍ۔	رات کی تاریکی۔ کہا جاتا ہے "لَا آتِيكَ	السَّمَادُ: فَا- وَظَلَبَ سَامِدًا: بھری ہونے سے
الْمَسْمُورُ: کم گوشت، مضبوط پٹھوں والا۔	مَسْمَرًا" میں اس کے پاس رات کو نہیں آؤں گا۔	کھڑی منگ۔
مَكْدَرَزْدِ گَانِي۔	رات کی گفتگو۔ چاند کا سایہ اور کبھی سر قرعے	إِسْمَدٌ وَإِسْمِدٌ: آڑا۔ نگاہ کمزور ہونا۔
السَّمْرَاءُ أَسْمَرٌ كَامُونَثٌ: گیوں۔ گیوں کا	مقابلے میں بولتے ہیں جہاں سایہ ہو اس کو سَمْرٌ	السَّمْدُورُ: آٹھ کار پرہ۔ بادشاہ (اس وجہ سے
آٹا جس سے بھوسی جہدائی گئی ہو۔	اور جہاں چاندنی ہو اس کو قمر کہتے ہیں۔ زباند۔	کہ اس کی طرف دیکھنے سے آنکھیں خیرہ ہو جاتی
السَّمِيرِيَّةُ: ایک قسم کی کشتی۔	رات کو باتیں کرنے والوں کی مجلس۔ اور	ہیں۔)
مَسْمُوتٌ: السَّمْرُوتُ: لمبا (السَّمْرُودُ) لمبا۔	"حَلَقْتُ بِالسَّمْرِ وَالْقَمَرِ" و "لَا آتِيكَ	السَّمَادِيَّةُ: نشا یا بیوشی یا دوران سر کی وجہ
السَّمْرُوتُ: ایک قسم کا پرندہ جو ٹڈیوں کا بہت	السَّمْرُ وَالْقَمَرِ" و "لَا أَكْمَلُ السَّمْرَ وَالْقَمَرَ"	سے نگاہ کی کمزوری۔
شکار کرتا ہے اور ٹڈیاں اس کی آواز سے بھاگتی	ان سب ترکیبوں میں "مَدَّةٌ وَجُودُ السَّمْرِ	السَّمْتَدِرُ وَالسَّمْتَدِرُ: ایک جانور جو پانی اور
ہیں۔ السَّمْرُوتَةُ: بھوت۔	وَالْقَمَرِ" معزوف ہے۔ مراد بیگلی ہے۔	شکل میں رہتا ہے اور کہا گیا ہے کہ اس کے جسم پر
السَّمْرُوتَةُ: دلال ہوتا۔	السَّمْرُوتَةُ: رات کی گفتگو۔	کچھ ایسا مادہ ہوتا ہے جو آگ بجھا دیتا ہے اور اسی
الْمَسْمَارُ: دلال۔ چیز کا مالک و منتظم۔	السَّمْرُ: بھول کا درخت۔ جِ أَسْمَرُ: واحد	بتا کر لوگوں کا خیال ہے کہ وہ جلتا نہیں۔
سَمْسَارُ الْأَرْضِ: زمین کا ماہر۔ جِ سَمْسَارِيَّةٌ وَ	السَّمْرُوتَةُ)	السَّمْتَدِجُ: فِاضِ سُرور۔ شریف بہادر
سَمْسَارِيَّةٌ۔	السَّمَامِيرُ: فَا- جِ سَمْرٌ وَسَمَارٌ: رات کو باتیں	بھیڑنا۔ کھوار۔ جِ سَمَادِجُ۔
السَّمْسُوتَةُ: مہ۔ دلالی کا پیشہ۔ دلالی کی اجرت۔	کرنے والوں کی مجلس۔ تم کہتے ہو "أَفْسَيْتُ	السَّمِيدُو السَّمِيدُ: سفید آٹا۔
السَّمْسِقُ وَالسَّمْسِقُ وَالسَّمْسِقُ	الْبَارِحَةَ فِي سَامِيرِ الْحَيِّ" میں گزشتہ رات قبیلہ	سَمْرٌ (ان) سَمْرًا: العَيْنُ: گرم سلائی سے
وَالسَّمْسِقُ: جنسی۔ مرزنجوش۔	کی مجلس گفتگو میں تھا۔ وَالسَّمَاةُ: اسم جمع	آٹھ چوڑا (۔ سَمْرًا وَسَمْرُوتًا) رات میں
السَّمْسَمُ: القَلْبُ: لومڑی کا دوڑنا۔	بمعنی رات کو باتیں کرنے والے۔	یقینہ گوئی کرتا۔ کہا جاتا ہے "لَا أَفْعَلُهُ مَا سَمْرٌ
السَّمْسَمُ: لومڑی۔ بھیڑنا۔ زہر۔	السَّمَامُورُ: ہیرا۔	السَّمِيرُ أَوْ ائِنَّ سَمِيرٌ وَإِنَّا سَمِيرٌ" میں اس کو
السَّمْسَمُ: سرخ جیوتی۔ جیوتی جیوتی۔ واحد	الْأَسْمَرُ: نیزہ۔ ہرن کا دوڑ۔ کہا جاتا ہے "عَامٌ	جب تک لوگ یقینہ بیان کرتے رہیں گے نہیں
السَّمْسَمَةُ: ہلکا ہلکا مرد۔ جِ سَمَسَمُ۔	أَسْمَرٌ" بھیڑ پارش کا خشک سال۔	کروں گا یعنی کبھی نہیں کروں گا۔
رَجُلٌ (مَسْمُومٌ) الْوَجْهَ: خاندان چرب والا	الْأَسْمَرَانِ: پانی اور گیوں پانی اور نیزہ۔	سَمْرٌ (ان) سَمْرًا وَسَمْرُوتًا: اللِّينُ: دوڑ
مرد۔	السَّمْرُوتُ: تیز رفتار۔ اصل ماؤنٹی۔	کو پانی مار کر پٹا کرنا۔ العَمْرُ: شراب پینا
السَّمَطُ (ان) سَمَطًا: الزَّجْلُ: چپ رہنا۔	السَّمْرُوتُ: ایک جانور جو نولے کے شاخ اور	التَّبَاتُ: گھاس چرنا۔ النَّابُ وَغِيْرُهُ: دروازے کو بچ سے۔ سَبُوطٌ کرنا۔ السَّمْمُ:
عَلَى الِيجْمِيْنِ: قسم کھانا۔ اللِّينُ: مٹھاس	اس سے کچھ بڑھا ہوتا ہے اور رات سرخ سینی	تیر چلاتا۔
میں تعمیر ہوتا۔ صفت (سماوٹ)	ماکل ہوتا ہے اور اس کی کھال سے مت پیش	سَمِيرٌ (س) وَسَمْرٌ (ک) سَمْرُوتَةُ إِسْمَرٌ
السَّمَطُ: (ان) سَمَطًا: الجَدْمِ: بکری	قیمت پوٹتین تیار ہوتی ہے اور اب اوقات اس	إِسْمَرًا أَوْ إِسْمَارًا إِسْمِيرًا: سفیدی۔ سیاہی
کے بچہ کو بالوں سے صاف کر کے بھوننا۔	جانور کی کھال کو بھی سَمْرُوتُ کہتے ہیں۔ جِ	کے درمیان رنگ والا ہوتا۔ گندم گوں ہونا۔
السَّمِيْكِيْنُ: چھری تیز	سَمَامِيْرُ۔	صفت (أَسْمَرٌ) مَوْنَثُ سَمْرَاءُ: جِ سَمْرُوتَةُ۔
کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَمَطْتُ الزَّجْلَ يَمِيْنًا عَلٰی	السَّمِيْرُ: رات کو باتیں نہانے والا۔ رات کا یقینہ	سَمَارُوتَةُ: رات کو باتیں کرتا۔ رات کو یقینہ گوئی
حَقِيْقِي" میں نے مرد کو اپنے حق پر قسم کھلائی۔	گو۔ زباند۔ اِنْتَا سَمِيْرٌ: دن اور رات۔ کہا جاتا ہے	کرنا۔
السَّمَطُ: چپ رہنا۔ السَّمِيْكِيْنُ: لومڑی	"لَا أَفْعَلُهُ سَمِيْرٌ اللَّيْلِي" میں اس کو کبھی نہیں	تَسْمَرُوتُ: بچ لگنے سے مضبوط ہونا۔
ہونا۔ زمین کے قسم سے لگانا۔ السَّمَايُوتُ:	کروں گا۔ اور کہا جاتا ہے "إِنَّ سَمِيْرٌ" ہے چاند	
السَّمَطُ: اشعار لقم کرنا (دیکھو السَّمَطُ)		

”سَمَطٌ لَصِيذَةٌ فَلَانٌ“ کسی کے قصیدہ کے اشعار کے ہر ہر شعر کے مصرعوں میں اپنی جانب سے ایک مصرعہ بڑھانا۔
اَسْمَطُ چپ ہونا۔
تَسْمَطُ الشَّيْءُ بِهِ يَلْكُهُ۔

السَّمَطُ - لڑی جس میں مرہ یا موتی پروئے ہوئے ہوں۔ زین کا تسمہ جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے۔ کہا جاتا ہے ”عَلَقَهُ بِسَمَطٍ سَرْجِيهِ“ اس نے اس چیز کو زین کے تسموں سے لٹکایا۔
مِنَ الْعِمَامَةِ: بگڑی کا شملہ۔ گلوبند (زیور) سے لہا ہار۔ السَّمَطُ مِنَ التِّيَابِ: چادر کے نیچے نمایاں ہونے والا کپڑا۔ مِّنَ الزَّمَلِ: ریت کی لکیر۔ زَجَلٌ: سَمَطٌ، ہلکا ہلکا چالاک مرد۔ ج سَمُوطٌ۔

السَّمَطُ - مہ۔ فقیر۔
السَّمَطُ - اونٹنی۔
نَعْلٌ (سَمَطٌ وَأَسْمَاطٌ) اکرے چڑے کا جوتا۔
نَاقَةٌ سَمَطٌ وَأَسْمَاطٌ: بے داغ کی اونٹنی۔
سَرَاوِيلٌ أَسْمَاطٌ: اکریا جامد۔

السَّمَاطُ - فاماءٌ سَامِطٌ: جوش دیا ہوا پانی جو کسی چیز سے بال وغیرہ صاف کر دے۔

السَّمَاطُ - صف بستہ چیز۔ دسترخوان۔ سَمَاطٌ الظُّرَيْقُ: راستہ کے دونوں جانب۔ سَمَاطٌ الْقَوْمِ: قوم کی قطار۔ ج سَمُطٌ اور کہا جاتا ہے ”هَمَّ عَلَيَّ سَمَاطٌ وَاحِدٌ“ وہ ایک نظام میں ہیں۔

السَّمِيْطُ - بال صاف کر کے بھونا ہوا بکری کا بچہ۔ مرد سبک حال۔ فقیر۔ بچتہ اینٹوں کا روہ۔ نَعْلٌ سَمِيْطٌ: ایک چڑے کا جوتا۔
السَّمِيْطُ - بچتہ اینٹوں کا روہ۔

السَّمِطُ - مِّنَ الشُّعْرِ: وہ شعر جو ۱۷۱۶ء عروض پر ہو اور قافیہ کے حروف روئی کے علاوہ دوسرے قافیہ پر ہو اور کہا جاتا ہے ”حُكْمُكَ مُسَمَّطًا“ تمہارا حکم پورا کیا ہوا ہے۔ تم پر کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی تقدیر یہ ہے ”لَكَ حُكْمُكَ مُسَمَّطًا“ اور مُسَمَّطًا حالت کی وجہ سے منسوب ہے۔ ”هُوَ لَكَ مُسَمَّطًا“ وہ تمہاری لیے خوشگوار ہے۔ و ”خُذْ حُكْمَكَ“

مُسَمَّطًا“ تم اپنے حکم کو جاری کرو جو رو نہیں ہوگا۔

السَّمِيْظُ - ایک قسم کا پرندہ جس کی گردن لمبی ہوتی ہے اور ہمیشہ اُٹھنے پانی کے قریب دکھائی دیتا ہے۔

سَمِعَ (س) سَمِعًا و سَمِعًا و سَمَاعًا و سَمَاعَةً و سَمَاعِيَّةً و مَسْمَعًا۔ الصَّوْتُ: سنا۔ صفت (سَامِعٌ) ج سَمَاعٌ و سَمْعَةٌ و سَامِعُونَ لَهٗ اللّٰهُ: قبول کرنا۔ مَنَعُوْهُ: دینا۔ اَلَيْهِ: کان لگانا۔ تَوَجَّهَ: سَمِعَ: مَسْمَعَةٌ الصَّوْتُ: سنا۔ سَمِعَ بِهِ: محبوب کو پھیلانا۔ رَسَمًا: کرنا۔ بَرِي يَاتِيْنَ سَنَا اور گالی دینا۔ سَمِعَ بِكَذَا: کسی کے متعلق کوئی چیز پھیلانا۔

بِفُلَانٍ فِي النَّاسِ: شہرت دینا۔
أَسْمَعُهُ: سنا۔ گالی دینا۔ ذُلٌّ مِّنْ دَسْتِ لَكَ: تَسْمَعُ وَإِسْمَعُ: الرَّجُلُ وَالْيَهُ: کان لگانا۔ تَسْمَاعٌ: بِهٖ النَّاسُ: کسی کے متعلق لوگوں کا ایک دوسرے سے سنا۔

إِسْتَمَعُ - لَهٗ وَالْيَهُ: کان لگانا۔
إِسْتَمَعْتُهُ: سنا۔
السَّمْعُ - مہ۔ سننے کا حاسہ۔ کان۔ سنی ہوئی بات۔ سنا ہوا ذکر۔ ج أَسْمَاعٌ وَأَسْمَعٌ وَجِجَ أَسْمَاعٌ وَأَسْمَاعِيْعٌ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ فَمَاتِيْنٌ سَمِعُ الْأَرْضِ وَبَصَرُهَا“ جبکہ کوئی نہ جانتا ہو کہ کہاں گیا یا ایسی زمین میں ہو جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ ”أَلْقَى نَفْسَهُ بَيْنَ سَمْعِ الْأَرْضِ وَبَصَرُهَا“ اس نے اپنے آپ کو ایسی جگہ میں ڈال دیا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔

نَمِيْنٌ - ”سَمْعَكَ الْيَهُ“ میری بات سنو۔ میری طرف توجہ کرو۔ و ”سَمِعَ أَذْنِيْنَ فَلَانًا يَقُوْلُ ذٰلِكَ“ فلاں کو یہ کہتے ہوئے میرے کانوں نے سنا اور کہتے ہیں ”سَمِعَ أَذْنِيْنَ وَ سَمْعَةً أَذْنِيْنَ وَ سَمْعَةً أَذْنِيْنَ“

أَمَّ السَّمْعُ: دماغ۔
السَّمْعُ - اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے ”رَجُلٌ سَمِيْعٌ“ اچھی شہرت کا مرد۔ و ”هَذَا أَمْرٌ ذُو سَمْعٍ“ یہ سننے کے لائق ہے اور جب کوئی آدمی کسی غیر پسندیدہ خبر کو سنتا ہے تو کہتا ہے ”سَمِعَا“

لَا يَلْعَنُ أَوْ سَمْعًا لَا يَلْعَنُ“ یعنی خدا کرے کہ سنی جائے اور پچھنے نہیں۔ السَّمْعُ: بھیرے کا پتھر جو سے۔ مَوْنُثٌ (سَمْعَةٌ) اس کی قوت سامعہ بہت تیز ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے مثال ہے ”هُوَ أَسْمَعُ مِّنْ سَمْعٍ“

السَّمْعَةُ سَمِعَ كَالسَّمْعَةِ مَرَّةً - أَذُنٌ سَمْعَةٌ: سننے والا کان۔ کہا جاتا ہے ”فَعَلَهُ رِيَاءً وَ سَمْعَةً“ اس نے یہ کام دکھانے اور سنانے کے لیے کیا۔
السَّمْعَةُ: شہرت۔ سنی ہوئی بات۔ کہا جاتا ہے ”فَعَلَهُ رِيَاءً وَ سَمْعَةً“ اس نے یہ کام دکھانے اور سننے کے لیے کیا۔
السَّمْعُ - مہ۔ شہرت۔ گیت اور اصطلاح میں سماع غلاب قیاس کو کہتے ہیں یعنی جس کو عرب سے سن کر استعمال کیا جائے اور اس پر قیاس نہ کیا جاسکے اور کہا جاتا ہے ”هَذَا أَمْرٌ ذُو سَمَاعٍ“ اسے امر سننے کے قابل ہے۔ و ”قَالُوا ذٰلِكَ سَمَاعٌ أَذْنِيْ“ لوگوں نے اس کو میرے سامنے کیا۔
سَمَاعٌ: بروزن نظام اسم فعل۔ بمعنی اَسْمَعُ۔
السَّمَاعُ: بہت سننے والا۔ فرمانبردار۔ جاسوس۔
السَّمِيْعُ: سننے والا۔ سنانے والا۔
اللّٰهُ تَعَالَى كَسَمَاعٍ حَسِيٍّ مِّنْ سَمْعٍ - سنی ہوئی بات۔ ج سَمْعًا - أَمُّ السَّمِيْعِ: دماغ۔ أَذُنٌ سَمِيْعٌ وَ سَمِيْعَةٌ: سننے والا کان۔
السَّمَاعِيْعَانِ - دونوں کان۔
أَذُنٌ (سَمْعَةٌ وَ سَمْعَةٌ وَ سَمْعٌ وَ سَمِيْعٌ وَ سَمَاعَةٌ) سننے والا کان۔ السَّمَاعَةُ: ایک آلہ کا نام جو سننے کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔
التَّسْمِيْعَةُ: کہا جاتا ہے ”فَعَلْتُهُ تَسْمِيْعَتَكَ“ او تَسْمِيْعَةً لَكَ“ میں نے اس کو کیا ہے تاکہ تم سن سکو۔
السَّمِيْعُ: سننے کی جگہ۔ کہا جاتا ہے ”هُوَ مَنِيْ بِقُرْأِيْ وَ مَسْمَعٌ“ یا ”هُوَ مَنِيْ قُرْأِيْ وَ مَسْمَعٌ“ وہ ایسی جگہ ہے کہ میں اس کو کچھ سکتا ہوں اور اس کی باتوں کو سن سکتا ہوں۔
المَسْمَعُ وَ المَسْمَعَةُ: کان۔ ج مَسَامِيْعُ: ڈول کا دستہ جس میں رسی باندھی جاتی ہے۔
السَّمِيْعُ - قاید۔

استعمال کرتی ہیں۔

السَّمِينُ - مونا _____ مِنَ الْكَلَامِ : باوق
مفتگو۔السَّمِينَةُ - السَّمِينِ کا مؤنث۔ ج سیمان۔
أَرْضٌ سَمِينَةٌ : بغیر خروالی زمین۔

المُسْمِينُ پیدا کی مونا۔

طَعَامٌ مُسْمِنٌ (مُسْمِنَةٌ) مونا کرنے والی خوراک۔

السَّمَانِيُّ - بٹیر کی قسم کا ایک پرندہ۔ واحد و جمع
دونوں کے لیے اور کہا گیا ہے کہ واحد (سَمَانَاةٌ)

ہے۔ ج سمانیات۔

السَّمَنْجُونِيُّ - آسمانی رنگ والا۔ (جدید)

السَّمَنْدُو السَّمَنْدَلُ والسَّمَنْدَلُ - ایک قسم کا
پرندہ۔سَمَةٌ (ف) سَمُوْهَا۔ مدہوش ہونا _____
الْفَرْشُ : گھوڑے کا بغیر تھکن کے بہت تیز

دوڑنا۔

سَمَّةٌ - الإِبِلُ : بیکار چھوڑنا۔ صفت مفعولی
(سَمَّةٌ)

السَّامِہُ - جِیران۔ ج سَمَنَةٌ۔

السَّمْهِيُّ - فضاء آسمانی۔ ترمرے (یعنی وہ چیز جو
گرمی کے زمانہ میں فضاء آسمانی سے کڑی کے
جالے کی مانند اترتی ہوئی معلوم ہوتی ہے)(_____) والسَّمْهَةُ والسَّمْهِيُّ والسَّمْهِيُّ
والسَّمْهَاءُ والسَّمْهِيَّاءُ، جھوٹی اور باطل

چیزیں۔

سَمْهَجٌ - كَلَامَةٌ : جھوٹ بولنا۔ الحَيْثُ :
رسی مضبوط بنا _____ الشَّيْءُ : چھوڑنا۔_____ الدَّرَاهِمُ : رواج دینا _____ اليَمِينُ : قسم
میں تختی کرنا۔

السَّمْهَاجُ - جھوٹ۔

السَّمْهَدُ السَّمَامُ : کوبان کا بڑا ہونا۔

السَّمْهَدُ - خُطْبٌ وَخَتٌ جِزْجِزٌ۔

السَّمْهَدُ وَالسَّمْهَدُ - بڑے ڈیل ڈول کا
اونٹ۔السَّمْهَرُ - مضبوط و سخت ہونا۔ نیزہ کی طرح
سیدھا ہونا _____ الظَّلَامُ : بہت اندھرا ہونا۔السَّمْهَرِيُّ - مضبوط نیزہ۔ کہا جاتا ہے "ذَمِخٌ"
سَمْهَرِيٌّ وَرِمَاحٌ سَمْهَرِيَّةٌ" فَذُ سَمْهَرِيٌّ

محتدل قدر۔

سَمًا يَسْمُو سَمُوًّا - بلند ہونا _____ البَصْرُ :
انہنا۔ کہا جاتا ہے "سَمُوْتُ إِلَيْهِ بَصْرِيٌّ" اس کیطرف میں نے نگاہ اٹھالی" و "سَمًا إِلَيْهِ بَصْرِيٌّ"
اس کی طرف میری نگاہ اٹھی۔ و "نَفْسُهُ تَسْمُو"
إِلَى مَعَالَى الْأُمُورِ" اس کا نفس بڑے بڑے امورکی طرف مائل ہے _____ یہ : بلند کرنا _____
الْقَوْمُ : فکار کیلئے جانا (سَمًا يَسْمُو سَمُوًّا)

الزَّجْلُ زَيْدًا أَوْ يَزِيدُ : نام رکھنا۔

سَمِيٌّ - الزَّجْلُ زَيْدًا أَوْ يَزِيدُ : نام رکھنا _____
الشَّارِعُ فِي الْعَمَلِ : کام شروع کرنے والے کا

اللہ کا نام لیتا۔

أَسْمَى - الشَّيْءُ : بلند کرنا _____ الزَّجْلُ زَيْدًا
يَزِيدُ : نام رکھنا _____ هَمِينٌ بَلَدٌ إِلَى بَلَدٍ : روانہ

کرنا۔

سَامِيٌّ مَسَامَاةٌ - الزَّجْلُ : فخر کرنے میں مقابلہ
کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ لِأَيْسَامِيٍّ" فلاں سے فخر

میں مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

تَسَامِيٌّ تَسَامِيًّا - الْقَوْمُ : باہم فخر کرنا۔ ایک

دوسرے کو نام لے کر پکارنا _____ عَلَى الْخَيْلِ
گھوڑے پر سوار ہونا۔تَسْمِيٌّ - نام پانا _____ إِلَى وَبِالْقَوْمِ : منسوب
ہونا۔إِسْمَعِيٌّ إِسْمَاعِيًّا - الضَّائِدُ : فکار کی جرائیں
پہننا۔ فکار کرنا _____ ہ : کسی کی زیارت کو جانا۔ کسی

کے اندر خیر و صلاح معلوم کرنا۔

إِسْتَسْمِيٌّ إِسْتَسْمَاءً - نام پوچھنا۔

السَّامِيٌّ - فَاجِ سَامُونٌ وَ سَمَاءَةٌ - مؤنث
صامیۃ۔ ج سَامِيَّاتٌ وَ سَوَامٌ - کہا جاتا ہے"رَدَدْتُ مِنْ سَامِيٍّ طَرَفَهُ" یعنی میں نے اس کے
نخوت و غرور کو توڑ دیا۔ السَّامِيُّ : فکار کی اولیٰ

جراہ پینے ہوئے فکار۔ ج سَمَاءَةٌ۔

السَّمَاءُ - آسمان۔ فضاء واسع جو زمین کو احاطہ
کئے ہوئے ہو۔ ہر وہ چیز جو تم سے اوپر ہو۔ گھوڑےکی پیٹھ۔ ہر چیز کی چمت۔ بارش۔ بادل۔ گھاس۔
نیوں کی روحوں کے رہنے کی جگہ۔ ج سَمَاوَاتُوَسَمَوَاتُ (الف کو صرف کتابت میں حذف کر
کے) وَ سَمِيٌّ وَ أَسْمِيَّةٌ (_____ وَ السَّمَاوَةُ) گھر کا

سَمَجْرٌ - وَ سَمَاوَةٌ كُلُّ شَيْءٍ : ہر چیز کا اٹھانچہ۔

السَّمَاءُ - اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے "شَاعَ
سَمَاءُهُ" اس کی شہرت و نیک نامی پھیل گئی۔الاسْمُ وَالْأَسْمُ - نام۔ وہ لفظ جو کسی جو ہر یا
عرض کی تعیین و تمیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اس کا

ہمزہ ہمزۃ وصل ہے۔ ج أَسْمَاءُ وَأَسْمَاءُ وَ

أَسْمَاءِيٌّ وَأَسْمَاوَاتٌ اِدْرَبَسْمَلَةٌ میں ہمزہ کو
حذف کر دیتے ہیں اور دوسری جگہ باقی رکھتےہیں۔ بَسْمَلَةٌ کے معنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ
الرَّحِیْمِ۔

اسم الجلالة : باری تعالیٰ کا نام۔

السَّمُّ وَالسَّمُّ وَالسَّمُّ - اسم کے لغت۔ کہا
جاتا ہے "هَذَا سَمٌّ" یعنی یہ اس کا نام ہے۔السَّمِيٌّ - بلند ہونے والا۔ سَمِيْكٌ : بہنام
نظیر۔

السَّمْوِيُّ - اسم کی جانب منسوب۔

السَّمْمَاءَةُ - فکار کی اولیٰ جراب۔

السَّمْسِيُّ - مفع۔ مبین۔ کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ
سَمْسِيٍّ قَوْمِهِ وَمِنْ سَمْسِيَّاتِهِمْ" وہ قوم کے

بہترین لوگوں میں سے ہے۔

سَمَّنَ (ن) سَمَّنًا - السَّيْكِيْنَ : چھری تیز کرنا۔

"هَذَا أَيْضًا يَسْتَكُ عَلَى طَعَامٍ" یہ ان چیزوں
میں سے ہے جو تمہیں کھانے کی رغبت دلاتی ہے_____ الزَّمِيخُ : تیر پر پھل لگانا _____
الْأَسْتَانُ : سواک کرنا _____ الْعُقْدَةُ : گرہکھولنا _____ الإِبِلُ : اونٹ کو تیز بانگنا _____
الزَّجْلُ : کسی کو بھلا مارنا۔ دانت سے کاٹنا۔ دانتتوڑنا۔ حد سے زیادہ تعریف کرنا _____ الْأَمْرُ :
ظاہر کرنا۔ آسان کرنا۔ جاری کرنا۔_____ الظَّرِيْفَةُ : طریقہ اختیار کرنا _____
عَلَيْهِمْ السَّمَةُ : طریقہ مقرر کرنا _____الطَّيْنُ : مٹی کا برتن وغیرہ بنانا _____ الشَّيْءُ :
تصویر بنانا _____ الصَّاءُ أَوْ الثَّرَابُ : پانی یا مٹی

آہستہ آہستہ گرانہ۔

_____ الْعَيْنُ الذَّمْعُ : آنکھ کا آنسو بہانا _____
الْأَمِيْرُ عَيْنُهُ : بہتر نظام کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَمَّنَفَلَانٌ ظَرْفًا مِّنَ الْخَيْزُرِ" فلاں نے خیر کا طریقہ
جاری کیا جس کو اس کی قوم پہلے سے نہیں جانتی

(دخیل)

السُّنْحَةُ - سیاہ سفید رنگ (قُوْبُ مُسْتَنْحٍ) سیاہ سفید دھاری دار کپڑا۔

السُّنْحَابُ وَالسُّنْحَابُ - چوہے سے بنا ایک جانور جس کی ذم بہت کھے دار بالوں سے اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے اور اس کی کھالوں سے پوشین بناتے ہیں۔

السُّنْحِقُ - جھنڈا - ج سَنَاحٍ - جہد - جدید۔

سَنَحٌ (ف) سَنَحًا وَسَنَحًا وَسُنُوحًا - الْأَهْزُ اَوِ الزَّائِي - بچش آنا - ظاہر ہونا - سوچنا۔

لِنِي السُّعُزُ - آسان ہونا - بِكَذَا - اشارہ سے سمجھانا - الرَّجُلُ عَنِ زَايِهِ - رائے سے پھیرنا۔

بِهِ وَعَلَيْهِ - تجلّی ذاتا - تکلیف پہنچانا۔

(سَنُوحًا وَسَنَاحًا وَسَنَاحًا وَسُنُوحًا) - الطَّيْرُ اَوِ الظَّنْبِيُّ - پرندہ یا ہرن کا بایں سے دائیں طرف گزرتا۔

تَسَنَّحٌ - مِنَ الرِّبْحِ - ہوا کی طرف پشت پھیرنا۔ تَسَنَّحَهُ وَاسْتَسَنَّحَهُ - عَنْ كَذَا - کھود کرید کرنا۔

السُّنْحُ - مہ - برکت - مِنَ الظَّرْفِ قِي - وزمیانی راہ۔

السَّنَاحُ - فَا بَئِیں جَانِبٍ سَے آنے والا اور اس کے مقابلہ میں بَارِحٌ ہے۔ جس کے معنی ہیں دائیں جانب سے آنے والا۔ عرب "سَنَاحٌ" سے نیک ٹھکون اور "بَارِحٌ" سے بد ٹھکون لیا کرتے تھے۔ اور اسی سے مثال ہے "مَنْ لِنِي بِالسَّنَاحِ بَعْدَ الْبَارِحِ" یعنی میرے لیے منحوس کے بعد مبارک کا ضامن کون ہوگا۔ اس کو کردہ کے بعد محبوب کی توقع کے موقع پر بولتے ہیں۔

السَّنِيجُ - بَئِیں جَانِبٍ سَے آنے والا - مَوْتِي - زبور - ج سُنْحٍ۔

السُّنْحُ - رات کو نہ سونے والا۔

سَنَحٌ (ف) سَنُوحًا فِي الْعِلْمِ - رَاحٌ ہوتا۔

سَنَحٌ (ف) سَنَحًا - بگڑنا - مَخِيرٌ ہونا - صفت (سَنَحٌ) مَوْتٌ سَنِيحَةٌ - مِنَ الطَّعَامِ -

بہت کھانا - الْقَمُّ - دانتوں سے خالی ہونا۔

أَسْتَانَهُ - دانتوں کی جڑوں کا تاجہ ہونا۔

السُّنْحُ - اصل - مِنَ السِّنِّ - دانت اگنے کی جگہ - ج أَسْنَاخٌ وَسُنُوحٌ - سَانِعٌ الْبَيْضُ - پھل کا اتا حصہ جو تیر کے اندر داخل ہو - سُنْحٌ الْكَلِمَةُ - کلمہ کا اصل ماخذ - سِنْحُ الْخُفَى - بخار کی تیزی۔

السُّنْحُ - اَوْتٌ -

السُّنْحُ وَالسُّنْحَةُ - بَدْوَارٌ ہوا۔

سَنَدٌ (ن) سَنَدًا وَاسْتَنَدَ وَسَنَانِدٌ - إِلَيْهِ - اعتماد کرنا - بھروسہ کرنا - سَنَدٌ فِي الْجَبَلِ - پہاڑ پر چڑھنا - سَنَدٌ لِلْأَرْبَعِينَ - چالیس کے قریب ہونا - سَنَدٌ ذَهَبٌ النَّاقَةِ - اونٹنی کے دم کا دائیں بائیں سرین پر لگانا۔

سَنَدٌ - سَنَدٌ (ایک قسم کی چادر) اوڑھنا۔

السُّنْيُ - نیک لگا کر مضبوط کرنا۔

مَسَانِدٌ مُسَانِدَةٌ وَسِنَادٌ - شِعْرُهُ وَفِي شِعْرِهِ - شعر میں مختلف ردیف لانا - الرَّجُلُ - مَدَدٌ كَرْنَا - هَ عَلَي الْعَمَلِ - کفایت کرنا - هَ إِلَى السُّنْيِ - نیک لگانا۔

أَسْنَدٌ فِي الْجَبَلِ - پہاڑ پر چڑھنا - وَفِي الْجَبَلِ - پہاڑ پر چڑھانا - فِي الْعَدْوِ - دوڑنے میں کوشش کرنا - أَسْنَدَهُ إِلَى السُّنْيِ - نیک لگانا۔

السَّنَدُ - ایک قسم کی چادر - سَنَارٌ اَوِ مَوْلَدِيْنِ كَے نزدیک - بَعْضِي دَسْتَاوِزِ مُسْتَعْمَلٌ ہے - ج سَنَدَاتٌ پہاڑ کا وہ حصہ جو تمہارے مقابل ہو - ج أَسْنَادٌ۔

السَّنْدَةُ - ایک قسم کی نباتات۔

السَّنَادُ - قَائِمٌ كَا بَرِيْبٍ جُو حَرْفِ رُوِي سَے پہلے ہوتا - نَاقَةُ سِنَادٌ - ایسی ناگھوں والی اونٹنی - دُبِي قُوِي - الْاِسْتِنَادُ - مہ - عِنْدَ اَهْلِ الْمُنَاطَرَةِ - حَوَالہ دینا - ج اَسَانِيْدُو الْاَسْنَادُ فِي عِلْمِ الْعَرَبِيَّةِ - دو کلموں کے درمیان نسبت تامہ واقع کرنا جیسے جتدا و خربا فعل و فاعل کے درمیان نسبت - جیسے زَيْدٌ قَائِمٌ وَقَامٌ زَيْدٌ۔

السَّنَدَانُ - نہائی - اِہْرَن - ج سَنَادِيْنِ (دخیل)

السَّنَدَانُ - بڑا اور مضبوط مرد - قُوِي بھیرنا۔

السَّنْدَانَةُ - گدھی۔

السِّنْدِيَانُ - شاہ بلوط کا درخت - وَاحِدٌ

(سِنْدِيَانَةُ) فارسی کلمہ ہے۔

السِّنْدُ - لے پالک - مَن بُولَايِنَا۔

السِّنْدُ - مِنَ الْخَلْدِيْتِ - جس کی سندا قائل تک پہنچائی جائے۔ ج مَسَائِدٌ وَ مَسَائِنِدٌ۔

السِّنْدُ - ایک قسم کا طرز تحریر جس کو بَشُو حَمِيْرٍ استعمال کرتے تھے۔ مَن بُولَايِنَا - زَمَانہ۔

السِّنْدُو الْعِسْتَدُ - جس پر نیک لگائی جائے۔

ج مَسَائِدٌ - کما جاتا ہے "مَخْرَجُ الْقَوْمِ (مَسَائِدِيْنِ) الْاَوَّلُ" مختلف جمہدوں کے نیچے ہو کر نکلے۔ کسی ایک امیر کے تحت میں نہیں تھے۔

السِّنْدُ - جس پر اعتماد و بھروسہ کیا جائے۔

السِّنْدُ اَوِ السِّنْدَاؤَةُ - ہلکا - دَلِيْرٌ - بِيْشِ قَدِي کر نے والا - پست قد - مَوْنٌ سَرَاوِ پتلے جسم

وَالا - السِّنْدَاؤَةُ - کپڑے کا ٹکڑا جس کو عمامہ کے نیچے تیل سے بچانے کے لیے باندھا جاتا ہے۔

جَمَلٌ (سِنْدَاؤُ) قُوِي اَوِ رَحْتِ اَوْتٌ -

سِنْدُوْرٌ - جلدی کرنا۔

السِّنْدُوْرَةُ - مہ - جلدی - ایک درخت جس سے تیر و کمان بناتے ہیں۔ ایک قسم کا بڑا پیمانہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول "اَيُّكُمْ بِالسِّنْدِيفِ كَيْفَلِ السِّنْدُوْرَةُ" کا مطلب یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو بہت زیادہ قتل کروں گا۔

السِّنْدُوْرِيُّ - دَلِيْرٌ لِيْجَے قَدِ وَالا - مَضْبُوْبٌ - کمان۔

تِلْكَوِيْنٌ - تیرہ - شِيْرٌ - کوا و غیرہ کا سفید پھل - بڑی آنکھوں والا - عمہ - رُوِي - ایک بڑا پیمانہ۔

وَالسِّنْدُوْرُ السِّنْدُوْرُ - دَلِيْرٌ

السِّنْدُوْرُوسُ - ایک قسم کا گوند یا کرباجی کا ماند

ایک معنی چیز۔

السِّنْدُوْسُ - ایک قسم کا ریشمی کپڑا۔

السِّنْدُوْلُ - ایک قسم کا پرندہ - حَرْمِي مَوْزہ کا پاشا ہے۔

سِنْدُوْرُ (س) سِنْدُوْرًا - بَدِ مَطْلَقٌ ہونا۔

السِّنْدُوْرُ (س) سِنْدُوْرًا - بَدِ مَطْلَقٌ ہونا۔

السِّنْدُوْرُ - ایک جھنڈا - زہرہ کی مانند چمڑے کا بنا ہوا لباس - لوہے کا ہر ایک ہتھیار۔

السِّنْدُوْرُ - بلی - سرور - ذم کی چیز - گردن کی ہڈی کے مہرے - ج سِنْدَانِيْرٌ۔

السِّنْدَانُ - بلی۔

القنبر: قبر کو کوبان نما کرنا
المكئيل: پیمانہ کو بھر کر کوبان جیسا کرنا۔
أسنم: الكلا التجيز: موٹے کوبان والا کرنا
الدخان: دھوئیں کا بلند ہونا۔ أستم
القار: آگ سے پٹ اٹھنا۔
تسنم: القنفة: اونٹنی کے کوبان پر سوار ہونا
الشق: کسی چیز پر چڑھنا۔ فلانا:
غفلت میں پکڑ لینا۔ ه الثيب: بڑھانا۔
بچل جانا۔
السيم: من الايل: بڑے کوبان والا اونٹ
من التبات: زمین سے بلند ٹھونے
والے پودے۔
السنام: کوبان۔ ج اسنمة: کہا جاتا ہے
”فلان سنام قومہ“ وہ اپنی قوم میں بڑا ہے۔
سنمة: الثبات: عیادت کا اوپر کا حصہ جیسے
بال، ٹھونڈ، زجل (ستیم) عالی مرتبہ مرد۔
الثيم: گائے۔
التسيم: جنت کے ایک چشمہ کا نام۔
المستم: من الجمال: اونٹ جس پر
سواری نہ کی جائے۔
السينمار: چاند۔ چور۔ رات میں نہ سونے
والا۔
السنموزة: ایک قسم کی مچھلی جس کو تنک گا
کر خشک کرتے ہیں۔ (جدید)
سنة (س) سنھا: بہت برسوں والا ہونا۔ صفت
(سنة) الطعام أو الشراب: بگڑ جانا خیر
ہونا۔
سنة الزجل: سال وار محالہ کرنا۔
سنة التخله: ایک سال کے نانہ سے پھل
لانا۔
تسنه: بہت برسوں والا ہونا۔ العنبر:
بدبو دار ہونا۔ عنده: ایک سال تک
اقامت کرنا۔
السنه: من التخل: ایک سال کے نانہ
سے پھل دینے والا درخت خرما۔ خشک سالی والا۔
کہا جاتا ہے ”سنة سنه“ بغیر بارش وغیر
پیداوار کا سال۔
تسنن سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو سنو

نکل جانا۔
أسنف: البعير: چلنے میں گردن آگے بڑھانا۔
أسنفت القنفة: اونٹنی کا اونٹ سے آگے نکل جانا
الريخ: ہوا کا تیز چلنا۔ التزق: بجلی کا قریب
ظاہر ہونا۔ الأثر: مضبوطی سے کرنا
البعير: تنگ باندھنا۔
السنف: لکڑی جو جوتوں سے خالی ہو، پھلی کا
چھلکا۔ تاج سنوف۔
السنف: ایک تلخ دانہ جو گیہوں، جو میں ہوتا
ہے۔ جماعت۔ صنف۔ پھلی۔ واحد (سنفة) ج
سنف۔ ج سنفة۔
السنيف: بچھونے کی گوٹ۔ ایک کپڑا جس کو
اونٹ کے مونڈھوں پر باندھتے ہیں۔ ج سنف و
سنف وأسنف۔
المسنفة: من السنين: خشک سال۔ من
الازاضي: قحط زدہ زمین۔
سناف: البعير: اونٹ کا تنگ۔ ج سنف و
سنف وأسنف۔
المسنفتان والمسنفتان: دو لکڑیاں جن میں
کنوئیں کی چرخی چسپی ہوئی ہوتی ہے۔
المسناف: وہ اونٹ جو کجاوہ کو ادھر ادھر کرتا
ہو جس کی وجہ سے تنگ باندھنا پڑے۔ ج
مسنايف۔
سنيق (س) سنقا: بد بھسی ہونا (بقول بعض
سنيق صرف حیوانات کے لیے مخصوص ہے)۔
أسنقة: التهنيم: ناز و نعمت والا ہونا۔ خوش حال
ہونا۔
السنقر والسنقو: ایک شکاری پرندہ جو
شکرے سے بڑا اور خوبصورت ہوتا ہے۔
السنك: نمایاں راستے۔
المسكسار والمسنكسار: عنده
التصرايين نصرانيون کے اولیاء و صالحین کے
حالات کا مجموعہ جو گرجوں میں پڑھا جاتا ہے۔
(جدید)
سنيم (س) سنما: البعير: بڑے کوبان والا ہونا
التبث: خوش یا پھول ٹکانا۔
سنم: الكلا البعير: موٹے کوبان والا کرنا
الإثاء: برتن بھرنا۔ الشق: بلند کرنا

سنسنت: الریخ: بھڑی ہوا چلنا۔
السینسن: پیاس۔ پہلی کی ہڈیوں کے سرے۔
ج سنسین (س) والسنسینة: ریزہ کی
ہڈیوں کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے ”جاءت الریخ
سنسین“ ہوا ایک ہی طریقہ پر آئی۔
سنط (ک) سنطاة و سنط (س) سنط۔
کوچ یا بیگی دائرہ والا ہونا۔ صفت (سنط و
سنطاطو سنطوط ج سنط و سنطاط۔
السنط: گنا پھانچا۔
السنطبة: بے ذول لبائی۔
السنطاب: لوہار کا تھوڑا۔
السنطير والسنطور: ایک قسم کا ستار جس
کے تار تار کے ہوتے ہیں۔
سنطل: الزجل: سر جھکا کر چلنا۔
السنطلة: مص۔ لبائی۔
السنطالة: سر جھکا کر سکون کی چال۔
السنطيل: لبائی۔
المسنطال: مضم۔ ست چال چلنے والا۔ جو
قریب کرنے کے ہو۔ بے ذول جسم کا بڑے پیٹ
والا۔
السنطليل: لمبے قد والا۔
سنع (س) وسنع (ک) سنعاة و سنوعا۔
حسین و خوبصورت ہونا۔ صفت مذکر (سنیع)
مؤنث سنیعہ۔
أسنع: الغلام: لڑکے کا طویل و خوبصورت
ہونا۔ الزجل: خوبصورت بچوں والا ہونا۔
گئے کا درد والا ہونا۔ الشق: زیادہ کرنا۔
السنع: گئے کے مقام کی بریدگی۔ گئے کا جوڑ۔
ج سنعة و سنعا۔
السنع: خوبصورتی۔
الأسنع: لبائی۔ بلند۔ کہا جاتا ہے ”هذا أسنع
من ذاک“ یہ اس سے افضل ہے۔ مؤنث
سنعا۔
السنیعة: پہاڑی راستہ۔ ج سنعايع۔
السنعفة: نیولا۔ اوپر والے ہونٹ کے اندرونی
حصہ میں اُبھرا ہوا گوشت۔
سنف (ن ض) سنفا: البعير: اونٹ پر تنگ
باندھنا۔ القنفة: اونٹنی کا اونٹ سے آگے

السَّهَجُ: تیز ہوا کی گزرگاہ۔ جہاں تیز ہوا چلے۔

السَّهَجُ: ہر حق و باطل میں بولنے والا۔ صبح و بلخ۔

سَهَجٌ سَهَجَةٌ: ڈرتے ہوئے دوڑنا۔

سَهْدٌ (س) سَهْدًا وَ تَسَهَّدَ: بیدار رہنا۔ کم نیند والا ہونا۔

سَهْدَةٌ: بیدار رکھنا۔ کہا جاتا ہے "سَهْدَةٌ الْهَمِّ" اس کو غم نے بیدار رکھا۔

السَّهْدُ وَالسَّهَادَةُ: بے خوابی۔

السَّهْدُ: کم نیند والا۔ کہا جاتا ہے "زَجْلٌ سَهْدٌ" کم سونے والا مرد "عَيْنٌ سَهْدٌ" کم سونے والی آنکھ۔

السَّهْدَةُ: بیداری اور کہا جاتا ہے "مَازَأَيْتُ مِنْهُ سَهْدَةً" میں نے اس کے اندر نخر کی طرف رغبت نہیں دیکھی۔

السَّهْوُ: بہت لبا۔ کہا جاتا ہے "غَلَامٌ سَهْوٌ" نازک اندام جوان لڑکا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ (أَسْهَدُ مِنْكَ) أَيًّا" وہ تم سے زیادہ ہوشیار ہے۔

السَّهْوُ: غم۔ کم نیند والا۔

السَّهْدَرُ: بچہ۔

سَهْرٌ (س) سَهْرًا: ساری رات بیدار رہنا۔

صفت (سَاهِرٌ وَ سَهْرَانٌ) اور کہا جاتا ہے "لَيْلَةٌ سَاهِرَةٌ" رات کے دلی رات۔ سَهْرُ النَّبِيِّ: بچل کارات کو چکنا۔

سَاهِرٌ: جاگتے رکھنا۔

سَاهِرَةٌ: اکٹھے جانا۔

السَّهَارُ: بیداری۔ کہا جاتا ہے "زَجْلٌ سَهَارٌ الْعَيْنِ" کم سونے والا مرد۔

السَّاهُورُ: بیداری۔ زیادتی۔ چاند کابلہ۔ چاند کہا جاتا ہے "ذَخَلَ الْقَمَرُ فِي السَّاهُورِ" یعنی چاند گرن میں آیا۔ سَاهُورٌ عَيْنُ الْمَاءِ: چشمہ کا منبع السَّاهُورُ: سینے کے باقی نوون۔

السَّهَادُ وَالسَّهْرَةُ: بہت بیدار رہنے والا۔

السَّاهِرَةُ: السَّاهِرُ: زمین اور بقول بعض سطح زمین۔ ہمیشہ جاری رہنے والا چشمہ۔ چاند۔ خرقا ک بچل۔

الْأَسْهَرَانُ: آنکھ کی دو رگیں، ناک کی دو

آسانی و نرمی کرنا _____ الشَّيْ: حنیر ہونا _____ الْقَفْلُ: کالا کھانا _____ الرَّجُلُ: راضی کرنا۔

السَّيْ: بچل۔ ریشم۔ ایک دست آور دو اکانام۔ السَّيَاءُ: مہ۔ بمعنی آبی۔ بلندی۔ روشنی۔ السَّيَايَا: شریف و عالی مرتبہ مرد۔ کہا جاتا ہے "زَجْلٌ سَيَايَا" (جمع کے وزن پر مفرد ہے) السَّيْ: عالی مرتبہ۔ مؤنث سَيِّئَةٌ۔

السَّيَايَةُ: تمام چیز۔ پوری کی پوری۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُهُ بِسَيَايَتِهِ" میں نے اس کو سارا کاسارا لے لیا۔

السُّنُونُ: ابابیل۔ واحد سُنُونُوءٌ وَ سُنُونِيَّةٌ۔

سَهَبٌ (ف) سَهَابٌ: الشَّيْ: لینا۔

أَسْهَبَ: الْكَلَامَ وَ فِي الْكَلَامِ: بس گفتگو کرنا۔ صفت (مُسْهَبٌ وَ مُسْهَبٌ) مائی تار ہے۔

الرَّجُلُ: بہت دینا۔ حریص و لالچی ہونا۔

الْقَرُوسُ: گھوڑے کا کشادہ قدم رکھنا۔ أَسْهَبُوا الدَّابَّةَ: جانور کو چرنے کیلئے چھوڑ دینا۔

أَسْهَبَ: مدہوش ہونا۔ غفلت کھو دینا یا زیادتی محبت یا مرض یا خوف کی وجہ سے رنگ بدل جانا۔

أَسْهَبَتِ الْبَيْتُ: زیادہ گہرائی کی وجہ سے پانی نہ ملنا۔ صفت (سَهْبَةٌ وَ مُسَهَبَةٌ)۔

أَسْهَبَ: بہت دینا۔

السَّهْبُ: مہ۔ بیابان _____ مِنَ الْخَيْلِ: کشادہ قدم سے تیز دوڑنے والا گھوڑا۔ وقت کہا جاتا ہے "مَضَى سَهْبٌ مِنَ اللَّيْلِ" رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔

السَّهْبُ وَالسَّهْبُ: وسیع و ہموار میدان۔ کہا جاتا ہے "قَطَعُوا السَّهْبًا وَ السَّهْبًا مِنَ الْأَرْضِ" انہوں نے زمین کے ہموار میدان کو طے کیا۔

السَّهْبَلُ: دلاور۔

سَهَبَتِ (ف) سَهَبًا: الرِّيحُ: ہوا کا لگنا تیز چلنا _____ الرِّيحُ الْأَرْضُ: ہوا کا زمین کو صاف کر دینا _____ الطَّيْبُ: خوشبو گھستا _____ الْقَوْمُ لَيْلَتَهُمْ: تمام رات چلنا۔

السَّاهِجُ: ج سَهَجٌ (و السَّهِيحُ وَ السَّهْوُجُ وَ السَّهْوُجُ: جمن الْأَرْبَاحُ: تیز ہوا میں۔

السَّحَابُ الْأَرْضُ: بادل کا زمین کو سیراب کرنا _____ النَّبِيُّ: بچل کو دینا _____ النَّبَابُ: دروازہ کھولنا۔ سَمَتِ النَّارُ: روشنی بلند ہونا _____ السَّمَاءُ: برتا۔ سَمَاعِلِي الدَّابَّةَ: جانور پر پانی لانا _____ الدَّلْوُ: ڈول کو کونہیں سے کھینچنا۔

سَمَانِي سَمَانَةٌ وَ مَسَانَةٌ: الرَّجُلُ: ایک سال کیلئے معاہدہ کرنا یا اجرت پر رکھنا۔

فَسَمِي تَسَمِيًا الشَّيْ: چڑھنا۔ "تَسَمَّتِ الْعُقْدَةُ" گرہ کھلنا۔

السَّنَةُ: سال۔ ج سُنُونٌ وَ سِنُونٌ وَ سَنَوَاتٌ وَ سَنَهَاتٌ: تصغیر سَنِيَّةٌ وَ سَنِيَّةٌ وَ سَنِيَّةٌ: نسبت کیلئے سنوی و سنہی۔

سَنَةٌ سَنَوَاءٌ: سخت سال۔

السَّنَاءُ: بچل کی چمک۔ ایک دست آور دو کا نام۔

السَّنَانِي: فاپانی لانے والا۔ ج سَنَانَةٌ۔

السَّنَابِيَةُ: رہت۔ اونٹنی جس پر کونہیں سے پانی لایا جائے۔ ج سَنَوَانٌ۔

السَّنُونُ وَ السَّنَسِينِي: رہت سے سیراب کی ہوئی چیز۔

السَّنَابَةُ: بند جو سیلاب کو روکے۔ ج سُنُونَاتٌ وَ مَسَنَاتٌ: کہا جاتا ہے "عَقْدُو أَمْسِنَاتٍ لِيَحْبِسَ الْمِيَاهُ" انہوں نے پانی روکنے کے لیے بند بنا دیا۔

سَنِي (س) سَنَاءٌ: بلند مرتبہ ہونا۔

سَمَانِي مَسَانَةٌ وَ سِنَاءٌ: الرَّجُلُ: خوشنور کرنا۔ مدارات کرنا۔ مقابلہ میں نرمی کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَمَانِيَّةٌ حَتَّى اسْتَخْرَجَتْ مَا عِنْدَهُ" میں نے اس کے ساتھ نرمی کر کے جو کچھ اس کے پاس تھا سب نکھلوا لیا۔

أَسْنَى اسْنَاءً: النَّبِيُّ: بچل کا چکنا۔

النَّارُ: آگ روشن کرنا _____ لَدُ الْجَائِزَةِ: بیش قیمت انعام دینا "جَاوَزْتُهُ فَاسْتَنِي جَوَارِي" میں اس کا پردوسی تھا۔ اس نے پردوس کا حق ادا کر دیا _____ الْقَوْمُ: ایک سال کسی جگہ مقیم رہنا۔

سَنَسَى: الْأَمْرُ: تیار ہونا _____ الرَّجُلُ:

لاغری کی وجہ سے رنگ خفیر ہوتا۔
 وَجْهَةٌ: توری چڑھا ہوا ہوتا۔ سَهْمَةٌ: قرعہ اندازی میں غالب ہونا۔
 سَهْمٌ: لوکی پٹ لگانا۔
 سَاهَمَةٌ: قرعہ اندازی کرنا۔
 أَسْهَمَ: لَهُ فِي كَذَا: حصہ مقرر کرنا۔
 بَيَّنَّ الْقَوْمَ: قرعہ ڈالنا۔ فِي الْكَلَامِ: لمبی گفتگو کرنا۔ صفت (مُسْهَمٌ مُسْهَمَةٌ)
 تَسَاهَمَ وَاسْتَهَمَ: الْقَوْمَ: باہم قرعہ اندازی کرنا۔ تَسَاهَمُوا الشَّيْءَ: باہم تقسیم کرنا۔
 السَّهْمُ: ج. سِهَامٌ: قرعہ اندازی کا تیر۔ تیر۔ سَهْمٌ الزَّامِي: ایک ستارہ۔ ج. أَسْهَمٌ وَسَهْمَةٌ وَسَهْمَانٌ: حصہ۔ کہا جاتا ہے "أَصَابَتْهُ فِي الْقِسْمَةِ سَهْمَانٌ" تقسیم میں اس کو ذرا حصہ ملا۔
 السَّهْمَةُ: قرابت۔ تقسیم۔ حصہ۔
 السَّهْمُ: آفتاب کی کرنیں۔ حرارت غالبہ۔ پیاس۔ حلقاء۔ حکماء۔
 السَّاهِمَةُ مِنَ النَّوْقِ: دہلی بلی اونٹنی۔
 السَّهَامُ: لوکی گرمی گرمی کی تیزی۔ ترمرے یعنی کڑی کے جالے کی طرح ایک چیز جو سخت گرمی کے زمانہ میں فضا میں معلوم ہوتی ہے۔ اونٹوں کی ایک بیماری۔
 السَّهَامُ: دلے پن کے ساتھ رنگ خفیر ہونا۔ اونٹوں کی ایک بیماری۔
 السَّهْمِيْمُ: شریک۔ حصہ دار۔
 السَّهْمِيْمُ: لاغری کی وجہ سے رنگ بدلا ہوا دوغلا گھوڑا۔
 السَّهْمَةُ مِنَ الْإِيَابِ: دھاری دار کپڑا۔
 السَّهْمُ وَالْمَسْهُومُ: مِنَ الْإِيَابِ: سَهَامٌ بِيَارِي وَالْوَادِيَّةُ: صفت (سَاهُو وَسَهْوَانُ)
 السَّهْمُ: عَقَابُ
 سَهَايَسُهُو سَهْوُ سَهْوَا فِي الْأَمْرِ وَعَنِ الْأَمْرِ: غافل ہونا۔ بھولنا۔ دل کا دوسری طرف متوجہ ہونا۔ صفت (سَاهُو وَسَهْوَانُ)
 أَيْدِي بَسْتِ نَگاہ سے دیکھنا۔
 سَهْوٌ يَسْهَوُ سَهْوًا: الْقَوْمَ: گھوڑے کا آسانی سے تابع ہونا۔ صفت (سَهْوٌ

سَهْلٌ (ك) سَهْوَةٌ: الْمَكَانُ: نرم ہونا۔
 سَهْلٌ (ك) سَهْوَةٌ وَسَهْلَةٌ: الْأَمْرُ: آسان ہونا۔ صفت (سَهْلٌ وَسَهْلٌ)
 سَهْلٌ: الْأَمْرُ لَهُ وَعَلَيْهِ: آسان کر دینا۔ الْمُضَيِّعُ: نرم کر دینا۔
 سَاهَلَةٌ مُسَاهَلَةٌ: نرم برتاؤ کرنا۔
 أَسْهَلَ: بِمَارٍ مَعِدَانِي زَمِينِ كِي طَرَفِ أَرْضِنَا وَالذَّوَاءُ: بِيْتِ كَوْمِ كَرْنَا: دَسْتِ لَانَا۔
 الزَّجْلُ: لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا۔ الْأَمْرُ: نرم پانا۔
 أَسْهَلَ: الزَّجْلُ: إِسْمَالُ وَاللَّوَا: صفت۔
 تَسَهَّلَ: الْأَمْرُ: آسان ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا تَسَهَّلَ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ" میرے لیے اس کا کرنا آسان نہیں ہوا۔
 تَسَاهَلَا: اِيك دوسرے سے نرمی کا برتاؤ کرنا۔
 تَسَاهَلُ الْأَمْرُ عَلَيْنَا: آسان ہونا۔
 إِسْهَلَ: الْمَكَانُ: نرم سمجھ کر ثابت کرنا۔
 اسْتَسَهَّلَهُ: آسان سمجھنا۔
 السَّهْلُ: نرم زمین۔ ہموار زمین۔ ج. سَهْوٌ وَسَهْوَةٌ: اور نسبت کے لیے (سَهْلِي) جیسے "بَعِيْرٌ سَهْلِيٌّ" نرم زمین میں چرنے والا اونٹ اور تم کہتے ہو "أَرْضُ سَهْلٍ" سَهْلُ الْوَجْهِ: کم گوشت والا چہرہ۔ سَهْلُ الْخَلْقِ: نرم اخلاق والا اور کسی کو خوش آمدید کہنے کے موقع پر کہا کرتے ہیں "أَهْلًا وَسَهْلًا" یعنی تم اپنے ہی لوگوں میں آئے۔ اجنبیوں میں نہیں اور تم نے نرم زمین پر قدم رکھا۔ سخت زمین پر نہیں۔
 السَّهْلَةُ وَالسَّهْلُ: ریت جیسی مٹی جس کو پانی بہلاتا ہے۔ السَّهْلَةُ: إِسْمَالُ۔
 الْإِسْهَالُ: عِنْدَ الْأَطْيَاءِ: دَسْتِ آتَا۔
 السَّهْوَلُ: دَسْتِ أَوْرُدَا۔
 سَهْلِيلٌ: اِيك روشن ستارہ جو بلاو عرب میں گرمی کے آخر زمانہ میں صلع ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ اس کے طلوع ہونے پر گھریلے مر جاتے ہیں۔ مٹی کہتا ہے۔
 وَتَلَكِبُو مَوْتَهُمْ وَأَنَا سَهْلِيلٌ
 طَلَعَتْ بِمَوْتِ أَوْلَادِ الزَّيْنَاءِ
 سَهْمٌ (ف) وَسَهْمٌ (ك) سَهْوَةٌ وَسَهْوَةٌ:

رگیں۔
 السَّهْمَارُ: بیداری پر قادر۔
 سَهْفٌ (س) سَهْفًا: الْفَيْئِلُ: محتول کا زرع کی حالت میں ترپنا۔
 سَهْفٌ (س) سَهْفًا: بَسْتِ بِيَا سَا هُوَا: ہلاک ہونا۔
 اسْتَهْفَهُ: خَفِيفٌ سَهْمًا۔
 السَّاهِفُ: فَا: ہلاک ہونے والا۔ جس پر جان کنی کے وقت پیاس کا غالب ہو۔ سَاهِفُ الْوَجْهِ: خفیر چہرے والا۔
 السَّهْفُ: م: مچھلی کے سننے۔
 السَّهَافُ: پیاس کی بیماری جس میں سیرابی نہیں ہوتی۔ طَعَامٌ مَسْهُوفٌ: بَسْتِ پانی پلانے والا کہا۔ "زَجْلٌ مَسْهُوفٌ": بَسْتِ پانی پینے والا جو سیراب نہ ہوتا ہو۔
 السَّهْوُوقُ: بِلَا جھوٹا۔ لمبی پنڈلیوں والا۔ درختوں کا شاداب تانا۔
 السَّهْوُوقُ: كَشَارَةُ قَدَمِ وَاللَّوَا۔
 سَهَكْتُ (ف) سَهَكًا: الرِيْحُ: ہوا کا تیز چلنا۔ الرِيْحُ التَّوَابِعُ عَنْ وَجْهِ الْأَرْضِ: غبار اُڑانا۔ الشَّيْءُ: کسی چیز کو گھٹانا۔
 سَهَكْتُ سَهْوَكًا: الذَّابَّةُ: جانور کا آہستہ چال چلنا۔
 سَهَكٌ (س) سَهَكًا: بَدُو دَارُ هُوَا: صفت (سَهَكٌ) کہا جاتا ہے "يَدِي سَهَكَةٌ مِنَ السَّمَكِ" میرا ہاتھ مچھلی کی وجہ سے بدبو دار ہے۔
 السَّهَكُ وَالسَّهَكَةُ وَالسَّهْوَكَةُ: بِيْمَنِيَا سَزُوئے ہوئے گوشت یا مچھلی کی بدبو۔ السَّهَكُ: لَوْحٌ كَاظِمٌ۔
 رِيْحٌ (سَاهِكَةٌ) بَسْتِ تِيْرُ هُوَا: ج. سَاهَاكٌ وَسَاهَاكَاتُ: (رِيْحٌ سَهْوُوكٌ وَسَهِيْكٌ وَسَهْوُوكٌ وَمَسْهَكَةٌ) بَسْتِ تِيْرُ هُوَا۔
 السَّهِيْكُ: غَبَارُ جِسْ كُو بَا اُثْلُوَا۔
 السَّهَاكُ وَالْمَسْهَكُ: ہوا کی تیزی کی طرح بلاغت سے گفتگو کرنے والا۔ الْمَسْهَكُ مِنَ الْخَبْلِ تِيْرُ قَارُ كُوَا۔
 الْمَسْهَكُ وَالْمَسْهَكَةُ: تِيْرُ هُوَا كِي كُرُوكَا۔

پکراوے۔ شراب پینے کے بعد اپنے ہم نشین پر حملہ کرنے والا۔ کَلْبُ سَوَّارٍ: لوگوں پر حملہ کرنے والا کتا۔ السَّوَّارُ: شیر۔
 الأسوار والانسوار۔ گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر بیٹھے والا۔ تیرانداز۔ عِنْدَ الْفُرْسِ: فوجی افسر۔ جاسور و آساور۔
 السَّوَّارِيُّ: بلندی۔
 الْمَسُورُ وَالْمَسُورَةُ: چڑے کا کلیہ۔ ج. مَسَاوِرُ۔
 الْمَسُورُ: کالی میں لگن پینے کی جگہ۔ مَلِكُ مَسُورٍ: طاقتور بادشاہ۔
 السَّوْرُ نَجَانٌ وَالسَّوْرُ نَجَانٌ: ایک دوا کا نام۔ جنگلی سنگھاڑا۔
 سَاسٌ يَسُوسُ بِنِيسَانَهُ: الذَّوَابُ: دیکھ بھال رکھنا۔ سدهانا۔ الْقَوْمُ: امور کی تدبیر و انتظام کرنا۔ الْأَمْرُ: انتظام کرنا۔ صفت (سائیس) ج. سَاسَةٌ وَسَوَّاسٌ اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ مُّجَوَّبٌ قَدَّسَاسٌ وَبَيْتٌ عَلَيْهِ" فلاں تجربہ کار ہے جو ادب آموز ہے یا موبہ ہے۔
 سَاسٌ يَسَاسُ وَسَوَّاسٌ يَسُوسُ وَبَيْتٌ يَسَاسُ سَوَّاسًا وَتَسَوَّاسٌ: الطَّعَامُ: کھن پڑنا۔ الشَّاةُ: بکری کا بہت جوں والی ہوتا۔
 سَوَّاسٌ: الطَّعَامُ: کھن پڑنا۔ لَهْ أَمْرًا: مزین کرنا۔ کہا جاتا ہے "سَوَّاسٌ فَلَانٌ أَمْرُ الْقَوْمِ" فلاں قوم کے امور کا مالک بنایا گیا۔
 أَسَاسٌ: الطَّعَامُ: کھن پڑنا۔ أَسَاسَةُ النَّاسِ: رکھیں و سردار بنالینا۔ أَسَاسَتِ الشَّاةُ: بہت جوں والی ہوتا۔ صفت (مبیسس) السَّاسُ: تنظیم۔ و انت کی جڑ جس کو کیروں نے کھایا ہوا (اس کی اصل سائیس ہے شل ہارو ہائیر و صاف صاف کے)۔
 السَّوَّاسُ: اون یا کڑی کا کیرا۔ کھن۔ واحد (سوستہ) کسی چیز کا کھانے والا۔ السَّوَّاسُ: اصل طبیعت۔ تم کہتے ہو "الْفَصَاحَةُ مِنَ سَوَّاسِهِ" فصاحت اس کی طبیعت چیز ہے۔ طبیعی کاورخت۔
 السَّوَّاسُ: ایک بیماری جو جانوروں کی سرین پر ہوتی ہے۔

وَالْمَسُورَةُ مِنَ الْأَيَّامِ: سخت زمانہ۔ مصائب کے دن۔
 السَّوْدُقُ وَالسَّوْدُقُ وَالسَّوْدُقُ وَالسَّوْدُقُ وَالسَّوْدُقُ وَالسَّوْدُقُ: شکر یا شاہین۔
 سَاوَزُ سَوَّارٍ سَوَّارٍ: الحَايِظُ: دیوار پر چڑھنا۔ پھاندنا (سَوَّارٌ وَ سَوَّارٌ) الْبَيْتِ: کودنا۔ الشَّوَابُ فِي زَابِهِ: شراب کا سرکو پھرانہ۔
 سَوَّارٌ: شَرِيحَةٌ: شریعت پانا۔ الْمَرْأَةُ: لگن پھرانہ۔ الحَايِظُ: دیوار پر چڑھنا۔
 سَاوَزَةُ سَوَّارٍ وَ مَسَاوَزَةٌ: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ حملہ کرنا۔ تم کہتے ہو "سَاوَزَتِ الْحَيَّةُ الزَّوَابِجَ" سانپ نے سوار پر حملہ کیا۔ ه السَّوَابُ: سرکو پھرانہ۔
 تَسَوَّرَ: لگن پھرانہ۔ الحَايِظُ وَ عَلَيْهِ: دیوار پر چڑھنا۔ پھاندنا۔
 السَّوْرُ: شہنشاہ۔ ج. اسوار و سیران۔ السَّوْرُ: عمدہ اونٹ۔ کہا جاتا ہے "عِنْدَهُ سَوَّارٌ مِنَ الْإِبِلِ" اس کے پاس عمدہ اونٹ ہیں۔
 سَوْرِيَّةٌ وَ سَوْرِيَّةٌ: ملک شام۔
 السَّوْرَةُ: سَاوَزَةُ كَالْمَرْءِ: سَوْرَةُ الْخَمْرِ وَ سَوَّارٌ: شَرَابٌ كِي تَمْرِي سَوْرَةُ السُّلْطَانِ: بادشاہ کا دبدبہ۔ سَوْرَةُ الْمُتَجِدِّ: بزرگی کا اثر۔ سَوْرَةُ الْبَيْزِدِ: سردی کی تیزی۔
 السَّوْرَةُ: مرتبہ۔ کہا جاتا ہے "لَهُ عِنْدَكَ سَوْرَةٌ" تیرے نزدیک اس کا مرتبہ ہے "وَلَهُ سَوْرَةٌ فِي الْمُتَجِدِّ" اس کے لیے بزرگی کا مرتبہ ہے۔ فضیلت۔ کہا جاتا ہے "لَهُ عَلَيْكَ سَوْرَةٌ" اسے تمہارے اوپر فضیلت ہے۔ شرف۔ علامت۔ لَبِي وَ خَبِيسُ مَرَاتٍ: مِنَ الْكِتَابِ: قرآن پاک کی سورت اور اس کو السَّوْرَةُ بھی کہا جاتا ہے۔ ج. سَوَّارٌ وَ سَوَّارٌ وَ سَوَّارَاتُ: السَّوَّارُ وَالسَّوَّارُ وَالسَّوَّارُ: لگن۔ ج. سَوَّارٌ وَ اسوره و أسورة و أساور و أساوره و أساوره سَوَّارٌ: تمبیر کی ایک پرانی قوم جو بصرہ میں آکر رہی تھی۔
 السَّوَّارُ: وہ شخص جس کے سرکو شراب جلد

السَّوَادُ: رازدارانہ گفتگو۔ دانوں کی ایک بیماری۔ رنگ کی زردی۔
 السَّوَادُ: آواز۔
 السَّوَادِيَّةُ وَ السَّوَادِيَّةُ: بھٹا۔
 السَّوْدَانُ: سوڈان کا باشندہ۔ واحد (سودانی) سیاہ رنگ کے لوگ۔
 السَّيْدُ: بھیریا۔ شیر۔ ج. سَيْدَانُ: السَّيْدَةُ: مادہ بھیریا۔
 السَّيْدَانَةُ: بھیریا۔
 السَّيْدُ: سردار۔ تَخْفِيفًا (سید) بھی ایک لغت ہے۔ ج. أَسْيَادٌ وَ سَادَةٌ وَ سَيَادٌ۔
 عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد اور ان کی نسل ہے جو لوگ ہوں۔
 السَّيْدَانُ: حضرت حسین رضی اللہ عنہما۔
 السَّيَادَةُ: فوج سادہ۔ ج. سادات۔
 أَسْوَدٌ: ج. سُودٌ وَ سَوْدَانٌ: مَوْتٌ سَوْدَاءُ: کالا۔ مِنَ الْعَيْنِ: آنکھ کی پتلی۔ مِنَ الْقَوْمِ: بزرگ تر۔ کہا جاتا ہے "هُوَ أَسْوَدٌ مِنَ فَلَانٍ" وہ فلاں سے بزرگ تر ہے۔ تفسیر اسنیو و اسنیو۔
 الْأَسْوَدَانُ: گھوڑ اور پانی یا سانپ اور چھو۔
 وَالْأَسْوَدُ: مَوْتٌ أَسْوَدَةٌ ج. أَسَاوِدَةٌ بَرَاكَلَا سانپ جس کو مٹش بھی کہتے ہیں۔
 السَّهْمُ الْأَسْوَدُ: مبارک تیر جس سے برکت حاصل کی جائے۔ گویا بہت ہاتھوں کے پڑنے کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ أَسْوَدُ الْكَيْدِ" فلاں دشمن ہے۔ وَ عَلَى هَذَا الْقِيَاسِ "هُمُ سَوْدَاؤُ الْكِبَادِ"
 السَّوْدَاءُ وَ السَّوْدَاءُ: عِنْدَ الْأَطْيَابِ: ایک خط کا نام۔ مَالِجُولِيَا كِي بِيَارِي: الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ: کلوئی۔ سَوْدَاءُ الْقَلْبِ وَ سَوْدَاءُ زَهْ: دل کا سیاہ نقطہ۔
 السَّوْدُودُ وَ السَّوْدُودُ: مرتبہ بلند۔ سرداری۔
 مَاءٌ (مَسْوُودَةٌ)
 الْمَسْوُودُ: مرض مَالِجُولِيَا کا بیمار۔
 الْمَسْوُودَةُ وَ السَّوَادُ: عِنْدَ الْكُتَّابِ: پہلی تحریر جس کو صاف نہ کیا گیا ہو۔ اس کے مقابلہ میں صاف شدہ کو مَبْيُضَّةُ کہتے ہیں۔
 عِنْدَ الطَّبَّاعِينَ: پروف (المَسْوُودَةُ

السُّوَسُ: گھوڑوں کے گروں کی ایک بیماری جو گردن کو خشک کر دیتی ہے۔
 السُّوَسَةُ: مہ۔ پائیکس۔ کئی تدبیر و انتظام۔
 السُّوَسَةُ السُّوَسَةُ: شہری انتظام۔ عدل و استقامت کے ساتھ اس طرح پر انتظام کرنا کہ سب کی معاشی حالت اچھی ہو۔
 السُّوَسُنُ وَالسُّوَسُنُ وَالسُّوَسَانُ: ایک خوشبودار بوٹی۔ جنگلی و بستانوں دو قسم کی ہوتی ہے۔
 واحد (سُّوَسَةٌ) ج سُّوَسَانٌ۔
 سَاوَعَةُ سُّوَسُوَّةٌ سُّوَسُوَّةٌ: کوڑے مارنا۔
 السُّوَسِيُّ: مخلوط کرنا۔ الخبز: لڑائی برپا کرنا۔ الأُمُرُ: دہ و بلا کر دینا۔
 سُّوَسُوَّةٌ: نَفْسُهُ: جی کا تھلنا۔
 السُّوَسُوطُ: الكَوَاثِبُ: گدنا کی شاخیں لگانا۔
 الأُمُرُ: مخلوط کرنا۔ گڈنڈ کرنا۔ الخبز: لڑائی برپا کرنا۔
 السُّوَسُوَّةُ: گڈنڈ ہونا۔ گڈنڈ ہونا۔
 السُّوَسُوَّةُ: کوڑا۔ چابک۔ ج۔ اَسْوَاطٌ و سِیَاطٌ السُّوَسُوَّةُ: حصہ۔ تختی۔ پالی جمع ہونے کی جگہ۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا بِنَاعَتَيْنِ سُّوَسُوَّةٌ وَاحِدًا" وہ دونوں ایک طرز پر کام کرتے ہیں۔ السُّوَسِيَاطُ: گدنا کی شاخیں۔
 السُّوَسُوَاطُ: سپاہی جس کے پاس کوڑا ہو۔
 السُّوَسُوَيْفُ: گڈنڈ۔ ملاح۔
 السُّوَسُوَاطُ: بغیر چابک کے نہ چلنے والا گھوڑا۔
 السُّوَسُوَاطُ: کلزی وغیرہ کی کوئی چیز جس سے کسی چیز کو کسی چیز میں مخلوط کیا جائے۔
 السُّوَسِيَاطُ: پانی جو حوض کے دہ میں باقی رہ جائے۔
 السُّوَسُوَاطُ: دیکھئے سِیَطِرُ۔
 سَاعٌ يَسُوَعُ سَوْعًا: ضائع ہونا۔
 سَاعَتُ الْإِبِلِ: بغیر چرواہے کے آزادی سے چرنا۔
 سَاوَعَةٌ مُسَاوَعَةٌ وَسَاوَعًا: گھنٹہ بھر کے لیے معالہ کرنا۔ الرَّجُلُ: ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔
 أَسَاعٌ إِسَاعَةٌ: الشَّيْءُ: بیکار چھوڑنا۔ ضائع کرنا۔

أَسْوَعٌ إِسْوَاعًا: ایک گھنٹہ مؤخر ہونا۔ ایک وقت سے دوسرے وقت کی طرف منتقل ہونا۔
 السُّوَعُ وَالسُّوَاعُ: رات کا ایک حصہ۔
 السَّاعِ: ہلاک ہونے والا۔ ج سَاعَةٌ۔
 السَّاعَةُ: گھنٹہ۔ وقت موجود۔ ابھی۔ کہا جاتا ہے "إِقْبِضِي حَقِّي السَّاعَةَ" میرے حق کو ابھی ادا کرو۔ گھڑی (مولدہ) ج سَاعَاتٌ و سَاعٌ السَّاعَةُ الزَّمَلِيَّةُ: ریت گھڑی۔ السَّاعَةُ الشَّمْسِيَّةُ: دھوپ گھڑی۔
 سَاعَةٌ سَوْعَاءٌ: سخت وقت۔
 السُّوَيْفَةُ: ساعت کی تفسیر یعنی تھوڑا وقت۔
 رَجُلٌ (مِسْبَعٌ و مِسْبَعٌ) لِلْمَالِ: مال کا بہت ضائع کرنے والا۔ تابع کے طور پر کہا جاتا ہے "هُوَ مِصْبَعٌ مِصْبَعٌ وَمِصْبَعٌ مِصْبَعٌ"۔
 السُّوَاعُ وَالسُّوَعَاءُ: ندی یا ودی۔ حدیث میں ہے فی السُّوَعَاءِ الْوُسْوءُ: السُّوَاعُ: ایک بیت کا نام جس کی پرستش نوح ﷺ کے زمانہ میں ہوتی تھی اور بعد میں قبیلہ بدیل اس کی پرستش کرتا تھا۔
 المَسْوَعُ: جائز۔
 سَاعٌ (ن) سَوْعًا وَسَوْعًا وَسَوْعًا: الأُمُرُ: جائز ہونا۔ صفت (سَالِعٌ) السُّوَابُ: خوشگوار ہونا۔ صفت (سَالِعٌ و سَبِيعٌ وَأَسْوَعٌ) کہا جاتا ہے "سَاعٌ لِي السُّوَابُ سَاعَتٌ بِهَ الْأَرْضِ" دھنسا رہا۔
 سَاعٌ يَسُوَعُ سَوْعًا و سَاعٌ يَسْبِيعُ سَبِيعًا: السُّوَابُ: خوشگوار کرنا۔ جید لغت (أَسَاعَةٌ) ہے۔
 سَوْعٌ: الأُمُرُ: جائز کرنا۔ لَهْ كَذَا: دینا۔ کسی کے لیے خاص کرنا۔
 أَسَاعٌ: الطَّعَامُ أَوْ السُّوَابُ: خوشگوار بنانا اور کہا جاتا ہے "أَسْبَغْ لِي غَضَّتِي" یعنی مجھے مہلت دے۔
 أَسْوَعٌ إِسْوَاعًا: الصَّبِيُّ أَخَاهُ: ساتھ پیدا ہونا یا ایک کے بعد دوسرا پیدا ہونا۔ صفت نہ کرو مونت (سَوْعٌ و سَوْعَةٌ و سَبِيعٌ) کہا جاتا ہے "هَذَا سَوْعٌ هَذَا وَهُوَ أَخُوهُ سَوْعَةٌ وَهِيَ أَخْتُهُ سَوْعَةٌ وَهُوَ أَخُوهُ سَبِيعَةٌ وَهِيَ أَخْتُهُ وَ سَبِيعَةٌ" یہ سب ان موقعوں پر بولتے ہیں جبکہ دونوں بچے ساتھ پیدا ہوئے ہوں یا یکے بعد دیگرے اور ان کے درمیان

کوئی تیسرا نہ ہو۔
 اسْتَسَاعَ: السُّوَابُ: خوشگوار پانا۔
 السَّبِيعُ مِنَ السُّوَابِ: خوشگوار شراب۔
 السُّوَاعُ: حلق کے پھندے کو دور کرنے والی چیز۔ کہا جاتا ہے "الْمَاءُ يَسْوَعُ الْفُصْحَ" پانی پھندے کو دور کرنے والا ہے۔
 سَافٌ يَسُوْفٌ و يَسَافُ سَوْفًا: السَّالُ: ہلاک ہونا۔ جانوروں میں بیماری واقع ہونا۔
 سَافٌ يَسُوْفُ سَوْفًا: عَلَيْهِ: صبر کرنا۔
 و اسْتَسَافَ اسْتِسَافًا: الشَّيْءُ: سو گھنٹا۔
 سَوْفَةٌ: مالنا۔ بار بار کہتا کہ عنقریب کروں گا۔
 هَ الْأُمُرُ: پورا اختیار دینا۔
 سَاوَعَةٌ مُسَاوَعَةٌ: سو گھنٹا۔ راز کی بات کرنا۔ مالنا۔
 أَسَافٌ إِسَافَةً: مال ہلاک ہونا۔ اولاد کا مرنا۔ صفت (مِسْبَعٌ) اور اولاد کو (مَسَافٌ) کہتے ہیں۔ أَسَافَهُ اللَّهُ: ہلاک کرنا۔
 سَوْفٌ: جی برفتح: حریف استقبال ہے "س" سے اس کا زمانہ طویل ہوتا ہے اور یہ فعل سے جدا نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَفْتَاثُ السُّوَفُ" فلان آرزوؤں میں زندگی بسر کرتا ہے۔
 السَّافِقَةُ: باریک ریت اور ریتلی اور سخت زمین کے درمیان والی زمین۔
 السُّوَاوُ وَالسُّوَاوُ: جانوروں کی بیماری و ہلاکت۔ کہا جاتا ہے "وَقَعَ فِي السُّوَاوِ" مال میں ہلاکت واقع ہوئی اور اسی سے مثل ہے "أَسَافٌ حَتَّى مَا يَسْبِيعِي السُّوَاوُ" اس شخص کے حق میں بولا کرتے ہیں جو تختیوں کے برداشت کرنے کا عادی ہو جائے۔
 السَّافُ وَالسَّافَةُ: مٹی یا کچی اینٹوں کا ردہ۔ ج۔
 أَسَفٌ و سَافَاتٌ: کہا جاتا ہے "بَنِي سَافِينَ أَوْ فَلَاتٌ سَافَاتٌ" اس نے دو یا تین روئے رکھے۔ السَّافُ: ایک شکاری پرندہ۔
 السَّافَةُ وَالسُّوَفَةُ: ریتلی اور سخت زمین کے درمیان کی زمین۔ ج سَوْفٌ و سَوْفٌ۔
 الْمَسَافَةُ وَالْمَسَافُ: ج مَسَاوِفٌ و (السَّيْفَةُ) دوری۔ فاصلہ۔ تم کہتے ہو "كَمْ

تَسْوُكٌ تَسْوُكًا وَإِسْتَاكٌ إِسْتَاكًا. مَوَاكُ كَرًا.

السُّوَاكُ. مَعْرَجُ سُوَاكٍ وَالْمِسْوَاكُ رَجٌ مَسَاوِيكٌ. دَانَتْ صَافٌ كَرْنَةُ كِي كَلْرِي. مِسْوَاكٌ.

سَأَلَ يَسْأَلُ سَوَالًا وَسَوَالًا. سَأَلَ كَايِكُ لَفْتٌ.

سَوَّلَ يَسْوُلُ سَوْلًا. نَافٌ كَيْ نَجْوُ حَيْلِي بَيْتٌ وَاللَا هُوَا. صَفَتْ أَسْوَلٌ. مَوْنَتْ سَوْلَاءٌ. رَجٌ سَوَّلٌ.

سَوَّلَ لُهُ الشَّيْطَانُ: مَرَاهُ كَرًا. كَسَى كَامٌ كَيْ كَرْنَةُ كَيْ لِي رَوْعُنٌ قَاوْمَانَا كَمَا جَا تَابَةٌ هَذَا مِنْ تَسْوِيلَاتِ الشَّيْطَانِ: يَهِي شَيْطَانُ كِي مَرَاهِيوُنْ مِيْن سِي سِي. وَ"مَوَلَّتْ لُهُ نَفْسُهُ كَذَا" اس کے نفس نے اس کو مزین کر دیا۔

تَسْوَلُ الْبَطْلَانُ: يُؤْهِلُ بِلَا تَابَةٍ.

السُّوَلُ: السُّوَلُ كَاخْتَفٌ.

السُّوَلَةُ: بَسْمٌ پُوچھنے والا۔

السُّوَلَاءُ: أَسْوَلٌ كَامَوْنَتْ. بِيَاؤُولُ.

السُّوَالُ: بَرَابِرٌ. كَمَا جَا تَابَةٌ "أَنَا سَوَّلْتُكَ فِي هَذَا الْأَمْرِ" مِيْن اس کام میں تمہارے برابر ہوں۔

سَامٌ يَسْوُمُ سَوْمًا وَسَوَامًا. السُّوَامَةُ فَرْوَحَتٌ كَلْتِي پُش كَرْنَا اور قِيْمَتٌ تِلَا تَابَةٌ.

السُّوَامِيُّ: السُّوَامِيُّ السُّوَامَةُ: مَهَاؤُ كَرًا. كَمَا جَا تَابَةٌ "سَامٌ يَسْوُمُهُمْ كَذَا وَكَذَا" اس نے اپنے

سَامَانِ كَا سَمْتِي اور سَمْتِي كَا مَهَاؤُ كِيَا. سَامَتِ الْمَاشِيَةُ: جَانُورُ كَا رِجَالُ مِيْن جَانَا. سَامَتَهُ الْأَمْرُ تَكْلِيْفٌ رِيَا. سَامَتُهُ خَسْفًا: ذَبِيلٌ كَرْنَا

الظُّلْمِيُّ عَلَى الشَّيْءِ: بِرَنَدُهُ كَمَا مَثَلَانَا.

الرَّوَيْحُ: هُوَا كَا جَلْنَا اور جَلْدِي سِي مَزْرَبَا. سَامَ النَّاقَةَ عَلَى الْحَوْضِ: اَوْتَشِي كُوَا حَوْضٌ پَر لِي جَابَا.

سَوْمَةُ الْأَمْرِ: كَرْنَةُ كِي تَكْلِيْفٌ رِيَا.

هَفِي مَا يَنْقَلِبُكَ: حَاكِمٌ بَانَا. پُورِي قَدْرَتٌ رِيَا. فَلَا تَابَةٌ: كَسَى كُوَا سِي كَيْ نَشَاہُ پَر جَمُوعُ

رِيَا كُوَا جَوَابِي كَرِي. امْتِثَالٌ عَرَبٌ مِيْن سِي سِي سِي "عَبْدٌ وَسَوْمٌ" اس كِي بِنَدِ كِي مَحْقُوقٌ بُولْتِي ہِي

"قَامَتِ الْحَزْبُ عَلَى سَاقٍ" یعنی جنگ سخت ہو گئی۔ "وَوَلَدَتِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ بَنِيْنَ عَلَى سَاقٍ وَاجِدَةً" عورت کے تین بیٹے لگاتار پیدا ہوئے ان کے درمیان میں کوئی لڑکی نہیں۔

السَّاقَةُ: جَلُو۔ لُفْكَرُ كَا يَحْطَلَا دَسْتٌ۔ كَمَا جَا تَابَةٌ "فَلَانٌ فِيْ سَاقَةِ الْحَيْشِ" فلاں لشکر کے کھیلے دسٹ میں ہے۔

السُّوْقُ: بَاؤَارٌ۔ (مَوْنَتْ اور كَبِي مَذَكْرٌ كَبِي اسْتِعْمَالٌ كِيَا جَا تَابَةٌ) رَجٌ أَسْوَاقٌ. سُوْقُ الْحَزْبِ: مِيْدَانُ الْجَنَكِ۔

السُّوْقُ: پَدْلِي كِي لِسَابِي۔ السُّوْقَةُ: رَعِيْتٌ۔ عَوَامٌ۔ مَعْمُولِي لُوكٌ (دَاوَدٌ جَعٌ مَذَكْرٌ مَوْنَتْ)

السُّوْقِيُّ: مِنْ السُّخَابِ: بَادِلٌ جَسٌ كُوَا هُوَا اَنْزَا دَسِي۔

السُّوْقَةُ: جَانُورٌ جَنٌ كُوَا حَمْنٌ بَانَكُ كَر لِي جَابَةٌ۔ كَمَا جَا تَابَةٌ "الْمَرْءُ سَبِيْقَةُ الْقَدْرِ" مَرَدَاتٌ قَهَاوُ قَدْرَسِي۔ السُّوْقَةُ: شَكَا رِي كِي اَوْتٌ۔ رَجٌ سَبِيْقَاتِي وَ سَبِيْقَاتٌ۔

السُّوْقِيُّ: سَبِيْقٌ۔ سَبِيْقٌ أَسْوَقَةٌ: شَرَابٌ۔

السُّوْقِيُّ: مَعْرَجٌ كَامَرٌ۔ سَبِيْقُ الْكَلَامِ: اسلوب کلام۔ کما جاتا ہے "وَقَعَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ فِيْ سَبِيْقِ الْكَلَامِ" یعنی یہ عبارت وسط کلام میں داخل ہے۔

السُّوْقِيُّ: بَانَكْنِيْ وَاللَا: سَبِيْقِيْ وَاللَا يَابَانَا تَابَةٌ وَاللَا: الْأَسْوُقُ: لِسِي پَدْلِيوُنْ وَاللَا: مَوْنَتْ سَوْقَاءُ رَجٌ سَوْقٌ۔

السُّوْقِيُّ: لِسِي پَدْلِيوُنْ وَاللَا: سَبِيْقِيْ پَر كَهْرُ هُوَانِي وَاللَا پُورَا۔

السُّوْقِيُّ: كَلْرِي جَسٌ سِي جَانُورُوُنْ كُوَا بَانَكْنِيْ۔ اَوْتٌ جَسٌ كِي اَوْتٌ مِيْن جَهْبٌ كَر شَاكِرٌ كُوَا دُحُوَا كَا دَرِيْسٌ۔

السُّوْقِيُّ: تَالِجٌ۔ قَرِيْبٌ۔ لِسِي اُصْوَانٌ وَاللَا پَاؤَارٌ۔

سَاكٌ يَسْوُكُ سَوْكًا وَسَوْكٌ الشَّيْءُ: مَزْرَبَا۔ مَلْنَا۔ اور اسی سے ہے "سَاكٌ الْأَسْتَاْنُ بِالْفَرْوُدِ"

اس نے دائروں کو لکڑی سے مڑا۔

سَاكٌ سَوَاكًا وَتَسَاوَكٌ: اَهْمَتٌ جَلْنَا۔ كَمَزُورِي كِي وَجَسٌ لَرَا كَهْرُ كَر جَلْنَا۔

مَسَافٌ هَذِهِ الْأَرْضِ وَمَسَافَتُهَا وَسِيْفَتُهَا" اس زمین کا کتنا فاصلہ ہے۔ "وَبَيْنَهُمْ مَسَافٌ مَرَاجِلٌ" ان کے درمیان بہت بُرد ہے۔ السَّافُ: بَانَكٌ۔

السُّوْفِيُّ: دُوَا عَوْرَتٌ جَسٌ كَا بِيْعَةُ مَرَايَا هُوَا۔ السُّوْفِيُّ: قَطْعٌ مَسَافَتٌ كَرْنَةُ وَاللَا: سَوَكْنِي كِي جَمَكٌ۔

السُّوْفِيُّ: قَا-صَابِرٌ-فُورٌ عَمَارٌ۔ السُّوْفِيُّ: عَمْرَادٌ۔

سَاقٌ يَسْوُقُ سَوْقًا وَسِيَاقًا وَسِيَاقَةً وَسَاقًا وَإِسْتَاقًا وَإِسْتَاقَةً. الْمَاشِيَةُ: جَانُورُ كُوَا بِيْعِي سِي ہَا تَلَا تَابَةٌ. صَفَتْ (سَاقِي) رَجٌ سَاقَةٌ وَ سَوَاقٌ وَسَاقُوْنٌ. صَفَتْ مَعْمُولِي (مَسْوُوقَةٌ) اور کما جاتا ہے "سَاقَةُ مَسَاقٍ غَيْرِي" اس نے اس کے ساتھ غیر کا سامانہ کیا۔ سَاقِي الْحَدِيْثِ: بِيَانٌ كَرًا۔

سَاقَةٌ يَسْوُقُهُ سَوْقًا وَسِيَاقًا: پَدْلِي پَر بَارَبَا۔ سَاقِي إِلَيْهِ الْمَالُ: مَبِيْعَانَا۔ پُش كَرْنَا _____ مِنْ اِمْرَاةِي: مَرِيْبَا _____ الْمَرِيْبُضُ نَفْسُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَسِيْقِي عَلَى الْمَجْهُوْلِ: جَا كُنْتِي هُوَا۔

سَوِقٌ يَسْوُقِي: سَوْقًا. اَتَمِي اور پَر كَهْرُوشٌ پَدْلِي وَاللَا هُوَا۔

سَوْقٌ: التَّبَسُّطُ: سَبَدٌ دَارِ هُوَا _____ هَا الْأَمْرُ: مَالِكٌ بَانَا _____ الْمَاشِيَةُ: جَانُورُ كُوَا بِيْعِي سِي ہَا تَلَا تَابَةٌ۔

سَاوَقَةٌ: بَانَكْنِيْ مِيْن فَرَا كَرْنَا۔

أَسَاقَةٌ إِسَاقَةٌ وَإِسْتَسَاقَةٌ إِسْتَسَاقَةٌ الْمَاشِيَةُ: بَانَكْنِيْ كِي لِي رِيَا۔ تَسْوُقِي: عَرِيْدٌ وَفَرْوَحَتٌ كَرًا۔

تَسَاوَلَتِ الْمَاشِيَةُ: قَهَارٌ مِيْن جَلْنَا۔ جَلْنِي مِيْن مَبِيْعِي كَرًا۔

السَّاقِي: بَانَا جَابَا _____ الْأَيْلُ: قَهَارٌ مِيْن جَلْنَا۔

السَّاقِي: پَدْلِي (مَوْنَتْ) رَجٌ سَوُقٌ وَسِيْقَانٌ وَأَسْوُقٌ. سَاقِي الشَّجَرَةِ: دُورَتْ كَا تَابَةٌ۔

سَاقِي الْحَمَامِ وَسَاقِي الْفُرَابِ: دُوعَا تَابَتُ كِي تَابٌ. سَاقِي حُوِي: نَزْمَرِي۔ كَمَا جَا تَابَةٌ "كَشَفَ الْأَمْرُ عَنْ سَاقِي" یعنی معاملہ سخت ہو گیا۔ و

سے مرکب ہے اور کلمہ اشتاء ہے اور مشہور ہے
ہے کہ اس کا استعمال داؤ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور
لاصینما تخفیف کے ساتھ بھی استعمال کیا جاتا
ہے اور کبھی لا محذوف ہوتا ہے اور یہ ضعیف
لغت ہے۔

الاسنوی۔ اسم تفضیل۔ کہا جاتا ہے "هَذَا
السَّكَّانِ اسنوی هذیه الامکنة"
الاسنواء۔ مہ۔ درستی۔ اعتدال و خط
الاستواء) عِنْدَ الْجَهْرِ الْبَیِّنِ: وہ دائرہ جو کرۂ
زمین کے گرد قطبین سے برابر فاصلہ پر کھینچا ہوا
فرض کیا گیا ہے اور جو زمین کو دو نصف حصوں
شمال و جنوبی میں تقسیم کرتا ہے۔ اس خط پر سال بھر
دن رات برابر رہتے ہیں۔

سَبَاتٌ وَ تَسْبَاتٌ۔ التَّفَاقَةُ: اونٹنی کا بغیر
دوھنے کے دودھ برانا۔ کہا جاتا ہے "تَسْبَاتُتْ
عَلَى الْأَمْوَدِ" میرے اوپر امور مختلف ہو گئے۔
و "تَسْبَاتٌ لِأَنَّ يَحْقِنُ" فلاں نے میرے حق کا
انکار کے بعد اقرار کر لیا۔

إِسْبَاتٌ اللَّبَنُ: دودھ کا بغیر دوھنے کے برنا۔
السُّبُ وَالسُّبُ: دودھ جو تھن کے اطراف
میں ہو اور بغیر دوھنے ہوئے نکلے۔ سُبُو۔

سَبَابٌ يَسْبِبُ سَبَبًا: پانی کا ہر طرف کو
برنا۔ الزُّجْلُ: تیز چلنا۔ لَبِي كَلَابِه
بغیر غور و فکر کے بولنا۔ الذَّابَّةُ:
جانور کا آزادانہ چلنا۔

سَبَبَةٌ: چھوڑ دینا۔ الْعَبْدُ: غلام کو آزاد
کردنا۔

السَّبَابُ: اِسْبَاتِيَا۔ تیز چلنا۔ اِسْبَابَتِ الْحَيَّةُ:
سانپ کا تیزی کے ساتھ رینگنا۔
فَلَانٌ تَحْوَنًا: لوٹنا۔

السَّبَبُ: مہ۔ بارش۔ داود دہش۔ مال۔ زیادتی۔
گھوڑے کے ذم کے بال۔ کشتی کا چپو۔ ج
سَبُوْب۔

السَّبَبُ: پانی پینے کی جگہ۔ ج سَبُوْبُ سَبَبُ:
(فارسی)

السَّبَابُ وَالسَّبَابُ وَالسَّبَابُ: کبھی گھوڑ
(بعضوں کے نزدیک بمعنی بلخ۔ اور بعضوں کے
زودیک بمعنی بئسر ہیں) واحد سَبَابَةٌ وَ سَبَابَةٌ۔

السَّبَابَةُ: شراب۔

السَّبَابَانُ: صَبَابَانُ كَا حَرْفٍ كَلِمَةٌ: بمعنی جوں
کے انڈے۔

السَّبَابِيَّةُ: چھوڑی ہوئی۔ آزاد کیا ہوا۔ غلام۔ وہ
اونٹنی جو زمانہ جاہلیت میں نذر وغیرہ کیلئے چھوڑ دی
جاتی تھی یا وہ اونٹنی جس کے دس ماہہ بچے ہوں تو
اس پر نہ تو سوار ہوتے تھے اور نہ اس کے دودھ کو
سوائے (اس کے بچے کے اور مہمان کے کوئی پیتا
تھا اور گھاس پانی وغیرہ سے بھی اس کو نہیں روکا
جاتا تھا اور اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں تک کہ مر
جاتی تھی۔) ج سَبَبٌ وَ سَبَابٌ۔

سَبَبُ الْكُزْمِ: انگور میں باز لگانا۔

السَّبَابُ: دیوار۔ باز۔ ج سَبَابَاتُ وَأَسْوَجَةٌ
و سَبُجٌ۔

السَّبَابَانُ: ایک قسم کی مچھلی۔

سَبَابٌ يَسْبِبُ سَبَبًا وَ سَبَبَاتًا: المَاءُ: پانی کا
سطح زمین پر برنا۔ صفت مَاءٌ سَبَابٌ وَ سَبَبٌ کہا جاتا
ہے "هَذِهِ الْأَرْضُ تُسْقَى بِالْمَاءِ سَبَابًا" اس
زمین کی سیرابی بٹنے ہوئے پانی سے ہے۔

الطَّلُ: پھرنا۔ ہٹ جانا۔ سَبَابًا وَ سَبَبَاتًا
و سَبَابَةٌ وَ سَبُوبَةٌ: زمین میں عبادت کے لیے
پھرنا۔ شہروں میں پھرنا۔ صفت (سَبَابٌ) ج سَبَابٌ وَ
سَبَابُونَ۔

سَبَابَةٌ وَ اسْبَابَةٌ: برنا۔ کہا جاتا ہے "سَبَابٌ
تَسْبِبُ حَيَا كَثِيرًا" اس نے خوش بیانی سے گفتگو
کی۔ اسْبَابُ الْفَرَسِ بِذَنَبِهِ: گھوڑے کا دم کو لٹکانا۔

إِسْبَابٌ: بَطْلَةٌ: پیٹ کا بڑا ہونا۔ مونا ہونا
الْقَوْبُ: کپڑے کا پھٹنا۔ بَالَةٌ:

کشاہہ دل ہونا۔ اِسْبَابَتِ الصَّخْرَةِ: چٹان کا
پھٹ جانا۔

السَّبَابُ: مہ۔ بٹنے والا پانی۔ دھاری دار کبیل۔ ج
سَبُوبٌ وَ اسْبَابٌ۔

السَّبَابُ: مسجد میں رہنے والا روزہ دار۔

السَّبَابُ: ٹکوں میں بہت پھرنے والا۔

السَّبَابُ: بڑائی اور چھٹی کو پھیلانے والا۔ ج
مَسَابِغٌ۔

المُسَبَّبُ: دھاری دار کپڑا۔

سَبَابٌ يَسْبِبُ سَبَبًا وَ سَبَبَاتًا: مضبوط ہونا۔

سَاخَتْ قَدْمُهُ فِي الطَّيْنِ: گارے میں پاؤں کا
دھس جانا۔

السَّبِيحُ: بڑی چھری۔ (فارسی)

السَّبِيحُ: مٹی کی عمارت۔ ج سَبِيحٌ۔

سَبَا (ض) سَبِيْرًا وَ تَسْبِيْرًا وَ مَسْبِيْرًا وَ
مَسْبِيْرَةٌ وَ مَسْبِيْرَةٌ: چلنا۔ سفر کرنا۔ ہ

وہ: چلانا۔ الذَّابَّةُ: جانور پر سوار ہونا

السَّنَةُ: عمل کرنا۔ جیسے "وَأَوَّلُ رَاحِسِي
سَنَةً مَنِ يَسْبِرُهَا" کسی سنت پر پہلا راضی

ہونے والا وہ شخص ہے جو اس کے مطابق عمل
کرے۔ کہا جاتا ہے "يَسْبِرُ عَنكَ" یعنی غافل ہو

جاؤ اور برداشت کرو۔ اس کی تقدیر یہ ہے
"سَبُوْدَعُ عَنكَ الشَّنْكَ وَ المِرَاءُ" سَبَا

الْكَلَامُ وَ المَقْتَلُ فِي النَّاسِ: مشہور ہونا۔

سَبِيْرٌ وَ سَبَا: الزُّجْلُ: چلانا۔ السَّبَلُ
عَنْ ظَهْرِ الذَّابَّةِ: اِتَار دینا۔ سَبِيْرُ القَوْبِ او

السَّبَبُ: دھاری دار۔ اِسْبَابُ السَّبَبِ: لوگوں میں
مشہور کرنا۔ سَبِيْرٌ سَبِيْرَةٌ: پہلے لوگوں کی باتیں

بیان کرنا۔ سَبِيْرَةٌ مَنِ بَلَدِهِ: جلا وطن کرنا۔ نکال
دینا۔

سَبَاةٌ: ساتھ چلنا۔

تَسْبِيْرٌ: الجَلْدُ: مچھل جانا۔

تَسْبِيْرًا: باہم مل کر چلنا۔ تَسْبِيْرٌ عَنْ وَجْهِهِ
الغَضَبُ: زائل ہونا۔

إِسْتَبَارٌ: اِسْتَبَارًا: زاد راہ خریدنا۔

بِسَبِيْرَةٍ فَلَانٌ: کسی کی سیرت و عادت پر چلنا۔

سَبَا: العَشِيُّ: تمام چیز۔ ساز میں ایک لغت
ہے۔

السَّبُوْرُ: تہ۔ ج سَبُوْرٌ وَ سَبُوْرَةٌ وَ اسْبَابٌ۔

السَّبِيْرَةُ: سار کا اسم۔ عادت۔ طریقہ۔ طرز
زندگی۔ ہیئت۔ سَبِيْرَةُ الزُّجْلِ: سوانح عمری۔
لوگوں کے ساتھ سلوک کی کیفیت۔ کہا جاتا ہے
"هُوَ حَسَنُ السَّبِيْرَةِ" وہ اچھی عادت والا ہے۔
اور اسی سے عرب کا قول ہے "مَنْ طَابَتْ
سَبِيْرَتُهُ حَمِدَتْ سَبِيْرَتُهُ" جس کا باطن اچھا
ہوتا ہے اس کی عادت اچھی ہوتی ہے۔ ج سَبِيْرٌ۔

السَّبِيْرَةُ: دھاری دار چادریں یا کسی چادریں
جن میں ریتم ملا ہوا ہو۔ خالص سونا۔ ایک قسم کی

نباتات۔ گھنٹی سے چٹا ہوا چھلکا۔ دل کا پردہ۔
گھجور کی نشی۔

السائبر۔ فا۔ سائر الشئ: چیز کا تیسرے۔ المثل
السائبر:

السائبر والسيرة والسيرة: بہت چلنے والا۔
السيرة: السيار کا مؤنث۔ قافلہ۔ آفتاب

کے گرد گھومنے والا ستارہ۔ جیسے زحل، مشتری،
مرخ، زمین، زہرہ، عطارد وغیرہ۔ ج سیرات۔
السيرة: موٹر کار۔

السيار: مہ۔ سیر کا سبب۔

المسور۔ مفع۔ قیاس کے لحاظ سے مہینہ
ہے۔ مگر مصدر سے التباس کی وجہ سے بدل دیا
گیا۔ طریق مسور: آمدورفت والا راستہ۔

المسيرة: مہ۔ مسافت۔ کہا جاتا ہے "بينهما
مسيرة في يوم" ان دونوں کے درمیان ایک دن

کی مسافت ہے۔

المسیر: من الثياب: دھاری دار کپڑا۔
السیر: تل کا تیل۔

سبب سبب شئنا۔ الطعام: گھن پڑنا۔
سنا سنا۔ شرم لانا۔ عار دلانا۔

السيس: چینی کا پودہ۔
السيساء: ریزہ کی ہڈی کے جوڑی جگہ۔

السيساء الظہر من الدواب: جانوروں کی پیٹھ
پر سوار ہونے کی جگہ۔

سینظرة سینظرة و تسینظرة: گھبان ہونا۔
دارودہ ہونا۔

ساع تسینع سبعا و سبوعا۔ الشئ: ضائع
ہونا) و انساع و تسینع: المائد: پانی کا

ادھر ادھر بہنا۔ انساع الجاهل: جہمی ہونے چیز
کا پھلنا۔

سبع الخائض بالطين: دیوار کا مٹی سے لیپنا
الشئ: تیل وغیرہ ملنا۔

انساع الشئ: ضائع کرنا۔
السبع: مہ۔ سطح زمین پر بہنے والا پانی۔
السباع: گارا۔ کھل۔

السبعا والسبعاء: رات کا حصہ۔ کہا جاتا ہے
"حزب جبت بعد سبعا من الليل" رات کا ایک

حصہ گزر جانے کے بعد میں نکلا۔
السبعا: کرنی۔ کھل کرنے کا اوزار۔ ناقة

(مصنوع) بچہ کو چھوڑ کر چرنے کے لیے جانے
والی اونٹنی۔

ساع تسینع سبعا۔ الشراب: خوشگوار بنانا۔
السبع: من الشراب: خوشگوار شراب۔

سافت تسینف سيفا۔ الید: ناخن کے
ارگرد پھٹنا۔

سافة تسینف سيفا۔ تلوار سے مارنا۔
تسینف: تلوار سے مارنا۔

سایفوا و تسایفوا و استایفوا استیفا: باہم
تلوار بازی کرنا۔ و استیف القوم: تلوار سے

مارا جانا۔
التیف: تلوار۔ ج استیاف و سنیف

و استیف و سنیف و استیف (التسایف) تلوار سے مسخ۔
سيف الحبار: تین ستاروں کے نام۔ سيف

الرياح: ایک قسم کی نباتات۔
السيف والسيف: ایک قسم کی مچھلی جس کی

بسی سی چوڑی تیزہ کی مانند ہوتی ہے۔ السیف:
سندھ کا کنارہ یا ہریز کا کنارہ۔ ج استیاف وہ چیز جو

گھجور کے ڈھنک کی جڑ میں چپکی ہوئی ہوتی ہے۔
السيفان: من الرجال: لہا و پتا مرد۔ مؤنث

سيفانة: اور بقول بعض عورتوں ہی کے لیے
مخصوص ہے۔

السيف: شمشیر زن۔ ج سيفانة: رجل
سيف: خون گرانے والا مرد۔ سيف الامير:

جلار۔
الاستيف: پارٹیاں۔

المسایف: خشک سالی۔ قحط۔ کہا جاتا ہے
"أصابناهم المسایف" ان کو قحط سالی

لاحق ہوئی۔
المسيف: تلوار سے مسخ۔ ولیر فقیر۔
المسيف: من الذراهم: درہم جس کے

کنارے نقش سے خالی ہوں۔ من
الیزود: جاوہریں جن پر تلوار کا نقش ہوا تلوار

کی مانند جوڑی دھاریاں ہوں۔
السبکاہ: فن موسیقی کا ایک راگ (جدید)

سائل (ض) سبلا و سبلا و سبلا و
مسالا۔ الماء: بہنا۔ سالت عوة الفرس:

گھوڑے کی پیشانی کی سفیدی کا سبب ہونا۔
أسأل أسالة و سئل تسبلا۔ الماء: جاری

کرنا۔ بہانا۔ أسأل الجاهل: پچھلانا۔ أسأل غوازا
التصل: لہا کرنا۔

تسائل القوم: ہر طرف سے آنا۔
السائلة: من غوازا الخنبل: گھوڑے کی ناک

تک پیشانی کی سفیدی۔ ج سائل
السيل: مہ۔ بننے والا۔ کہا جاتا ہے "مائد

سئل" بننے والا پانی۔ السيل: سیلاب۔ ج
سئل

السيلة: پانی بننے کی جگہ۔ سال کا سومرا۔
السيلة: پانی کا بہاؤ۔

السيلان: ایک قیمتی پتھر۔ تلوار کا وہ حصہ جو
میان میں داخل ہو۔ ج سائلین

السوائل: من المعادين و غیرہا: بننے
والی چیزیں۔

السائل: سفید لہے کانٹوں والا ایک پودہ کہ
جب کانٹے کو توڑتے ہیں تو دودھ کی مانند نکلتا


ہے۔ واحد۔ سائلة۔
السائل: زور سے بننے والا۔ مؤنث سائلة

السائل: ایک قسم کی مچھلی۔
مسئل۔ الماء: پانی بننے کی جگہ۔ ج مسائل و

مسئل و أمسلة و مسلان۔
المسأل: من الوجوه: ڈاڑھی نکلنے کی

ایک جانب۔
المسئلة: سیون جاوہر کی طرف

منسوب۔ مال کے ذریعہ روحانی مراتب کے درجہ
پر پہنچنے کی کوشش۔
سبئة القوم: کمان کا سرا۔ ج سبئات



الشَّامِ فَا نَحْوَسْتَ لَانِ وَاللَّـ
الشَّامَةُ وَالْمَشَامَةُ نَحْوَسْتَ
الشَّيْئَةَ وَالشَّيْئَةَ حَلَقَ طَبِيعَتِ عَادَتِ ج
شِيمِ

الْأَشَامُ اسْمُ تَفْضِيلٍ أَوْ رَاسِي سَعِيءٍ "أَشَامٌ
كُلُّ أَمْرٍ عِنْدَ بَيْنِ يَخِينِيهِ" هِرَّ آدِي كُوبَدِ بَحْتِي لَانِ
وَالِي جِزَاسِ كِ دُونِ جِزُوسِ كِ دَرَمِيَانِ هِيءِ
بَعْنِي زَبَانِ بَدِ بَحْتِي لَانِ وَاللَّـ مَوْنَتِ شُؤْمِي
وَالْبِدَا شُؤْمِي بِلِيَا بَاهَتِ

الْأَشَامِ إِشَامِ كِي بَحْجِ
الْمَشُؤْمِ وَالْمَشُؤْمُ مَخُوسِ بَدِ بَحْتِ ج
مَشَانِيمِ

شَانُ (ف) شَانَا صَاحِبِ عِزْتِ وَ مَرْتَبَةِ هُونَا
كَمَا جَاتَا هِيءِ "شَانُ شَانُكَ" اِسْنِي لَانِ تَمَارِي
اِرَادِي جِيسَا اِرَادِي كِيَا "مَاشَانُ شَانُكَ" اِسْنِي
لَانِ تَمَارِي كَامِ كِي پَرَوَاهِ نِيسِ كِي "وَأَشَانُ
شَانُكَ" اِرَابِي حَالَتِ رَرِ هُونَا

إِشَانُ شَانُكَ كِيسِي كِي اِرَادِي جِيسَا اِرَادِي
كَرَا

الشَّانُ جِ شُؤُونِ وَشَانُ وَشَيْنِ بِيءِ
بِيءِ اَسُورِ وَ اِحْوَالِ مَعَالِمِ حَالَتِ كَمَا جَاتَا هِيءِ
"مِنْ شَانِيهِ كَذَا وَ اَنْ يَفْعَلَ كَذَا" اِسْنِي كِي طَبِيعَتِ
سَعِيءِ هِيءِ كَمَا اِيهَارِي كِي "وَمَاشَانُكَ" تَمَارَا كِيَا
حَالِ هِيءِ؟ تَمَارَا كِيَا مَعَالِمِ هِيءِ؟ جِ شُؤُونِ وَ
شُؤُونِ سَمْرِي بِيءِي كِي لَانِ كِي جِكِه كَمَا جَاتَا
هِيءِ "بَلَّغْتِ الرَّابِحَةَ اِلَى شُؤُونِ رَاسِيهِ"
خُوشِيُو اِسْنِي سَمْرِي بِيءِي كِي لَانِ كِي جِكِه تَك
بَحْجِي مَنِي پَهَارِي مَنِي كِي جِسْمِ مِي دَرِخْتِ اَكِيْسِ
شُؤُونِ وَ اَشُؤُونِ رُكِ كِي جِسْمِ سَعِيءِ
اَسُو جَارِي هُونِ كَمَا جَاتَا هِيءِ "فَاصْتُ

صَفْتِ مَشُؤُفَةً شَيْفَتِ اَصَابِيهِ نَاخْتِ كِي
اِرْدَرْدِ پِشِنَا (شَا فَا وَ شَا فَا فُلَانَا وَ
لِفُلَانِ بِنْفِ رُكْنَا

شَيْفِ خُوفَرِدِ هُونَا ذُرَا يَا جَاتَا صَفْتِ
(مَشُؤُفِ شَيْفَتِ الرَّجُلِ اَبَلِدِ پُرَا

اِسْتَشَا فِتِ الْقَرْحَةَ خِرَابِ هُو كِرْجِي پَكْرِي لَانِ
شَا فِ الْجُزْجِ زُخْمِ كِي خِرَابِ

الشَّافَةُ جِزْ تَمُوكِ كَا زُخْمِ كَمَا جَاتَا هِيءِ
"اِسْتَا صَلَّ شَا فَتَهُ" اِسْنِي اِسْنِي اِسْنِي كُوْرِيَا

وَ "بِيْتَهُمْ شَا فَةً" اِنِ كِي دَرَمِيَانِ عِدَاوَتِ هِيءِ
وَ اِسْتَا صَلَّ اللّٰهُ شَا فَتَهُمْ" اِنِ اللّٰهُ تَعَالَى اِنِ كِي

عِدَاوَتِ كُو دُو رُكْرِيءِ شَا فَةُ الرَّجُلِ اِلِ وَ اِلِ
رَجُلِ شَا فَةُ مَعَزُودِ بَلَدِ مَرْتَبَةِ مَرُو

شَامُ (ف) شَامَا الْقَوْمِ وَ غَلِيْبِهِمْ بَدِ بَحْتِي
ذَالِنَا صَفْتِ (شَالِيْمِ)

شُؤْمُ (ك) شَامَةُ وَ شِيمِ غَلِيْبِهِمْ مَخُوسِ وَ
تَمَارَا كِ هُونَا

شَامُهُمْ مَلِكِ شَامِ كِي طَرَفِ رَوَانِدِ كَرَا
شَاءَ مِ شَاءَةَ مَنَةٍ بِهِيءِ بَايِيْسِ طَرَفِ لِيَانَا
الرَّجُلِ مَلِكِ شَامِ مِي اِنَا

أَشَامُ مَلِكِ شَامِ كَارَادِي كَرَا مَلِكِ شَامِ مِي اِنَا
سَرَا هَمَايِي هُونِي لَانِ

تَشَاءَ مِ وَ تَشَامُ مَلِكِ شَامِ كِي جَانِبِ مَسُوبِ
هُونَا بَايِيْسِ طَرَفِ هُونَا

تَشَاءَ مِ وَ اِسْتَشَامُ بِهِيءِ بَدِ فَا لِي كَرَا بَدِ فُلُونِ
لِيَانَا

الشُّؤْمُ نَحْوَسْتَ كَالِي اَوْنَتِ
الشَّامُ وَ الشَّامُ مَلِكِ شَامِ

الشَّامِي وَ الشَّامِي وَ الشَّامِي مَلِكِ شَامِ كِي
جَانِبِ مَسُوبِ

الشُّؤْيُوبِ بَارَشِ كِي پُوجَاؤِ دُحُوبِ كِي
عِزِيءِ هِرْجِيءِ كِي عِدِ هِرْجِيءِ كِي شَدْتِ دَفْعِ اَخَاوِ
حَسَنِ جِ شَا يِيْبِ كَمَا جَاتَا هِيءِ "هُوَ حَسَنُ
شَا يِيْبِ الْوَجْهِ" اِسْنِي كِي جِرِيءِ كَا اَخَاوِ حَسَنِ
اِجْمَا هِيءِ

الشَّيْئَتِ تَمُوكِرْ كَهَانِيءِ وَ اَلَا كُوْرِيَا
شَا جَةُ بِشَا جَةَ الْاَمْرُ عَمَلِكِي كَرَا

شَيْزُ (س) شَا زَا وَ شُؤْرَةُ وَ شُؤْرَا
الْمَكَانِ بَحْتِ اَوْرِي بَلَدِ هُونَا تَامَا اَوْرِي هُونَا صَفْتِ
(شَا زَا وَ شَيْزَةُ) (شُؤْنِ هِيءِ اَرَامِ
هُونَا ذُرَا

شَا زَا (ب) شَا زَا الْجَاوِيَّةِ جَمَاعِ كَرَا
اَشَا زَةُ رَجِيْبِيءِ كَرَا هِيءِ اَرَامِ كَرَا ذُرَا

اَشَا زَةُ الرَّجُلِ عِنْدَ كَذَا بَلَدِ هُونَا
اِسْتَا زَا بَدِ كَرَا

الشَّازَةُ اسْمُ مَرَّةِ حَيْثُ شَا زَةُ هُونَا كُوْرِيَا
الْمَشُؤُوْرُ وَ الْمَشُؤُوْرُ هِيءِ اَرَامِ هِيءِ قَرَارِ
خُوفَرِدِ

شَيْسُ (س) شَا سَا الشَّيْءِ بَحْتِ هُونَا
الرَّجُلِ مَرَضِ يَأْتِي مِ سَعِيءِ قَرَارِ هُونَا

الْمَكَانِ بَحْتِ وَ مَعْرِيءِ دَرِ هُونَا مَكَانِ
(شَيْسُ وَ شَا سُ) بَحْتِ وَ مَعْرِيءِ وَ اِلِي جِكِه جِ
شَيْسُ وَ شُؤْسُ

شَا طَا شَا شَا وَ شَا شَا الرَّاعِي الْعَقْمِ اَوْ
الْحَمِيْمِ وَ بِيهَا شَا حَا يَأْشُؤُ شُؤْمِ كَمَا كَرَا لَانِ
التَّغْلِيءِ دَرِخْتِ خِرَابِي كَا بَا لَانِ

تَشَا شَا الْقَوْمِ مَفْرُقِ هُونَا كَمُورَا
الشَّاشَاءُ مَعِ اِيكِ قَسْمِ كِي رُوِي كَمُورِ كَمُورِ
كِي لِيءِ دَرِخْتِ

شَيْفَتُ (س) شَا فَا الرَّجُلِ اَبَلِدِ پُرَا

عورتوں کے ذکر سے آراستہ و مزین کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَبَّ قَصِيْدَةً بِفَلَانَةٍ" شعراء کی عادت تھی کہ قصائد مدحیہ کی ابتداء میں تشبیب کیا کرتے تھے۔ پھر ہر چیز کی ابتداء کو تشبیب کہنے لگے اگرچہ ایام شباب کا ذکر نہ ہو۔ شَبَّ الْكِتَابُ: کتاب شروع کرنا۔ تَشَبَّهْتُ النَّازِ: آگ روشن ہونا۔ بھڑکانا۔

أَشَبَّ - الْغُلَامُ: لڑکے کا جوان ہونا۔

الزَّجَلُ: جوان اولاد والا ہونا _____ اللُّدَّةُ الْغُلَامُ: لڑکے کو جوان کرنا _____ الْفُرْسُ: گھوڑے کو آسانا _____ الْفُؤُزُ: تل کا بوڑھا ہونا۔ صفت (مَشْبُوبٌ وَمَشْبُوبٌ وَمَشْبُوبٌ) أَشَبَّ - لَهُ كَذَا: مقدر کیا جانا۔

الشَّبَّ: پھلکری کے مشابہ ایک معدنی نمک جس کا رنگ سفید اور بعض کانٹیلوں ہوتا ہے۔ جوان۔ شَبَّ اللَّيْلُ: ایک قسم کی نالت۔ الشَّبَابُ وَالشَّبِيْبَةُ: ہم - جوانی، بلوغ سے تین برس تک کا زمانہ۔ ابتداء جیسے "شَبَابُ التَّهَارِ" دن کی ابتداء۔ الشَّبَابُ بمعنی تشبیب کہا جاتا ہے۔ "قَصِيْدَةٌ حَسَنَةٌ الشَّبَابِ" اچھی تشبیب والا قصیدہ اور شیبہ کی جمع شَبَابِيْبٌ۔ الشَّبُوْبُ: عمدہ بنانے والا۔ آراستہ کرنے والا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا شَبُوْبٌ لِكَذَا" یہ اس کے حسن و قوت کو بڑھانے والا ہے۔ مثلاً "الْحِمَازُ شَبُوْبٌ لِيُوَجِّهَهَا" اوڑھنی اس کے چہرے کی رونق کو بڑھا دیتی ہے (_____ وَالشَّبَابُ) جس سے آگ جلائی جائے۔

الشَّبَابَةُ: ایک قسم کی بانسری (مولدۃ) عوام اس کو منجھرتہ کہتے ہیں۔

الشَّبَابُ وَالشَّبَّ: جوان۔ ج۔ شَبَابٌ وَشَبَابٌ وَشَبِيْبَةٌ: مؤنث شَابَةٌ وَشَبِيْبَةٌ: ج۔ شَابَاتٌ وَشَبَاتٌ وَشَوَابٌ وَشَبَابِيْبٌ۔

المَشْبِيْبُ: شیر۔

المَشْبُوْبُ: مِنَ الرَّجَالِ: تیز خاطر مرد۔

المَشْبُوْبَتَانِ: زہرہ و مشتری۔ نَازٌ مَشْبُوْبَةٌ: بھڑکالی ہوئی آگ (نازِ شَابَةٌ) نہیں بولتے۔

الشَّبِيْبُ: سوئے کا ساگ۔

شَبَّ (س) شَبَّأً وَتَشَبَّتْ: بَکَّدًا: چھٹنا۔

مطلق ہونا۔

رَجُلٌ (شَبِيْبَةٌ) اسے مقابل کو چھیننے والا۔

الشَّبِيْبُ: ایک قسم کی ترکاری۔

الشَّبِيْبُ: مکرزی۔ ایک قسم کا کپڑا جس کی ٹانگیں بہت ہوتی ہیں۔ ج۔ أَشْبَابٌ وَشَبَّانٌ - رَجُلٌ (شَبِيْبٌ) چھیننے والی طبیعت والا مرد۔

الشَّبَابُ وَالشَّبُوْبُ: ٹیڑھے سرے والی بیج۔ ج۔ شَبَابِيْبٌ۔

أَشْبَحَ: الشَّبَابُ: دروازہ بھینرنا۔

الشَّبِيْحُ: بلند دروازہ یا دروازہ واحد (شَبِيْحَةٌ) شَبِيْحٌ (ف) شَبِيْحًا: الشَّبِيْحُ: پھاڑنا۔ چرنا _____ الْجَلْدُ: کھوٹیوں سے کس کر پھیلانا _____ الزَّجَلُ: گھینٹا _____ الدَّاعِي: ڈھا کے لئے ہاتھ پھیلانا _____ فَلَانًا لَهُ: کسی کے سامنے سیدھا کھڑا ہونا۔

شَبَّخَ (ک) شَبَّاحَةً: لمبے چوڑے بازوؤں والا ہونا۔

شَبَّخَ: بوڑھے ہونے کی وجہ سے ایک چیز کو دو دیکھنا _____ الشَّبِيْحُ: پھیلانا۔ چوڑا کرنا۔

تَشَبَّخَ: الْحَزْبَاءُ عَلَى الْعُقُوْدِ: گرگٹ کا لکڑی پر دراز ہونا۔

الشَّبَّخُ وَالشَّبِيْحُ: مخص۔ بلند عمارت کا دروازہ۔ ج۔ شَبُوْبٌ وَأَشْبَاخٌ: أَشْبَاخُ النَّعَالِ: نظر آنے والا مال جیسے اونٹ گائے بکری وغیرہ۔

الشَّبِيْحَةُ: اسم مرۃ۔ کہا جاتا ہے "نَزَعَتْ سَفْفَ بَيْتِي شَبِيْحَةً شَبِيْحَةً" اس نے میرے گھر کی چھت سے ایک ایک لکڑی نکال لی۔

عِنْدَ الْمُؤَلَّدِيْنَ: گھوڑے کی ٹانگیں باندھنے کی رشتی۔

الشَّبِيْحَانِ: لمبا۔

الشَّبِيْحَانِ: منقلۃ کھیل کود کی دو لکڑیاں۔ (دیکھئے منقلۃ)

الشَّبِيْحُ: دو درہم کی آواز۔

الشَّبِيْحُ وَالشَّبِيْحُ وَالشَّبِيْحَةُ: چھو۔

مصبوبت۔ زبان۔ ج۔ شَبَابِيْبٌ۔

شَبِيْبٌ (ن) ض۔ شَبِيْبًا: الْغُؤُوبُ وَنَحْوُهُ: بالشت سے ٹاپنا۔ شَبِيْبَةٌ: مالا۔ کسی کو مال دینا۔

شَبِيْبٌ (س) شَبِيْبًا: الزَّجَلُ: الْكِرْبَاءُ: اِزْرَابًا۔

شَبُوْبَةٌ" اس کی آگھ کی رنگیں جاری ہو گئیں _____ الشَّبُوْبُ: حاجتیں۔ کہا جاتا ہے "كَلْفَنِي شَبُوْبُكَ" اپنی حاجتوں کی خدمات میرے سپرد کر دو۔ شَبُوْبُ الْخَمْرِ: شراب کا اثر جو جسم کی رگوں میں سرایت کرے۔

شَأَى يَشُوْ وَشَأَوًا وَاشْأَى اِشْأَاءً - الْقَوْمُ: آگے بڑھ جانا۔ شَأَى التَّرَابِ مِنَ الْبُيُوتِ: کنوئیں سے مٹی نکالنا۔

شَاءَ عَلَى مَشَاءَةٍ - الْقَوْمُ: آگے بڑھنا۔ آگے بڑھنے میں مقابلہ کرنا۔

تَشَاءَى تَشَاءِيًا: الْقَوْمُ: ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ متفرق ہونا۔ تَشَاءَى عَلَى مَا بَيْنَهُمَا: قاصلہ پر ہونا۔

الشَّأْوُ: ہم۔ مدت۔ غایت۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَجِيْزُ الشَّأْوُ" یعنی فلاں عالی بہت ہے و "عَدَا شَأْوًا" وہ ایک پھر دوڑا۔ الشَّأْوُ: اونٹنی کی مہار۔ اونٹنی کی بیگتیاں۔ زنجیل۔ کنوئیں کی نکل ہوئی مٹی۔

المِشَاءَةُ: کنوئیں کی نکل ہوئی مٹی۔ نوکری جس سے کنوئیں سے مٹی نکالی جائے۔ ج۔ المِشَائِي۔

الشَّيْءُ: آلے کی جھڑ۔

شَبَّ (ض) شَبَابًا وَشَبِيْبَةً - الْغُلَامُ: جوان ہونا۔ کہتے ہیں "مِنَ شَبَّ إِلَى دَبَّ" جوانی سے بڑھانے تک۔

شَبَّ (ن) ض۔ شَبِيْبًا وَشَبَابًا وَشَبُوْبًا الْفُرْسُ: اکٹھے اگلی ٹانگوں کو اٹھانا۔ شَبَابٌ ہونا۔ عرب کا مقولہ ہے "الْحَوْهَرُ يَشَبُّ بَعْضُهُ بَعْضًا" جو ہر میں سے بعض بعض کے حسن کو بڑھاتا ہے۔

شَبَّ (ن) شَبَّأً وَشَبُوْبًا: النَّازِ: آگ روشن کرنا۔ شَبَّتِ النَّازِ: آگ روشن ہونا _____ الشَّبِيْبُ: بلند ہونا۔ بڑھنا۔

شَبَّ: الشَّبِيْبُ: زیادہ کیا جانا۔ بلند کیا جانا۔ شَبَّتِ النَّازِ: روشن ہونا۔ شَبَّ لَهُ الشَّبِيْبُ: اللہ کی طرف سے مقدر کیا جانا۔

شَبَّ وَتَشَبَّتْ: جوانی اور کھیل کود کے زمانہ کا ذکر کرنا _____ الشَّاعِرُ بِالْفَتَاةِ: عورتوں کے محاسن و اوصاف کو بیان کرنا۔ شَبَّتِ قَصِيْدَةً:

تجوں کی دیکھ بھال کرنا اور نکاح نہ کرنا۔

الشَّبَلُ - شیر کا بچہ جب کہ شکار کرنے کے قابل ہو جائے۔ ج اشْبَال و شِبَال و اشْبَل و شُبُول. أَبْوَالُ الشَّبَالِ: شیر۔

لَبْوَةٌ (مُشْبِلٌ): تجوں والی شیرنی۔

مَكَانٌ (مُشْبُولٌ): بہت شیر کے تجوں والی جگہ۔ شَبِيمٌ (ن) شَبِيمًا و شَبِيمٌ: بکری کے بچے کے منہ میں تھو تھنی لگانا۔

شَبِيمٌ (س) شَبِيمًا: پانی کا ٹھنڈا ہونا۔

الشَّبِيمُ: سردی۔

الشَّبِيمُ: صبح۔ شام یا بھوک کے ساتھ صبح شام۔

الشَّبِيمُ: تھمیر۔ زہر۔ موت۔

الشَّبَامُ و الشَّبِيمَةُ: کڑی جو بکری کے بچے کے منہ میں لگادی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔

الشَّبَامُ: برقع کے دو دھاگے جن کو عورتیں پیچھے باندھ لیتی ہیں۔

المُشَبَّمُ: تھو تھنی لگانا جو بکری کا بچہ بھوکا۔

شَبِينٌ (ن) شَبِينًا: الغَلَامُ: لڑکے کا نازک اندام و بزرگوشٹ ہونا۔ (شُبُونًا) الشَّيْءُ: قریب ہونا۔

الشَّابِيُّ مِنَ الْعِلْمَانِ: نازک اندام بزرگوشٹ لڑکا۔

الشَّبِينُ و الأشْبِينُ: دولہا کا خدمت گار۔ شَبِينَةٌ و اشْبِينَةٌ: دلہن کی خدمت گار (کلمہ سراسیمہ ہے)

الشَّبَانِيُّ و الأشْبَانِيُّ و الشَّبَانِيُّ: سرخ چہرے اور موٹھوں والا۔

شَبَهَةٌ: آئناہ و شَبَهَةٌ بہ: تشبیہ۔ دنا۔ تھیل دنا۔ شَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مشتبه کرنا۔ شَبَهَ الشَّيْءُ: مشکل ہونا۔

شَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مشتبه کیا جانا۔

أَشْبَهُهُ و شَابَهَهُ: مانند ہونا۔ مشابہ ہونا۔ أَشْنَهُ فَلَانَ أُمَّةً فَلَانَ ابْنِي مَالٍ كَمَا شَابَهُ بِي لَعْنِي عورت کی مانند عاجز و ضعیف ہے۔

نَشَبَهُ بِهِ: مانند ہونا عمل میں مشابہت کرنا۔

نَشَابَهُ: الرَّجُلَانِ: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔ الْأَمْرُ: مُنَشَابَةٌ یعنی غیر حکم ہونا۔

أَشْتَبَهَا: ایک دوسرے کے مشابہ ہونا۔

أَشْتَبَهُ لِي الْأَمْرُ: صحیح ہونے میں شک کرنا

الْأَمْرُ عَلَيْهِ: پوشیدہ اور مشتبه ہونا۔

الشَّبِيهُ و الشَّبَهَةُ: مثل مانند۔ ج أشباه و مشابہہ جیسے (حسن و محاسن) الشَّبَهَةُ: مشابہت ایک خار دار نباتات جس کے پھول سرخ ہوتے ہیں۔

(الشَّبَهَةُ و الشَّبَهَةُ و الشَّبَهَانِ و الشَّبَهَانِ): جنتیل۔ الشَّبَهَةُ: مثل۔ التَّبَاسُ: شک۔ جس میں حق و باطل یا حلال و حرام کا التَّبَاسُ ہو۔ ج شُبُهہ و شُبُهَات۔

الشَّبِيهَةُ: شیل۔ ایک جیسے۔ ج شِبَاهہ۔

المُشَبَّبَةُ و المُشَبَّبَةُ: مِنَ الْأَمْرِ: مشکل۔ جس میں التَّبَاسُ واقع ہو۔ کہا جاتا ہے "إِنِّي أَنَا و المُشَبَّبَاتُ" اپنے آپ کو امورِ مشکل سے بچاؤ۔

شَبَابِيئِيئِي شَبُونًا: الشَّيْءُ: بلند ہونا۔

الْفَرَسُ: گھوڑے کا دو ٹانگوں پر کھڑا ہونا۔

الْوَجْهُ: چہرے کا سخت ہونے کے بعد چمکانا۔ التَّازِرُ: آگ جلانا۔ روشن کرنا۔

أَشْبَى اشْبَاءَ الرَّجُلِ: دینا۔ عَلَيْهِ: مہربان ہونا۔ ہ: تعظیم و اکرام کرنا۔ مصیبت میں ڈالنا۔ الشَّجْوُ: لبا اور پیچیدہ ہونا۔

الشَّيْءُ: ہمانا۔ الرَّجُلُ: ذہین تجوں والا ہونا۔ صفت (مُشْبِيٌّ و مُشْبٍ):

الْأَوْلَادُ أَبْنَاءَهُمْ: اولاد کا اپنے باپ کے مشابہ ہونا۔ الشَّبَابَةُ: نوزائیدہ بچھو یا زرد بچھو۔ دو ٹانگوں پر کھڑا ہونے والا گھوڑا۔ مِنَ السَّيْفِ: دھار۔ بچھو کا ڈنک۔ ہر چیز کی حد۔ ج شَبَا و شَبَوَات۔ بیوقوف مرد۔ کہا جاتا ہے "هَذَا رَجُلٌ شَبَابَةٌ" یہ بیوقوف مرد ہے۔

شَبَوَةٌ: بچھو کے لئے علم ہے اور علمیت تائیس کی وجہ سے غیر معروف ہے اور کبھی اس پر الف لام بھی آتا ہے۔

الشَّبَوُ: دکھ۔ تکلیف۔ شَبْتُ (ض) شَبًا و شَبَاتًا و شَبِيئًا: متفرق ہونا۔

و شَبَّتْ و أَشَبَّتْ: الْأَشْيَاءُ: متفرق کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَشَبَّتْ بَيْنَ قَوْمِي" میری قوم نے میرے کاموں کو پراگندہ کر دیا۔

نَشَبْتُ و انْشَبْتُ: الشَّغْلُ: متفرق ہونا۔

الشَّبْتُ: مہ۔ کننا۔ پلک اٹھانا۔ عیب و نقص۔ الشَّبْرَةُ: دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔

الشَّبِيرُ: بہت عیب و برائی والا۔ بد خلق۔ الْأَشْبَرُ: الٹی ہوئی پلک والا۔ بچی ہوئی پلک والا۔ نیچے کی ڈھیل پلک والا۔ نیچے کے پھٹے ہوئے ہونٹ والا۔ مَوْنَتُ شَبْرَاءَ: ج شَبْرُ۔

الشَّبْوَقَةُ: بڑے سرخ کی عورت۔ شَبَعٌ (س) شَبَعًا: بیمار یا بھوک کی وجہ سے گھبراہٹنا۔

شَبَعَةٌ (ض) شَبَعًا: روندنا۔ زایل کرنا۔ أَشْبَعَهُ: تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

الشَّبْتُ: مہ۔ پراگندگی۔

أَمْرٌ شَبْتُ و شَبَاتٌ: پراگندہ و متفرق۔ کام (مصدر سے وصف لایا گیا ہے) ج أَشْبَاتٌ کہا جاتا ہے "جَاءَ وَ شَبَاتًا و جَاءَ وَ أَشْبَاتًا" وہ لوگ متفرق متفرق ہو کر آئے۔

شَبَاتٌ: وہ لوگ متفرق متفرق ہو کر آئے۔ نصب حالت کی وجہ سے ہے۔

شَبَانٌ: جنتی علی الفتح اور کبھی نون مکسور ہوتا ہے۔ اسم فعل ہے بَعْدَ کے معنی میں۔ کہا جاتا ہے "شَبَانٌ يَنْتَهِمَا و مَا يَنْتَهِمَا و مَا زَيْدٌ و أَخُوهُ" یعنی ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔

الشَّبِيئَةُ: مہ۔ پراگندہ۔ متفرق۔ ج شَبِيئِي (جیسے مریض و مرضی) نَفَرٌ شَبِيئِيَّتٌ: چھدرے و انت۔

أَنَاسٌ (شَبِيئِيٌّ و شَبِيئِيَّةٌ): مختلف قبائل کے لوگ۔ أَشْيَاءُ شَبِيئِيٌّ: مختلف چیزیں۔ اور کہا جاتا ہے "وَقَعُوا فِي أَمْرٍ شَبِيئِيٍّ" وہ لوگ متفرق امور میں پڑ گئے۔

شَبْرٌ (ن) شَبْرًا: الشَّيْءُ: کانٹا۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ الرَّجُلُ: زخمی کرنا۔ العَيْنُ: پلک اٹھانا۔

شَبْرٌ (س) شَبْرًا: کانٹا۔ نیچے کے پھٹے ہوئے ہونٹ والا ہونا۔ بہ: گالی دینا۔ (شَبْرٌ و شَبْرٌ) الٹی ہوئی پلک والا ہونا یا نیچے کے ڈھیلے پلک والا ہونا۔

شَبْرٌ: عینتہ۔ پلک اٹھانا۔ گالی دینا۔ عیب لگانا۔ قبیح باتیں سنانا۔

أَنْشَبْتُ: عینتہ۔ الٹی ہوئی پلک والی ہونا۔ أَشْبَرُ: مہ۔ کننا۔ پلک اٹھانا۔ عیب و نقص۔

الشَّبْرَةُ: دو انگلیوں کے درمیان کا فاصلہ۔ الشَّبِيرُ: بہت عیب و برائی والا۔ بد خلق۔

الْأَشْبَرُ: الٹی ہوئی پلک والا۔ بچی ہوئی پلک والا۔ نیچے کی ڈھیل پلک والا۔ نیچے کے پھٹے ہوئے ہونٹ والا۔ مَوْنَتُ شَبْرَاءَ: ج شَبْرُ۔

الشَّبْوَقَةُ: بڑے سرخ کی عورت۔ شَبَعٌ (س) شَبَعًا: بیمار یا بھوک کی وجہ سے گھبراہٹنا۔

شَبَعَةٌ (ض) شَبَعًا: روندنا۔ زایل کرنا۔ أَشْبَعَهُ: تلف کرنا۔ ہلاک کرنا۔

المشایع ہلاکتیں۔
 شَمَمَةٌ (ن ض) شَمَمًا وَمَشَمَمَةً وَمَشَمَمَةٌ وَتَشَمَمًا. گالی دینا (شَمَمًا) گالی دینے میں غالب ہونا۔ کہا جاتا ہے "شَمَمَةٌ فَشَمَمَةٌ" اس نے اس سے گالی دینے میں مقابلہ کیا اور غالب رہا۔
 شَمَمٌ (ک) شَمَامَةٌ بد صورت و کرمہ النظر ہوتا۔ صفت (شَمَمٌ) الشَّيْبَانِ غُضْبَانِک شَمَمٌ شَمَمَةٌ بہت گالی دینا۔
 شَمَامَةٌ باہم گالی گلوچ کرنا۔
 تَشَامَتُمُ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو گالی دینا۔
 تَشَمَمٌ گالی سننے کے درپے ہونا۔
 الشَّمَامَةُ: مہ۔ بد صورتی کے ساتھ بدن کی درشتی۔
 الشَّيْبَانَةُ: گالی ج شَمَامَتِی۔
 الشَّمَامُ وَ الشَّمَامَةُ: بڑے چہرہ والا۔ بد خلق۔
 الشَّمَامُ وَ الشَّمَامَةُ: بہت گالی دینے والا۔
 الشَّمَامَةُ: شیر غضبانک۔
 شَمَنٌ (ن) شَمَنًا: القُوب: کپڑے کو بنا۔ صفت (شائین)
 الشَّمَنُ: مہ۔ کہا جاتا ہے "وَجُلٌ شَمَنٌ الکف" سخت پھٹلی والا مرد۔
 الشَّمُونُ: بننے والا۔
 شَمًا يَشْمُو شَمُوًا وَ شَمِي تَشْمِيَةٌ وَ تَشَمِي تَشْمِيًا: بِالْبَلَدِ: کسی شہر میں جاڑے میں قیام کرنا۔ شَمًا وَ تَشَمِي الْمَكَانَ: بزمانہ سرا قیام کرنا۔ شَمَاءُ: زمانہ سرا کے لئے کافی ہونا۔
 شَمًا يَشْمُو شَمُوًا وَ شَمِي وَ أَشَمِي الْقَوْمُ: موسم سرما میں داخل ہونا۔ موسم سرما میں قیام سال کی تکلیف اٹھانا اور کہا جاتا ہے "هَذَا شَمِي يَشْمِيهِ" یہ زمانہ میرے لئے کافی ہوگی۔ حَمَامَةُ الشَّمَاءِ: سردی بڑنا۔
 شَمِي مَشَامَاتَةٌ وَ شَمَاءُ الرَّجُلِ: جاڑے بھر کے لئے معادلہ کرنا۔
 الشَّمَاءُ: مہ۔ موسم سرما۔ جِ الشَّمِيَّةُ وَ شَمِيٌّ: نسبت کے لئے (شَمُونٌ وَ شَمُونِي) الشَّمُونِي: جاڑے کی بارش فاکھنہ الشَّمَاءُ: آگ۔
 الشَّمَاءُ وَ الشَّمَاءُ: قَط۔

الشَّمَاءُ وَ الشَّمُونَةُ: جاڑا۔ صاحب الشَّمُونَةُ: وہ شخص جس کے پاس جاڑے میں پناہ لیں۔
 الشَّمِي: جاڑے کی بارش۔
 المَشَمِي وَ المَشَمَاتَةُ: جاڑے کا زمانہ یا جاڑے کی جگہ۔ موسم سرما گزارنے کی جگہ۔ جِ المَشَامِي۔
 کہا جاتا ہے هَذِهِ مَشَامَاتِنَا وَمَشَامَاتِنَا وَمَشَامَاتِنَا وَمَشَامَاتِنَا: یہ ہمارے سرانی و گرمائی و رشتی منازل ہیں۔
 أَلَشَمْتُ: چھوٹے سیب کی طرح خوشبو دار کڑوے مزے کے پھل کا ایک درخت جس میں کاسٹے نہیں ہوتے اور اس کے پھل کو چڑے کی ریاضت میں استعمال کرتے ہیں۔ جنگلی اخروٹ۔ شمد کی کھیاں۔ پہاڑ کی چوٹی جو ٹوٹنے کے بعد کنگرہ کی مانند رہ جائے۔ جِ شِمَاثُ: واحد (الشَّمَّةُ) الشَّمْتُ: ہر چیز کی بہت تعداد۔
 شَمِيْرٌ (س) شَمُوًا عَيْنُهُ: آکھ موٹی ہونا۔
 الشَّمُو: پہاڑ کا کنارہ۔ جِ شَمُوْرٌ: قِطَاعَةٌ شَمِيْرَةٌ: نیزہ کر جس کے گلے ٹوٹنے کے وقت اڑیں۔
 شَمِلْتُ (س) شَمَلًا وَ شَمَلْتُ (ک) شَمُولَةٌ: اصابعہ: موٹی ہونا۔
 شَمِيلٌ: الأَصَابِعِ: سخت اور موٹی اگھوں والا۔
 قَدَمٌ شَمَلَةٌ: موٹا اور سخت قدم۔
 شَمِيٌّ: بمعنی شَمِيلٌ۔
 شَمَجٌ (ن ض) شَمَجًا: الرِّاسُ: زخمی کرنا۔ توڑنا۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ يَشْمَجُ مَرَّةً وَ يَأْسُو مَرَّةً" فلاں کبھی غلطی کرتا ہے کبھی درست کرتا ہے۔ شَمَجٌ المَفَارِزَةُ: بیابان طے کرنا۔
 المَزَكِبُ النُّجُومِ: جہاز کا سمندر کو پھاڑنا۔
 الشَّمَرَاتُ بِالْمَاءِ: طوٹی کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَمَجُ الأَرْضِ بِوِاجِلِيهِ" یعنی بہت تیز چلایا۔
 شَمَجٌ (س) شَمَجًا: سر میں زخم یا نشان زخم والا ہونا۔ صفت (أَشَجٌ وَ شَجِيحٌ) جِ شَمَجِي وَ (مَشَجُوْجٌ وَ مَشَجِيحٌ) الشَّجِيحُ وَ المَشَجِيحُ: بچ۔ کھوٹی۔
 شَمَجِيَّةٌ: سر کو بہت زخمی کرنا۔ شَمَجِي عَلَي الأَمْرِ: بہت ارادہ کرنا۔
 شَمَجٌ مَشَامَجَةٌ وَ شَمَجًا وَ شَمَجًا: الْقَوْمُ:

ایک دوسرے کے سر کو زخمی کرنا۔
 الشَّمَجَاجُ: نعلبائے آسانی۔
 الشَّمَجَةُ: سر کا زخم جِ شَمَجَاجُ۔
 الشَّمَجِيحُ: مہ۔ پیشانی میں زخم کا نشان۔
 الشَّمَجَاجُ: سر کو بہت زخمی کرنے والا۔
 شَمَجِيَّةٌ (ن) شَمَجِيًا: ہلاک کرنا۔ غمگین کرنا۔
 شَمَجِيحٌ کر مشغول کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِنَّكَ لَتَشَجِيحِي عَنِ حَاجَتِي" تو مجھ کو میری حاجت سے مشغول رکھتا ہے "شَمَجِبُ المَقْتِنَةُ بِشَمَجَابٍ" اس نے شیشی میں ڈاٹ لگا لی۔
 شَمَجِبٌ (ن) شَمَجِيًا وَ شَمَجُوْبًا وَ شَمَجِبٌ (س) شَمَجِيًا: ہلاک ہونا۔ مرنا۔ غمگین ہونا۔ صفت (شَمَجِبٌ وَ شَمَجِبٌ) الشَّمِي: جانا۔
 شَمَجِبٌ (ن) شَمَجِيًا: الغُرَابُ: کر کے کا جہاز کے لئے آواز کرنا۔
 أَشَمَجِيَّةٌ: غمگین کرنا۔
 تَشَمَجِبُ: الشَّمِي: خلط طپ ہونا۔ بعض کا بعض میں داخل ہونا۔
 تَشَمَجِبُ: غمگین ہونا۔
 الشَّمَجِبُ: مہ۔ حاجت۔ غم۔ ستون خانہ۔ منگ کر جس کا نصف کاٹ کر ڈول بنا لیں۔ جِ شَمَجُوْبٌ وَ أَشَمَجَابُ۔
 الشَّمَجِبُ: مہ۔ رنج و تکلیف جو مرض یا قائل کی وجہ سے لاحق ہو۔ جِ شَمَجُوْبُ۔
 الشَّمَجَابُ: بہت تک کر کے والا۔
 مِنَ الغُرَابِيَانِ: بہت کاس میں کاسیں کرنے والا کو۔
 الشَّمَجَابُ: شیشی وغیرہ کی ڈاٹ۔ جِ شَمَجِبُ الشَّمَجَابُ وَ المَشَجِبُ: لکڑی کا شینڈ جس پر کپڑے رکھے اور پھیلانے جاتے ہیں۔
 الشَّمَجِيَاءُ: منگ۔
 الشَّمَجِيَّةُ: نرم بارش۔
 المَشَمَجَادُ: گوچمن۔
 شَمَجُوْ (ن) شَمَجُوًا: الشَّمِي: باندھنا۔
 فَلَانًا: علیحدہ کرنا۔ منع کرنا۔ کہا جاتا ہے "مَا شَمَجُوْكَ عَنْ كَذَا" تم کو فلاں سے کس چیز نے روکا۔
 الرَّجُلُ بِالرَّمْحِ: نیزہ مارنا۔
 فَمَةً: لکڑی سے کھونا۔
 الذَّاهَةُ: جانور کو

نہرانے کے لئے لگام سے اراتا ہاں تک کہ منہ کھول دے۔ الشجرۃ: درخت کے بعض حصے کو پکڑنا۔ النبت: ستون لگانا۔ النبتات: جھلی ہوئی ٹہنیوں کو اٹھانا۔

شجر (ن) شجرۃ او شجرۃ۔ بینہم اُمّو: مختلف فیہ ہونا اور کہا جاتا ہے "شجر مائینہم" ہاہم جھگڑنا۔

شجر (س) شجرۃ۔ الرجل: بست جمعیت والا ہونا۔

شجر۔ التبات: درخت ہو جانا۔ التخل: ٹوٹنے کے خوف سے خوشہ کو نشی پر رکھنا۔

شجرۃ مشاجرۃ۔ جھگڑنا کرنا۔ الماشیۃ: گھاس وغیرہ ختم ہو جانے سے درخت کے چوں پر گزارہ کرنا۔ الماشیۃ: جانور کو درخت چرانا۔

أشجر۔ المکان: درخت آگانا۔

تَشَجَّر۔ القَوْم: ہاہم مخالفت کرنا۔ ہاہم جھگڑنا کرنا۔ تَشَجَّرُوا بِالرِّمَاح: ہاہم تیز بازی کرنا۔ الشی: بعض کا بعض میں داخل ہونا۔

إشجَرَ۔ جلدی سے چمکارا پانا۔ نَوْمۃ: نیند کا دور ہونا۔

إشجَرَ۔ القَوْم: ہاہم جھگڑنا۔ الرجل: آگے بڑھنا۔ جلدی سے چمکارا پانا۔ ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ کا سارا دینا اور اسی سے ہے "نبت مُزْتَفِقًا مَشَجَّرًا"۔

نَوْمۃ: نیند کا دور ہونا۔

الشجر۔ درخت، ج اشجار و شجرۃ۔ واحد (شجرۃ) شجرۃ۔ شجرۃ النسب: جس میں مورث اہل سے لے کر اولاد و اولاد تک کا بیان ہو۔ الشجرۃ الملقوۃ: جو ہر کا درخت۔ شجرۃ الحیات: وہ شجرۃ مغربۃ الخیرین الشجر: وہ درخت جس کا پھل کھانے سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔

الشجر۔ درخت۔ شجر میں ایک لغت ہے۔ الشجر۔ مہ۔ مختلف فیہ امر۔ ٹھوڑی یا دونوں جیزوں کے درمیان کا حصہ۔ منہ کا وہ حصہ جو بند

کرتے وقت ظاہر ہو۔ ج اشجار و شجرۃ و شجرۃ۔ الحروف الشجریۃ: ش ض ح۔ اور بقول بعض۔ ش ح ق کی۔

الشجرۃ۔ اسم مرۃ۔ چار زخداں۔

مکان (شجر) و شجر و أشجر و مشجر) درختوں والی یا بست درختوں والی جگہ۔ مؤنث شجرۃ و شجرۃ و شجرۃ و شجرۃ و مشجرۃ۔

الشجرۃ۔ گنجان درخت۔ گنجان درختوں والی زمین اور اس کے مقابلہ میں مراد ہے۔ یعنی وہ زمین جس میں درخت نہ ہوں۔ اور اس سے ہے "فقطعت کل شجرۃ و مزداۃ" میں نے ہر قسم کی گنجان درختوں والی اور پھیل زمین طے کی۔

الشجار و الشجار۔ ہودہ کی لکڑی۔ کھلے ہوئے سر کی چھوٹی یا کٹی۔ الشجار: دروازے کے پیچھے لگانے کی لکڑی۔ جو تھنی یعنی لکڑی جو بکری کے بچے کے منہ میں لگائی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔ کنوئیں پر کی لکڑی۔ اونٹ کا داغ۔ ج شجر۔

الشجیر۔ تلوار۔ اجنبی اونٹ یا آدمی۔ برا ساتھی۔

الشجار۔ درختوں کا ہر ج شجراؤں۔ الشواجر۔ مشقول رکھے والی چیزیں۔ حواہج و رماح شواجر: ایسے تیزے جن کے گھاؤ مختلف جگہ ہوں۔

المشجر و المشجر۔ ہودہ کی لکڑی، کھلے ہوئے سر کی چھوٹی یا کٹی۔ المشجر: درخت کی جگہ۔ المشجر: لکڑی کا اسٹینڈ جس پر کپڑے رکھے یا پھیلائے جاتے ہیں۔ ج مشاجر۔

مکان (مشجر) بست درختوں والی جگہ۔

نوب (مشجر) درخت کی طرح نقش و نگار سے مزین کپڑا۔ اہل چین کی تحریر کو بھی مشجر کہتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ بھی درخت کی طرح ہوتی ہے۔

شجوع (ک) شجاعۃ۔ دلیر و ببادر ہونا۔ شجعۃ (ن) شجعۃ۔ دلیری و بہادری میں غالب ہونا۔

شجع (س) شجعۃ۔ لباہونا۔ صفت (أشجع) مؤنث شجعۃ۔

شجعۃ۔ قوی دل بنانا۔ علی الأمر: جرأت دلانا۔

شجاعۃ۔ دلیری میں مقابلہ کرنا۔

شجع۔ بہادر بنانا۔ بکلف دلیری ظاہر کرنا۔

الشجاع و الشجاع و الشجاع۔ دلیر بہادر۔ جری۔ ج شجعان و شجعان و شجاع و شجعۃ و شجعۃ و شجعۃ و شجعۃ۔

الشجاع و الشجاع: ایک قسم کا سانپ۔ ج شجعان و شجعان و أشجعۃ۔

رجل (شجعۃ و شجعۃ) عاجز بزدل مرد۔ بے ڈول لبا۔

الأشجع۔ اسم تفضیل۔ بہادر۔ مؤنث شجعۃ۔ ج شجع۔ شیر لبا۔ آگے بڑھنے والا اونٹ۔ ایک قسم کا سانپ۔ زانہ۔

الأشجع و الأشجع۔ انگلی کی جڑ جو ظاہر کف کے پچھے سے ٹہلی ہوتی ہے یا پھیلنے کی پشت کی رگ۔ ج أشجاع۔

الشجع۔ بہادر۔ دیوانہ اونٹ۔ جعل شجع القوائم: جلدی قدم اٹھانے والا اونٹ۔

الشجع۔ دلیر بہادر۔ ج شجعان و شجاع و شجعۃ و أشجعۃ۔ مؤنث شجعۃ۔ ج شجاع و شجاع و شجع۔

الشجع۔ درخت کی جڑیں۔

الشجاعۃ۔ دلیری۔ بہادری۔ خوف کے وقت دل کی مضبوطی۔

المشجع۔ انتہائی باکل۔

الشجعۃ۔ شیر لبا۔ جرم انسان یا انسان کی گردن۔

الشجع۔ ہلاکت۔

الشجع۔ لمبی اور بڑی مہجیں۔

شجن (س) و شجن (ک) شجن و شجنونا۔ عملیں ہونا۔ صفت (شاجن) شجنۃ (ن) شجننا و شجنونا و شجنۃ۔

شجنۃ۔ عملیں کرنا۔ شجنۃ (ن) شجنونا۔ الحماۃ: کوتر کا نام کے ساتھ لودہ کرنا۔

أشجنۃ۔ عملیں کرنا۔ أشجن الکثر: انگور

کے ررخت کا پچیدہ اور ابھی ہوئی شاخوں والا ہوتا۔

تَشَجَّنَ - حرکت کرتا۔ ٹمگین ہونا۔
الْأَمْزُ بِيَاوُكْرَا - الشَّجْوُ: ررخت کا گنجان ہوتا۔

الشَّجْنُ - مہ - الشَّجْنُ - ج شَجُونٌ و (الشَّاجِنَةُ - ج شَوَاجِنٌ) وادی کا راستہ یا وادی کے بالائی حصہ کا راستہ۔

الشَّجْنُ - مہ - غم - اندوہ - خواہش نفس - ج شَجُونٌ وَأَشْجَانٌ - (الشَّجْنُ وَالشَّجِنَةُ وَالشَّجِنَةُ وَالشَّجِنَةُ) ابھی ہوئی پچیدہ ٹہنی۔ ہر چیز کی شاخ۔ کہتے ہیں "الْحَدِيثُ ذُو شَجُونٍ" یعنی بات میں بات نکلتی ہے۔ الشَّجِنَةُ: پہاڑ کا شگاف۔ شَجِنَةٌ وَشَجِنَةٌ كِي تَجَّ شَجْنٌ وَشَجْنٌ وَشَجْنٌ وَشَجْنَاتٌ وَشَجْنَاتٌ وَشَجْنَاتٌ۔

شَجَا (ن) شَجْوًا وَأَشْجَى إِشْجَاءً - الزُّجْلُ: ٹمگین کرنا۔ خوش کرنا (شد) برا ٹمگین کرنا۔ أَشْجَى الْغَرِيمِ أَوْ السَّائِلِ: قرض خواہ یا سائل کو اس کی خواہش کے مطابق دینا۔

شَجَى (س) شَجَاً - ٹمگین ہونا۔
بِالشَّجَا: حلق میں ہڈی پھنس جانے سے گھٹنا اور اسی سے ہے "عَلَيْكَ بِالْكُظْمِ وَإِنَّ شَجِيئَ بِالْعَظْمِ" اگر تمہارے حلق میں ہڈی پھنس جائے تو اپنے اوپر بردباری کو لازم جانو۔ شَجَى الْغَرِيمَ عَنهُ: جانا۔ تَشَاجَى: حزن و ملال ظاہر کرنا۔

الشَّجَا - مہ - ہڈی وغیرہ جو حلق میں پھنس جائے۔ غم و اندوہ۔

الشَّجْوُ - مہ - غم - اندوہ - حاجت - کہا جاتا ہے "لَهُ عِنْدِي شَجْوٌ" اس کی مجھ سے ایک حاجت ہے۔ گریہ و زاری کا ایک دور۔ کہا جاتا ہے "بَكَى فَلَانَ شَجْوَهُ" و "بَكَتِ الْحَمَامَةُ شَجْوَهَا" الشَّجَى الشَّجَى - ٹمگین۔ فکر مند۔ مَوْتٌ شَجِيَةٌ وَ شَجِيَّةٌ اور نسبت کے لئے (الشَّجْوِيُّ) مَفَازَةٌ (شَجْوَاءُ) دشوار گزار یا باں۔

الشَّجْوَجِيُّ وَالشَّجْوَجَاةُ - لگاتار ہوا۔

الشَّجْوَجِيُّ: بہت لمبایا لمباموٹی ہڈیوں والا۔ موٹا فریہ گھوڑا۔

المَشَّجُورُ - اندوہناک۔
شَخَّ (ن ض س) شَخًا وَشَخًا وَشَخًا - بِالشَّيْءِ وَعَلَى الشَّيْءِ: بخل کرنا۔ حرص کرنا۔

شَخَّ بِالشَّيْءِ عَلَى فُلَانٍ: کسی سے کسی چیز کا بخل کرنا۔ ہ: کسی سے جھگڑا کرنا۔ اسی سے ہے "لَا مَشَاخَةَ فِي الْأَمْوَالِ" یعنی معاملہ بالکل صاف ہے اس میں کوئی منافقت اور جھگڑا نہیں۔

شَخَّ الْقَوْمَ عَلَى الْأَمْوَالِ وَفِيهِ: کسی چیز میں باہم بخل کرنا۔ تَشَاخَوْا عَلَى الشَّيْءِ: اپنے لئے اختیار کرنے کا ارادہ کرنا۔ تَشَاخَّ الْخَصْمَانِ فِي الْحَدَلِ: ہر ایک کا تاب ہونے کا ارادہ کرنا۔

الشَّخَّ - مہ۔

الشَّخِيحُ - بخیل۔ حریص۔ ج شَخَاخٌ وَ أَشْخَاءُ وَأَشْخَاءُ - مَوْتٌ شَخِيحَةٌ - ج شَخَاخٌ - اہل شَخَاخٌ کم دودھ والی اونٹنیاں۔

الشَّخَاخُ - بخیل۔ حریص۔ الشَّخَاخُ مِنَ الْأَرْضِ: وہ زمین جو بغیر زیادہ بارش کے پانی نہ بہائے۔ زَنْدٌ شَخَاخٌ: چھتاق جو آگ نہ دے "فَاءُ شَخَاخٌ": تھوڑا پانی جو زمین کو نہ ڈھکے۔

شَخَبَ (ف ن) وَ شَخَبَ (ك) وَ شَخَبَ شَخْوَبَةٌ وَ شَخْوَبَةٌ: لَوْنَةٌ: بھوک یا مرض وغیرہ کی وجہ سے چرے کا رنگ بدلنا۔

الشَّاجِبُ - فا - لاغریا رنگ بدلا ہوا اور کہا جاتا ہے "شَاجِبُ اللَّوْنِ" جیسے کہا جاتا ہے "شَاجِبُ الْجَسْمِ"

شَخَبَتْ (ف) شَخَبًا الْمُدْيَةَ: چھری تیز کرنا۔

شَخَجَ (ف ض) شَخِيحًا وَ شَخَاجًا وَ تَشَخَجًا وَ تَشَخَجَ: الْبَغْلُ أَوْ الْغَرَابُ: چمچر کا ہنسانا۔ کوئے کا کاکس کا میں کرنا۔

الشَّخَاخُ وَالْمَشَخِيحُ وَالشَّاجِبُ: گور نر۔ بَنَاتٌ شَخَاخٌ وَ بَنَاتٌ شَاجِبٌ: چمچر۔

شَخَاخٌ: الْبَغْلُ أَوْ الْغَرَابُ (و شَخِيحُهُمَا) چمچر یا توڑوں کی آواز۔

الشَّوَاخِجُ - کوئے۔

شَخَذَ (ف) شَخَذًا - السَّيِّئِينَ وَنَحْوَهُ:

چھری تیز کرنا۔ صفت مفعول (شَخَوذُو شَخِيحًا)

هَبْ بَصْرَهُ: گھورتا۔ هَبْ عَيْنَيْهِ: نظرد لگاتا۔

الشَّجْوَعُ مَعْدَتُهُ: سخت بھوک لگنا۔ فِي التَّسْتَوَّلِ: مانگنے میں بہت اصرار کرنا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَشْحَذُ النَّاسَ" وہ لوگوں سے اصرار سے مانگتا ہے۔ عَلَيْهِ: غضبناک ہونا۔ الذَّابَّةُ: جانور کو تیز ہانکنا۔ وَ تَشْحَذُهُ: ہٹانا۔ دھکارتا وَ تَشْحَذُ الزُّجْلُ: سوال کرنے میں اصرار کرنا۔

أَشْحَذَ السَّيِّئِينَ: چھری تیز کرنا۔ شَاخَذَهُ: تلوار وغیرہ تیز کرنے میں مشابہت کرنا۔

الشَّخَاذُ: گداگر۔ سائل۔ ج شَخَاجِدَةٌ (الشَّخَاذَةُ) گداگری کا پیشہ۔

الشَّخَذَانُ وَالشَّخَذَانُ: بھوکا۔ ہانگے والا۔ ہلکا چلنے والا۔

رَجُلٌ (شَخَذُوذٌ) تیز اور غصہ کے وقت طیش میں آنے والا۔

المَشْحَذُ: چھری وغیرہ تیز کرنے کا سامان تیز ہانگے والا۔

المَشْحَاذُ نِيلٌ: پہاڑ کی چوٹی۔ ج مَشْحَاخِذٌ الْمَشْحَاذَةُ: وہ چیز جو باعث تیزی ہو۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الْكَلَامُ مَشْحَذَةٌ لِلْفَهْمِ" یہ کلام سمجھ کے لئے باعث تیزی ہے۔

شَخَزَ (ف) شَخْوًا: منہ کھولنا۔

الشَّخْرُ - مہ - پانی بہنے کی جگہ۔ بطن وادی (و الشَّخْرُ) کنارہ - ساحل۔

شَخْرَ عَمَّانَ وَ شَخْرَ عَمَّانَ: عمان اور عدن کے درمیان کا ساحل۔

الشَّخْوَةُ: ٹنگ ساحل۔

الشَّخْوُزُ: کالے رنگ کا چڑیا سے بڑا ایک خوش آواز پرندہ۔ ج شَخْوَانِيُو۔ اور اس کو (شَخْوَرُ) بھی کہا جاتا ہے۔

شَخَزَ (س) شَخْرًا: گھبرانا۔ ڈرنا۔

شَخَزَ (ف) شَخْرًا: جمع کرنا۔

شَخَشَحَ: الْبَعِيضُ: اونٹ کا آواز کو پھرانا۔

الظَّائِرُ: پرندہ کا جلدی سے اُڑنا۔

چوکتار ہٹنا۔ الضُّرْدُ: آواز کرنا۔

مارنے کے لئے تیار کرنا۔ الصبیء: رونے کے لئے آمادہ ہونا۔

شاختہ: بغض و عداوت رکھنا۔ دشمنی کرنا۔

تَشَاخَتْوا: ایک دوسرے سے بغض رکھنا۔

الشخفاء: بغض۔ کینہ۔ دشمنی۔ عداوت۔

الشخنة: عداوت۔ دشمنی۔ کشتی بھرنے کی چیز۔ شخنة التلبید: پولیس۔ کو توال۔ سواروں کی جماعت کا ایک دستہ۔ کہا جاتا ہے "بالتلبید شخنة من الخيول" شرمیں سواروں کی جماعت کا ایک دستہ ہے۔ الشخنة: چارپایوں کے لئے ایک سو دن رات کا چارہ۔ رج شخن۔ منزكث (شاحن) بھری ہوئی سواری۔

المشاجح: قا۔ عَدُوٌّ وَمُشَاجِحٌ: بہت سخت دشمنی کرنے والا دشمن۔

شَخَا يَشْخُو وَيَشْخَا شَخْوًا: التَّوَجُّلُ: مِنْهُ كَهَوْنًا _____ اللِّجَامُ فَمَ الْفَرَسِ: كَهَوْنًا۔

شَخَا التَّوَجُّلُ: قدم کو دور دور رکھنا۔

الفَمُ: کھانا۔

أشخى: فہا: کھولنا۔

شَحِيحٌ تَشْحِيحٌ: فَوْهُ: مِنْهُ كَهَانًا۔

تَشْحِيحٌ: عَلِيَّةٌ: زبیاں ورازی کرنا۔

الشخفاء: وسیع کشادہ چوڑا۔

الشخو: جوف۔

الشخوة: اسم مرء۔ قدم۔ کہا جاتا ہے "فَرَسٌ يَبْعِدُ الشخوة" دور دور قدم رکھنے والا گھوڑا۔

"تَّوَجُّلٌ يَبْعِدُ الشخوة فِي مَقَاصِدِهِ" اپنے مقاصد میں عالی بہت مرد۔

الشخواء: چوڑا کتواں۔

شَحِيحٌ يَشْحِي شَخِيًا: ایک لخت ہے۔

شحاواوی میں۔

طَخَّ (ن) شَخًا: پیشاب کرنا _____ فِي التَّوْمِ: خَرَانَةٌ لِيَنَا _____ اللبَنِ: دوشنے کے وقت آواز لگانا۔

شَخَبَ (ف) ن) شَخِيًا وَمَشَخِيًا: اللبَنِ: دودھا _____ اللبَنِ: سنا _____ أَوْ دَاجُ القَيْلِ دَمًا: متقول کی رگوں سے خون جاری ہونا۔

إِنْ شَخَبَ: دوحا جانا۔

صفت (شحجم)

شَحِمَتْ (س) ن) شُخُوْمًا: التَّافَّةُ: لاغری کے بعد موٹی ہونا۔

أَشْحَمَ: بہت چربی والا ہونا (_____ وَشَحْمٌ) القَوْمِ: چربی کھانا۔

الشحوم: چربی۔ ایک نکلے کو (شَحْمَةٌ) کہتے ہیں۔ ج شُخُوْمٌ۔

الشاحم والشحام: چربی پیچنے والا۔ الشحام: بہت چربی کھانے والا۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ شَاحِمٌ لِأَجْمٍ" چربی دار پر گوشت مرو یا لوگوں کو بہت چربی کا گوشت کھلانے والا۔

الشخمة: چربی کا نکلنا۔ شخمة الأذنی: کچھو۔ سانپ کی چھتری۔ شخمة الأذنی وشخمة الزمّل: گرگٹ کی قسم کا ایک جانور جو زمین یا ریت میں گھس کر رہتا ہے۔

العین: آنکھ کا گلہ۔ شخمة الأذنی: کان کی لو۔

شخمة الزمان: انار کے اندر کاربائیک چمکنا۔ العُزج: خشکی اور امثال میں سے ہے "مَا كَلْتُ يَبْضَاءَ شَخْمَةً وَلَا كَلْتُ مَزَادًا نَمْرَةً" ہر سفید چیز چربی اور ہر سیاہ چیز کچھو نہیں ہوتی۔ اس موقع پر ملتے ہیں جب کسی ایک صفت میں مشابہت اور بقیہ صفات میں مخالفت ہو۔

الشحوم: تھوڑے رس کا گور۔ چربی کا تھل۔

الشحيم: اکڑ۔

الشحيم: موٹا۔

الشحيم والشحيمة: سربایوں کے فرائض نمازی کتاب (کلمہ سربانیہ ہے)

المشحيم والمشحيم: گھر میں بہت چربی رکھنے والا۔

المشحيم والمشحوم: چربی کی بنی ہوئی چیز۔

شحن (ف) شخنا: التفتية: کشتی پر لادنا۔

_____ المدينية بالخيل: بھرنا۔ الرجل: دھکارنا۔ دور کرنا۔

شحن (ف) ن) وشحن (س) شخنا: الکیلاب کتوں کا دور تک جانا اور شکار نہ کرنا۔

شحن (س) شخنا: عَلِيَّةٌ: کینز رکھنا۔

أشحن: أَلْمَكَانَ: بھرنا۔ السيف: میان میں کرنا۔ سوجنا (شد) _____ لَهُ يَسْتَهْمُ: تیر

الشخشع والشخشاخ: بے برکت۔ بخیل۔ بد خلق۔ بخیلی کرنے والا۔ الشخشع: وسیع بیابان۔ ہبادر مرد۔ غیرت دار۔ خوش بیان پیکر۔

الشخشخان: بخیل۔ غیرت دار۔ لبا۔

المشخشع والمشخشع: بے برکت۔

أشخصه: تھکانا۔ _____ مِنَ الْمَكَانِ وَشخصه: عَنَهُ: دور کرنا۔ ہٹانا۔ جلا وطن کرنا۔

الشخوؤص: تھکن کی وجہ سے ڈلی اونٹنی۔

شخط (ف) شخطا وشخطا وشخوؤطا وَمَشخطًا: الأناة: برتن بھرنا۔ اللبَنِ: دودھ میں زیادہ پانی ملانا۔ العُقُوبُ: الرجلُ: بچھو کلاسا۔ الظائر: پرندہ کابیت کرنا۔ فلانًا: سبقت لے جانا۔

وشخط (س) شخطا: المکان: دور ہونا۔

شخط وشخط الجمل: اونٹ کو وزن کرنا۔

شخط بالدم: خون سے تھزنا۔

شخطه: خون میں تھیزنا۔

أشخطه: دور کرنا۔

تَشخط بالدم: خون سے تھزنا۔

الشخط: دم۔ خون میں لپت ہونا۔ پرندہ کی بیٹ (_____ والمشخط) _____ اگور کی

شینیوں کو اُٹھانے کا تھم۔ عوام اس کو (شخوؤک) کہتے ہیں۔

منزِلٌ (شاحظ) دور کی منزل۔

الشخاط: دور۔

شواظط: الأدویة: دور کی وادیاں۔

الشوخطة: لہی گھوڑی۔

شَحَاك (ف) شَحَاكًا: الجَدِي: بکری کے پیچے کے منہ میں تھو تھنی لگانا۔

الشحاک: تھو تھنی جو بکری کے پیچے کے منہ میں لگائی جائے تاکہ دودھ نہ پئے۔

شَحَلُ: الكزَمُ: اگور کی تیل تراشا۔ کلمہ عامیہ ہے۔ ضح قَضَب ہے۔

شخمة (ف) شخما: چربی کھانا۔

شحَم (ک) شحامة: بہت چربی دار ہونا۔

صفت (شحجم)

شحَم (س) شخفا: چربی کی خواہش کرنا۔

الزمامی: نشانہ سے ہٹ کر بلند پڑنا یا ڈالنا۔ (لازم و متعدی)
 تَشَخُّصٌ - معین ہونا۔ تمیز ہونا۔ لُغَةً: کسی شخص کی صورت دکھائی دینا۔
 تَشَاخُصُوا - باہم اختلاف کرنا۔
 الشَّخْصُ - جسم انسانی وغیرہ جو دور سے دکھائی دے۔ ج - اشْخَاصٌ و اشْخَاصٌ و شُخُوصٌ۔
 الشَّخِصُ - جسم۔ مؤنث شَخِصَةٌ۔ سردار۔
 مِنَ الْمَنْطِقِ: ترش روئی سے گفتگو کرنے والا۔
 الشَّخْفُ - دودھ دوہنے کی آواز۔
 الشَّخَافُ - دودھ۔
 شَخْلٌ (ف) - شَخْلًا - الشَّرَابُ: صاف کرنا۔
 النَّاقَةُ: دوحہ۔
 شَاخَلَهُ: خالص دوستی کرنا۔
 الشَّخْلُ وَالشَّخِيطُ: خالص دوست۔
 الْمَشْخَلُ وَالْمَشْخَلَةُ: چمنا۔
 الْمَشْخَلَبَةُ: موتی کے مشابہ سفید مرہ۔ ایک زیور کا نام جو درخت ترمی کی چھال اور مرہ سے بناتے ہیں اور کبھی اس لڑکی کو بھی مَشْخَلَبَةُ کہتے ہیں جو اس زیور کو استعمال کرے۔
 شَخَمٌ (ن) و شَجَمٌ (س) و شَخْمٌ (ک) شُخُومًا و شَخْمًا و اشْخَمَ - الطَّعَامُ او اللَّحْمُ: بگڑنا۔ خراب ہونا۔ فاسد ہونا۔ صفت (شَجَمٌ) الفم: منہ کا بدبودار ہونا۔
 اشْخَمَ الزَّجْلُ: رونے کے لئے تیار ہونا۔
 شَخَمَ الطَّعَامُ: خراب کرنا۔
 كَابِدُودَارٌ ہونا۔
 اشْخَامُ التَّبِيثِ: خشک و ترگھاس کا آپس میں مل جانا۔
 شَعْرٌ (اشْخَمٌ) سفید بال۔ زَوْضٌ اشْخَمٌ: بے نباتات کے باغ۔ عامٌ اشْخَمٌ: خشک سال جس میں نہ پانی ہونہ چر آگاہ۔
 الشَّخْمُ: وہ لوگ جن کی ناک خوشبو یا بدبو سے بند ہوگئی ہو۔
 الشَّخَا: شورہ زار۔
 شَدَّ (ض) ان - شَدًّا - الزَّجْلُ: دوڑنا۔

الشَّخْوُ: مہ۔ رنج و مشقت کی شدت۔
 شَخَسَ (ف) شَخْسًا - الزَّجْلُ: مضرب ہونا۔
 الْجِمَازُ: گدھے کا جمالی کے وقت منہ کھولنا۔
 اشْخَسَ - الزَّجْلُ و بہ: نسیب کرنا۔ اشْخَسَ لَهُ فِي الْمَنْطِقِ: گفتگو میں ترش روئی کرنا۔
 شَاخَسَ - امْرُؤٌ الْقَوْمِ: مختلف ہونا۔
 الْجِمَازُ: بید سو گھنٹے کے بعد سر اٹھا کر منہ کھولنا۔
 تَشَاخَسَ - الْجِمَازُ: بمعنی شَخَسَ او شَاخَسَ۔ اَسْتَنَاهُ: بڑھاپے کی وجہ سے گر کر یا جھک کر بے ترتیب ہونا۔ امْرُؤُهُمْ: بہا۔
 الشَّخِيشُ: حکم کے خلاف کرنے والا۔ امر حَقْرٌ۔
 شَخَشَعَ - يَبْزُلُهُ: دور تک پیشاب کی دھار گرانا۔ صفت (شَخَشَا) شَخَشَحَتِ النَّاقَةُ: بیٹھے ہوئے سید اٹھانا۔
 الشَّخْشِخَةُ: مہ۔ ہتھیار کی جھکار۔ کاغذ یا نئے کپڑے یا خشک چیز کی آواز۔
 شَخَصَ (ف) شَخُوصًا - الشَّيْءُ: بلند ہونا۔
 عَنِ قَوْمِهِ اَوْ مِنْ بَلَدٍ اِلَى بَلَدٍ: جانا۔ کوچ کرنا۔
 الْيَهْمُ: واپس آنا۔ لوٹنا۔
 التَّجْمُ: ستارہ کا طالع ہونا۔ السَّهْمُ: تیر کا نشانہ سے اوپر اور نکل جانا۔ الْجِرْخُ: سوجنا۔ درم کرنا۔ بَصْرَةٌ: ٹھنکی لگانا۔
 الْمَيْثُ بَصْرَةٌ و يَبْصُرُهُ: میت کی نگاہ کا گلہ لارہ جانا۔
 شَخِصَ: بہ: کسی امر کے لائق ہونے سے بے قرار ہونا۔
 شَخِصَ (ک) اشْخَاصَةً: موٹا ہونا۔
 شَخِصَ - الشَّيْءُ: تعین کرنا۔ تمیز کرنا اور اسی سے اطباء کے نزدیک شخصیں امراض ہے۔
 اشْخَصَهُ: بے آرام کرنا۔ بے قرار بنانا۔
 اشْخَصَ الزَّجْلُ: جانے کا وقت قریب قریب ہونا۔ بہ: نسیب کرنا۔ لُغَةً الْمَنْطِقِي و اشْخَصَ اِلَيْهِ: گفتگو میں ترش روئی کرنا۔
 اِلَى قَوْمِهِ: واپس کرنا۔ لوٹنا۔

الشَّخَابُ: تازہ دودھ۔
 الشَّخْبُ: مہ۔ خُونُ (الشَّخْبُ) دودھ کی دھار۔ واحد (الشَّخْبَةُ) ج - شَخَابُ - الْأَشْخُوبُ: تمھن سے دودھ نکلنے کی آواز۔ ج - اشْخَابِيْبُ۔
 دَوْحٌ (شَخِيبٌ) خُونٌ پھینکنے والی رنگ۔
 الشَّخَابُ وَالشَّخُوبُ وَالشَّنْخُوْبَةُ: پہاڑ کی چوٹی ج - شَخَابِيْبُ۔
 شَخَّتْ (ك) شُخُوْبَةً: ڈبے جسم والا ہونا۔
 صفت (شَخَّتْ و شَخَّتْ) ج - شَخَاتٌ: کجا جاتا ہے۔ "هُوَ شَخَّتُ الخُلُقِ" وہ ادنیٰ اخلاق والا ہے۔ و "هُوَ شَخَّتُ العَطَاءِ" وہ کم دام دودھش والا ہے۔ "هُوَ شَخَّتُ الجَزَاةِ" وہ باریک ٹانگوں والا ہے۔
 شَخْتَهُ: الیہ۔ بچانا۔
 الشَّخْتُ وَالشَّخِيْتُ وَالشَّخِيْبُ وَالشَّخِيْبَةُ: بلند غماز۔
 الشَّخْشُوْرُ وَالشَّخْشُوْرَةُ: ڈوگی۔ جس میں ایک ہی آدمی سوار ہو۔
 شَخْرٌ (ض) شَخِيْرًا: حلق یا ناک سے آواز نکالنا۔
 شَخْرٌ (ض) شَخِيْرًا و شَخْرًا - الفُرْسُ او الْجِمَازُ: گھوڑے کا ہنٹانا یا گدھے کا ریکٹنا۔
 شَخْرٌ - الْجِلْسُ: کجاہہ باندھنے کیلئے چالور کی پیٹھ سے ٹاٹ یا کھل اٹھانا۔ التَّخْلَةُ: ٹوٹنے کے خوف سے گھوڑے کے گچوں کو نشی پر رکھنا۔
 الشَّخْرُ: مہ۔ مِنَ الشَّيْبِ: ابتداء جوانی۔
 مِنَ الزَّجْلِ: کجاہہ کے اگلے اور پچھلے حصہ کی درمیانی جگہ۔
 الشَّخِيْرُ: مہ۔ پہاڑ کا وہ حصہ جو قدموں سے لگ کر گرے۔
 الشَّخِيْرُ: بہت خرابے لینے والا۔
 شَخْرٌ (ف) شَخْرًا: مضرب ہونا۔
 عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا۔
 بِالرُّوْحِ: نیزہ مارنا۔ يَنْهَمُ: آسانا اور نساؤڈالنا۔
 تَشَاخَرَ الْقَوْمُ: باہم بغض رکھنا۔

الشدق۔ تخت رواں۔ خیمہ۔ چھوٹا مکان۔
 شَدَقَ (ض) شَدَقًا۔ کھڑے کھڑے کاٹنا۔
 شَدَقَ (ف) س) شَدَقًا۔ الفرض: گھوڑے کا
 کیلیں کرنا۔
 أَشَدَقَ اللَّيْلُ: رات کا تاریک ہونا۔
 تَشَادَفَ۔ جھکتا۔
 الشَّدَقُ۔ ہم۔ رخسارے کا جھکاؤ۔ اونٹ کے
 سر کی پیچیدگی۔ تاریکی۔ کلابرج۔ شَدَقُوفُ۔
 الشَّدَفُ۔ لہا جلدی کوڑنے والا۔
 الشَّدَفَةُ۔ کھڑا (الشَّدَقُوفُ) ڈوبھی۔ چھماکل
 (جدید)
 الأَشْدَفُ۔ رخسارہ کے جھکاؤ والا۔ نشاط کے
 ساتھ چلنے والا اونٹ۔ بوئے ڈیل ڈول کا گھوڑا۔
 بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا۔ مؤنث شَدَقَاءُ ج
 شَدَقُ۔
 شَدِيقُ (س) شَدَقًا۔ چوڑے جڑے والا ہونا۔
 صفت (أَشْدَقُ) مؤنث (شَدَقَاءُ) ج شَدِيقُ۔
 تَشَدَّقُ۔ بکلف فصاحت ظاہر کرنے کے لئے
 پانچیس کھولنا۔ بالكلام وفیہ: بغیر احتیاط
 کے ہر قسم کی باتیں کرنا۔ لوگوں کے ساتھ ٹھٹھا
 کرنا۔
 الشَّدِيقُ والشَّدِيقُ۔ جڑو۔ شَدِيقُ الوَادِي:
 وادی کا کنارہ۔ ج أَشْدَقُ وشَدِيقُ۔
 الأَشْدَقُ۔ زبان آور۔ بلیغ۔
 الشَّدِيقُ۔ جِن الوَادِي: کنارہ۔ ج شَدِيقُ۔
 الشَّدَقَمُ والشَّدَقَمُ۔ چوڑے جڑے والا۔
 شیر۔
 الشَّدِيقَانِي۔ جِنْد التَّصَارِي: کانہ سے ایک
 درجہ کم والا پادری۔ ج شَدَقَانِي (دخیل)
 الشَّدِيقَانِي۔ بستر مغزیہ (جدید)
 الشَّدِيقَانِي۔ ہتھیار۔ ہتھیار کا سامان۔
 شَدَن (ن) شَدَقًا۔ الظَّنِي: قوی ہونا اور ماں
 سے بے نیاز ہونا (تمام کھرو اور اور سم والوں کے
 بچوں کے لئے مستعمل ہے)۔
 أَشْدَقَتِ الظَّنِيَةُ: قوی بچنے والی ہونا۔ صفت
 (شَدِنُ) ج تَشَادِقُ وَمَشَادِقُ۔
 الشَّدِنُ۔ ایک پودہ ہے جس کا پھول چینی کی
 مانند ہوتا ہے۔

”الْحُرُوفُ الشَّدِينَةُ“ آٹھ ہیں جن کا مجموعہ
 ”اجدث طبق“ ہے۔
 الأَشْدُ والأَشْدُ۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ بَلَغَ
 أَشْدَهُ“ یعنی فلاں طاقت و قوت کے زمانہ کو پہنچ گیا
 اور یہ جمع ہے۔ ج ر) کا واحد نہیں یا واحد ہے جو جمع
 کے وزن پر ہے۔
 المِشْدُ۔ ایک قسم کا کپڑا جس کو عورت اپنی کمر
 باندھتی ہے۔
 المِشْدُ۔ مضبوط چوپایوں والا۔
 المِشْدُذُ۔ فاجیل۔ امور میں سختی کرنے والا۔
 شَدَخَ (ف) شَدَخًا۔ موٹا ہونا۔ صفت
 (شادخ)
 اِنْشَدَخَ۔ ٹانگوں کو پھیلا کر چیت لینا۔
 الشَّادِحُ۔ فَا۔ مِّن الكَلَاءِ۔ وسبع سبز۔
 الأَشْدَخُ۔ چوڑا۔
 الشَّدْحَةُ والمِشْدَحُ۔ فراخی۔ کشادگی۔ کہا
 جاتا ہے ”لَكَ عِنْدَهُ شَدْحَةٌ أَوْ مِشْدَحٌ“
 تمہارے لئے اس میں گنجائش ہے۔
 شَدَخَ (ف) شَدَخًا۔ اعتدال سے بہت جانا
 الرَّاسُ: سر توڑنا۔ چکنا۔ الزَّجْلُ:
 گردن کٹنے کی جگہ پر مارنا۔ (شَدَخَتْ غَرَّةُ
 الفَرْسِ شَدَخًا وشَدُوخًا) ماتھے کی سفیدی کا
 ناک تک پھیلنا۔ گھوڑے کو (أَشْدَخَ) کہتے ہیں۔
 شَدَخَ۔ الرَّاسُ: سر توڑنا۔ (تشدید مبالغہ کے
 لئے ہے)۔
 تَشَدَّخَ وَأَشْدَخَ۔ الرَّاسُ: سر توڑنا۔ کچلا جانا۔
 الشَّدَخُ۔ نا تمام پچھ جو آسانی سے گر جائے۔
 الشَّدْحَةُ۔ مِّن التَّبَاتِ: نرم و نازک۔ تازہ
 نباتات۔
 الشَّادِخُ۔ فَا۔ چھوٹا جبکہ نرم و نازک ہو۔ غَلَامٌ
 شَادِخٌ: جوان لڑکا۔ أَمَوُ شَادِخٌ: اعتدال سے بنا
 ہو معاملہ۔
 الشَّادِخَةُ۔ الشَّادِخُ کا مؤنث۔ گھوڑے کے
 ماتھے کی سفیدی جو ناک تک پھیلی ہوئی ہو۔
 الأَشْدَخُ۔ شیر۔ مِّن الخَيْلِ: ناک تک
 پھیلی ہوئی سفیدی والا گھوڑا۔ مؤنث شَدْحَاءُ ج
 شَدَخُ۔
 المِشْدَخُ۔ سف۔ گردن کٹنے کی جگہ۔

التَّهَارُ: بلند ہونا۔ عَصْدَةُ: قوی
 کرنا۔
 الشَّيْ: مضبوط کرنا۔ باندھنا۔ کسنا اور اسی
 سے ہے ”شَدَّ الرِّحَالَ“ اور یہ کنایہ ہے سفر سے
 عَمَلِي يَدِهِ: اعانت کرنا۔ تقویت پہنچانا۔
 اور کہا جاتا ہے ”لَا أَهْلِكَ شَدًّا وَلَا إِزْحَاءً“ یعنی
 میں کسی چیز پر قادر نہیں۔
 شَدَّ (ض ن) شَدًّا وشَدَّةً وشَدًّا عَلَيَّ
 العَدُوُّ: دشمن پر حملہ کرنا۔
 شَدَّ (ض) شَدَّةً۔ قوی ہونا۔
 شَدَّدَهُ: قوی کرنا۔ شَدَّدَ الضَّرْبَ: بہت مارنا
 عَلَيْهِ: سختی کرنا۔ الخَرْفُ: تشدید
 لگانا۔ الشَّيْ: مضبوط کرنا۔
 شَادَّةٌ: فِن الأَمْرِ: غالب ہونے کی کوشش
 کرنا۔ مقابلہ کرنا۔ جھگڑنا۔ سختی کرنا۔
 أَشَدَّ: عقل یا عمر کی پختگی کو پہنچانا۔ مضبوط چوپایہ
 والا ہونا۔
 تَشَدَّدَ: قوی ہونا۔ کسی کام میں سختی کرنا۔
 اِشْتَدَّ: قوی ہونا۔ فِ السَّيْرِ: تیز
 دوڑنا۔
 عَلَيَّ قَرْهَهُ فِ الحَرْبِ شَدَّةً: حملہ کرنا۔
 عَلَيْهِ المَرَضُ: تیز ہونا۔ بڑھنا۔
 تَشَادَّ الشَّيْ: مضبوط ہونا۔
 الشَّدَمُ۔ مِم۔ شَدَّ التَّهَارُ: دن چڑھنے کا وقت۔
 کہا جاتا ہے ”أَتَانَا شَدَّ التَّهَارِ وَفِي شَدَّ التَّهَارِ“
 وہ دن چڑھنے کے وقت ہمارے پاس آیا۔ اور
 ”شَدَّ الرِّحَالَ“ کنایہ ہے سفر سے۔
 الشَّدَّةُ۔ شَدَّ كَأَسْمِ مَرَّةٍ لِزَيْلٍ كَأَحْمَلَةٍ۔
 الشَّدَّةُ۔ اشتداد کا اسم ہے۔ سختی۔ سختی۔ ج
 شَدَّدَ۔ والشَّدَّةُ: معیبت۔ ج شَدَّ أَيْدِ شَدَّةً
 الأَرْضِ: زمین کی سختی۔
 الشَّدِي: سختی۔
 الشَّدِيدُ۔ ہمار۔ قوی۔ بلند۔ مضبوط۔ جھیل۔
 شیر۔ ج أَشْدَاءُ وشَدَادٌ وشَدُوذٌ کہا جاتا ہے
 ”زَجَلٌ شَدِيدٌ العَيْنِ“ ایسا شخص جس پر نیند کا
 غلبہ نہ ہو۔ ”مِنْكَ شَدِيدُ الرَّاحَةِ“ تیز خوشبو
 والا مٹک۔
 الشَّدِيدَةُ الشَّدِيدُ کا مؤنث۔ ج شَدَادٌ و

المُشَذِّر - شير
 شَذَفَ (ن) شَذَفًا: كما جاتا ہے "مما شَذَفْتُ
 مِنْهُ شَيْئًا" میں نے اس سے کچھ حاصل نہیں کیا
 (اس کا استعمال صرف نئی کے ساتھ ہی ہوتا
 ہے۔)
 شَذَوْتُ شَذْوَةً: اگلیوں سے پکڑنا۔
 الشُّذُوقُ: کنگن۔
 الشُّبْدِيُّ الشُّبْدَقَانُ وَالشُّوَذَائِقُ: شکاریا
 شامین۔
 الشُّذَامُ: بچھو اور بجز کاؤنک - نمک۔
 الشُّبْدَمَانُ: بھیرا۔
 الشُّبْدَانَةُ: تیز رفتار جہاز اور تہنی۔
 شَذَا يَشْدُو شَذْوًا: مکھ لگانا
 بِالْحَنْتَرِ: معلوم کر کے سمجھانا ()
 وَأَشْدَى فُلَانًا: تکلیف دینا۔ وَأَشْدَاهُ عُنْتَهُ:
 دور کرنا ہٹانا۔
 حَذَى تَشْدِيئَةً: بِالْحَنْتَرِ: معلوم کر کے
 سمجھانا۔
 الشُّذَوْرُ: مہ - مکھ - مکھ کی خوشبو۔
 الشُّذَا: بوکی تیزی - تکلیف - بُرَائِي - نمک۔
 کھلی - مسواکوں کے درخت کا نام۔ کھڑی کے
 گلے - کھسی - ایک قسم کی کشی - بھوک کی
 تیزی۔
 الشُّذَاءُ: شَذَا کا واحد۔ ج شَذَوَاتٌ: قوت کا
 بقیہ - برائی چیز۔
 شَذْرٌ (ض ن س) شَذْرًا وَشَذْرًا وَشَذْرًا: شریر
 ہونا۔ شرارت کرنا۔ صفت مذکر (شَرٌّ) و صفت
 مؤنث (شَرَّةٌ) ج أشخار و شوار و أشراء۔
 شَذْرٌ (ن) شَذْرًا: اللُحْمُ أو القَوْبُ: گوشت یا
 کپڑے کو خشک ہونے کے لیے دھوپ میں ڈالنا
 میں مشہور کرنا۔ و حكارنا - أَشْرَأَ الشَّيْءُ: ظاہر کرنا۔
 شَذْرَةٌ: بھگڑنا۔
 تَشَارَأَ أَشْرَاءً: باہم بھگڑنا۔
 الشَّرْرُ: مہ - برائی - ج شُرُورٌ: یہ ہر قسم کی برائی
 اور خطا کے لیے اسم جامع ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ
 شَرُّ النَّاسِ وَهُمْ شَرٌّ وَأَشْرَأُ وَأَشْرَأُ وَأَشْرَأُ وَهِيَ
 شَرَّةٌ أَوْ شَرِي النِّسَاءِ" وہ لوگوں میں بہت بڑا

الشُّذَانُ وَالشُّذَّانُ: متفرق کنکریاں وغیرہ۔
 شُّذَانُ النَّاسِ: متفرق لوگ۔
 شَذَبَ (ن ض) شَذَبًا وَشَذَبَ: اللُّحَاءُ:
 چھال چھیلنا _____ الشَّيْءُ: کانا۔ شَذَبَ:
 وَشَذَبَ الشَّجَرَ: درخت کو چھانٹنا _____
 الْمَالُ: بکھیرنا۔ شَذَبَ عُنْتَهُ: دلچ کرنا۔ ہٹانا۔
 شَذَبَهُ: دھکارنا۔
 تَشَذَبَ: ہٹنا۔ دور ہونا _____ القَوْمُ: متفرق
 ہونا۔
 الشُّذْبُ: درخت کے گلے - متفرق کھڑیاں۔
 حَمْلِكُ: سامان خانہ۔ کھائی ہوئی گھاس کا پتہ۔ کہا جاتا
 ہے "لَيْنُ الْأَرْضِ شَذْبٌ مِنَ الْكَلَاءِ" وغالہ
 الْأَشَذْبُ مِنَ الْعَسْكَرِ" ہر ایک پتہ کے معنی
 میں ہے۔ ج أَشَذَابٌ۔
 الشُّذْبَةُ: درخت کی کالی ہوئی ٹہنی۔
 الشُّذَابُ: فا۔ وطن سے دور۔
 الشُّوَذُبُ: مِنَ الرِّجَالِ: لمبا خوبصورت قد
 والا۔ ہر چیز کا عمدہ حصہ۔
 المِشَذْبُ: شاخ تراش کا آلہ۔
 المِشَذْبُ: مہم۔ کانٹوں سے صاف کیا ہوا تہ۔
 فَرَسٌ شَذْبٌ: لمبا گھوڑا۔ جس میں گوشت زیادہ
 نہ ہو۔
 شَذَّرَ: النَّظْمُ: مہر لگا کر جدا کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "شَذَّرَ كَلِمَةً بِشِعْرٍ" کلام میں شعرا داخل کرنا
 _____ بِفُلَانٍ: بدنام کرنا۔
 تَشَذَّرَ: بُرَائِي یا مقابلہ کے لئے تیار ہونا۔
 غَضْبَانٌ ہونا۔ سبک ہونا اور کام کے لئے چست
 ہونا _____ دھکارنا _____ القَوْمُ: متفرق ہونا
 اور اپنی اپنی راہ لینا _____ القَوْمُ فِي الْحَزَبِ:
 حد سے گزرتا۔
 الشُّذْرُ: سونے کا گھڑا جو کان سے نکالا جائے۔
 مہرہ جس سے لڑی میں موتیوں کو جدا کیا جائے۔
 چھوٹے موتی۔ واحد (الشُّذْرَةُ) ج شَذَرَات
 وَشُذُورٌ۔ کہا جاتا ہے "تَفَرَّقُوا شَذْرَ مَذْرٍ
 وَشَذْرَ مِذْرٍ" وہ سب بکھر گئے اور ہر ایک نے اپنی
 راہ لی۔
 الشُّوَذْرُ: چادر۔ بے آستین کی تہیں۔ وَجَلُّ
 (شَيْذْرَةٌ) صاحب غیرت مرد۔

الشُّذَانُ: فا۔ جب مطلق بولا جائے تو ہرن کا پتہ
 مراد ہوتا ہے۔
 شَذَبَهُ (ف) شَذَبَهَا: الرِّاسُ: سر پکڑنا۔ شَذَبَهُ
 وَأَشْدَهُ الرُّجُلُ: دہشت میں ڈالنا۔
 شَذَبَهُ: مد ہوش ہونا۔
 إِشْدَهُ وَأَشْدَهُ: تہمیر ہونا۔
 الشُّذَاهُ وَالشُّذُوهُ وَالشُّذُوهُ وَالشُّذُوهُ: حیرت۔
 دہشت۔
 المِشَادَةُ: مشاغل۔ حیران و بے خود کر دینے
 والے معاملات۔
 شَذَا يَشْدُو وَشَذُوًا: الرُّجُلُ: گا کر شعر پڑھنا
 _____ الإِبِلُ: حدی گا کر ہٹانا _____ الشُّيْعُرُ:
 گانا اور سر نکالنا _____ مِنَ الْعِلْمِ شَيْئًا: کچھ
 حاصل کرنا۔ صفت (شَادٌ) ج شُدَّةٌ وَشَادُونَ۔
 شَذَاهُ فُلَانًا أَوْ بِفُلَانٍ: تشبیہ دینا۔ شَذَا
 شَذْوَةً: وہ اس کی چال چلا۔
 أَشْدَى إِشْدَاءً: گانے میں ماہر ہونا۔
 الشُّذَا: بقیہ قوت۔ گرمی۔ کھلی۔ مِنَ الشَّيْءِ:
 کسی چیز کی حد۔ کنارہ۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَ مِنْهُ
 شَذَا" اس نے اس میں سے تھوڑا سا لیا۔ "لَمْ
 يَبْقَ مِنَ الصَّرِيضِ الْأَشْدَا" جبکہ قریب الموت
 ہو جائے۔
 الشُّذُوْ: مہ۔ بہت میں سے تھوڑا سا۔ کہا جاتا
 ہے "أَخَذُوا شَذْوًا مِنَ مَالِهِ" انہوں نے اس
 کے بہت سے مال میں سے تھوڑا سا لیا۔
 الشُّذَا: چڑاسی (جدید)
 شَذَّ (ن ض) شَذًّا وَشَذْوًا عَنِ الْجَمْعِ هُزْرٍ
 أَوْ الْجَمَاعَةِ: علیحدہ ہونا۔ اکیلا ہونا _____
 القَوْلُ: مخالف قیاس ہونا۔ عَنِ الْأَصْوَلِ: مخالف
 قاعدہ ہونا۔ صفت (شَذٌّ) ج شُذَاذٌ وَشَذَاذٌ۔
 مؤنث شَادَّةٌ ج شَوَاذٌ وَالشُّذَاذُ مِنَ النَّاسِ:
 تھوڑے لوگ اور اسی سے ہے "جَاءَ وَ شَادَّةٌ
 شُذَاذًا" یعنی تھوڑے لوگ آئے۔ وہ لوگ جو
 کسی قوم میں ہوں اور ان کے قبیلہ سے نہ ہوں۔
 شُذَاذٌ الْأَهْلِيَّةُ: مسافر لوگ۔
 شَذَّةٌ (ن) شَذًّا وَشَذْوَةً: شاذ کرنا۔
 أَشَذَّ: نادر بات کہنا _____ الشَّيْءُ: جدا کرنا۔
 شاذ کرنا۔

ہے اور اصل اس کی (أَشْرَبَ) ہے۔ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ ہمزہ کو کثرت استعمال کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے جیسے خرمیں۔

الشَّرْبَةُ - بڑائی - تیزی - جستی - غضب - سبکی - لالچ - حِرْوَةُ الشَّيْبَانِ - جوانی کی جستی۔

الشَّرْبَةُ - کمرہ - کہا جاتا ہے "مَا قُلْتُ ذَلِكَ لِشُرْبِكَ" میں نے تیرے کمرہ سمجھنے کی وجہ سے اس کو نہیں کیا۔

الشَّرْوُ وَالشَّرَاؤُ - آگ کی چنگاری جو اڑے۔ واحد (شَرْوَةٌ وَشَرَاؤَةٌ)

الشَّرْوِيرُ - شرارت کرنے والا۔ جِ أَشْوَارٍ وَأَشْوَاءٍ - مؤنث شَرْوِيَّةٌ - الشَّرِيرُ - سمندر کا کنارہ۔ جِ أَشْوِيَّةٌ -

الشَّرْوِيرُ - بہت شرارت کرنے والا۔ شیطان کا لقب۔ جِ شَرِيئُرُونَ

الإشْرَازَةُ - بیرو وغیرہ نکل کرنے کے لیے چٹائی۔ اونٹوں کا بٹار پوڑ۔ خشک گوشت کا ٹکڑا۔ جِ أَشَارِيْرُ -

الشَّرْوِيَّةُ - بڑی سوئی۔ الشَّرْوَانُ - بھگا۔ مچھری کا منہ ایک کیزا جو انسان کے منہ کے سامنے اڑتا ہے اور کاتا نہیں۔ واحد (شَرَاةٌ)

شَرْبٌ (س) شَرْبًا وَشَرْبًا وَشَرْبًا وَمَشْرَبًا وَمَشْرَبًا وَمَشْرَبًا - پینا۔ گھونٹ لینا۔ سیراب ہونا۔ شَرْبُ الشَّيْبَانِ الدَّقِيقِ - کتاب ہے غلہ کی تیاری سے اور کہا جاتا ہے "أَكَلْ عَلَيْهِ الدَّهْرُ" و شَرْبٌ "یعنی ہلاک ہو گیا" و "أَكَلْ فَلَانٌ مَالِي" و شَرْبُهُ "یعنی ختم کر دیا۔

شَرْبٌ (س) شَرْبًا - پیسا ہونا۔ پیسا سے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ (ضد) شَرْبٌ بہ: کسی پر جموت ہونا۔

شَرْبٌ (ن) شَرْبًا - الكَلَامُ: کہنا۔

شَرْبَةٌ - پانی پلانا۔ شَرْبُ القَرْبَةِ: بنی ملک میں مٹی اور پانی ملنا تاکہ پانی خرگھوڑا رہے۔

قَضَبُ الزَّرْعِ: کھیت کے ڈھگل کا سیراب ہونا۔ الشَّيْبَانِ الدَّقِيقِ: خرشہ کے دانوں میں گورا بھٹنا۔

أَشْرَبَ - پلانا۔ أَشْرَبَ الرَّجُلُ - پیسا ہونا۔

پیسا سے یا سیراب اونٹوں والا ہونا۔ (ضد) الشَّرْبُ: گھرا کر گنا۔ الشَّرْبُ حُمْرَةٌ: کپڑے کے رنگ میں سرخی کو ملانا۔ بہ: کسی پر جموت ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَشْرَبَنِي مَالِي" أَشْرَبْتُ اس نے میرے متعلق ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کو میں نے نہیں کیا۔ الإِبِلُ: باندھنا۔ وَأَشْرَبْتُ حُبَّ فَلَانٍ اس کے دل میں فلاں کی محبت جاگزیں ہو گئی۔

شَارِبَةٌ مُشَارِبَةٌ وَشَارِبًا - ساتھ پینا۔

تَشَارَبًا - ایک دوسرے کے ساتھ پینا۔

تَشَرَّبَ - الشَّرْبُ العَرَقُ: جذب کرنا۔ چونا۔

إِشْتَرَبَ - لَوْثُهُ: تیز اور گمراہ ہونا۔

إِشْرَابٌ لِلشَّيْءِ وَالشَّيْءِ: گردن اٹھا کر دیکھنا۔

اسم (الشَّرْوَابِيَّةُ) جیسے اِظْمَأْنٌ سے ظَمَأْنِيَّةٌ۔

الشَّرْبُ - مہ - شارب۔ اسم فاعل کی جمع ہے۔

الشَّرْبُ - مہ - پینے کا پانی۔ پانی کا حصہ۔ گھاٹ۔

پینے کا وقت۔ جِ أَشْرَابٍ -

الشَّرْبَةُ - شَرْبٌ کا اسم مرہ۔ جو ایک مرتبہ پیا جا سکے۔

الشَّرْبَةُ: چہرے کی سرخی۔ کہا جاتا ہے "لھی وَجْهَهُ شَرْبَةٌ مِنْ حُمْرَةِ" اس کے چہرہ میں سرخی ہے۔ سیراب ہونے کی مقدار پانی۔

الشَّرْبَةُ - بہت پینا۔ پیاس۔ گرمی کی شدت۔ جِ شَرْبٌ وَشَرْبَاتٌ -

مَاءٌ (شَرْوَبٌ وَشَرْبٌ) پینے کے لائق پانی۔

الشَّرْبُ: بہت پینے والا۔ پینے کا ساتھی جو شخص تمہارے ساتھ مل کر پانی لاتے یا تمہارے ساتھ

پلایا جائے۔ اونٹوں کو گھاٹ پر لانے میں ساتھی۔

الشَّرْبَةُ: بے درخت کے گھاس والی زمین۔

داوی کا کنارہ۔ طریقہ۔ کہا جاتا ہے "مَنَازِلُ فَلَانٍ عَلَى شَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ" فلاں ہمیشہ ایک طریقہ پر رہا۔

الشَّرَابُ - ہر ایک پینے کی چیز۔ جِ أَشْرَبِيَّةٌ -

الشَّرْبَةُ وَالشَّرْوَبُ وَالشَّرَابُ وَالشَّرِيبُ -

بہت پینے والا۔

الشَّرَابَةُ - شراب کا مؤنث۔

عِنْدَ المُؤَلَّدِينَ تَرَكِي لُؤْلِي وَنِيْرُو كَا مِجْدَا - جِ شَرَابِيْبُ - شَرْابَةُ الزَّوْجِ: ایک پودہ کا نام۔

الشَّرَابُ (فَا) جِ شَرْبٌ (جیسے راکب جمع

زَكَتٍ) جانوروں کی کزوری۔ شَارِبُ الرَّجُلِ: مومچھ دونوں جانب کے اعتبار سے تشبیہ لاتے ہیں اور "شَارِبَا الرَّجُلِ" کہتے ہیں اور اطراف و اجزاء کے اعتبار سے جمع "شَوَارِبُ الرَّجُلِ" بولتے ہیں۔ الشَّوَارِبُ: گردن کی رگیں۔ گردن میں پانی گزرنے کی جگہیں۔

الشَّارِبَةُ - الشَّارِبُ کا مؤنث۔ جِ شَارِبَاتٌ وَشَوَارِبٌ: دریا کے کنارے رہنے والی قوم۔

الشَّرْوَبُ پانی پینے والے۔

الشَّرْوَابِيُّ - سہ۔ بھجٹی۔

المَشْرَبُ - پانی۔ پانی پینے کی جگہ۔ اور اب

خراہش لیس اور میلان کے معنی میں مستقل ہے۔ جیسے "وَأَفَاقِي الْأَمْوَالِ مَشْرَبَةٌ" معللہ اس کی

خراہش کے مطابق ہو گیا۔ جِ مَشْرَابٍ -

المَشْرَبَةُ وَالْمَشْرَبَةُ - نرم زمین جو ہمیشہ

سربز رہے۔ پینے پلانے کا کمرہ۔ پینے کی جگہ۔ جِ

مَشْرَابٍ - کہا جاتا ہے "عَلَامَةُ ذُو مَشْرَبِيَّةٍ" پانی

پلانے والا کھانا یعنی جو شخص اسے کھائے پانی زیادہ

پئے۔

المَشْرَبَةُ - پانی پینے کا بہتر۔ جِ مَشْرَابٍ -

المَشْرَبُ - مہ۔ ہر وہ چیز جو پانی جائے۔

الشَّرَابِيْبُ - سخت پھل والا۔ شیر۔

الشَّرْبَانُخُ - پڑمروہ ساپ کی چمتری۔

الشَّرْبِيْبُشُ - جھینڑا۔

شَرْبِيْقُ - الشَّرْبُ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

الشَّرْبِيْبِيْنُ - سردی کا منہ ایک درخت کا نام جس سے عمدہ قطران نکلتا ہے۔

شَرْبَتٌ (س) شَرْبًا وَشَرْبًا وَشَرْبًا وَشَرْبًا وَشَرْبًا وَشَرْبًا - ہاتھ کا

سردی کی وجہ سے سخت ہو کر پھلنا۔ شَرْبٌ الرَّجُلِ: سردی کی وجہ سے سخت ہو کر پھلنے

ہوئے ہاتھ والا ہونا۔ صفت (شَرْبٌ) -

التَّغْلُ: جوڑے کا چھٹنا۔

الشَّرْبُ: ہر بڑی بوسیدہ چیز۔

الشَّرْبُ: مِنَ الشَّيْوْفِ وَالْأَسْبَةِ: تیز لکوار

وہیلا۔

الشَّرْبَةُ: پُرَاغَاتُ جِ -

شَرْجٌ (ن) شَرْجًا - جموت ہونا۔

الشَّرْبُ: جمع کرنا۔ الشَّرَابُ بِالْمَاءِ: لُؤْلِي

رکے۔ والأَمْزُ الْمَشْرُوعُ: وہ کام جس کو تم شروع کرو۔
 شَرْعَتِ الْأَدِيمُ: لہذا کائنات۔
 الشَّرْعَبُ: لہا۔
 الشَّرْعِيَّةُ: ایک قسم کی چادر۔ لہذا خوبصورت جسم والا۔
 الشَّرْعُوبُ: ایک قسم کی گھاس۔
 الشَّرْعَافُ: زرخیز زمین کے ٹکڑے کا پوست۔
 الشَّرْعُوفُ: ایک قسم کی گھاس۔
 الشَّرْعُوعُ وَالشَّرْعُ: چھوٹا میزبک۔
 الشَّرْعُوفُ: ایک قسم کی گھاس، چھوٹا میزبک۔
 شَرْفَةُ (ن) شَرْفًا: کسی سے عزت و مرتبہ میں غالب ہونا۔ صفت مفعول (مَشْرُوفٌ) _____
 الْحَائِظُ: دیوار میں نکلنے والا۔
 شَرْفٌ (ک) شَرْفًا وَشَرْفًا: دین یا دنیا میں بلند مرتبہ ہونا۔ صاحب عزت ہونا۔ (شَرْفَتٌ النَّاقَةُ شَرْفًا): بوزرگی ہونا۔
 شَرْفٌ (س) شَرْفًا: بلند ہونا۔
 شَرْفًا: شرافت پر فخر کرنے میں مقابلہ کرنا۔
 شَارَفَ الْمَكَانَ: چڑھنا _____ الشَّيْءُ: اوپر سے جھانکنا۔ قریب ہونا۔
 شَرْفُهُ: تعظیم کرنا۔ بزرگی دینا۔ عزت کرنا۔
 شَرْفَ الْبَيْتِ: نکلنے والا بنا _____ الْمَكَانَ: چڑھنا۔
 أَشْرَفَ: الشَّيْءُ: بلند ہونا۔ سیدھا کھڑا ہونا _____ الْمَكَانَ: چڑھنا _____ عَلَيْهِ: اوپر سے جھانکنا _____ لَكَ الشَّيْءُ: ممکن ہونا۔ قدرت و طاقت میں ہونا _____ عَلَى الْمَوْتِ: قریب الموت ہونا _____ عَلَيْهِ: ڈرنا یا مہربانی کرنا۔
 أَشْرَفَتِ الْغَيْلُ: تیز دوڑنا _____ نَفْسُهُ عَلَى الشَّيْءِ: جریں ہونا اور ہلاک ہونا۔
 تَشْرَفَ: الْبَيْتِ: نکلنے والا ہونا _____ الزَّجْلُ: عزت پانا _____ بِكَذَا: باعث عزت جانا _____ الْمَكَانَ: چڑھنا _____ الشَّيْءُ: ہاتھوں سے اڑ کر کے کسی چیز کی طرف نظر اٹھانے کے دیکھنا _____ لِلشَّيْءِ: جھانکنا _____ عَلَى الشَّيْءِ: اوپر سے جھانکنا۔

بجایا۔ الشَّرْعَةُ: قطار بندہ کے شکار کرنے کا جال۔ شریعت۔ کھل۔ پانی کی طرف راستہ۔ عادت۔ ج شَرْعٌ شَرْعٌ وَشَرْعٌ: الشَّرْعَةُ: کشتی۔ ج أَشْرَاعُ: الشَّرْفِعُ: بہادر۔ عمدہ کتاں _____ مِنَ اللَّيْفِ: درخت خیرا کی چھال کے کانٹے جو سخت ہو گئے ہوں۔
 الشَّرْفِعَةُ: طریقہ۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے احکام۔ چوکھٹ۔ دریا کے کنارے رہنے والوں کے لیے گھاٹ۔ ج شَرَاعٍ: نَهْرُ الشَّرْفِعَةِ: دریا کے اردن۔
 الشَّرَاعُ: اسم فاعل۔ مَوْنَتُ شَارِعَةٍ: ج شَرْعٌ وَشُرُوعٌ وَشُرُوعٌ: کہا جاتا ہے "ابیل" شَرْعٌ وَشُرُوعٌ" پانی میں داخل ہونے والے اونٹ۔ بَيْتٌ شَارِعٌ: وہ مکان جس کا دروازہ راستہ کی جانب ہو۔ وَالشَّرَاعُ: ج شُرُوعٌ: سڑک، عام راستہ۔ رَمَاحٌ شَارِعَةٌ وَشُرُوعٌ: کسی کی جانب سیدھے کیے ہوئے نیزے۔ الشَّرُوعُ مِنَ النَّجُومِ: غروب کے قریب ستارے۔
 أَنْفٌ (أَشْرَعُ): لمبے بانسروالی ناک۔
 الشَّرَاعُ: ہر وہ چیز جو بلند اور کھڑی کی جائے۔ بادیاں۔ تانت جب تک کہ کمان پر لگی رہے۔ اونٹ کی گروں۔ کہا جاتا ہے "زَجْلٌ شُرُوعٌ الْأَنْفِ" لمبے بانسری ناک والا مرد۔ ج أَشْرِعَةٌ وَشُرُوعٌ۔
 الشَّرَاعَةُ: دلیری۔
 الشَّرَاعُ: عمدہ کتاں بیچنے والا۔
 الشَّرْعِيُّ: مطابق شریعت۔
 الشَّرَاعِيُّ: مِنَ الْإِبِلِ: لمبی گردن والا اونٹ۔
 الشَّرَاعِيُّ: مِنَ الرَّمَاحِ: لمبے نیزے۔ ایک شخص کی جانب منسوب جس کا نام شرع تھا اور وہ نیزے بنایا کرتا تھا۔
 تَفْيِئَةُ الْإِشْرَاعِ: توریٹ کا پانچواں باب۔
 الْمَشْرُوعُ وَالْمَشْرُوعَةُ وَالْمَشْرُوعَةُ: دریا کے کنارے رہنے والوں کے لیے گھاٹ۔ ج مَشْرَاعٌ۔
 الْمَشْرُوعُ: مِنَ النَّبُوتِ: بلند مکان۔
 الْمَشْرُوعُ: سیدھا کیا ہوا۔ جس کو شریعت جائز

الْبَيْتُ: گھر کا کھلے ہوئے راستہ پر ہونا۔
 الْبَابُ إِلَى الطَّرِيقِ: دروازہ کو کھلے ہوئے راستہ کی جانب کرنا _____ الْحَبْلُ: رستی کی گرہ کو کھول کر دونوں کناروں کو کڑے وغیرہ میں ڈالنا۔
 الشَّيْءُ: بہت بلند کرنا۔
 شَرْعٌ (ف) شَرْعًا: شَرْعًا: فِي الْمَاءِ: پانی میں داخل ہونا یا اس سے پینا۔
 الزَّوَادُ: پانی کو منہ لگا کر پینا _____ الْعَاشِيَةَ: جانور کو پانی پر لے جانا _____ الْأَمْزُ: کام شروع کرنا _____ فِي الْأَمْزِ: کام میں مشغول ہونا _____ الرَّمَاحُ فَشَرْعَتْ هِيَ: نیزے کو کسی کی جانب سیدھا کرنا اور سیدھا ہونا۔ (لازمی و متعدي)
 الطَّرِيقُ: راستہ ظاہر ہونا _____ فَلَانٍ: کسی کو پالی پر لے جانا _____ فَلَانٍ عَلَيْنَا: قریب ہونا اور جھانکنا۔ شَرْعٌ يَنْصُرِبُ: مارنے لگانا۔ (افعال متاخر ہے۔)
 شَرْعٌ وَأَشْرَعُ: الطَّرِيقُ: راستہ ظاہر کرنا۔
 فِي الْمَاءِ: پانی میں داخل کرنا۔ شَرْعٌ الْحَبْلُ: رستی کی گرہ کھولنا۔ شَرْعٌ السَّفِينَةَ: کشتی میں بادیاں لگانا۔ أَشْرَعُ بَابَهُ إِلَى أَوْعَلَى الطَّرِيقِ: راستہ کی طرف دروازہ کھولنا۔ أَشْرَعُ عَلَيْهِ الْوَرُوحُ: کسی کی جانب نیزہ سیدھا کرنا۔
 أَشْرَعُ الشَّيْءُ: بہت بلند کرنا۔
 إِشْرَعُ: الشَّرْفِعَةُ: قانون بنانا۔ شریعت جاری کرنا۔
 الشَّرْعُ: مع۔ اللہ کے مقرر کردہ احکام۔ اور کہا جاتا ہے "شَرْعُكَ مَا بَلَغَكَ الْمَحَلُّ" یعنی تمہارے لیے اتنا تو شر کافی ہے جو مقصد کی جگہ تک پہنچا دے۔ اور یہ اس شخص سے کہتے ہیں جس کو تمہارے پر قناعت کرنے کیلئے برا بھیج دیا کرتا ہو (_____ الشَّرْعُ وَالشَّرْعُ) مثل۔ برابر۔ کہا جاتا ہے "الْقَاسُ فِي هَذَا شَرْعٌ وَاجِدُوا هُمُ فِي هَذَا شَرْعٌ" یعنی لوگ اس میں برابر ہیں۔
 الشَّرْعُ: جوتے کا تسم۔
 الشَّرْعَةُ وَالشَّرْعَةُ: تانت۔ کہا جاتا ہے "مَضْرُوبًا عَلَى الشَّرْعِ" تانتوں نے تانت کو

ثَشْرَفٌ - القَوْمُ: ذی عزت لوگوں کا قتل کیا جاتا۔
 اِشْتَرَفَ سیدھا کھڑا ہونا۔
 اِسْتَشْرَفَ سیدھا کھڑا ہونا _____ الشَّيْءُ : ہاتھ کی آڑ کے نظر اٹھا کے دیکھنا۔ اِسْتَشْرَفَهُ حَقَقَهُ: ظلم کرنا۔ حق مار لینا _____ الشَّاءُ : عیوب سے سالم لینے کیلئے دیکھ بھال کرنا۔
 الشَّرْفُ - مہ - عزت و بزرگی۔ شرافت _____ بلند مکان۔ ناک۔ جِ اَشْرَافٍ - شَرَفَ البعير: کوبان۔ الشَّرْفُ : شریف۔ کہا جاتا ہے "هُوَ شَرَفٌ قَوْمِهِ وَكَرْمُهُمْ" وہ قوم کا شریف ہے۔
 الشَّرْفَةُ: خاندانی شرافت۔
 الشَّرْفَةُ - مِنَ القَصْرِ: کنگرہ۔ جِ شَرَفٍ والشَّرْفَةُ مِنَ المَالِ: عمدہ مال اور کہا جاتا ہے "اِعْدُوْنَا زَانُوْنَاكُمْ شَرْفَةً" تمہاری ملاقات کو میں اپنے لئے باعث عزت سمجھتا ہوں۔
 الشَّرْفَةُ: شَرَفَاتٌ کا واحد۔ شَرَفَاتٌ ان ثلثت یا مربع برجوں کو کہتے ہیں جو دیوار کے بالائی حصہ میں ہوتی ہیں۔
 الشَّارِفُ - فا: عترتِ شرف حاصل کرنے والا۔ سَهْمٌ شَارِفٌ: پرانا تیر۔ حَنْ شَارِفٌ: پرانی شراب کا مٹکا _____ مِنَ الثُّوبِ: بوڑھی اونٹنی۔
 جِ شَرَفٌ وَشَرَفٌ وَشَرُوفٌ وَشَرَفٌ: الشَّارِفَةُ - شَارِفٌ کا مؤنث۔ بوڑھی اونٹنی۔
 جِ شَارِفَاتٌ وَشَوَارِفٌ: الشَّوَارِفُ - شراب کے برتن۔ مٹکا وغیرہ۔
 الشَّارُوفُ: جھاڑو۔
 الشَّرِيفُ - شرف و عزت والا۔ جِ شَرَفَاءُ وَأَشْرَافٌ مؤنث شَرِيفَةٌ: جِ شَرَائِفٌ وَشَرِيفَاتٌ حَارِكٌ شَرِيفٌ: بلند موندھا۔
 أَشْرَافُ الْإِنْسَانِ: انسان کے ناک مکان۔
 الأَشْرَفُ: اسم تفضیل۔ چگاڑو۔ قصر أَشْرَفٌ - مؤنث شَرَفَاءُ - جِ شَرُوفٌ: کنگرہ داریا برہمی والا محل۔ زَجَلٌ أَشْرَفٌ: بلند کاندھے والا مرد۔ مَنَكَبٌ أَشْرَفٌ: بلند موندھا۔
 الشَّرَفَاءُ - أَشْرَفٌ کا مؤنث _____ مِنَ الأَذَانِ: لمباکان۔

المَشْرَفُ - مِنَ الأَمَاكِنِ: بلند جگہ۔
 المَشْرُوفُ - جھانکنے کی جگہ۔ جِ مَشَارِفٍ مَشَارِفُ الأَرْضِ: زمین کی بلند جگہیں۔
 المَشْرُوفِيَّةُ - عرب کے ان دیہات کی طرف منسوب جو مَشَارِفُ الشَّامِ کے نام سے موسوم ہیں اور اسی سے ہے الشَّيْوْفُ المَشْرُوفِيَّةُ اور بقول بعض الشَّيْوْفُ المَشْرُوفِيَّةُ بمن کے ایک علاقہ کی طرف منسوب ہیں۔ مَشَارِفُ الشَّامِ کی طرف نہیں۔
 المَشْتَشْرِيفُ - بلند۔
 شَرَقٌ (ن) شَرَقًا - الشَّاءُ: بکری کے کان کو لمبائی میں چیرنا۔ صفت مفعول (شَرَقَاءُ) _____ الغَمَرُ: پھل توڑنا۔
 شَرَقَتْ (ن) شَرَقًا وَشَرُوقًا - الشَّمْسُ: آفتاب طلوع ہونا _____ التَّخْلُ: درخت خرابا کھجور کا گدر ہونا۔
 شَرَقٌ (س) شَرَقًا: برنیقہ: اچھو لگنا۔ شَرَقَتْ عَيْنُهُ: آنکھ کا سرخ ہونا _____ لَوْنُهُ: شرم کی وجہ سے سرخ ہونا _____ الجَرْحُ بِالدَّمِ: زخموں کا خون سے بھرنا _____ الدَّمُ فِي عَيْنِهِ: آنکھ میں خون ظاہر ہونا _____ المَوْضِعُ بِأَهْلِهِ: جگہ کا لوگوں سے بھر کر تنگ ہونا _____ الشَّمْسُ: آفتاب کا ذوبے کے قریب ہونا _____ الشَّيْءُ: مخلوق ہونا _____ الأَرْضُ: پانی جاری ہونے کے ناقابل ہونا _____ الشَّاءُ: لمبائی میں چرے ہوئے کان والی ہونا۔
 شَرَقٌ - مشرق کی طرف متوجہ ہونا۔ چکدار خوبصورت چہرے والا ہونا _____ اللَحْمُ: گوشت کے ٹکڑے کرنا اور دھوپ میں خشک کرنا۔
 _____ البِنَاءُ: چوڑے وغیرہ سے لینا _____ الشَّيْءُ بِالزَّعْفَرَانِ: کسی چیز کو زعفران سے رنگنا۔
 أَشْرَقَتْ - الشَّمْسُ: آفتاب کا طلوع ہونا۔
 چکنا۔ أَشْرَقَ وَجْهُهُ: چکدار ہونا _____ المَكَانُ: سورج کی چمک سے روشن ہونا۔
 _____ الزَّجَلُ: طلوع آفتاب کے وقت داخل ہونا۔ أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ المَكَانَ: روشن کرنا۔
 الثُّوبُ فِي الصَّنْعِ: گہرا رنگنا۔ أَشْرَقَهُ بِرَيْقِهِ: اچھو لگوانا _____ التَّخْلُ: درخت خرابا کھجور کا

گد رہنا۔
 تَشَرَّقَ - دھوپ میں بیٹھنا۔ دھوپ کھانا۔
 اِنْتَشَرَقَتِ - القَوْمُ: مکان کا پھینا۔
 اِشْرُوزَتْ اِشْرِيْرًا - القَيْنُ بِالذَّمْعِ: آسوں سے ڈیرانا۔ سرخ ہونا۔
 الشَّرْقُ - مہ - آفتاب طلوع ہونے کی جگہ۔
 پھین اور اسی سے ہے "مَا دَخَلَ شَرْقٌ لِمِى شَيْءٌ" میرے منہ کے شکاف میں کچھ داخل نہیں ہوا۔ جِ اَشْرَاقٌ (_____ والشَّرْقُ) روشنی جو دروازے کی دروازے سے داخل ہو۔
 الشَّرْقُ - مہ - آفتاب۔
 الشَّرْقَةُ - شَرَقٌ کا اسم مرہ۔ تم کہتے ہو "أَخَذْتُهُ شَرْقَةً كَأَذِيْمُوْتٍ مِنْهَا" اس کو اچھو لگ گیا جس سے وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔
 جاڑے کے زمانہ میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ (_____ والشَّرْقَةُ) آفتاب جبکہ طلوع ہو۔
 الشَّرِيقُ - آفتاب جبکہ طلوع ہو۔ خوبصورت لڑکا۔ جِ شَرْقُ۔
 التَّشْرِيقُ - مہ - أَيَّامُ التَّشْرِيقِ - عید الاضحیٰ کے بعد تین دن۔ اس لیے کہ ان دنوں میں قربانی کا گوشت خشک کیا جاتا ہے۔ التَّشْرِيقُ: عید کی نماز اس لیے کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔
 الشَّارِقُ - فا - آفتاب بوقت طلوع۔ کہتے ہیں "لَا اَكْلِمَكَ مَا دَخَلَ شَارِقٌ" میں تم سے گفتگو نہیں کروں گا جب تک آفتاب طلوع ہو اور کبھی آفتاب کے علاوہ ستاروں پر بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ہماڑو وغیرہ کی شرقی جانب۔ جِ شَرْقُ۔
 الشَّارُوقُ - چارناور کا مٹکا ہوا۔
 المَشْرُقُ وَالمَشْرُقُ وَالمَشْرُوقُ - طلوع آفتاب کی جگہ یا سمت۔ جِ مَشَارِقُ۔
 المَشْرِقَةُ وَالمَشْرِقَةُ وَالمَشْرُوقَةُ وَالمِشْرَاقُ وَالمِشْرِيقُ - جاڑے کے زمانہ میں دھوپ میں بیٹھنے کی جگہ۔ مِشْرِيقُ البَابِ: دروازے کی دروازے میں سے طلوع آفتاب کے وقت روشنی پڑے۔
 المِشْرَاقُ - وہ شخص جس کی عادت ہو کہ دوسرے کو اچھو لگنے میں مبتلا کر دے۔

وَعَلَيْهِ: بنت حریص ہونا۔ صفت (شریہ وشرہان)
الشَّرْهَاءُ مِنَ الْمَيْمِينِ: خشک سال۔
شَرْهَفٌ: الصَّبِيُّ: بچہ کو عمدہ غذا دینا۔
الشَّرْوُ وَالشَّرْوُ: شرم۔
الشَّرْوَالُ: سروال میں ایک لغت ہے۔ بمعنی پاجامہ۔

شَرِي يَشْرِي شِرَاءً وَشِرَى: الشَّيْءُ: خریدنا یا بیچنا۔ الشَّيْءُ أَوْ التَّوْبُ: دھوپ میں خشک ہونے کیلئے ڈالنا۔ يَنْفَعُهُ عَنْ قَوْمِهِ آگے بڑھ کر قوم کی طرف سے لڑنا۔ بادشاہ کے سامنے قوم کی نمائندگی کرنا۔
ه: غصلا کرنا۔ غمگین کرنا۔ کہا جاتا ہے "فَعَلَ بِهِ مَشَارَهًا" اس نے اس کے ساتھ وہ فعل کیا جس نے اسے غمگین کیا۔ اللّٰهُ فَلَانًا: بچی اچھلنے کی تیاری میں مبتلا ہونا۔

شَرِي يَشْرِي شِرَى: الشَّرِي: بھلی کا چمکانا۔ زَمَامٌ الذَّابِقُ: بہت زیادہ بلنا۔ الرَّجُلُ: غصبتاک ہونا۔ اصرار کرنا۔ الْجِلْدُ: جسم پر بچی اچھلنا۔ صفت (شری) الشَّرِي يَنْتَهِمُ: بڑائی چھیلنا۔ الْفَرَسُ فِي سَبْرِهِ: تیز دوڑنا۔ الْفَرَسُ فِي لِحَامِهِ وَالْبَيْتُ فِي زَمَامِهِ: کھینچنا۔
أَشْرَى: الزَّمَامُ: حرکت دینا۔ الشَّرِي: جھکانا۔ الْحَوْضُ: حوض کو بھرنا۔ الْبَيْتُ: بھلی کا تیز چمکانا۔ بھڑکانا۔ الْقَوْمُ: خارجی جیسا ہونا یعنی طاعت امام سے نکل جانا۔

شَرِي: اللِّحْمُ أَوْ التَّوْبُ وَتَحْوُهُمَا: گوشت یا کپڑے کو دھوپ میں ڈالنا۔
شَارَى مَشَارَةً وَشِرَاءً الرَّجُلُ: خرید و فروخت کرنا۔ بھڑا کرنا۔
إَشْرَى: خریدنا۔ بیچنا۔
تَشَارَى تَشَارَاتِ الرَّجُلَانِ: باہم غصبتاک ہونا۔
تَشْرَى تَشْرَاتِ: متفرق ہونا۔ خوارج میں سے ہونا۔
إَشْرَى إَشْرَاءً: الْفَرَسُ فِي سَبْرِهِ:

جس کے معانی بہت ہوں جیسے لفظ عین۔ رَجُلٌ مُشْتَرِكٌ: غمگین آدمی کی طرح خود بخود باتیں کرنے والا۔

شَرْمٌ (ض) شَرْمًا: الشَّيْءُ: بھاڑنا۔ الْأَنْفُ: ناک کا بائیں کانا۔ الشَّرِيذَةُ: ٹرید کو کناروں سے کھانا۔ لِفْلَانٌ مِنْ مَالِهِ: تھوڑا سا دینا۔ شَرِمٌ (س) شَرْمًا: کٹی ہوئی ناک والا ہونا۔ صفت (أَشْرَمٌ) مَوْتٌ شَرْمًا: ح شَرْمٌ: شَرْمَةٌ: بھاڑنا۔ حِرْبًا: کلوے کلوے کرنا۔ تَشْرَمٌ وَأَنْشَرَمٌ: بھڑنا۔ کلوے کلوے ہونا۔ شَرْمُ الصَّيْدِ: شکار کا زخمی ہو کر بھاگنا۔ الشَّرَامُ: قانا۔ نشانہ کے گوشہ کو چھیدنے والا تیز۔ الشَّرْمُ: مہ۔ کھاری۔ سمندر کے پانی کا گہرا حصہ۔ ایک قسم کا درخت۔ ح شَرْمٌ: الشَّرْمَحُ: قوی و لبا۔ ح شَرَامِحُ: وَشَرَامِحَةٌ:

الشَّرْمَحِيُّ: توانا قوی۔
الشَّرْمَحُ: لبا۔
شَرْنٌ (س) شَرْنَا: الصَّخْرُ: چٹان کا پھٹنا۔
الشَّرْنُ: شگاف۔

الشَّرْنُوثُ وَالشَّرْنُبُدُ: موٹے اور سخت ہاتھوں والا۔ شیر۔
الشَّرْنُوبِيُّ: ایک پرندہ۔

جَمَلٌ شَرْنَانٌ: موٹی اور لمبی گردن والا اونٹ۔
الشَّرْنُوعُ: مینڈک۔

شَرْنَفٌ: الزَّرْعُ: کھیت کے بڑھے ہوئے پتوں کو کھانا۔

الشَّرْنَأَفُ: کھیتی کے بڑھے ہوئے پتے جو کھیتی کے لیے معزز ہیں۔

الشَّرْنَفْحُ: ہلکے قدم والا۔
شَرْنَقُ الشَّيْءِ: کھانا۔

الشَّرَانِقُ: سانپ کی کینچل جس کو چھوڑ دے۔
وَالشَّرَانِقُ عِنْدَ الْمُؤَلِّدِينَ: ریشم کے کیڑے کا کويا واحد (شَرْنَقَةٌ) اس کو "فِيَالِح" بھی کہتے ہیں جس کا واحد "فِيَالِحَةٌ" ہے۔ "بِز" ضَلْحٌ" کہتے ہیں جس کا واحد "ضَلْحَةٌ" ہے۔

شِرَةٌ (س) شَرَهَا وَشَرَاهَةً: إِلَى الطَّعَامِ

المُشْرَقُ: منہ۔ چونکہ رکھ سے پلٹ کر آیا ہوا۔
الشَّرْفَرَقِيُّ وَالشَّرْفَرَقِيُّ وَالشَّرْفَرَقِيُّ وَالشَّرْفَرَقِيُّ: ایک چھوٹا پرندہ جس کو "أَحْبِيل" بھی کہتے ہیں اور عوام اس کو "شَفْرُق" کہتے ہیں۔

شَرِكْتُ (س) شَرِكًا: التَّغَلُّ: تسم لٹونا۔
شَرِكَةٌ (س) شَرِكًا وَشَرِكًا وَشَرِكَةٌ وَشَرِكَةٌ: شریک ہونا۔
شَرِكُ التَّغَلُّ: جو تسم میں تسم لگاتا۔

أَشْرِكُهُ: فِي أَمْرِهِ: کام میں شریک بنانا۔
أَشْرِكُ بِاللَّهِ: شریک ٹھہرانا۔ شرک کرنا۔ صفت (مُشْرِكٌ وَشَرِيكِي) اور اسم (الشَّرِيكُ) التَّغَلُّ: جو تسم میں تسم لگاتا۔

شَارِكَةٌ وَتَشَارِكًا: باہم شریک ہونا۔
إِشْرَكَ الْأَمْرُ: مشتبہ ہونا۔ إِشْرَكَ الْقَوْمُ فِي كَذَا: باہم شریک ہونا۔

الشَّرِيكُ: شَرِيكٌ وَأَشْرِكُ كَأَسْمٍ: شریک حصہ۔ اور اسی سے ہے "بَيْعُ شَرِيكٍ مِنْ دَارِهِ" اس کے گھر کا ایک حصہ بیچنا گیا۔ ح أَشْرَاكُ:

الشَّرِيكَةُ: مہ۔ شریک کا حصہ۔ دو یا دو سے زائد حصوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ایک دوسرے سے متوازن ہوں اور عقدر بھی بولا جاتا ہے۔ اگر چہ یہ اختلاف نہ ہو۔

الشَّرِيكُ: جال۔ پھندا۔ ح شَرِيكٌ وَأَشْرَاكُ: راستہ پر جانوروں کے قدموں کے نشانات۔ واحد (شَرِيكَةٌ)

الشَّرِيكُ: جوتے کا تسم جو پشت قدم پر پڑے۔ زمین پر گھاس کی ایک پٹی۔ ح أَشْرَاكٌ وَشَرِيكٌ:

الشَّرِيكِيُّ وَالشَّرِيكِيُّ: تیز چال اور کہا جاتا ہے "أَطْلَمَةُ نَظْمًا شَرِيكِيًّا" اس نے اس کو جلدی جلدی پیانے طماچے مارے۔

الشَّرِيكُ: ساجھی۔ شریک۔ ح شَرِيكٌ وَأَشْرَاكُ: مَوْتٌ شَرِيكَةٌ: ح شَرِيكٌ: الْمُشَارِكُ: ساجھی۔ حصہ دار۔

المُشْرِكُ: منہ۔ جس میں دو یا دو سے زائد شریک ہوں۔ کہا جاتا ہے "طَرِيقٌ مُشْرِكٌ وَزَائِيٌ مُشْرِكٌ وَأَمْرٌ مُشْرِكٌ" لفظ مُشْرِكُ:

<p>تیز دوڑنا۔ الزَّجْلُ فِي الْأَمْرِ: اصرار کرنا۔ اِسْتَشْرَبَ الْأُمُورَ: بڑا اور دشوار ہونا۔ الزَّجْلُ: غضبناک ہونا۔ اِسْتَشْرَبَ الْأُمُورَ: مضطرب ہونا۔ الشَّرْبِيُّ: اندر آن۔ عرب کہا کرتے تھے۔ "إِفْلَاقَ بَطْنِ عَمَّانَ أَرْبَى وَشَرْبِي" یعنی فلاں بیٹھا بھی ہے اور کروا بھی۔ درخت خرما جو ج سے آگا ہو۔ واحد (شَرْبِيَّةٌ) الشَّرْبَاءُ: جِ أَشْرَبِيَّةٌ وَ (الشَّرْبِيُّ) خرید و فروخت۔ الشَّرْبَاءُ: طرف۔ جانب۔ الشَّرْبِيُّ: پتی اچھلنے کی بیماری۔ پھاڑ۔ راستہ۔ طرف۔ جانب۔ جِ أَشْرَبَاءُ: کہا جاتا ہے "ذَخَلُوا أَشْرَبَاءَ الْحَرَمِ" وہ لوگ حرم کے اطراف میں داخل ہوئے۔ الشَّرْبِيُّ: فرات کی جانب شیروں کے رہنے کی ایک جگہ جس کو بطور مثال کے کہا کرتے ہیں (۔ وَالشَّرْبَاءُ رَدَى مَالٍ يَأْمُرُهُ مَالٌ كَمَا جَاتَا بِي "اِبِلُ شَرْبَاءَةَ" یعنی عمدہ اونٹ۔ الشَّرْبِيُّ: مِنَ الْخَيْلِ: پسندیدہ۔ رفتار میں اتنا کو پچھا ہوا۔ الشَّرْبِيَّةُ: الشَّرْبِيُّ كَامُونْتِ: طریقہ۔ طبیعت۔ روش۔ وہ عورت جو ہمیشہ لڑی جئے۔ الشَّرْبَوِيُّ: مثل یہی لفظ واحد تشبیہ جمع مذکر مونث سب کے لیے مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "هَذَا وَهِيَ وَهْمًا وَهَمٌّ وَهَنَّ شَرْبَاكُ" یعنی تمہارے مثل ہیں اور کہا جاتا ہے "إِنَّهُ لَا يَمْلِكُ شَرْبَوِيَّ تَقْيِيذٍ" وہ تقیر کی برابر کسی چیز کا مالک نہیں۔ تقیر کے لیے بطور مثال کے بولا کرتے ہیں۔ اور تقیر اس گڑھے کو کہتے ہیں جو کھجور کی تنھلی میں ہوتا ہے۔ الشَّرْبِيَانِ: ایک درخت جس کی کڑی سے کمان بناتے ہیں۔ اچھلنے والی رگ جس میں خون دوڑتا ہے۔ جِ شَرْبِيَيْنِ۔ الشَّرْبِيَانَاتُ: جسم کی باریک رگیں۔ الشَّرْبِيُّ: اسم فاعل۔ جِ شَرْبَاءَةَ: زمانہ حال کے علماء اس کلمہ کو کبھی پر دلالت کیلئے استعمال کرتے ہیں۔ الشَّرْبَاءَةُ: خوارج۔ الشَّرْبِيُّ: قا۔ خریدار۔ ایک سیارہ کا نام۔</p>	<p>ایک قسم کا پرندہ۔ شَرْبَيْفُ الزَّرْعِ: کھیت کے بڑھے ہوئے مسخر تپوں کو کہتے ہیں۔ الشَّرْبِيَانُ: کھیتی کے بڑھے ہوئے پتے جو مسخر ہوں۔ شَرْبَاءُ (ض) شَرْبَاءَةَ: بہت خشک ہونا۔ صفت (شَرْبَاءُ) و شَرْبِيٌّ شَرْبَاءُ (ن) وَ شَرْبَاءُ (ك) شَرْبَاءُ وَ شَرْبَوِيَانُ۔ کھور ہوا ہونا یا لاغر و خشک ہونا۔ صفت (شَرْبَاءُ) کہا جاتا ہے "زَجْلٌ شَحَابٌ شَرْبَاءُ" رنگ بدلا ہوا لاغر و خشک مرد۔ جِ شَرْبَاءُ وَ شَرْبَوِيَانُ۔ شَرْبَاءُ: الفَرْسُ: گھوڑے کو لاغر کرنا۔ چھریرا بنانا۔ تَشْرَابُ: الْقَوْمُ عَلَى الْمَاءِ وَ غَيْرِهِ: اپنے حصہ کا پھلنا ہونا۔ کہا جاتا ہے "هَمُّ تَشْرَابِ ثَوْنٍ" وہ لوگ اپنے حصہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ الشَّرْبِيَّةُ: اسم مرء۔ کمان جو نہ نئی ہونہ پرانی۔ الشَّرْبِيَّةُ مِنَ الْأَثْنِ: وہی تپنی گدھی۔ الشَّرْبِيَّةُ: فرصت۔ کہا جاتا ہے "فَصَفَتْ شَرْبِيَّةٌ" اس کی فرصت کا موقع نکل گیا۔ الشَّرْبِيَّةُ: کڑی جس کی اصلاح ابھی نہ ہوئی ہو۔ کمان جو نہ نئی ہونہ پرانی۔ جِ شَرْبَوِيَانُ۔ الشَّرْبَوِيَانُ: علامت۔ شَرْبَاءُ (ض) شَرْبَاءُ: الرَّجُلُ وَالْيَتِيمُ: غصہ میں ترچھی نظر سے دیکھنا۔ فُلَانًا: دُائِمًا يَأْتِي سَ نِيْزِهِ مَارًا۔ نظریہ لگانا۔ شَرْبَاءُ (ن ض) شَرْبَاءُ وَ اِسْتَشْرَبَ: الْحَبْلُ: رسی بننا۔ اِسْتَشْرَبَ الْحَبْلُ: رسی کا بٹ جانا۔ اِسْتَشْرَبَ الشَّيْءَ: بلند کرنا۔ الشَّيْءَ: بلند ہونا۔ أَشْرَبَةُ: اللَّهُ: ایسی مصیبت میں پھنسانا جس سے رہائی ممکن نہ ہو۔ تَشْرَبُ: غضبناک ہونا۔ لَلْفَتَالِ: آواز جگمگ ہونا۔ شَرْبَاءَةُ غَشَاوَرَةَ: دشمنی کرنا۔ تَشَارَرُ الْقَوْمُ: ترچھی نظر سے ایک دوسرے کو دیکھنا۔ الشَّرْبَاءُ مَعَهُ: سختی۔ دشواری۔ کہا جاتا ہے "غَزُوٌ</p>	<p>شَرْبَاءُ: تَابَعُوا رَاكِبًا هَوَسًا۔ الشَّرْبَاءُ وَ الشَّرْبَاءَةُ: آنکھ کی سرخی۔ الأَشْرَبُ: سرخ۔ عَيْنٌ شَرْبَاءُ: غصہ کی وجہ سے سرخ آنکھ۔ شَرْبَاءُ (س) شَرْبَاءُ: الرَّجُلُ: بہت ہونا۔ تَشْرَبُ: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ دشوار ہونا۔ لَهْ فِي الْخُصْمَةِ: جھگڑے میں سختی برتنا۔ لِلْمَسْفَرِ: سفر کی تیاری کرنا۔ سامان کرنا۔ (تَشْرَبُوا وَ تَشْرَبُوا) الرَّجُلُ: بچھاڑنا۔ الشَّاءُ: ذبح کرنے کے لیے لگانا۔ الشَّرْبُونُ: جو سرخ و سرخ کھینے کا مہرہ۔ الشَّرْبُونُ وَ الشَّرْبُونُ: سختی۔ جانب دوری۔ زمین کی سختی۔ مِنَ الْعَيْشِ: زندگی کی سختی۔ الشَّرْبُونُ: جو سرخ و سرخ کھینے کا مہرہ۔ الشَّرْبُونَةُ: مِنَ الْبِنَاءِ: بخیل عورت۔ الشَّرْبُونَةُ: سختی۔ شَرْبَاءُ شَرْبَاءُ: بلند ہونا۔ شَسَّ (ض) شَسَّ شَسًا: الشَّيْءُ: خشک ہونا۔ الشَّاسُ: لاغر۔ ضعیف و خشک۔ الشَّسَّ: سخت زمین جو ایک پتھر کی طرح معلوم ہو۔ جِ شَسَّاسُ وَ شَسَّوْسُ وَ شَسَّيْنِسُ۔ شَسَّبَ (س) وَ شَسَّبَ (ك) شَسَّبًا وَ شَسَّبُوْنَا: خشک و لاغر ہونا۔ صفت (شَسَّبَ) جِ شَسَّبَ۔ الشَّسْبُ وَ الشَّسْبِيْبُ: مِنَ الْقَيْسِيِّ: کمان جس کی کڑی تپنی ہو۔ الشَّسْبُ: مِنَ الثَّوْقِيِّ: اونٹنی جس کا پتہ سردی میں مرجائے اور پھر دودھ نہ دے۔ شَسَعٌ (ف) شَسَعًا وَ شَسَّوْعًا: الْمَنْزِلُ: دور ہونا۔ صفت (شَسَّوْعٌ) جِ شَسَّعٌ وَ (شَسَّابِعٌ) (شَسَّعًا وَ شَسَّعًا وَ اِسْتَشَّعَ) التَّغْلُ: جوتے کے لیے تمہ بنانا۔ اِسْتَشَّعَ: الشَّيْءَ: دور کرنا۔ شَسَّعَ (س) شَسَّعًا: التَّغْلُ: جوتے کا تمہ ٹوٹنا الفَرْشُ: گھوڑے کے غنیمہ اور رباعیہ دائروں کے درمیان فاصلہ ہونا۔ يَهْ: دور کرنا۔</p>
---	---	--

ششب + شصب

شصب + شط

شط

_____ فِي سَلْعِهِ: حد سے تجاوز کرنا اور بیش قیمت کرنا۔

أَشْطَأَ إِشْطَاظًا وَإِشْطَظَ إِشْطَظًا: زیادتی کرنا۔ حد سے تجاوز کرنا۔ حق سے دور جا پڑنا۔ عَلَيْهِ: ظلم کرنا۔

شَطَطَ: زیادتی میں مبالغہ کرنا۔ شَطَاةٌ: زیادتی کرنے میں مقابلہ کرنا۔

الشُّط: مہر و ریایا سمندر کا کنارہ۔ ج شَطُوط و شَطَّان: کوہان کی ایک جانب۔ ج شَطُوط۔ الشُّطَّة: اسم مرۃ۔ جَارِيَةٌ شَطَّةٌ: سڈول بدن والی لونڈی۔

الشُّطَّةُ وَالشُّطَاظَةُ وَالشُّطَاظُ وَالشُّطَاظُ: دوری۔ الشُّطَاظُ وَالشُّطَاظُ: قدر و قامت کی خوبصورتی اور استعمال۔

الشُّطَاظُ: فَارِجٌ لِحَالٍ شَاظٌ: سڈول بدن والا مرد۔ مَوْنَتُ شَاظَاةٍ:

شَطَاةٌ (ف) شَطَاةٌ وَشَطُوءَةٌ: ۱۔ کنارہ پر چلنا۔ الدَّابَّةُ بِالْحَمَلِ: جانور پر بوجھ لادنا۔

فَلَانًا: مغلوب کرنا۔ الْأُمُّ بِالْوَلَدِ: بچہ گرا دینا (وَأَشْطَأَ الزَّرْعُ: کھیتی میں خوش لگانا۔ أَشْطَظَ الشَّجَرُ بَعْضُوه: درخت میں شیشی لگانا۔ أَشْطَأَ الرَّجُلُ: زکام والا ہونا۔

أَشْطَأَ الْوَادِي: دونوں کناروں پر بہتا۔ کہتے ہیں "مِلْنَا الْوَادِي كَذَافًا وَجَدْنَاهُ مَشْطُوعًا" ہم فلاں وادی کی طرف متوجہ ہوئے تو اس کو دونوں کناروں سے بہتا ہوا پایا۔

شَطَاةٌ تَشْطِطُنَا: التَّهْمُ: دونوں کناروں پر بہتا۔ شَطَاةٌ: ایک دوسرے کے ساتھ دریا کے کنارہ پر چلنا۔

الشُّطَاةُ: کنارہ۔ ج شَطُوءَةٌ (وَالشُّطَاةُ) کھیتی کے پتے یا خوشہ۔ درخت خرمائے پودے۔ مِنَ الشَّجَرِ: شاخیں جو درخت کی جڑ میں نکل آئیں۔ ج أَشْطَاءُ۔ الشُّطَاةُ: زکام۔

الشَّاطِئِ: فَارِجٌ مِنَ التَّهْمِ: جانب۔ تم کہتے ہو "شَاطِئِي الْأَوْدِيَّةُ" اس کی جمع نہیں آتی۔

_____ مِنَ الْبَحْرِ: کنارہ۔ ج شَوَاطِي

أَنَارًا۔

أَشْصَبَ: اللَّهُ عَيْشُهُ: تنگ گزران کرنا۔ الشُّصْبُ: سختی۔ قَطُ: خشک سالی۔ حصۃ۔ ج أَشْصَابُ۔

الشُّصْبُ وَالشُّصْبُ: خشکی۔ الشُّصْبُ: کھال آڑی ہوئی بکری۔ عَيْشٌ (شُصْبٌ) و شَوَارِدٌ: گزران زندگی۔ الشُّصْبُ: حصۃ۔ مسافر۔

الشُّصْبِيَّةُ: سختی و خشک سالی۔ کنوئیں کی گرائی۔ ج شُصَابٌ: الشُّصَابُ: پالان کی لکڑی۔ الشُّصَابُ: قصاب۔

الشُّصْبَانُ: چبوتیا یا اس کا سوراخ جنوں کا ایک قبیلہ۔ شیطان کا نام۔

شُصْرٌ (ن) شُصْرًا: النَّوْبُ: کپڑے کو ڈور ڈور سینا۔ لَكَرُوا لَنَا _____ فَلَانًا بِالزَّمْحِ: کسی کو نیزہ مارنا۔ ه: النَّوْرُ: بیل کا سینگ مارنا۔

الشُّصْرُ: ہرن کا بچہ جبکہ قوی ہو جائے اور حرکت کرنے لگے۔ مَوْنَتُ شُصْرَةٍ: ایک چھوٹا پرندہ۔ ج أَشْصَارُ۔

الشُّصَاوُ: فَارِجٌ مِنَ الظَّبَايَا: ہرن کا بچہ جبکہ قوی ہو جائے اور حرکت کرنے لگے۔ مَوْنَتُ شَاصِرَةٍ ج شَوَاصِرُ: درندوں کیلئے ایک جال۔

الشُّوَصْرُ: مِنَ الظَّبَايَا: ہرن کا بچہ جبکہ قوی ہو جائے اور حرکت کرنے لگے۔

الشُّصِيْرُ: کانٹے کی چھین۔ شُصَا يَشُصُو شُصْرًا وَشُصِي يَشُصِي شُصِيًا: البَصْرُ: نگاہ کا پتھرا جانا _____

السَّحَابُ: بادل کا بلند ہونا۔ الْقَوِيَّةُ: منگ کا خوب اچھی طرح بھر جانا۔ الْمَيْتُ: میت کے ہاتھ پیروں کا اٹھ جانا۔ کہا جاتا ہے "شُصَابِرٌ جِلْدٌ" اس نے اپنی ٹانگ اٹھائی۔

أَشْصِي بَصْرَةً: کھلی نگاہ۔ نگاہ اٹھانا۔ الشُّصُو: سختی۔ مسواک۔

شَطَّ (ض ن) شَطَاةٌ وَشَطُوءًا: دور ہونا۔ فَلَانًا: دور کرنا۔ ظلم کرنا۔

شَطَّ (ض) شَطَطًا: زیادتی کرنا۔ حق سے دور ہو جانا۔ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ وَحَكِيمِهِ: ظلم کرنا

_____ بِه: دور کرنا۔

الشُّبْنُ: جوتی کا تسمہ۔ کہا جاتا ہے "أُولَى مِنْ الشُّبْنِ" جوتی کے تسمہ سے بھی قریب۔ تنگ زمین۔ کسی جگہ کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "تَوَلَّى بِشْبْنِ مِنَ الْوَادِي" وہ وادی کے کنارے پر اُتر۔ تھوڑا مال۔ زیادہ مال (ضد) اور کہا جاتا ہے "هُوَ شِبْنُ مَالٍ" وہ مال کا انتظام کرنے والا ہے۔ ج أَشْبِنَاعُ۔

شَسْفٌ (ن) شَسْفٌ (ك) شَسْفٌ فَاشَسْفَاةٌ وَشَسْفَاةٌ: خشک و لاغر ہونا۔ صفت (شَاسِفٌ وَشَسِيفٌ) الشُّسْفُ: خشک روٹی کی لکڑی۔

الشُّسْفُ: پکی کھجور چیر کر خشک کی ہوئی۔ الشُّسْفُ: وہ شخص جو لاغری کی وجہ سے خشک ہو چلا ہو۔ الشُّوْصُبُ: بچھو۔ جوں۔

شَصَّتْ: (س ض) شُصُوْصًا وَشَصَاةً: النَّاقَةُ: اونٹنی کا بہت کم دودھ والی ہونا۔ المَعِيْشَةُ: تنگ گزران ہونا۔ الرَّجُلُ: دور ہونا۔ کہا جاتا ہے "مَا أَدْرِي أَيْنَ شَصٌّ" میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا۔

شَصَّةٌ (ن) شَصًّا وَأَشَصَّةٌ: عَنِ كَذَا: منع کرنا۔ دور کرنا۔ ہٹانا۔ أَشَصَّ الرَّجُلُ: دُور چلا جانا۔ أَشَصَّتِ النَّاقَةُ: اونٹنی کا کم دودھ والی ہونا۔ صفت شُصُوْصٌ: مُشِصٌ نہیں کہتے۔

الشُّصُ: مشاق چور۔ ج شُصُوْصٌ (وَالشُّصُ) مچھلی شکار کرنے کا لگانا۔ جس کو "سِنَاةٌ" بھی کہتے ہیں۔ ج شُصُوْصٌ۔

الشُّصُوْصُ: مِنَ الثُّرُقِ وَالشُّبَايَا: کم دودھ والی اونٹنی یا بکری۔ ج شُصُوْصٌ وَشُصَايِصٌ وَشُصَايِصٌ: سِنَةٌ شُصُوْصٌ: خشک سال۔ کہا جاتا ہے "نَفَى اللَّهُ عَنْكَ الشُّصَايِصُ" اللہ تمہاری سختیوں کو دور کرے۔

شُصَبٌ (ن) شُصُوْبًا وَشُصِبٌ (س) شُصَبًا: العَيْشُ: تنگ گزران ہونا۔ صفت (شُصَابٌ) الْأَثَرُ: دشوار ہونا۔

المَكَانُ: قَطْرَةٌ زَوْهَةٌ۔ شُصَبٌ (ن) شُصَبًا: الشَّاةُ: بکری کی کھال

المَشْطُور - مضم - چٹنی لگی ہوئی روٹی۔
مِنْ الزُّجْلِ: فن عروض کی اصطلاح میں بحر جز
کے چھ اجزاء سے تین جز حذف کیا ہوا۔
المُشَاطِر - مہلیہ - کہا جاتا ہے "ہنم
مُشَاطِرُونَ" ان کے گھر ہمارے گھر سے متصل
ہیں۔

المَشْطُور نَج - ایک مشہور کھیل ہے۔ شکر ت
لفظ جز آنگ کا معرب۔ اس میں چھ قسم کے مروں
سے کھیلتے ہیں جو شاہ فرزین 'فیل' 'اسپ' 'رخ'
اور پیدل کہلاتے ہیں۔ ج شَطْر نجات۔
شَطَسَ (ن) اَشْطَسًا فِی الْأَرْضِ: ستر کرتا۔
الشُّطَس - مہ - چالاک۔
الشُّطَس وَالشُّطَسَة - مخالفت - دشمنی۔
عمار۔

الشُّطُوس - ہر طرف کو جانے والا۔ حکم کے
خلاف چلنے والا۔
شَطَعَ (س) اَشْطَعًا الزُّجْلُ: مرض وغیرہ کی
وجہ سے گھبرا اٹھنا۔

شَطَفَ (ن) شَطْفًا الزُّجْلُ: جانا اور دور
ہونا۔ عَنِ الشَّيْءِ: ہٹنا۔ الْغُوبُ
وغیرہ۔ کپڑا وغیرہ دھونا۔

سَهَمَ (شَطِيفٌ) نَشَانَة سے خطا کرنے والا تیر۔
بَيْتَةُ (مَشْطُوفٌ) ارادہ بعید وہے پایاں۔
الشُّطْفَةُ مِنَ الشَّيْءِ: کھلا۔ ج شَطَفَ۔
شَطَمَ (ن) شَطْمًا اِمْرًا تَهُ: جماع کرتا۔
شَطَنَ (ن) شَطْنًا: مخالفت کرتا۔ دُور کرتا۔

رستی سے باندھنا۔ شَطَنَ فِي الْأَرْضِ: داخل
ہونا۔ شَطُونًا الدَّارَ: دُور ہونا۔
الزُّجْلُ: جن وغیرہ سے دُور ہونا۔

أَشْطَنَهُ: دُور کرتا۔
شَيْطَنٌ شَيْطَانَةٌ وَتَشَيْطَنُ: شیطانی فعل کرتا۔
الشَّاطِنُ: فہ - غیبیت۔ جن سے دُور ہونے والا۔

الشَّطْنُ - رستی۔ ج اَشْطَانُ۔
بَنُو (شَطُونٌ) زیادہ گمراہ تو اس۔ حَزَبٌ شَطُونٌ:
بست سخت جنگ۔ بَيْتَةُ شَطُونٌ: ارادہ بعید مزعج
شَطُونٌ: لہذا تیر حائزہ۔

الشُّطَيْنِ - دُور۔
الشُّطَيْطَانُ - ج شِطَائِنِ: دیو۔ ہر سرکش و

اونٹنی کے ایک پستان کا دوسرے سے لبا ہونا۔
ایک پستان خشک ہونا۔

شَطْرَ الشَّيْءِ: دو حصوں میں تقسیم کرتا۔
الشَّيْعَرُ: شعر کے ہر مصرعہ پر دوسرا مصرعہ
بڑھانا (مولدہ)۔ اِنْتَاقَةً وَبِالْثَّاقَةِ: اونٹنی
کے ایک طرف کے تھن کو دوسرا دوسرے کو چھوڑ
دینا۔

شَاطِرَةٌ - مَالُهُ آدھَا آدھَا تَقْسِيمٌ كَرِيْمًا - فُلَانًا:
کسی کے گھر کے حاصل گھر والا ہونا۔
الْثَّاقَةُ: اونٹنی کے ایک طرف کے تھن کو دوسرا
دوسرے کو چھوڑ دینا۔

الشَّطْر - مہ - جزء۔ نصف۔ اور اسی سے ہے
"شَطْرَ بَيْتِ الشَّيْعَرِ" شعر کا نصف واحد 'دوری'
جست 'جانب' اور اسی سے ہے شَطْرَ شَطْرُهُ
و "قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ" اپنے
چہرہ کو مسجد کی جانب پھیرو۔ ج اَشْطُرُو شَطْرُونَ تَاثِرُ
کے تھن کے دو حصے ہوتے ہیں دو اگلے اور دو
پچھلے۔ ہر دو بائیں کو شطر کہتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے
"حَلَبَ اَشْطُرَ الدَّهْرِ" یعنی اس نے تجربہ کیا اور
زمانہ کے نیر و شر کو وہ پہچان گیا اور امثال عرب سے
ہے "هَذَا حَلَبٌ لَكَ شَطْرُهُ" یہ ایسا عمل ہے
جس میں فریقین کا نفع ہے۔

الشَّطْرَة - اسم نوع۔ اور کہا جاتا ہے "أَوْلَادُ
فُلَانٍ شَطْرَةٌ" یعنی فلاں کی اولاد نصف مذکر نصف
مؤنث ہے۔

الشَّطْرَان - صرف نصف تک بھرا ہوا مؤنث
شَطْرَانِي۔
الشَّاطِر - فہ - شوخ و بیباک۔ چالاک و غبیث۔ ج
شَطَارٌ۔

الشُّطُور - (مِنْ الْبَعَاثِ أَوْ النَّوْقِ): بھیریا۔
اونٹنی جس کے ایک جانب کا تھن لبا ہوا ایک
جانب کا تھن خشک ہو گیا ہوا۔ نُوْبٌ شَطُورٌ: کپڑا
جس کی ایک جانب دوسرے سے لمبی ہو۔ ذَاوُ
شَطُورٌ: دوسرے مکانوں سے علیحدہ مکان۔

الشُّطَيْر - دُور۔ اکبلا۔ مسافر۔ اجنبی۔ ج شَطْرَاءُ
و شَطْرٌ: آدھا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا شَطْرَةٌ
و شَطِيرَةٌ" یہ اس کا آدھا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے
"هَذَا بَعْضُهُ وَنَيْصِفُهُ"

و شَطَانٌ۔

شَطَبَ (ن) شَطْبًا - الشَّيْءَ: لبا کاٹنا یا چرنا
ہ۔ وَشَطَبَ فَوْقَهُ: لکیر کھینچنا۔
الزُّجْلُ: دُور ہونا۔ عَنَهُ: اعراض کرنا۔ ہٹنا
الزَّمْعُ عَنِ مَقْتَلِهِ: نیزے کا خطر کرنا۔
شَطْبَةُ: جسم میں عمل تشریح کرنا۔

تَشَطَّبَ - كُنَّا (و اِنْشَطَبَ) الْمَاءُ
و نَحْوُهُ: بہنا۔
الشَّطْب - مہ - لبا کو بصورت قد و قامت
والا۔ درخت خرابی ترو سبز شاخ۔ ج شَطْبُوب۔
الشَّطْبَةُ - مِنَ التَّخْلِ: کھجور کی سبز شاخ۔
کھوار۔ ج شَطْب - لکیر جو غلط تحریر پر کھینچ دی
جائے (و الشَّطْبَةُ) لمبی خوبصورت لڑکی۔
اچھے گوشت والا گھوڑا۔

الشَّطْبَةُ وَ الشَّطْبَةُ وَ الشَّطْبَةُ - کھوار وغیرہ
کے پھل کی دھاری۔ ج شَطْب۔
الشَّطْبِيَّة - اونٹ کے کوبان کا کھرا جو لبا کاٹ
لیا گیا ہو۔ جیسے شَطَابِي۔

الشَّطَابِي - مختلف فرقے۔ سختیاں۔
سَيِّفٌ (مَشْطُوبٌ وَ مَشْطَلٌ) دھاری دار
کھوار۔ زَجْلٌ مَشْطَلٌ: وہ شخص جس کے چہرہ
میں کھوار وغیرہ کی ضرب کا نشان ہو۔

شَطْرَ (ن) اَشْطُرًا - الشَّيْءِ: دو برابر حصوں میں
کرتا۔ بَيْتُ الشَّيْعَرِ: شعر کا نصف حذف
کرتا۔ اِنْتَاقَةً أَوْ الشَّاءَ: ایک جانب کے
تھن کو دوسرا دوسرے کو چھوڑ دینا۔ اور کہتے ہیں
شَطْرَ شَطْرُهُ اس نے اس کی جانب کا قصہ کرتا۔

شَطْرَتِ (ن) شَطْرُونَ - اِنْتَاقَةً: اونٹنی کے
تھن کے ایک حصہ کا لبا ہونا۔ شَطْرَ بَصْرِهِ اس
طرح دیکھنا کہ تمہاری طرف بھی نظر رہے اور
دوسرے کی جانب بھی۔ الدَّارُ: دُور ہونا
(شَطَارَةٌ) شوخ و بیباک ہونا۔ چالاک و غبیث
ہونا۔ (شَطْرُونَ وَ شَطْرُونَ وَ شَطَارَةٌ)
عَنْهُمْ: جدا و بعید ہونا۔ عَلَى أَهْلِهِ:
خباثت و کینہ کی وجہ سے موافقت چھوڑ دینا
النَّهْمُ: متوجہ ہونا۔

شَطْرَ (ك) شَطَارَةٌ - شوخ و بیباک ہونا۔
چالاک و غبیث ہونا۔ شَطْرَةَ اِنْتَاقَةً

کرن۔
الشَّعَاعُ: آفتاب کی کرن۔ جِ أَشْعَاءُ وَشَعُعٍ وَشِعَاعٍ۔
الشَّعَاعُ: مم۔ خون وغیرہ کا بکھرنے والا سیاہی
مِنَ اللَّبَنِ: زیادہ پالی ملا ہوا دودھ، ہر
بکھری ہوئی چیز۔ کہا جاتا ہے "ضَرَبْتُ بِالْعَصَاءِ
عَلَى الْحَاظِلِ فَتَطَارَتْ شِعَاعًا" میں نے
لاٹھی کو دیوار پر مارا جس کی وجہ سے لاٹھی کے
پیشے سے اڑ گئے۔ "ذَهَبَ الْقَوْمُ شِعَاعًا" قوم
بکھر گئی و "طَارَ قَلْبُهُ شِعَاعًا" اس کا دل غموں کی
وجہ سے پر اگندہ ہو گیا۔ و "طَارَتْ نَفْسُهُ
شِعَاعًا" خوف وغیرہ کی وجہ سے اس کا جی
پر اگندہ و پریشان ہو گیا۔
شُعَاعُ السَّنْبُلِ وَشِعَاعُهُ وَشِعَاعُهُ وَشِعَاعُهُ: خوشہ کا خشک کاٹنا جب تک کہ خوشہ پر رہے۔
الشَّعُّ وَالشَّعِيعُ: جلدی۔ و الشَّعُّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ: بکھری ہوئی۔
شَعَبٌ (ف) شُعْبَةٌ: الشَّيْءُ: جمع کرنا۔ متفرق کرنا۔ درست کرنا۔ بگاڑنا (ضد) پھاڑنا۔
الشَّيْءُ: ظاہر ہونا۔ الْقَوْمُ: متفرق ہونا۔ الزَّجْلُ: مرنا۔ شَعَبَةُ الْمَيْتَةِ: اچانک ہلاک کرنا۔ فَلَانًا: مشغول کرنا۔ اللِّجَامُ الْفَرَسِ: لگام کا گھوڑے کو روکنا اور دو سرری طرف کو پھیرنا۔ کہا جاتا ہے "اشْعَبْتُ لِي شُعْبَةً مِنَ الْمَالِ" یعنی اپنے مال میں سے ایک حصہ مجھ کو دو۔ شَعَبْتُ إِلَى الْقَوْمِ: اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر قوم کی طرف مائل ہونا۔ الامِيرُ سُؤْلًا إِلَى مَوْضِعٍ كَذَا: پیغامبر بنا کر بھیجنا۔
شَعَبٌ (س) شَعْبَةٌ: الرَّجُلُ أَوْ الْفَوْزُ: کندھوں اور سیگوں کے درمیان فاصلہ والا ہونا۔
شَعَبٌ وَأَشْعَبُ: عَنَّةٌ: بیشہ کیلئے جدا ہونا۔
أَشْعَبَ الرَّجُلُ: مرنا۔
شَاعَبَ: وَشَاعَبَتْ نَفْسُهُ: مرنا۔ شَاعَبَ الْحَيَوَةَ: ہلاک کرنا۔ صَاحِبَهُ: ذور ہونا۔
تَشَعَّبُوا: متفرق ہونا۔ تَشَعَّبَ الزَّرْعُ: شاخوں والی ہونا۔ التَّهْرُ: متفرق شاخیں

الشَّظْفُ: مم۔ لاٹھی کی پھین۔
الشَّظْفُ: خشک روٹی۔ کھوٹی کی مانند کڑی۔
شَظْفِي: جِ شَظْفَةٍ۔
الشَّظْفُ: بدخلق۔ بوجاہتجو۔ عَزُودٌ شَظْفٌ: ٹوٹی ہوئی کڑی۔ اَزْطُ شَظْفَةٌ: سخت و خشک زمین۔
المِشْظَفُ: بے ارادہ تعریض کرنے والا۔
الشَّيْظُمُ وَالشَّيْظِمِيُّ: اسباتا و رجوان (گھوڑا یا اونٹ یا آدمی) مَوْتٌ شَيْظَمَةٌ جِ شَيْظَامَةٌ۔
الشَّيْظُمُ: بوڑھا۔ سبسی۔ شیر۔
شَظِي (س) يَشْظِي شَظِيًا: پھٹنا۔ الْقَوْمُ: متفرق ہونا۔
شَظِي يَشْظِي شَظِيًا: السَّقَاءُ: خوب اچھی طرح بھر جانا۔ الْمَيْتُ: میت کے ہاتھ پیروں کا اٹھ جانا۔
شَظِي تَشْظِيَةً: الْقَوْمُ: متفرق کر دینا۔
الْفَرَسُ: گھنے کی باریک ہڈی کو پھاڑنا۔
أَشْظِي: ہ: گھنے کی باریک ہڈی پر مارنا۔
تَشْظِي: پھٹنا۔ متفرق ہونا۔ الْعَوْدُ: ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔
إِنْشَظِي: پھٹنا۔
الشَّظِي: مم۔ دست یا زانو کی پٹلی اور چھوٹی ہڈی یا ان میں سے چھوٹے بھونٹے۔ قوم کے پیرو۔ انجینی لوگ جو قوم میں داخل ہو جائیں۔
الشَّظِيَّةُ: کمان۔ پندل کی ہڈی۔ کڑی۔ ہڈی وغیرہ کا ٹکڑا۔ جِ شَظَايَا وَشَظِيٌّ۔
الشَّظِيَّةُ: پتھر کا بڑا ٹکڑا جو پہاڑ سے ایک طرف کو نکلا ہو۔
شَعٌ (ض) شَعَا وَشِعَاعًا: الْمَاءُ: بکھیرنا۔ پھیلانا۔ شَعَا وَشِعَاعًا: جلدی کرنا۔
شَعٌ (ن) شَعَا وَشِعَاعًا: الْمَاءُ: بکھیرنا۔ کہا جاتا ہے "شَعَّ الْغَازَةَ عَلَيْهِمْ" ہر طرف سے لوٹ ڈالنا۔
أَشَعَّ إِشْعَاعًا: الْمَاءُ وَنَحْوَهُ: بکھیرنا۔
الشَّمْسُ: شعاع پھیلانا۔ الزَّرْعُ: کھیتی میں خوشہ لگانا۔ السَّنْبُلُ: دانوں سے پر ہونا۔
إِنْشَعَّ: الذَّنْبُ فِي الْعَنَمِ: بھیرے کا بکریوں میں تپائی ڈالنا۔
الشَّعُّ: کڑی کا جالا۔ شَعُّ الشَّمْسِ: آفتاب کی

نافرمان (آدی ہو یا جن یا جانور) اور اسی سے ہے "شَيْطَانِي الْعَرَبُ" عرب کے سرکش و نافرمان لوگ۔ سَابُ: شَيْطَانُ الْفَلَاةِ: پیاس۔ مُخَاظُ الشَّيْطَانِ: تر مرے یعنی وہ چیز جو گرمی کے زمانے میں کھڑی کے جالے کی مانند فضا میں معلوم ہوتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے "زَكِيَّةٌ شَيْطَانُهُ" یعنی وہ غضبناک ہوا و "شَيْطَانِي النَّوَاسِ" غمٹے کا خوش۔
المِشْظَفَةُ: اونٹ کے چوڑے کا داغ۔
المِشْطَايُنُ: ڈول کو دو سرریوں سے کھینچنے والا۔
شَظِي (س) شَظِيًا: الْمَيْتُ: میت کے ہاتھ پیروں کا اٹھ جانا۔
شَظِي تَشْظِيَةً: الشَّاةُ: کھال اتارنا اور گوشت کو جدا کرنا۔
إِنْشَظِي: الشَّيْءُ: پر اگندہ و متفرق ہونا۔
شَظَّةُ (ن) شَظًا: الْأَمْرُ: دوشوار ہونا۔ سختی میں ڈالنا۔ وَشَظَّطُوا أَشْظًا الْقَوْمُ: پر اگندہ و متفرق کرنا۔ دھکارنا۔ شَظَّ وَأَشْظَ الْجَوَالِقُ: ٹیڑھے سرے کی کڑی کو پورے کے دونوں گوشوں میں باندھنا۔
الشَّظَّةُ: مم۔ دن کا پتھر۔ جِ أَشْظَاظُ۔
الشَّظَاظُ: ٹیڑھے سرے کی کڑی جو پورے کے دونوں گوشوں میں داخل ہو۔ جِ أَشْظَّةُ۔
الشَّظِيَّةُ: بندھا ہوا پورا۔ چری ہوئی کڑی۔
جِ أَشْظَاظُ: کہا جاتا ہے "طَارُوا أَشْظَاظًا" اور شَظَاظًا" یعنی وہ لوگ متفرق ہو گئے۔
شَظْفٌ (س) شَظْفًا: الْمَيْتُ: تنگ گزران ہونا۔ الرَّجُلُ: تنگ زندگی والا ہونا۔
صَفْتُ (شَظْفًا) الْعَيْشُ: شَظْفَتْ يَدُهُ: سخت اور کھردرا ہونا۔ السَّهْمُ: تیر کا کھال اور گوشت کے درمیان داخل ہونا۔ () وَشَظْفٌ (ك) شَظْفًا: الشَّجَرُ: سخت ہونا۔ صَفْتُ (شَظْفِيًا)
شَظْفَهُ (ن) شَظْفًا: عَن كَذَا: منع کرنا۔ روکنا۔
الشَّظْفُ: مم۔ جِ شَظْفًا وَ (الشَّظْفًا) عَنِّي وَتَحْتِي۔
الشَّظْفَاظُ: ذُورِي۔

اللہ نے ان کے امر کو جمع کر دیا۔
الشَّعْبُ وَالشَّعْفَانِ۔ چکھے ہوئے اور غبار
آلود بال والا۔

شَعْرَ (ن) شَعْرًا وَشَعْرًا۔ القُوبُ: کپڑے
میں بال بھرنا۔ الزُّجُلُ: شعر کھنا۔
بِقُلَانٍ: کسی کے لیے شعر کھنا۔

شَعْرَ (ن) وَشَعْرَ (ك) شَعْرًا وَشَعْرًا
وَشَعْرَى وَشَعْرَى وَشَعْرَى وَشَعْرَةَ بَطْلِيَّتِ
وَالسَّيْنِ وَشَعْرًا وَشَعْرَةَ وَشَعْرًا
وَمَشْعُورَةً وَمَشْعُورَاءَ۔ یہ: جاننا۔ محسوس کرنا
لَهُ: سمجھنا۔

شَعْرَ (س) شَعْرًا۔ زیادہ اور لمبے بال والا ہونا۔
شَعْرَ۔ العَجِينُ: جنین کے شکم مادر میں بال
لکنا۔ القُوبُ وَنَحْوَهُ: کپڑے میں بال
بھرتا۔

أَشَعْرَ۔ العَجِينُ: جنین کے شکم مادر میں بال
لکنا۔ القُوبُ: کپڑے وغیرہ میں بال بھرتا
ہ الامْرُ وَالْأَمْرُ جَمَادِيًا۔ خبر دینا۔ ہ
الشَّعَارُ: شِعَارٌ (وہ کپڑا جو بالوں سے متصل ہو)
پہنانا۔ اور کہا جاتا ہے "أَشَعْرَ الِهْمُ قَلْبِي" غم
میرے دل کے ساتھ چپک گیا۔ أَشَعْرَهُ بِكَذَا:
چپکانا۔ القُوبُ: اپنے لیے خاص علامت
مقرر کرنا۔ ایک دوسرے کو علامت مقررہ سے
پکارتا۔

أَمْرَ فُلَانٍ: مشہور کرنا۔ الزُّجُلُ:
بڑے نام سے مشہور کرنا۔ هَشْرًا: ڈھانپ
لینا۔

شَاعَرَهُ فَشَعْرَهُ۔ شعروں میں غالب ہونے
کے لیے مقابلہ کرنا اور غالب ہونا۔
أَشَعْرَ الْمَلِكِ: بادشاہ کا نقل کیا جانا۔

تَشَعَّرَ العَجِينُ: جنین کے شکم مادر میں بال
لکنا۔

تَشَاعَرَ: تکلف شاعر بننا۔
اِسْتَشَعَرَ العَجِينُ: جنین کے شکم مادر میں
بال لکنا۔ الشَّعَارُ: پہنانا۔ القُوبُ:

ایک دوسرے کو علامت خاص سے پکارتا۔
بِالقُوبِ: شعرا کو کپڑوں کے نیچے پہنانا۔ کہا جاتا
ہے "اِسْتَشَعَرَ خَوْفَ اللّٰهِ" اللہ کے خوف کو

شَعْبَانَاتٍ وَشَعَائِبٍ (کلمہ غیر منصرف ہے)
شَعْوَبٌ۔ موت کے لیے علم ہے اور غیر منصرف
ہے۔

الأَشْعَبُ۔ جس کے کندھوں یا سینگوں کے
درمیان بہت فاصلہ ہو۔ ٹوٹے ہوئے سینگ والا۔
مَوْتٌ شَعْبَاءٌ۔ ج. شَعْبٌ۔

الشَّعَابُ۔ شگاف کو درست کرنے والا۔ پیشہ کا
نام (الشَّعَابَةُ) ہے۔

الشَّعِيبُ۔ کجاوہ۔ پرانی مکہ۔ توشہ دان۔ ج.
شَعْبٌ۔
الشَّاعِبَانِ۔ دونوں کندھے۔

المَشْعَبُ۔ راستہ۔ کہا جاتا ہے "هَذَا مَشْعَبُ
الحَقِّ" یہ حق کا راستہ ہے جو حق اور باطل کے
درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ ج. شَاعِبٌ۔

المَشْعَبُ۔ سوراخ کرنے کا آلہ۔ ج.
مَشَاعِبٌ۔

المَشْعَبُ۔ درست کیا ہوا۔
شَعْبِيَّةٌ۔ شہدہ بازی کرنا۔ بازی گری کرنا۔

شَعْبٌ (س) شَعْفًا۔ الامْرُ: پراگندہ ہونا۔
شَعْفًاو شَعْفُوَّةٌ: الشَّعْرُ: بالوں کا غبار آلود
ہونا۔ چکٹ جانا۔

شَعْفٌ۔ الشَّيْءُ: متفرق کرنا۔ بکھیرنا۔ پراگندہ کرنا
ہ پِغْنُو: خیر پہنچانا۔ مِّنْ فُلَانٍ: چشم پوشی
کرنا۔ مِّنْهُ شَيْئًا: لے لینا۔ نکال لینا۔

عَنهُ: مدافعت کرنا۔ مِّنْ الطَّعَامِ: تھوڑا
کھانا۔ البشَاعِلُ: شعر میں شعیب جاری
کرنا (شعیب عظیم عروض کی اصطلاح میں
"فاعلاسن" کے وند کے دو متحرک میں سے ایک
متحرک حذف کرنے کو کہتے ہیں۔ جس کی وجہ سے
وہ مغفول کے وزن پر ہو جاتا ہے۔)

تَشَعَّرَ۔ پراگندہ ہونا۔ بکھرتا۔ مِّنْ
الطَّعَامِ: تھوڑا کھانا۔ الشَّعْرُ: بالوں کا
چکٹ جانا اور غبار آلود ہونا۔ الشَّعْرُ: شعر
میں شعیب جاری ہونا۔

الأَشْعَبُ۔ چکھے ہوئے اور غبار آلود بال والا۔
مَوْتٌ شَعْبَاءٌ۔ ج. شَعْبٌ۔

الشَّعْبُ۔ پراگندگی حاملہ۔
الشَّعْبُ۔ م۔ کہا جاتا ہے "لَمْ اللّٰهُ شَعْبَهُمْ"

لکنا۔ عَنهُ ذُورٌ ہونا۔ تَشَعَّبْتُهُمُ الفِئْتَةُ:
جدا جدا کر دینا۔ تَشَعَّبْتُ أَعْصَانُ الشَّجَرَةِ:
متفرق شاخیں پھیلانا۔ الشَّيْءُ: درست
ہونا۔

إِنشَعَبَ۔ عَنهُ: ذُورٌ ہونا۔ أَعْصَانُ
الشَّجَرَةِ: بلا سے شاخیں لکنا۔ الظَّرِيئُ
او التَّهْوُ: جدا ہونا۔ إِنشَعَبَ الزُّجُلُ وَالنَّشَعَبُ
نَفْسُهُ: مرنا۔ الشَّيْءُ: درست ہونا۔
إِنشَعَبَ بِهِ الْقَوْلُ: بات میں سے بات لکنا۔

الشَّعْبُ۔ م۔ بڑا قبیلہ۔ لوگوں کی جماعت
مشل۔ کہا جاتا ہے "هُمَا شَعْبَانٌ" وہ دونوں ایک
جیسے ہیں۔ دوری۔ ذُورٌ۔ کہا جاتا ہے "مَاءٌ
شَعْبٌ" ذُورٌ کاپانی۔ سر کے کلون کے ملنے کی
جگہ۔ شگاف۔ کہا جاتا ہے "الطَّامُ شَعْبُهُمْ" وہ
لوگ متفرق ہونے کے بعد جمع ہو گئے۔ ج.
شَعْوَبٌ۔

الشَّعْوَبِيَّةُ۔ وہ لوگ جو عرب کی حقارت کریں
اور محکم پر فضیلت نہ دیں۔ واحد (شَعْوَبِيٌّ)
الشَّعْبُ۔ پہاڑی راستہ۔ پانی کا راستہ۔ دورہ کوہ۔
بڑا قبیلہ۔ جانب۔ ج. شَعَابٌ اور کہتے ہیں۔
"شَعَلْتُ شِعَابِي جِدْوَايَ" یعنی اہل و عیال پر
خرچ کی وجہ سے دو سروں پر مہربانی کرنے سے
باز رہا۔

الشَّعْبُ۔ م۔ دونوں کندھوں یا دونوں
سینگوں کے درمیان کا فاصلہ۔

الشَّعْبِيَّةُ۔ فرقہ۔ کسی چیز کا گروہ۔ شاخ۔ دونوں
سینگوں یا دو شاخوں کے درمیان کا فاصلہ۔ پانی بہنے
کی جگہ۔ وادی کی بڑی نالی۔ پہاڑ کی وادئ۔ ج.

شَعْبٌ وَشَعَابٌ وَشَعْبُ الذَّهْوِ: زمانہ کے
احوال۔ شَعْبُ السَّقْوَدِ: رخ کے ودانے جس
میں بھوننے کیلئے گوشت لٹکتے ہیں۔ شَعْبُ
الْبَيْدِ: انگلیاں۔ شَعْبُ الفَرَسِ: گھوڑے کے

اطراف جو بلند ہوں جیسے سرو وغیرہ۔ شَعْبُ
الجَحْشِمِ: ہاتھ پاؤں۔ شَعْبَتَا الزُّجُلِ: کجاوہ کا
اگلا پھیلا حصہ اور کہا جاتا ہے "هَذِهِ مَسْأَلَةُ"

كَبِيرِ الشَّعْبِ" یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی
تفریحات بہت ہیں۔

شَعْبَانُ: قمری میزوں کا آٹھواں میز۔ ج.

اپنے قلب کے لیے شعاریاں۔

الشَّعْرُ وَالشَّعْرَاءُ - بال - ج أشعار وشعائر
وشعور - واحد (شعرة) ج شعرات - شعز
الغؤل - ایک قسم کی نباتات۔

الشعير - مہ - کلام منظوم - ج أشعار - "لَيْتَ
شِعْرِي فَلَأَنَا وَعَنْ فُلَانٍ أَوْ لِفُلَانٍ مَا صَنَعَ"
یعنی کاش مجھے فلاں کے متعلق علم ہوتا کہ اس
نے کیا کیا۔

الشعرة - بال کا ایک ٹکڑا (والشعراء)
ناف کے نیچے بال اگنے کی جگہ۔

الشعور والشعوراني - بہت اور لمبے بال والا۔

الشعار - درختوں والی جگہ - نرم زمین میں
مخچان درخت جہاں لوگ سردی میں گرمی
حاصل کریں اور گرمی کے زمانہ میں سایہ لیں۔
درخت - بدن کے بالوں سے متصل لباس - شعاز
الحج: احکام حج و رسوم حج - واحد (شعازة)

الشعار - مخصوص لفظ جس سے فوج والے
ایک دوسرے کو پچانیں یا لڑائی کے موقع پر ایک
دوسرے کو پکاریں - مولدین اس کو "صبي الليل"
کہتے ہیں۔ لڑائی یا سفر میں مقرر کردہ علامت بدن
کے بالوں سے متصل لباس گھوڑے کا جھول۔

كوك - مخچان درخت - ج أشعرة وشعور -
شعاز الحج: علامت و رسوم حج - و شعاز
المملكة: حکومت کے علامات - واحد
(شعازة)

الشعيرة - جو - واحد (شعيرة) ج شعيرات اور
شعيرة کا طلاق اس بیانیٹس پر بھی ہوتا ہے جو ٹخمر
کے بالوں کے چھ بال کے برابر ہو - نیز گوبائی جو
آٹکھ کے پلک کے کنارے پر ہوتی ہے۔

الشعيرة - علامت - ج شعائير - شعائير
الحج: حج کے رسوم و علامات۔

الشعيرة - شعیر کی جانب منسوب - جو کا بیچنے
والا۔

الأشعر - بہت اور لمبے بال والا - مؤنث
شعراء - ج شعر - کہا جاتا ہے "فُلَانٌ أَشْعَرُ
الرَّقِيَّةِ" یعنی فلاں گردن پر بہت بالوں والا ہے

گویا کہ وہ شیر ہے - الأشعر: ج أشاعور - جانور
کے کھر کے گرد گرد کا چھرا گوشت جو ناخن کے

بیچے نکلے - اور کہا جاتا ہے "هَذَا الْبَيْتُ أَشْعَرُ مِنْ
هَذَا" یہ شعراں سے اچھا ہے۔

الشعراء - الأشعر کا مؤنث - پوسٹین -
جانوروں پر بیٹھے والی کبھی لوگوں کی کثرت اور
بھیر - ایک قسم کا آرزو - ایک شور مہم کا درخت۔

أرض شعراء: بہت درختوں والی زمین - وصال
شعراء: کسی نالی گھاس اگانے والا ریگستان۔
الشعراء من الدواهي: سخت مہیبتیں - ج
شعر۔

الشاعر - فا - شعر کہنے والا - ج شعراء - مؤنث
شاعرة - ج شواعر و شاعرات - شعر شاعرا:
عمدہ شعر۔

الشعري - ایک ستارہ کا نام جو سخت گرمی میں
طلوع ہوتا ہے۔

الشعور - گھنڈا درجہ کا شاعر - سب سے بہترین
درجہ کے شاعر کو جنڈینڈ اور اس کے بعد شعراں
کے بعد شعور اور اس سے بھی کم درجہ والے کو
شعور کہتے ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک ہی
درجہ ہے جو مُتَشَاعِرُ کہلاتا ہے۔ الشعور:
چھوٹی کڑی - ج شعاري و واحد (شعوروة)

المشعر - علامت - درخت کے نیچے سایہ لینے
کی جگہ - رسوم حج کے ادا کرنے کی جگہ - ج
مشاعر - المشاعر: جو اس۔

شعنع - الشواب: پانی مانا - البشي:
بعض کو بعض سے مانا - شعنعبت الشمس:
آفتاب کی روشنی پھیلانا - الصوة: روشنی
پھیلانا - شعنع عليهم الخيل: سواروں سے
حملہ کرنا۔

تشعنع - الشهور: مہینے کے تھوڑے دن باقی
رہنا۔

الشعنع والشعنع والشعنع
والشعنعان والشعنعاني - لبا - خوبصورت
زیرک - سبک (والشعنع من الظل):
ہلکا سایہ۔

شعفة (ف) شعفا - الحب: محبت کا دل پر
غالب ہونا - ه بالقطران: قطران مانا
الشئ الشئ: غالب ہونا۔

شعف (س) شعفا - بفلان وبسب فلان:
شيفتہ و فریفتہ ہونا - الشافة: اونٹنی کو شفت
کی بیماری ہونا (دیکھو لفظ شعف) صفت
(شعفاً)

شعف - بفلان: کسی کی محبت میں دیوانہ ہونا۔
الشعف - مہ - کوہان کی چوٹی - ایک بیماری جو
اونٹنی کو لاحق ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی
آنکھوں کے بال بھڑکتے ہیں۔

الشعفة - اسم مرہ - بارش کی ایک بوند - بھکی
بارش جو زمین کو تر کر دے۔
الشعفة - پہاڑ کی چوٹی - سر کے بالوں کی لٹ۔
الشعفة من القلب: دل کا سرا جو شہرہ رگ کے
ساتھ لٹکا ہوا ہے و شعفة كل شئ: ہر چیز کی
چوٹی - ج شعف وشعوف وشعاف
وشعفات۔

الشعاف - محبت کی دیوانگی - شيفكي - فریفتگی۔
الشعاف - شيفكي و فریفتگی۔
المشعوف - محبت میں دیوانہ و شيفتہ۔
شعل (ف) شغلا - النار: آگ بھڑکانا
الامر: غور کرنا۔

شعل (س) شعلًا و اشعلًا - القوس:
گھوڑے کی ڈم یا پیشانی پر سفید داغ ہونا۔
صفت (شاعيل وشعيل و اشعل)
شعل - النار: آگ بھڑکانا۔
أشعل - النار: آگ بھڑکانا - ه - غبناک کرنا۔
غفنه دلانا - الجمع: جتوق کرنا -
الخيل في الغارة: سواروں کو چاروں طرف
پھیلا دینا - السقي: اچھی طرح سیراب
کرنا - أشعلت القزينة: منک کا متوق پکینا
الظفنة: جگہ جگہ خون نینکا
العيز: زیادہ آنسوؤں والی ہوتا۔
إشعل إشعلًا وإشعل إشعلًا لآراس
الزجل: کھڑے بال والا ہونا - القوس:
گھوڑے کی ڈم یا پیشانی پر سفید داغ ہونا۔
تَشَعَّلَتْ وَاشْتَعَلَتْ - النار: آگ بھڑکانا - کہا
جاتا ہے "إشعل الزاس شيتا" سر کے بالوں
میں سفیدی پھیل گئی - وإشعل فلان ه غفنه
سے بھڑک اٹھا۔
الشعل - مہ - غلام شعل: سبک تیز خاطر

لڑکا۔

الشَّعَلُ - مہ - گھوڑے کی دم یا پیشانی کی سفیدی اور کبھی سر کے پچھلے حصہ پر ہوتی ہے۔

الشَّعْلَةُ - گھوڑے کی دم یا پیشانی کی سفیدی آگ کی بھڑک۔ آگ کا شعلہ۔ ج شعل۔

الشَّعِيلُ - ہانڈی یا توڑے کے نیچے ستاروں کی مانند چمکنا ہوا جو دکھائی دیتا ہے۔

الشَّعِيْلَةُ - بھڑکی ہوئی آگ۔ جلتی ہوئی جتنی ج شعل۔

الأشعل - مِنَ النَّاسِ: پیدائشی آنکھوں میں سرخی والا۔

المشعل والمشعلان - چمٹنا۔ چڑے کا ایک برتن جس میں نمیز بنایا کرتے تھے۔ ج مشاعیل

ومشاعيل - المشعل والمشعلة - قدیل۔ ج مشاعیل المشعلة: آگ بھڑکانے کی جگہ۔

الشُّعْلُولُ - آگ کی بھڑک۔ لوگوں کا گروہ۔ ج شعائل۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبُوا شُعَائِلِ" وہ

لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔

شَعَمٌ (ف) شَعْمًا - الرَّجُلُ: لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔

أَشَعَنَ - عَدُوَّهُ: دشمن کی پیشانی کے بال پکڑنا۔

بَشَعَانٌ وَأَشَعَنَ - شَعْرُهُ: چمک جانا اور غبار آلود ہونا۔

الشَّعْنُ - خشک ہونے کے بعد جو گھاس یا پتے گرجائیں۔ شَعْرٌ (مَشْفُونٌ) پر آئندہ بال۔

الشَّعَائِينُ - عیسائیوں کا ایک تواریخ جو لفظ شعائین (مَشَائِينُ)

رَجُلٌ (مَشَعَانٌ) الزَّوَالِ: پر آئندہ اور کھڑے بالوں والا مرد۔

شَعْنَبُ - الكَبْشُ: سیدھے نکلنے کے بعد کان کی طرف بڑے ہونے سے بگولوں والا ہونا۔ صفت (مَشَعْنَبٌ وَمَشَعْنِبٌ)

شَعَائِشُ شَعْرًا شَعْرًا: بالوں کا کھڑا ہونا۔ شَعِبَتْ تَشَعَّى شَعًا - الغَاظَةُ: چاروں طرف

لوٹ پڑنا۔ صفت (شَعْوَاءُ) أَشَعَّى: یہ: اہتمام کرنا۔ القَوْمُ الغَاظَةُ: چاروں طرف لوٹ ڈالنا۔

غَاظَةٌ (شَعْوَاءُ) - پھیلی ہوئی لوٹ۔ شَيْخْرَةٌ شَعْوَاءُ: پھیلی ہوئی ٹہنیوں والا درخت۔

الشَّاعِي - فَا - ذور۔ متفرق۔ مشترک حصہ۔ مؤنث شَاعِيَةٌ ج شَوَاعٍ - کہا جاتا ہے "جَاءَتْ ت الخَيْلُ شَوَاعِي وَشَوَاعٍ" گھوڑے متفرق

آئے۔

الشُّعِي - پر آئندہ بالوں کا گچھا۔ واحد (شَعْوَةٌ) شَعْوَذٌ شَعْوَذَةٌ - شہدہ بازی کرنا۔ نظر بندی کرنا۔ بازی گری کرنا۔ صفت (مَشْفُوذٌ وَمَشْفُوذَةٌ)

شَعَبٌ (ف) وَشَعْبٌ (س) وَشَعْبَانٌ وَشَعْبَانٌ وَشَعْبٌ - القَوْمُ وَبِهِمْ وَعَلَيْهِمْ: نساہت برپا کرنا۔ تباہی ڈالنا۔ صفت (شَعِبٌ وَشَعْبٌ وَشَعَابٌ وَمَشْعَبٌ وَمَشَاعِبٌ وَذُو مَشَاعِبٍ)

شَعْبٌ (ف) شَعْبَانٌ عَنِ الطَّرِيقِ: ہٹنا۔ پھر جانا۔ شَاعِبُهُ - بھگڑا کرنا۔

تَشَاعَبَ - الرَّجُلُ: تا فرمانی کرنا۔ کہا جاتا ہے "طَلَيْتُ مَهْ كَذَا فَتَشَاعَبَ" میں نے اس سے

فلاس چیر طلب کی وہ دینے سے باز رہا۔

الشَّعْبُ وَالشَّعْبُ - مہ - شورو ٹوغا۔ الشُّعُوبُ: نساہت۔ بھگڑا لو۔

تَشَعَّبَتِ - الرَّيْحُ: ہوا کا تیل کھاتے ہوئے چلنا۔

الشُّعْبَرُ - گیدڑ۔ شَعْرَتٌ (ن) شَعْرًا - الأَرْضُ: بغیر حافظہ و

گھراس کے ہونا۔ صفت (شَاعِرَةٌ) الرَّجُلُ: ذور ہونا۔ السُّعْرُ: بھاؤ گھٹنا۔ النَّاسُ: لوگوں کا تفرق ہونا۔

شَعْرَةٌ (ن) شَعْرًا وَشَعْرًا - عَنِ بَلَدِهِ: جلا وطن کرنا۔

شَعْرٌ (ف) شَعْرًا - الكَلْبُ: کتے کا ایک ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا۔ الثَّاقَةُ: اونٹنی کا ٹانگ اٹھا کر پچھ کرنا۔

شَاعِرَةٌ مَشَاعِرَةٌ وَشَعْرًا - کسی کے ساتھ اپنی بہن یا بیٹی کا اس شرط پر نکاح کرنا کہ وہ بھی اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح بغیر مہ کے اس سے کر دے۔

الرَّجُلَانِ عَلَيَّهِ: نجوم کرنا۔ حملہ کرنا۔ أَشَعَرَ المَنْهَلُ: چشمہ کارا سے ذور ہونا۔

الْوَفْقَةُ: ساتھیوں کا راستہ سے جدا ہونا۔ الحِسَابُ عَلَيَّهِ: کثرت اور پھیلاؤ کی وجہ سے ناقابل ضبط ہونا۔

إِشْعَرُ - الحِسَابُ عَلَيَّهِ: خلط لٹھ ہونے اور پیچیدہ ہونے کی وجہ سے ناقابل ضبط ہونا۔ الأَثَرُ: بڑا اور وسیع ہونا۔ خلط لٹھ ہونا۔

عَلَيَّهِ: دست درازی کرنا۔ فخر کرنا۔ الحِزْبُ بَيْنَ الْقَوْمَيْنِ: وسیع بیانہ پر اور سخت جنگ ہونا۔ فِي الْفَلَاةِ: بیابان میں ذور تک جانا۔ تَشَعَّرَ - البَيْتُ: تیز دوڑنا۔ فَنِي أَمْرٍ قَبِيحٍ: اہتمام کو بچانا۔ کہا جاتا ہے تَفَرَّقُوا (شَعَرُوا) بَعْرٌ وَشَعَرٌ وَبَعْرٌ وَبَعْرٌ: وہ لوگ ہر طرف متفرق ہو گئے اور بکھر گئے۔ اِنَاءٌ (شَعْفَانٌ) خَالٍ تَرْتَن - الشِّعَارُ - مہ - دھکار۔ جلا وطنی۔ بَعْرٌ شَعْرًا وَأَبَاؤُ شَعْرًا: بہت پانی والے وسیع کوئیں۔ الشِّعَارَةُ - حتمان۔ الشُّعْبَرُ - بدخلق۔ المِشْعَرُ - وحشی جانوروں کے بھگانے کا چھوٹا نیزہ۔

الشُّعْرُ - مضبوط خلقت۔ الشُّعْرَةُ - کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی زنجیل۔ الشُّعْرُورُ - ایک قسم کی گھاس۔ الشُّعْرِيَّةُ - ٹانگ میں ٹانگ لگا کر زمین پر پھلنا۔ شَعَّرَ (ف) شَعْرًا - عَلِيْهِمْ: زیادتی کرنا۔ دست درازی کرنا۔ بَيْتَهُمْ: بھڑکانا۔ نساہت ڈالنا۔ الشُّعْرِيَّةُ - بمعنی الشُّعْرِيَّةُ۔ تَشَعَّرَتِ - الرَّيْحُ: ہوا کا تیل کھاتے ہوئے چلنا۔ شَعْنَعُ - الشُّعْيُ: داخل کرنا۔ نکالنا۔ اندر باہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَعْنَعُ الطَّاعِنِ" جبکہ نیزہ مارنے والا نیزہ کو نیزہ زدہ کے جسم میں حرکت دے۔ المُلْجِمُ: جانور کو سدھانے کے لیے لگام کو ہلاتا۔ فِي الأَمْرِ: جلدی کرنا۔ فِي الشُّرْبِ: کم کرنا۔ فِي الأَنَاءِ مَاءً ا وَغَيْرِهِ: بغیر بھرنے کے ڈالنا۔ البَيْتُ: گدلا کرنا اور کہا جاتا ہے "شَعْنَعُ شُرْبِي" اس نے میرے پینے کی چیز کو گدلا کر دیا۔ شَعْفَةُ (ف) شَعْفَانُ - دل کے پروے کو زخمی کرنا

فُوْأَدَه: دل پر غالب ہونا
 لَبِيْس: بزدلی نکل آنا۔
 شَهْف (س) شَهْفَاوُ شَهْفٍ: بہ: فریفت ہونا۔
 شَهْفَ حُثَّہ: نجات کا دل کے پردے میں پہنچنا۔
 تَشَهَّفَ النَّاسُ: دوسو ڈال کر پر آگندہ کرنا۔
 الشَّهْفُ: ہم۔ دل کا پردہ۔
 الشَّهْفُ: ہم۔ انتہائی نجات۔ شَهْفُ الْقَلْبِ:
 دل کا پردہ۔
 الشَّهْفَا: دل کا پردہ۔ سویداء دل۔ ج
 شَهْفَاوُ شَهْفَةٍ:
 الشَّهْفَاوُ والشَّهْفَا: ایک بیماری جو دائیں
 طرف کی پسلیوں کے نیچے ہوتی ہے۔
 الشَّهْفَرُ: خوبصورت عورت۔
 شَهْلَةٌ (ف) شَهْلَاوُ شَهْلًاوُ اشْهَلَةٌ بِكَذَا:
 مشغول کرنا۔ عتہ: غافل کرنا۔ شَهْلٌ عتہ
 بِكَذَا: مشغول رہنا۔ کسی کام میں لگا رہنا۔ اور اسی
 سے کہا جاتا ہے ”مَا اشْهَلَتْ“ یعنی وہ کس قدر
 مشغول ہے اور یہ شازہ اس لیے کہ فعل مجہول
 سے صیغہ تَجِب نہیں بتایا جاتا۔
 شَهْلَةٌ: مشغول کرنا (تشدید مبالغہ کے لیے
 ہے)۔
 تَشَهَّلُ وَتَشَاغَلُ وَاشْتَهَلَ بِكَذَا: مشغول
 ہونا۔ اِشْتَهَلَ قَلْبَهُ: جلائے افکار ہو کر پریشان
 ہونا۔ اِشْتَهَلَ لِيَه السَّمُّ: زہر کا اثر کرنا۔
 الدَّوَاءُ لِيَه: دوا کا مفید ہونا۔ وَتَشَاغَلَ عتہ:
 غافل ہونا۔
 الشُّغْلُ وَالشُّغْلُ وَالشُّغْلُ: مصروفیت۔
 مشغولیت۔ ج اشْغَالٌ وَشُغُولٌ۔
 الشُّغْلُ: بڑی۔ بھراؤ۔
 الشَّاعِلُ: نا۔ مبالغہ کی صورت میں۔ ”آتَاهِي
 شُغْلٌ شَاغِلٌ“ کہا جاتا ہے۔
 الشُّغْلَةُ: اسم مرۃ۔ کلیمان۔ غلہ کا ڈھیر۔ ج
 شُغْلٌ۔
 الشُّغْلُ: کام میں لگا ہوا۔ مصروف۔
 الشُّغَالُ: بہت کام والا۔
 الْأَشْغُوْلَةُ وَالمَشْغُوْلَةُ: کام۔ مشغلہ۔
 المَشْغُوْلُ: مضر۔ بھرا ہوا۔ کہا جاتا ہے ”مَكَانٌ
 مَشْغُوْلٌ“ بھری ہوئی جگہ۔ دارِ مَشْغُوْلَةٍ: آبار

گمر۔ جَارِيَةٌ مَشْغُوْلَةٌ: شوہر والی۔ مَالٌ
 مَشْغُوْلٌ: تجارت و کاروبار میں لگا ہوا مال۔
 الشَّغِيمُ: لالچی۔ بہت حرص۔
 الشَّغْمُوْمُ وَالشَّغِيْمُ: خوبصورت لہیا۔
 الشُّغْنَةُ: ترشٹی۔ ج شُغْنٌ۔
 الشُّغْنُبُ وَالشُّغْنُوْبُ: نازک و ترشٹی۔
 شَغَتْ تَشْغُوْ شُغُوًّا وَشَغِيْتٌ تَشْغِي شُغًا۔
 المِسْنُ: ایک وایت کا دوسرے دانوں سے بڑھنا۔
 ناموار ہونا۔ وایت کی صفت۔
 شَاغِيَةٌ: ج شَوَاغٌ اور ایسے وایت والے کو
 (أشْغِي) اور مؤنث کے لئے (شُغُوَاءُ وَشَغِيَاءُ)
 ج شُغُوْ۔
 أَشْغِي إِشْغَاءً: القَوْمُ: بہ لوگوں کی مخالفت کرنا
 _____ فُلَانٌ وَآيَةٌ: پریشان کرنا۔
 الشُّغُوْ: عتاب۔
 شَفَّ (ض) شُفُوْفَاوُ شَفِيْفًا وَشَفَّاقًا: الشَّى:
 اتا باریک ہونا کہ دوسری طرف کی چیز نظر آئے۔
 صفت (شَفِيْفٌ وَشَفَّاقٌ) عتہ الْقُوْبُ: کپڑے
 کا چھوٹا ہونا۔ تنگ ہونا۔ (_____ شُفُوْفَا)
 الجِسْمُ: بدن کا ڈبلا ہونا (_____ شَفَّاقًا) الشَّى:
 زیادہ ہونا۔ کہا جاتا ہے ”شَفَّقْتُ عَلَيْهِ“ تم نے
 اس پر زیادہ کیا۔ کم ہونا۔ گھٹنا۔ ”هَذَا دِيْهَمٌ شَفَّ
 قَلِيْلًا“ یہ درہم کچھ کم ہے۔ حرکت کرنا۔
 لَهُ الْأَمْوُ: قائم رہنا۔ ہمیشہ رہنا (_____
 شَفِيْفًا) فَمَ فُلَانٌ: دانوں اور سوڑوں میں
 سردی کی وجہ سے درد ہونا۔
 شَفَّةٌ (ن) شَفَّاقٌ شُفُوْفَاوُ شَفَّاقَةٌ: المَرْضُ او
 الھَمُّ: کمزور کرنا۔ ڈبلا کرنا۔ شَفَّ المَاءُ: سب پانی
 پی لینا۔
 أَشَفَّةٌ عَلَى فُلَانٍ: بغضت رہنا۔ أَشَفَّ الْقَمُّ:
 منہ کا بدبودار ہونا۔ أَشَفَّ عَلَى فُلَانٍ: سبت
 لے جانا۔ بڑھنا۔ _____ الدِّيْهَمُ: زیادہ کرنا یا کم
 کرنا۔
 إِشَفَّتْ وَتَشَفَّتْ: ماضی الإناء: برتن سے
 سارا پی جانا اور کہا جاتا۔ ”إِشَفَّتْ البَجِيْرُ الحِزَامُ“
 اونٹ نے سارے تنگ کو گھیر لیا۔
 إِشَفَّتْ: لَهُ المِسْنُ: پردے کے پیچھے کی چیز
 نظر آنا۔ _____ الْقُوْبُ: کپڑے کے خوب کو

دیکھنے کے لیے روشنی میں پھیلاتا
 الشَّى: دیکھنا اور معلوم کرنا۔ _____ الكتاب:
 غور کرنا۔
 ہ: پار کی چیز دیکھنا۔ _____ ماضی الإناء:
 برتن سے سب پی لینا۔ _____ پوری پوری
 رغبت کرنا۔
 _____ فبی تجازتہ: تجارت میں فائدہ اٹھانا۔
 الشَّفُّ وَالشَّفَّ: کھڑایا باریک پردہ۔ کہا جاتا
 ہے ”ثُوْبٌ شَفٌّ وَشَفٌّ“ باریک کپڑا۔ ہوا۔
 زیادتی۔ نقصان۔ ایک قسم کی بدبودار پھنسی۔ ج
 شُفُوْفٌ۔ الشَّفَّ: تھوڑی چیز۔
 الشَّفِيْفُ: ہم۔ آفتاب کی سخت گرمی۔ سردی
 کی شدت۔ ٹھنڈی ہوا۔ ج شَفَّاقٌ ثُوْبٌ
 شَفِيْفٌ: باریک کپڑا۔
 الشَّفَّ: ہم۔ کم۔ ہلکین۔ بدحالی۔
 الشَّفَانُ: بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہوا۔
 الشَّفَاقَةُ: برتن کا بقیہ پانی۔ شَفَاقَةُ النِّهَارِ:
 دن کا بقیہ حصہ۔ کہا جاتا ہے ”فُلَانٌ أَشَفَّ مِنْ
 فُلَانٍ“ فلاں فلاں سے کچھ تھوڑا سا بڑا ہے۔
 المَشْفُوْفُ: بدبودار پھنسیوں والا۔
 شَفَّرَ وَاشْفَرَّ: القَوْمُ: تتر بتر ہونا۔ پر آگندہ
 ہونا۔ اِشْفَرَّ الْعُوْدُ: ٹوٹنا۔ _____ السِّوَاجُ: زیادہ
 چوڑی تہی کا ہونا۔
 شَفَّنَ شَفْنَةً: جمع کرنا۔
 شَفَّرَ (س) شَفَّاقَةٌ: گھٹنا۔ کم ہونا۔
 شَفَّرَ: العَالُ: کم ہونا۔ _____ الشَّفْسُ:
 آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔ _____ عَلَى
 الْأَمْوُ: متوجہ ہونا۔ _____ الشَّى: جڑ سے
 اکھیرنا۔
 الشُّفْرُ وَالشُّفْرُ: ج أَشْفَارُ وَالشُّفْرِ: پلک
 کی جڑ۔ ہر چیز کا کنارہ۔ _____ مِنَ الوَادِي: وادی
 کا بالائی کنارہ۔ کہا جاتا ہے ”مَضَاهِي الدَّارِ شُفْرٌ
 وَشُفْرٌ وَشُفْرَةٌ“ گھر میں کوئی نہیں۔
 الشُّفْرَةُ: بڑی چوڑی چھری۔ نکواری دھار۔
 نیزے کے پھل کا پہلو۔ موچی کی راہی۔ ج شُفْرٌ
 وَشِفَارٌ وَشُفْرَاتٌ۔ الشُّفْرَةُ: نوکر۔ خادم۔ پیش
 (مشفّر) تنگ زندگی۔
 المِشْفَرُ: شدت۔ روک۔ زمین یا ریگستان کا

دیکھنا۔ صفت (شَافِيٌّ وَشَفْوُنٌ)
 الشَّفْوُنُ وَالشَّفْوُنُ: زيرک و دانہ۔ الشَّفْوُنُ:
 انتظار۔ مہراث کا شجر۔
 الشَّفْوُنُ: بہت غیرت مند جس کی نگہ شدت
 حذر کی وجہ سے نظر کرنے سے نہ ٹھکے۔ ج
 شَّفْوُنُ۔
 الشَّفْوَتْرِي وَالشَّفْوَتْرِي: متفرق۔
 شَفْهَةٌ (ف) شَفْهًا: فُلَانًا: ہونٹ پر مارنا۔
 اصرار کر کے سوال کرنا اور سب کچھ خرچ کر دینا
 _____ الانَاء: سب لپی کر خالی کر دینا۔ "كَادَتْ
 الْعِيَالُ تَشْفَهُ مَالِي" قریب ہے کہ میرے مال و
 عیال میرے مال کو ختم کر دیں _____ هُ عَنِ
 الْأَمْرِ: غافل کر دینا۔
 شَفْهَةٌ: زَيْدٌ: بہت سائلین کا ہونا _____
 الشَّيْءُ: بہت طالبین کا ہونا _____ الطَّعَامُ:
 بہت کھانے والوں کا ہونا۔ صفت (مَشْفُوَةٌ)
 شَافَهُةً شَفْهًا وَ مَشَافَهُةً: رورور روٹھوٹھو کرنا
 _____ الشَّيْءُ: قریب ہونا۔
 الشَّفْهَةُ وَالشَّفْهَةُ: مِنَ الْإِنْسَانِ: ہونٹ۔ ج
 شَفْهًا وَ شَفْهَاتٍ اور نبت کے لیے (شَفْوِيٌّ
 وَ شَفْوِيٌّ وَ شَفْوِيٌّ) اور تغیر (شَفْهِيَّةً) کہا جاتا
 ہے "هُوَ خَفِيْفُ الشَّفْهَةِ" وہ سوال کرنے میں
 بہت اصرار کرنے والا یا کم سوال کرنے والا ہے۔
 (ضد) و "لَهُ فِي النَّاسِ شَفْهَةٌ حَسَنَةٌ" اس کی
 لوگوں میں اچھی شہرت ہے۔ و "مَا أَحْسَنَ شَفْهَةَ
 النَّاسِ عَلَيْنَا" تمہارے متعلق لوگوں کی
 تعریف کس قدر اچھی ہے۔ و "مَا كَلَمْتُهُ يَبِيْتِ
 شَفْهَةٍ" میں نے اس سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔
 شَفْهَةُ الشَّيْءِ كَالدَّلْوِ: ڈول جیسی چیز کا تارہ۔
 الشَّافِيَّةُ: پیاسا۔
 الشَّفْهَاتِي وَالْأَشْفَقُ: بڑے ہونٹوں والا۔
 الْحَزْوُوفُ الشَّفْهِيَّةُ: ہونٹوں سے نکلنے والے
 حروف اور وہ ب ف ہیں۔
 الْمَشْفُوَّةُ: مَمَّ: مَاءٌ مَشْفُوَةٌ: ایسا پانی جس پر
 بہت پیئے والے آتے ہوں اور کہا جاتا ہے
 "فُلَانٌ مَشْفُوَةٌ عَنَّا" یعنی فلاں ہم سے غافل
 ہے اس کے پاس کثرت سے لوگ آتے ہیں۔ و
 "هُوَ مَشْفُوَةٌ الْعَوَادِ" وہ بڑا سمان نواز اور

هُوَ أَمُّ وَفُو" کیا وہ نعت ہے یا طاق۔ ج أَشْفَاعُ
 وَ شِفَاعٍ۔
 الشَّفْعَةُ: عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: زمین یا مکان میں
 ہر سائگی کی وجہ سے حق خرید۔ دیواگی۔ آگھ
 _____ مِنَ الضَّحَى: چاشت کے وقت دو
 رکعتیں۔ ج شَفْعٍ۔
 الشَّافِعُ: فَا: نَاقَةٌ: شَافِعٌ: بچے والی حاملہ
 اونٹنی۔ عَيْنٌ شَافِعَةٌ: کمزوری سے ایک کو دو
 دیکھنے والی آگھ۔ نَاقَةٌ (شَفْوَعٌ) ایک دفعہ کے
 دو سنے میں دو برتن بھرنے والی اونٹنی۔
 الشَّفْوِيْعُ: سفارش کرنے والا۔ حق شفعہ والا۔ ج
 شَفْعَاءُ: الشَّفِيْعُ مِنَ الْعَدُوِّ: نعت۔
 الْأَشْفَعُ: لِبَا۔
 الْمَشْفَعُ: وہ شخص جس کی سفارش مقبول ہو۔
 الْمَشْفَعُ: سفارش قبول کرنے والا۔
 الْمَشْفُوْعُ: پاگل دیوانہ۔ اِمْرَأَةٌ مَشْفُوْعَةٌ:
 نظردہ لگی ہوئی عورت۔
 شَفْوِيْقُ (س) شَفْقًا: عَلَيْنِهِ: مہربان ہونا۔ خیر
 خواہی و اصلاح کا خواہش مند ہونا۔ صفت "شَفْوِيْقٌ
 وَ شَفْوُوْقٌ وَ شَفِيْقٌ شَفْوِقٌ مِنَ الْأَمْرِ: خوف کرنا۔
 لاج کرنا _____ عَلَي الشَّيْءِ: نجل کرنا۔
 شَفْقَةً: مہربان بنانا۔ شَفْوَقُ الشَّيْءِ: کم کرنا
 _____ التَّوْبُ: کپڑا خراب بننا۔
 أَشْفَقُ الشَّيْءِ: کم کرنا _____ عَلَيْنِهِ وَنُهُ: کسی
 سے چو کنا رہنا۔ خوف کرنا۔ لاج کرنا _____ عَلَي
 الصَّغِيْرِ: مہربان ہونا _____ الرَّجُلُ: شفق کا
 وقت پانا _____ الرَّيْحُ: ہوا کا تیز ہونا اور خاک
 اُزَانًا۔
 الشَّفَقُ: مَمَّ: غروب آفتاب کے بعد آفتاب آسمان
 کی سرخی۔ مہربانی۔ رومی چیزیں، دن۔ خوف۔
 جَانِبُ تَوْبٍ شَفْقٌ كَزُرِّ كِرْزٍ: ج أَشْفَاقٍ۔
 الشَّفَقَةُ: مہربانی۔ رحمت۔ خوف کے ساتھ
 مہربانی۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْنِي مِنْهُ شَفْقَةً" اس پر
 مجھے ترس آیا۔ "وَلِي عَلَيْهِ شَفْقَةٌ" مجھے اس پر
 ترس ہے۔
 الْمَشْفَلَةُ: اوجہ۔ ج شَفَالٍ۔
 شَفَقٌ (ض) وَ شَفْوِنٌ (س) شَفْوَانًا: الرَّجُلُ
 وَالْمِي الرَّجُلِي: ترجمی نظر سے دیکھنا یا نظر اعراس

نکلا۔ ہونٹ۔ اونٹ کے ہونٹ کے لیے خاص
 طور پر مستعمل ہے۔ ج مَشَافِرٍ۔
 الشَّفَارِجُ: میوہ وغیرہ رکھ کر محفل میں لانے
 کی تھاں۔
 شَفْوَةٌ (ض) شَفْوَاتٌ: لات مارنا۔ ٹھوکر مارنا۔
 شَفْشَفَ: الرَّجُلُ: کاہنہ بد خلق ہونا۔ صفت
 (مَشْفِيْفٌ وَ مَشْفِيْفٌ) _____ بِه: غلط لفظ
 ہونا _____ الدَّوَاءُ عَلَي الْحَزْوَجِ: زخم پر دوا
 چھڑکانا _____ الْهَمُّ فُلَانًا: ڈبلا کرنا _____
 الصَّيْبِغُ النَّبَاتُ: پالے کا نباتات کو جلا دینا۔
 خنک کر دینا _____ الْحَزْوُ وَالْيَزْدُ الشَّيْءِ: خشک
 کرنا _____ عَلَيْهِ: ڈرنا۔
 تَشْفَشَفَ: النَّبَاتُ: خشک ہونے لگنا۔
 الشَّفْشَافُ: اولوں والی بارش۔ عوام فقنات
 کہتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا۔ تَوْبٌ شَفْشَافٌ: چھدرا
 بنا ہوا کپڑا۔
 شَفْعٌ (ف) شَفْعًا: الشَّيْءِ: چوڑا کرنا۔ دہرا
 کرنا۔ کہا جاتا ہے "كَانَ وَتَوَّافِشَفَةً بَأَحْر" وہ
 طاق تھا اس نے دو سر اٹا کر نعت کر دیا _____
 جَارَةٌ: بڑوسی کو حق شفعہ دینا _____ النَّاقَةُ:
 ایک بچہ ہوتے ہوئے حاملہ ہونا۔ تم کہتے ہو
 (شَفْعٌ) لِي الْأَشْخَاصُ: نظر کی کمزوری سے
 ایک چیز دو دکھائی دینا۔ آگھ کی صفت (مَشَافِقَةٌ)
 شَفْعٌ (ف) شَفْعًا: لِفُلَانٍ أَوْ فِيهِ أَلِي زَيْدٍ:
 سفارش کرنا۔ شَفْعٌ عَلَيْهِ بِالْعَدَاوَةِ: کسی کے
 خلاف دوسرے کی مدد کرنا۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ
 يُعَادِيَنِي وَ لَهُ شَافِعٌ" فلاں شخص مجھ سے دشمنی
 کرتا ہے اور اس کے لیے میری عداوت میں
 ایک شخص مددگار ہے _____ لِفُلَانٍ فِي
 الْمَطْلَبِ: کسی کے لیے کوشش کرنا۔
 شَفْعُ الشَّيْءِ: نعت بنانا۔ شَفَعْنِي فِي فُلَانٍ:
 سفارش قبول کرنا۔
 تَشَفَّعَ: لِي وَ أَلِي لِفُلَانٍ أَوْ فِيهِ فُلَانٍ:
 سفارش کرنے کو کہنا۔
 اِسْتَشْفَعُ: زَيْدًا أَلِي عَمْرٍو: سفارش کرنے
 کی درخواست کرنا _____ لِفُلَانٍ عَلَي فُلَانٍ:
 الشَّفْعُ: مَمَّ: نعت۔ مدد۔ کہا جاتا ہے "أَشْفَعُ

<p>_____ فی الکلام او الخصومة : ادھر ادھر ہٹ جانا _____ الطريق فی الفلاة : بیابان میں راستہ طے کرنا۔</p>	<p>یاب ہونا۔ الشفاء۔ مہ۔ دوا۔ مجاز ہے اس لیے کہ سب کا نام دہر رکھا گیا جو مستب کا تھا) ج اشفیت ج اشاف۔</p>	<p>ہمت داود ہمیش والا ہے۔ شفاً یشفو شفو الہلال : چاند کا طلوع ہونا _____ الشفخص : خاطر ہونا _____ الشمس : آفتاب کا غروب کے قریب ہونا</p>
<p>الشفق۔ مہ۔ شگاف۔ بچھن۔ صبح بچی ہوئی جگہ۔ مشقت۔ ہر چیز کا آدھا۔ ج شفق۔ الشفق۔ جانب۔ کنارہ۔ انسان کی ایک جانب جس چیز کی جانب تمہاری نظر ہو۔ مشقت۔ سگ بھائی۔ ہر چیز کا آدھا۔ کہا جاتا ہے "المائل بینی وبینک شق أو شق شعرة" مال میرے اور تمہارے درمیان برابر رہے۔</p>	<p>الشفافی۔ فا۔ من الأدویة و نحوہا : مفید دوا وغیرہ۔ الجواب الشافی : ایسا جواب جس میں پھر سوال کی ضرورت نہ ہو۔ الإشفی۔ سعالی۔ شو۔ ج۔ اشاف۔ شق (ن) شقان۔ الشی : پھاڑنا۔ جدا جدا کرنا۔ اور اسی سے ہے شق عضاء القوم "اس نے قوم کی جمیعت کو توڑ دیا۔" "شق فلان العصا" فلاں جماعت سے طلعہ ہو گیا۔</p>	<p>_____ الشفا۔ نئے چاند کا بقیہ حصہ جو ابھی غروب نہ ہوا ہو۔ ہر چیز کا حد و کنارہ۔ شتیہ شفقوان۔ ج أشفاء۔ آدمی کے لیے موت کے وقت اور چاند کے لیے چھنے کے وقت اور آفتاب کے لیے غروب ہونے کے وقت کہا جاتا ہے "ما بقی منه الإشفا" یعنی صرف تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ الأشفی۔ جس کے دونوں ہونٹ ملتے نہ ہوں۔</p>
<p>الشفقة والشقة۔ دور کا سفر۔ مسافت جس کو سافر طے کرے۔ راستہ جس کا طے کرنا چلنے والے کے لیے دشوار ہو۔ وہ جانب جہاں کا سافر تصد کرے۔ مشقت۔ ج شقق۔ الشفیق۔ دو حصوں میں بچی ہوئی چیز کا آدھا حصہ۔ حقیقی بھائی۔ نظیر۔ الشفیقۃ۔ حقیقی بہن۔ باغوں کے درمیان سخت زمین۔ بہت بارش۔ _____ من البزق : آفت آسمان میں پھینکنے والی بجلی۔ آدھا سیسی کا در۔ ج شقایق۔ شقایق النعمان : گل لالہ۔ واحد۔ شفقة النعمان۔</p>	<p>شق (ن) شقا و مشقة۔ الأمثر : دشوار ہونا _____ علی فلان : مشقت میں ڈالنا _____ البزق : بجلی کا وسط آسمان تک سیدھی پھیلتا _____ الفرس : دوڑنے میں ایک جانب کو بھگانا _____ شقوقا) البس : آگنا _____ ناب البعیر : دانت لگانا (_____ شقا) الصبیح : فجر طلوع ہونا۔ شق۔ الحطب : لکڑی پھاڑنا۔ چرنا _____ الکلام : بر محل کرنا۔ شاقہ شقا و مشاقفة۔ مخالفت کرنا۔ دشمنی کرنا۔</p>	<p>شفی یشفی شفاء۔ اللہ فلاناً من المرض : تندرست کرنا۔ صحت یاب کرنا _____ فلاناً فلاناً : کسی کیلئے شفا مانگنا _____ الشمس : آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔ _____ وشفی (س) شفی الہلال : نئے چاند کا غروب ہونا۔ شفی۔ المرض : صحت پانا۔ تندرست ہونا۔ أشفی إشفاء۔ فلاناً : شفا مانگنا _____ علیہ : کنارے پر آگنا اور اسی سے ہے "أشفی المرض علی الموت" مریض موت کے کنارے پر آگنا _____ العلیل : حصول صحت سے باز رہنا (بہتر سلب کیلئے) _____ المسافر : آخری رات کی چاندنی میں چلنا _____ المرض : مفید دوا پانا۔ تم کہتے ہو "أشفی" یعنی مجھے کوئی ایسی چیز دو جس سے صحت حاصل ہو۔ أشفاء الشی : مفید چیز دینا۔ شفا حاصل کرانے والی چیز دینا۔ تشفی۔ من عظیمہ : غصے سے ٹھنڈا ہونا اور کہا جاتا ہے "تشفی من فلان" یعنی اس نے اپنے دشمن کو ایسی تکلیف پہنچائی کہ جس سے اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا (_____ واشتفی) بکڈنا : شفا حاصل کرنا۔</p>
<p>المشقة والمشقة۔ دشواری۔ محنت۔ ج مشقایق و مشقات۔ شقا (ف) شقا و شقوة۔ الثاب : دانت لگانا _____ شعر الزاس : ناگ لگانا اور سنگھا کرنا _____ راسہ : سر پھاڑنا _____ فلاناً : کسی کی ناگ پر مارنا۔ المشقا۔ ناگ۔ المشقا والمشقا والمشقا۔ سنگھا۔ شقح (ک) شقا حة۔ قبیح ہونا۔ صفت (شقیح) شقح (ف) شقا حة الشی : توڑنا _____</p>	<p>تشفق۔ الحطب : لکڑی کا پھٹنا۔ چرنا۔ الفرس : گھوڑے کا دہلا ہونا اور کہا جاتا ہے "تشفقت عضاءہم بالبین" ان کا معاملہ تیزتر ہو گیا۔ تشفق۔ القوم : باہم مخالفت کرنا۔ باہم عداوت کرنا _____ الزجلان۔ باہم خوب جھگڑا کرنا۔ تشفقوا ایباہم : ایک کا دوسرے کے کپڑوں کو پھاڑنا۔ انشق۔ الشی : شگاف یزنا _____ الأمثر : پراگندہ دپریشان ہونا _____ الفجور : فجر طلوع ہونا۔ کہا جاتا ہے "انشقت عضاءہم" ان کا معاملہ تیزتر ہو گیا۔ انشق۔ الشی : آدھا لینا _____ الکلیمة من الکلیمة مشتق کرنا جیسے الضرب سے ضرب _____ الفرس فی عدوہ : دائیں بائیں جانا</p>	<p>اششفی۔ یہ : شفا پانا۔ کہا جاتا ہے "فلاناً یستشفی بربہ" فلاں کی رائے سے شفا حاصل کی جاتی ہے _____ المرض من علیہ : صحت</p>

الْحُوْزَةُ: گرمی نکالنا _____ ہ اللہ: فتح بنانا
الکلب: کتے کا پیٹاب کرنے کے لیے
ثاگ: اٹھانا۔

شَاقِحَةٌ مُشَاقِحَةٌ: باہم گال گلوچ کرنا۔

أَشْفَحَةٌ: دور کرنا (أَشْفَحَ وَشَفَّحَ وَشَفَّحَ الشُّبْرُ:
رنگ پکڑنا _____ التَّخُلُّ: درخت خراب کھجور
کا گدر ہونا۔ کہا جاتا ہے (شَفَّحًا وَشَفَّحًا) لُءُ:
یعنی اس کے لیے دوری ہو۔

الأَشْفَحُ: سرخ زرد رنگ ملا ہوا۔ مَوْنَتُ
شَفَّحَاءُ: ج شَفَّحَ۔

الشَّفْحِيُّ: سرخ رنگ والا۔

شَفِّدٌ (س) شَفَّدًا: تیز نظر لگانے والا ہونا۔
بے نیند ہونا۔ صفت (شَفَّدَ وَشَفَّدَ وَشَفِّدُ
وَشَفِّدَانٌ)

شَفَّدَ (ض) شَفَّدًا وَشَفَّدَ (س) شَفَّدًا: دور
جانا۔

شَاقِدَةٌ: باہم دشمنی کرنا۔ دور کرنا۔

أَشْفَدَةٌ: دھکارنا۔

الشَّفْدُ وَالشَّفْدُ وَالشَّفْدُ: گرگٹ کا بچہ۔ ج
شَفْدَانٌ وَشَقَادِيٌّ: الشَّفْدُ: مہ۔ کہا جاتا ہے
"مَالَهُ شَفْدٌ وَلَا تَقْدُ" اس کے پاس کچھ نہیں "و
هَذَا النَّيْسُ بِهِ شَفْدٌ وَلَا تَقْدُ" اس میں کوئی خلل
اور نقصان نہیں۔

الشَّفْدَانُ: بھیڑیا۔ حشرات الارض: کیڑے
کوڑے۔ بھٹ۔ تیز وغیرہ کے چوزے۔

الشَّفْدَانُ: مہ ج شَفْدَانٌ وَ (الشَّفْدُ
وَالشَّفْدُ) گرگٹ۔ بھیڑیا۔

الشَّفْدَاءُ: بہت بھوکا عتاب۔

شَفَّرَ (س) وَشَفَّرَ (ك) شَفَّرًا وَشَفَّرَةً: سرخ
زرد رنگ کا ہونا۔ صفت (أَشْفَرُ) مَوْنَتُ شَفَّرَاءُ
ج شَفَّرٌ۔

إشْفَرٌ: گہرا سرخ و زرد رنگ کا ہونا۔

الشَّفَرُ: امر مقصود و روپ۔ ج شَقُورٌ: کہا
جاتا ہے "أَفْضَيْتُ إِلَيْهِ شَقُورِي" میں نے
اپنے ان امور پر اس کو مطلع کرو یا جن کو دوسروں
سے چھپاتا تھا۔ "بَنَّهُ شَقُورَةٌ" اس نے اپنے
حالات کی اس سے فکایت کی۔

الشَّفَرُ: مرغ۔ جھوٹ۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ

بِالشَّقْرِ وَالْبَقْرِ" وہ جھوٹ اور مصیبت لایا۔
الشَّقْرُ وَالشَّقْرَانُ وَالشَّقَارُ وَالشَّقَائِيٌّ:
ایک قسم کی سرخ رنگ کی نباتات یا گل لالہ۔

الشَّقْرَاقُ وَالشَّقْرَاقُ: فاختہ سے بڑا ایک پرندہ
جس کو شَقْرَقُ اور شَقْرَقُ بھی کہتے ہیں۔

شَفَّسَقُ شَفَّسَقَةٌ: الخجل: اونٹ کا بلبلانا
_____ الظَّبْرُ: پرندہ کا آواز کرنا۔

الشَّفَّسَقَةُ: بوقت مستی اونٹ کے منہ کے
جھاگ۔ ج شَفَّاسِقُ اور فَصْحُ كَيْلِ "هَدْرَتُ
بَشْفِيقَتِهِ" کہا کرتے ہیں۔ و "فَلَانٌ شَفَّسَقَةٌ"
قَوْمُهُ" فلاں اپنی قوم میں شریف و فصیح ہے۔

شَفَّصٌ: الذَّبِيحَةُ: ذبح کیے ہوئے جانور کو
حصہ داروں کیلئے کات کر برابر حصہ کرنا۔

الشَّفَّصُ: حصہ۔ کسی چیز کا ٹکڑا۔ زمین کا قطعہ۔
الشَّقِيصُ: شریک۔ شرکت۔ حصہ۔ عمدہ گھوڑا۔

بست میں سے تھوڑا۔

المِشْفِصُ: چوڑا پھل یا چوڑے پھل کا تیر۔ ج
مِشْفِصٌ۔

المِشْفِصُ: قصاب۔

الشَّقِيظُ: مٹی کا ٹکڑا کی ہوئی مٹی۔

الشَّقِيظُ: پکی ہوئی مٹی۔

شَقَعَ (ف) شَقَعًا: فِي الْإِنَائِ: برتن میں منہ
ڈال کر پینا۔

الشَّقْفُ: ٹھیکری۔ ٹھیکری کے ٹکڑے واحد
(شَقْفَةٌ)

الشَّقَافُ: عِنْدَ الْبَنَائِيْنَ: لوہے کا بڑا ہتھوڑا۔
فَصِيحٌ لِقَطْعِ مِلْطَاسٍ أَوْ مِلْطَاسٍ هُوَ۔

شَقَلٌ (ن) شَقَلًا: الدَّرَاجِمُ: توننا _____
المَزَاقَةُ: جماع کرنا۔

شَوْقَلٌ شَوْقَلَةٌ: طیم و رو بار ہونا۔

الشَّقَائِلُ: مَعْمَارُونَ كَمَا سَاهُولُ جَسَّ سَ وَبِوَارِ
کی ہمواری دیکھتے ہیں۔

شَقَنٌ (ن) شَقْنًا وَأَشَقَنَ: العَطِيَّةُ: کم رہنا۔
وَأَشَقَنَ الرَّجُلُ: کم مال ہونا۔

شَقَنٌ (ك) شَقْنَةٌ: العَطَاءُ: کم ہونا۔ صفت
(شَقْنٌ وَشَقِيظٌ وَشَقِيظٌ)

المِشْقَنُ: بگاڑ (جو تے اور بو تے ہوئے کھیت کی
مٹی کے برابر کرنے کا آلہ)

شَقًا يَشْقُو شَقْوًا وَاشْقَى: اللہ فَلَانًا:
بد بخت بنا۔ اَشْقَى شَقْرَهُ: کھسی کرنا۔

شَقِي يَشْقِي شَقًا وَشَقَاءٌ وَشَقَاوَةٌ
وَشَقَاوَةٌ وَشَقْوَةٌ وَشَقْوَةٌ: بد بخت ہونا۔ صفت
(شَقِيٌّ) ج أَشْقِيَاءُ۔

شَقِيٌّ: فَلَانًا: بد بخت ہونے میں مقابلہ کرنا۔
تم کہتے ہو "شَقَافِيظٌ شَقْوَتُهُ" اس نے بد بخت

ہونے میں مجھ سے مقابلہ کیا میں غالب رہا یعنی
میں اس سے زیادہ بد بخت رہا _____ ہُ فَنِ
الحَزْبُ: لڑائی وغیرہ میں مشغول کرنا _____ ہ
عَلَى كَذَا: صبر کرنے میں مقابلہ کرنا۔

الشَّقَايُ: فَا _____ مِنَ الْجَبَالِ: پہاڑ کا لہبا
نکلا ہوا گوشہ۔ ج شَقَاوِيٌّ وَشَقِيَانٌ۔

الشَّقَاوُ الشَّقَاءُ: مہ۔ سختی۔ بد بختی۔
المِشْقَى: کھسی۔

شَكٌّ (ن) شَكًّا: فِي الْأَمْرِ: شبہ کرنا۔ صفت
فَاعِلِيٌّ (شَاكٌ) اور صفت مفعول (مَشْكُوكٌ) لِغِيهِ

عَلَيْهِ الْأَمْرُ: مشتبہ ہونا _____ ہ بِالْوَضْحِ: بڑی
تک چھیدا۔ شَكَّتِ الشُّوْكَةُ رَجُلًا: کانا

چھینا۔ شَكَّ الْقَوْمُ بَيُوتَهُمْ: گھروں کو ایک
طرز یا ایک قطار میں بنانا _____ الخَوَائِظُ

التَّخَوُّبُ: کپڑے میں دور دور ٹانگے لگانا _____
إِلَيْهِ الْبِلَادُ: طے کر کے پہنچنا _____ الشَّيْءُ إِلَى

الشَّيْءِ: ملانا _____ عَلَيْهِ الْأَمْرُ: دشوار ہونا
_____ فِي السَّلَاحِ: ہتھیار بند ہونا۔ صفت

(شَاكٌ السَّلَاحِ وَشَاكٌ فِي السَّلَاحِ) ج
شَكَّاكٌ۔

شَكٌّ (س) شَكًّا: فَلَانًا وَإِلَيْهِ: ناکل ہونا۔
شَكَّكَ: شک وشبہ میں ڈالنا۔

تَشَكَّكَ: فِي الْأَمْرِ: شبہ کرنا۔
الشَّكُّ: مہ۔ شبہ۔ بڑی میں تھوڑی سی درز۔

ایک دروازہ چوہوں کیلئے قائل ہے۔ ج شَكُّوكٌ۔
الشُّكَّةُ: اسم نوع۔ ہتھیار۔ گھڑی وغیرہ کا چوہو

کھاڑے کے سوراخ کو ٹنگ کرنے کیلئے لگاتے
ہیں۔ ج شَكَّكَ اور کہا جاتا ہے "فَلَانٌ

مُتَخَلِّفٌ الشُّكَّةُ" فلاں مختلف اخلاق والا ہے۔
الشُّكَّةُ: مسافت۔ کہا جاتا ہے "بَيْنَهُمَا شَكَّةٌ

بَعِيدَةٌ" ان دونوں کے درمیان بڑی مسافت

شکر

شکر

شکص + شکل

۴۲۲

ہے۔ الشاکة: الشاکة کا مؤنث لگے کی سوچن۔ ج

شواک: بیہوش (شکاک) ایک تھار کے مکانات۔ الشکاکة: زمین کا گوش۔

الشکیکة: طریقہ عادت۔ کہا جاتا ہے "ذخفة علی شکیکہ" اس کو اس کی عادت پر چھوڑ دو۔ فرق: میوہ کی ٹوکی۔ ج شکایک و شکک۔

الْمَشْكُ: سوراخ کرنے کا آلہ۔ زیرہ۔ ج مَشَاكُ۔

الشکئی: سخت لگام۔ الشکوک: بست باہوں والی اونٹنی کہ جس کی لاغری و فریبی معلوم نہ ہو سکے۔

الشککة: تیز تھماریا تھماری کی تیزی۔ شکاً (ف) شکاً: تاب التبیعہ: روانت لگتا۔

شکین (س) شکاً: ظفروہ: ناخن پھٹنا۔ اشکاب: الشجرة: شاخیں نکالنا۔

الشکب: بدلہ۔ بخشش۔ الشکبان: گھاس جمع کرنے کی جمولی۔

الشوکحة: بڑے چھانک میں چھوٹا دروازہ۔ ج شوکح۔

شکدة (ن) شکدو: شکدہ۔ بخشا۔ رہا۔ اشکدہ: رہا۔ ردی مال جمع کرنا۔

الشکدہ: بخشش۔ شکر۔ شکر (ن) شکرًا و شکرًا و شکرًا۔

الزجل و لہ (و باللام أفصح) شکر یہ ادا کرنا۔ شکر کرنا۔ بہتر سلوک پر تعریف کرنا اور کہا جاتا ہے

"شکر اللہ سفیک" یعنی اللہ تمہاری کوشش کی جزا دے و "شکرث لیفلان نغمتہ" میں

نے فلاں کی نعمت کا شکر یہ ادا کیا و "شکر اللہ و لله وباللہ ونعمتہ اللہ ونعمتہ اللہ" اس نے

اللہ کا شکر یا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ صفت (شاکر) ج شاکرون و شکر۔ شاکرون: ایک قسم کی گھاس۔

شکیرث (س) شکرا۔ الناقہ: اونٹنی کا بھرے ہوئے تھن والی ہوتا۔ صفت (شکیرة) ج

شکیرات و شکازی و شکزی و (مشکار) الشجرة: درخت کا جڑ میں سے شاخ

لگتا۔ الزجل: بچل کے بعد نئی ہونا۔

اشکوز: الضرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔ صفت (شکوزان) مؤنث شکزی۔ ج شکزائی

و شکزائی۔ غین شکزی: آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھ۔ اشکوز الشجر: درخت کی جڑ میں سے شاخ لگنا۔

شاکزوة: شکر گزاری دکھانا۔ ہ الخدیث: ننگو شروع کرنا۔

اشکوز: الضرع: تھن کا دودھ سے بھرنا۔ اشتکوت الریاح: ہوا کا تیز چلنا۔

السماة: بارش لانا۔ الزجل فی عدوہ: دوڑنے میں کوشش کرنا۔ اشتکوز البز و الحز: سردی یا گرمی کا تیز ہونا۔

الشجر: درخت کی جڑ میں سے شاخ لگنا۔ العجین: روال لگنا۔

تَشکَرُ لَه: شکر ادا کرنا۔ الشکوز: بست شکر گزار (فد کر و مؤنث) ج

شکر الشکوز فی انسابہ تعالیٰ۔ حوڑے عمل کا زیادہ بدلہ دینے والا۔

الشکیز: بڑے درختوں کی جڑ میں جوشاخ نکل آئے۔ بیوں میں چھوٹے پودے یا گھاس یا پریا

(بال) مال جو چہرہ اور پس گردن کے متصل ہوں۔ درخت کی ڈاڑھی۔ شکیز الابل: چھوٹے اونٹ۔ ج شکر۔

الشکرة: اسم موزة (والشکریة) تخمیں کا دودھ سے بھرنا۔ کہا جاتا ہے نبات (مشکرة) یعنی

دودھ والا پودہ۔ الشکران: شکر گزاری۔ الشوکزان و الشیکزان و الشیکزان: ایک

زہر بلا پودہ۔ (دخیل) الشاکری: خادم۔ نوکر۔ چاکر۔ ج شاکریة (دخیل)

الشاکریة: خادم کی اجرت۔ عوام شاکریہ کو شیرے سردی چھری کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔

الشکایو: پشائیاں۔ شکزوة (ن) شکزوا: انگلی چھوٹا۔ زبان سے تکلیف دینا۔ شکزوة بالضم: نیزہ مارنا۔

الشکوز و الشکر: بد خلق۔

الشکاز: شاکر کا مبالغہ۔ جگہ۔ شکس (ک) شکاسة و شکس (س)

شکسا۔ بچل ہونا۔ درشت خوب ہونا۔ سخت مزاج ہونا۔ صفت (شکس و شکس) ج شکس۔

شاکسة مشاکسة: مخالفت کرنا۔ سختی سے پیش آنا۔

تَشاکس: القوم: باہم مخالفت کرنا۔ کہا جاتا ہے "اللیل والنهار یتشاکسان" دن اور

رات ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ الشکینس: نعمت۔

المشکس: بچل۔ سخت مزاج۔ الشکس: نئے چاند نکلنے سے ایک دو دن پہلے۔

الشکص و الشکینص: بد خلق۔ الشکینص: اونٹنی جس کے نہ تو تھن میں دودھ

ہو نہ حاملہ ہو۔ الشکاص: تہ سوار اونٹوں والی عورت۔

شکع (س) شکعہ: القریض: بست آہ و زاری کرنا۔ صفت (شاکع و شکع و شکوع)

الززع: بھتی کا زیادہ دانوں والی ہونا۔ الزجل: غھیناک ہونا۔ ورد مند ہونا۔

اشکعہ: غھیناک کرنا۔ لول کرنا۔ ٹک دل کرنا۔ زچ کرنا۔

شکل (ن) شکلا و شکل۔ الأمو: مشتبہ ہونا۔ شکل و شکل العتب: انگور کا پتے لگنا۔

شکل و شکل الکتاب: اعراب لگانا۔ شکل و شکل الذابۃ بالشکال: جانور کو پائے بند

ڈالنا۔ شکل الشی: تصویر بنانا۔ شکلت و شکلت المزاة شغرها: دائیں اور بائیں

جانب زلف کی دو ٹہلیں بنانا۔ شکل (س) شکلا: سرخ سفید ہونا۔

الشی: سفید مائل سرخ ہونا۔ المزاة: عورت کا ناز و انداز والی ہونا۔

اشککل۔ الأمو: مشتبہ ہونا۔ کہا جاتا ہے اشکلت علی الاخباز میرے اوپر خیریں مشتبہ

ہو گئیں۔ العتب: انگور کپتے لگنا۔ التخل:

درخت خراب پاک کرتا رہنا۔ الْكِتَابُ :
اگر اب لگانا۔ الشُّبُّ : مشکل ہونا۔
الْمَرِيضُ : بیمار کا صحت کے قریب ہونا۔
مُشَاكَلَةٌ مُشَاكَلَةٌ : مشابہ ہونا۔ موافق ہونا۔ کہا
جاتا ہے "فِي فَلَانٍ مُشَاكَلَةٌ مِنْ أَبِيهِ" اس میں
اس کے باپ کی مشابہت ہے۔
تَشَكَّلَ : صورت اختیار کرنا۔ الْعَيْبُ :
اگر کچھ کئے گئے۔

اِسْتَشْكَلَ وَاسْتَشْكَلَ : الْأَمْرُ : مشتبه ہونا۔
الشُّكْلُ : مہ۔ مشابہت۔ مٹ۔ نظیر۔ مشکل
محلہ۔ قصد و ارادہ۔ کہا جاتا ہے "سَأَلْتُهُ عَنْ
شُكْلِ فَلَانٍ" میں نے فلاں کے ارادہ کو
دریافت کیا۔ عورت کا ناز و انداز۔ محسوس یا متوہم
چیز کی صورت شکل مثلاً گولائی، کجی۔ سیدھا پن
دغیرہ۔ ج اشکال و مشکول۔ الأشکال :
چاندی یا موتیوں کے زیورات جو ایک دوسرے
کے مشابہ ہوتے ہیں اور جن کو عورتیں کان میں
پہنتی ہیں اور کہا جاتا ہے "أَمْوُؤُاْ أَشْكَالٌ" یعنی
مشتبه امور۔ شُكْلُ الْكِتَابِ : کتاب کی حرکات۔
الشُّكْلَةُ : ایک حرکت مثلاً زیر زبر یا پیش۔
الشُّكْلُ : شکل۔ عورت کا ناز و انداز۔

الشُّكْلَةُ : سرفی مائل بہ سفیدی ()
والمشاكل : مشابہت۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ شُكْلَةٌ
أَوْ شَاكِلٌ مِنْ أَبِيهِ" اس میں اس کے باپ کی
مشابہت ہے۔ اِمْرَأَةٌ (شُكْلَةٌ) ناز و انداز والی
عورت۔

الشُّكَالُ : جانور کا پائے بند۔ ڈوری جو اونٹ
کے پیش بند اور تنگ کے درمیان باندھتے ہیں۔
اَلْجَلُّ نَائِكٌ اَوْرَجِيحِي نَائِكٌ بَانِدْحِي كَابِدْحِي : ج
شُكْلٌ : الشُّكَالُ فِي الْخَيْلِ : تین ناگوں کا
سفید اور ایک دوسرے رنگ کا ہونا یا اس کے
برعکس۔

الشُّاكَالَةُ : الشُّاكَالُ : كامُونْت۔ شکل۔ جانب۔
جیسے شَاكَالَةُ الظَّرْبِيِّ : طریقہ مذہب۔ نیت۔
حاجت۔ کوکھ۔ ج شُواكِل۔ اور اسی سے ہے
"أَصَابَ شَاكَالَةَ الصُّوَابِ" اس نے طریقہ
صواب پایا۔ و "فَلَانٌ يَتْرُكُ مِنْ بِيْءِ الشُّوَاكِلِ"
یعنی فلاں وجوہ صواب کو پالیتا ہے۔ الشُّوَاكِلُ :

بڑے رستے سے نکلے ہوئے راستے۔ کہا جاتا ہے
هَذَا ظَرْبِيٌّ ذُو شُواكِلٍ : یہ راستہ ایسا ہے جس
سے مختلف راستے نکلے ہیں۔

الأشكَلُ : سفید مائل بصری۔ آنکھوں کی
سفیدی میں سرفی والا۔ اور کہا جاتا ہے "هَذَا
اشكَلٌ بِهِ" اس کے مشابہ ہے۔ ج شُكْلٌ :
الشُّكْلَاءُ : أَشْكَالُ كَامُونْت۔ حاجت۔

الشُّوَكْلَةُ : ناجیہ۔ جانب (الشُّوَاكِلُ) کا واحد
بمعنی عوسج۔ اور عوسج ایک کانٹے دار
درخت کا نام ہے۔

الأشكَلَةُ : التماس۔ مشابہت۔ کہا جاتا ہے "فِيهِ
أَشْكَالَةٌ مِنْ أَبِيهِ" اس کے اندر اس کے باپ کی
مشابہت ہے۔ حاجت جو انسان کو پابند کر دے۔ تم
کہتے ہو "فَتَأْخُذُهُ أَشْكَالَةٌ" اس کے پاس ہماری
حاجت ہے۔

الشُّكَيْلُ : خون آمیز جھگ جو لگام کے لوہے پر
ظاہر ہو۔

المشكِل والمشكَلَةُ : أمر دشوار یا أمر
مشتبه۔ ج مشکائل و مشکلات۔

المشكُولُ : مِنَ الْخَيْلِ : تین ناگوں میں
سفیدی اور ایک ٹانگ میں دوسرے رنگ والا۔
پائے بند سے بندھا ہوا۔

المشكُولُ : صورت و شکل والا۔
شُكْمَةٌ (ن) شُكْمًا : دبا۔ بدلہ دینا۔ فَلَانًا :
رشوت دینا۔

شُكْمَةٌ (ن) شُكْمًا وَشُكْمِيًّا : دانت سے
کٹ لیتا۔

شُكْمٌ (س) شُكْمًا : بھوکا ہونا۔
أَشْكَمُهُ : بدلہ دینا۔

الشُّكْمُ وَالشُّكْمِيُّ : ثواب۔ بدلہ۔ عطیہ۔
الشُّكْمِيُّ : شیر۔

الشُّكْمِيَّةُ : تکبیر۔ ظلم کی داو رسی۔ عمد۔
طبیعت۔ چیتا۔ زہر۔ مشابہت۔ مِنَ اللِّجَامِ :

لگام کا وہ لوہا جو گھوڑے کے منہ میں ہوتا ہے۔ ج
شُكَايِمٌ وَشُكْمٌ وَشُكْمِيٌّ اور اسی سے ہے
"فَلَانٌ ذُو شُكْمِيَّةٍ" او شُدَيْدُ الشُّكْمِيَّةِ یعنی
ظلم خود دار اور غیرت مند ہے۔

شُكْمُهُ شُكْمًا وَشُكْمِيًّا : مشابہ ہونا۔

أَشْكَةُ الْأَمْرِ : دشوار ہونا۔
تَشَاكَيْهَا : باہم مشابہ ہونا۔

شُكَا يَشْكُو شُكْوَى وَشُكْوًا وَشُكَاةً
وَشُكَاوَةً وَشُكَايَةً وَشُكَيْتَةً : إِلَيْهِ زَيْنًا :

شکایت کرنا۔ شکایت کرنے والے کو (ضالک) جس
کی شکایت کی جائے اس کو (مَشْكُوٌّ وَمَشْكِيٌّ)
اور جس سے شکایت کی جائے اس کو (مَشْكُوٌّ)

إِلَيْهِ اور شکایت کو (شُكْوَى) کہتے ہیں۔ شُكَا
الْأَمْرُ اَو الْعِلَّةُ : ذکر کرنا یا درو مند ہونا۔
مَرَضُهُ لِلطَّبِيبِ : طبیب سے مرض کی کیفیت
بیان کرنا۔ اَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ : ظاہر کرنا۔

شُكَا يَشْكُو شُكْوَى وَشُكْوَى وَشُكَاةً :
الْمَرَضُ فَلَانًا : الم پہنچانا۔ درو مند ہونا۔

شُكْمِيٌّ تَشْكِيَّةٌ : الشَّكِي : شکایت قبول کرنا۔
أَشْكَى اِشْكَاءً : فَلَانًا : شکایت قبول کرنا۔

شَاكِي : پانا۔ کسی کے سامنے شکایت اور کلمات
شوق کو بیان کرنا۔ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ
وہ شکایت کرنے پر مجبور ہو۔ کسی سے شکایت کو
زائل کر دینا۔ فَلَانًا مِنْ فَلَانٍ : کسی سے
کوئی چیز کسی کی خوشنودی کے لیے لیتا۔ کہا جاتا
ہے "هُوَ يَشْكِي بِكَذَا" وہ فلاں چیز کے ساتھ
مشمگم ہے۔

شُكَاةٌ : شکایت کرنا۔

تَشَكَّى : بیمار ہونا۔ إِلَيْهِ : شکایت کرنا۔

مِنْ جُزْجٍ : درو مند ہونا۔
اِسْتَشْكَى : بیمار ہونا۔ إِلَيْهِ : شکایت کرنا

مِنْ جُزْجِهِ : درو مند ہونا۔
تَشَاكَيْ تَشَاكِيًّا : الْقَوْمُ : باہم ذکر شکایت
کرنا۔

الشُّكُوُّ وَالشُّكْوَى وَالشُّكَاءُ وَالشُّكَاةُ
وَالشُّكُوَاءُ : بیماری۔ الشُّكْوَى : جس چیز کی
شکایت کی جائے۔ ج شُكَاوِيٌّ : الشُّكُوُّ : چھوٹا
اونٹ۔

الشُّكُوَّةُ : شُكَاكَ اَسْمَ مَرَّةٍ : شُكُوٌّ بمعنی مرض
کا واحد ج شُكُوَاتٌ وَشُكَاةٌ ()
وَالشُّكَيْتَةُ اِلْيَانِي : یاد دہندہ کا چڑے کا برتن۔

الشُّكِيٌّ : جس کی شکایت کی جائے۔ درو مند۔
مَوْتٌ شُكَيْتَةٌ : ج شُكَايَا () وَالشَّكَايِي :

شَمَّهٗ آزمائش کیا جانا۔

شَمَمَ الزَّهْرُ: پھول سوگھنا۔ ہ
الزَّهْرُ: پھول سوگھانا۔

أَشَمَّ سِرًا تَحْرُكُ الزُّرْدَ: گلاب کا پھول سوگھانا۔ عَنِ الْأَمْرِ: الگ ہونا۔ جُنَا:

أَشَمَّ الْقَارِئُ الْحَزْفَ: اَشْمَامُ کر کے وقف کرنا۔ کہا جاتا ہے "أَشْمَفْنِي بَدَكَ" مجھے اپنا ہاتھ دو۔ و "عَرَضْتُ عَلَيْهِ كَذَا فَإِذَا هُوَ مُسِمٌّ لَا يُرِنْدُهُ" میں نے اس پر فلاں چیز پیش کی اس نے ناک بھوں چڑھائی۔ اس کی خواہش اسے نہیں۔

شَاثًا مُشَاثَةً وَتَشَاثَا تَشَاثَا: ایک دوسرے کو سوگھنا۔

إِشْتَمَّ الشَّيْءُ: سوگھنا۔

تَشَمَّمَهُ: آہستہ آہستہ سوگھنا۔

إِسْتَشَمَّتْهُ: سوگھنے کی درخواست کرنا۔ سوگھنا۔

الشَّمُّ: مہ۔ سوگھائی۔

الشَّمَامَةُ: سوگھنے کی حس۔

الشَّمَمُ: مہ۔ نزدیکی۔ دوری (ضد) ناک کے بانسہ کی بلندی حسن و بھواری کے ساتھ۔

الشَّمِيمَةُ: مہ۔ بلند۔ عمدہ خوشبو۔

الْأَشَمُّ: مغرور سردار۔ کریم۔ اونچی ناک والا۔

مَوْتٌ شَمَاءً: ج شَمٌّ۔

الشَّمَامُ وَالشَّمُومُ: بہت سوگھنے والا۔

الشَّمَامُ: ایک قسم کا زرد رنگ کا خربوزہ۔ واحد (شَمَامَةٌ) ج شَمَامَاتٍ۔ الشَّمَامَاتُ: عمدہ خوشبوئیں۔

الإِشْمَامُ: عِنْدَ الْقُرْءِ وَالنَّحَاةِ: بجز آواز کے ہونٹ سے حرکت کی طرف اشارہ کرنا۔

المَشْمُومُ: مہ۔ جو چیز سوگھنے سے معلوم ہو۔

مُكَّ۔

شَمِيتٌ (س) شَمَانًا وَشَمَانَةً: بفلان: کسی کی مصیبت پر خوش ہونا۔ صفت فاعلی۔

(شَامِتٌ) ج شَمَاتٌ۔ اور صفت مفعولی (مَشْمُوتٌ) بہ۔

شَمَّتْ: العاطسُ وَشَمَّتْ عَلَيْهِ:

يَرَحِمَكَ اللَّهُ كَمَا كَرَّمَكَ: یا دعا کرنا کہ ایسی حالت میں جلتا ہو جس پر کسی کو شامت کا موقع

طے۔ ہ۔ محروم کرنا۔ شَمَّتَ بَيْنَهُمَا: جمع

کرنا۔

أَشَمَّتْهُ اللَّهُ بَعْدَ وَهْ: دشمن کے غم سے خوش

کرنا۔

تَشَمَّتَ الْقَوْمُ: با انصاف کے محروم واپس

آنا۔

الشَّامِتُ: فاج شَمَاتٌ۔

الشَّامِيَةُ: الشَّامِتُ كَامُؤْنَتٍ۔ جانور کی ٹانگ۔

ج شَوَامِتٍ: کہا جاتا ہے "بَاتٌ بِلَيْلَةٍ

الشَّوَامِتُ" اس نے سخت مصیبت میں رات

گزارا جس پر خوش ہونے والی عورتوں نے

خوشی منائی۔ وَبَاتٌ طَوَّعَ الشَّوَامِتِ: مصیبت پر

خوش ہونے والی عورتوں کی خواہش کے مطابق

اس نے رات گزارا۔

الشَّامَاتُ وَالشَّمَامَاتُ: محروم لوگ (جمع ہے

واحد نہیں) کہا جاتا ہے "زَجَعَ الْقَوْمُ شِمَانًا وَ

شَمَانِيًا" قوم محروم واپس آئی۔

شَمَخَ (ن) شَمَخًا: الشَّيْءُ: ملانا۔

الْفُؤُوبُ: پیرے کو زور زور سینا۔ شَمَخَهُ عَنْ

كَذَا: الگ کرنا۔ فَلَانًا: جلدی کرنا۔

الشَّمَاخُ: انور کا وہ حصہ جو کھانے کے بعد

پھینک دیا جائے۔ کہا جاتا ہے "مَا ذُقْتُ شَمَاخًا"

یعنی میں نے کچھ نہیں چکھا۔ نَاقَةٌ (شَمَخِي) تیز

رفتار والی۔

شَمَجَزُ: الزُّجَلُ: خوفزدہ کی طرح دوڑنا۔

الشَّمْحَطُ وَالشَّمْحَاظُ وَالشَّمْحُوطُ:

بہت لمبا۔

شَمَخَ (ف) شَمَخًا وَشَمُوخًا: الجَبَلُ: پہاڑ

کا بلند ہونا۔ صفت (شَامِيخٌ) ج شَمَخٌ۔ مَوْتٌ

شَامِيخَةٌ ج شَوَامِيخٌ وَشَامِيخَاتٌ (و شَمَخٌ)

أَنفُهُ وَبِأَنفِهِ: تکبر سے ناک چڑھانا۔ صفت

(شَمَخِيخٌ)

تَشَامَخَ: بلند ہونا۔ تکبر کرنا۔

تَشَمَخَ: بِأَنفِهِ: تکبر کرنا۔

الشَّامِيخُ: فَا نَسَبَ شَامِيخٌ: شریف نسب

وَجُلٌ شَامِيخٌ: تکبر مرد۔

الشَّمَاخُ: شَامِيخٌ كَامِهَادٍ جَبَلٌ شَمَاخٌ: بہت

بلند پہاڑ۔ مَفَاذَةٌ (شَمُونٌ وَ شَمَخٌ) دور

اطراف والا۔ بیابان۔

شَمَعُو شَمَعْرَةً: تکبر کرنا۔

إِشْمَعْرُ إِشْمَعْرًا: الشَّيْءُ: طویل ہونا

الجَبَلُ: پہاڑ کا بلند ہونا۔

الشَّمْعُورُ وَالشَّمْعُورُ: تکبر مرد۔ بلند نظر۔

مونا آدمی یا اونٹ۔

الشَّمْدَزُ وَالشَّمْدَزُ وَالشَّمْدَازُ تيز

رفتاری۔

الشَّمْدَازُ قَو الشَّمْدَازُ: جست لڑکا۔

شَمَرٌ (ن) ض) شَمَرًا: تیز چلنا۔ تکبر سے چلنا

التَّخَلُّلُ: گھبریں کاٹنا۔

شَمَرٌ تَشَمِيرًا: تیز گزرنے والا۔ تیز چلانا۔

الشَّيْءُ: سہیلنا۔ السَّفِينَةُ: او

الصَّفْقُ: چھوڑنا۔

الْفُؤُوبُ عَنْ سَاقِيهِ: اُشْمَا: فی

الْأَمْرِ: جتنی کرنا۔ لِأَمْرٍ: ارادہ کرنا اور

آباد ہونا۔

إِلَى الْمَكَانِ: قصد کرنا۔ شَمَرَتِ

الْحَرْبُ وَشَمَرَتْ عَنْ سَاقِيهَا: سخت ہونا۔

أَشْمَرَةٌ: جلدی کرنا۔ هَب السَّنْفُ:

تَشَمَّرَ وَالشَّمَرُ: تیز چلنا یا تکبر سے چلنا

الْأَمْرُ: ارادہ کرنا اور آباد ہونا۔

الشَّمْرُ: فِاضٌ: نخی۔ صاحب بھیرت۔ پرکھنے

والا۔ تجربہ کار۔

الشَّمْرُ وَالشَّمَارُ: ایک قسم کا پورہ ہے جس

کے پھول زرد رنگ کے اور دانے سبز رنگ کے

لیے ہوتے ہیں۔ شَمْرٌ (شَمِيرٌ) سخت بُرائی۔

الشَّمْرُ الْمَالِسُ: ہیرا۔

الشَّمِيرُ وَالشَّمِيرِيُّ وَالشَّمِيرِيُّ

والشَّمِيرِيُّ: تجربہ کار۔ دانے امور۔ محنت سے

کام کرنے والا۔ مِنَ الْإِبِلِ: تیز رفتار۔ نَاقَةٌ: او

الشَّمَاةُ (شَامِيخَةٌ) شَامِيخَةٌ: او نخی یا بکری جن کے

تھن بیٹ سے لگے ہوئے ہوں۔ لَعْنَةٌ شَامِيخَةٌ:

دانتوں کی جڑوں سے لگا ہوا سوزہ۔ ج شَمَوَامِرُ۔

المَشْمِيرُ: فَا۔ تجربہ کار۔ محنت سے کام کرنے

والا۔

شَمَرَجُ: الْفُؤُوبُ: دور دور ٹانگے لگا کر خراب

سلائی کرنا۔ فِي الْكَلَامِ: گزیر کرنا۔ خلط

عَنْمَةً إِلَى عَنَمٍ زَيْدٌ: ملا کر بڑھانا
الْيَدَائِي الْعُنُقِي: ہاتھ کا گلے میں گھیرا ڈالنا۔
شَانَقَةٌ شَانَقَةٌ وَشَانَقًا: اپنے مال کو کسی کے
مال سے ملانا۔
شَانَقًا: اپنے مال کو دوسرے کے مال سے
ملانا۔

الشُّنْقُ: مہ۔ تاوان زخم۔ رشتی۔ سر کی لمبائی۔
شُغْرِي: شُغْرِي۔

الشُّنَاقُ: مہ۔ منگ کا بندھن۔ تانت سر کی
لمبائی۔ ہر وہ ڈوری جس سے کوئی چیز لٹکائی جائے۔
رشتی جس سے اونٹ کے سر کو کھینچا جائے۔
ہاتھوں کو مونڈھوں سے ملا کر باندھنے کی رشتی۔ ج
شُفْقٌ وَأَشْفِقَةٌ۔

الْقَلْبُ (الشُّنْقُ) شَتَاقٌ وَخَوَاشِ مِنْدُولٍ: ج
أَشْنَاقُ: فَرْشٌ (أَشْنَقٌ) لِبَسِّ سِرَاكُوهَا: اور ایسا
ہی بَیْعَتٌ أَشْنَقُ: مَوْنَتٌ شَنْقَاءٌ وَشَنْقَاءُ۔
الشُّنْقَاءُ: وہ پرندہ جو اپنے بچہ کو جو گادے۔

الشُّنْبِقِي: چھائی دیا ہوا۔ وہ کھڑی جس پر تھوڑا
ساشد لگا کر چھتے میں رکھ دیتے ہیں۔ منہ بولا بیٹا۔
الشُّنْبِقِي: خود پسند۔ الشُّنْبِقِيَّةُ: عیش باز
عورت۔

المِشْنَاقُ: ہر چیز کی طرف نظر ڈالنے والا۔
شَمَمٌ (ن) شَمَمًا: الجِلْدُ: خراش لگانا۔ مَاءٌ
(شَمَمٌ) مَحْضَرًا بِلَانِي۔
الشُّنْمُ: کئے ہوئے کان والے۔

الشُّنْمُ: چنگاری جو اڑے۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ"
يَنْظُرُ شَمَمَةً" فلاں سے غصہ کی وجہ سے
چنگاری اڑ رہی ہے۔

شَهَقٌ أَوْ شَهَقٌ: الجَمَازُ: گدھے کا
ڈھینچوں ڈھینچوں کرنا۔ یہ کلہ عوام کے نزدیک
ہے۔ نَصِحَ لِنَهْقٍ يَأْشَهُقُ ہے۔

الشَّائِبِيَّةُ: بڑا جنگلی جہاز۔ ج شَوَانٍ (مفرد کا
استعمال نادر ہے)۔

شَهَبٌ (س) وَشَهَبٌ (ك) شَهَبًا: سیاہی ملی
ہوئی سفید رنگ والا ہوتا۔ صفت (شَاهِبٌ
وَأَشْهَبٌ عَامٌّ أَشْهَبٌ: خشک سال۔ يَوْمٌ
أَشْهَبٌ: ٹھنڈی ہوا اور پالے کا دن۔ جَيْشٌ
أَشْهَبٌ: قوی و مضبوط لشکر۔ ج شَهَبٌ۔

المِشْنَعُ: قبیح۔ بے حقیقت خبروں کا پھیلائے
والا۔

المِشْنَعُ: مہ۔ بڑائی میں مشہور۔
الشُّنْعَابُ: لمبے قد و قامت کا مرد۔

الشُّنْعُوفُ وَالشُّنْعَافُ: پہاڑ کی چوٹی۔ بلند
پہاڑ۔ لمبا و کمزور مرد۔

الشُّنْعَةُ: لمبائی۔
شَنْفٌ (ن) شَنْفًا: إِلَهٌ: تعجب یا اعتراض کی
نظر سے دیکھنا۔

شَنْفٌ (س) شَنْفًا: فَلَانًا أَوْ لِفْلَانٍ: بغض
رکھنا۔ لَهْ: سمجھ جانا۔ پہ: تاز جانا۔

شَنْفٌ: الكَلَامُ: مزین کرنا۔ إِلَهٌ: کھنٹی
سے دیکھنا۔ (وَأَشْنَفُ) الجَارِيَّةُ: لڑکی کیلئے
ایزر رنگ بنانا۔ بال بنانا۔

تَشْتَفُ: الجَارِيَّةُ: لڑکی کا ایزر رنگ بنانا۔ بال
بنانا۔

الشُّنَافِيفُ: فا۔ اعراض کرنے والا۔ کہا جاتا ہے
"إِنَّهُ لَشَانِقٌ عَنَّا بِأَنْفِهِ" وہ اپنے آپ کو ہم سے
برتر سمجھتا ہے۔

الشُّنْفُ: مہ۔ بالی۔ ایزر رنگ۔ ج شُنُوفٌ
وَأَشْنَافٌ۔
الشُّنْفُ: بغض رکھنے والا۔

شُنُقٌ (ن) شُنُقًا: التَّبَعِيَّةُ: سوار ہونے کی
حالت میں لگام کھینچنا۔ الْقِرْبِيَّةُ: منگ کو سر بند
باندھ کر دونوں ہاتھوں سے سر بند کو پکڑنا۔

رَأْسُ الدَّابَّةِ: درخت یا اونچے کونٹے سے جانور
کے سر کو باندھنا اور اسی سے مولدین کے نزدیک
لفظ "الشُّنُقُ" ہے جس کے معنی مجرم کو چھائی
دینے کے ہیں۔ الشُّنُقِيُّ: لٹکانا۔ الخَلِيَّةُ:
شہید کے چھتے میں لکڑی ڈالنا۔

شُنُقٌ (ض) شُنُقًا وَشُنُقٌ (س) شُنُقًا كَيْ
سے محبت کرنا اور گردیدہ ہو کر رہنا۔

شُنُقٌ: عکڑے عکڑے کرنا۔
الخَلِيَّةُ: شہد کے چھتے میں لکڑی ڈالنا۔

أَشْنَقُ: التَّبَعِيَّةُ وَالقِرْبِيَّةُ: بمعنی شُنُقٌ التَّبَعِيَّةُ وَ
القِرْبِيَّةُ: التَّبَعِيَّةُ: اونٹ کا سر اٹھانا۔ عَلِيٌّ
فُلَانٍ: دست درازی کرنا۔ الرَّجُلُ: خون ہا
لیتا یا خون بہا واجب ہونا۔ (ضد) الشُّنُقِيُّ لٹکانا

الشُّنْصِرُ: جانے پناہ۔
الشُّنْطُ: کپے ہوئے گوشت کے ٹکڑے۔

المِشْنَطُ: بھنا ہوا گوشت۔ شِوَاءٌ مِشْنَطٌ:
اچھی طرح سے نہ بھنا ہوا۔

شَنْطٌ: شَنَاظُ: الجَبَلُ: پہاڑ کی چوٹی۔ کہا جاتا
ہے "إِمْرَأَةٌ ذَاتُ شَنَاظٍ" کھٹے بدن والی
پر گوشت عورت۔

الشُّنْطَبُ: لمبا خوبصورت۔
شَنْطَرٌ بِهِيْمٌ: گالی دینا۔ حُشٌّ بَكَاةٌ۔

الشُّنْطِيرُ وَالشُّنْطِيرَةُ وَالشُّنْطُورَةُ:
بدخل۔ چٹان جو پہاڑ سے پھٹ کر گرے۔

شِطْنِيَّةٌ كَيْ جَمْعِ شَنَاظِيٍّ: شَنَاظِيرُ الجَبَلِ:
پہاڑ کے اطراف۔

الشُّنْطُوفُ: ہر چیز کی شاخ۔
شَنْطِيٌّ بِهِيْمٌ: بڑا بھلا سنا۔

شَنْطُورَةُ: الجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔ پہاڑ کا کنارہ۔
ج شَنَاظُ۔

شَنْعَةٌ (ف) شَنْعًا: قبیح سمجھنا۔ گالی دینا۔ زسوا
کرنا۔

شَنْعٌ (س) شَنْعًا بِهِيْمٌ: قبیح سمجھنا۔ کہا جاتا ہے
"زَأَى أَمْرًا شَنْعًا بِهِيْمًا" اس نے ایسا معاملہ دیکھا
جس کو قبیح سمجھا۔

شَنْعٌ (ك) شَنْعًا وَشَنْعًا وَشَنْعًا وَشَنْعًا:
قبیح ہونا۔ صفت (شَنْعٌ) ج شَنْعٌ وَ (شَنْعٌ
وَأَشْنَعٌ)

شَنْعٌ: الرَّجُلُ: بہت بڑا بھلا کرنا۔ عَلِيَّةٌ
الْأَمْرُ: قبیح قرار دینا۔ الرَّجُلُ: آمادہ و تیار
ہونا۔ (وَأَشْنَعُ) التَّبَعِيَّةُ: دوڑنے میں
کوشش کرنا۔

تَشْنَعٌ: دوڑنے میں کوشش کرنا۔ لِلْأَمْرِ: تیار
ہونا۔ السِّلَاحُ: ہتھیار بنانا۔
الغَازَةُ: لوٹ ڈالنا۔ الْقَوْمُ: اختلاف رائے

کی وجہ سے خراب حالت والی ہونا۔
الرَّجُلُ: بڑے کام کا ارادہ کرنا۔ الْقِرْسُ:
گھوڑے پر سوار ہونا۔ جڑھنا۔ الشُّوبُ:
کپڑے کا بوسیدہ ہونا۔

إِسْتَشْنَعَهُ: قبیح سمجھنا۔ مکروہ سمجھنا۔
الشُّنْعَةُ وَالشُّنْعَانَةُ وَالشُّنْعُغُ: قباحت۔

شَهْبَةُ (ف) شَهْبًا و شَهْبَةً. الْحَرُّ: گرمی کا جھلس دینا۔

أَشْهَبَ - الْعَامَ الْقَوْمَ: قوم کے اموال کو تباہ کر دینا۔

إِشْهَبَ و إِشْهَابًا و إِشْهَبَتْ: سیاہی ملی ہوئی سفید رنگ والا ہونا۔ الزَّرْعُ: خشک و زرد ہونا اور کچھ بڑی باقی رہنا۔

الشَّهْبُ - مہ - برف سے ڈھکا ہوا پہاڑ۔
الشَّهْبُ و الشَّهْبَةُ - سفیدی جس میں کچھ کچھ سیاہی ملی ہوئی ہو۔

الشَّهَابُ - آگ کی چمک - ٹوٹا ہوا تارہ - تارہ - نیرہ کا پھل۔ ج شُهْب و شُهْبَان و شُهْبَان و أَشْهَبُ - کہا جاتا ہے "فَلَانٌ شُهْبَانٌ حَزْبٌ" جبکہ جنگ میں کود پڑنے والا ہو۔

الأَشْهَبُ - شیر - دوشوار کام۔
الشَّهْبَاءُ أَشْهَبُ كَامُونَتَ - شہر طلب کا لقب

_____ مِنَ الْكُنَائِبِ: بہت تھمیاروں والا بڑا لنگر۔ سَنَةُ شُهْبَاءُ: بغیر بارش اور بڑی کے خشک سال یا بہت برف والا سال۔

الشَّهَابُ و الشَّهَابَةُ - دوہ جس میں دو تہائی پانی ملا ہوا ہو۔

الأَشْهَابُ - مندر نگی کی اولاد۔

الشَّاهَتْجُ و الشَّهْتَرُ شَاهَتْرَةً -

شَهْدَ (س) شَهْدًا - الْمُخْلِيسُ: حاضر ہونا

_____ الشَّيْءُ: معائنہ کرنا۔ اِطْلَاعٌ پانا _____

الْجُمُعَةُ: پانا _____ عَلَيَّ كَذَا: گواہی دینا۔

صفت (شاہد) ج شَهْدٌ و شَهْدٌ

شَهِدَ (س) و شَهِدَ (ك) شَهَادَةً عِنْدَ

الْحَاكِمِ لِفُلَانٍ أَوْ عَلَيَّ فُلَانٍ: گواہی دینا۔

صفت (شاہد) ج شَهِدَ و شَهِدُوا و أَشْهَدُ -

شَهِدَ اللَّهُ: جانا یا قبول فرمنا۔ شَهِدَ بِكَذَا: قسم

کہا۔

شَاهِدَةٌ مُشَاهَدَةٌ - معائنہ کرنا۔

أَشْهَدُ - حاضر کرنا۔ أَشْهَدُ فُلَانًا عَلَيَّ كَذَا:

گواہ بنا۔

إِشْهَدَةُ - گواہی دینے کو کہنا۔

إِسْتَشْهَدِيهِ: گواہی کے معاملہ کو کہہ دینا۔

أَشْهَدُ و أَسْتَشْهِدُ - اللہ کے راستہ میں قتل

ہونا۔

تَشْهَدُ - گواہی طلب کرنا _____ الْمُسْلِمِ: اطمینان پڑھنا۔

الشَّهِدُ و الشَّهِدَةُ - شہد جو موم سے جدا نہ کیا گیا ہو۔ ج شَهِدَا و (الشَّهِدَةُ و الشَّهِدَةُ) اس سے خاص ہے۔

الشَّهَادَةُ - مہ - یقینی خبر گواہی۔ قسم - اللہ کے راستہ میں قتل ہونا۔ عالم ظاہر جو عالم غیب کے مقابل ہے۔

الشَّاهِدُ - فا - زبان۔ اور اس سے قول ہے "عَالِمَةٌ زَوَائِدٌ لَأَشْهَدُ" یعنی اس کے لیے نہ تو حسن منظر ہی ہے نہ زبان۔ قوام۔ ستارہ۔ صَلَاةُ الشَّاهِدِ:

مغرب کی نماز۔ وہ عبارت جو کسی قاعدہ نحو وغیرہ کے ثابت کرنے کے لیے نقل کی جائے۔ الشَّاهِدُ مِنَ الْأُمُورِ: جلدی۔

الشَّاهِدَةُ - الشَّاهِدُ كَامُونَتَ - زمین۔ ج شَاهِدَاتٌ و شَوَاهِدُ -

الشَّهِيدُ و الشَّهِيدَةُ - حاضر۔ گواہی میں امانت دار۔ وہ ذات جس کے علم سے کوئی چیز غائب نہ ہو۔

اللہ کی راہ میں مقتول۔ اسم (الشَّهِادَةُ) ج شَهِدَاءُ مَوْتٌ شَهِيدَةٌ -

المَشْهَدُ - لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔

لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ اللہ کی راہ میں مقتول ہونے کی جگہ۔ ج مَشَاهِدُ -

المَشْهَدَةُ و المَشْهَدَةُ - لوگوں کے حاضر ہونے کی جگہ۔

المَشْهَدُ - اللہ کے راستہ کا مقتول۔

المَشْهَدَةُ - فا - امْرَأَةٌ مُشْهَدَةٌ: وہ عورت جس کا شوہر موجود ہو اور اس کا مقابل "امْرَأَةٌ مَعْبُودَةٌ"

ہے یعنی وہ عورت جس کا شوہر غائب ہو۔

المَشْهُودُ - مہ - جمعہ کا دن۔ قیامت کا دن۔ عرفہ کا دن۔

شَهِدَرُ شَهِدَرَةٌ - الْفَلَاحُ و الْجَارِيَةُ: لڑکے یا لڑکی کا تین اور چھ سال کے درمیان حرکت کرنا۔

الشَّهِدَرُ - دولت مند۔ مَوْتٌ شَهِدَرَةٌ -

الشَّهِدَاةُ - بد زبان۔ فساد انگیز۔ کھٹے بدن کا پستہ

قد۔

شَهْرَةٌ (ف) شَهْرًا و شَهْرَةً - بِكَذَا: مشہور

ہونا۔

کرنا۔ شَهْرٌ و شَهْرٌ السَّيْفِ - تلوار کو سونت کر

بلند کرنا۔ و شَهْرٌ فَلَانًا: رسوا کرنا۔

أَشْهَرٌ - ایک مہینہ کسی حال میں ہونا۔ کہا جاتا ہے "أَشْهَرْنَا فِي هَذَا الْمَكَانِ" ہم نے اس جگہ ایک مہینہ قیام کیا۔ أَشْهَرَتِ الْمَرْأَةُ: ولادت کے مہینے میں داخل ہونا _____ الْأُمُرُ: ظاہر کرنا۔ مشہور کرنا۔

شَاهِدَةٌ مُشَاهَدَةٌ - معائنہ کرنا۔

أَشْهَرٌ - حاضر کرنا۔ أَشْهَدُ فُلَانًا عَلَيَّ كَذَا:

گواہ بنا۔

إِسْتَشْهَرْتُ - مشہور ہونا _____ الْأُمُرُ: مشہور کرنا _____ بِالْفَضْلِ: فضیلت میں مشہور ہونا۔

الشَّهْرُ - مہ - دانہ۔ نیا چاند۔ چاند۔ مہینہ۔ ج أَشْهُرٌ و شُهُورٌ -

الشَّهْرَةُ - شہرت۔ بڑائی میں مشہوری۔ رسوائی۔

الشَّهِيرُ - مشہور۔ نامور۔ مَوْتٌ شَهِيرَةٌ -

المَشْهُورُ - مہ - شہرت یافتہ۔ مَوْتٌ مَشْهُورَةٌ -

الشَّهْرَبُ - بڑی عمر والا۔ مَوْتٌ شَهِيرَةٌ -

درخت خرما کے نیچے کا چھوٹا خوض۔

شَهَقٌ (ف ض) و شَهَقٌ (س) شَهِيقًا

و تَشْهَاقًا - الْحِمَاةُ: گدھے کا رینگنا (_____

شَهِيقًا و تَشْهَاقًا و شَهَاقًا) الزَّجَلُ: رونے میں سکی لینا۔ (_____ شَهْوَقًا) الْحَبْلُ و غَيْرُهُ:

پھاڑ وغیرہ کا بلند ہونا۔ صفت (شَهِيقٌ) اور تم کہتے ہو "شَهَقْتُ عَيْنِي عَلَيْهِ" جبکہ تم کو کوئی چیز پسند

آئے اور تم اس پر نظر جمادو۔

تَشَهَّقٌ عَلَيْهِ: نظر جمانا۔

الشَّهَقَةُ - اسم مرقہ - جج۔

الشَّاهِقُ - فا - ذُو شَاهِقٍ: زیادہ غضبناک۔

التَّشْهَاقُ - مہ - کہا جاتا ہے "صَخْلٌ تَشْهَاقٌ" زور کی ہنسی۔ وصف بالصدر کی بنا پر۔

شَهْلٌ (س) شَهْلًا و إِشْهَلٌ إِشْهَالًا - آنکھ میں سیاہی مائل بھرنی ہونا۔ صفت (أَشْهَلُ)

مَوْتٌ شَهْلَاءُ - ج شَهْلٌ - آنکھ کی صفت بھی شَهْلَاءُ - واقع ہوتی ہے۔

شَاهِلَةٌ مُشَاهَلَةٌ - کل گلوچ کرنا۔

تَشَهَّلَ - بے رونق چہرہ والا ہونا۔

الشَّهْلُ وَالشَّهْلَةُ - آگھ کی سیاہی مائل برشتی۔

الشَّهْلَاءُ - حاجت - کہا جاتا ہے "قَضَيْتُ مِنْ فُلَانٍ شَهْلَانِي" فلاں میں سے میں نے اپنی حاجت پوری کی۔

الشَّهْلَةُ - بڑھیا۔

شَهْمٌ (ف) ان شَهْمًا وشَهْمًا - الفَرَسُ ذَاتُنَا الرَّجُلُ - گھریا۔ خوفزدہ کرنا۔

شَهْمٌ (ك) شَهَامَةٌ وشَهْوَةٌ - تیز فہم ہونا۔ ذکی ہونا۔

الشَّهْمُ - تیز خاطر۔ ذکی۔ سردار جس کا حکم جاری ہو۔ جن چالاک گھوڑا۔ جن شَهْمٌ۔

الشَّيْهَمُ - ترسی۔ جن شَيَاهِمٌ۔

الشَّهَامُ - غول بیابانی۔

الشَّيْخَمَةُ - بڑھیا۔

المَشْهُومُ - تیز خاطر۔ ذکی۔ خوفزدہ۔

الشَّاهِنُ - ایک شکاری پرندہ۔ جن شَوَاهِينُ وشَيَاهِينُ - ترازو کا عمود۔

شَهَا يَشْهَرُ وشَهِي يَشْهِي شَهْوَةً وِاشْتَهَى - الشَّيْءَ: خواہش کرنا۔ رغبت شدید کرنا۔

شَهْوِي يَشْهُو - الطَّعَامَ - لذیذ ہونا۔

شَهِي - الرَّجُلُ: خواہش کرنے پر آکسانا۔ عَلَيْهِ كَذَا: طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَذَا الشَّيْءُ يَشْتَهِي الطَّعَامَ" یہ چیز کھانے کی خواہش بڑھاتی ہے۔

شَاهَاه - مشابہ ہونا۔

أَشْهَاهُ - خواہش کے مطابق رہنا۔ نظردہ لگانا۔ تَشَهَّى - الشَّيْءَ: خواہش کرنا۔ عَلَيْهِ كَذَا: بار بار خواہش کرنا۔

الشَّهْوَةُ - مہ۔ خواہش۔ جن شَهْوَاتٍ وِشَهْوِي

شَهِي

الشَّهَاءُ - بہت خواہش کرنے والا۔ الشَّهْوِيُّ - خواہش مند (والمَشْهَوِيُّ) مرغوب۔ کہا جاتا ہے "شَيْءٌ شَهْوِيٌّ" لذیذ چیز۔

الشَّهْوَانُ - مؤنث شَهْوَانِي - جن شَهَاوِي وِ(الشَّهْوَانِي) خواہش مند۔

الشَّاهِيَةُ - خواہش۔

شَابٌ يَشُوبُ شَوْقًا وشَيْبَانًا - الشَّيْءُ: ملتا الرَّجُلُ: خیابت کرنا۔ دھوکا دینا (و

شَوَّبَ تَشْوِبًا) عَنَّةُ: آہستگی سے بنانا۔

إِنْشَابُ الْإِشْيَابِ وِاشْتَابُ الْإِشْيَابِ - ملنا۔

الشَّوْبُ - مہ۔ وہ چیز جو دوسرے سے ملانی جائے۔ گندھے ہوئے آنے کا پتلا۔ بڑھ۔

الشَّوْبَةُ - اسم مرقہ۔ دھوکا۔

الشَّائِبَةُ - الشَّائِبُ كَامُونَت - اور شَوَائِبُ كَادَاعِد - بمعنی عیوب۔

الشَّيَابُ - مہ۔ ملاوٹ۔

لَيْلَةُ (الشَّيْبَاءِ) مِيعَةِ كِي آخِرِي رَات -

المَشُوبُ وِالمَشِيْبُ - ملا ہوا۔

المَشَاوِبُ - بولٹ کا غلاف۔ جن مَشَاوِبُ -

شَوْحُ - الشَّيْءُ: انکار کرنا۔ نہ پہچانا۔

الشَّوْحَةُ - جیل۔ ایک درخت جس کی شاخیں مخروطی شکل کی ہوتی ہیں۔ اور یہ (الشَّوْحُ) کلاوحد ہے۔

الشَّوْحَطُ - ایک درخت جس کی لکڑی سے کمان بنائی جاتی ہے۔ واحد (الشَّوْحَطَةُ)

شَوَّذَت - الشَّمْسُ: مائل غروب ہونا۔

شَوَّذَ السَّحَابُ الشَّمْسَ: ڈھا کٹنا۔ گھیر لینا۔

ہ: کسی کو عمامہ باندھنا۔

تَشَوَّذُوا وِاشْتَادُوا - بگڑی باندھنا۔

الْأَشَاوِذُ - مخلوق۔ کہا جاتا ہے "هُوَ خَيْرُ الْأَشَاوِذِ" وہ مخلوق میں بہتر ہے۔

المَشْوُودُ وِالمَشْوَاذُ - عمامہ باندھنا۔ سردار۔

ج مَشَاوِدُ وِمَشَاوِذُ -

شَارٌ يَشُورُ شُورًا وِشِيَارًا وِشِيَارَةً وِمَشَارًا وِمَشَارَةً - العَسَلُ: چھتے سے شہد

نکالنا۔ صفت مفعولی (مَشُورٌ) (شُورًا وِشُورًا) الدَّابَّةُ: جانور کو سدھانا۔ تجربہ کیلئے

سوار ہونا۔ خریدار کو دکھانے کیلئے سوار ہونا۔

شَارَتِ الْإِبِلُ: اونٹ کا موٹا خوبصورت ہونا۔

شُورٌ - الدَّابَّةُ: جانور کو سدھانا۔ تجربہ کے لئے سوار ہونا۔ خریدار کو دکھانے کیلئے سوار ہونا۔

یہ: شرمندہ کرنا۔ إِلَيْهِ: اشارہ کرنا۔

النَّارُ وِبِالنَّارِ: آگ کو بلند کرنا۔

أَشَارَ - العَسَلُ وِالدَّابَّةُ: بمعنی شَارَهُمَا

النَّارُ وِبِالنَّارِ: آگ کو بلند کرنا۔ یہ

پہنچانا۔ أَسَارَ إِلَيْهِ وِأَسَارَ يَبِيْدُهُ: اشارہ کرنا۔ عَلَيْهِ: حکم رہنا۔ نصیحت کرنا۔ صحیح طریقہ

بتانا۔ فَلَانًا: عَسَلًا: شہد نکالنے میں مدد

رہنا۔

أَشُورُ إِشْوَارًا - النَّارُ وِبِالنَّارِ: آگ کو بلند

کرنا۔

شَاوَرَةٌ فِي الْأَمْرِ: مشورہ طلب کرنا۔

إِشْتَارَ إِشْتِيَارًا - العَسَلُ: شہد نکالنا۔

إِشْتَارَتِ الْإِبِلُ: اونٹ کا کچھ موٹا ہونا۔

تَشَوَّرَ - شرمندہ ہونا۔

تَشَاوَرُوا وِاشْتَوَرُوا - الْقَوْمُ: باہم مشورہ کرنا۔

إِسْتَشَارَ - عَمَدَ لِبَاسٍ يَبْنَاهُ - العَسَلُ: شہد نکالنا۔

إِسْتَشَارَتِ الْإِبِلُ: موٹا خوبصورت ہونا۔

إِسْتَشَارَ الْأَمْرُ: واضح و روشن ہونا۔

ہ: مشورہ طلب کرنا۔

الشُّورُ - مہ۔ شہد جو چھتے سے نکالا جائے۔

الشَّارَةُ وِالشُّورَةُ وِالشُّورَةُ وِالشُّوَارُ وِالشُّوَارُ وِالشُّوَارُ وِالشُّوَارُ - حسن و جمال۔

بیت۔ منظر۔ لباس و زینت۔ گھڑ کا عمدہ سامان۔ کہا جاتا ہے "رَبِيعُ شُورٍ" نرم ہوا۔ و "خَيْلٌ شِيَارٌ" خوبصورت موٹے گھوڑے۔

الشُّورَةُ: شہد کا چھتہ۔

الشُّوَارُ - اندام ننانی۔

الشُّورَةُ - شار کا اسم مرقہ۔ شرمندگی۔

الشُّورِي - ایک قسم کی دریائی گھاس۔

الشُّورِي - اسم ہے "تَشَاوَرُوا" کا یا أَسَارَ عَلَيْهِ - کا مجلس شُورِي: کونسل و "تَوَكَّلْ عَمْرُ الخِلاَفَةُ شُورِي" کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے مسئلہ خلافت کو باہم مشورہ کے لیے چھوڑ دیا۔

الشُّوِيرُ - خوبصورت۔ جس سے مشورہ کیا جائے۔ وزیر۔ جن شُورَاءُ -

المَشَارُ - شہد کا چھتہ۔

المَشَارَةُ - قابل کاشت زمین کا ٹکڑا۔ جن مَشَاوِرُ وِمَشَاوِرُ -

المَشُورُ - مہ۔ آراستہ۔ مزین۔

الجَمَلُ بِالْقَطْرَانِ : اونٹ پر قطران ملنا۔
شَيْفَتُ الْجَارِيَةِ : بناؤ سنگھار کیا جانا۔
شَوْفُ الْجَارِيَةِ : لڑکی کا بناؤ سنگھار کرنا۔
مزین کرنا۔ آراستہ کرنا۔

أَشَافٌ إِشَافَةٌ عَلَيْهِ : اوپر سے جھانکنا
وَمَنْهُ : خوف کھانا۔ الشَّيْءُ : بلند ہونا۔
تَشَوَّفُ تَشَوُّفًا : مزین ہونا۔ مِنْ
السَّطْحِ : دیکھنا۔ اوپر سے جھانکنا۔ إِلَى
الشَّيْءِ : جھانکنا۔ الشَّيْءُ : بلند ہونا۔

إِشْتَأَفَ إِشْتِئَافًا : إِلَيْهِ : گردن اٹھانے
دیکھنا۔ النَّبِيُّ : بچل کو بائیس بارش دیکھنا۔
وَإِشْتَأَفَ الْجُنْحُ : زخم سخت ہونا۔
الشَّوْفُ : مہ۔ بیگا۔

الشَّيْفَاءُ : آنکھ میں استعمال کرنے کی دوا کی
تی۔

الشَّيْفَةُ وَالشَّيْفَانُ : دیدبان۔ دشمن کی
حرکت کی دیکھ بھال کرنے والا۔

الشَّوْفُ مِنَ الرِّجَالِ : تیز نظروالا۔
المَشْوُوفُ : سف۔ آراستہ کیا ہوا۔ مِنْ
الجَمَالِ : قطران ملا ہوا اونٹ۔

شَاقِبِي يَشْوُقُنِي شَوْقًا وَتَشْوَأَقًا :
الحُبُّ إِلَيْهِ : شوق دلانا۔ صفت مفعولی
(مَشْوُوقٌ) و صفت فاعلی (شَاقِقٌ) شَاقٌ
الْقُرْبَى : تنگ کو دیوار سے تنگ لگا کر کھڑا کرنا۔
صفت مفعولی (مَشْوُوقَةٌ) : الطَّلَبُ إِلَى
الْوَتْدِ : خیمہ کی رسیوں کو کھونٹے میں باندھنا۔
أَشَافَةٌ أَشَافَةٌ : شائقینا۔

شَوْقُهُ إِلَيْهِ : شوق کرنے پر برا بھلا کہنا۔
تَشَوَّقُ الشَّيْءَ وَاللَّيْلَةَ : بہت شوق ظاہر کرنا۔
إِشْتَأَقُهُ : وَاشْتَأَقَ إِلَيْهِ : بہت خواہش کرنا۔
الشَّوْقُ : مہ۔ سخت خواہش۔ جِ الشَّوْقِ :
الشَّيْقَاقُ وَالشَّيْقُ : وہ چیز جس سے کسی چیز کو
بھینچ کر دوسری چیز میں باندھیں جیسے خیمہ کی
طنابیں۔

الشَّيْقُ : آرزو مند۔
الرَّجُلُ (الْأَشْوَقُ) : لبا مرد۔ جِ شَوْقٍ :
الشَّوْقُ : عشاق۔
شَاكَةٌ يَشْوُكُهُ شَوْكًا : کانٹا جھانکا۔ شَاكَتُهُ

الرَّجُلُ : ڈاڑھ یا پیٹ کے درد والا ہونا۔
الجَيْنِيُّ : جنین کا ماں کے پیٹ میں حرکت کرنا
بِهِ الْعَزْقُ : رگ کا حرکت کرنا۔ فَلَانٌ
بِفَلَانٍ : کسی کا کسی پر شرکو برا بھلا کہنا۔

شَوَّصَتْ (س) شَوَّصًا : عَيْشُهُ : اتنی موٹی
ہونا جس سے دونوں بلیں نہ مل سکیں۔ بہت
بھڑکنے والی بلیوں والی ہونا۔ جس کو یہ کیفیت لاحق
ہو اس کو (أَشْوُوصٌ) کہتے ہیں اور آنکھ کی صفت
(شَوَّصَاءُ) جِ شَوَّصٌ۔

شَوَّصٌ تَشَوَّصًا وَأَشَاصٌ إِشَاصَةً
الرَّجُلُ : بسواک کرنا۔

الشَّوَّصَةُ : رگ کی حرکت۔ پیلیوں کے پردہ کا
ورم۔ بہت کاریاچی درد۔
الشَّيْصَاءُ : بد خلق۔

شَاطِطٌ يَشْوُطُ شَوْطًا : بِهِ الْعَضْبُ : بھڑکانا۔
شَوْطٌ : لبا سفر کرنا۔ الْقِدْرُ : ہانڈی کا
جوش دینا۔ اللَّحْمُ : گوشت پکانا۔

الصَّقِيعُ النَّبَاتُ : پالے لگانا تاکہ جو لاریں۔
تَشَوَّطَ : الفَرْسُ : گھوڑے کو چلا کر تھکانا۔
الشَّوْطُ : غایت۔ پکر۔ غایت تک ایک مرتبہ
دوڑ۔ کہا جاتا ہے ”جَزَى الْفَرَسُ شَوْطًا“
گھوڑے نے ایک پکر لگایا۔ جِ الشَّوْطِ۔

شَاطِطٌ يَشْوُطُ شَوْطًا : بِفَلَانٍ : گالی دینا
بِهِ الْعَضْبُ : غصہ بھڑکانا۔

تَشَاوَطَ : الْقَوْمُ : باہم گالی گلوچ کرنا۔
الشَّوْطُ وَالشَّوْطُ : بغیر دھوئیں کا شعلہ۔
آگ یا دھوپ کی گرمی۔ پیاس کی شدت۔ جِج و
پکار۔ گالی گلوچ۔

شَوْعٌ يَشْوَعُ شَوْعًا : الرَّأْسُ : پیرا گندہ اور
گرد آنکھ بالوں والا ہونا۔ الْفَرْسُ : ایک
رخسارے میں سفیدی والا ہونا۔ صفت (أَشْوَعٌ)
مؤنث شَوْعَاءُ۔ جِ شَوْعٌ۔
شَوْعٌ تَشْوِيعًا : الْقَوْمُ : جمع کرنا۔

الشَّوْعُ : بان کا درخت۔ واحد شَوْعَةٌ جِ
شَيْعَاعٍ۔

المَشْوَاعُ : تھور کی آگ ہلانے کی جِج۔ (اس کی
اصل مَشْيَاعٌ ہے۔)
شَافَةٌ يَشْوُفُهُ شَوْفًا : جھیل کرنا۔

المَشْوُورُ : شد نکلنے کا آلہ۔ جِ مَشَاوِرُ۔
المَشْيُورُ : فَا۔ فِي إِصْطِلَاحِ أَرْبَابِ
السياسة : کونسلر۔ المَشْيُورِيَّةُ : کونسلر کا
درجہ۔

المَشْيُورَةُ : انگشت سپاہ۔
المَشْوُورَةُ وَالْمَشْوُورَةُ : أَشَارٌ عَلَيْهِ :
اسم۔ مشورہ۔ نصیحت۔ جِ مَشْوُورَاتٌ۔

المَشْوُورُ : منظر۔ جانوروں کو دکھانے کی جگہ۔
شد نکلنے کا آلہ۔ دُصَّةٌ كِي مَكَانٍ كِي تَأْتِ جِ
مَشَاوِيرُ : کہا جاتا ہے ”أَخَذَتِ الْخَيْلُ
مَشَاوِرَهَا“ یعنی کھوڑے موٹے اور
خوبصورت ہوئے۔

المَشْوَارَةُ : شد نکلنے کی جگہ۔
شَوَّزَ : (شَيْزٌ بِهِ شَوَّزًا) عَلَى الْمَجْهُولِ :
فریفت ہونا۔

الأَشْوُورُ : مغرور۔ متکبر۔
المَشْوُورُ بے آرام۔

شَاشٌ يَشَاشُ وَشَوْشٌ يَشْوُشُ شَوْسًا
وَتَشَاوَسَ : غصہ یا تکبر کی بنا پر ترجیحی نظر سے
دیکھنا۔ دیکھنے کے لیے آنکھیں چھوٹی کرنا۔ لڑائی
میں بہت ڈلیر ہونا۔ صفت (أَشْوُوسٌ) مؤنث
شَوْسَاءُ۔ جِ شَوْسٌ : الشَّوْسُ : بے۔ اور کہا
جاتا ہے ”رُئِيَ فَلَانٌ يَحْطُوبُ شَوْسًا“
فلاں کے اوپر سخت مہمیتیں پڑیں۔

تَشَاوَسَ تَشَاوَسًا : بھتی شَوْسٌ۔ نخوت و
تکبر ظاہر کرنا۔
شَوْسٌ : الأَمْرُ : مخلوط کرنا۔ بے ترتیب کرنا۔
تَشَوَّشٌ : عَلَيْهِ الأَمْرُ : مخلوط ہونا۔ گڑبڑ
ہونا۔

تَشَاوَسَ : الْقَوْمُ : گڈ گڈ ہونا۔
الشَّوْشُ : اِخْتِلافٌ وَاضْطِرَابٌ۔
عِبَارَةٌ (مَشْوُوشَةٌ) تَرْكِبٌ يَأْتِي مِنَ الْفَاعِلِ
نادرست عبارت۔

الشَّوْشِيُّ : سارجنٹ۔ (جدید)
شَاصَةٌ يَشْوُصُهُ وَيَشَاصُهُ شَوْصًا : جگہ
سے ہلانا۔ ہاتھ سے ملنا۔ دھونا۔ شَاصٌ فَاهٌ
بِالسَّوَاكِ : منہ کو بسواک سے صاف کرنا
شَوْصًا وَشَوْصًا : بھڑکانا۔

الشیب: برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ۔
 الشایب - نا - سفید سروالا - مؤنث شائبة۔
 ج شیب - مانند کے طور پر "شیب شایب"
 کہا جاتا ہے مانند لیل لائل کے۔
 یوم (شبیان) اولہ برف بادل کا دن ()
 و شبیان ماہ دسمبر (چونکہ اس ماہ میں برف اولہ
 کی وجہ سے زمین سفید رہتی ہے)۔
 الشیبة اسم مرفوعہ شباب کا اسم - ایک پودہ ہے
 جس کا نام (افستین) ہے۔
 الشیخان - مذی وغیرہ کی جمعوں کی کلمہ۔
 شاح یشیح شیخا - علی حاجتہ:
 چونکہ رہنا - کوشش کرنا۔
 شیحہ - ذرانا - شیح خصمہ: تنگ
 نگاہوں سے دیکھنا۔
 اشاح اشاحة فی امرہ: کوشش کرنا۔
 چونکہ رہنا - محتاط رہنا - وجهہ و بوجہہ
 و اشاح عنه وجهہ: نفرت سے منہ پھیر لینا
 المکان: شیخ نامی گھاس آگاتا
 القوس بذنبہ: گھوڑے کا دم کو ڈھیل چھوڑ
 دینا۔
 شایح مشایحہ و شیاخا - جگ کرنا فی
 الأمر: کوشش کرنا۔
 الشیح - ایک قسم کی گھاس - واحد (شیخہ)
 من الرجال: کاموں میں کوشش کرنے
 والا - چونکہ رہنے والا۔
 الشیاح - ہم - کوشش - احتیاط - قلم۔
 الشیحان والشیحان والمشیح - لبا۔
 غیرت مند - محتاط۔
 شاح یشیح شیخا و شیوخہ
 و شیوخہ و شیوخیہ و شیوخیہ
 و شیوخیہ و شیوخیہ: بوڑھا ہونا۔
 شیخ - بوڑھا ہونا - ہ: تعظیم کیلئے شیخ
 کہہ کے پکارا - علیہ: عیب لگانا - طعن و
 تشنیع کرنا - بہ: رسوا کرنا۔
 تشیح - بوڑھا ہونا۔
 الشیح - بڑھا - ج شیوخ و شیوخ
 و أشیخ و شیخہ و شیخہ و شیخان -
 و مشیخہ و مشیخہ و ج مشایخ

جسم کے اطراف - وہ اعضاء جن پر زخم لگنے سے
 قتل واقع نہ ہو (الشؤاة) کھوپڑی کا چڑا۔
 الشؤاء و الشؤاء - بھنا ہوا گوشت وغیرہ
 و الشؤاة و الشؤاة و الشؤاة بجنے
 ہوئے گوشت وغیرہ کا ایک کلمہ۔
 الشؤاء - گوشت بھوننے والا۔
 الشؤایة و الشؤایة و الشؤایة و الشؤایة
 من المال: روزی مال - ہلاک شدہ قوم یا مال کا
 بقیہ - ج شؤاینا سغفة (شؤایة) درخت خرما کی
 خشک شاخ۔
 الشوی - بھنا ہوا گوشت۔
 المشؤاة - گوشت بھوننے کا آلہ - ج مشؤا۔
 شاء و یشاء و یشاء و یشاء و یشاء
 و مشائیة - چاہنا - صفت ناقص (شای) اور صفت
 مفعول (مشئی) - اللہ الشئی: مقدر کرنا۔
 تعجب کے موقع پر "ما شاء اللہ" کہا جاتا ہے۔
 شیاة - علی الأمر: براگینتہ کرنا - شیا اللہ
 و جہہ: چہرہ کا شکل بنانا۔
 انشاء الیہ انشاء - مجبور کرنا۔
 تشیاً تشیواً - غصہ ٹھنڈا ہونا۔
 الشئی - ہم - چیز جس کے ساتھ علم و خبر کا تعلق
 ہو سکے - ج اشیاء ج اشیاء و اشیاء و اشیاء
 و اشیاء و اشیاء - اور تصغیر شئی و شئی
 اور اشیاء کا کلمہ غیر مصرف ہے۔
 الشیئة - شاء کا اسم () و المشیئة
 ارادہ۔
 المشیأ - بد شکل - ناہموار صورت والا۔
 شاب یشیب شیباً و شیباً و مشیبا۔
 سفید بالوں والا ہونا - بوڑھا ہونا - صفت مذکر
 (أشیب و شایب) صفت مؤنث (شائبة))
 مؤنث کی صفت میں شیباء نہیں بلکہ شیطاء
 آتا ہے) کہا جاتا ہے (شابت زؤوس الأحام"
 ٹیلوں کی چوٹیاں برف سے سفید ہو گئیں۔
 أشاب - الزجل: بوڑھی اولاد والا ہونا۔
 أشاب و شیب - الحزن فلاناً و یفلان:
 غم کا بوڑھا کرنا۔
 الأشیب - سفید سروالا - من الأيام:
 برف و بادل والا دن - ج شیب و شیب

کی لمبائی و لمبائی - سر بلند کرنا۔
 الشؤة - دوری - بد شکل۔
 الشاہ - بادشاہ نسبت کیلئے (شاهی و شاهی)
 الشاہ - حد کرنے والا - ج شؤہ۔
 شاہ بنڈر - سودا گروں کا رئیس۔
 شاہ بلوط - شاہ بلوط کا درخت۔
 زجل (شاه البصر و شایہ و شایہ):
 تیز نظر والا۔
 الشاة - بکری - بکرا - جنگلی گائے - ج شاء
 و شیاہ و شواہ و أشواہ و شیه و شیه
 و شوی اور شاة کی تصغیر شویہ و شویہ ج
 شویہات اور نسبت کے لیے شوی جیسے
 سماء سے سماوی۔
 الشاهی - بکری والا۔
 الاشؤہ - بد شکل - جلدی نظر برد گائے والا۔
 حکیر - مؤنث شؤہاء - ج شؤة الشؤہاء:
 ترش رو عورت - بد شکل عورت - خوبصورت
 عورت (مخد) مخوس عورت - فرس شؤہاء -
 تیز نگاہ والا گھوڑا - آرض (مشاہة) بہت بکریوں
 والی زمین۔
 المشؤہ - بد شکل: ناہموار شکل و صورت
 والا۔
 شوی یشوی شیا - اللحم: گوشت کو
 آگ میں بھونا - صفت مفعول (مشوی)
 الماء: پانی گرم کرنا۔
 شوی و آشوی - القوم: بھنا ہوا گوشت
 کھانا - الزجل: جسم کے ایسے حصہ پر
 زخم لگانا جس سے قتل واقع نہ ہو - آشوی
 السهم: تیر کا نشانہ سے چوک جانا - آشوی
 الزرع: بھوننے کے قابل ہونا -
 الزجل: رات کے کھانے سے کچھ چھوڑنا۔
 گھٹیا مال جمع کرنا - آشوی السعف: درخت
 خرما کی شاخ کا خشک ہو کر زرد پڑنا - اور اسی سے
 ہے "ما أعیاه و ما آشواہ" وہ کس قدر کمزور
 ہے۔
 إنشوی إنشؤاء و إنشوی إنشؤاء -
 بھن جانا - إنشوی الزجل: بھونا۔
 الشوی - گھٹیا مال - آسان معاملہ - ہاتھ پیر

ہے "شَاعَكُمْ السَّلَامُ وَشَاعَكُمْ اللَّهُ بِالسَّلَامِ" یعنی سلامتی تمہارے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ سلامتی کو تمہارے ساتھ کریں۔

أَشَاعَ إِشَاعَةً: الخَبِيرُ وَبِالْخَبِيرِ: بھیلانا اور کہا جاتا ہے "أَشَاعَكُمْ اللَّهُ السَّلَامُ وَبِالسَّلَامِ" اللہ تعالیٰ سلامتی کو تمہارے ساتھ کریں۔ أَشَاعَ بِالْإِبِلِ: چبھے رہے ہوئے اونٹ کو بلانا۔

شَيْعَةٌ: رخصت کرنے یا مکان تک پہنچانے کیلئے ہمراہ جانا۔ شَيْعَ شَهْرًا مَضَانًا: شش عید کے روزے رکھنا۔ الزَّجَلُ: جرات دلانا۔ قوی کرنا۔ النَّارُ: آگ تیز کرنے کے لیے کھڑا کرنا۔ الشَّيْءُ بِالنَّارِ: جلانا۔ الرَّجُلُ: شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ الشَّيْءُ: کسی چیز کو بھیجنا اور اس کے چبھے جانا۔ شَائِعَةٌ: کام کے لیے کسی کے ہمراہ جانا۔ شَائِعَ بِهِمُ الدَّلِيلُ: رہنما کا لوگوں کو پکارنا۔ بِالْإِبِلِ: پکارنا "آواز دینا۔ تَشَيْعَ: شیعہ ہونے کا دعویٰ کرنا۔ اللَّبَنُ فِي الْمَاءِ: بکھرا۔ الْعَضْبُ: دل میں غم بھرا۔ فَلَانٌ فِي الشَّيْءِ: کسی چیز کی محبت میں ہلاک ہونا۔ الشَّيْبُ: بڑھاپا نمایاں ہونا۔ تَشَائِعَ تَشَائِعًا: الْقَوْمُ: مختلف گروہ ہونا۔ تَشَائِعُوا عَلَى الْأَمْرِ: باہم موافق ہونا۔ تَشَائِعُوا فِي الدَّارِ: شریک ہونا۔ تَشَائِعَتِ الْإِبِلُ: متفرق ہونا۔ إِشَاعًا إِشَاعًا: فِي الدَّارِ: شریک ہونا۔ الشَّيْعُ: مہ۔ مہدار۔ مہل۔ جِ أَشَاعَ: کہا جاتا ہے "هَذَا شَيْعٌ ذَاكٌ" یہ اس کے مہل ہے اور اسی سے ہے "كَمَا فَعَلَ بِأَشْيَاعِهِمْ" یعنی جیسا ان کے امثال کے ساتھ کیا گیا۔ وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ شَهْرًا أَوْ شَيْعَ شَهْرٍ: میں نے اس کے پاس ایک مہینہ یا ایک مہینہ کے بقدر اقامت کی۔ وَ"كَانَ مَعَهُ مِائَةٌ رَجُلٌ أَوْ شَيْعٌ ذَلِكَ" اس کے ساتھ سو آدمی یا اسی کے بقدر تھے۔ وَ"تَرَوْهُمُ مَوْضِعَ كَذَا أَوْ شَيْعَهُ" وہ لوگ فلاں مقام میں یا اس کے قریب

(شَيْعَاءَةٌ) الْمَشَائِصَةُ: ایک دوسرے سے جدائی۔ منافرت۔

شَاطَ يَشِيظُ شَيْظًا وَشَيْطَانَةً وَشَيْطَوَظَةً: الشَّيْءُ: جانا۔ شَاطَبَ الْقَدْرُ: ہانڈی کی تلی میں جلی ہوئی چیز کا لگنا۔ شَاطَبَ الزَّيْتُ: زیتون کے تیل کا گاڑھا ہونا۔ شَاطَبَتِ الدَّيْبِيحَةُ: ذبیحہ کا گوشت تقسیم ہو کر ختم ہو جانا۔ فَلَانٌ: ہلاک ہونا۔ فِي الْأَمْرِ: جلدی کرنا۔ دَمَهُ: بیکار جانا۔ فَلَانٌ الدِّمَاءُ: ملنا۔ یعنی قاتل کو مقتول کے خون پر قتل کرنا۔

شَيْطَ وَأَشَاطَ: الْأَصْفِيغُ النَّبْتُ أَوِ الدَّوَاءُ الْحَرْحُ: جانا۔ الرَّاسُ أَوْ الْكُرَاعُ: سری یا پائے کے بالوں کو جلانے کے لیے جھلنا۔ الْقَدْرُ: ہانڈی کو جوش دینا۔ أَشَاطَ فَلَانًا: ہلاک کرنا۔ أَشَاطَ اللَّحْمَ عَلَى الْقَوْمِ: گوشت تقسیم کرنا۔ أَشَاطَ السُّلْطَانَ دَمَهُ وَبَدَمَهُ: قتل کرنے کے لیے سامنے لانا۔ تَشَيْظَ: جانا۔ کثرت جماع کی وجہ سے لاغر و کمزور ہونا۔ إِشْطَاطَ إِشْطَاطًا: عَلَيْهِ: غم سے بھڑک اٹھنا۔ الْحَمَامُ: کبوتر کا خوش ہو کر اڑنا۔ مِنَ الْأَمْرِ: ہلکا ہونا۔ فِي الْحَزْبِ: اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا۔ الشَّيَاطُ: روٹی اُون وغیرہ کے جلنے کی بو۔ التَّشْيِيطُ وَالمُشْيِيطُ: گوشت جو قوم کے لیے بھونا جائے۔ الشَّطِطِي: غبار جو فضا میں بلند ہو۔ المُسْتَشْيِيطُ: بست پھینے والا۔ مَوَاوِثُ: شَيْطَانٌ وَشَيْطَانٌ: (دیکھو بارہ شطن) شَاعَ يَشِيْعُ شَيْعًا: بِالْخَبِيرِ: خبر کو بھیلانا۔ الْإِنَاءُ: برتن کو بھرنا۔ شَاعَ يَشِيْعُ شَيْعًا وَشَيْوَعًا وَمَشَاعًا وَشَيْعَانًا وَشَيْعُوَعًا: الخَبِيرُ: بھیلانا۔ فِيهِ الشَّيْبُ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔ شَاعَهُ شَيْعًا: چبھے جانا۔ ہمراہ جانا اور اسی سے

وَأَشَائِيخَ مَوْتِ شَيْخَةٍ أَوْ شَيْخٍ كِي تَصْفِيرِ شَيْخٍ وَشَيْخٍ: شَيْخُ الْمَرْأَةِ: شوہر اور شَيْخُ كَالِاطْلَاقِ: استاد۔ عالم۔ سردار قوم اور ہر اس شخص پر ہے جو لوگوں کے نزدیک علم و فضیلت و مرتبہ کے لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ شَيْخُ النَّارِ: ایلیس سے کہنا ہے۔ الشَّيْخُونُ: بڑھا۔ شَادَ يَشِيْدُ شَيْدًا وَشَيْدًا: الْبِنَاءُ: عمارت کو بلند کرنا۔ الْحَائِظُ: دیوار پر گچ کرنا۔ جِلْدُهُ بِالطَّيْبِ: جسم پر خوشبو ملنا۔ شَادَ الرَّجُلُ: ہلاک ہونا (شَادَ الْإِبِلَ شَيْدًا) اونٹوں کو بلانا۔ أَشَادَةُ إِشَادَةٌ: ہلاک کرنا۔ أَشَادَ بَدْمَهُ: تعریف کر کے مشہور کرنا۔ أَشَادَ عَلَيْهِ فَيْحًا وَبِقَيْحٍ: بدنام کر کے مشہور کرنا۔ أَشَادَ عَلَيْهِ: کسی کے متعلق بڑی مشہور کرنا۔ الْمُغْتَنَى: گانے میں آواز بلند کرنا۔ أَشَادَ صَوْتَهُ وَبِصَوْتِهِ: برے طریقے سے آواز بلند کرنا۔ أَشَادَ الصَّلَاةَ: تم شدہ چیز کی تعریف کرنا۔ الْبِنْيَانُ: بسا کرنا۔ الشَّيْدُ: گچ وغیرہ کا پلستر۔ الْمَشْيِدُ: مہم۔ پلستر کیا ہوا () وَالْمَشْيِدُ بَلَدٌ كَمَا بُوِيَ وَالشَّيَارُ: یوم شنبہ۔ جِ أَشْهُرٌ وَشَيْرٌ وَشَيْرٌ: شَيْزَةُ: البُرْدُ: برقی سے چھاری بنانا۔ الشَّيْزُ وَالشَّيْزِيُّ: آہوس کی نکلنی یا بست سیاہ رنگ کی مضبوط نکلنی۔ أَشَاشَتْ: التَّخْلَةُ: نرم سمٹھلی کی کھجور والا ہونا۔ الشَّيْشُ: نرم سمٹھلی کی کھجور۔ وَالشَّيْشُ عِنْدَ الْعَامَةِ: گوشت بھوننے کی لوہے کی تاج۔ فَصِحَ لِقَدْ سَفُوْدَ: شَيْصَ: الْقَوْمُ: رنج و تکلیف پہنچانا۔ عَذَابٌ رَجَا: شَيْصَتِ التَّخْلَةُ: ردی کھجور والا ہونا۔ الشَّيْصُ: ایک قسم کی ردی کھجور۔ ایک قسم کی مچھلی (شَيْصَةٌ)۔ الشَّيْصُ: بد خلتی۔ الشَّيْصَاءُ: نرم سمٹھلی کی کھجور۔ واحد

آترے۔ "آہیک غذا و شیفہ" میں تمہارے پاس کل یا اس کے بعد آؤں گا۔
الشاعة۔ بیوی۔ بیکلی ہوئی خبریں اور یہ شائع کی جے ہے۔

شيعة۔ الزجل: بجز مدگار۔ ج شيع و أشيع و الشيعۃ: فرقہ (واحد شیعہ مع ذکر مؤنث سب کیلئے مستعمل ہے) اس لفظ کا غلبہ استعمال ان لوگوں کیلئے ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طرفدار ہیں۔ واحد (شيعی)

الشيع۔ حصہ دار۔ شریک۔ کہا جاتا ہے "هَذَا شَيْعٌ لِهَذَا" یہ اس کا حصہ دار ہے۔ ج شيعاء۔ مؤنث شيعۃ۔ کہا جاتا ہے "الذَّارُ شَيْعَةٌ يَبْتَهِمًا" گھر ان دونوں کے درمیان مشترک ہے۔

الشيعاع۔ آگ سلگانے کی چیز۔ چرواہے کی بانسری یا اس کی آواز۔
الشيعع۔ آگ سلگانے کی چیز۔

الشائع۔ تا۔ حدیث شائع و شاع بحذف عين: بیکلی ہوئی بات۔ سہم شائع و شاع: مشترک غیر منقسم حصہ۔

المشاع و المشاع۔ پھیلا ہوا۔ مشترک غیر منقسم اور اسی سے ہے "مشاع القرى" وہ جزیں جس میں آبادی کے سب لوگ شامل ہوں۔

المشيع۔ بھرا ہوا برتن۔ کینگی سے بھرا ہوا کینور۔

المشيعۃ۔ ٹوکی جس میں عورتیں روٹی

رکھتی ہیں۔

المشيع۔ سف۔ ہمارے۔ جلد باز۔

المشيعاع۔ خورکی آگ بلانے کی سیخ۔ زجل و شيعاع: راز کو پھیلانے والا امر۔

المشيعاع و المشيعاع۔ شریک۔

شاهه يشيقه شيفاً: اليه: کھینچ کر باندھنا۔ کہا جاتا ہے "شاق الظناب إلى الوقت" اس نے طنابوں کو کھینچ کھینچ کر رخ سے باندھا۔

الشيقي۔ پہاڑ کی چوٹی اور بقول بعض پہاڑ کی دشوار جگہ۔ جانب پہاڑ کی ٹھگ درز۔ جانور کی دم کے بال۔ الشيقى: ایک سمندری مچھلی۔ واحد (شيفقة)

الشيال۔ قلی۔ بوجھ اٹھانے والا۔ و (الشيالة) بوجھ اٹھانے کا پیشہ۔

شام يشيم شيعاً۔ بدن میں تل والا ہونا۔

صفت (أشيم) مؤنث شيعاء۔ ج شيم و شوم۔

السييف: کوار کو میان میں کرنا۔ میان سے سوتنا۔ (ضد) التزق: بجلی کے چپکنے اور برسنے کی

سست کو دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "شام مخايل الشئ" یعنی اس نے فلاں چیز کی طرف انتظار کرتے ہوئے نگاہ اٹھائی (شيمًا و شيمًا) الزجل: جم کے حملہ کرنا۔

فی الشئ: داخل ہونا۔ الشئ فی الشئ: چھپانا۔ الشئ: تخمینہ و اندازہ کرنا۔ کہا جاتا ہے "شيم ما يبتهمًا" ان دونوں کے درمیان اندازہ کرو۔

شيم و أشام و أشام و أشام۔ فی الشئ أو الأمر: داخل ہونا۔ شيم يديه فی رأس فلان أو

نؤبه: لڑائی کرنے کے لیے سرپا کپڑے کو پکڑنا۔ إنشام الرجل: منظور نظر ہونا۔

تشيم: آباء: خصلت میں باپ کے مشابہ ہونا۔ الشئ فی الشئ: داخل ہونا۔

الشيت فلاناً: بڑھاپا غالب ہونا۔ الشاعة۔ تل۔ زمین میں سیاہ نشان۔ چاند کا

داغ۔ کالی اونٹنی۔ ج شام و شاعات۔ کہا جاتا ہے "سازوا شامهاہی البلاد" وہ لوگ شہروں میں متفرق ہو گئے۔ جس طرح تل بدن پر متفرق ہوتے ہیں۔

الشيمۃ و الشيمۃ۔ عارت۔ طبیعت۔ ج شيم۔

الشيم۔ ہر وہ زمین جو اب تک کھدی نہ ہو اور اپنی تختی پر پائی ہو۔

الشيام۔ نرم زمین۔ مٹی۔

الشيام۔ مٹی۔ چوہ۔ ج شيم۔


المشيم و المشوم و المشيموم۔ تل والا۔ المشيمۃ۔ پتے کی جھلی جس میں پتے پیدائش کے وقت پڑتا ہوا ہوتا ہے۔ ج مشيم و مشائم۔

شاهه يشيقه شيفاً۔ عیب لگانا۔ شين حرف "ش" لگتا۔

المشايين۔ عیوب۔ شاهه يشيقه شيفاً۔ نظرد لگانا۔

الشيوہ۔ نظرد لگانے والا۔ کہا جاتا ہے "هو شيوہ من أشيه الناس" وہ بہت نظرد لگانے والا ہے۔

الشية (دیکھو وی) الشای۔ جائے۔



صَبَبَ (س) صَبَابًا: مِنَ الشَّرَابِ: شَرَابٌ
سے میر ہونا۔ بھر جانا۔ صَبَبَ وَأَصَابَ الزَّوَالِ:
سر میں جوں ہو نایا زیادہ جوں ہوتا۔

الصُّوَابَةُ: جوں کے انڈے۔ جِ صُؤَابٍ
صَيْبَانِ: الصَّيْبَانِ: چھوٹے چھوٹے موتی کے
مانداو لے۔

الصُّوَابَةُ: غَلَّةٌ كَالْمِيرِ:
المِصْنَابِ: شَرَابٌ سَمِعُوا:

صَأَصَأَ: الجَزْوُ: پلے کا آگے کھولنے کے
قَرِيبٌ هُوَا: الزَّجَلُ: مرد کا بزدل ہونا
مِنَ فُلَانٍ: ذُرَابٌ: تَصَأَصَأَ مِنْهُ:
خوف کرنا۔ تلخ ہونا۔

الصَّبْنُصَا: رَدِي كَجُورِيں۔
صَبْنَةُ: الدِّهْنُ: سرخ کی ٹانگ کا تار۔

صَبِكُ (س) صَبَكًا: پدروار پھیند لگانا
الذَّمُ: خُونٌ جَمَانًا: بہ چپکانا۔

صَاءٌ كَمَا مَضَاءٌ كَمَا: تَخَلَّى كَرَاهًا:
الصَّبِيكُ: مِنَ الرِّجَالِ: مضبوط آدمی۔

صَبُولٌ (ك) يَصْبُولُ صَالَةً: التَّبَعِيرُ: اونٹ
کا آدمیوں پر دوڑنا اور مار ڈالنا۔ صَفْتٌ صَبِيلٌ
وَصَبُولٌ:

صَأَنٌ يَصْبِلُ صَبِيلًا: الفَرَسُ: گھوڑے کا
ہنہانا۔

صَامٌ يَصَامُ صَامًا: الجَيْشُ عَلَى الْقَوْمِ:
الغزیر کی رہنمائی کرنا۔

صَبَبَ يَصْبِتُ صَبَابًا: بَسْتُ بَانِيًا:
الصَّالِمِ: بیاسا۔

صَأَى يَصْأَى صَبِيثًا صَبِيثًا
صَبِيثًا قِصَاةً: الفَرُخُ: پرندہ کے بچے کا چوں
چوں کرنا۔ کچھو کا آواز کرنا۔ اسی سے ضرب النمل

ہے "يَلْدَغُ وَيَصْأَى" یعنی ظلم کرتا ہے اور شور
چاٹتا ہے۔ کہا جاتا ہے "جَاءَ بِمَا صَأَى وَصَمَّتْ"
یعنی مال ناقص اور مال صامت لایا۔

أَصْحَى: چوں چوں کرنا۔
صَبَّ (ن) صَبًّا: المَاءُ: پانی اُٹھلانا

فِي الْوَادِي: وادی میں اترنا۔ الدُّوْعُ:
زورہ پہننا۔ صَبَبْتُ الدُّوْعَ عَلَى فُلَانٍ: میں نے

فُلَانٍ كُو زورہ پہنائی۔ کہا جاتا ہے "صَبَّ عَلَيْهِ
الْبَلَاءُ مِنْ صَبَبٍ": اس نے اس پر اوپر سے

صَبَبْتُ ذُلًا: صَبَّ اللَّهُ عَلَيْهِ صَاعِقَةً: اللّٰهُ اس
کے اوپر نکل ڈالے۔

صَبَّ رَجُلًا فِي الْقَيْدِ: یعنی بیزی پہنادی۔
صَبَّ (ض) صَبًّا: المَاءُ: پانی گرنے۔

صَبَّ الشَّقِيُّ: مٹایا جانا۔ مٹو کیا جانا۔
صَبَّ (س) صَبَابَةً: اللّٰهُ: عاشق ہونا۔

أَصَبَّ إِصْبَابًا: الْقَوْمُ: قوم کا بچے اترنا۔
إِصْبَبَ: المَاءُ: پانی گرنے۔ عَلَيْهِ: اترنا۔

کہا جاتا ہے "إِصْبَبْتُ قَدَمَاهُ فِي الْوَادِي" اس
کے قدم وادی میں جم گئے۔

إِصْطَبَّ: المَاءُ: پانی گرنے۔
إِصْطَبَّ وَتَصَابَ: المَاءُ: بچا ہوا پانی پینا۔

إِصْطَبَّ وَتَصَابَ: العَيْشُ: بقیہ زندگی
گزارنا۔

تَصَبَّبَ: المَاءُ وَنَحْوُهُ: پانی بہنا۔
الصَّبُّ: عاشق۔ جِ: صَبُونٌ: مؤنث صَبَّةٌ جِ

صَبَاتٌ: مَاءٌ صَبٌّ: پانی بہا ہوا۔
الصَّبُّ وَالصَّبَّةُ: گرایا ہوا (کہانا وغیرہ)

الصَّبَّةُ: آدمیوں کی جماعت۔ گھوڑے 'اونٹ'
بکریوں کا گلہ۔ تھوڑا مال۔ برتن میں پانی یا دودھ کا
بقیہ۔ شوریہ۔ رات کا کچھ حصہ۔

الصَّبَبُ: نَسِيبٌ: جِ: أَصْبَابٌ:

الصَّبَابَةُ: برتن میں بچا ہوا پانی۔ جِ: صَبَابَاتٌ:
کہا جاتا ہے "لَمْ أَذْرِكْ مِنَ العَيْشِ إِلَّا صَبَابَةً"

میں نے زندگی سے صرف تھوڑا سا حاصل کیا۔
الصَّبَابَةُ: عَشَقٌ: سوزش عشق۔

الصَّبِيبُ: زور و رنگ۔ اولد۔ عمدہ شہ۔ پھیند۔
خون۔ عندم کا نمونہ۔ ایک قسم کا سرخ رنگ۔ گرائی

ہوئی چیز۔ تلواری کی دھار۔ کہا جاتا ہے "وَصَفَّتْ
صَبِيبَ السِّنْفِ لِي بَطْنِيَه" یعنی تلواری کی دھار

کو اس کے پیٹ پر رکھا۔
المِصْبُ: گرنے کی جگہ۔ جِ: مِصْبَابٌ:

المِصْبُ: حروف و حائلے کا سانچہ۔
المِصْبُوبُ: گرایا ہوا۔ المِصْبُوبُ عَلَى

الشَّقِي: کسی چیز پر برا لگنے لگنا۔
صَبَا (ف) صَبْوًا (ك) صَبَاً وَصَبْوَةً: ا۔

مذہب تبدیل کرنا۔ صاحبین کا دین اختیار کرنا۔
صفت صابی۔ عَلَيْهِمُ: اہماک پہنچ جانا

العُدُو عَلَيْهِمُ: دشمن کی رہنمائی کرنا)
وَأَصْبَأَ إِصْبَاءً: القَاتِبُ: او

التَّبَاتُ: اونٹ لگانا۔ تاباتاتُ أُنَاوَأَصْبَأَ الْقَوْمِ:
قوم پر اہماک پہنچ جانا۔

الصَّابِقُونَ وَالصَّابِقَةُ: ایک قوم جو ستاروں
کی پرستش کرتی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوح

عظیم کے دین کے جوڑے اور کہا گیا ہے کہ ان
کے علاوہ ہیں۔

الصَّبَاوَاتُ وَالصَّبَاوَاتُ: جمع صَبِيٌّ: مہرانی
کا لفظ ہے جس کے معنی خوبصورتی اور شرافت

کے ہیں اور اسی سے ہے "زَبَّ الصَّبَاوَاتُ"
یعنی شرافت والا۔
صَبِحَ (ف) صَبَاخًا: الْقَوْمُ: صبح کے وقت

آنا _____ عن الحق: جن ظاہر کرنا۔
 صبح (س) صَبَحَ وَصَبَحًا صَبْحَةً: چمکدار روشن
 ہونا _____ الشُّعْرُ: بال کا چمکدار ہونا _____
 الحديد: لوہے کا چمکدار ہونا۔
 صَبْحٌ (ک) صَبْحًا: الوَجْهَ: چہرے کا
 روشن و چمکدار ہونا _____ الغَلَامُ: لڑکے کا
 خوبصورت ہونا۔ مَفْتٌ صَبْحًا صَبِيحٌ:
 صَبِيحَةٌ: صبح کے وقت آنا۔ صبح کی شراب پلانا۔
 صَبْحُ الْقَوْمِ الْكَاثَةِ: قوم کو لے کر پلانا اور صبح کو
 پانی پر پھینکا _____ الرَّجُلُ: صبح کو سلام کرنا۔ کہا
 جاتا ہے "صَبَحَكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ"
 أَصْبَحَ: صبح میں داخل ہونا۔ آدمی رات میں
 بیدار ہونا _____ المِصْبَاحُ: چراغ جلاتا۔
 الحق: جن ظاہر ہونا۔
 أَصْبَحَ بِأَزْجَلٍ: اے شخص جو کنار ہو۔
 عرب جب کسی سے بدقالی لیا کرتے تھے تو کہا
 کرتے تھے صَبَحَ اللَّهُ لَأَصْبَاحُكَ۔
 تَصَبَّحَ: صبح کے وقت سونا۔ ناشتہ کرنا۔ تَصَبَّحَ
 پہ: صبح کے وقت ملنا۔
 تَصَابِيحٌ: بگلف خوبصورت بنا۔ کہا جاتا ہے
 "لَفَلَانٌ يَتَصَابِيحُ وَيَتَحَاسِنُ" فلاں بگلف
 خوبصورت و حسین بنتا ہے۔
 اصْطَبَحَ: چراغ روشن کرنا۔ کہا جاتا ہے
 "الشَّمْعُ مَثَابِصُطَبَحٌ" یہ "موم ان چیزوں میں
 سے ہے جن سے روشنی کی جاتی ہے۔ الرَّجُلُ:
 صبح کی شراب پینا۔
 اصْبِيحًا اصْبِيحًا: الشُّعْرُ: بال کا مالک
 برسرٹی ہونا۔
 اسْتَصْبَحَ الرَّجُلُ: چراغ جلاتا۔ روشن کرنا۔
 الصُّبْحُ: دن کا ابتدائی حصہ۔ جِ اصْبَاحًا:
 الصُّبْحَةُ: دم۔ ناشتہ۔ سیاہ رنگ۔ مالک برسرٹی)
 _____ وَ الصُّبْحَةُ: صبح کی نیند۔
 الصَّبَاحُ وَ الصُّبْحَةُ الْأَصْبُوخَةُ: دن کا
 ابتدائی حصہ۔ اور وہ شام کی ضد ہے۔ تم کہتے ہو
 "آتَيْتَهُ صَبَاحَ مَسَاءٍ" دونوں جزو کو ملنی کر کے
 اور "آتَيْتَهُ ذَا صَبَاحٍ" یعنی صبح کے وقت اور
 "عِجْمَ صَبَاحًا" یعنی گھماری زندگی صبح کے وقت
 اچھی ہو۔ "يَوْمَ الصَّبَاحِ": بوٹ کادن۔

الصَّبَاحُ: قَدِيلٌ كَالشُّعْلِ: غَلَامٌ صَبَاحٌ:
 خوبصورت لڑکا۔ مَوْنُثٌ صَبَاحَةٌ: صَبَاحٌ:
 الصُّبْحَانِيَّةُ: چوڑائی۔
 الصُّبْحَانِيَّةُ: بہت سرخ خون۔
 الْأَصْبِيحُ: شیر۔ بال جس میں خلقت سفیدی سرخی
 مائل ہو۔ سفیدی سرخی مائل بال والا۔ مَوْنُثٌ
 صَبْحًا: جِ صَبْحًا:
 الصُّبْحُ: جو چیز صبح کے وقت کھائی یا پی جائے۔
 دودھ جو صبح کو دودھا جائے۔ کہا جاتا ہے "آتَيْتَهُ
 ذَا صَبْحٍ" یعنی صبح کے وقت میں اس کے پاس
 آیا۔
 الصُّبْحُ: خوبصورت۔ جِ صَبْحًا: مَوْنُثٌ
 صَبْحًا: جِ صَبْحًا:
 الصُّبْحَانُ: خوبصورت۔ مَوْنُثٌ صَبْحِي: جِ
 صَبْحًا: وہ شخص جو صبح کی شراب پئے۔
 رَجُلٌ صَبْحَانٌ: جلدی صبح کی شراب پینے والا۔
 الصُّبْحَانِيَّةُ: خوبصورتی۔
 الثُّصْبُحُ: صبح کرنا۔ صبح کرنے کا وقت۔ صبح
 کرنے کا مقام۔
 المِصْبَاحُ: بواہیا۔ چراغ۔
 المِصْبَاحُ: چراغ جو چوڑے تیزہ۔ بواہیا۔ جس
 میں صبح کی شراب پی جائے۔ جِ مِصْبَاحِي:
 صَبْرٌ (ض) صَبْرًا: عَلَى الْأَمْرِ: دلیری کرنا۔
 بہادری کرنا۔ صَفْتٌ صَابِرٌ صَبْرٌ صَبْرٌ _____
 عَنِ الشَّيْءِ: رک جانا _____ الذَّاهِبَةُ: جالور کو بغیر
 چارہ کے باندھ رکھنا _____: مجبور کرنا اور لازم
 کر دینا _____ عَنِ الْأَمْرِ: روک دینا۔ بند کر دینا
 (کام سے) اسی سے ہے۔ صَبْرٌ نَفْسِي عَنِ كَذَا
 یعنی میں نے اپنے نفس کو فلاں چیز سے روک دیا۔
 وَ صَبْرٌ عَلَيَّ مَا أَكْرَهُ وَ صَبْرٌ عَمَّا حُبُّ:
 جس چیز کو میں کمروہ سمجھتا ہوں اس سے اپنے آپ
 کو روک دیا اور جس چیز کو محبوب سمجھتا ہوں اس
 سے صبر کیا۔ کہا جاتا ہے "قَتِلْ صَبْرًا" وہ قتل کیلئے
 بند کیا گیا۔ وَ حُلْفٌ صَبْرًا: تم کھانے کے لیے بند
 کیا گیا۔
 صَبْرٌ (ن) صَبْرًا وَ صَبْرًا: يَهْ: ضامن ہونا۔
 _____: ضامن دینا۔ کہا جاتا ہے اصْبُرْ لِنِ
 یعنی مجھ کو ضامن دو۔

صَبْرَةٌ: صبر دلانا۔ صبر کرنے کو کہنا _____
 المَيْتَةُ: مردہ کے پیٹ میں ایوانا ڈالنا تاکہ
 بدبودار نہ ہو۔ صَبْرُ الْكَأْسِ: پیالہ کو لبالب
 بھرنا۔
 أَصْبِرُ: اللَّيْنُ: کھٹے پن کا تلخی تک پہنچ جانا۔
 ایلوے کی مانند کڑوا ہونا۔ صبر دلانا _____
 الرَّجُلُ: امِ صبور یعنی معیبت میں پڑنا۔ شیشی
 کو کاک لگانا _____ القاضِي فَلَانًا: قاضی کا
 خصم سے بدلہ دلانا۔
 صَابِرَةٌ صَبَارًا وَ مِصَابِرَةٌ: صبر کرنے میں
 غالب رہنا۔
 تَصَبَّرَ: تکلف سے صبر ظاہر کرنا _____
 عَلَيْهِ: صبر کرنا۔
 اصْطَبَّرَ وَ اصْبَرَّ: عَلَيْهِ: صبر کرنا _____
 هِنَةً: بدلہ لینا۔
 اصْبَارًا وَ اصْبِرًا: عَلَيْهِ: صبر کرنا۔
 اسْتَصْبَرُ الشَّيْءُ: مونا ہونا۔ سخت ہونا۔ بہت
 ہونا۔
 الصُّبْرُ: بہادری۔ معیبت کی شکایت نہ کرنا۔
 شَهْرُ الصُّبْرِ: رمضان کا مہینہ۔ يَمِينُ الصُّبْرِ:
 وہ قسم جس کو کھانے کے لیے قید کر دیا جائے۔
 الصُّبْرُ وَ الصُّبْرُ: کنارہ۔ سفید بادل۔ جِ
 اصْبَارًا: کہا جاتا ہے "أَخَذَ الشَّيْءُ بِاصْبَارِهِ"
 یعنی پورا لے لیا۔ و "مَلَأَ الْكَأْسَ إِلَى
 اصْبَارِهَا" پیالے کو کنارے تک بھر دیا۔
 الصُّبْرُ وَ الصُّبْرُ: کنگر ملی زمین جو سخت نہ ہو۔
 الصُّبْرُ: برف۔ جِ اصْبَارًا:
 الصُّبْرُ: ایوان۔ صَبْرٌ صَبْرٌ: واحد صَبْرَةٌ: اس لفظ
 میں ب کو مت کم ساکن کیا جاتا ہے۔
 الصُّبْرَةُ: غلہ کا ڈیرہ۔ سخت چھروں کا ڈیرہ۔ جِ
 صَبَارًا: کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ صَبْرَةً" یعنی بغیر
 وزن اور پیمانے کے کل لے لیا۔
 الصُّبْرُ: فَا- أَبْوَصَابِرُ: نمک۔
 الصُّبْرَةُ: بوجھ جو سواری یا کشتی، جہاز وغیرہ
 میں رکھا جائے تاکہ اوہر اوہر نہ جھٹلے پائے۔
 الصُّبْرَةُ وَ الصُّبْرَةُ: سخت سروی۔ صَبْرَةٌ
 الشَّيْءُ: سردی کا درمیانی زمانہ۔
 الصُّبَارُ: کاک۔ ایک کھنے درخت کا پھل۔

الضباة۔ حنات۔ سردی کی شدت۔
(والضباة) جتنے پتھر۔

الضبار والضبار۔ الملی۔ ناگ۔ پھنی۔ واحد
ضباة۔ ضباة۔

الضباة۔ بجز سخت زمین۔

الضبور۔ ج۔ ضبور۔ بردبار۔ یہ اللہ تعالیٰ کے
اسمے حسنیٰ میں سے ہے (والضبار)
بہت زیادہ مہربان کرنے والا۔

الضبورۃ۔ من الرجال۔ قتل کے لیے قید کیا
ہوا۔

الضبیر۔ مہربان کرنے والا۔ ضامن۔ قوم کا
چودھری۔ ج۔ ضبیراء۔

الضبیرو الضبیروۃ۔ چوڑی روٹی۔

أُمُّ ضَبْرٍ وَأُمُّ ضَبْرٍ۔ مصیبت۔

الضبور۔ قتل کے لیے قید کیا ہوا۔ ڈھیر۔
مؤنث مضبورۃ۔

ضنب۔ حفرق کرنا۔

ضنب۔ متفرق ہونا۔ ضنب۔ ضنب اللیل۔
رات کا اکثر حصہ گزر جانا۔ الضرب۔ گری

زیادہ ہونا۔ عَلَيْنَا فَلَانٌ۔ بہت جرات
کرنا۔

الضنصاب والضنصب والضناب۔
سخت مضبوط۔

ضبع (ف) ضبعنا۔ یہ وعلیہ۔ انگلی سے
اشارہ کرنا۔ فَلَانًا عَلَيْنَا۔ اشارہ سے
رہنمائی کرنا۔

ضبعۃ (ف) ضبعنا و مضبعۃ۔ ٹکیر بنا۔ اسی
سے ہے "مَنْ وَلَاءُ السُّلْطَانِ ضَبْعَةُ
الشَّيْطَانِ" جس کو سلطان والی بنا دیتا ہے۔

شیطان اس کو ٹکیر بنا دیتا ہے۔ انگلی پر مارنا۔ ضبع
الشئی۔ کسی چیز میں انگلی داخل کرنا۔ یَنْ
القَوْمَ۔ کسی دوسرے کو قوم کا پتہ بتا دینا۔ فین
الطعام۔ کمانے میں انگلی ڈالنا۔

الأضبع الإضبع الأضبع الأضبع
الإضبع الأضبع الأضبع الأضبع
انگلی۔ مؤنث۔ سماں ہے کسی بڑے کچھنی آتا ہے۔ ج۔

أضباع أضباع الفئيات۔ ایک پھول کی قسم۔
فرنجمشک أضباع العذائز او أضباع

العزوم۔ انگور کی ایک قسم جو لمبی ہوتی ہے۔

المضبعة۔ غرور۔ ٹکیر۔ ٹکیر۔

المضبوع۔ ٹکیر۔ ٹکیر۔

صَبَعٌ (ن ض ف) صَبَعًا وَصَبْعًا۔ القُوبُ :

کپڑے کو رنگنا۔ يَذُو فِي الْمَاءِ۔ پانی میں
ہاتھ ڈبوتا۔ يَذُو بِالْعَمَلِ۔ کام میں مشغول

ہونا۔ فَلَانًا بِالْتَعْيِيمِ۔ نعمتوں سے چھاپ دینا۔ صَبَعَهُ
بِالْمَاءِ فَاصْطَبَعُ۔ پانی سے پتھر دینا۔ کہا جاتا ہے

"صَبَعُونِي فَنِي عَيْنِكَ" یعنی انہوں نے میری
برائی تمہارے سامنے بیان کر کے میری کیفیت

بدل دی۔

صَبَعٌ (ن) ضَبُوعًا۔ ضَبَعٌ النَّاقَةُ۔ اونٹنی کے
تھن کا بھر جانا اور خوش رنگ ہونا۔

صَبَعٌ۔ گمراہ گمراہ۔ وَأَصْبَعٌ۔ گمبھور کا پکنے
لگنا۔ أَصْبَعٌ عَلَيْهِ الْعَمَّةُ۔ کال کرنا۔

تَصَبَعٌ لِي دِينِي۔ دین میں کال دینے ہوجانا۔
إصْطَبَعُ۔ سان لگانا۔ کہا جاتا ہے "إصْطَبَعُ
بِالْخَلِّ أَوْ فِي الْخَلِّ" اس نے سر کو سان بنایا۔

بَكَدًا۔ رنگین ہونا۔
الصَّبَعُ وَالصَّبْعُ۔ ج۔ أَصْبَاعُ وَالصَّبَاغُ۔ ج۔
أصْبَغُوا الصَّبْعَةَ۔ رنگ۔

الصَّبَعُ۔ سان۔
الصَّبْعَةُ۔ نوع۔ ملت۔ دین۔ پتھر کا رنگ۔
الصَّبْعَةُ۔ ادھ پکری گمبھور۔
الصَّبَاغَةُ۔ رنگریزی کا پیشہ۔

الصَّبَاغُ۔ رنگنے والا۔ لقب ہے پوختا۔
الصَّبْعُ۔ رنگا ہوا۔ کہا جاتا ہے "مُؤْتٌ صَبْعٌ
يُثَابُ صَبْعٌ"۔

الصَّبَاغُ۔ رنگریزی۔ جھوٹا۔
الأصْبَعُ۔ بڑا سیلاب۔ مِنَ الظَّيْرِ
والشَّاءِ۔ پرنہ یا بکری جس کی دم سفید ہو۔
مِنَ الْخَيْلِ۔ گھوڑا جس کی پیشانی یا کان کے

اطراف سفید ہوں۔ مؤنث صَبْعَاءُ۔ ج۔ صَبْعٌ۔
المضبغة۔ رنگنے کی جگہ۔

صَبَنَ (ض) صَبْنًا۔ الشئی عَنَهُ۔ روک دینا۔
دوسری چیز کی طرف پھیر دینا۔ الْمُقَامِرُ
الْكُفَّيْنِ۔ جواری کا پانسہ کو چھینکنے کے لیے
درست کرنا۔

إِنصَبْنِي وَأصْطَبْنِي۔ عَنَهُ۔ رک جانا۔ پھر جانا۔
الضباون۔ صلبین۔ کلمہ فارسی الاصل ہے۔

عربی میں (خاسول) کہتے ہیں۔ ایک کھلے کو
(صابونہ) کہتے ہیں اور اس کے بیچے والے اور

بنانے والے کو صَبَانٌ وَصَابُونِي کہتے ہیں۔
الضباونية۔ ایک قسم کا پودہ جس سے دھویا

جاتا ہے۔

المضبنة۔ صابون کا کارخانہ۔

صَبَا يَصْبُو صَبْوَةً وَصَبْوَةً وَصَبْوًا۔ إِلَيْهِ
وَلَهُ؛ مشتاق ہونا۔

صَبَا يَصْبُو صَبْوًا وَصَبْوًا وَصَبَاةً ا
وَصَبَاةً ا۔ بچنے کی طرف مائل ہونا۔ بچوں کی سی۔
خصلت القیام کرنا۔ صفت صاب مؤنث

صَابِيَةٌ۔

صَبَّتْ صَبَاءً وَصَبْوًا۔ الرِّيحُ۔ پُروائی ہوا کا
چلنا۔

صَبِيٌّ وَأَصْبِيٌّ۔ القَوْمُ۔ پُروائی ہوا کا لگانا۔
أَصْبِيٌّ۔ الزَّجَلُ۔ بچنے والا ہونا۔ أَصْبِي
الشئی فَلَانًا۔ شوق میں ڈال دینا۔ کہا جاتا ہے

أَصْبَنَةُ الْمُكَارِمِ؛ اس کو مکارم نے شوق میں
ڈال دیا۔

صَبِيٌّ يَصْبِي صَبَاءً وَاصْتَبِيٌّ۔ بچوں جیسا
کام کرنا۔ صَبِيٌّ إِلَيْهِ؛ مشتاق ہونا۔ اِسْتَصْبَاهُ؛
کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا جیسا بچوں سے کیا

جاتا ہے۔

صَابِي مَصَابِيَةٌ۔ تیز مارنا۔ تیزے کو مارنے
کے لیے جھکانا۔ السَّيْفُ۔ تلوار کو میان

میں الٹی طرف سے کرنا۔ الْكَلَامُ۔ بے
قائدہ بولنا۔ يَتَّ الشَّيْعُ۔ اچھی طرح نہ

پڑھنا۔

تَصَبَّتْ تَصَبَاتٍ وَتَصَابِيٍّ تَصَابِيًّا۔ کھیل کود
کی طرف مائل ہونا۔ الْمَرْأَةُ۔ عورت کو

قریب دینا اور مفتون بنانا۔ تَصَبَّاهُ الشئی؛ شوق
میں ڈالنا۔

الصَّبَا۔ پُروائی ہوا (مؤنث ہے) اس کے مقابل
کی ہوا کا نام دَبُورٌ ہے۔ تَشْبِيهِ اس کا صَبَانٌ اور

صَبِيَانٌ اور جمع صَبَوَاتٌ اور أَصْبَاءُ۔
الصَّبَا۔ شوق۔

الصباة والصباة - پچھتا۔ کہا جاتا ہے زائفة
فی صباہ او فی صباہ۔ یعنی اس کو پچھنے میں
دیکھتا تھا۔
الصنوة - بچپن۔ جوانی کی ناولی۔
الصبی - بچہ جو جوان سے کم عمر ہو۔ آگھ کی
پتی۔ صنبان و صنبان و صنبان و صنبان
و اصبیة و صبیة و صبیة و صبیة
و اصب مؤنث صبیة۔ ج صباہا۔ الصبیة :
لڑکی۔ الصبی : لکوار کی دھار۔ پاؤں کا پتھر۔ کہا
جاتا ہے "وہ وجع فی صبی قدومہ" اس کے
پتھ میں درد ہے۔
الصبیان۔ ڈاڑھی کے کنارے جو ٹھوڑی کے
قریب ہیں۔
الصبیة الاصبیة۔ صبی کی جمع صبیة اور
اصبیة کی تفسیر ہے۔
الصباہ۔ پروانی اور شمالی ہوا کے درمیان کی
ہوا۔ المضایبة : معیت۔
صنة (ن) صنًا۔ زور سے دھکاریا۔ ہاتھ سے
مارنا۔ بکلام أو بذاہیة : حسرت لگانا۔
معیت ڈالنا۔
صانہ مضافاً وصانًا۔ جھگڑا کرنا۔
نصا۔ القوم : آپس میں جھگڑا کرنا۔ آپس
میں جگ کرنا۔
الصن و الصن و الصن۔ جماعت الصن
والصنہ۔ ضد۔ ہٹ۔
الصنت۔ درپے۔ کہا جاتا ہے "ہو بصنہ" وہ
اس کے درپے ہے۔
الصینت۔ جماعت۔ آواز۔ شور۔
الصینت۔ اپنے کلاموں میں مستند۔
صنعة (ف) صنعاً پچھاڑنا۔ لہ : کسی
کا قدر کرنا۔
نصنع۔ کسی کام میں ترو کرنا۔
الصنع۔ مضبوط جوان۔ گور خر۔
صنم الشی : کھل کرنا۔
نصنم۔ تیز دوڑنا۔
الصنم و الصنم۔ سخت مضبوط۔ کامل مضبوط۔
الصنم و الصینم۔ سخت پتھر۔
الصنم۔ گل یا وادی جو غیر نازدہ ہو۔

صنح (ن) صنحا۔ لوہے پر لوہا مارنا۔ جس سے
آواز نکلے۔
الصنحج و الصنحج۔ لوہے پر لوہا کرنے کی
آواز۔ جھنکار۔
صنح (ض) صنحا و صنحة و صنحاخا۔
تندرست ہونا۔ ہر عیب سے پاک صاف ہونا
_____ الصنحج : مطابق واقع ثابت ہونا۔ صفت
صنحج و صصاح۔ کہا جاتا ہے "صنح لی علی
فلان کذا" یعنی میرے لیے فلاں پر اتنا ثابت ہوا۔
صنحج۔ الصنحج : تندرست کرنا۔ چنگا کر
دنا۔ _____ الکتاب : کتاب کی غلطی درست کر
دینا۔
اصنحة و صنحاخا۔ تندرست کرنا یا تندرست
پانا۔ مرض کا زائل کرنا۔ اصنح الرجل : آدمی کا
تندرست ہونا۔ صنح یا صنحیہ والا ہونا۔
نصنحج۔ بکڈا۔ فلاں چیز سے علاج کرنا۔
انصنحج۔ من مرضہ : مرض سے تندرست
ہونا۔ _____ الکلام : صحیح پانا۔
الصنحة۔ ص۔ تدرستی۔
الصنحاح۔ ص۔ من الظریق : راستہ کا دشوار
حصہ۔
الصنحج۔ تندرست۔ عیب وغیرہ سے بری۔
بمرد سے قائل۔ ج اصنحاء و صصاح
و اصنحوا و صصاح۔
النصنحج۔ صحت کی جگہ۔
النصنحة و النصنحة۔ صحت دینے والی۔
صحت محفوظ رکھنے والی۔ کہا جاتا ہے "الصنوم
مصنحة" یعنی روزہ صحت دینے والا ہے یا صحت کا
حافظ ہے و "أرض مصنحة" ایسی زمین جو دیالی
امراض سے پاک ہو یا جس میں بیماریاں وغیرہ زیادہ
نہ ہوتی ہوں۔
صنحب (س) صنحبة و صنحابة و صنحابة
و صنحابة و صنحابة۔ ساتھی ہونا۔ دوستی کرنا۔
ایک ساتھ زندگی بسر کرنا۔
صنحب (ف) صنحبا۔ المنذوق : کھال
آٹارنا۔
اصنحب الرجل : ساتھی والا ہونا۔ بیٹے کا بالغ
ہو کر اپنے ہی مانند ہونا۔ دشواری کے بعد تاجدار

ہونا۔ _____ الصناء : پانی کا لکڑی والا ہونا۔
فلاناً : محفوظ رکھنا۔ _____ عن کذا : روک
دنا۔ _____ الشی : ساتھ کرنا۔
نصنحب۔ منہ : شرم کرنا۔ کہا جاتا ہے "فلان
فانصنحب من شی" یعنی فلاں نہ تو پر ہیز کرتا
ہے اور نہ شرم کرتا ہے۔
انصنحب۔ فلاناً : مخالفت کرنا۔
انصنحبو : ایک دوسرے کا ساتھی ہونا۔
انصنحبہ۔ ساتھی بنا۔ ساتھی بننے کے لیے
کہنا۔ ساتھی بنا۔ انصنحبہ الشی : کسی چیز کو
ساتھ رکھنے کے لیے کہنا۔ _____ الشی : کسی چیز
کو ساتھ کرنا۔
الصناحب۔ ساتھی۔ ایک ساتھ زندگی بسر
کرنے والا۔ مالک۔ وزیر۔ گورنر۔ کہا جاتا ہے
"صناحب حنابة" یعنی حاکم حماة اور "ما
صنح" یا صاحب کی ترمیم ہے۔ ج صنحب
و اصنحاب و صنحبة و صنحاب و صنحبان
و صنحابة و صنحابة اور اصنحاب کی جمع
اصناحب۔
الصنحبة۔ صاحب کا مؤنث۔ بیوی۔ ج
صنحبات و صنحاب۔
الصنحابة۔ وہ حضرات (صحابہ) جو سرود
کائنات کے دیدار سے شرف ہوئے ہوں
اور ایمان لائے اور ایمان ہی پر انتقال ہوا ہو۔
الصنحابی۔ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف
منسوب ہو۔ نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے فرد
واحد۔ (بقرہ)
الصنحاحب۔ ساتھ رہنے والا۔ دشواری سے
فرمانبردار ہونے والا۔
الصنححب۔ پاگل آدمی جو خود بخود باتیں
کرے۔ غوڈ صنحب : وہ لکڑی جس سے چمکا
طیگر نہ کیا گیا ہو۔ اذینہم صنححب : وہ چڑا جس
سے بال دور نہ کیے گئے ہوں۔
الصنححب و الصنححاب۔ فرمانبردار۔
ذلیل۔ اذینہم صنححب : جس چڑے پر بال یا
اون ہو۔ غوڈ صنححب : وہ لکڑی جو چھیلی نہ گئی
ہو۔
الصنححوب۔ صف۔ ادیم مصحوب : وہ

پہلا جس پر سے بال نہ آتارے گئے ہوں۔ غُوذٌ
مَضْحُوْبٌ وہ گلاڑی جس پر سے پھال دور نہ کی
گئی ہو۔ کہا جاتا ہے "إِذْهَبْ مَضْحُوْبًا
مَضْحَابًا" یعنی محفوظ خیریت و عاقبت کے ساتھ
جاؤ۔
صَحْوٌ (ف) صَحْوًا- اللَّيْنُ: دودھ کو ابلانا۔
صَحْرَةٌ الشَّمْسِ: دھوپ کا دماغ کو تکلیف
پہنچانا۔
صَحْوٌ (ف) صَحْوًا و صَحَاوًا- الْجَمَازُ:
گرمے کا زور سے رینگانا۔
صَحْوٌ (س) صَحْوًا- سرفی مائل ٹیلا ہونا۔
صفت اصغر مؤنث صَحْوَاءُ ج صَحْوٌ اور
رنگ کا نام صَحْوَةٌ۔
أَصْحَرُ: جنگل کی طرف جانا _____
الْمَسْكَانُ: جنگل کی مانند وسیع ہونا _____ الْأَمْرُ
و بِالْأَمْرِ: ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "لَا تُصَحِّرْهُ
أَمْرًا" یعنی اس کے سامنے اپنے امر کو ظاہر نہ
کرو۔ اور "أَصْحَرُ هَالِي قَلْبِيكَ" یعنی اپنے مانی
الضیر کو ظاہر کرو _____ الرَّجُلُ: کانٹا ہونا۔
إِصْحَارًا إِصْحِيرًا- سرفی مائل ٹیلا
رنگ والا ہونا۔
الصَّخْرُ- سرخ سفید رنگ۔
الصَّخْرَاءُ- بیابان جس میں نہایت نہ ہو۔ ج
صَخَاوِي صَخَاوٍ و صَخَاوِي و صَخَاوِي و
صَخَاوَاتٍ۔
الصَّخِيْرَةُ- دودھ جو ابلایا جائے اور اس میں
گھی اور آٹلا دیا جائے۔
الصَّخَاوِرُ- وہ شخص جو اپنے مقابل سے
بیابان میں جنگ کرے اور فریب نہ دے۔
الصَّخِيْرُ- شیر۔
صَخَّصَحَ- الْأَمْرُ: روشن ہونا۔ ظاہر ہونا۔
الصَّخَّصَحَ والصَّخَّصَحَ
و الصَّخَّصَحَانَ- ہموار زمین جو نہایت وغیرہ
سے خلل ہو۔ ج صَخَاوِيح- الثَّرَاهَاتُ
الصَّخَاوِيحُ و الثَّرَاهَاتُ الصَّخَاوِيحُ:
تغویات۔ خرافات۔ اضافت کے ساتھ ہوتے۔
الصَّخَّصَحُ و الصَّخَّصُوحُ- مِنَ الرِّجَالِ:
مرد ہر ایک میں۔

المُضْخِصَحُ- خالص نخت والا۔ باطل کوش۔
صَحَّفَ- الْكَلِمَةَ: پڑھنے میں غلطی کرنا۔
أَصْحَفَ- الْكِتَابَ: کتاب میں صحیفوں کو جمع
کرنا۔
تَصَحَّفَ- الْقَارِئُ: پڑھنے میں غلطی کرنا۔ کہا
جاتا ہے "تَصَحَّفَتْ عَلَيْهِ الصَّحِيفَةُ" یعنی
صحیفہ میں گمراہی پر منتہی ہو گیا۔
الصَّحْفَةُ- بڑا چوڑا پیالہ جس سے پانچ آدمی
آسودہ ہو جائیں۔ ج صحاف- الصَّحَافُ:
چھوٹے چھوٹے چشمے۔
الصَّحَافَةُ- اِيْثِيْرِي- عَالَمُ الصَّحَافَةِ:
عمرین اخبار۔
الصَّحِيفَةُ- لکھا ہوا کاغذ۔ ورق۔ صَحِيفَةٌ
الْوَجُوْهُ: چہرے کی کمال۔ کہا جاتا ہے صُنَّ
صَحِيفَةً وَجْهَكَ: اپنے چہرے کی کمال کو پہنچاؤ۔
ج صحائف و صحف۔
الصَّحُوْفَةُ- چھوٹا پیالہ جس سے ایک آدمی
آسودہ ہو۔
الصَّحِيْفُ- رُوْطَةُ زَيْمِن-
الصَّحَافُ- پڑھنے میں غلطی کرنے والا۔ کتب
فروش۔
الصَّحْفِي- بھیرا استاد کے کتب بینی سے علم
حاصل کرنے والا۔ () و الْمُضْخِصَحُ: پڑھنے
میں غلطی کرنے والا۔
الصَّخْفُ و المِصْخَفُ و المِضْخَفُ-
بجلد کتاب۔ مَصَاحِفُ- جمع۔
الصَّخْفُ- تھیرا ہوا۔
صَحِجْلٌ (س) صَخْلًا صَخْلًا: بڑی ہوئی آواز
والا اور بھاری آواز والا ہونا۔ صفت صَحِجْلٌ
وَأَصْحَلُ۔
إِصْطَحَمَ- الرَّجُلُ: سیدھا کھڑا ہونا۔
إِصْحَامًا إِصْحَامًا- النَّبَاتُ: پودہ کا بہت
سر سبز ہونا۔ بہتری کا زور سے ملنا۔ صفت
أَصْحَمٌ مؤنث صَخْمَاءُ- رِنْگ- ضَخْمَةٌ _____
الْأَرْضُ: زمین کے نہایت کا تھیر ہونا _____
الرِّزْقُ: سردی لگ جانا اور خشک ہونا شروع ہونا۔
صَحْنَةٌ (ف) صَحْنًا- مارنا۔ کہا جاتا ہے
"صَحْنَةُ عَشْرِيْنَ سَوْطًا" اس نے اس کو بیس

الضاحخة - سخت آواز جو ہر اکردے - مصیبت - قیمت -
 صَحْب (س) صَحْبًا - شور مچانا -
 صَاخِبَةٌ مُصَاخِبَةٌ - ایک دوسرے کا شور مچانا -
 تَصَاخَبَ الْقَوْمُ - یا ہم شور مچانا اور رہیٹ کرتا -
 إِصْطَلَحَتِ الطَّيْرُ او الضَّفَدَةُ - پرند یا میزدک کی آواز کا ٹھنڈا ہونا -
 الصَّخْبُ - مہ - شور -
 الصَّاجِبُ والصَّخْبُ والصَّخَابُ و الصَّخُوبُ والصَّخْبَانُ - شور مچانے والا -
 مَوْتٌ صَخْبَةٌ و صُخْبَةٌ و صَخَابَةٌ و صَخُوبٌ و صَخْبِي -
 صَخَدٌ (س) صَخَدًا و صَخَدَانًا -
 اليَوْمُ - سخت گرم ہونا -
 صَخَدْتَهُ (ف) صَخَدًا - الشمس - جلانا -
 الصَّرْدُ - ثورے کا آواز کرنا -
 صَخَدٌ (ف) صَخُودًا - اليه - کان لگانا -
 أَصْحَدَ الحَرَّ: گرمی تیز ہونا - الزَّجْلُ گرمی میں داخل ہونا - الحِرْيَاءُ: گرگت کا دھوپ کھانا -
 الصَّاخِذَةُ - دوپہری -
 الصَّخْدَانُ والصَّخْدَانُ - سخت گرمی کا دن -
 صَيَحَدُ الشمسُ - گرورہ آفتاب -
 هَاجِرَةٌ صَيَحُودٌ - سخت گرم دوپہری - ج صَيَاخِيْدٌ - صَيَاخِيْدُ الحَرِّ: گرمی کی تیزی -
 المَصْخَذَةُ - دوپہر ج مَصْخَاخِد -
 المُصْطَلِحِد - دھوپ میں کھڑا ہونے والا -
 صَخْرَةٌ - فرما تیار کرنا -
 أَصْخَرُ - المَكْنَانُ: پھریلا ہونا - صفت مُصْخِر -
 الصَّخْرَةُ الصَّخْرَةُ - ٹھوس بڑا پتھر چٹان - ج صَخْرٌ و صَخْرٌ و صَخُورٌ و صَخُورَةٌ و صَخَرَات -
 کہا جاتا ہے "فَلَانٌ صَخْرَةٌ الوَادِي" فلاں بہت مستقل ہے -
 الصَّخِرُ - مِنَ الأَمْكِنَةِ - پھریلا جگہ - کہا جاتا ہے "هُوَ صَخِرَ الوَجْهَ او اصْخَرَ الوَجْهَ" یعنی

دوبے جایے -
 الصَّاخِرُ - لوہے پر لوہے کی جھنکار -
 الصَّاخِرَةُ - پینے کے لیے مٹی کا پیالہ -
 صَخَفٌ (ف) صَخْفًا - الأَرْضُ: زمین کھودنا -
 المِصْخَفَةُ - زمین کھودنے کا آلہ - کدال -
 پھاڑا -
 صَخْمَةٌ (ن) صَخْمًا - الشمسُ: آفتاب کا جھلس دینا -
 إِصْطَخَمَ - الزَّجْلُ: سیدھا کھڑا ہونا -
 صَخِي يَصْخِي صَخًا - الثَّوْبُ: کپڑے کا میلا ہونا - صفت صَخ -
 الصَّخَاةُ - میل پھیل - ایک قسم کی بڑی -
 صَدَةٌ (ن) صَدًا - عَنِ كَذَا: روک دینا - مع کرنا - کہا جاتا ہے "صَدَّ السَّبِيلُ" یعنی راستے کے درے گھائی وغیرہ کی روک داغ ہو گئی -
 صَدٌّ (ن) صَدًا و صُدُودًا - عَنهُ: اعراض کرنا - صفت صَادٌ - جمع صُدَادٌ: مَوْتٌ صَادَةٌ - جمع صَوَادٌ و صُدَادٌ -
 صَدٌّ (ن) صَدًا - مِنَ الشَّيْءِ: چیخ پڑنا -
 چلانا -
 صَادَةٌ - مدافعت کرنا - کہا جاتا ہے "أَخَذَ يَصَادُهُ وَيَصَادُهُ" یعنی وہ مدافعت کرنے لگا -
 صَدَدٌ - ملی بھانا - الجُرْحُ: پیپ دینا -
 أَصَدَّهُ - عَنِ كَذَا: منع کرنا - بَازر كَمَا - الجُرْحُ: پیپ دینا بہہ پڑنا -
 تَصَدَّدَ لَهُ: دورے ہونا -
 إِصْطَلَدَتْ - المَرْأَةُ: عورت کا پردہ کرنا -
 الضَّدُّ - مَسَّ الضَّدُّ - بَلَدٌ بَابٌ - وادى کا کنارہ - ج أَصْدَادٌ و صُدُودٌ -
 الضَّدَدُ - وِرْبَةٌ - قَصْدٌ - سِيلَانٌ - کنارہ -
 المِصْدَادُ - پردہ - ج أَصِيدَةٌ -
 الضُّدُودُ - روکنے والا (مفعول بمعنی فاعل) چھوٹی کرتی -
 الضُّدِيْدُ - مہ - پیپ خون سے ملی ہوئی - صَدِيْدٌ الفِصَّةُ: کھلی ہوئی چاندی -
 الضُّدَادُ - سانپ - پھیل - پانی پر جانے کا راستہ -
 ج صَدَائِدُ -
 صَدِيٌّ (س) صَدًا و صَدُودٌ (ك) صَدَاءَةٌ -

صَدَّعَاتٌ یعنی رائے اور خواہشات میں اختلافات و "أَصْلِحُوا مَا فِيكُمْ مِنْ الصَّدَّعَاتِ" یعنی جمع ہو جاؤ اور متفرق مت ہو۔
 الصَّدْعَةُ ج صدغ والصدیغ ج صدغ۔
 بکریوں کا روپڑ۔ اونٹوں کا گلہ۔ دو برابر میں چینی ہوئی چیز کا اُدھا حصہ۔ صدیغ بمعنی مصدوع۔
 ضج۔ پھلنا ہوا کپڑا۔ وہ کپڑا جو زرہ کے پیچھے پنا جائے۔
 الضداع۔ درد سر۔
 التصداع۔ تفریق۔
 المصدغ۔ سخت زمین میں نرم راستہ۔ ج مَصْدَاع۔
 المصدغ۔ نیزہ۔ تیر۔ چھری کا چوڑا پھل۔
 حَطَبٌ مَصْقَعٌ مَصْدَعٌ۔ بلخ خلیب۔
 صَدْعَةٌ (ف) صَدْعًا عَنِ الْأَمْرِ: باز رکھنا۔
 روکنا۔ سیدھا کرنا۔ التَّمْلَةُ: بیوقوفی کو مارتا۔
 صَدْعَةٌ (ف) صَدْعًا: مونڈھے سے مونڈھا ملا کر چلانا۔
 صَدْعٌ (ن) اصْدَعًا وَصُدُّوعًا إِلَى الشَّيْءِ: ناکل ہونا۔
 صَدْعٌ (ک) اصْدَاعَةٌ: کمزور دوتاواں ہونا۔
 صُدِغٌ: کپٹی کے درد میں مبتلا ہونا۔
 صَادَعَةٌ: موڑھے سے موڑھا ملا کر چلنے میں مقابلہ کرنا۔
 الصُّدْعُ: کپٹی۔ کپٹی کے بال۔ ج اصْدَاغُ۔
 الصَّدْعُ: کچی۔ ٹیڑھا پن۔
 الصِّدَاغُ: کپٹی پر نشان۔
 الصِّدْبِغُ: کمزور۔ تین دن کا پچتہ۔
 الْأَصْدَعَانُ: دونوں کپٹی کے نیچے کی رگیں۔
 الْبِصْدَعَةُ: تکیہ۔
 بَعِيْرٌ مُصْدَعٌ وَمُصْدُوْعٌ: کپٹی پر نشان والا اونٹ۔
 صَدْفٌ (ن ض) صَدْفًا وَصُدُوْفًا: پھر چلانا۔
 صَدْفٌ (ض) صَدْفًا: عتہ: اعراض کرنا۔
 فَلَانًا: بھیر دینا۔ بھاننا۔
 صَدْفٌ (س) صَدْفًا: گھوڑے کی رانوں کا قریب اور کھروں کا دور ہونا۔
 اصْدَفَةٌ: عتہ: بھیر دینا۔ بھاننا۔

المُصْدِرُ: فا- زَجَلٌ مُصْدِرٌ: کاموں کو پورا کرنے والا۔
 الْمُصْدِرُ: قوی اور بڑے سینہ والا۔ آگے بڑھنے والا گھوڑا۔ شیر۔ بھینڑا۔
 صَدْعٌ (ف) صَدُّوعًا إِلَى كَذَا: ناکل ہونا۔
 صَدْعٌ (ف) صَدْعًا الشَّيْءِ: اس طرح پھاڑنا کہ جدا نہ ہو۔ الْقَوْمُ: متفرق کر دینا۔
 الْأَمْرُ: ظاہر کرنا۔ بِالْحَقِّ: حق بات کو کھلم کھلا بیان کرنا۔ فِي الْأَمْرِ: کر گزرتا۔
 الْأَمْرُ بِالْحَقِّ: حق کا فیصلہ کرنا۔ فَلَانًا: قصد کرنا۔ صَدْعًا عَنْ كَذَا: روک دینا۔ النَّهْرُ: کات دینا۔ فِي الْمَكَانِ: گزرتا۔ عَمُورًا: کما جاتا ہے۔ هَذَا الطَّرِيقُ يَصْدَعُ فِي أَرْضِ كَذَا: یہ راستہ فلاں زمین میں گزرتا ہے۔ اللَّيْلُ: رات میں چلنا۔
 صُدِغٌ وَصُدِغٌ: درد سر میں مبتلا ہونا۔ صَفْتٌ مَصْدُوْعٌ۔
 صَدْعٌ الشَّيْءِ: پھاڑنا۔ الْفَلَاةُ أَوِ النَّهْزُ: بیابان یا نہر کو طے کرنا۔
 تَصَدَّعَ الْقَوْمُ: متفرق ہونا۔ تَصَدَّعَتِ الْأَرْضُ بِهِ: وہ زمین میں بھاگ کر ناپ ہو گیا۔
 تَصَدَّعَ وَالصَّدْعُ الشَّيْءِ: پھٹنا۔ کما جاتا ہے۔ "تَصَدَّعَتْ وَأَصْدَعَتْ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ" یعنی زمین میں روئیدگی ظاہر ہوئی۔ اِنصَدَعُ الصَّبَاخُ: صبح کی روشنی پھیلنا۔
 الصَّادِعُ: فا- قاصی۔ حَبْلٌ صَادِعٌ: ڈور تک پھیلا ہوا پہاڑ۔ وادِ صَادِعٌ: ڈور تک پھیلی ہوئی وادی۔ سَبِيلٌ صَادِعٌ: ڈور تک پھیلا ہوا راستہ۔
 ضَبْعٌ صَادِعٌ: روشن شمع۔
 الصَّدْعُ: حُكَّافٌ ج صُدُّوعٌ۔
 الصَّدْعُ وَالصَّدْعُ: ہلکا ہلکا مرو۔ قوی جوان۔
 صَدْعٌ الْحَوْبِدُ: لوہے کا مورچہ، زنگ۔ کما جاتا ہے۔ "النَّاسُ عَلَيْهِمْ صَدْعٌ وَاجِدٌ" لوگ ان کے اوپر عداوت میں متفق ہیں۔
 الصَّدْعُ: آدمیوں کی جماعت۔ دو برابر میں چینی ہوئی چیز کا اُدھا حصہ۔
 الصَّدْعَةُ: اسم مرءة۔ پھٹن۔ پراگندگی۔ تفرق۔ ج صَدَّعَاتٌ: کما جاتا ہے۔ "وَأَيَّتْ بَيْنَهُمْ

صَادِرَهُ عَلَى الشَّيْءِ بِهِ: اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنا۔
 تَصَدَّرَ: صدر مجلس میں بیٹھنا۔ کما جاتا ہے۔ "تَصَدَّرَ الْمَجْلِسُ" مجلس میں سینہ نکال کر بیٹھنا۔
 الْقَرَضُ: گھوڑے کا آگے کو سینہ نکالنا۔
 تَصَادَرُوا عَلَى مَا ضَاعُوا: صدروا۔
 الصَّدْرُ: ہر چیز کا سامنے سے اوپر کا حصہ۔ سینہ۔ ہر چیز کا ابتدائی حصہ۔ ہر چیز کا ایک ٹکڑا۔ تم کہتے ہو "أَخَذْتُ صَدْرًا مِنْهُ" میں نے اس میں سے ایک حصہ لے لیا۔ صَدْرُ الْقَوْمِ: رگیں۔
 الصَّدْرُ الْأَعْظَمُ: وزیر اعظم ج صُدُورٌ۔
 بَنَاتُ الصَّدْرِ: انکار۔
 ذَاتُ الصَّدْرِ: سینہ کی ایک بیماری کا نام۔
 صُدُورُ الْوَادِي: وادی کا اگلا اور اعلیٰ حصہ۔ کما جاتا ہے۔ "أَخَذَ الشَّيْءُ بِصُدْرِهِ" یعنی ازل حصہ کو لے لیا۔ فَلَانٌ يَبْعِدُ الصَّدْرَ: یعنی غیر مرہبان۔
 الصَّدْرُ: پانی پر سے واپسی۔ سفر سے واپسی۔
 صَادِرٌ كَأَسْمِ مَجْجٍ۔
 الصَّادِرُ: فا- لوٹنے والا۔ پانی پر سے لوٹنے والے پر عموماً بولا جاتا ہے اور اس کا مقابلہ وارد ہے۔ یعنی پانی پر آنے والا۔ اور اسی سے ہے "مَالَةٌ صَادِرٌ وَلَا وَارِدٌ" یعنی اس کے پاس کچھ نہیں۔
 طَرِيقٌ صَادِرٌ: پانی پر لے جانے والا راستہ۔
 طَرِيقٌ وَارِدٌ صَادِرٌ: ایسا راستہ جس سے پانی پر لوگ آئیں جائیں۔
 الصَّدْرَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ: سینہ یا سینے کا اوپر کا حصہ۔ صدری۔ واسکٹ۔
 التَّصْدِيرُ: نکل اونٹ کے سینے کا۔
 الصِّدَارُ: صدری۔ اونٹ کے سینے پر نشان۔
 الصَّدَاةُ: تقدم۔ وزارتِ عظمیٰ کا عمدہ (والصدیغ) سینے کا اوپر کا حصہ۔ ج صَدَاثِرُ۔
 الْأَصْدَرُ: مضبوط بڑے سینے والا۔
 الْأَصْدَرَانُ: کپٹی کے نیچے کی رگیں۔
 الْمُصْدِرُ: جائے صدور۔ ج مَصَادِرُ اور اسی سے مصادر افعال ہیں اس لیے کہ مصادر مشتقات کے لئے اصل و جز ہیں۔

<p>روزی ایک ہی مرتبہ دے دی۔ الصَّدَقَاتُ وَالصَّدَقَاتُ مِثْلَانِ كَمَا فِي جانب۔ الأَصْدَمُ - وہ شخص جس کی پیشانی کے دونوں جانب کے بال گر گئے ہوں۔ رَجُلٌ مَصْدُمٌ - جنگجو بہادر۔ صَدَا يُصَدِّئُ صَدْوًا وَصَدَى - پتیلدہ; دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔ صدی یصدی صدی - سخت پیاسا ہونا۔ صفت صِدْوٍ وَصَادٍ وَصَدِيَانِ - مؤنث صَدِيَاوُ صَادِيَةٌ جِ صَوَادٍ - کہا جاتا ہے "أَنَا صَدِيَانُ إِلَى حَدِيثِكَ وَوَلِي أَخْشَاءَ صَوَادٍ" یعنی میں تمہاری بات چیت کا بہت مشتاق ہوں۔ صدی الضَّمَّى - لباہونا۔ صَادَاهُ مُصَادَاهُ - مقابلہ کرنا۔ مدارات کرنا۔ صدی تصدیتہ۔ پتیلدہ; دونوں ہاتھوں سے تالی بجانا۔ أَصْدَى إِصْدَاءً - مرنا۔ الجھیل; گوجنا۔ آواز باز گشت کرنا۔ تَصَدَّى لَهُ: درپے ہونا۔ لِلْأَمْرِ: کسی معالے کے لیے متوجہ ہونا۔ الصدی - سخت پیاس۔ آواز باز گشت۔ گونج۔ دماغ۔ انسانی لاش۔ تعرض۔ جِ أَصْدَاءُ كَمَا جَاءَتْ "هَمُّ الْيَوْمِ أَعْدَاءُ وَهَمُّ غَدًا أَصْدَاءُ" یعنی وہ آج کے دن دشمن ہیں اور کل غمزدہ ہوں گے "و مَنْعَتِ صَدَاءُ" یعنی اس کے درپے ہونے کو روک دیا "وَمَنْعَتِ صَدَاءُ" یعنی ہلاک ہو گیا۔ و "أَصْحَمَ اللَّهُ صَدَاءً" یعنی ہلاک کر دے۔ الصدی - الوکی ایک قسم جس کا سر بڑا ہوتا ہے اور جدھر تم مجھ کو ادھر ہی وہ اپنے سر کو پھراتا ہے اور وہ آواز تارک یک مقامات میں رہا کرتا ہے اور اس کا نام ہامہ بھی ہے۔</p>	<p>کال شخص - جِ صَدُقٍ وَ صُنُقٍ وَ صَدَقُونِ - مؤنث صَدَقَةٌ جِ صَدَقَاتُ - الصَّنُقُ - جِ - نعتیہ - صلاح - حجتی - مضبوطی۔ کما جاتا ہے "هُوَ رَجُلٌ صَنِيقٌ وَ صَدِيقٌ صَنِيقٌ" مرادگی اور دوستی میں سچا ہے۔ یعنی کال ہے۔ الصَّدَقَةُ - خیرات - جِ صَدَقَاتُ - الصَّدَقَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالصَّدَقَةُ - مر۔ الصَّدَاقُ وَالصِّدَاقُ - مر۔ جِ أَصْدِيقَةٌ وَ صَدُقٌ - الصَّدَاقَةُ - جِ دوستی۔ الصَّادِقُ - سچا۔ تَمَوَّ صَادِقِي الْحَلَاوَةِ - بہت میٹھی سمجھو۔ رِيَّةٌ صَادِقَةٌ: خالص نیت۔ حَفَلَةٌ صَادِقَةٌ: شدید حملہ۔ الصَّدُوقُ - ہمیشہ سچ بولنے والا۔ جِ صُنُقٍ وَ صَدُقٌ - الصَّدِيقِي - پیارا دوست۔ جِ أَصْدِيقَاءُ وَ صَدَقَاءُ وَ صُدُقَانٌ - جِ أَصْدِاقِي - مؤنث صَدِيقَةٌ - الصَّدِيقِي - بہت سچا۔ سچائی میں کال۔ عمل سے اپنی بات کوچ کر دکھانے والا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا لقب۔ المصنذاق - کسی کی سچائی کا گواہ۔ کہا جاتا ہے "أِنَّهُ ذُوُ مَصْدُقٍ أَوْ ذُوُ مَصْدُقِي" یعنی بہادر ہے جنگجو ہے یا تیز روڑنے والا ہے۔ المصنذوقَةُ - سچائی۔ صَدَمَةٌ (ض) صَدْمًا - رنج کرنا۔ ہٹانا۔ آڑنا۔ کہا جاتا ہے "صَدَمَتْهُ أَمْرٌ شَدِيدٌ" اس کے اوپر صعبیت آڑی "صَدَمَتْهُ حَفْنَةُ الْكَاسِ" یعنی اس کے اوپر شراب کے پیالہ کی تیزی کا اثر ہوا۔ صَادَمَةٌ مُصَادَمَةٌ - ہارتا۔ إِصْطَدَمَ وَ تَصَادَمَ - الْفَارِسَانِ: ایک دوسرے کو ہارتا۔ ایک دوسرے کی مزاحمت کرنا۔ الصَّدَامُ - جانوروں کے سر میں ایک بیماری۔ الصَّدْمَةُ - اسم مرہ - دفعہً واحدهً کہا جاتا ہے "صُرِعَتْ بِصَدْمَةٍ" ایک ہی مرتبہ میں بچھاؤ دیا۔ "أَعْطَاهُ رِزْقٌ شَهْرَيْنِ بِصَدْمَةٍ" دو مہینے کی</p>	<p>صَادَقَةٌ - ہانا۔ تَصَادَفَ - ایک دوسرے کے مقابل ہونا۔ الصَّدَفُ - سچی۔ الصَّدَفَةُ - ایک سچی۔ جِ أَصْدَافٌ - صَدَقَةٌ الأَدُنُ: کان کا اندرونی حصہ۔ الصَّدَفُ - فِي الْخَيْلِ: رانوں کی نزدیکی اور کھروں کی دوری۔ الصَّدَفُ الصَّدَفَةُ: جانب۔ کنارہ۔ الصَّدَفُ وَالصَّدْفُ وَالصَّدْفُ وَالصَّدْفُ - ہاڑ کا کنارہ۔ الصَّدَفُ: زبان اور جڑے کا درمیانی حصہ۔ فَوْشٌ أَصْدَفٌ - وہ گھوڑا جس کی رانیں قریب قریب اور کھڑو ہوں۔ الأصْدَافُ - سمندر کی موجیں۔ الصَّدَفَةُ - ملاقات۔ الصَّدُوفُ - گندہ زمین۔ بہت اعراض کرنے والا۔ المصنذوفُ - غم۔ چھپا ہوا۔ صَدُقٌ (ن) صَدُقًا وَ صَدُقًا وَ مَصْدُوقَةٌ وَ تَصَدَّقًا - جِ بولنا۔ فِی وَعْدِهِ وَ وَعْدِيهِ: پورا کرنا۔ فِی الْجَمَلَةِ: بہادری ظاہر کرنا۔ کما جاتا ہے "صَدَقَ الْقِتَالُ وَ صَدَقَ فَلَانًا الْقِتَالُ" سخت جنگ کی۔ ه النَّصِيحَةُ أَوْ الْمَحِيئَةُ: خالص صحت یا نیت کرنا۔ ه الْحَدِيثُ: سچی بات بیان کرنا۔ سچی خبر دینا۔ صَدَقَهُ: سچا جانا۔ سچا سمجھنا۔ صَادَقَهُ صِدَاقًا وَ مُصَادَقَةً - دوست بننا۔ صَادَقَهُ الْمَوَدَّةَ: خالص دوستی کرنا۔ أَصْدَقَ - الْإِبْتِهَ: بیانی کا مقرر کرنا۔ تَصَدَّقَ - صد دینا۔ عَلَى الْفَقِيرِ بَكْدًا فقیر کو کوئی چیز صدقہ میں دینا۔ تَصَادَقَا - محبت کرنا۔ دوستی کرنا۔ تَصَادَقَا الْحَدِيثُ أَوْ الْمَوَدَّةَ أَوْ فِيهِمَا - ایک دوسرے سے سچی بات کہنا یا خالص دوستی کرنا۔ الصَّنُقُ - مر۔ سیدھا نموس تیز ہو یا (کوئی اور چیز) کہا جاتا ہے "زَمِعَ صَدُقٌ وَقَتْنَا صَدَقَةً" سیدھا نموس تیز۔ کال۔ کہا جاتا ہے "رَجُلٌ صَدُقٌ اللَّقَاءُ وَ النَّظَرُ" ملاقات اور شفقت میں</p>
---	---	---

صاف ہونا۔ بے جھاگ کے ہونا۔ مثال ہے "صَرَخَ الْحَقُّ عَنِ مُخْضَبِهِ" یعنی حق پوری طرح ظاہر ہو گیا۔ صَوَّحَتِ الْعَيْنَةُ: خشک سالی ہوئی۔ صَرَخَ الزَّامِيُّ: تیر انداز کا خطا کرنا۔

أَصْرَحَ الْأَمْرُ: ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔

صَارَحَهُ صِرَاحًا وَصَرَاحًا وَفَضَارَحَهُ: کلمہ کھلا کرنا۔ کہا جاتا ہے "شَحَّةٌ فَضَارِحَةٌ أَوْ صِرَاحًا" رو در رو گالی دی۔ صَارَحَ وَصَرَخَ بِمَا فِي نَفْسِهِ: دل کی بات ظاہر کرنا۔

إِنصَرَخَ الْحَقُّ: واضح ہونا۔ منکشف ہونا۔

تَصَرَّخَ: الزَّيْدُ عَنِ الْخَمْرِ: شراب سے جھاگ ڈور ہونا۔

الضَّرْحُ: قمر محل۔ ہر بلند عمارت۔ ج صُرُوحٌ

الضَّرْحَةُ: سخت زمین۔ صُرْحَةُ الدَّارِ: گھر کا صحن۔ ج صَرَخَاتٌ

الضَّرْحُ وَالضَّرَاحُ وَالصَّرَاحُ وَالضَّرَاحُ: خالص۔

الضَّرَاحَةُ وَالضَّرُوحَةُ: خلوص۔ وضاحت۔

الضَّرَاحِيَّةُ: مِنَ الْخَمْرِ: خالص شراب۔

شَرَابٌ كَابِرْتَنٌ: کہا جاتا ہے "يَكْدُبُ صَرَاحِيَّةً" یعنی سفید بھوت۔

الضَّرَاحِيُّ: واضح۔ ظاہر۔

يَوْمٌ مَصْرُوحٌ وَمُفْصَّرٌ: بے باطل کلان۔

صَرَخَ (ن) صَرَاحًا وَصَرَاحًا: سخت چیخنا۔

فَرِيَادُ كَرْنَا: الْقَوْمُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔

أَصْرَحَهُ: فریاد رسی کرنا۔ مدد کرنا۔

تَصَرَّخَ بِمُكَلَّفٍ: چیخنا۔

تَصَارَخَ وَاصْطَرَّخَ: الْقَوْمُ: چیخ دیکار پھانا اور مدد طلب کرنا۔ اصْطَرَّخَ: بمعنی صَرَخَ۔

الضَّرَاحُ: فارغ۔

الضَّرَاحَةُ: الضَّرَاحُ كَامُونَتٌ: فریاد رسی۔

وَادُ خَوَائِي: وَادُ خَوَائِي كِي آواز۔ تم کہتے ہو "سَمِعْتُ صَارِحَةَ الْقَوْمِ" میں نے قوم کی واد خواہی کی آواز سنی۔

الضَّرَاحُ: بِسْمَتِ زِيَادِهِ جِيخْنِي وَاللَا: مور۔

الضَّرَاحُ: مَع: فریاد رس۔ وَادُ خَوَاه: ج صَرَخَاءُ

الضَّرَازَةُ وَالضَّرُورَةُ وَالصَّارُورَةُ وَ الصَّارُورَاءُ: وہ شخص جو نکاح نہ کرے اور حج نہ کرے (واحد اور جمع دونوں کے لئے)

الصَّرَّازَةُ: عقاب کی ایک قسم ہے جو ساق کو کھا جاتا ہے۔ الصَّرَّازَةُ: تھیلی میں رکھے ہوئے درہم۔ ج صَرَازِيُو

الْمُضَارَّاتُ: آتھیں۔

الْمُضَرُّورُ: مضم۔ بندھا ہوا قیدی۔

صَرَابٌ (ض) صَرَابًا: کانا، کمانا، دودھ کو ترش بنانا۔ پيشاب یا دودھ کو روکنا۔ الصَّيْبِيُّ: بچہ کا کئی دن پاخانہ نہ کرنا۔

صَرَابٌ (س) صَرَابًا: اللَّبَنِيُّ: تھن میں دودھ جمع ہونا۔

أَصْرَبَ: إِلَيْهِ مَا لَا: رہنا۔

صَرَابٌ: ترش دودھ پینا۔

إِصْطَرَبَ: اللَّبَنِيُّ فِي الْوُطْبِ: دودھ کو ترش ہونے کے لیے برتن میں تھوڑا تھوڑا جمع کرنا۔

إِصْرَابٌ: الشَّيْءُ: صاف اور چمکانا ہونا۔

الضَّرَبُ وَالضَّرْبُ: بہت زیادہ ترش دودھ۔ سَرٌّ كَوْنُهُ: بول کا گوند۔ واحد صَرَابَةٌ وَصَرَابَةٌ

الضَّرَبُ: غریب عربوں کے تھوڑے مکانات۔

الضَّرَبِيُّ: کھٹا دودھ۔ ج صَرَابٌ

الْمُضَرَّبُ: مضم۔ جمع کیا ہوا کھٹا دودھ۔

الْمُضَرَّبُ: برتن جس میں دودھ جمع کیا جائے۔ ج مَضْرَابٌ

صَرَخَ: الْحَوْضُ: حوض کو چونا، مٹی ملا کر بنانا۔

الْحَوْضُ بِالْقُوَّةِ: حوض پر چونے کی قلعی کرنا۔

الصَّارُوحُ: چونا مٹی ملا ہوا (معرّب)

صَرَخَ (ك) صَرَاحَةً وَصُرُوحَةً: صاف ہونا۔

خالص ہونا۔ واضح ہونا۔ صفت صَرَاحٌ جمع صَرَاحَاءُ مَوْنَتٌ صَرَاحَةً

صَرَخَ (ف) صَرَاحًا: الْأَمْرُ: ظاہر کرنا۔ واضح کرنا۔

صَرَخَ: الْمُتَكَلِّمُ: بغیر کتابہ کے کلمہ کھلا کرنا۔ بِمَا فِي نَفْسِهِ: ظاہر کرنا۔ الْأَمْرُ: واضح کرنا۔ الْأَمْرُ: واضح ہونا۔ لَازِمٌ وَ مُتَعَدًى: ہے۔ التَّهَارُ: دن کا بے باطل ہونا۔ الْخَمْرُ: شراب کا

الْفَرْسُ أَذْنُهُ وَ بَأْذِيهِ: گھوڑے کا کان کھڑے کرنا۔ النَّاقَةُ وَ بِلْتَانِقَةٍ: تھن کو باندھ دینا تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے۔

صَرَ (م) صَرًَا وَ صَرَيرًا: الشَّيْءُ: چہرہ اتا۔ الزَّجْلُ: زور سے پیچنا چلانا۔ پیا سا ہونا۔ الْأَذُنُ: کان بچنا۔

صَرَ: التَّبَاتُ: ٹھنڈی ہوا لگ جانا۔

صَرَزَتِ النَّاقَةُ: آگے بڑھنا۔ صَرَزَ أَذْنُهُ سَنَةَ: کے لیے کان کھڑے کرنا۔

صَارَةً مُضَارَّةً: عَلِيٌّ كَذًا: مجبور کرنا۔

أَصْرَعَ: عَلَيَّ الْأَمْرُ: بچتہ ارادہ کرنا۔ حاجت قدم رہنا اور اشرافی اور گناہوں میں استعمال کیا جاتا ہے "أَصْرَعَ عَلَيَّ الذَّنْبُ" جب کہ ہانڈ آئے۔

قرآن میں ہے ﴿كَانُوا يُصَرِّفُونَ عَلَيَّ الْحِنْبِ الْعَظِيمِ﴾ یعنی بڑے بھاری گناہ پر اصرار کیا کرتے تھے۔ الشَّيْبَلُ: خوشے میں خار لگانا۔

الْفَرْسُ أَذْنُهُ وَ بَأْذِيهِ: گھوڑے کا کان کھڑے کرنا۔

الضَّرُّ وَالضَّرَّةُ: سردی۔ رِيحٌ صَرٌّ: سخت ٹھنڈی ہوا۔ تیز آواز والی ہوا۔ الضَّرَّةُ: جج۔ الضَّرَّةُ: شور۔ جج۔ لَرَائِي يَأْغُرِي كِي تیزی۔

ترش روئی۔ جماعت۔ تعویذ کے مرے۔ الضَّرَّةُ: تھیلی۔ بُوَّةُ: ج صَرُّورٌ

يَجِيئُ صَرٌّ: سخت قسم۔ کہا جاتا ہے "ہی بیٹی صَرٌّ" یہ میری جانب سے کچی بات ہے۔ الضَّرَّةُ: خوشے کا خاں۔ واحد صَرَورَةٌ

الصَّارُ: فَاسْجُورٌ صَارًا: مچھان درخت۔ الصَّارَةُ: الصَّارُ: کامونٹ۔ حاجت۔ پیا سا۔ ج صَرَازِيُو

الضَّرُّورُ وَالصَّارُورُ وَالضَّرُّورِيُّ وَالصَّارُورِيُّ: جو نکاح نہ کرے اور حج نہ کرے (واحد اور جمع دونوں کے لئے)

الضَّرَّارِيُّ: ملاح۔ ج صَرَازِيُونٌ

الضَّرَّارُ: دھاگا جس سے تھن کو باندھ دیا جائے تاکہ بچہ دودھ نہ پی سکے۔ بلند مکان۔ جس پر پانی نہ چڑھ سکے۔ ج أَصْرَةٌ

الضَّرَّارُ: صَارًا كَامِ مَالِهِ: صَرَازِ اللَّبَنِيِّ: مچھان۔

صرد (س) صردًا - السهْم: تیر کا نشانہ پر نہ لگنا۔ نشانہ پر بیٹھنا۔ الزجُل: سردی برداشت کر لینا۔ سردی محسوس کرنا۔ السقاء: جھاگ کا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹکانا۔ کہا جاتا ہے "صرد قلبین عتہ" یعنی میرا دل اس سے ہٹ گیا۔

صرد (ن) صردًا و اصرد۔ الزامی السهْم: نشانہ لگانا۔ اصرد السهْم: تیر کا نشانہ پر نہ لگانا۔ صرد الشئ: ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ اقطاء کم ربنا۔ الزجُل: میرا بی سے کم پلانا۔ الصرد: محض خالص۔ کہا جاتا ہے "سقاه العنبر صردًا" خالص شراب پلائی۔ احيه حيا صردًا خالص نجات کی۔ پھاڑیں اُٹھی جگہ۔ بوا لکر۔ سردی۔ يؤم صرد: ٹھنڈا دن۔ کہا جاتا ہے "مات صردًا" شربت سردی سے مر گیا۔ ارض صرد: سرد ٹک۔ ج صرود۔ اس کے خلاف ارض جزوم ہے۔ یعنی گرم ممالک۔ الصرد۔ بوا لکر۔ بھالے کی کھلیں جس میں نیزہ لگایا جائے۔

الصارِد - فاسهْم صارد: نشانہ پر لگنے والا تیر۔ الصوارِد - ٹھنڈی ہوئیں۔ الصرد - لٹورا (ایک پرندہ کا نام) ج صردان۔ الصردان - زبان کے اندرونی حصہ کی دو رگیں۔

الصرد - من الخيل: وہ گھوڑا جس کی پیٹھ زخمی ہو۔ من الرجال: سردی کو برداشت کرنے والا۔ سردی کو محسوس کرنے والا۔ ج صردی يؤم صرد: سخت ٹھنڈا دن۔ الصرد والصرید - بے پانی کا پتلا بادل۔ نعمة صریدة - سردی زدہ۔ بجیر۔ ج صرید۔ المصرد - بے درخت کی زمین۔ سردی برداشت کرنے والا یا نہ کرنے والا۔ سہم مصرد: نشانہ پر لگنے والا تیر۔ المصطرد - سخت غنبتاک۔

صرص - الصردا و الصفر: آواز کرنا۔ الرجل: بیٹھا۔ الشئ: چیز کے منتشر

اطراف کو جمع کرنا۔

الصرصر - من الرياح: تیز چلنے والی یا زیادہ ٹھنڈی ہوا۔ مرغ (الصرصر) ج صراصر۔ الصرصور ج صراصیر۔ جمبجگر۔ بجیرا۔ الصرصور: کشتی۔

المصراط - راستہ۔ ج صراط۔

المصراط - لمی تیز لٹوار۔

صرعة (ف) صرعًا و صرعًا و مصرعًا۔ پچھاڑ دینا۔ زمین پر گرا دینا۔ الشعر: دو مصرعے بنانا۔ الباب: دو کوڑ لگانا۔

صرع - مرگی ہونا۔ کہا جاتا ہے "صرع الشجر" یعنی کٹ دیا گیا اور ڈال دیا گیا۔

صرعه - سخت پچھاڑنا۔ الشعر: مصرعے لگانا۔ الباب: کوڑ لگانا۔

صارعه صراعا و مصارعة - کشتی لڑنا۔ تصارع و اصطراع - الزجلان: باہم کشتی لڑنا۔

انصرع - پچھاڑا جانا۔

تصرع - لصاحبه: تواضع کرنا۔ عاجزی ظاہر کرنا۔ کہا جاتا ہے "مازلت اتصرع له و اليه حتى اجابني" میں عاجزی ظاہر کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے میری بات مان لی۔

الصرع - مہ۔ مرگی۔ مثل۔ مقابل۔ قسم کہا جاتا ہے "هو صرع كذا" یعنی وہ فلاں کے مقابل ہے۔ ج اصرع صروع۔ والصرعان: رات دن یا صبح شام۔ کہا جاتا ہے "اتيتهُ صرعى النهار" یعنی میں اس کے پاس صبح شام آیا اور "هو ذو صرعين" وہ دو قسم یعنی رنگ کا ہے "تركتهم صرعين" یعنی میں نے ایسی حالت میں چھوڑا کہ وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔

الصرع - مہ۔ مثل قسم۔ ری کی لڑی۔ ج اصرع و صروع - کشتی لڑنے والا۔ کہا جاتا ہے "هما صرعان" یعنی دونوں کشتی لڑنے والے ہیں۔

الصرعة - اسم مرة - حالت۔ کہا جاتا ہے "هو يفعله على كل صرعة" مراد یہ ہے کہ ہر حالت میں کرتا ہے۔

الصرعة - جس کو لوگ پچھاڑیں۔

الصرعة و الصراع و الصراعة و الصرع و الصروع - لوگوں کو زیادہ پچھاڑنے والا۔ کہا جاتا ہے "قوم صرعة" یعنی ایسی قوم جو ہر کشتی لڑنے والے کو پچھاڑ دے۔ الصرعة: حلیم و بردبار۔ اس لیے کہ اس کی بردباری غضب و غصہ کو پچھاڑ دیتی ہے۔ الصرع جمع صروع کی ہے۔ الصراعة - کشتی کا فن۔

الصرع - زمین پر پچھاڑا ہوا۔ بجون۔ ج صرعى۔ کہا جاتا ہے "نات صرع الكاس" یعنی بجون ہو کر رات گزاری۔ درخت کی جھلی ہوئی شاخ۔ ج صرع۔

المصرع - مہ۔ پچھاڑنے کی جگہ۔ ج مصراع۔

المصراع من الباب: دروازے کا ایک پٹ۔ من الشعر: شعر کا ایک مصرع۔ ج مصراع۔

صرفة (ض) صرفًا - پھیرنا۔ ہٹانا۔ دفع کرنا۔

واپس کرنا۔ کہا جاتا ہے "صرف الله قلوبهم" مراد یہ ہے کہ اللہ ان کے قلوب کو گمراہ کر دے۔

صرف الشراب: خالص شراب پینا۔ "الدنانير" درہم سے یا دوسرے دناہیر سے بدل لینا۔ المال: خرچ کرنا۔

الكلية: منصرف بنانا۔ یعنی جروتین لایا کرنا۔

صرف (ن) صرْفًا - ہٹانا۔ دانت پینا۔ الباب: بند کرتے ہوئے یا کھولتے ہوئے دروازے سے آواز لگانا۔

صرْفة - مبالغہ کے ساتھ صرفہ کے معنی میں ہے۔ صرف الشئ: بیٹھا۔ الذراهم: تبدیل کرنا۔ العنبر: خالص شراب پینا۔

الكلام: بات سے بات نکالنا۔ و فني الامر: سپرد کرنا۔ صرف الصاء: جاری کر دینا۔ الله الرياح: ایک جانب سے دوسری جانب پھیر دینا۔

صارفة - مبادلہ کرنا۔ صارف نفسه عن الشئ: پھیر دینا۔ باز رکھنا۔

اصرفة - عن كذا: رو کر دینا۔ ہٹا دینا۔ اصرف الشراب: کچھ نہ مانا۔

والا- الصُرَامُ جنگ- مصیبت- زَجَلٌ صُرَامٌ: کائنات میں قوی فرد۔

الصَّرِيمُ- کٹا ہوا- رات یا اس کا ایک حصہ- صُح- کڑی جو بکری کے بچے کے منہ میں باندھ دی جائے تاکہ دودھ نہ پئے- زمین جس کی کھیتی کٹ چکی ہو- قَلْدٌ جو کھیت سے کٹ چکا ہو- صَرِيْمًا اللّٰیْلِ: رات کا ازل و آخر حصہ- اَمْرٌ صَرِيْمٌ: لازمی امر۔

الصَّرِيْمَةُ عزیمت- رات کا گھڑا- الصُّرْمُ: پختہ رائے والا- مصیبت- دن میں ایک بار کھانا۔

الأَصْرَمُ- جس کے کانوں کے کنارے کٹے ہوئے ہوں- مَوْنٌ صُرْمًا ج صُرْمٌ () - والمُصْرَمُ: ہت پال بچے والا مفلس- الأَصْرَمَانِ: رات دن- کواؤں بھیرنا- کہا جاتا ہے "تَوَكَّفْهُ يَوْجِشِ الْأَصْرَمَيْنِ" یعنی ایسے جنگل میں قتل کیا جس میں صرف بھیرے اور کتے ہیں۔

الصُّرْمَاءُ: الأَصْرَمُ کا مؤنث- بے پانی کا جنگل- ہانڈی- کم دودھ والی اونٹنی- المَصْرَمُ: ایسی جگہ جو تنگ ہو اور جلدی سیلاب آجائے۔

المِصْرَمُ: دار بقی- الصُّرْنَانِيَّةُ: بانسری کی قسم کا ایک باج- صُرَايْضُرٌ وَأَصْرُوًا: اَلِيَّةُ: روکنا۔

صُرْيٌ يَصْرِي صُرْيًا: الشَّيْءُ: دفع کرنا- ہٹانا- دُور کرنا- کہا جاتا ہے "صُرْيَ اللّٰهِ عَنْهُ الشَّيْءُ" اللہ اس شر کو دُور کرے- صُرْيٌ بَوْلُهُ: پیشاب روک دینا۔

فَلَانًا: منع کرنا- پھانا- ہلاکت سے نجات دینا۔

الشَّيْءُ: بلند ہونا- نیچے ہونا ۱- الْقَوْمُ: آگے بڑھ جانا- پیچھے ہٹ جانا ۲- يَنْتَهَمُ: فیصلہ کرنا۔

صُرْيٌ يَصْرِي صُرْيًا: المَاءُ: دیر تک ٹھہرنے سے خنیر ہونا ۱- اللّٰسُنُ: دودھ کا مزہ بدل جانا ۲- فَلَانٌ فِي يَدِ فَلَانٍ: کسی آدمی کا کسی کے ہاتھ میں قید ہونا ۳- الذَّمُغُ: آنسو کا

الصَّرَافُ والمَصْرِيفُ والمَصْرِيفِيُّ: روپے پیسے کی تجارت کرنے والا- ج صَّارِفَةٌ: الصَّرَافُ والمَصْرِيفِيُّ: علم صرف کا جاننے والا- المَصْرُوفُ: نلک کے ایک حصہ کا نام- المَصْرُوفِيَّةُ: نلک کا ایک حصہ- نلک کے ایک حصہ کا نام۔

الصَّرِيْقَةُ: چپائی- ج صَرِيْقٌ و صُرُقٌ و صَرَاقٌ: صُرُقٌ: اَصَابِعُهُ: انگلیاں پچھانا- صُرْقَاعَةٌ: گوچھن- گوچھن کا وہ کنارہ جس سے آواز نکلے۔

صُرْمٌ (ك) صَرَامَةٌ: السِّيفُ: کائنا ۱- الزَّجَلُ: دلیر و ہلاک ہونا- صُرْمٌ (م) صُرْمًا و صُرْمًا: الحَنْجَلُ: ٹوٹنا ۲- الشَّيْءُ: کائنا: فَلَانًا: چھوڑنا- ننگو بند کرنا ۳- فَلَانٌ عِنْدَ نَاشِرًا: اقامت کرنا- صُرْمَةٌ: صرم کا ماخذ ہے۔

صَارَمَةٌ: مَصَارَمَةٌ: مَقَاطِعُهُ: عليمه ہونا- أَصْرَمُ: الزَّجَلُ: محتاج ہونا ۱- النَّخْلُ: پھل توڑنے کا وقت قریب ہونا- تَصْرَمُ: الزَّجَلُ: ہمداری کرنا۔

تَصْرَمٌ وَاِنْصَرَمَ: کٹ جانا- ٹوٹ جانا- تَصْرَمَتْ وَاِنْصَرَمَتْ السَّنَةُ: سال ختم ہونا- تَصَارَمَ: الْقَوْمُ: قطع تعلق کر لینا۔

إِصْطَرَمَ: الشَّيْءُ: کائنا- الصُّرْمُ: مہ- کھال (مہرب چرم) الصُّرَامُ: چرم فروش۔

الصُّرْمُ: جماعت- مکانوں کا اجتماع- قسم- چڑے کا موزہ نعل لگا ہوا- ج أَصْرَامٌ وَأَصْرَامٌ و أَصْرَامِيْمٌ و صُرْمَانٌ: الصُّرْمُ: مہ- بے تعلق۔

الصُّرْمَةُ: قسم- اونٹوں کا گلہ- باروں کا گھڑا- چاندی کا گھڑا- ج صُرْمٌ: الصَّارِمُ: قا- ہمدار- شیر- کائے والی تلوار- ج صُرَامٌ: صُرَامٌ: صُرَامَةٌ: مہ- زَجَلٌ صَرَامَةٌ: مستقل بارے- ذہن کلپکا۔

الصُّرْمُ: کائے والی تلوار- اچھی طرح کائے

تَصْرَفٌ: فِي الْأَمْرِ: کسی معاملہ میں تصرف کرنا- تَصْرَفْتُ بِهِ الْأَخْوَالَ: مصائب و آفات کا غالب آجانا۔

إِنْصَرَفَ: الزَّجَلُ: باز رہنا- إِنْصَرَفَتِ الْكَلِمَةُ: منصرف ہونا۔

إِصْطَرَفَ: کماٹی کرنے کیلئے پھرنا ۱- الذَّرَاهِمُ: بدل لینا- تم کہتے ہو "إِصْطَرَفْتُ هَذِهِ الذَّرَاهِمَ بِبَيْتَانِ" یعنی میں نے ان ذراہم کو دینار سے بدل لیا۔

إِسْتَصْرَفَ: اللّٰهُ المَكَاوِرَ: کمزورہات کو بھیج دینے کی دعا کرنا۔

الصَّرْفُ: ایک علم کا نام ہے جس میں کلمات عربیہ کے سینوں کی وضع و ہیئت وغیرہ سے بحث کی جاتی ہے- صَرْفُ الذَّهْرِ و صُرُوفُهُ: مصائب زمانہ- فضیلت- کہا جاتا ہے "لَهُ عَلَيَّ صَرْفٌ" اس کو مجھ پر فضیلت ہے- صَرْفُ الْحَدِيثِ أَوْ الْكَلَامِ: کلام کی زیادتی اور تحسین و تزئین- صَرْفُ الصَّالِ: خرچ کرنا۔

الصَّرْفُ: خالص- جیسے "صَّرَابٌ صَرْفٌ" خالص شراب- ایک قسم کا سرخ رنگ۔

الصَّرْفَانُ: الصَّرْفَانُ: رات دن- الصَّرْفَانُ: موت- پتیل- سیر۔

الصَّرَافَةُ: مرانی کاپڑ۔ الصَّرْفَةُ: اسم مرہ- گردش- مرہ- متزیل تعویذ کا ایک منزل منازلِ قریش سے۔

أُونْتِي كَوْضُجٍ كَيْ وَتِ دُوهُ كَرَأْمَلِي وَضُجٍ تَكْ كَيْلِي ۱- چھوڑ دینا۔

الصُّرُوفُ: وہ اونٹنی جس کے دانتوں سے آواز نکلے۔

الصَّرِيْفُ: مہ- چاندی خالص- صَرِيْفٌ التَّيَابُ: دروازے کی چڑچڑاہٹ- صَرِيْفٌ الْقَلْمُ: قلم کے پلٹنے کی آواز () - والمَصْرُوفُ: ہر شے خالص سورخت کی خشک شدہ شاخ۔

الصَّرِيْقَةُ: الصَّرِيْفُ کا مؤنث- درخت خراب کی خشک ٹہنی- چپائی- ج صُرُوفٌ و صَرَافٌ و صَرِيْفٌ: تَصَارِيْفُ: الذَّهْرُ: مصائب زمانہ۔

بھرا آتا اور نہ بہتا۔
 صریحیت و اضطراب۔ التافہ: اونٹنی کے تھن
 میں دودھ بھر جانا۔
 صَوْرِي تَصْرِيَةً: الشَّاةُ: دودھ زیادہ معلوم
 ہونے کے لیے تھن میں روک دینا۔
 الصَّوْرِي: باقی ماندہ (۔۔۔ الصَّوْرِي) پانی جو دیر
 تک گھمرا رہے۔ کہا جاتا ہے "لَبِنٌ صَوْرِيٌّ" دودھ
 جس کا مزہ بدل گیا ہو۔
 الصَّارِي: قا۔ طاح۔ ج. صَوْرَاءُ و صَوْرَائِي و
 صَوْرَائِيُون۔ بادیان کا ڈنڈا۔ ج. صَوَار۔
 الصَّارِيَّة: الصَّارِي کا مؤنث۔ کنواں جس کا
 پانی دیر تک گھرنے کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہو۔
 الصَّوْرَةُ و الصَّوْرِي و المَصْرُوة: مِنِ الشَّاةِ
 او الثَّوْق: وہ بکری یا اونٹنی جس کے تھن میں
 دودھ کئی روز چھوڑ دیا گیا ہو تاکہ جمع ہو جائے۔
 المِضْطَلِبُو المِضْطَلِبَةُ: چبوترہ۔
 المِضْطَلِب: لوہار کی نمائی۔
 المِضْطَلح: خشک جھگل۔ وہ جگہ جو غلہ کی گمائی
 کے لیے ہموار کی جائے۔ ج. مِضْطَلِح۔
 صِطْرَان: صِطْرَان: لکھنا۔
 صِطْرَان: داروغہ ہونا۔ محافظ ہونا۔
 المِضْطَلح: فصیح و لہجہ۔
 الأَمْطَلْمَةُ: چیز کا بڑا حصہ۔ جمع ہونے کی جگہ۔
 وسط۔
 صَعَبٌ (ک) صُفْوِيَّةٌ: عَلَيْهِ الأَمْرُ: دشوار
 ہونا۔ صفت صَعَبٌ۔ مؤنث صَعْبَةٌ۔ ج
 صِعَاب۔
 أَصْعَبُ: الأَمْرُ: مشکل ہونا۔ الشَّيْءُ:
 مشکل پانا۔ الجَحْلُ: سواری چھوڑ دینے کی
 وجہ سے سرکش ہو جانا۔
 صَاعِيَةٌ مُضَاعَبَةٌ: سختی کرنا۔
 صَعْبَةٌ: دشوار بنانا۔
 تَصَعَّبَ: دشوار ہونا۔ مشکل ہونا۔ الأَمْرُ:
 دشوار بنانا۔
 تَصَاعَبَ: باہم سختی کرنا۔
 اسْتَصْعَبَ: مشکل ہونا۔ الشَّيْءُ: مشکل پانا۔
 الصَّعْبُ: ہم۔ دشوار۔ مشکل۔ خوددار۔ شیر۔
 الصَّغُوبُ: دشوار۔ ج. صَعْبُ۔

الصَّغُوبُ: دشوار۔
 المَصَاعِبُ: سختیاں۔ مشقتیں۔
 المِضْطَلح: ساڑھ۔ گھوڑا جو سواری چھوڑ دینے
 سے سرکش ہو۔ ج. مِضْطَلح و مِضْطَلح: کہا
 جاتا ہے "جَمَالٌ مِضْطَلحٌ و مِضْطَلحٌ"
 سرکش اونٹ۔
 صَعْتَرٌ: النَّخْلُ: پہاڑ پورینہ کہانا۔ الزَّجَلُ
 الشَّيْءُ: مزین کرنا۔
 الصَّعْتَرُ: پہاڑی پورینہ۔
 الصَّعْتَرِي: چالاک۔ کریم۔ بہادر۔
 صَعْدٌ (س) صُفْوَدًا و صَعْدًا و صَعْدًا فِي
 السَّلْمِ: سیڑھی پر چڑھنا۔ پہ: چڑھانا۔
 صُفْوَدًا: المَكَانُ: نیچے جھانکتے ہوئے چڑھنا۔
 صَعْدٌ: فِي و عَلَى الجَبَلِ: پہاڑ پر چڑھنا۔
 فِي الوَادِي: وادی میں اترنا۔
 صَعْدٌ فِيهِ النَّظَرُ: اوپر سے نیچے غور سے دیکھنا۔
 أَصْعَدَ: تگہ کو جانا۔ فِي الأَرْضِ: اونٹنی
 زمین کی طرف جانا۔ فِي الوَادِي: وادی میں
 اترنا۔ فِي العَدْوِ: تیز دوڑنا۔ ہ: چڑھانا۔
 أَصْعَدَتِ السَّفِينَةُ: بادیان کھینچ دینے سے ہوا کا
 کشتی کو لے اُڑنا۔
 تَصَعَّدَ و تَصَاعَدَ: چڑھنا۔ تَصَعَّدَ و
 تَصَاعَدَ الأَمْرُ: دشوار و مشکل ہونا۔ تَصَعَّدَ
 النَّفْسُ: مشکل سے سانس لگانا۔
 اِضْطَلَعَدَ: چڑھنا۔
 الصَّاعِدُ: قا۔ کہا جاتا ہے "بَلَغَ كَذَا الصَّاعِدَ"
 یعنی اس سے اوپر۔ اور یہ باعتبارِ حالت کے
 منصوب ہوا کرتا ہے۔
 الصَّعَادُ: بہت چڑھنے والا۔
 الصَّعْدُ: بلندی۔ کہا جاتا ہے "هَبَطَ مِنَ الصَّعْدِ"
 بلندی سے اترنا و "هَذَا النَّبَاتُ يَنْشُؤُ صَعْدًا" یہ
 پودہ بلندی میں بڑھتا ہے۔ ایک درخت ہے جس
 سے تار کو ل کھلایا جاتا ہے۔
 الصَّعْدُ: مشقت۔ عَذَابٌ صَعْدٌ: سخت
 عذاب۔
 الصَّعِيدُ: مٹی۔ قبر۔ راستہ۔ زمین کا بلند حصہ۔ کہا
 جاتا ہے "صَارَتِ الحَدِيدَةُ صَعِيدًا" یعنی بارغ
 ہموار زمین ہو گیا جس میں درخت وغیرہ نہیں۔ ج.

صَعْدٌ و صَعْدَاتٌ و صَعْدَانٌ: مہر میں چند
 شعروں کا نام صَعِيدٌ ہے۔
 الصَّعْفُودُ: چڑھائی۔ حَمِيمٌ الصَّعْفُودُ:
 جہرات کا دن جس میں سیدنا حضرت مسیح علیہ السلام
 آسمان پر تشریف لے گئے۔
 الصَّعْفُودُ: چڑھائی۔ چڑھتا ہوا راستہ۔ دُشْوَارُ
 گزار گھائی۔ ج. صَعْفُودُ أَصْعَدَةٌ و صَعْفُودٌ کہا
 جاتا ہے "لَا زَهْقَتَكَ صَعْفُودًا" یعنی میں تم کو
 مصیبت میں پھنساؤں گا۔
 الصَّعْدَاءُ: غم یا تنگن کی وجہ سے لمبی سانس۔
 الصَّعْدَاءُ: مشقت۔
 الصَّعْدَةُ: اسمِ مرۃ۔ سیدھا تیزہ۔ ج. صَعْدَادُ و
 صَعْدَاتٌ۔
 الصَّعْفُودَاءُ: دُشْوَارُ گزار گھائی۔
 المِضْعَدُ: مِنِ الأَشْرِيَّةِ: آگ سے گرم کیا
 ہوا۔
 جَبَلٌ مُضْعَدٌ: بلند پہاڑ۔
 المِضْعَادُ: درخت خراب چڑھنے کی رتی۔
 صِعْوٌ (س) صَعْرًا: وَجْهٌ: تیزھا ہونا۔ ایک
 جانب کو جھلکانا۔ صفت أَصْعَرُ۔ مؤنث صَعْرَاءُ ج
 صَعْرٌ۔ زَانِسَةٌ: سر کا چھوٹا ہونا۔
 صَعْرٌ و صَاعِرٌ و اصْعَرٌ: کبوتر غرور کی بنا پر
 رخسارہ تیزھا کرنا اور کبھی خلتا ہوتا ہے۔
 تَصَعَّرَ و تَصَاعَرَ: کبوتر کی وجہ سے رخسارہ
 تیزھا کرنا۔
 صَعْرٌ: الشَّيْءُ: گھمانا۔
 تَصَعَّرَ: گھومنا۔
 اصْعَرُ و اصْعَرُ: جمع و تاب کہانا۔
 اصْعَرَتِ الإِبِلُ: تیز دوڑنا۔
 الصَّعَارُ: مغرور و تکبر۔
 الصَّعْرُورُ و الصَّعْرُورُ: درخت کاپانی جو گوند کی
 طرح جم جائے۔ ج. صَعْرَانُورُ۔
 الصَّعْرُورَةُ: کبوتر کی گوندی۔
 صَعَصَعٌ: القَوْمُ: متفرق کر دینا۔
 الشَّيْءُ: حرکت دینا۔ مِنِ فُلَانٍ خُوفٌ كَرْنَا: زَانِسَةٌ
 بِالذَّهْنِ: سر کو تیل سے چکانا کرنا۔ تَصَعَصَعٌ:
 متحرک ہونا۔ متفرق ہونا۔ الزَّجَلُ: بزدل ہونا۔
 ذَبِيلٌ: ہونا۔ عاجزی کرنا۔ کہا جاتا ہے "تَصَعَصَعَ

يَهْمُ الذَّهْوُ" یعنی زمانے نے ان کو پراندہ کر دیا۔
"تَصَفَّصَتْ صُفُوفُهُمْ" یعنی ان کی صفیں
متنفر ہو گئیں۔

الضَّعْفُ - متفرق (___ والضَّعْضَعُ)
ایک پرندہ ہے جس کے بدن پر نقطے ہوتے ہیں۔
ج صغاصع۔ کہا جاتا ہے "ذَهَبُوا صغاصع" وہ
لوگ متفرق ہو کر چلے گئے۔
صُعِفَ صُعُفًا۔ کچکی لائن ہونا۔ صفت
مضغوف۔

أَصْعَفَ الزُّزْعُ: کھیتی کے خوشوں کا اس
لائق ہونا کہ مل ڈل کر اسے کھایا جاسکے۔
الصُّعْفَةُ: کچکی۔ سردی یا گھبراہٹ کی وجہ
سے۔

الصَّعْفُوقُ وَالصَّغْفُوقُ وَالصَّعْفَقِيُّ: وہ
فحص جو بغیر سرمایہ کے بازار میں تجارت کیلئے
جائے اور جب کوئی شخص کچھ خریدے تو اس کے
ساتھ شریک ہو جائے۔ کمزور جس کے پاس
تھیاری بھی نہ ہو اور شجاعت بھی نہ ہو۔
الصَّغْفُوقُ: کینز۔ ج صغافیق و صغافقہ۔
صَعَفَتْ (ف) صغاعقة: السماء القَوْمُ: بجلی
گرا۔ صَعَفَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ: بجلی گرا۔

صَعِقَ (س) صعقا: الزَّعْدُ: زور سے بادل
گرنا ___ الزَّيْتَةُ: کنوئیں کا گرجانا ___
وَصَبِقَ صَعْقًا وَصَعْقًا وَصَعْقَةً وَتَصَعَّقًا)
گرج سے غشی طاری ہو جانا۔ صفت صعق۔
مرنا۔ صَعِقَ النَّوْزُ صَعْقًا: بیل کا سخت ڈکارنا۔
أَصْعَقْنَهُ: السماء: بجلی گرا۔ أَصْعَقَهُ: قتل
کرا۔

الصَّعِقُ: دم۔ حج۔ موت۔

الصَّعَاقُ: بادل کی گرج۔

الصَّاعِقَةُ: دم۔ آگ ہے جو بہت ہی کڑک
اور گرج کے ساتھ آسمان سے گرتی ہے۔ موت۔
ہر مسلک عذاب۔ عذاب کی حج۔ ج صغواعق۔
المَصْغُوقُ: غشی والا۔ اچانک مرنے والا۔
الصُّعْفَرُ: پھلی کے انڈے۔

صَعِلَ (س) صعلًا وَاَصْعَالَ: چھوٹا سر اور
پتلی گردن والا ہونا۔ صفت أَصْعَلُ۔ مؤنث
صُعْلَانُ ج ضعل۔

الصَّغْلُ - چھوٹے سروالا (آدمی یا شتر مرغ یا
کھجور) لبا۔ گدھا جس کے بال گر گئے ہوں۔
صَغْلَكَ صَغْلَكَ: محتاج بنانا۔ ذیلا کرنا۔

تَصَغَّلَكَ: فقیر و محتاج ہونا۔

الصُّغْلُوكُ: فقیر و محتاج۔ کمزور۔ ج صغالك
وَصَغَالِيكُ: صغاليك العَرَبُ: عرب کے چور
اور فقراء۔

أَصْعَنَ الرَّجُلُ: چھوٹے سروالا اور کم عقل
ہونا۔

إِصْعَنَ الشَّيْءُ: باریک اور نازک ہونا۔

صَغَايِنُ صُغْوًا: باریک اور چھوٹا ہونا۔

الصُّغُو: چھوٹے چڑے۔ واحد صُغُوَّةٌ
صَغَوَاتٌ: مولا۔ ج صغاء وَأَصْغَاءُ نَاقَةٌ
صُغُوَّةٌ: چھوٹے سروالی اونٹنی۔

الصُّغْبُ: جوں کے انڈے۔

صَغْرَ (س) و صغْر (ك) صغْرًا و صغَارَةً و
صَغْرًا و صُغْرَانًا: چھوٹا ہونا۔

صغْر (ك) صغْرًا و صُغْرًا و صغَارًا و صغَارَةً
و صُغْرَانًا: ذلیل ہونا۔ صغْرَتِ الشَّمْسِ:
غروب کی طرف مائل ہونا۔

صغْر (ن) و صغْر (س) صغْرًا: القَوْمُ: قوم
میں چھوٹا ہونا۔

صغْرًا و أصغرًا: چھوٹا بنانا۔ ذلیل کرنا۔ کہا جاتا
ہے "صغْرًا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ" یعنی لوگوں کی نگاہ
میں ذلیل کیا۔ "أَصْغَرَتِ الْأَرْضُ" زمین چھوٹے
پودے والی ہوئی۔ أَصْغَرَ الْقَوْمُ: چھوٹے
چھوٹے سچے پیدا کرنا۔

تَصَاغَرَ: الرَّجُلُ: حقیر ہونا۔ کہا جاتا ہے
"تَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ" یعنی اس کا نفس حقیر
ہے قدر ہو گیا۔

إِسْتَصْغَرَهُ: چھوٹا پانا۔ چھوٹا سمجھنا ___
فَلَانٌ: چھوٹا طلب کرنا۔

الصُّغْرَةُ: اولاد میں سب سے چھوٹا۔ قوم میں
سب سے چھوٹا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صُغْرَةُ أَبَوَيْهِ" او
صُغْرَةُ أَوْلَادِهِ" وہ اپنے ماں باپ کی اولاد میں
سب سے چھوٹا ہے۔ قوم کے چھوٹے چھوٹے۔ کہا
جاتا ہے "أَنَا مِنَ الصُّغْرَةِ" یعنی میں چھوٹے
چھوٹے لوگوں میں سے ہوں۔

الصُّغَارُ وَالصُّغُرُ: ذلت۔ ظلم۔
الصُّغَارَةُ: چھوٹاپن۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں
کہ صغارات مرتبہ میں چھوٹا ہونا اور صغُر
جسامت میں چھوٹا ہونا۔

الصُّغَارُ وَالصُّغْرَانُ: چھوٹا۔

الصُّغَاغِرُ: ذلیل۔ بے قدر۔ جو ذلت اور ظلم پر
راضی رہے۔ ج صغرة و صغايرون۔

الصُّغَيْرُ: چھوٹا (مرتبہ یا جسامت میں) ج
صغار و صغراء۔

الأصغرُ: اسم تفضيل۔ ج أصاغرا أصاغرة
و أصغرون۔ مؤنث صغرى۔ ج صغُر۔

الأصغرانُ: ول و زيان۔ اور اسی سے مثل
ہے "الصُّرَاءُ بِأَصْغَرِيهِ" آدمی کی وقت و چھوٹی
چیزوں یعنی ول و زيان سے وابستہ ہے۔

صغَايِنُ صُغْوًا و صغِي وَصغِي وَصغِي
صغِي وَصغِي: اليه: جملنا ___ التَّخْوِمُ او
الشَّمْسِ: ڈوبنے لگنا۔ صفت صغواء اور ج
صواغ۔

أَصْغَى إِصْغَاءً: إِلَى حَدِيثِهِ: كان لگانا
___ إِلَيْهِ: سننے کے لئے جملنا ___ الْإِنَاءُ:
جھکانا ___ الشَّيْءُ: کم کرنا۔ گھٹانا۔ تم کو گے
"أَصْغَى حَقَّةً" جبکہ حق گھٹایا۔

الصُّغُو: کنوئیں کا کنارہ۔ ڈول کا کنارہ جو دوہرا
ہو۔ صغُوا الكَفِّ او المِغْرَفَةُ: ہتھیل یا بیچ کا
گڑھا۔ ج اصغاء۔

صاغِيَةً: الرَّجُلُ: ماتحت لوگ۔ کہتے ہیں
"أَكْبَرُ مَثْرَا الرَّجُلِ فِي صِغَايِنِهِ" یعنی اس کے
ماتحت لوگوں کے سامنے آدمی کا کرام کرو۔

صَفَّ (ن) صَفًّا وَصَفَّفَ: الشَّيْءُ: صف بنانا
___ الْقَوْمُ: میدان جنگ میں صف بندی کرنا

صَفَّ الْقَوْمُ: صف بستہ کھڑا ہونا ___
الطَّائِرُ بِنَجَاحِهِ: پر پھیلانا اور حرکت نہ دینا

___ الْإِبِلُ قَوْلًا أَيْمَنًا: اونٹوں کا اپنی ٹانگوں کو
ایک صف میں رکھنا ___ اللَّحْمُ: طول میں
کاننا ___ السَّرِيحُ: گدی بنانا۔

صَفَّ مَصَافَةً: الْقَوْمُ فِي الْقِتَالِ: میدان
جنگ میں صف بستہ کھڑا ہونا ___ فَلَانٌ
فَلَانًا: کسی کے چہرہ کے مقابل چہرہ بنانا۔

الأنوف۔ ستواں ناک۔ من الزؤوس۔
کپٹیوں کی طرف نکل اور پیشانی اور گدی کے
درمیان طویل۔ من القلوب۔ جس میں
ایمان و نفاق دونوں جمع ہوں۔ من
الناس۔ جو کافر سے کافرانہ طریقہ سے ملے اور
مومن سے مومنانہ طریقے سے۔

المصْفَح۔ چوڑا۔ جس پر چوڑے پتھر لگے
ہوئے ہوں۔ أَنْفُ الْمُصْفَحِ۔ ستواں ناک۔
المُصْفِحَةُ وَ الْمُصْفَحَةُ۔ تلواریں۔ ج
مُصْفَحَاتٍ وَ مُصْفَحَاتٍ۔

صَفْدَةٌ (ض) صَفْدًا وَ صُفْدًا وَ صَفْدَةٌ قَدِ
کرنا۔ پھٹلی لگانا۔

أَصْفَدَةٌ قَدِ کرنا۔ مَالًا۔ دینا۔

الصفد۔ بخشش۔ بندھن۔ ج أصفاد کہا جاتا
ہے "الصفدُ صَفْدٌ" یعنی داد و بخشش قید ہے۔
الصفاد۔ ہر وہ چیز جس سے قیدی کو باندھا
جائے۔ بندش۔

صَفْرٌ (ض) صَفِيرًا۔ ہونٹوں سے سبھی بھانا۔
صَفْرٌ بِالْفَرَسِ عِنْدَ وَرُودِهِ۔ گھوڑے کو پانی
پلانے کے لئے بلانا۔

صَفْرٌ صَفْرًا۔ بیٹ میں سفارح ہونا۔ صفت
مُصْفَرٌ (دیکھئے صَفْرًا)

صَبْرٌ (س) صَفْرًا وَ صُفْرًا وَ صُفْرَةٌ
الإناء: برتن کا خالی ہونا۔ کہا جاتا ہے "صِفْرٌ
ظَاهِرٌ أَوْ أَوَّاهٌ" یعنی ہلاک ہو گیا۔

صَفْرٌ۔ الشئ: زرد کرنا۔ الثوب: زرد
رنگنا۔ الثیبت: خالی کرنا۔ للذابة:
ہونٹوں سے جانور کے لئے سبھی بھانا۔

بِالذابة: جانور کو پانی پینے کے لئے بلانا۔

أَصْفَرٌ۔ محتاج ہونا۔ الإناء: خالی ہونا
۔ الثیبت: خالی کرنا۔

إِصْفَرٌ إِصْفَارًا۔ زرد رنگ ہونا۔

الصفور والصفور والصفور۔ خالی۔ کہا جاتا ہے
"بَيْتٌ صَفْرٌ مِنَ الْمَتَاعِ" گھر سامان سے خالی
ہے "هُوَ صَفْرٌ لَيْدٌ" وہ خالی ہاتھ ہے۔

الصفور۔ سونا۔ پھیل۔

الصفور۔ زبرد۔ اہل حساب کا وہ نقطہ جو عدد نہ
ہونے پر دلالت کرے۔

صَفَحَتْ (ف) صُفْحًا۔ التافهة وَ غَيْرَهَا۔
دودھ کا ختم ہو جانا۔ صفت صافح۔

صَفْحٌ۔ الشئ: لمبا چوڑا کرنا۔ المکان:
مکان میں چوڑے چھروں کا فرش لگانا۔ صَفْحٌ
بِيَدَيْهِ۔ تالی بجانا۔

أَصْفَحَ۔ السائل: محروم واپس کر دینا۔
الشئ: اُلْتَمِثْنَا۔

صَافِحَةٌ مُصَافِحَةٌ وَ صِافِحًا۔ ہاتھ ملانا۔
مصافحہ کرنا۔

تَصَفَّحَ۔ الشئ: تامل کرنا۔ دیر تک دیکھنا
۔ القوم: چہروں کو غور سے دیکھنا تاکہ حالات
کا اندازہ ہو سکے۔ حالات کا جائزہ لینا۔

تَصَافَحَ۔ القوم: باہم گھر مصافحہ کرنا۔ کہا جاتا
ہے "تَصَافَحَتِ الْأَجْفَانُ" یعنی پلک لگ گئی۔
اِسْتَصَفَّحَهُ۔ الذئب: گناہ کی معافی چاہنا۔

الصفح۔ جانب۔ من الوجہ: رخسارہ
۔ من الإنسان: پیلو۔ من السیف:
چوڑا پیلو۔ ج صفاح۔ کہا جاتا ہے "صَرَبَ عَنَّةٌ
صَفْحًا" یعنی اعراض کیا۔

الصفحة۔ من الشئ: جانب۔ چہرہ۔ من
الكتاب: ورق کا ایک جانب۔ صفحه الرجل:
سینہ کی چوڑائی۔ ج صفحات۔

الصفحان والصفحتان۔ رخسارے۔
الصفح۔ چہرے اور تلوار کی چوڑائی۔
الصفائح والصفح۔ رخسارہ یا پیشانی کی سمت
زیادہ چوڑائی۔ کہا جاتا ہے "لَقِيَهُ صَفْحًا" وہ اس
سے اچانک ملا۔

الصفیح۔ آسمان۔ ہر چوڑی چیز کا ظاہر۔
الصفیحة۔ چوڑی تلوار۔ چوڑا پتھر۔ ہر چوڑی
چیز کا ظاہر۔ صفیحة الوجہ: چہرے کی کھال۔ ج
صفیح و صفائح۔ الصفائح: سر کی چار ہڈیاں۔
دروازے کے تختے۔

الصفائح۔ پتلے چوڑے پتھر۔ اونٹ جن کے
کوبان بڑے ہوں۔ ج صفائح صفا فیح۔
الصفائح والصفوح۔ معاف کرنے والا۔
الصفوح۔ معنی کریم۔

المُصْفَحِ۔ چوڑا۔ اُلْتَمِثْنَا ہوا۔ من
الوجوه: ملائم و خوبصورت۔ من

بناے والا مصافی کہلاتا ہے۔

أَصْفَ السرج: زین کے لئے گدی بنانا۔

تَصَافَ القوم: صفوں میں اکٹھا ہونا۔

إِصْطَفَ القوم: صفوں میں کھڑا ہونا۔

الصف۔ سیدھی قطار۔ کلاس۔ صف بستہ قوم۔

ج صُفُوفٌ۔

الصفف۔ زرہ کے نیچے کالیاس۔

الصففة۔ پھیلی پر رگے ہوئے دانے۔ صففة

السرج او الرحل: زین یا کایاہ کی گدی۔ صففة

المشجید: مسجد کا سایہ دار چہرہ۔ الصففة:

گرمی کے لئے مکان جس کی چھت گھاس پھوس

سے پٹی ہوئی ہو۔ صففة من الدهر: زمانے کی

ایک مدت۔ ج صُفُوفٌ وَ صُفُوفٌ وَ صُفُوفٌ۔

الصفاف۔ نا۔ الصاففة من الابل: جو اپنی

ٹانگوں کو ایک صف میں کئے ہوئے ہوں۔ ج

صَافَاتٌ وَ صُوفٌ۔ الصافات: فرشتے۔

نافقة صُفُوفٌ۔ بہت دودھ دینے والی اونٹنی جو

کثرت دودھ کی وجہ سے برتنوں کی صف لگا دے

اور یا جو اپنی اگلی ٹانگوں کو دودھ دوہنے کے وقت

ایک صف میں کر لے۔

الصفیف۔ خشک ہونے کے لئے دھوپ میں یا

بھوننے کے لئے آگ پر صف لگائی ہوئی چیز۔

المصفف۔ صف باندھنے کی جگہ۔ میدان

جگہ۔ مطلقاً کثرت ہونے کی جگہ۔ ج مصفاف۔

قَصَفْتُ الرجل: قوی و مضبوط ہونا۔

الصفیة والصفیقان والصفیقان۔ ہماری

بھر کم جسم والا۔ قوی سخت اندام۔

صفح (ف) صفحا۔ عتہ: روگردانی کرنا۔

اعراض کرنا۔ چھوڑ دینا۔ گناہ معاف کرنا۔ صفح

السائل عن حاجتہ: حاجت پوری نہ کرنا۔ تم

کہتے ہو "أَتَيْتُهُ فِي حَاجَةٍ فَصَفَحْتَنِي" میں اس

کے پاس ایک حاجت سے آیا اس نے حاجت

پوری نہیں کی۔ ہ بالسئف: تلوار کی

چوڑائی کی طرف سے مارنا۔ الشئ: چوڑا

کرنا۔ الناس: لوگوں میں مقابلہ کر کے ان

کی حالت دیکھنا۔ وَرَقٌ الْمُصْحَفِ:

ایک ایک ورق کو پیش کرنا۔ فِي الْأَمْرِ:

غور کرنا۔

صَفْر - قمری مہینوں میں سے دوسرا مہینہ۔ کبھی غیر منصف بھی پڑھا جاتا ہے۔ جِ أَصْفَار۔

الصَّفْرَان - عربی سال کے دو مہینے جس میں سے پہلے کا نام ظہور اسلام کے بعد محرم ہو گیا اور دوسرا نام اپنی حالت پر باقی رہا۔

الصَّفْر - صم - یرقان - بھوک - کہا جاتا ہے "عَضَّ عَلَى شَرِّ شَوْفِهِ الصَّفْرُ" یعنی بھوکا ہوا۔ عقل کہا جاتا ہے "لَا يَلْتَأُطُ هَذَا بَصْفَرِي" یہ میری عقل میں نہیں آتا۔ میرے دل میں نہیں چپکتا۔

الصفر - خال - جِ أَصْفَارُ - کہا جاتا ہے "إِنَاءُ أَصْفَارٍ" خالی برتن۔

الصَّفْرَةَ - ایک مرتبہ بھوکا ہونا۔

الصَّفْرَةَ زَرْدَى - سیاہی۔

الصَّفْرِيَّة - کثیر العیال محتاج - جِ صَفَارِيَّة - الصَّفْرِيَّة وَالصَّفْرِيَّة - فعل خریف کی

بارش - ایک پودہ جو فصل خریف میں ہوتا ہے۔

الصَّفَار - آواز - زرد رنگ کا پانی جو بیٹ میں جمع ہو جاتا ہے۔ کینچوا - بیٹ کے کیرے - زردی جو

رنگ پر غالب ہو (وَالصَّفَارِ جَانِبِ رُؤُوسِ الدَّانِثِ فِي مِشْرِ كَالْقَبْرِ - الصَّفَارَةَ - مرجعاً ہوا پودہ۔

الصَّفِير - ہر آواز جو لمبی ہو اور حروف سے خالی ہو۔ حُرُوفُ الصَّفِيرِ : ذی محمد سین و صا

مملہ ہیں۔

الصَّفَار - ٹھنڈا۔

الصَّفَارَةَ - سببی - مقعد۔

الصَّفَارِيَّة - زردیوں کا پودہ۔

الصَّفَار - سببی - بجائے والا چور - ایک پودہ ہے جو رات میں آواز کرتا رہتا ہے اس خوف سے کہ

کبھی سوئے میں پکڑ نہ لیا جائے۔ مثال ہے "هُوَ أَجْبَنُ مِنْ صَافِرٍ" وہ صافر پرندہ سے زیادہ بزدل

ہے۔ ہر ایک پرندہ جو شکار نہ کرے ہر ایک آواز کرنے والا۔ پرندہ۔ کہا جاتا ہے "مَا بِالذَّيْرِ صَافِرٌ" گھر میں کوئی آواز کرنے والا نہیں یعنی کوئی نہیں۔

الأَصْفَر - زرد رنگ والا۔ مَوْتٌ صَفْرٌ آج صَفْرٌ۔

الصَّفْر - دناہیز۔

الأَصْفَرَان - زعفران اور سونا۔

الصَّفْرَاء - مَوْتٌ أَصْفَرٌ - سونا۔ پتا۔ مڈی جو اترے دے چکی ہو۔ ایک قسم کا پودہ جس کے پتے

خس کے مانند ہوتے ہیں۔

المُصْفِر - نا - محتاج۔

المُصْفِرُ وَالْمُصْفَرُ - بھوکا۔

الصَّفْرِد - ایک پرندہ جس کی بزدلی کی مثال دی جاتی ہے۔

صَفْفٌ - الزُّجْلُ : بیابان میں اکیلا چلنا۔

العُصْفُورُ : چڑیا کا چھمچانا۔

الصَّفْصَف - چڑیا۔

الصَّفْصَفَةُ - بیابان۔

الصَّفْصَاف - بید اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بید اس کی ایک قسم ہے۔ واحد صَفْصَافَةٌ۔

صَفْعَةٌ (ف) صَفْعًا - تھپھارنا۔

صَافِعَةٌ وَتَصَافَعًا - ایک دوسرے کو تھپھارنا۔

الصَّفْعَانِ وَالْمَصْفَعَاتِي - جس پر کثرت سے تھپھار لگائے جائیں۔

صَفْقَةٌ (ان ض) صَفْقًا - تھپکی لگانا۔ تالی جانا۔

صَفْقُ النَّبَابِ : دروازہ بند کرنا۔ کھولنا۔ (ضد)

الزُّجْلُ عَنْ مَرَادِهِ : کسی کو اس کے ارادہ سے باز رکھنا۔

الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ : پرندہ کا بازوؤں کو پھیرنا۔

عَيْنُهُ : آنکھ بند کرنا۔

العُودُ : ربط کے تاروں کو حرکت دینا۔

القَدْحُ : پیالہ بھرنا۔ الشَّرَابُ : صفائی کیلئے ایک برتن سے دوسرے برتن میں کرنا۔

لَهُ بِالْبَيْعِ وَصَفَّقَ عَلَيَّ يَدَيْهِ وَصَفَّقَ يَدَهُ بِالْبَيْعَةِ : سودا کرنے کیلئے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔

الزُّجْلُ : جانا۔ ہہ بالسنف : تلواری مارنا۔

الرِّيحُ الْأَشْجَارُ : ہوا کا درختوں کو حرکت دینا۔ کہا جاتا ہے "صَفَّقَتْ عَلَيْنَا صَافِقَةٌ" یعنی ہمارے پاس ایک جماعت آئی۔

صَفَّقَ (ك) صَافِقَةً - الزُّجْلُ : بے حیا ہونا۔

النَّوْبُ : کپڑے کا لٹا ہونا۔

أَصْفَقَهُ : باز رکھنا۔ أَصْفَقَ النَّبَابَ وَالْقَدْحَ وَالشَّرَابَ بِمَعْنَى صَفَّقَ - الحَوْضُ : حوض میں پانی جمع کرنا۔ لِلْقَوْمِ : اِنَّا كَمَا تَلَانَا جَسَدٌ

سے آسودگی ہو جائے۔ النَّوْبُ : کپڑے کو گف ہٹانا۔ کہا جاتا ہے "أَصْفَقُوا عَلَى قَوْلٍ وَاجِدٍ" یعنی ایک قول پر سب کا اتفاق کرنا۔

القَوْمُ : مضرب و پریشان ہوئے۔

صَفَّقَ - الطَّائِرُ بِجَنَاحَيْهِ : پرندے کا بازو پھیرنا۔

الزُّجْلُ يَدَيْهِ : تالی جانا۔

حَوَّلَ الشَّيْءَ : طواف کرنا۔ الزُّجْلُ : جانا۔

الشَّرَابَ : صفائی کے لئے ایک برتن سے دوسرے برتن میں کرنا۔

صَافِقٌ - الزُّجْلَانِ عِنْدَ النَّبَيْعِ : بیع کے وقت ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔

صَافِقٌ الزُّجْلُ بَيْنَ جَنْبَيْهِ : ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر ہونا۔

تَيْنَ قَوْمَيْنِ : ایک کپڑے کو دوسرے کے اوپر پھینکا۔

تَصَافَقَ الْقَوْمُ : خرید و فروخت کرنا۔

تَصَفَّقَ الزُّجْلُ : تردد کرنا۔ لِلْأَنْفِ : درپے ہونا۔

انصَفَقَ - واپس ہونا۔ پھر جانا۔ الْقَوْمُ عَلَيْهِ موجود ہونا۔

اصْطَفَقَ الْعُودُ : ربط کے تاروں کا متحرک ہونا۔

التَّحْوُزُ : موجوں کا متلاطم ہونا۔

القَوْمُ : مضرب ہونا۔

الأَشْجَارُ : حرکت کرنا۔ النساءِ عَلَى الْمَيْتِ : عورتوں کا میت پر لوجہ دینا۔

الصَّفْقُ - گوشہ - جانب - دروازہ کا کواڑ۔ صَفْقًا العُنُقُ : گردن کی دونوں اطراف۔

صَفْقًا الفَرَسُ : گھوڑے کے رخسارے۔

صَفْقًا الحَبْلُ : پہاڑ کی سطح۔ جِ صَفْقُوق - صَفْقًا - دروازے کا کواڑ۔ پت۔

الصَّفْقَةُ - خرید و فروخت میں ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔

عَدَقَ بَحْجٍ - کہا جاتا ہے "صَفْقَةٌ وَابِحَةٌ" نفع بخش عَدَقَ بَحْجٍ - "صَفْقَةٌ خَاصِرَةٌ" نقصان دہ عَدَقَ بَحْجٍ "وَبِحَتْ صَفْقَتُكَ" تمہارا عَدَقَ بَحْجٍ نفع بخش ہے۔

الصَّفْقُ - گوشہ - دماغ کا آخری حصہ۔

الصَّفَاقُ - کھال کے نیچے کی جھلی۔ پیٹ پر کی جھلی۔ وہ کھال جو لکڑی کی بنی ہوئی ڈھال پر مزہ دیتے ہیں۔ جِ صَفْقُوق -

الصَّافِقَةُ نازل ہونے والی جماعت۔ مصیبت۔
 الصَّفَاقُ۔ صافق کا اسم مبالغہ۔ بہت زیادہ
 تجارت کے لئے سفر کرنے والا اور لین دین
 کرنے والا۔
 الصَّفُوقُ۔ بلند پہاڑ جس پر چھانڈا شور ہو۔
 بلند چٹنی چٹان۔ نرم کمان۔ ج صَفُوقُ۔
 الصَّفَاقُ۔ آنے جانے والے قافلے۔
 الصَّفَاقِيقُ وَالصَّفَاقِيقُ۔ مہجیتیں۔ حوادث۔
 الصَّفِيقُ۔ بے حیا۔ بے شرم۔ کہا جاتا ہے
 ”وَجْهٌ صَفِيقٌ“ بے شرم چہرہ ”نُوبٌ صَفِيقٌ“
 گف۔ کپڑا۔
 المصْفِقُ۔ راستہ۔
 المصْفَاقُ۔ فاتحہ پر ہاتھ مارنے والا
 مِنَ الْإِنْتِیلِ: جو ایک مرتبہ ایک پہلو پر سونے اور
 دوسری مرتبہ دوسرے پہلو پر۔
 صَفَقٌ (ض) صَفُوقًا۔ الفَرْسُ: گھوڑے کا
 تین ٹانگوں اور چوتھے کے کھر پر کھڑا ہونا
 الزُّجْلُ: دونوں قدم کو ایک نظر میں کرنا
 بِه الْأَرْضُ: زمین پر دے مارنا
 صَفْنَا الطَّائِرَ الحَشِيشَ او الوَزَقَ: پرندہ کا
 اپنے بچے کے لئے گھاس یا پتوں کو بے تہہ رکھنا
 الزُّجْلُ: نصیبتیں کی تھیلی کو کچھا دینا۔
 صَافِقٌ۔ القَوْمُ: قوم کے مقابل کھڑا ہونا۔
 المَاءُ بَيْنَهُمْ: پانی کو آپس میں تقسیم کرنا اور یہ
 اس طریقہ سے کہ برتن کی تہ میں کوئی نلکری
 وغیرہ رکھ دیتے تھے اور پھر اس میں پانی ڈالتے تھے
 جس سے نلکری تہ آب ہو جائے پھر ایک آدمی پیتا
 تھا پھر پانی ڈالتے تھے تو دوسرا پیتا تھا اور پھر اسی
 طرح کرتے رہتے تھے تاکہ ہر ایک کو برابر برابر
 پانی مل جائے اور یہ طریقہ پانی کی کمی کی وجہ سے
 سفر میں اختیار کیا کرتے تھے۔
 تصَافِقُوا القَوْمَ المَاءَ: مذکورہ بالا طریقہ سے
 پانی تقسیم کرنا۔
 الصَّفَنُ خصیہ کی تھیلی۔ چڑے کا دسترخوان
 مستی کے وقت اونٹ کے منہ کی جھاگ۔ ج
 صَفْنٌ وَصَفْنٌ وَأَصْفَانٌ وَصَفْتَانٌ۔
 الصَّفَنُ۔ چڑے کی چھاگل۔ چ وادے کا توہرہ۔
 الصَّفْنَةُ۔ ایک مرتبہ عتدار حصص پانی تقسیم

کرنا۔ دسترخوان۔ مستی کے وقت اونٹ کے منہ کی
 جھاگ۔ چ وادے کا توہرہ۔
 الصَّفَنُ۔ ج أَصْفَانٌ وَصَفْتَانٌ الصَّفْنَةُ۔ خصیہ
 کی تھیلی۔
 الصَّفَانُ۔ پنڈل کے نچلے حصہ میں ایک رگ۔
 مِنَ الخَيْلِ: وہ گھوڑا جو تین ٹانگوں پر کھڑا ہو اور
 چوتھے پاؤں کا صرف کھر زمین پر لگائے۔ ج
 صَافِنَاتٌ وَصَوَافِنٌ وَصَفُونٌ۔
 صَفَا يَصْفُو صَفْوًا وَصَفَاءً وَصَفُوعًا۔ صاف
 ہونا۔ الجَوْ: نسا کا بے ابرو ہونا۔ القَدْرُ:
 دیک کا خالص حصہ لے لینا۔ صَفَتٌ تَصْفُو
 صَفْوًا وَصَفُوتٌ صَفَادَةٌ التَّاقَةُ: بہت دودھ
 والی ہونا۔
 صَفَى تَصْفِيَةً الشَّيْءَ: صاف تھرا کرنا۔
 أَصْفَى إِصْفَاءً فَلَانَا الْوَدَّ: وَأَصْفَى لَهُ الْوَدَّ۔
 خالص نغمت کرنا۔ الَّذِي يَخْفُو: کھودتے
 ہوئے پتھر تک پہنچ جانا جو آئندہ کھودنے سے
 روک دے۔ أَصْفَتِ الدَّجَاجَةَ: مرغی کا انڈے
 دینے سے رک جانا۔ الشَّاعِرُ: شعر کہنے
 سے رک جانا اور اسی سے ضرب المثل ہے ”أَنَا
 شَاكِرُكَ الَّذِي يَصْفِي وَشَاعِرُكَ الَّذِي لَا
 يَصْفِي“ یعنی میں تمہارا ایسا شکر گزار ہوں جو
 خالص نغمت کرتا ہے اور ایسا شاعر ہوں جو شعر کہنے
 میں رکتا نہیں۔ أَصْفَى مِنَ المَالِ مال سے خالی
 ہونا۔ هَكَذَا: مخصوص کرنا۔ راضی کر دینا
 الشَّيْءَ: کل لے لینا۔
 صَافِي مَصَافَاةً فَلَانَا: خالص نغمت کرنا۔
 تصَافَى القَوْمُ: بعض کا بعض سے خالص
 نغمت کرنا۔
 استَصْفَى المَالُ: کل لے لینا
 الزُّجْلُ: خالص دوست بنا۔ کہا جاتا ہے۔
 ”استَصْفَاهُ وَاصْطَفَاهُ“ یعنی جن لینا۔
 الصَّفُو۔ مہ۔ خالص نغمت () الصَّفُوعَةُ
 وَالصَّفُوعَةُ وَالصَّفُوعَةُ مِنَ كُلِّ شَيْءٍ: خالص اور
 عمدہ۔
 الصَّافِي۔ صاف تھرا۔ يَوْمٌ صَافٍ: بے ابرو ہوا
 کا دن۔ كِلَابَةٌ صَافٍ: بغیر کوزا کرکٹ کی گھاس۔
 الصَّافِيَةُ: زمین جس کے باشندے چلے گئے

ہوں یا مر گئے ہوں اور کوئی اس کا وارث نہ ہو۔
 ج صَوَافٍ۔
 الصَّفُوعَةُ۔ خالص دوست۔ طرز صفائی۔
 الصَّفُوعَةُ مِنَ المَاءِ وَنَحْوَهُ: تھوڑا سا پانی وغیرہ۔
 الصَّفَاءُ۔ جمع صَفَاءَةٍ کی بمعنی پتھر اور لقب ہے
 پطرس کا (کلمہ سربانی ہے)
 الصَّفَاءَةُ۔ ج صَفَاءٌ صَفُوعَاتٌ ج أَصْفَاءٌ وَ
 صَفِيٌّ وَصَفِيٌّ۔
 الصَّفُوعَانَةُ۔ ج صَفُوعَانٌ وَ صَفُوعَانٌ
 وَالصَّفُوعَاءُ۔ ٹھوس بڑا پتھر۔ کہا جاتا ہے ”فَلَانٌ
 لَا تَنْدَى صَفَاتَهُ“ مراد یہ ہے کہ بجیل ہے و
 ”فَلَانٌ لَا تَنْفَعُ لَهُ صَفَاءَةٌ“ یعنی کوئی اس کو
 تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔
 الصَّفُوعَانُ۔ چٹنا پتھر۔ يَوْمٌ صَفُوعَانٌ: صاف
 دن۔
 الصَّفِيُّ۔ مخلص دوست۔ ج أَصْفِيَاءُ۔ مَوْتٌ
 صَفِيَّةٌ۔ ہر چیز کا خالص حصہ۔
 الصَّفِيَّةُ وَالصَّفِيَّةُ۔ مال نغمت کا وہ حصہ جو
 سردار اپنے لئے خاص کر لے۔
 الصَّفِيَّةُ۔ زیادہ دودھ والی اونٹنی۔ بہت پھلدار
 کھجور۔ ج صَفَايَا۔
 المصْفَاةُ۔ چھانچا۔ ج مَصَافٍ۔
 المصْطَفَى۔ برگزیدہ۔ چنا ہوا۔
 صَقِبٌ (س) صَقَبًا۔ المَكَانُ: قریب ہونا۔
 بعید ہونا۔
 صَقَبَةُ (ن) صَقَبًا۔ تھپمارنا۔ الشَّيْءُ:
 جمع کرنا۔ البِنَاءُ: عمارت کو بلند کرنا۔
 الطَّائِرُ: پرندہ کا آواز کرنا۔
 صَاقِبَةٌ صَقَابًا وَ مَصَاقِبَةٌ۔ قریب کرنا۔ کہا جاتا
 ہے لَقِينَتُهُ صَقَابًا یعنی رو در رو ملاقات کی۔
 أَصْقَبَةٌ۔ نزدیک کرنا۔ أَصْقَبَتِ الشَّيْءَ۔ قریب
 ہونا۔ کہا جاتا ہے ”أَصْقَبْتُ الصَّيْدَ“ یعنی شکار
 تم سے قریب ہے جس پر نشانہ لگانا ممکن ہے۔
 الصَّقْبُ۔ مکان کے اندر سب سے لمبا کھمبا۔
 ج صُقُوبٌ۔ لمبا۔ ج صَقَابٌ وَ صَقَبَانٌ۔
 الصَّقْبُ وَالصَّقْبُ۔ قریب۔ نزدیک۔ کہا جاتا
 ہے ”ذَارِي مِنْ ذَارِهِ بِصَقْبٍ“ میرا گھر اس کے
 گھر کے قریب ہے۔ ”الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقْبِهِ“

قوم جو بلخ اور قسطنطنیہ کے درمیان رہا کرتی تھی اور بعد میں یورپ میں پھیل گئی۔

صَلَكَةُ (ان) صَلَكًا - زور سے مارنا۔ لہمانچہ مارنا۔ صَلَكُ الْبَابِ - دروازہ بند کرنا۔

صَلَكٌ (س) صَلَكًا - الزَّجْلُ او الْفَرْسُ: چلنے میں گھٹنے اور ریزوں کا ٹکرنا۔ صفتِ أَصَلٌ - اِصْطَلَكْتُ رُكْبَتَاهُ: چلنے میں گھٹنوں کا ایک دوسرے سے ٹکرانا "اِصْطَلَكْتُ الْقَوْمَ بِالشَّيْءِ" - تلوار سے لڑنا۔

تَصَاكَّتِ الْوُكْبُ: زانو کار گڑھانا۔ الصَّكُّ - چک۔ اقرار نامہ۔ جِ أَصَلٌ و صُكُّوكِ و صِكَاكِ -

الأَصَلُ - چلنے میں گھٹنے اور ریزوں کو ٹکرانے والا۔ طے ہونے ڈاڑھ اور دانت والا۔ قوی۔ مَوْنَسٌ صَكَّاءٌ جِ صُلٌّ -

الصَّكَّاءُ - زور سے لہمانچہ مارنے والا۔ چپک بکھنے والا۔ چپک کی حفاظت کرنے والا۔ الصَّكِيكُ - کمزور۔

المِصْلُ - مضبوط۔ جس سے دروازہ کو بند کیا جائے۔

المِصْلُ كُؤْكَاةٌ - دو اہم دو نام تیز۔ صَكَمَةُ (ان) صَكَمًا - مارنا۔ صَكَمَ الْفَرْسُ عَلَى لِحْيَاهُ: گھوڑے کا لگام کو چبانا۔ الصَّكْمَةُ - صدمہ شدیدہ۔

الصُّوَاكِمُ - مصائب۔ حوادث۔ کہا جاتا ہے "صُكْمَتُهُ و صُّوَاكِمُ الذَّهْرِ" اس کے اوپر زمانہ کے مصیبتیں پڑیں۔

صَلَّ (ض) صَلِيلًا - السَّلَاخُ: جھنکار ہونا۔ الشَّقِيُّ: آواز دینا۔ المِصْمَاةُ: ٹھوٹکا جانا اور کسی چیز میں زبردستی داخل کرنا۔

الإِبْلُ: اونٹ کی آنتوں کا پیاس سے خشک ہونا جس سے پانی پیتے ہوئے آواز سنائی دے۔ السَّقَاءُ: منگ کا خشک ہونا۔

مِصْلُومًا اللَّحْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ المَاءُ يَأْتِي كالتَّخْفِيرِ - ہوتا۔

صَلَّ (ن) صَلًا - الشَّرَابُ: صاف کرنا۔ الحَبُّ المِخْطَلَطُ بالشَّرَابِ: پانی ڈال کر دانہ کو مٹی سے جدا کرنا۔ الخُفُّ:

چری موزہ پر استر لگانا۔ کہا جاتا ہے "صَلَّتْهُمْ الصَّلَاةُ" یعنی ان کو مصیبت لاحق ہو گئی۔

أَصَلَ اللَّحْمُ: گوشت کا بدبودار ہونا۔ اِقْدَمَ المَاءُ: دیر تک ٹھہرنے سے پانی کو خنجر کر دینا۔

الصَّلُّ: گوشت وغیرہ جو خنجر ہو جائے۔ الصَّلُّ: غنیمت قسم کا سناپ۔ مصیبت۔ ہمسر۔ کہا جاتا ہے "هَذَا صِلٌ ذَاكٌ" یعنی اس کے مماثل ہے۔ تلوار۔ جِ أَصْلَالٌ - کہا جاتا ہے "هُوَ صِلٌ أَصْلَالٌ" یعنی وہ بڑا مکار غنیمت ہے۔

الصِّلُّ وَالصَّلُّ وَالصَّلَّةُ - تھوڑی متفرق بارش۔

الصَّلَّةُ - وباغت سے پہلے خشک چھڑا بدبودار چھڑا۔ جوتا۔ چوتڑ۔ شدید بارش۔ تازہ گھاس کے متفرق ٹکڑے۔ ترمٹی۔

الصَّلَّةُ - بدبودار ہوا۔ بلیہ پانی۔ الصَّلَاةُ - مصیبت۔

الصَّلَاةُ - چری موزے کا استر۔ جِ أَصِلَّةٌ - صَلَاةُ الحَبِّ: غلے کا کوڑا کرکٹ۔

الصَّلِيلُ - جھنکاروہے کی یا تلوار کی۔ الصَّلَالُ و المِصْلَالُ - مِنَ الطَّيْنِ: خشک مٹی جو لوہے کی مانند آواز دے۔ ماءٌ صَلَالٌ: خنجر پانی۔ الصَّلِيَانُ - ایک قسم کی نباتات۔ واحد صَلِيَانَةٌ۔

المُصَلِّلُ - سردار۔ شریف۔ خالص اللب۔ کثیر بارش۔

صَلَبَهُ (ن ض) صَلَبًا - سولی دینا۔ اللَّحْمُ: گوشت بھوننا۔ العِظَامُ: ہڈیوں سے گودا نکالنا۔ صَلَبَتُهُ الشَّمْسُ: آفتاب کا جھل دینا۔ صَلَبْتُ عَلَيْهِ الحُمَّى: بخار کا بھروسہ اور تیز رہنا۔

صَلَبٌ (ك س) صَلَابَةٌ - سخت ہونا۔ عَلَى الصَّالِي: بھل کرنا۔

صَلَبٌ - الشَّقِيُّ: سخت کرنا۔ الشَّقِيُّ: سخت ہونا اور خشک ہونا۔ اللَّصُّ: چور کو سولی دینا۔

المَصِينِيُّ: ہاتھ سے صلیب کا نشان بنانا۔ أَصَلَبَتِ - النَّاظَةُ: بیٹے کو دودھ پلاتے ہوئے اونٹنی کا پی گردن کو آسمان کی طرف اٹھانا۔

تَصَلَّبَ - سخت ہونا۔

إِصْطَلَبَ العِظَامَ - ہڈیوں سے گودا نکالنا۔

الصَّلَبُ - ریزہ کی ہڈی۔ چربی۔ گودا۔ سخت زمین۔ جِ صَلَبَةٌ و أَصْلَابٌ - ان زمینوں کو جو ایک زمانے سے جوتی نہ گئی ہوں ان کے لئے کہتے ہیں۔ "إِنَّهَا أَصْلَابٌ مُنْذُ أَعْوَامٍ"

الصَّلَبُ - سخت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ صَلَبٌ فَنِي دُنْيَاهُ" وہ اپنے دین میں سخت ہے۔ "زَاعَ صَلْبُ القِصَا" - بگدہ اونٹوں پر سختی کرتا ہو۔ ریزہ کی ہڈی۔ جِ أَصْلَابٌ و أَصْلَبٌ و صَلْبَةٌ اور کہا جاتا ہے "هُوَ مِنْ صَلْبِ فُلَانٍ" یعنی فلاں کی نسل اور اولاد سے ہے۔

الصَّلَبُ - قوت۔ حسب۔ سخت۔ چھری جگہ۔ جِ صَلْبَةٌ -

الصَّلَبُ - ایک پرندہ ہے۔ الصَّلَابُ - قاح۔ خُصِي صَلَابٌ: تیز بخار جس میں کپکپی بھی ہو۔

الصَّلَابُ و الصَّلَابُ - ریزہ کی ہڈی۔ الصَّلَبُ - سخت۔ سان رکھنے کا پتھر۔ ریزہ کی ہڈی۔

الصَّلْبَةُ - سان رکھنے کا پتھر۔ الصَّلْبِيُّ - سخت۔ جس سے سان رکھا جائے۔

بِسَانَ صَلْبِي: تیز نیزے۔ الصَّلْبِيَّةُ - بمعنی صَلْبِي - تا مبالغہ کے لئے ہے۔

الصَّلْبِيُّ - وہ گھڑی جس پر بیسائیوں کے گمان کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ ہر وہ جو دو خط کی شکل پر ہو جو آپس میں تقاطع کرتے ہوں جس پر سولی دی جائے۔ جِ صَلْبَانٌ و صَلْبٌ - قوی۔ سولی دیا ہوا۔ چربی۔ گودا۔

کہا جاتا ہے "اسْتَخْرَجَ صَلْبِيَّ العِظَامِ" یعنی ہڈی کا گودا نکال لیا۔ جھنڈا۔ لَدَى صَلْبِي عَلِيٍّ الزُّورُءُ مَنْصُوبٌ - اونٹ کا داغ۔ جِ صَلْبٌ - خالص نسب والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَرَبِيٌّ صَلْبِيٌّ" وہ خالص عربی ہے۔ "ذُو الصَّلْبِي" لقب ہے "الاخطل نصرانی شاعر کا۔"

الصَّلْبِيُّ - واحد الصَّلْبِيَّةُ - کاہ۔ یہ ایک قوم یورپ کی تھی جس نے بیت المقدس پر غلبہ

پیشانی۔ رَجُلٌ صَلْدٌ: بخل مرد۔
الاصْد۔ بخل۔ مؤنث صِلْدَاءُ ج صِلْدٌ۔
الصايد۔ فادوہ و قحماق جس میں آگ نہ لگے۔
الصايدة۔ مؤنث صائد کا دانت جس کے
پینے میں آواز نہ لگے۔ ج صَوَالِد۔
الصلوْد۔ آگ نہ دینے والا۔ قحماق۔ ٹھوس۔
اکیلا۔ بہت بخل۔ خُك۔ قَوْسٌ صِلْوُدٌ: وہ گھوڑا
جس کو در میں پھیند آئے۔ قِدْرٌ صِلْوُدٌ: وہ ہانڈی
جسے در میں جوش آئے۔ اِمْرَاةٌ صِلْوُدٌ: بے
برکت عورت۔

الصلوْدُد۔ ٹھوس چمکا۔

الصليْد۔ اکیلا۔

عَوْدٌ صِلَادٌ و مِضْلَادٌ۔ نہ سلنے والی لکڑی۔
نَاقَةٌ مِضْلَادَةٌ: بے دودھ کے بچے والی اونٹنی۔
الصَيْلَادُ و الصَيْلَادَةُ: سخت ٹھوس زمین۔
الصِّلْدَحُ: چوڑا پتھر۔
الصِّلْوُدُ ج: سخت قوی۔

الصليْدِم۔ ٹھوس۔ سخت کمر۔ ثمر۔ ج صِلَادِم۔
الصِّلْوَرُ: ایک قسم کی مچھلی۔

صَلَّصَ صَلْصَلَةً الخُلِيَّ او اللِّجَامَ: زیور
یا لگام سے آواز لگانا۔ الزُعْدُ: صاف
گر جتا۔ الجِزْسُ: آواز کو دہرانا۔ فَلَانًا:
دھمکی دینا۔

تَصَلَّصَ اللِّجَامَ او الخُلِيَّ: لگام یا زیور
سے آواز لگانا۔

الصِّلْصَلُ: گھوڑے کی پیشانی۔ گھوڑے کی
پہیچہ کی سفید جگہ۔ چھوٹا پیالہ۔ برتن میں بقیہ پانی یا
ادر کوئی چیز ماہر ج واپا۔ فَاخْتَدَ۔

الصِّلْصَالُ: کھلکانے والی خشک مٹی (۔
و الصِّلْصَالُ و المِصْلِصَلُ) آواز دینے والا
گدھا۔

الصِّلْصَالَةُ: زمین جس میں کوئی نہ ہو۔

المِصْلِصَلُ: مصدر میسی۔ خالص التنب۔

شريف سردار۔

إِصْلَنْطَحَتِ البَطْحَاءُ: کشادہ ہونا۔

الصِّلْطِطِجُ و المِصْلَنْطِجُ: چوڑا کشادہ۔

صَلَعَ (س) صَلَعَ سِرَّكَ الخُكَّ جَمَّةً كَالْبَالِ
کاگر جانا۔ صفت أَصْلَعُ ج صَلِيعٌ وَ صَلْعَانٌ كَمَا

جاتا ہے "صَلَعَتِ الشَّجَرَةُ" یعنی ٹہنیوں کے
پتے گر گئے۔

صَلَعَتْ وَ تَصَلَعَتْ وَ انْصَلَعَتْ الشَّمْسُ:
آفتاب کا بادل سے نکل آنا۔ الخَيْثَةُ: سانپ
کا صاف ستھرا بغیر مٹی کے لگانا۔ تَصَلَعَتِ
السَّمَاءُ: بادل کا چھٹ جانا۔

صَلَغَ الشَّمْسُ: آفتاب کی گرمی۔

الصَّلْعَةُ و الصَّلْعَةُ: سر کا وہ حصہ جہاں سے بال
گر گئے ہوں۔

الصَّلْعَاءُ: أَصْلَعُ کا مؤنث۔ خالی بیابان۔
معیبت۔ زَمَلَةٌ صَلْعَاءٌ: بغیر درخت کے ریتلا
میدان۔ ج صَلْعُ۔

الصَّلْعُ و الصَّلِيعُ و الصَّلَاعُ: چوڑا پتھر۔

مِنَ الْأَمْكِنَةِ: بجز زمین۔ زَاثٌ صَلِيعٌ: سر
جس کے اگلے حصے کے بال گر گئے ہوں۔

صَلَعَمُ: صلی اللہ علیہ وسلم کا انحصار۔

صَلِيفٌ (س) صَلْفًا: ڈیگ مارنا۔ صفت
صَلَفٌ ج صَلْفُونَ صَلْفَاءٌ وَ صَلْفَى _____

لِصَاحِبِهِ: غیر پسندیدہ باتیں کرنا۔ المَزَاةُ
عِنْدَ رُوْحَيْهَا: شوہر کے نزدیک بے وقعت ہونا۔

صفت صَلْفَةٌ: ج صَلْفَاتٌ وَ صَلْفَائِفُ _____
التَّسْحَابُ: زیادہ گر جانا اور پانی کم ہرنا۔

أَصْلَفٌ: بے برکت ہونا۔ گُرَاں جان ہونا۔
فَلَانًا: بغض رکھنا۔

تَصَلَّفَ: بہ کلف ڈیگ مارنا۔ چالوسی کرنا
_____ القَوْمُ: سخت زمین میں پڑنا۔

الصِّلْفُ: درخت خرما میں خالی ہونا۔ صَلْفَةٌ
واحد ہے۔

الصِّلْفُ: بے مزہ کھانا۔ بھاری برتن۔ اِنَاءٌ
صَلِيفٌ: کم پانی لینے والا برتن۔ سَحَابٌ صَلِيفٌ:
زیادہ گر ج اور کم بارش کا بادل۔ أَرْضٌ صَلْفَةٌ:
زمین جس میں کچھ نہ آگے۔

الصِّلِيفُ: گردن کا پہلو۔ کہا جاتا ہے "أَخَذَهُ
بِصِّلِيفِهِ" یعنی پورا لے لیا۔ "طَعَامٌ صَلِيفٌ"
بے مزہ کھانا۔

الأصْلَفُ: زمین کا وہ حصہ جو سخت ہو اور کچھ نہ
آگے۔ ج أَصْلَافٌ۔

الصِّلْفَاءُ و الصِّلْفَاءَةُ و الصِّلْفَاءَةُ: الصِّلْفَاءُ

ق۔ زمین کا وہ حصہ جو سخت ہو اور کچھ نہ آگے۔ ج
الصِّلَافِي۔

المُصْلِفُ: بیوی کی بے قدری کرنے والا۔

صَلْفَعٌ: مفلس ہونا۔ زَامَةٌ: مونڈنا۔

صَلَقٌ (ن) صَلْفًا: الرُّجُلُ: معیبت میں بیچنا
چلانا۔ صَلْفَةٌ بِالْعَصَا: لاشمی سے مارنا۔ صَلْفَتُهُ

الشَّمْسُ: آفتاب کا گرمی سے تکلیف پہنچانا۔

صَلَقٌ (ن) صَلْفًا: نَابَهُ: دانت پھینا۔

أَصْلَقُ: الرُّجُلُ: معیبت میں بیچنا چلانا۔

_____ النَّابُ: دانت پھینے میں آواز نکالنا۔

تَصَلَّقَ: المَوْرِيضُ: دور کی وجہ سے مریض کا
مضطرب و بے چین ہونا۔ المَزَاةُ: دروزہ

میں چمکا ہونا۔

إِصْطَلَقَ: التَّعْيِيرُ: نَابَهُ: اونٹ کا دانت پھینا۔

الصِّلَاقَةُ: پانی جو ایک جگہ میں دیر تک رہے۔

الصِّلَقُ: سخت آواز۔

الصِّلَقُ: ہموار زمین۔ ج أَصْلَاقُ۔ ج

أَصْلَاقِي۔

الصِّلِيقُ: چمکا۔

الصِّلِيقَةُ: پکلی روٹی۔ چپاتی۔ گوشت کا بھنا ہوا

ککڑا۔ ج صَلَاقِي۔

المِصْلَقُ و المِصْلَاقُ: مِنَ الخُطْبَاءِ: لیٹ

خُطِبَ: ج مِصْلَاقٌ وَ مِصْلَاقِي۔

المِصْلَاقِي: بڑے بڑے پتھر ہلکے ہلکے

اونٹ۔

صَلْفَعٌ: مفلس ہونا۔ زَامَةٌ: سر

مونڈنا۔

صَوْتُهُ: آواز تیز کرنا۔

الصِّلْفَعُ: خالی۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ صَلْفَعٌ

بَلْقَعٌ وَ صَلْفَعٌ بَلْقَعٌ" خالی مکان۔ بَلْقَعٌ وَ

بَلْقَعٌ صَلْفَعٌ وَ صَلْفَعٌ كَالْبَلْقَعِ لِي تَالِجٌ يَرَى۔

الصِّلْفَعُ: مرد لاوارث ہونا۔

صَلَمَ (ن ض) صَلَمًا وَ صَلَمًا: الشَّقُ: بڑ

سے کاٹنا۔ صَلَمَةٌ وَ صَلَمَةٌ بڑ سے ٹاک کاٹ

کاٹ لینا۔

إِصْطَلَمَتُهُ: بڑ سے اکھیڑنا۔ کہا جاتا ہے

"إِصْطَلَمَتُهُ الذَّهْرُ" یعنی زمانہ لے ان کو زیادہ کر

دیا۔

منعولی مصلیٰ — فَلَانَا النَّارَ وَ فِيهَا وَ
عَلَيْهَا: آگ میں داخل کرنا — الرَّجُلُ:
فربند بنا لینے: جال لگانا۔
صَلِي (س) صَلِي وَ صَلِيًا وَ صَلِيًا وَ صَلِيًا
النَّارَ وَ فِيهَا: آگ کی گرمی برداشت کرنا۔ آگ میں
جلنا — الْأَمْرُ وَ بِالْأَمْرِ: معاملہ کی شدت
برداشت کرنا۔
صَلِي — الْقَضَاعِلِي النَّارَ أَوْ بِالنَّارِ: آگ دکھلا
کر سیدھا کرنا۔ صَلِي وَ أَصْلِي يَدُهُ: ہاتھ گرم
کرنا۔
أَصْلَاهُ — النَّارَ: آگ میں داخل کرنا۔
قَضَلِي تَصَلِيًا — النَّارَ وَ بِالنَّارِ: آگ کی گرمی
برداشت کرنا۔ آگ تاپنا — عَصَاهُ عَلَى
النَّارِ: آگ دکھلانا۔
أَصْطَلِي أَصْطَلَاءً — بِالنَّارِ: آگ تاپنا۔ کہا جاتا
ہے "فَلَانٌ لَا يَصْطَلِي بِنَارِهِ" یعنی فلاں ایسا بہادر
ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔
الصلاء والصلی۔ آگ یا بڑی آگ۔
ایندھن۔
الصلایة والصلاء۔ پیشانی، خوشبو، پینے کا
پتھر، ہر بڑا پتھر جس پر پیرا جائے۔ ج صلوی وصلی۔
الصلیان۔ ایک جنگلی گھاس۔ صلیناة۔ واحد۔
المصلاة والمصلى۔ جال جو شکار کیلئے لگایا
جائے۔ ج مفضل۔ کہا جاتا ہے "إِنَّ لِلشَّيْطَانِ
فِيخَاوَعًا مَصَالِي" کہ شیطان کے لیے بہت سے
پھندے اور جال ہیں۔
صَمَمٌ (ن) صَمَمًا — الْفَارُوزَةَ: شیشی بند کرنا
— الْجَزْخَ: زخم کو باندھنا اور لپ لگانا
— عَزَمْتَهُ: پکا ارادہ کرنا۔ صَمَّ الرَّجُلُ
يَحْجُو: پتھر سے مارنا۔
صَمَّ (س) صَمَمًا وَ صَمَمًا: ہرا ہونا۔ صفت
أَصَمٌّ مَوْتٌ صَمَمًا ج صَمٌّ وَ صَمَّانٌ — صَمٌّ
صَدَاهُ: اس کی آواز بھری ہو گئی یعنی مر گیا ہلاک
ہو گیا۔
صَمَمَةٌ — ہرا کر دینا۔ صَمَمَ عَلَى الْأَمْرِ وَ فِيهِ:
کر گزارنا اور منع کرنے والی بات نہ سنا
— السِّنْفُ: تلوار کا ہڈی میں گھسا اور کاٹ دینا۔
صَمَّهُ الْخَلْدِيثُ: یاد کرانا۔ صَمَّ الشَّمْسُ: دانت

الصلم والصلمة۔ مضبوط اور بہادر لوگ۔
واحد صالمٌ۔
الصلمة۔ خور۔
الصلامة والصلامة والصلامة۔ آدمیوں
کی جماعت۔ سخاوت میں بہادری میں اور عمر میں
ایک قسم کے لوگ۔ ج صلأ مات صلأ مات
صلأ مات۔
رَجُلٌ أَصْلَمُ — الْأَذْنَيْنِ: وہ شخص جس کے
دونوں کان کٹے ہوئے ہوں گویا کہ خلقتاً ایسے ہی
ہیں۔ مؤنث صَلْمَاءُ ج صَلْمٌ۔
الصلم۔ تلوار۔ سخت کام۔ مصیبت۔ دن میں
ایک مرتبہ کا کھانا۔ وَقَعَةٌ صَيْلَمَةٌ: جڑ مٹا دینے
والی جنگ۔
صَلَمَعٌ — مفلح ہونا — الرَّائِسُ: مؤنث
دینا — الشَّقِيُّ: اٹھیر دینا۔ چکنا کر دینا۔ کہا جاتا
ہے "هُوَ صَلْمَعَةٌ فَلَمَعَةٌ" یعنی وہ اور اس کے
بہن بھائی معروف ہیں۔
إِصْلَهَبٌ — دراز ہونا۔
الصلهب والصلهب۔ لبا آدمی۔
الصلهب: بڑا مکان۔
الصلهبج۔ بڑی چٹان۔ قوی اونٹنی۔
إِصْلَهَبٌ: سخت ہونا۔
الصلهبام۔ دلیر۔ شیر۔
صَلَا يَصْلُو صَلْوًا — فَلَانًا: پیٹھ کے درمیان
مارنا۔
صَلِيَتْ تَصْلِي صَلَا وَ أَصْلَتْ إِصْلَاءً۔
التَّاقَةُ: ترقب ولادت کی وجہ سے اونٹنی کے ڈیر
اور دم کے درمیان کاٹھیل بڑھانا۔
صَلِي صَلَاةً: دعا کرنا۔ نماز پڑھنا۔ اللَّهُ عَلَيْهِ:
برکت دینا۔ اچھی تعریف کرنا (— تَصْلِيَةً)
الْفَرَسُ: گھوڑا دوڑ میں دوسرے نمبر پر ہونا۔
صفت مُصَلِيٌ۔
الصلاة۔ انسان اور چوپایہ کی پیٹھ کا درمیانی
حصہ۔ ج صَلَوَاتٌ وَأَصْلَاءٌ۔
الصلوة والصلوة۔ دعا۔ نماز۔ جمع —
مِنَ اللَّهِ: رحمت۔ ج صَلَوَاتٌ۔
المصلى۔ نماز پڑھنے کی جگہ۔
صَلِي صَلِيًا — اللَّحْمُ: گوشت بھونا۔ صفت

المُصَمِّمِ ہڈی میں گھس جانے والی تلوار۔
صَمًّا (ف) صَمًّا عَلَيْنِهِمْ: برآمد ہونا۔ ظاہر ہونا۔ فَلَانًا عَلَي الْأَمْرِ: براگینتہ کرتا۔
صَمَّتْ (ن) صَمَّتَا وَصَمُوتَا وَصَمَاتَا۔ خاموش رہنا۔
صَمَّتْ وَأَصَمَّتْ۔ خاموش رہنا۔ صَمَّتَتْهُ وَأَصَمَّتَتْهُ۔ خاموش کرنا۔ وَأَصَمَّتْ الْعَيْنُ: بیمار کی زبان بند ہو جاتا۔ صَمَّتَتْ الْمَرْأَةُ وَلَدَهَا: عورت کا اپنے بچے کو بہلانے کے لیے کچھ کہلاتا۔
الصَّمَاتُ۔ خاموشی۔ پیاس کی سرعت۔ کہا جاتا ہے "زَمَاهُ بِصَمَاتِهِ وَشَكَايَتِهِ" یعنی چپ کر دیا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ عَلَي صَمَاتِ الْأَمْرِ أَوْ بِصَمَاتِهِ" وہ کام کرنے کو مستعد و تیار ہے۔ "بَاتَ مِنَ الْقَوْمِ عَلَي صَمَاتٍ" قوم سے قریب ہوا۔
الصَّفِينَةُ وَالصَّفِينَةُ۔ کھانا یا مٹھائی وغیرہ جس سے بچے کو ہلایا جائے اور چپ کرایا جائے۔
الصَّمَاتُ۔ فا۔ خاموش۔ گاڑھا دو وہ _____ مِنَ الْعَالِ: چاندی سونا (مال باطل حیرات میں) کہا جاتا ہے "مَالَهُ نَاطِقٌ وَلَا صَمَاتٌ" یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔
الصَّمِيئَتِ وَالصَّمُوتِ۔ بہت خاموش رہنے والا۔
الصَّمُوتُ۔ بھاری زور۔ شہد سے بھرا ہوا۔
چھت۔ حَمْرِيَّةٌ صَمُوتٌ: پار ہو جانے والی ضرب۔
المُصَمِّمِ۔ کہا جاتا ہے "إِنَّهُ يَشْكُرُ أَلِي غَيْرِ مُصَمِّمٍ" یعنی ایسے شخص سے شکایت کر رہا ہے جو اس کی پروا نہیں کرتا۔
المُصَمِّمُ۔ ٹھوس۔ بَاتَ مُصَمِّمٌ: بند دروازہ جس کے بند ہونے کی جگہ معلوم نہ ہو۔
حَائِظٌ مُصَمِّمٌ: جس دیوار میں فرج نہ ہو۔
فَوْسٌ مُصَمِّمٌ: جس گھوڑے کے رنگ میں کوئی دوسرا رنگ نہ ہو۔ اُنَاةٌ مُصَمِّمَةٌ: جس پر چاندی کی قلعی نہ ہو۔ أَلْفٌ مُصَمِّمَةٌ وَمُصَمِّمٌ: کال ایک ہزار۔
صَمْحَةٌ (ف ض) صَمْحًا الْحَرُّ: گرمی کا دماغ کو پھلادینا۔ _____ةٌ بِالسُّوْطِ: کوڑے سے

مارنا۔ صَمَحَ فَلَانًا: سوال کرنے میں سختی کرتا۔
الصَّمْحُ۔ بدودار پلینہ۔ داغ لگانا۔ چربی جو پگھلا کر پیر کی پھن میں لگائی جائے۔
الْأَصْمَحُ۔ ہمداروں کے سر پر ضرب لگانے والا۔
يَوْمٌ صَامِعٌ وَصَمُوحٌ۔ سخت گرم دن۔ حَائِظٌ صَمُوحٌ: سخت کھر۔
الصَّمْحَاءُ وَالصَّمْحَاءَةُ۔ سخت زمین۔
صَمْحَةٌ (ن) صَمْحًا۔ کان کے سوراخ پر مارنا۔
صَمَحَ أَنْفُهُ: ناک توڑ دینا۔
الصَمْحُ۔ خشک چیز جو کبروں کے تھن کے سوراخ میں پڑنے کے وقت ہوتی ہے کہ اس کے نکل جانے کے بعد دودھ اچھی طرح آنے لگتا ہے۔ مار کاشان جو چرے پر پڑ جائے۔
الصَمْحُ۔ کان کا سوراخ۔ ج صَمْحُ وَأَصْمَحَةٌ۔
الْأَصْمُوحُ۔ کان کا سوراخ۔ کہتے ہیں "صَرَبَ اللَّهُ عَلَي صَمَائِحِهِ" یعنی اللہ اسے سلائے۔
الصَّمْحُ۔ کہ پانی کانوں۔ ج صَمْحُ إِصْمَحَتْ غَمَّتْ سے پھول جاتا۔
صَمَدٌ (ن ض) صَمَدًا وَصَمَدًا. فَلَانًا وَلَهُ وَالْيَهُ: تصد کرتا۔ ارادہ کرتا۔ کہا جاتا ہے "صَمَدٌ صَمَدٌ هَذَا الْأَمْرُ" یعنی اس امر پر اعتماد کیا۔
ه بِالْعَصَاءِ لِأَخِي سَ مَارًا. صَمَدَتِ الشَّمْسُ وَجَهَةٌ: آفتاب کا چہرے کو جھلس دینا۔ صَمَدٌ الْقَارُورَةُ: شیشی میں ذات لگایا۔ صَمَدُ الرَّجُلِ زَائِسَةٌ: مرد کا اپنے سر پر بند پلینا۔
صَامِدَةٌ صَمَادٌ أَوْ مَصَامِدَةٌ. تلوار بازی کرتا۔
أَصَمَدٌ. إِلَيْهِ الْأَمْرُ: سارا دینا۔
تَصَمَدٌ. لَهُ بِالْعَصَاءِ: لاناھی سے مارنا۔
الصَّمَدُ۔ بلند جگہ۔ ج أَصْمَادٌ وَصَمَادٌ. الصَّمَدُ۔ سردار جس کے بغیر امور پورے نہ ہوں۔ ٹھوس۔ ایسا شخص جو لڑائی میں بھوکا یا ساند ہو۔ پیشہ رہنے والا۔ بلند۔ اور صمد۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے ہے یعنی وہ ذات جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی محتاج نہ ہو۔
الصَّمَدَةُ وَالصَّمَدَةُ۔ بلند گڑھی ہوئی چٹان۔
الصَّمَادُ۔ شیشی کی ذات۔

المُصَادِ وَالصَّمَادَةُ۔ گڑھی کے علاوہ سر پر لپٹنے کا پتھر۔
المُصَمِّدُ وَالصَّمَادُ۔ تصد کیا ہوا۔ جس کا تصد کیا جائے۔
صَمَدٌ ح. التَّوْمُ: دن کا بہت گرم ہونا۔
الصَّمَادُ وَالصَّمَادُ حِي. بہت سخت چیز کا خالص۔
الصَّمَادُ ح. کھلا ہوا راستہ: شیر۔
الصَّمِيدُ ح. بہت سخت گرم دن۔
صَمَرٌ (ن) صَمَرًا وَصَمُورًا. بخیل ہونا۔
ماءٌ: پانی کا آہستہ آہستہ نشیبی زمین سے ہموار زمین کی طرف بہنا۔
صَمَرٌ (ض) صَمَرًا وَصَمِيرٌ (س) صَمَرًا. اللَّيْنُ: کھلا ہونا۔
أَصَمَرٌ. اللَّيْنُ: زیادہ کھلا ہونا _____ وَ صَمَرٌ الرَّجُلُ: کھل کرنا۔ غروب آفتاب کے وقت آنا۔ أَصَمَرٌ وَصَمَرٌ الخَمَاعُ: جمع کرنا۔
الصَّمَرُ: تازہ مٹک کی خوشبو _____ وَالصَّمَرُ بَدْوٌ۔
الصَّمَرُ۔ آہستہ آہستہ پانی بننے والے کے جمع ہونے کی جگہ۔
الصَّمَرُ۔ برتن وغیرہ کا کنارہ۔ کہا جاتا ہے "مَلَأَ الْكَاسَ إِلَى أَصْمَارِهَا أَوْ أَصْبَارِهَا" یعنی پیالے کو اس کے کناروں تک بھر دیا۔
الصَّمَرُ۔ بدودار۔ کہا جاتا ہے "يَدِينُ مِنَ السَّمَكِ صَمِيرَةً" یعنی میرا ہاتھ چھلی کی وجہ سے بدودار ہے۔
الصَّمِيرُ: بخیل۔ ج صَامِيرُونَ۔
الصَّمِيرُ۔ دہلا پتلا خشک آدمی جس سے پینت کی بدبو پھیلے۔
الصَّمِيرُ۔ آفتاب کے غروب ہونے کا وقت۔
الصَّمِيرَةُ وَالصَّمِيرَةُ۔ کھادو وہ۔
صَمَمٌ صَمَمَةٌ. فِي الْأَمْرِ أَوْ السَّمِيرِ. اشتغال سے کام جاری رکھنا۔ صَمَمْتُ الصَّمِيرَةَ: بیسی کا آواز کرنا۔
الصَّمَمُ وَالصَّمَامَةُ. تلوار جس کی دھار نہ مڑے۔
الصَّمَمُ وَالصَّمَامُ وَالصَّمَامَةُ۔

مِنَ الْعَجَلِ: چلنے میں ثابت قدم گھوڑا۔

الصَّنْفِصِم: چھوٹا سونا۔

الصَّنْفِصِم: بہت زیادہ بخیل۔

الصَّنْفِصَمَہ وَالصَّنْفِصِمَہ: قوم میں اچھا آدمی۔ لوگوں کی جماعت۔ ج صَنْصِم و صَمَاصِم۔

صَمَّغَہ (ف) صَمَّغًا: بِالْعَصَا أَوْ السِّيفِ: لاشھی یا تلوار سے مارنا۔ الظَّنْبِي: زمین کے اندر چل دینا۔

صَمَّعَ (س) صَمَّغًا: لاپرواہی سے گزر جانا۔ فِی الْكَلَامِ: غلطی کرنا۔ صَمَّعَتْ أذُنُهُ: کان کا چھوٹا ہونا اور سر سے چپٹا ہونا۔ صَمَّعَتْ أَصْفَحَ مَوْتِ صَمَّغَاءَ: ج صَمَّغَہ۔

صَمَّعَ عَلٰی رَأْيِهِ: بہت ارادہ کرتا۔

إِنصَمَّعَ فِی عَضْبِهِ: غضب پر قائم رہنا۔

الأَصْفَعُ: چھوٹے کان والا۔ مَوْتِ صَمَّغَاءَ: ج صَمَّغَہ۔

ن صَمَّغَہ: اور چڑھنے والا۔ تلوار کا طبع۔

تیز ذہن والا۔ روئیدگی کہ جس کا پھل ابھی غلاف سے نہ نکلا ہو۔ عمدہ پر۔ ج صَمَّغَانُ: أَصْمَغَانُ: قلب زکی و پختہ رائے۔

الصَّمِيعُ: زکی القلب۔ تیز فہم والا۔ ہمدار۔

صَمَّعَ: گوند لگانا۔

أَصْمَغَ الشَّدْقُ: باپسوں کا زیادہ تھوک والی ہونا۔ أَصْمَغَتِ الشَّجَرَةُ: درخت کا گوند والا ہونا۔

إِنصَمَّغَ: الشَّجَرَةُ: گوند لگانا۔ قَلَانِ زخم ہونا۔

الصَّمْغُ وَالصَّمْغُ: گوند۔ واحد صَمَّغَةٌ و صَمَّغَةٌ: ج صَمَّغُغ۔

الصَّمْغُ وَالصَّمَّغَةُ: تھن کے اندر ولادت کے بعد کوئی ٹھنڈ چیز ہوتی ہے۔

الصَّمَّغَانُ: وہ شخص جس کے کان 'ناک' منہ سے مادہ نکلے جس طرح درخت سے گوند نکلتا ہے۔

الصَّمَّغَانُ وَالصَّمَّغَتَانُ وَالصَّمَّغَانِ وَالصَّمَّغَاتَانُ: باپسوں۔

أَصْمَغَ: النَّبَابُ: دروازہ بند کرنا۔

اللَّبْنُ أَوْ المَاءُ: تخفیر ہونا 'بگڑ جانا'۔

الرَّجُلُ خَیْثُ ہونا۔

الصَّمَّغَةُ: بگڑا ہوا درود۔

صَمَّغَرُ وَإصْمَغَرُ: اللَّبْنُ: بہت کھٹا ہونا۔

إصْمَغَرَاتُ السَّمْنِ: بہت گرم ہونا۔

إصْمَاكُ الرَّجُلِ: نَفْسِیَاک ہونا۔

اللَّبْنُ: جَم: تیز جسر۔ پ۔ الأَرْضُ: بارش سے تر ہونا۔

إصْمَخُ: زخم کا پھولنا۔

الصَّمَّكُوكُ وَالصَّمَّكِيكُ: شرد نسا کی طرف بہت کرنے والا۔

تحت دل۔ لیس دار چیز۔

صَمَّعَلُ (ن) صَمَّعَلًا و صَمَّعَلًا: الشَّيْءُ: سخت ہونا۔ خشک ہونا۔

الرَّجُلُ مِّنَ الطَّعَامِ: زک جانا۔ صَمَّعَلًا بِالْعَصَا: لاشھی سے۔

أصْمَلَةُ الصَّيَاہُ: روزے کا ڈبلا دینا۔

إصْمَالًا: سخت ہونا۔ النَّبَاتُ: نباتات کا گھٹا ہونا۔

الصَّمَّعَلُ: مرو قوی بخ۔

الصَّمَّعِلُ وَالصَّمَّعِلُ: خشک۔

المُصَمَّعِلُ: غصہ کی وجہ سے پھولنے والا۔

المُصَمَّعِلَةُ: مصیبت۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

جلدی کرنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

صَمَّعِلُ یضمی صَمَّعِلًا: الرَّجُلُ: پلٹنا۔ کورنا۔

الصَّنَّ: ٹوکی۔ روٹی رکھنے کی ڈھکنے دار ٹوکی۔ زنبیل۔ ج صَنَّان۔

الصَّنَّ: آونٹ کا پیشاب۔ ویر نامی ایک جانور کا پیشاب۔ جاڑے کے سخت سات دنوں میں سے پھلان۔

الصَّنَّ: گندہ بعلی۔ بدو۔ ج اصِنَّة۔

الصَّنَّ: گندہ بعلی۔ بدو۔

الصَّنَّان: ہمدار۔

الأَصْنُ: غفلت برتنے والا۔

الصَّنَابُ وَالصَّنَابَةُ: بلی پیٹھ اور پیٹ والا۔

پٹھنی جو رانی اور زیتون کے تیل سے بنائی جاتی ہے۔

الصَّنَابِي: سفیدی کے ساتھ زردی آمیز سرخ رنگ والا۔

صَنَّوْتُ صَنَّوَةً: التَّخَلُّةُ: درخت خرما کا کم پھل اور پکے تھے والا ہونا۔

الصَّنَّوْرُ: ہریز کا باریک و کمزور۔

الصَّنَّوْرُ وَالصَّنَّوْرَةُ: درخت خرما جس کا پھل کم اور تنہ پتلا ہو۔

درخت خرما جو دو سرے درخت خرما کی جڑ سے بغیر بونے ہوئے نکلے۔

الصَّنَّوْرُ وہ شخص جو کمزور بغیر والی وارث کے ہو۔

کینہ۔ چھوٹا بچہ۔ مصیبت۔ ٹھنڈی ہوا۔ گرم ہوا۔

خوش کی تالی جس سے پانی نکلے۔ ج صَنَّابِیْر۔

الصَّنَّوْرُ: ٹھنڈی ہوا۔ گرم ہوا۔ جاڑے کے سخت سات دنوں میں سے دو سران۔ ج صَنَّابِوْر۔

کما جاتا ہے لَبْلَةُ صَنَّوْرٍ و صَنَّوْرٍ: بہت ٹھنڈی یا گرم رات۔

صَنَّابِوْرُ الشَّتَاءِ: جاڑے کی شدت۔

الصَّنَّوْرِوْرُ: ایک درخت ہے جس کے پتے ہمیشہ سبز رہتے ہیں اور اس کے پتے بلندی پر ہوتے ہیں۔

الصَّنَّوْرِوْرِی: جو صنوبر کے پھل کی شکل کا گول لہبا مخروطی ہو۔

صَنَّیْعُ: البَحْبَحِلُ: سوال کے وقت متنبس ہونا۔

أَصَنَّتِ الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔

الصَّنَّوْرُ: شیشی کا غلاف۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی زنبیل۔ ج صَنَّابِیْتُ۔

أَصَنَّتِ الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔

الصَّنَّوْرُ: شیشی کا غلاف۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی زنبیل۔ ج صَنَّابِیْتُ۔

أَصَنَّتِ الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔

الصَّنَّوْرُ: شیشی کا غلاف۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی زنبیل۔ ج صَنَّابِیْتُ۔

أَصَنَّتِ الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔

الصَّنَّوْرُ: شیشی کا غلاف۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی زنبیل۔ ج صَنَّابِیْتُ۔

أَصَنَّتِ الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔

الصَّنَّوْرُ: شیشی کا غلاف۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی زنبیل۔ ج صَنَّابِیْتُ۔

أَصَنَّتِ الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔

الصَّنَّوْرُ: شیشی کا غلاف۔ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی زنبیل۔ ج صَنَّابِیْتُ۔

أَصَنَّتِ الشَّيْءُ: مضبوط کرنا۔

صَنَجَه (ن) صُنُوجًا بِالْعَصَاءِ: لا تَمُحِي سَ مارنا۔ صَنَجَ النَّاسَ: ہر ایک کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا۔

صَنَجَ تَصْنِيجًا بِهِ: بچھاڑ دینا۔ عوام کہتے ہیں "صَنَجَتْ رَقِيَّتُهُ" یعنی گردن کے اعصاب اڑ گئے اور صَنَجَتْ شَخْبَتُہ ہے۔

الصَّنَجُ: جانچ۔ مجیرا۔ جنگ۔ ج صُنُوج صَنَجَ الْحِجْرَ: حِجْر کی آواز۔ کہا جاتا ہے مَا أَذْرِي أَيُّ صَنَجٍ هُوَ" میں نہیں جانتا کہ وہ کون آدی ہے۔

الصَّنَاخُ وَالصَّنَاخَةُ: جھانچہ والا۔ صَنَاخَةُ الْعَرَبِ: اٹنی قیس شاعرانیت کا لقب صَنَاخَةُ الْحَيْشِ: مہل۔

الصَّنِيدُ: مِنَ الرِّيحِ أَوْ التُّرْدِ: تیز۔ مِنْ الْغَيْثِ: بڑی بوند کی بارش (وَالصَّنِيدُ) سردار۔ بہادر۔ ج صَنَائِدُ۔ الصَّنَائِدُ: مصیبتیں۔ فکری جماعت۔ کہا جاتا ہے "يَوْمَ حَامِي الصَّنِيدِ أَوْ الصَّنَائِدِ" یعنی سخت گرم دن۔

الصَّنْدُوقُ: بکس۔ ج صَنَائِقُ: الصَّنْدَلُ: ایک خوشبودار لکڑی کا نام۔

الصَّنَادِلُ: بڑے سروالا۔ الصَّنْدَلَانِي: عطار۔ صِنْدَلَانِي میں ایک لغت ہے۔ ج صَنَائِدَةٌ۔

الصَّنَارُ وَالصَّنَارُ: چٹار کا درخت۔ وَاحِد صِنَارٌ وَصِنَارَةٌ۔

الصِّنَارَةُ: نکلے کے سرے پر منڈھا ہوا لہا۔ صِنَارَةُ الصِّيَادِ: مچھلی وغیرہ کے شکار کرنے کا کانا۔ ہنسی۔ ج صِنَائِرُ: کہا جاتا ہے "رَجُلٌ صِنَارَةٌ وَصِنَارَةٌ" یعنی بد خلق مرد۔ ج صِنَائِرِي۔ الصَّنُورُ: بچل۔ بد خلق۔

صَنَعَ (ف) صَنَعًا وَصَنَعًا: الشَّقِ: بنانا۔ _____ إِلَيْهِ مَعْرُوفًا: احسان کرنا۔ _____ بِهِ صَنِيعًا قَبِيحًا: بُرائی کرنا۔ _____ صَنَعًا وَصَنَعَةً: الفَرَسِ: اچھی تربیت کرنا۔

صَنَعَ الشَّقِ: مزین کرنا۔ کارگیری سے خوبصورت بنانا۔ اصْنَعُ الرَّجُلُ: سیکھنا۔ مضبوطی سے کام

کرنا۔ دوسرے کو دہرانا۔

صَانَعَةٌ مُصَانَعَةٌ: نری کرنا۔ مدارات کرنا۔ رشوت دینا۔ مثل مشہور ہے "مَنْ صَانَعَ بِالْمَالِ لَمْ يَحْتَشِمِ مِنْ طَلَبِ الْحَاجَةِ" جو شخص

رشوت میں مال خرچ کرے وہ حاجت کے طلب کرنے سے متنبض نہیں ہو سکتا۔ _____ عَنِ الشَّقِ: فریب دینا۔ _____ الرَّجُلُ: فریب دینا۔

تَصَنَّعَ: تَزَمُّنِ كَالْكَتِيفِ: کرنا۔ بناوت کرنا۔ اصْطَنَعَ: شَيْئًا: تیار کرنے کا حکم دینا۔ _____ عِنْدَهُ صَنِيعَةٌ: احسان کرنا۔ _____ ه: ادب

سکھانا۔ _____ ه لِنَفْسِهِ: اپنے لیے اختیار کرنا۔ _____ فَلَانٌ خَيْرَاتِي كَمَا تَيَارُكَرُنَا: الرَّزْقُ: پیش کرنا۔

اِسْتَصَنَّعَهُ: الشَّقِ: کسی چیز کو بنانے کے لیے کرنا۔

الصَّنْعُ: مہ۔ ایک چھوٹا سا جانور۔ رَجُلٌ صَنَعُ الْيُنْدِيِّنِ: کارگیری میں ماہر۔ ج رجالٌ صَنَعُونَ۔ الصَّنْعُ: مہ۔ عمل۔ احسان۔ رزق۔

الصَّنْعُ: بنا ہوا۔ کپڑا۔ نماد۔ حوض۔ قلعہ۔ گوشت بھوننے کی تہ۔ درزی۔ ج اصْنَاعٌ رَجُلٌ صَنَعُ الْيُنْدِيِّنِ: کارگیری میں ماہر۔ ج رجالٌ صَنَعُونَ۔

الصَّنْعَةُ: پیش۔ کاری گری۔ صَنَعَةُ الْفَرَسِ: گھوڑے کے سدھانے کا فن۔

الصَّنَاعُ: لکڑی جو پانی کو کچھ دیر روکنے کے لئے نالی میں لگا دی جائے۔

رَجُلٌ صَنَاعُ الْيُنْدِيِّنِ وَصَنَعُ الْيُنْدِيِّنِ: کارگیری میں ماہر اور ایسا ہی اَمْرًا صَنَاعُ الْيُنْدِيِّنِ وَ اَمْرًا اَتَمَّ صَنَاعِيًا وَ نِسْوَةٌ صَنَعٌ: اور شاعروں بلغ کے لیے کہا جاتا ہے۔ _____ هُوَ صَنَعُ الْبَلِغِ وَ لَهٗ لِسَانٌ صَنَعٌ۔

الصَّنَاعَةُ وَالصَّنَاعَةُ: پیش۔ وہ علم جو مزاوت عمل سے حاصل ہے جیسے درزی کا کام جو لہا گری وغیرہ وہ علم جس کا تعلق کیفیت عمل سے ہو جیسے منطق۔

اور کہا گیا ہے کہ صَّنَاعَةٌ بِالْفَتْحِ كَالِاسْتِعْمَالِ مَحْسُوسَاتٍ مِمَّنْ هُوَ تَابِعٌ وَ اَمْرًا صَّنَاعَةً بِالْكَسْرِ كَالْمَعَالِي مِمَّنْ ج صَّنَاعَاتٍ وَصَنَائِعٍ۔

الصَّنَاعِي: مصنوعی۔ طبعی کا مقابل۔

الصَّنِيعُ: مہ۔ بنایا ہوا۔ صِغَلٌ شَدِيدٌ لَمَّا تَمَّرَ صَافٌ سَمَّرًا كَبِيرًا: سدھا ہوا گھوڑا۔ کھانا۔ احسان۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ صَنِيعٌ" یعنی فلاں میرا

تربیت یافتہ ہے "صِنْفٌ صَنِيعٌ" جس کی جلاعی دیکھ بھال کی جائے۔ "رَجُلٌ صَنِيعُ الْيُنْدِيِّنِ" کاری گری میں ماہر۔ مَوْنُثٌ "صَنِيعَةُ الْيُنْدِيِّنِ" قَوْمٌ صَنِيعُ الْاِيْدِي وَصَنِيعُ الْاِيْدِي وَصَنِيعُ الْاِيْدِي وَصَنِيعُ الْاِيْدِي وَاصْنَاعُ الْاِيْدِي: کارگیری میں ماہرین۔

الصَّنِيعَةُ: احسان۔ ج صَنَائِعُ: کہا جاتا ہے "هُوَ صَنِيعِيٌّ" میرا تربیت یافتہ ہے۔

الصَّنَائِعُ: فا۔ کارگیری۔ ج صَنَاعُ: کہا جاتا ہے "اَمْرًا صَنِيعًا صَنِيعًا" یعنی کارگیری میں ماہر عورت۔

صَنَعَاءُ: موجودہ یوں کاردار حکومت۔ نسبت کرنے میں صنْعاعی اور صنْعاعی کہا جاتا ہے۔

الصَّنَاعَةُ: لکڑی جو پانی کو روکنے کیلئے نالی میں لگا دی جائے۔

الصَّنَاعَةُ الْمَصْنُوعَةُ وَالْمَصْنُوعُ: حوض جس میں بارش کا پانی جمع کیا جائے۔ ج مَصَائِعُ الْمَصَائِعُ: گاؤں۔ قلعے۔ محلات۔ المَصْنُوعَةُ: کھانے کی دعوت۔ کہا جاتا ہے "كُنَّا فِي مَصْنُوعَةٍ فَلَانَ" ہم فلاں کے یہاں دعوت میں تھے۔ مقام شدت کی کمیوں کیلئے جو آبادی سے علیحدہ بنایا جائے۔

صَنَّفَ الشَّقِ: قسم قسم بنانا اور بعض کو بعض سے جدا کرنا۔ _____ الْكِتَابِ: کتاب تصنیف و تالیف کرنا۔ _____ الشَّجَرِ: پتے لگانا۔ _____ كَبُورٌ كَالِدِهِ كَبُورًا: تَصَنَّفَتِ الشَّجَرُ أَوْ النَّبَاتُ: پتے لگانا۔

تختلف قسمیں ہونا۔ تصنیف الشَّقِ: ہونٹ کا چھل جانا۔ تصنیف السَّاقِ: پینڈی کا پھٹ جانا۔ الصَّنْفُ: صفت۔ کہا جاتا ہے "صِنْفُهُ كَذَا" صِنْفُ الثَّوْبِ: کپڑے کا نام۔

الصَّنْفُ وَالصَّنْفُ: نوع۔ قسم۔ کہا جاتا ہے "عِنْدَهُ صِنْفٌ مِنَ الْأَمْنَةِ" یعنی اس کے پاس ایک قسم کا سامان ہے۔ ج اصْنَائِفٌ وَصُنُوفٌ۔

آواز کے لیے غلٹی۔

اور یا جن سے جانور وغیرہ کو آواز دی جائے یا ڈانٹا جائے جیسے گھوڑے کے لیے ہلا اور چمکے لیے غلٹی۔

اور یا تعجب کے لیے جیسے وی یا اظہار درد کے لیے جیسے آح یا اظہار حسرت و انوس کیلئے جیسے آو۔

الصوت والصات والصیت والصینة۔ اچھی شہرت۔ کہا جاتا ہے "اِنَّشَرَّ صَوْتُهُ بَيْنَ النَّاسِ" اس کی شہرت لوگوں میں پھیل گئی۔ الصینة: نوع آواز۔

الصات والصیت۔ بلند آواز والا۔ کہا جاتا ہے زَجَلٌ صَاتٌ وَ صَوْتُ صَيَّتِ الْمَضَوَاتِ۔ بت آواز دینے والا کہا جاتا ہے "مَا بِالذَّارِ مَضَوَاتٍ" یعنی گھریں کوئی نہیں۔

الصَوْحَانُ۔ خشک سخت۔ مؤنث صَوْحَانَةٌ۔ نَخْلَةٌ صَوْحَانَةٌ۔ خشک درخت خرما جس کے پتے بھی خشک ہوں۔ کہا جاتا ہے "أَيْ صَوْحَانٌ هُوَ" یعنی کون آدی وہ ہے۔

صَاخَةٌ تَصُوخُ صَوْخًا۔ چاڑنا۔ صَوْخَةٌ الشَّمْسِ أَوْ الرَّيْحِ: خشک کرنا۔ صَوْخَ النَّبْلِ: خشک ہونا۔

تَصَوَّحَ: پھٹنا۔ خشک ہونا۔ اِنصَاحٌ: اِنصِاحًا۔ پھٹنا۔ الفَعْوُ: روشن ہونا۔

الصُّوْحُ وَالصُّوْحُ: تھرکانارہ۔ دامن کوہ۔ الصَّاخَةُ: بجز زمین۔

الصُّوْحُ: گھوڑے کا بوند۔ کھجور کا خشک ٹکڑا۔

الصُّوْحَانُ: خشک۔ صَاخٌ تَصُوخُ صَوْخًا: فِی الْأَرْضِ: زمین میں دھنسا۔

أَصَاخٌ إِصَاخَةٌ: لَوْ أَلِيَهُ: کان لگانا۔ کہا جاتا ہے اصاخ عن كذا یعنی فلاں چیز سے رجوع کیا و "أَصَاخُ عَلِيٍّ حَقِي فُلَانٌ" فلاں کے حق ضائع کرنے پر خاموش رہا۔

الصَّاخَةُ: مصیبت۔ ہڈی پر صدمہ کا اثر۔ صَاخٌ وَصَاخَاتٌ۔

الضباب۔ ایک نژاد درخت ہے صَابَةٌ وَاحِدٌ أَوْ دَرَّ "صَابَةٌ" اس درخت کے عصارہ کو بھی کہتے ہیں۔ الضَّبُّوبُ: جانب۔ کہا جاتا ہے "فُلَانٌ مُسْتَقِيمٌ

الضَّبُّوبُ" جب کہ اپنے ارادہ سے دائیں بائیں جانب مائل نہ ہو۔ صوب مطر سے تشبیہ دے کر عطا کے معنی بھی آتے ہیں۔ ضد خطا۔ الصَّيْبُ: بارش والا بادل۔

الصَّابَةُ: مصیبت۔ عقل کی کمزوری۔ کہا جاتا ہے "فِي عَقْلِهِ صَابَةٌ" یعنی توڑا سا خون ہے۔ الضُّوبَةُ: غلہ کلہیر۔

الصُّوَابُ: ٹھیک۔ لائق۔ حق۔

الصَّابِبُ: ٹھیک کرنے والا۔ ج صیاب۔

الصُّوَيْبُ وَالْمُصَيَّبُ: درست کار۔

صَبُّوبٌ: ٹھیک کرنے والا۔ بارش۔

مَطَلٌ صَبُّوبٌ: بسنے والی بارش۔

صَوَائِبُ الْقَوْمِ وَ صَيَّابُهُمْ وَ صَيَّابَتُهُمْ: قوم کے منتخب لوگ۔

الأصُوبُ: سخت مصیبت والا۔

المُصَيَّبَةُ: بلا۔ ہر امر مکروہ۔ ج مَصَابِيحُ وَ

مَصَابِيحُ وَ مُصَيَّبَاتٌ۔

المُضَابُ وَالْمُضَابَةُ وَالْمُضَوْبَةُ: بلا۔ ہر امر

مکروہ۔

المُضَابُ: جس میں کچھ جنون ہو۔

المُضَوْبُ: بچہ۔ ڈوٹی۔

الصُّوَيْجُ وَالصُّوَيْجُ: بیلن۔

صَاتٌ يَصُوْتُ وَ يَصَاتُ صَوْتًا: آواز دینا۔

پکارتا۔

صَوْتُ تَصَوُّتًا وَأَصَاتٌ إِصَاتَةً: آواز دینا۔

أَصَاتٌ بِفُلَانٍ: کسی کے متعلق غیر پسندیدہ چیز کو

مشہور کرنا۔ أَصَاتِ الطَّلَسْتُ وَ صَوْتُهُ: طشت

بجانا۔

اِنصَاتٌ: الزَجَلُ: جیکے سے جانا۔ جھکاؤ کے بعد

تدکاید ہونا۔ کہا جاتا ہے "اِنصَاتٌ بِهَ الزَّمَانِ" یعنی مشہور ہو گیا۔ "دَعِيَ فَاَنصَاتُ" بلایا گیا پس

متوجہ ہوا۔

الصُّوْتُ: آواز۔ ہر قسم کا راگ۔ ج أَصْوَاتٌ۔

نحویوں کے نزدیک اسماء اصوات وہ ہیں کہ جن سے کسی آواز کی حکایت کی جائے جیسے چھر چھر کی

صَهَا تَصْهِي صَهْوًا وَ صَهِي تَصْهِي — صَهِي زَحْمٌ كَمَا هِيَ أَوْ زَحْمٌ كَارِسًا صَهَا الزَّجَلُ۔

مادہ ہونا۔

صَهِي تَصْهِي صَهِيًا: غم سیدہ ہونا۔

صَاهِي: الدَّابَّةُ: جانور کی پیٹھ پر سوار ہونا۔

أَصْهِي إِصْهَاءً: الفَرَسُ: گھوڑے کی پیٹھ کا

درآمد ہونا۔

الصَّهْوَةُ: گھوڑے کی پیٹھ۔ کہا جاتا ہے

"اِسْتَوَى عَلَيَّ صَهْوَةُ الْعَرَبِ" یعنی اسے عزت

حاصل ہوئی۔ کوہان کا پھیلا حصہ۔ ج صِهَاءٌ وَ

صَهْوَاتٌ — پھاڑکی چوٹی کا برج۔ ج صَهِي

— زمین کا پت حصہ جس میں پانی جمع ہو۔ پانی

کاشع۔ ج صِهَاءٌ۔

صَابٌ يَصُوْبُ صَوْتًا وَ مَصَابًا: المَطَلُ:

بارش ہونا — الشَّيْ: اُوپر سے اترنا

— صَوْتًا: المَاءُ: مانا — السَّمَاءُ

الأَرْضُ: برساتا — هُ الْمَطَلُ: بارش کا پینچنا

— صَوْتًا وَ صَيَّوْبَةً: السَّهْمُ نَحْوُ الزَّمِيَةِ:

تیر کا ٹھیک نشانہ پر لگانا۔

صَابٌ يَصِيْبُ صَيَّبًا: السَّهْمُ القِرطَاسِ:

تیر کا نشانہ پر لگانا۔

صَوْبٌ: لَوْ رَأَيْتَهُ: تصدیق کرنا — فُلَانًا

کسی کی تصدیق کرنا — السَّهْمُ: سیدھا کرنا

— الفَرَسُ: گھوڑے کو دوڑنے کے لیے

چھوڑنا — الإِنَاءُ: جھکارنا — المَاءُ:

کرا دینا — زَامَةٌ: پست کرنا —

المَكَانُ وَ عَثِيْرَةٌ: ڈھلوان ہونا۔

أَصَابَ السَّهْمُ: تیر کا نشانہ پر لگانا —

الزَّجَلُ: درست کرنا — الشَّيْ: صواب

سمجھنا — مِنَ الشَّيْ: لینا — الشَّيْ:

پانا۔ جڑ سے اکھیرنا۔ پست کرنا — إِصَابَةٌ وَ

مُصَابَةٌ: الدَّهْرُ القَوْمُ بِأَمْرِ إِلَهُمْ أَوْ تَقْوِيهِمْ:

تکلیف دینا۔ أَصَابَتِ المَصِيْبَةُ فُلَانًا: نازل

ہونا۔ أَصَابَهُ بِعَيْتِهِ: نظرد لگانا۔

تَصَوَّبٌ: عَجِيْ اُتْرَا۔

اِنصَابٌ اِنصِيَابًا: المَاءُ: پانی کا برساتا۔

اِنصَاتٌ اِنصِيَابَةً أَوْ اِنصَاتُوبٌ

اِنصَاتُوبًا: الزَّمِي أَوْ الفَعْلُ: صواب سمجھنا۔


فلاں کو اللہ تعالیٰ نے ایتھے طریقے سے پیدا کیا۔
 ”وَصَيِّعٌ عَلَىٰ صَيْغِهِ“ یعنی وہ اس کی پیدائش
 پر پیدا کیا گیا۔ و صَاعٌ لَّهُ الشَّرَابُ: اس کیلئے
 شراب خوشگوار ہوئی۔
 صَاعٌ يَصْنَعُ صَيْغَةً وَصَيَاغَةً وَصَيْغُوغَةً.
 الشَّيْءُ يَجْمَلَانًا وَحَالَانًا.
 اِنْفَاعٌ اِنْفَاعِيًّا. جَمَلَانًا وَحَالَانًا. کہا جاتا ہے
 ”هُوَ صَيِّعٌ اَوْ صَوْغَةٌ اَحْيِيَّةٌ“ یعنی وہ اس کے
 ساتھ پیدا ہوا یا اس کے بعد پیدا ہوا کہ ان دونوں
 کے درمیان کوئی اور نہیں۔ ”هَذَا صَوْغٌ هَذَا“
 یعنی وہ اس کے مطابق ہے۔ ”هَذَا صَوْغَانٌ“
 یعنی وہ پیدائش وغیرہ میں ایک جیسے ہیں۔
 الصَيْغَةُ تَمُّ اَصْلًا. کہا جاتا ہے ”هُوَ مِثْنٌ
 صَيْغَةٌ اَلْاَمْرُ كَذَا وَكَذَا“ امر اور وزن ہے جس
 پر امر کا صیغہ بنا یا جائے۔ ج صیغہ۔
 الصَّايِغُ زُرٌّ. سَارِجٌ صَاعَةٌ وَصَيَاغٌ وَ
 صَوَاغٌ الصَّيَاغَةُ: زُرٌّ. سَارِجٌ. کاپوشہ۔ کہا
 جاتا ہے ”هُوَ مِثْنٌ صَاعَةٌ الْكَلَامِ“ یعنی وہ اپنا
 صیغہ بنا۔
 الصَّوَاغُ وَالصَّيَاغُ وَالصَّيِّغُ لِاِيَّامٍ. جھوٹا۔
 المصَّاعُ: ڈھالے ہوئے زیور۔
 صَافٌ يَصْوُفُ صَوْفًا. عَنِ كَذَا: امراض
 کرنا۔ السَّهْمُ عَنِ الْهَدَفِ: تیر کا نشانہ
 سے خطا ہو جانا (صَوْفًا وَصَوْفًا
 وَصَوْفٌ يَصْوُفُ صَوْفًا الْكَيْشُ: مینڈھے کا
 بہت اون والا ہونا۔ صفت اَصَوْفٌ. صَوْفَةٌ:
 صوفی بنانا۔
 اَصَافَةٌ مَآكِلٌ كَرْنَا. جھکانا۔
 تَصَوَّفٌ. صوفی بننا۔ صوفیوں کی سی عادت بنانا۔
 الصَّوْفُ: اون۔ ج اَصْوَافٌ. صَوْفَةٌ: اون کا
 ٹکڑا۔ کہا جاتا ہے ”اَخَذَهُ بِصَوْفِ رَقِيَّتِهِ“ یعنی
 زبردستی پکڑا و ”اَعْطَاهُ اِيَّاهُ بِصَوْفِ رَقِيَّتِهِ“
 یعنی ہتھامہ یا مفت دے دیا۔
 الصَّوَّافُ: اون کا پیچھے والا۔
 الصَّوْفِيَّةُ: عبادت گزاروں کی جماعت۔ واحد
 صوفی۔
 الصَّافُ وَالصَّافِي وَالْاَصَوْفُ وَ

التَّصْوِوُغَةُ: سٹیچ۔ مجسمہ۔ بہت۔
 المَصْوُورُ: قاصد۔ تصویر بنانے والا۔
 مَصْوُورٌ الْكِنَانَاتُ: اللہ تعالیٰ۔
 الصُّوْصُ: تلمیح۔ بخیل۔ جو رات کو چھپ کر
 آئے تاکہ سمان نہ دیکھ لے۔ الصُّوْصُ عِنْدَ
 الْعَامَّةِ: عوام کے نزدیک مرغی کا بچہ جبکہ وہ
 انڈے سے نکلے اور فصیح لفظ قُوب ہے۔
 صَاعٌ يَصْوُغُ صَوْغًا. الْحَبُّ: صلح سے ناپنا
 القَوْمُ: ایک کا دوسرے پر حملہ کرنا
 الشَّيْءُ: موڑنا۔ متروک کرنا۔ القَوْمُ:
 قوم پر اطراف سے آنا۔ التَّخُلُّ: شد کی
 مکھیوں کا ایک دوسرے کے پیچھے جانا۔
 الزَّجْلُ: خوف دلانا گھبرانانا۔
 صَوَّعَ الشَّيْءُ: گول اور نوکدار بنانا۔
 لِنَقْطَانٍ: روئی ڈھننے کے لیے جگہ صاف کرنا
 الرِّيْغُ النَّبَاتُ: ہوا کا پودوں کو حرکت دینا
 الطَّائِرُ يَوَّاسِمُه: پرندہ کا سر کو حرکت دینا
 الْفَرَسُ: سر نشی کرنا۔ کہا جاتا ہے ”صَوَّعَ
 بَهْفُوسَةً“ یعنی سر نشی کی اور قبضہ میں نہیں آیا۔
 تَصَوَّعَ: متروک ہونا۔ زور ہونا۔ پھیلانا۔ النَّبَاتُ:
 پودہ کا بلبلنا۔ الشَّعْرُ: برآمد ہونا۔
 اِنْفَاعٌ اِنْفَاعِيًّا. جلدی لوٹنا۔ گزارنا۔
 الصَّاعُ وَالصُّوْعُ وَالصُّوْعُ: ایک قسم کا پیمانہ
 جو اسی روپے کے پیر سے ساڑھے تین پیر کے
 مساوی ہے۔ ج اَصْوَاعٌ وَاَصْوُوعٌ وَاَصْوُوعٌ وَ
 صُوْوعٌ وَصَيِّعَانٌ. الصَّاعُ: پست زمین۔ کھیلنے کا
 ڈنڈا۔ سینہ کا وسط۔ وہ زمین جس میں جھاڑو دے کر
 کھیلنا جائے۔
 الصَّاعَةُ: پست زمین۔ روئی یا اون ڈھننے کے
 لئے زمین۔ کہا جاتا ہے ”اِتَّخَذَ لِصَوْفِكَ صَاعَةً“
 اپنی اون ڈھننے کیلئے زمین بنا۔
 الصَّوَاغُ وَالصَّوَاغُ: پانی پینے کا پیالہ۔ ج
 صَيِّعَانٌ.
 صَاعٌ يَصْنَعُ صَوْغًا. الْمَاءُ: پانی کا نیچے اتر جانا
 الشَّيْءُ: درست نمونہ پر آراستہ کرنا
 الْكَلِمَةُ: وزن مخصوص پر دوسرے کلمہ
 سے کوئی کلمہ بنانا۔ کہا جاتا ہے ”صَاعَ الْكَلَامَ“
 یعنی گھڑ لیا۔ صَاعَ اللّٰهُ فَلَا تَأْصِيغَةَ حَسَنَةً“ یعنی

بَلَدًا صَوَّاحٌ. وہ شہر جس میں پیر دھنس جاتے
 ہوں۔
 صَاوَرٌ يَصْوُرُ صَوْرًا. آواز دینا۔ الشَّيْءُ:
 جھکانا۔ تم کہتے ہو ”صَاوَرٌ غَنَقَهُ اَوْ وَجْهَهُ الْيَتِي“
 یعنی اس نے اپنی گردن یا اپنے چہرے کو میری
 طرف مائل کیا۔ کسی چیز کو اپنی طرف جھکانا۔ کہا
 جاتا ہے ”صَوَّرْتُ الْفَصْنَ لِاَجْتِنِي الشَّمْسُ“ یعنی
 میں نے شئی اپنی طرف جھکانی تاکہ پھل توڑوں
 الشَّيْءُ: کانا۔ جدا کرنا۔
 صَوَّرَ يَصْوُرُ صَوْرًا. جھکانا۔ صفت اَصْوُرٌ. کہا
 جاتا ہے ”هُوَ صَوَّرَ الْيَ كَذَا“ جب کہ اپنی
 گردن یا چہرے کو مائل کرے۔
 صَوَّرَةٌ: تصویر بنانا۔
 صَوْرٌ لِي. خیال میں آنا۔
 اَصَاوَرُهُ: جھکانا۔ توڑنا۔
 تَصَوَّرَ: الشَّيْءُ: ذہن میں لانا۔ خیال میں لانا
 الزَّجْلُ: گھرانے کرنے کے قریب ہونا۔ کہا
 جاتا ہے ”طَعَنَهُ فَتَصَوَّرَ“ اس نے نیزہ مارا پس وہ
 گر گیا۔ ”تَصَوَّرَ لُهُ الشَّيْءُ“ اس کے ذہن میں
 صورت آئی۔
 اِنْفَاعٌ اِنْفَاعِيًّا. جھکانا۔ ٹوٹنا۔
 الصَّوْرُ: چھوٹا درخت خرم۔ ج صَيِّرَانٌ وَ
 اَصْوَارٌ. گردن کا پیلو۔ نہر کا کنارہ۔ ج صَيِّرَانٌ.
 الصَّوْرُ: نرسکھا۔
 الصَّوْرُ: کچی۔ ٹیڑھا۔ کہا جاتا ہے ”فِي غَنَقِهِ
 صَوْرٌ“ یعنی اس کی گردن میں کچی ہے۔
 الصَّارَةُ مِنَ الْجَبَلِ: پہاڑ کی چوٹی۔
 صَارَةٌ الْمَسْكُ: مشک کا ڈبہ۔
 الصَّوْرَةُ: اسم مرہ۔ جھکاؤ۔ سر کی خارش۔
 الصَّوْرَةُ: شکل۔ ج صَوْرٌ. صَوْرٌ. صَوْرٌ.
 الصَّوْرَةُ: صفت۔ نوع۔ چہرہ۔
 الصُّوَارُ وَالصُّوَارُ: گائیوں کا گلہ۔ اچھی بو
 توڑا۔ مسک۔ مشک کا ڈبہ۔ ج صَيِّرَانٌ.
 الصُّوَارُ: گائیوں کا گلہ۔
 الصَّيَّارُ: گائیوں کا گلہ۔ ج صَيِّرَانٌ.
 الصَّيِّرُ: اچھی صورت والا۔ کہا جاتا ہے ”زَجْلٌ
 صَيِّرٌ صَيِّرٌ“ مرد اچھی صورت میں نہت کا۔
 الاَصْوَرُ: جھکاؤ والا۔

<p>شک ہو جانا۔ صانہ یصوئہ صؤنا و صینا و صیناة و اصطائة اصطيانا. حالت کرتا۔ صفت مغوی مضون۔ مضون۔ دوسرا کم استعمال ہوتا ہے۔ صان الثوب او العرض: کپڑے اور آبرو کو عیب لگانے والی چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ تصون و تصاون: من العيب: اپنے نفس کی عیب سے حفاظت کرنا۔ تصؤنة: بچنے کے لیے تکلف کرنا۔</p>	<p>المبضول: بھگوانے کا برتن۔ من مضاوول۔ المبضولة: کھلیان کا جھاڑو۔ صام یصوم صؤما و صیاما و اصطام۔ روزہ رکھنا۔ چلنے پھرنے بولنے کھانے پینے سے رک جانا۔ صفت صائم من صایمون و صؤام و صیام و صؤوم و صییم و صیام۔ صام الشهر: روزہ رکھنا۔ مینتہ: موت چکھنا۔ النعام: شتر مرغ کا بیٹ کرنا۔ صام النهار: دوپہر ہونا۔ صامت الشمس: آفتاب کا وسط آسمان پر پچھنا۔ کما جاتا ہے "حینئہ و الشمس لہی مضاہما" یعنی میں اس کے پاس ایسے وقت پہنچا کہ آفتاب وسط آسمان میں تھا۔ صامت الريح: ہوا کا رک جانا۔ صومة: روزہ رکھنا۔ الصوم: روزہ۔ کام سے رکنا۔ روزہ دار نے لفظ مذکر و مؤنث واحد جمع سب پر لولا جاتا ہے۔ کما جاتا ہے "هو صوم" ہی صوم هم صوم. شہر الصوم: رمضان۔ صوم النعام: شتر مرغ کی بیٹ۔ الصوام: من الاراضی: شک بے پالی کی زمینیں۔ الصؤمان: روزہ دار۔ من صیامی۔ الصایم: روزہ دار۔ یوم صائم۔ وہ دن جس میں روزہ رکھا جائے۔ ماء صایم: ٹھہرا ہوا پانی۔ الصایمة من المسکاکین: کند چھری من الخیل: بغیر چارہ کے کھڑا ہونے والا گھوڑا۔ و الصایمة من البکرات: نہ گھونٹنے والی چرخی۔ الصؤام: بہت روزہ دار۔ کما جاتا ہے "هو صؤام قوام" یعنی وہ دن میں روزے رکھنے والا اور رات میں عبادت کرنے والا ہے۔ مصام القوس و مصامتها: گھوڑے کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ صومع: الشی: جمع کرنا۔ البناء: عمارت کو بلند کرنا۔ الصؤمعة و الصؤمعة: راہب کی کئی گرجا۔ الصؤمعة: عقاب: ایک قسم کی بسی ٹوپی پہاڑ کی چوٹی۔ من صوامع۔ صومل الزجل: کھال کا بھوک کی وجہ سے</p>	<p>الصایف۔ اون والا۔ الصؤفان: بہت اون والا۔ مؤنث صؤفانة۔ الصؤفان: ایک نرم شک چیز ہے جو درخت کی لکڑی کے اندر ہوتی ہے جو جلدی آگ پکارتی ہے۔ الصؤف و الصؤفانی: بہت اون والا۔ جبة صیفة: بہت اون والا جبہ۔ صاق الذابئة: ہانکنا۔ الصؤیف: ستو۔ سویت میں ایک لفت ہے۔ الصاق: پٹلی۔ من صؤق: ساق میں ایک لفت ہے۔ صاک یصؤک صؤکا۔ بہ الزعفران او المسک او نحوهما: زعفران یا مشک وغیرہ کا چھکانا۔ تصؤک: لہی زجیعہ و بزجیعہ: گوبر میں تھرتنا۔ صال یصؤل صؤلا و صؤلة۔ علیہ: کو دینا صؤلا و صیالا و صالا و صؤولا و صیالنا و مضالة۔ علیہ: حملہ کرنا اور زبردستی کرنا۔ صیل لہ الامر: کوئی معاملہ مقدر کیا جانا۔ صؤل البیدر: کھلیان کے اطراف و جوانب کو جھاڑنا۔ الشی: پانی سے نکالنا۔ پانی میں ڈال کو صاف کرنا۔ صاؤلة مضاؤلة و صیالا و صیالة ایک کا دوسرے پر حملہ کرنا۔ ایک دوسرے پر کودنا۔ تصاؤلا: ایک دوسرے پر حملہ کرنا۔ ایک دوسرے پر کودنا۔ الصؤلة: حملہ۔ قدرت۔ قہر۔ کما جاتا ہے "لقینہ اول صؤلة" یعنی اول ولہ میں ملاقات کی۔ صؤلة الجنظة: پانی میں سے نکالا ہوا اور صاف کیا ہوا گیہوں۔ الصؤلة: گیہوں وغیرہ کا کوڑا کرکٹ جو پانی سے صاف کرنے میں نکلے۔ کھلیان کے اگر گرد کا کوڑا کرکٹ۔ الصؤؤل: من الرجال: لوگوں کو مارنے والا۔ لوگوں پر زبردستی کرنے والا۔</p>
<p>الصؤان و الصؤان و الصؤان و الصینان و الصینان و الصینان: کپڑوں یا کتابوں کے محفوظ کرنے کا برتن۔ الصؤانة: ایک سخت قسم کا پتھر۔ ذہر۔ المصان و المصؤان: کمان وغیرہ کا خلاف۔ الصؤ: خالی۔ کما جاتا ہے "اناة صؤ" خالی برتن۔ الصؤة: گرج۔ آواز بازگشت۔ تیلہ نشان راہ کا پتھر۔ ج صؤی حج اصؤاء۔ الصؤی والاصؤاء: قبور۔ صؤی یصؤی صؤیا و صؤوی یصؤوی صؤوی و صؤوی تصؤیة و اصؤوی اصؤاء التخل: شک ہونا۔ صفت صؤی و صؤوی الصنغ: تھن کا شک ہو جانا۔ صؤی (س) صؤی۔ الرجل: قوی ہونا۔ صائب یصیب صیبا۔ درست ہونا۔ صفت صایب۔ صایبہ السهم: تیر کا نشانے پر لگنا۔ سهم صیوب: تیر نشانے پر لگنے والا۔ ج صیوب۔ الصیاب و الصیابة و الصیاب و الصیابة۔ خالص۔ ہر چیز میں سے عمدہ۔ کما جاتا ہے "هو من صیابہم و من صیابہم" یعنی وہ سب میں عمدہ ہے۔ الصیابة: سرور۔ جماعت۔ کما جاتا ہے "هو صیابة قومہ" وہ اپنی قوم کا سردار ہے۔ صیابة القوم: یعنی جماعت قوم۔ صاح یصیح صیحا و صیححة و صیاحا و صیاحا و صیحانا۔ پچھنا چلانا۔ بہ: پکارنا۔ آواز دینا۔ علیہ: ڈانٹنا۔</p>	<p>صؤمئل الزجل: کھال کا بھوک کی وجہ سے</p>	<p>صؤمئل الزجل: کھال کا بھوک کی وجہ سے</p>

<p>میں چکر لگائے۔ ج صیق۔ صَالِكٌ يَصِيْقُ صَبِيحًا. بِه الطَّبِيبُ او الدَّمُ : خوشبو یا خون کا چکنا۔ صَيْلٌ لَهْ كَذَا: مقدر کیا جانا۔ الصَّيْمُ: بہت سخت۔ الصَّيْنُ: نلک جین۔ الصَّوَانِيُّ: چینی برتن۔ واحد صَيْئَةٌ۔ الصَّيئَةُ: کسی دھات کا طبق جو کسی چیز کو پیش کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔</p>	<p>القَوْمُ“ زمانہ گرما کی خوراک۔ ج صَوَائِفُ۔ المَصِيْفُ وَالمُتَصِيْفُ وَالمُصْطَفِافُ۔ موسم گرما بسر کرنے کا مکان۔ المَصِيْفُ: ندی جہاں پر بل کھاتی ہو۔ أَرْضٌ مَصْيَافٌ۔ زمین جس میں روئیدگی موخر ہو جائے اور موسم گرما میں اس میں بارش زیادہ ہوئی ہو۔ ج مَصَائِفُ۔ المَصَائِفُ: وہ پتے جو گرمی میں پیدا ہوں۔ الصِّيْقُ: چڑا چڑے۔ ج صَيْقَانُ۔ لچیند۔ بدبو۔ آواز (— وَالصَّيْقَةُ) وہ غبار جو فضاء آسمانی</p>	<p>ہے۔ ج صَيْفُ۔ الصَّيْفُ وَالصَّيْفَةُ۔ موسم گرما کی بارش۔ کہا جاتا ہے ”أَصَابَتْهَا صَيْفَةٌ عَزِيْزَةٌ“ ہم پر موسم گرما کی کثیر بارش ہوئی۔ الصَّيْفُ وَالصَّيْفِيُّ: گھاس جو موسم گرما میں آتی ہے۔ الصَّائِفُ وَالصَّافُ: گرم۔ صَيْفٌ صَائِفٌ۔ تاکید کے موقعہ پر یوں لاجاتا ہے جیسے لَيْلٌ لَّيْلٌ الصَّائِفَةُ: مؤنث الصَّائِفُ کا۔ موسم گرما کا وقت۔ گرمی کے زمانے میں جگ۔ ”صَائِفَةٌ</p>
--	--	---



الضنب۔ ایک دریائی جانور۔ موتی۔

الضُّوْبَان۔ موٹا قوی مرد یا اونٹ۔

ضَاذٌ (ف) ضَاذًا۔ خصوصت میں غالب آنا۔

ضَبْدٌ ضَوْأَدًا۔ زکام زدہ ہونا۔

أَضَاذَةٌ أَضَاذًا۔ زکام میں مبتلا کرنا۔

الضُّوْدُ وَالضُّوْدَةُ وَالضُّوْدَةُ۔ زکام۔

الْمَضْرُودُ۔ زکام زدہ۔

ضَازَةٌ (ف) ضَازًا أَوْ ضَازًا ظَلَمَ كَرًا۔

ضَازَةٌ حَقَّةٌ حَنَ كَثَا۔

قِسْمَةٌ ضَوْزَى وَضَازَى وَضَنْزَى۔ ناقص

تقسیم۔

الضَّنَائِرُ۔ کاموں میں گھس پڑنے والا۔

الضُّوْرَةُ۔ حیر مر۔

ضَاضًا ضَاضًا وَضَوْضًا ضَوْضًا۔

الْقَوْمُ فِي الْحَزْبِ۔ قوم کا لڑائی میں شرمچانا۔

الضَّاعَا وَالضُّوْضَا وَالضُّوْضَى۔ لڑائی کا

شور۔

الضُّوْضُو وَالضُّضُّضَى۔ اصل۔ کان۔ معدن۔

الضُّوْضُو۔ ایک قسم کا پردہ جس کے پردوں پر

طرح طرح کے نقشے ہوتے ہیں۔

ضَبِطٌ (س) ضَاظًا۔ الزَّجْلُ۔ چلنے میں

موڑ مڑے اور جسم کو حرکت دینا۔

ضَبِكَ۔ زکام زدہ ہوا۔ الضُّوَاكُ۔ زکام۔

ضَوُولٌ (ک) ضَاَلَةٌ وَضَوْوَلَةٌ۔ لاغر ہونا۔ حقیق

ہونا۔

ضَاعَلٌ۔ شَخْصَةً۔ اسے آپ کو حقیق کرنا۔

تَضَاعَلٌ۔ حقیق ہونا۔ کزور ہونا۔ چھوٹا ہونا۔

الشُّيْ۔ سکڑنا۔

إِحْطَالٌ۔ چھوٹا ہونا۔ کزور ہونا۔ صفت

مُضْطَبِّلٌ۔

الضَّيْبِيلُ۔ چھوٹا۔ باریک۔ حقیق۔ ڈبلا۔ ج ضَوْوَلَةٌ۔

وَضْبَالٌ وَضَيْبُولٌ۔

الضُّوْلَةُ۔ کزور۔ ڈبلا۔

الضَّيْبِيلَةُ۔ ضَيْبِيلٌ كَامُوْنَتٌ۔ باریک سانپ۔

طَلِقٌ كَالْوَا۔

ضَانٌ (ف) ضَانًا۔ الضَّانُ۔ بھیڑ کو بکریوں سے

جد کرنا۔

أَضَانٌ أَضَانًا۔ بہت بھیڑ والا ہونا۔

الضَّانُ۔ بھیڑ۔ ذبیہ۔

الضَّانِيں۔ کزور۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ ضَانِيٌ"

کزور مرد۔ ریت کا سفید چوڑا قطعہ۔ اُونُ وَاللَّـ

بھیڑ۔ ذبیہ۔ ج ضَانٌ وَضَانٌ وَضَيْبِيْنٌ وَضَيْبِيْنٌ۔

الضَّائِيَةُ۔ مَوْنَتٌ ضَانِيْنٌ ج ضَوَائِيْنٌ۔

الضَّيْبِيْنِيُّں۔ دی جانے کی بڑی سبک بھیڑ کی کھال

کی۔

ضَايٌ يَضَايُ ضَايًا۔ الزَّجْلُ۔ جسم کلاغر ہونا۔

ضَبٌ (ض) ضَبًا۔ چپ ہونا۔ التَّاقَةُ۔

اُوْتَمِيٌّ كُو پُورِي تھیلی لگا کر دوہنا۔ عَلِيٌّ

الشُّيْ۔ جمع کرنا۔ الشُّيْ۔ زمین سے چمٹنا

عَلِيٌّ۔ مغربوں سے پکڑنا۔ کہا جاتا ہے

"فَلَانٌ يَضِبُّ فُوَّهُ أَوْ يَضِبُّ لِنَاثِهِ بِكَذَا أَوْ عَلِيٌّ

كَذَا" جبکہ حرص زیادہ ہو جائے () ضَبًا وَ

ضَبِيْبًا) الرِّيْقُ أَوْ الدَّمُ۔ تھوک یا خون بہنا۔

ضَبَبْتُ (ض) ضَبًا وَضَبُوْنَا الشَّقْفَةَ۔ ہونٹ

میں ایسی بیماری ہونا جس کی وجہ سے خون سے۔

ضَبَبْتُ يَضِبُّ وَضَبِبْتُ يَضِبُّ ضَبَابَةً۔

المَكَائِنُ۔ کسی جگہ میں زیادہ گوہ ہونا۔ صفت

ضَبَبْتُ مَوْنَتٌ ضَبِيْبَةٌ۔

ضَبَبْتُ عَلِيَّ الشُّيْ۔ سخت بھڑکنا۔ جمع کرنا۔

ضَبَبْتُ عَلِيَّ الضَّبِّ۔ گوہ کو بھڑکانا۔ ضَبَبْتُ

الْيَابِ۔ دروازے میں ملی لگانا۔

أَضَبٌ۔ خاموش ہونا۔ چیخنا اور گنگو کرنا۔

(ضد) الْمَاءُ أَوْ الرِّيْقُ۔ پانی یا تھوک بہنا

الْيَوْمُ۔ دن کا کمر والا ہونا۔

المَكَائِنُ۔ زیادہ روئیدگی والا ہونا۔

الشَّقْفُ۔ بال کا زیادہ ہونا۔ الْقَوْمُ۔ کسی کام

کے لیے اکٹھا اٹھ کھڑا ہونا۔ الْقَوْمُ فِي

بَغْيَتِهِمْ۔ حصول مطلب کیلئے متفرق ہونا۔

أَضَبُوا الْفُلَانِيں۔ کسی کے طلب کرنے کے لئے

متفرق ہونا۔ الْمَاءُ أَوْ الدَّمُ۔ بہانا۔

عَلِيَّ الْأَمْرِ۔ حاوی ہونا۔ عَلِيَّ الشُّيْ۔

چھپانا۔ عَلِيَّ الْمَطْلُوبِ كَالْمِيَالِي كِے

قريب ہونا۔ أَضَبُوا عَلَيْهِ۔ بھیڑ کرنا۔ أَضَبْتُ

عَلِيَّ عَاطِفِيں نَفْسِيہہ۔ جو کچھ دل میں ہو اس پر

خاموش رہنا۔ عَلِيَّ عَاطِفِيں قَلْبِيہہ۔ کہنے کو

دل میں پوشیدہ رکھنا۔

تَضَبَّتْ الضَّبِيْبِيُّں۔ بچے کا موٹا ہونے لگانا۔

الضَّبُّ۔ گوہ۔ ج أَضَبْتُ وَضَبَانٌ وَضَبَابٌ وَ

مَضَبَّةٌ۔ عرب کہتے تھے "لَا أَفْعَلُهُ حَتَّى يَرَوْا

الضَّبَّ" یعنی میں یہ کام نہیں کروں گا یہاں تک

کہ گوہ پانی پر آئے اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ

گوہ پانی پر نہیں آیا کرتی۔

بِقَلْبَةِ الضَّبِّ۔ ایک خوب دوار بنانا۔

الضَّبُّ۔ اُوْتَمِيٌّ كِے سینہ یا قدم کا اور م۔ اُوْتَمِيٌّ

کے اگلے پیر کا مرض۔ ہونٹ کا مرض جس سے

خون سے۔

الضَّبُّ وَالضَّبَبُ۔ پوشیدہ کہنے۔ ج حَبِيْبَابٌ۔

کہا جاتا ہے "زَجَلٌ حَبُّ ضَبِّ" یعنی دعا باز جیلہ

گر مرد۔

الضَّبَّةُ۔ ضَبُّ كَامُوْنَتٌ۔ شگوفہ قبل اس کے

ضبط

ضبط

ضبط

۳۶۸

ضبطہ۔ المضبط۔ کوڑنے والا۔ شیر۔ المضبوط۔ دارتھی۔ ضبطہ (ض) ضبط۔ ٹھیکوں سے تیز دیکھنا۔ الضبط والضبط۔ من الذناب: تیز نظر بھیرنا۔ ضبطت (ن) ضبطنا علی الغریم: قرضدار پر سختی سے تقاضا کرنا۔ ضبطت (س) ضبطنا نفسه: جی کا بگڑنا اور متلانا۔ الضبطن: بخیل۔ الضبطن: شریہ: کہا جاتا ہے "هو ضبطن شہ" وہ برائی کا ساقی ہے یعنی شر ہے۔ الضبطن: سخت مزاج۔ فرجی۔ الضبطن: سخت مزاج۔ گراں تن۔ گراں جان۔ بزدل۔ بیوقوف۔ ضبطت (ض) ضبطنا وضبطنا: لازم ہوتا۔ غالب ہوتا۔ قوی ہوتا۔ خوب حفاظت کرنا۔ الضبط: مضبوط کرنا۔ الکتاب: صحیح کرنا۔ اعراب لگانا۔ علیہ: گرفتار کرنا۔ ضبط (س) ضبطنا: دونوں ہاتھوں سے کام کرنا۔ صفت ضبط مؤنث ضبطاء: ج ضبط۔ ضبطت: الأرض: زمین پر بارش ہونا۔ تضبط: زبردستی گرفتار کرنا۔ تضبط الضمان: جوتنا ہونا۔ تھوڑی سی گھاس کھانا۔ الضبط: قابو میں آنا۔ مضبوط ہونا۔ الضبط: ہم۔ روک۔ گرفتاری۔ الضباط: فا۔ قوی۔ ہوشیار۔ حاکم۔ فوج کا جنرل۔ ج ضباط () والضباط: عند العلماء وہ قاعدہ کلیہ جو اپنے سارے جزئیات پر مضبوط ہو۔ الضباط والأضبط: شیر۔ ضبط (ف) ضبطنا وضبطنا: ضبطنا البعیث: اونٹ کا تیز دوڑنا اور اپنے پہلوؤں کو پھیلاتا۔ القوم الضلع: صلح کی طرف ماں ہونا۔ ضبطنا: مارنے کیلئے ہاتھ بڑھانا الزجل: علم کرنا۔ علی فلان:	_____ ضبطنا التاز الغوز: آگ کا لکڑی کو خیر کرنا۔ ضبطنا: رودر رو مقابلہ کرنا۔ گل دینا۔ بڑا بھلا کرنا۔ الضبط: لؤنہ: راکھ کے رنگ کا ہوجانا۔ ضبطنا: ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا۔ بڑا بھلا کرنا۔ الضبطاء: مکان کہ جس میں آگ کا اثر ہو۔ الضبط: راکھ۔ الضبط: سنگستان کا پتھر۔ ضبط (ن) ضبطنا: تراور گد ر کجوروں کو ملانا۔ ضبطہ: فحشہ آور چیزوں کو یاد دلانا۔ الضبط: فحشہ۔ غضب۔ ضبط (ن) ضبطنا: الحجارة: نہ بہہ رکھنا۔ الکتاب: جمع کرنا یا بنڈل بنانا () ضبطنا ضبطنا: الفوض او المقتد: ناگھوں کو جمع کرنا اور کوڑنا۔ ضبط: الشئ: جمع کرنا۔ الضبط: کلڑی کی بنی ہوئی چیز جس پر کھال منڈھی ہوئی تھی اور جس کے اندر داخل ہو کر جنگ کے لیے قلعہ کے قریب پہنچتے تھے۔ ج ضبط: فقر۔ فزض ضبط: گھوڑا تام الحلقہ۔ الضبط والضبط: جنگلی اخروٹ کا درخت۔ الضبط: بغل۔ الضبط والضبط: کتابیں۔ ان کا واحد نہیں۔ الضبط: خلقت کی مضبوطی۔ الضبط والضبط: کتابوں کا بنڈل یا تھروں کا گٹھا۔ ج ضبطنا۔ الضبط: کتابوں کا بنڈل یا تھروں کا گٹھا۔ ج أضبط۔ الضبط: لوگوں کی جماعت۔ جمع کہتے ہیں "زأینہم یخزجون من المکان ضبطنا ضبطنا" میں نے ان کو دیکھا کہ لوگ جوق در جوق نکل رہے تھے۔ الضبط: زیادہ کوڑنے والا۔ الضبط والضبط: سخت۔ شیر۔ الضبط: لوط کی مانند ایک درخت۔ واحد	کہ کھلے۔ سختی سے چوڑ کر دوہنا۔ دروازے کا لوہے یا لکڑی کا ماسلا۔ ج ضبطنا۔ الأضبط: من الضبط: وہ اونٹ جس کو (ضبط) کی بیماری لاحق ہو۔ مؤنث ضبطاء: ج ضبط۔ الضبط: قہن میں ٹھگ سوراخ والی بکری۔ ضبط: السیف: گوار کی دھار۔ الضبط: کرا۔ ج ضبطنا۔ الضبط: ایک قسم کی خوراک جو گھی اور گجور کے شیر سے بچوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ أرض مضبطہ: زیادہ گوہ والی زمین۔ ج مضبط۔ المضبط: بخیل۔ ضبطاً (ف) ضبطنا وضبطنا: الزجل: زمین یا درخت سے چمٹنا۔ صفت ضبطی۔ الضبط: فکاری کا قریب دینے کے لیے چمٹنا _____ ہا الأرض: چمٹنا۔ الیہ: پناہ لینا _____ منہ: شرم کرنا۔ علی القوم: اچانک آجانا۔ أضبطاً: الشئ: چمٹنا۔ علیہ: خاموش رہنا اور چمٹنا۔ ما فی یدہ و علیہ: پکڑے رکھنا۔ أضبطاً: ضبطنا: چمٹنا۔ الضبط: راکھ۔ المضبط: چمٹنے کی جگہ۔ ج مضطبی۔ ضبطت (ض) ضبطنا وضبطنا: الشئ و علیہ: سختی سے قبضہ کرنا۔ ضبطت بہ: حملہ کرنا۔ ضبطت علیہ: مارا جانا۔ الضبط: بعض۔ ج ضبطت وأضبطت: الضبطات: شیر کے بچے۔ الضبطات والضبط والضبط: شیر۔ المضبط: چگل اور شیر کے بچے۔ مضبط۔ واحد۔ ضبطت (ف) ضبطنا وضبطنا: الخیل فی وردھا: گھوڑے کا دوڑنے کی حالت میں جوف سے آواز نکالنا۔ () ضبطنا: الأزنب والثقلب والقوس: آواز کرنا
---	--	--

التَّجْمُ: ستارہ کا وہ بے کی طرف ساکل ہوتا۔
أَضَجَعَهُ: پہلو کے بل لیٹنا۔ الشَّقُّ: شق
پست کرنا۔ الحَرْفُ: حرف کا سروس کی
طرف اٹھ کرنا۔ جَوَّالِقَةُ: بھری ہوئی
گون کو خالی کر دینا۔

ضَجَعَتِ الشَّمْسُ: غروب کیلئے ساکل ہونا
وَضَجَّعَ: یعنی الأَمْرُ: کوتاہی کرنا۔
ضَجَّعَهُ: ساتھ لیٹنا۔ صفت مُضْجَعٍ: کہا
جاتا ہے "ضَجَّعَةُ الِهْمِ" یعنی اس کو غم لازم
ہے۔

تَضَجَّعَ عَنِ الأَمْرِ: غفلت کرنا۔
الضُّجْعُ: مہ۔ ہر وہ چیز جس سے کپڑا دھویا
جائے۔ صابون۔

الضُّجْعَةُ: صابون کا ایک ٹکڑا۔ ایک ہار کا
سونا۔ رائے کی کمزوری۔ آرام۔ راحت۔

الضُّجْعُ: جھکاؤ۔ کہا جاتا ہے "ضَجَّعَهُ الِی" یعنی
اس کا میلان میری طرف ہے۔

الضُّجْعَةُ: پہلو لیٹنے کی ہیئت۔ کالی۔
الضُّجْعَةُ: رائے کی کمزوری ()۔ و

الضُّجْعَةُ وَالضُّجْعِيُّ وَالضُّجْعِيُّ
وَالضُّجْعِيَّةُ وَالضُّجْعِيَّةُ: بہت زیادہ لیٹنے والا۔
کالی۔

الضُّجَاعُ: قا۔ لیٹنے والا۔ کالی۔ وادی کا سوز۔
وادی کا دھوان۔ بیوقوف۔ مِنَ النَّوَابِ:

بے برکت جاور۔ مِنَ التُّجُومِ: غائب
ہونے کی طرف مائل ستارہ۔ ج ضَوَّاجِعُ:

زَجُلٌ ضَجَّعَ بہت زیادہ لیٹنے والا۔ کالی۔ کہا جاتا
ہے "أَزَاكُ ضَجَّعًا الِی" یعنی میں تم کو اس کی

طرف مائل دیکھتا ہوں۔
الضُّجَاعَةُ: مؤنث ضَجَّعَ۔ نمر کا دھان۔

ثیلہ۔ ج ضَوَّاجِعُ () وَالضُّجَّعَاءُ: زیادہ
کھریاں۔

الضُّجُوعُ وَالْمَضُّجُوعُ: کمزور رائے والا۔
الضُّجُوعُ: ٹھگ جو لے جانے والے کو جھکا

دے۔ کشادہ ذول۔ پائی کی زیادتی سے آہستہ آہستہ
چلنے والا بادل۔

الضُّجَّعُ: ساتھ لیٹنے والا۔ مؤنث ضَجَّعَتُهُ۔
الضُّجَّعُ: خواب گاہ۔ ج ضَجَّعَ:

ضَجَّعْتُ ضَجَّعًا الِی: پناہ لینا۔ ضجعتہ النار:
آگ کا جھون دینا اور ختم کر دینا۔

أَضَجَّعَ الشَّقُّ: اٹھانا۔ روكنا۔ عَلَيْهِ: فتح
منہ کی لیے جا پہنچنا۔

الضُّجَّعُ: قا۔ راکھ۔
الضُّجَّعَةُ: جند العامیہ: تمباکو کیلئے چڑے کا بونہ

اور صحیح لفظ الضُّجَّعَةُ ہے اور ممکن ہے کہ یہ ظنییہ
کی تحریف ہو۔

المَضُّجَّعَةُ: جو بھل کی کمی ہوئی روٹی۔
المَضُّجَّعَةُ: جو بھل میں روٹی پکانے کا گڑھا۔

ضَجَّعَ (ض) ضَجَّجًا وَضَجَّجِيًّا وَضَجَّجًا وَ
ضَجَّجًا: چمکانا۔ شور مچانا۔

أَضَجَّجَ ضَجَّجًا: القَوْمُ: چمکانا۔ شور مچانا۔
ضَجَّجَ: الزَّجْلُ: جانا اور مائل ہونا۔

الظَّالِمُ وَنَحْوُهُ: زہر دینا۔
ضَجَّجَهُ ضَجَّجًا وَضَجَّجَةً: جھکا کرنا اور

شور مچانا۔
الضُّجَّةُ: چمکانا۔ شور۔

الضُّجَّاجُ: ہاشمی رات۔ ایک قسم کا مہرہ۔
الضُّجَّاجُ: گوند جو کھلا جاتا ہے۔ ہر اس

درخت کا پھل جو پرندوں یا درندوں کو بلور زہر
کے دیا جائے۔

الضُّجُّوجُ مِنَ النَّوْقِ: دودھ دوہنے وقت
چلانے والی اونٹنی۔

الضُّجَّاجُ: بہت شور مچانے والا۔
ضَجَّجَ (س) ضَجَّجًا وَضَجَّجَةً: ٹھگ ڈول

ہونا۔ بے قرار ہونا۔ زچ ہو جانا۔ صفت ضَجَّجٍ۔
أَضَجَّجَهُ: ستانا۔ زچ کر دینا۔ بے قرار کر دینا۔

ٹھگ ڈول کر دینا۔
الضُّجَّجُ: غم کی وجہ سے ٹھگ ڈول۔ بے قراری۔

الضُّجَّجُ: ٹھگ مکان۔
الضُّجَّجَةُ: بے قراری۔ ٹھگ ڈول۔

الضُّجَّجُورُ وَالضُّجَّجَةُ: بہت بے قرار۔ بہت
ٹھگ ڈول۔

الضُّجَّجُورُ: بے قرار کرنے والا۔ ٹھگ ڈول
کرنے والا۔ ج ضَجَّجًا وَضَجَّجِيًّا:

ضَجَّعَ (ف) ضَجَّعًا وَضَجَّعِيًّا وَالضُّجَّعُ
وَاضْطَّجَّعَ: پہلو کے بل لیٹنا۔ ضَجَّعَ

بَدْوًا كَلِيَةً لِيَةً أَمَّا:

ضَجَّعَ الزَّجْلُ: بزدل ہونا۔ ضَجَّعَتِ النَّحْلُ
وَالإِبِلُ: مجال میں پہلووں کو پھیلاتا۔

ضَجَّعَهُ مَضَّجَةً: ایک دوسرے کی طرف
گوار کا ہاتھ پرحانا۔ الزَّجْلُ: ہمالیہ کرنا۔

إِضْطَّجَّعَ: بازو ٹھہر کرنا۔ دائیں بئیں سے چادر
کو نکال کر بائیں کا دھمے پڑوانا۔ الشَّقُّ:

بئیں میں لینا۔
الضُّجَّعُ وَالضُّجَّعُ: جو۔ لفظ مؤنث ہے۔ نرو

ماہ دو نوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ ج ضَجَّعَ وَأَضْجَعُ
وَضَجَّعَ وَضَجَّعَةً وَضَجَّعَاتٍ وَضَجَّعَةٌ اور

تفسیر ضجع کی اَضْجَعُ۔ خلاف قیاس اور کبھی ماہ
کے لیے ضَجَّعَةُ کا استعمال کیا جاتا ہے اور دو

قسمیں مشہور ہیں۔ ضجع مخططة (دھاری
دار) ضجع رقطاء (خال دار) اور ضجع رقطاء

مخططة سے بڑا اور قوی ہوتا ہے۔
الضُّجَّعُ: بازو کا وسط۔ بازو۔ بئیں۔

الضُّجَّعُ وَالضُّجَّعُ وَالضُّجَّعُ: جانب۔ کنارہ۔ ج
أَضْجَعُ:

الضُّجَّعُ: قحط کا سال۔
الضُّجَّعُ وَالضُّجَّعُ: دُعا کے لیے ہاتھ اٹھانا۔

الضُّجَّعَانُ: تریجو۔ شقی۔ ضَجَّعَانُ: ضَجَّعَانَانُ
لفظ ہے۔ ج ضَجَّعَيْنِ۔ مؤنث ضَجَّعَانَةٌ ج

ضَجَّعَيْنِ وَضَجَّعَاتٍ۔
الضُّجَّعُ: قا۔ مِنَ النَّحْلِ وَالإِبِلِ: تیز

دوڑنے والا۔ ج ضَجَّعُ۔
ضَجَّعَ (ن) ضَجَّعًا: ٹھگ ہونا۔ صفت

ضَجَّعٍ۔ عَنَّةُ الِهْدْيَةِ: ہدیہ کو روک دینا۔
مع کرنا۔ ضَجَّعَهُ: بئیں اور پہلو کے درمیان

اٹھانا۔
أَضْجَعُ وَالضُّجَّعُ: بئیں اور پہلو کے درمیان

اٹھانا۔
الضُّجَّعُ: بئیں اور پہلو کے درمیان۔ کہا جاتا

ہے "فَلَا تَلِي ضَجَّعًا فَلَإِنْ أَوْضَجَّعْتَهُ" یعنی
فلاں آدمی فلاں کی پناہ میں ہے۔

الضُّجَّعَةُ وَالضُّجَّعَةُ وَالضُّجَّعَةُ: بال۔ بچہ۔
الضُّجَّعَةُ وَالضُّجَّعَةُ: بیوی۔

الضُّجَّعُ وَالضُّجَّعُ: لہجہ۔

أَضْحَى. چاشت کے وقت میں داخل ہوتا۔
 أَضْحَى يَفْعَلُ كَذَا: چاشت کے وقت ایسا کرتا
 تھا یا مطلقاً ایسا کرتا تھا (یہ کلمہ ان جیسے جملوں میں
 کماں جیسا عمل کرتا ہے)۔ الشئ: ظاہر
 کرنا۔ عَنِ الْأَمْرِ: دور رہنا۔ کہا جاتا ہے
 "أَضْحَى اللَّهُ ظِلِّكَ" یعنی اللہ تیرے سائے کو
 دور کر دے۔ مراد یہ ہے کہ تجھے ہلاک کر دے۔
 تَضَحَّى تَضَحَّى: چاشت کے وقت کھانا۔
 چاشت کے وقت تک سونا-دھوپ کھانا۔
 اسْتَضْحَى اسْتَضْحَى لِلشَّمْسِ: موسم
 سرما میں دھوپ کھانا۔
 الضحَاء: چاشت کا وقت۔
 الضحوة الضحوة: چاشت کا وقت۔
 الضحى: چاشت۔ آفتاب۔ بیان۔ کہا جاتا ہے
 "قال الكلامه ضحى" یعنی اس کے کلام کے لیے
 بیان نہیں۔
 الضحيان: چاشت کے وقت کھانے والا۔
 مؤنث ضحيانة۔
 الضحیة: دن کا بلند ہونا۔ قربانی کی بکری۔ زبیحہ۔
 ح ضحایا۔
 الأضحاة: قربانی۔ ح أضحی۔
 الأضحیة الإضحیة: قربانی۔ ح أضاحی۔
 یؤم الأضحی: قربانی کا دن۔ الأضحی من
 الخیل: سفید سیاہی مائل گھوڑا۔ مؤنث
 ضحیاء۔
 الضاحی: فا۔ دھوپ کھانے والا۔ ضاحی
 الجلد: جسم کا کھلا ہوا حصہ۔
 الضاحیة: مؤنث ضاحی۔ ہر شے کا کھلا ہوا
 حصہ۔ ح ضواح: ضواحی البلد: اطراف
 شہر۔ ضواحی الحوض: حوض کے اطراف۔
 کہا جاتا ہے "فعلت ضاحیة" یعنی اعلان کیا۔
 شحوة ضاحیة الظیل: بے سایہ درخت۔
 یؤم اضحیان: بے بادل کا دن۔
 لیلة اضحیانة و اضحیة: چاندنی رات۔
 أرض مضاخاة: سورج کے سامنے کی زمین یا
 جس سے سورج غائب ہوتا ہے۔
 ضح(ن) ضحأ: اللہ: پالی گرانہ۔
 ضحّت العین: آنسو بہانا۔

چمکتا ہوا پتھر۔ کہا جاتا ہے "لہ زائی ضاحک" یعنی
 ظاہر ہے جس میں کوئی التباس نہیں۔
 الضاحکة: مؤنث ضاحک۔ دانت جو پختے
 ہوئے ظاہر ہو جائیں۔ ح ضواحک۔ کہا جاتا ہے
 "الفتو عن ضواحک" اس نے ہنسنے میں دانتوں کو
 ظاہر کیا۔
 الضحکة والضحکة والضحاک
 والضحوک والمضحاک: بہت زیادہ ہنسنے
 والا۔ الضحوک والضحاک: درمیان۔
 راستہ۔ الضحوک کی جمع ضحک۔
 الضحکة: جس آدمی پر لوگ ہنسیں۔
 الضحکة: بولوگوں پر ہنسے۔
 الأضحوکة: وہ چیز جس پر ہنسی آئے۔ ح
 أضاحینک۔
 ضحل(ف) ضحلاً: الغدیو: تالاب کلابی کم
 ہونا۔ الماء: پانی کلابیا ہو جانا۔ کہا جاتا ہے
 "مما أضحل خیرک" یعنی کس چیز نے تمہاری
 خیر و برکت کو کم کر دیا۔
 الضحل: پیاب پانی۔ ح ضحال و أضحال و
 ضحؤل۔
 المضحل: وہ جگہ جہاں پانی کم ہو۔
 ضحاً یضحو ضحواً و ضحواً و ضحیاً
 الزجل: دھوپ کھانا۔ الشئ: دھوپ کا
 لگنا۔ الظریق: ظاہر ہونا۔ کہا جاتا ہے
 "ضحاً طلئة" یعنی مر گیا اور یہ ان کے قول
 "شحوة ضاحیة" (خیر سایہ دار درخت) سے
 ماخوذ ہے۔
 ضحی یضحی ضحواً و ضحیاً: دھوپ لگنا۔
 دھوپ کھانا۔ کھل جانا۔ ضحیت اللیلة: بے
 بادل کا ہونا۔
 ضحی تضحیة: فلاناً: چاشت کے وقت
 کھانا کھانا۔ بالشاة: بقر عید کے زمانہ میں
 چاشت کے وقت ذبح کرنا یا لقتاذیح کرنا۔ الغنم:
 چاشت کے وقت چرانا۔ الزجل: فد یہ ہو
 جانا۔ عَنِ الْأَمْرِ: دیر کرنا۔ جلدی نہ کرنا۔
 إِلَیْهِ: بیان کرنا۔ ظاہر کرنا۔
 ضاحی مضاخاة: الزجل: چاشت کے وقت
 آتا۔

الْمَضْطَجِع: خواب گاہ۔ مَضْجِعُ الْغَيْثِ:
 بارش کی جگہ۔
 ضجج(س) ضججاً الفم أو العنق: مندا
 گردن کا ٹیڑھا ہونا۔ جس کا ٹیڑھا ہو جائے اس کو
 اضجع اور مؤنث کو ضججاء کہتے ہیں۔ کہا جاتا
 ہے "فی فمہ ضجج" یعنی اس کے منہ میں کچی
 ہے۔
 تضجج الفم: منہ کا ٹیڑھا ہونا۔ الآخر
 یتنهم: مختلف نہ ہونا۔
 الضج: آفتاب کی روشنی۔ جس پر آفتاب کی
 روشنی پڑے۔
 ضحضح و تضحضح: السراب:
 سراب کا متحرک ہونا اور چمکتا۔ ضحضح
 الآخر: ظاہر ہونا۔
 الضحضح: تھوڑا پانی۔
 الضحضاح: تھوڑا پانی یا نایاب پانی۔ بہت
 آونٹ۔
 ضحک(س) ضحکاً و ضحکاً و
 ضحکاً و ضحکاً: ہنسا۔ کہا جاتا ہے "ضحک
 منہ و بہ و علیہ" اس نے کشادہ روئی کی اس
 طرح پر کہ دانت ظاہر ہو گئے۔ القوذ: بندر کا
 آواز کرنا۔ السحاب: بادل کا چمکتا
 الظریق: راستہ کا ظاہر ہونا۔ ضحکت
 الأرض عَنِ النَّبَات: آگاہا۔ الضیب
 یزایبہ: بڑھاپا ظاہر ہونا۔ طلع التخلیة:
 درخت ثرا کا ٹھونڈ لگانا (ضحکاً)
 الزجل: تعجب کرنا۔
 ضاحکة: ایک دوسرے کے ساتھ ہنسا۔ ہنسی
 میں غالب آنا۔
 أضحکة: ہنسا۔ أضحک الحوض: لبریز
 کر دینا۔
 تضحک و تضاحک و استضحک: ہنسا۔
 و تضاحک الزجل: تکلف ہنسا۔ تضاحک
 القوم: ایک دوسرے کو ہنسا۔
 الضحک: دم۔ سفید دانت۔ گلی۔ جھماک۔
 برف۔ درمیان راستہ۔ تعجب۔ شہدا شمد مع موم
 کے۔ کجور کا ٹھونڈ غلاف سے نکلا ہوا۔
 الضاحک: فا۔ ہنسنے والا۔ پاڑ میں نماز سفید

المطرقة تصان - ج مضار.

ضراً (ف) ضرباً الشئ: خشی ہونا۔ چھینا۔

انضرت انضراً - الابل: اونٹوں میں موت کا واقع ہونا۔ الشجره: درخت کا خشک ہونا۔

ضرب (ض) ضربنا۔ الشئ: متحرک ہونا۔

الغرق: رگ کا پھرنا۔ الجرح او

الضرب: زخم یا دائرہ میں درد ہونا۔

العقرب: بچھو کا ڈک مارنا۔ اللیل:

رات طویل ہونا۔ الزمان: گزرتا۔

الطیتر: پرندہ کا خوراک کی تلاش میں جانا۔

ہ: مارنا۔ التیز: سردی لگنا۔

ضرب العیمة: خیمہ قائم کرنا۔ ضربت

العنکبوت لیسبجھا: مکڑی کا جالنا۔ ضرب

الاجل: مدت مقرر کرنا۔ المثل: مثال

بیان کرنا۔ الدزھم: درہم پر نمپ لگانا

الخاتم: انگوٹھی ڈھالنا۔

الصلاة: نماز قائم کرنا۔ الشئ بالشئ:

لانا۔ الحاسب كذا: یعنی كذا ضرب رہا

الجزية علیہم: جزیہ مقرر کرنا۔

علیہم الذلّة: ذلت کو لازم کرنا۔ لہ

سہتمان مایہ: مال سے حصہ مقرر کرنا۔

علی یدہ: روک دینا۔ القاضی علی

یدہ: قاضی کا کسی کو تعریف سے منع کر دینا۔

ضرب بنفسہ الارض: اقامت کرنا۔ سفر کرنا

فی الماء: تیرنا۔ یتھم: فساد کرنا

دنا۔ فلانا عن فلان: روک دینا۔ منع کر

دنا۔ یتدہ: اشارہ کرنا۔ عن فلان

كذا: روک لینا۔ الذھر یتفتنا: جدا کر دینا

بالقداح: تھمروں کو گھمانا۔ علی

أذیہ: سننے سے منع کرنا۔ علی

المکتوب: مہر لگانا۔ فی التوق: ہلک

بیانا۔ الیہ: ناکل ہونا۔ کہا جاتا ہے

”ضربت عتہ صفحاً“ یعنی میں نے اعراض کیا

اور اس کو چھوڑ دیا۔ ”ضربت عتہ جڑوئی“

میں نے اس سے بے رغبتی کی اور اس سے باز رہا

و ”ضرب یدقہ الارض“ یعنی بڑی کی اور

خوف کیا و ”ضرب فی الارض ضربنا و

أصقرہ۔ تکلیف پہنچانا۔ ہ علی الامر:

مجبور کرنا۔ اصقر بہ: بہت قریب ہونا۔ الیہو

علیہ: جلدی کرنا۔ اصغر بعدو: کچھ تیز دوڑنا

۔ علی السیر الشدید: تیز چلنے میں مہر کرنا

۔ الرجل: سوگن کر کے لانا۔ اندھا ہونا۔

تصوّر۔ تصان پہنچانا۔

إضطرّہ الی كذا: محتاج کرنا۔ مجبور کرنا۔

أضطرّ۔ مجبور کیا جانا۔

إستصرّ بہ: تصان پہنچانا۔

الضّر والضرّ والضرور۔ تصان۔ خشکی۔ خشی

بدھالی۔ ج اضترار۔ اور عوام کے استعمال میں

ضّرہ چھوٹی چوٹی کے معنی میں ہے مگر صحیح لفظ

(ذّر) ہے۔

الضّر والضرّ۔ سوگن کر کے لانا۔ کہا جاتا ہے

”زجلّ ضرّ اضترار“ یعنی مصیبتوں میں ایک

مصیبت ہے۔

الضراء۔ خشکی۔ قحط۔ جانی وبال تصان۔

الضرة۔ جانی وبال تصان۔

الضرة حاجت۔ تنگ حالی۔ تکلیف۔ پستان کی

بز۔ پستان۔ قطن۔ مال کثیر۔ ضرة المرأة۔ سوگن۔

ج ضرّ الیر۔ کہا جاتا ہے ”بینھم ذاء الضّر الیر“

یعنی ان کے درمیان حد ہے۔ الضّر تان: بچل

کے دونوں پاٹ۔

الضراء: تصان پہنچانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے

اسم حسنیٰ میں سے ہے۔

الضروزة والضاروزة والضارور

والضاروزاء۔ حاجت۔ الضاروزة بمعنی ضرر۔

الضروزة۔ اندھا۔ لاغر مریض۔ تصان زہ۔ ج

أصراً و اضراً مؤنث ضریرة۔ ج ضرّ الیر۔

الضریور۔ غیرت۔ مخالفت۔ صبر۔ داوی کا نارا۔

نفس بقیہ جسم صابر۔ کہا جاتا ہے ”انہ ضریر و ذو

ضریر علی الشئ“ یعنی جب کہ صابر ہو ”نافۃ

ذات ضریر“ یعنی دریں میں تھکنے والی۔

الضروزی۔ جس پر انسان کو مجبور کیا جائے۔

جس میں اختیار مسلوب ہو اور منطقیوں کی

اصطلاح میں بمعنی بدیہی۔

التصيرة والتصيرة۔ بدھالی۔

انضخ الماء: گرنا۔

المضخنة: پکپاری۔

مضخرف) مضخراً عتہ: آگہ نکال لینا۔

مضخیم (ک) مضخامةً و مضخماً: موٹا ہونا۔

مفت مضخیم۔ ج مضخام مؤنث مضخمة۔ ج

مضخمات۔

مضخمة۔ موٹا ہونا۔

المضخام۔ ہرٹے کا بڑا۔

الأضخیم۔ موٹا۔ زیادہ موٹا۔

المضخیم۔ بہت مارنے والا۔ سردار۔ عالی

مرتب۔

ضدّ (ن) ضدّاً فلاناً فی الخسومة:

جھڑے میں غالب آنا۔ ضدّہ عنّ كذا: نری

سے ہٹانا۔ باز رکھنا۔ القرينة: ملک کو بھر

دینا۔

ضادة مضادة۔ مخالفت کرنا۔

أضدّہ غبناک ہونا۔ ضد کرنا۔

تضاداً تضاداً۔ ایک دوسرے کی مخالفت

کرنا۔

الضدّ۔ مخالف۔ مثل ونظیر دشمن۔ ج أضداد

و ضدّ۔

الأضداد۔ ایسے کلمات جو معانی متضادہ پر

ولایت کریں جیسے یہی لفظ ضد کہ اس کے معنی

مخالف اور نظیروں کے ہیں۔

الضدید۔ ضد۔ نظیر۔ کہا جاتا ہے ”لاضدید

لہ“ یعنی اس کا کوئی مثل نہیں۔

ضدی بضدی ضدی۔ علیہ: غبناک

ہونا۔ مفت ضاد مؤنث ضادینہ۔ ج ضوادی و

ضادیات۔

ضادة مضادة۔ مخالفت کرنا۔

أضدی أضدَاء۔ الإناء: برتن کو بھر دینا۔

ضّر (ن) ضراً و ضراً۔ فلاناً و لفلان:

تصان دینا۔ ہالی كذا: مجبور کرنا۔

ضّر۔ بضرة۔ اندھا ہونا۔

ضارة ضراً او مضارة تصان دینا۔ مخالفت

کرنا۔ تکلیف پہنچانا۔ ضاراً امرأة: اپنی بیوی پر

سوگن لانا۔

ضرة تضریراً۔ بہت زیادہ تصان دینا۔

<p>إلى الأضحي بؤانا۔ ضَرْبَةٌ تَحْيِرُنَا _____ ضَرْبُ الضُّبِ سرخ رنگنا جو گلابی سے کچھ زائد ہو _____ الأنف بالدم: خون آلود کرنا _____ الكلام: آراستہ کرنا _____ الإبل: بولٹ میں دوڑانا۔</p>	<p>مصرع ثانی کا آخری جز۔ ج ضَرْبٌ وَأَضْرَابٌ وَأَضْرَابٌ دِزْهُمُ ضَرْبٌ: ٹپ لگا ہوا درہم۔ ذَا الضَّرْبِ: گسال۔ الضَّرْبُ وَالضَّرْبُ: سفید گاڑھا شد۔ الضَّرْبَةُ: اسم مرة۔ وفتحاً واحدة۔ کہا جاتا ہے "لَا أَخَذْنَا لِي عَلَيْنَا الضَّرْبَةَ وَاجِدَةً" یعنی میرا مال جو تمہارے ذمہ ہے اس کو ایک ہی دفعہ لوں گا۔ آفت۔ فساد۔ الضَّرْبَانُ: مہ۔ ضَرْبَانِ الدَّهْرِ: زمانے کے حوادث۔</p>	<p>ضَرْبَانَا: تجارت یا غزوہ کے لیے سفر کرنا۔ ضَرْبٌ (س) ضَرْبَانَا: الثَّابِتُ: نہایت کا سرور یا ہوا سے مرعھا جانا۔ ضَرْبَتِ الْأَرْضِ: زمین پر کراہ پڑنا۔ ضَرْبَةٌ: بست مارنا _____ الشَّيْءُ بِالضَّرْبِ: بلانا _____ الْمَطْلَعَةُ بِالضَّرْبِ: پھتری کو دھاگے سے مضبوط کرنا _____ ه التَّجَاذُ الضَّرْبِيَّةُ: ورزی کار رضائی کو سینا _____ ضَرْبَتْ عَيْنَهُ: آنکھوں کا دھس جانا۔ ضَرْبٌ بَيْنَهُمْ: بھڑکانا _____ ه لِي الضَّرْبِ: برا گینگتہ کرنا۔ ترغیب دینا۔ ولادہ کرنا۔</p>
<p>ضَرْبٌ وَأَضْرَجُ: الحَنْبِ: لگانا۔ تَضْرَجُ: پھٹنا _____ الزَّهْرُ: پھول کا کھلنا _____ الشَّيْءُ: لت پت ہونا _____ العَدُوُّ: رخصہ کا سرخ ہونا۔ _____ المَرْأَةُ: عورت کا بنانا۔ سگھار کرنا۔</p>	<p>الضَّرْبُ وَالضَّرْبُ: مارنے والا۔ الضَّرْبُ: زیادہ مارنے والا۔ الضَّرْبُ: قابضت جگہ جس میں درخت ہوں۔ وادئ کے مثالی۔ تاریک رات جس کی تاریکی محیط ہو۔ ج ضَرْبِ الضَّرْبِ: الظُّلُمُ الضَّرْبِ: خوراک تلاش کرنے والے پرندے۔</p>	<p>ضَرْبُهُ مَضَارِبُهُ وَضَرْبَانَا: ایک دوسرے پر تکوار مارنا۔ مارنے میں بڑھ جانا۔ ایک دوسرے کو مارنا۔ ضَرْبُهُ وَضَرْبٌ لَهُ فِي الضَّرْبِ وَ بِالضَّرْبِ: کسی کے مال سے تجارت کرنا اور تلخ میں شریک ہونا۔</p>
<p>إِنضَرَجُ: پھٹنا _____ لَنَا الطَّرِيقُ: کشادہ ہونا _____ مَا تَيْنِ الْقَوْمِ: دوری ہونا۔ إِنضَرَجَتِ الْعُقَابُ: فکار پر ٹوٹ پڑنا۔ الضَّرْبُ: ہلکا سرخ رنگا ہوا۔ عَدُوُّ ضَرْبِ تیزوڑ۔</p>	<p>الضَّرْبُ: مارنے والا۔ ج ضَرْبَانَا _____ بِنَا ہوا۔ ج ضَرْبِي _____ قَمِ: شکل۔ شکل۔ حصہ آدی کی صفت۔ برف پالاج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبِيَّةُ: طبیعت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "هذه ضَرْبِيَّةُ الشَّيْءِ عَلَيْنَا" یعنی یہ اس کی عادت ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تلوار سے مارا ہوا۔ بدن کا وہ حصہ جس میں مارا جاتا ہو۔ جزیہ _____ مِنَ السَّيْفِ: دھار _____ مِّنَ الضَّرْبِ وَ نَحْوَهُ: آدن یا روئی کی پٹی۔ ج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبُ: بارے کی جگہ یا وقت۔ اصل _____ وَالضَّرْبُ: تلوار یا اس کی دھار۔ ہڈی جس میں گودا ہو۔ ج مَضَارِبُ</p>	<p>اضرب في المكان: اقامت کرنا۔ سر جھکانا _____ عَنَهُ: اعراض کرنا _____ الْقَوْمُ: پالے سے ڈھک جانا _____ الخَبْرُ: بکتا۔ کہا جاتا ہے "أَضْرَبْتُ جَأْشًا لِأَمْرِ كَذَا" یعنی اس نے فلاں کاہ پر اپنے آپ کو مستعمل کر لیا۔ تَضْرِبُ الشَّيْءُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ تَضَارِبُ الْقَوْمِ: ایک دوسرے کو مارنا۔ إِضْطْرِبُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ ایک دوسرے کو مارنا _____ الْأَمْرُ: غلظ پذیر ہونا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو مارنا _____ هِي أَهْوَدُ: حرد ہونا۔ کہا جاتا ہے إِضْطْرِبُ حَبْلَهُمْ یعنی ان کا کلمہ مختلف و متفرق ہو گیا _____ مِّنْ كَذَا: تنگ دل ہونا _____ فَلَانٌ: حصہ مقرر کرنے کا سوال کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِضْطْرِبْتُ خَاتِمًا مِّنْ ذَهَبٍ" یعنی میں نے سونے کی انگوٹھی بنانے کے لیے کہا۔ إِضْطْرِبُ: القَسْلُ: شد کا سفید اور گاڑھا ہونا۔</p>
<p>الاضرب: زور رنگ کی چادر۔ سرخ ریشم۔ سرخ رنگ۔ تیزوڑنے والا گھوڑا۔ المضرب: برانا مستعمل کپڑا۔ ج مضارب المضارب: مشتق۔ عَيْنُ مَضْرُوبَةٍ: بڑی خوبصورت آنکھ۔ الضَّرْبُ: پیمانہ۔ ج ضَرْبِ الضَّرْبِ ضَرْبٌ (ف) ضَرْبَانَا: الشَّيْءُ: پھاڑنا۔ علیہ کرنا۔ دہش کرنا۔ کہا جاتا ہے "ضَرْبٌ هَهَاةُ فُلَانٍ عَنِّي" یعنی فلاں کی شہادت کو رد کر دیا۔ "ضَرْبٌ عَنِّي الضَّرْبُ" میں نے کپڑے کو اتار دیا۔ القَبْرُ: قبر کھودنا۔ ضَرْبٌ لِلنَّبِيَّةِ: میت کیلئے صندوق قبر بنانا۔</p>	<p>الضَّرْبُ وَالضَّرْبُ: مارنے والا۔ ج ضَرْبَانَا _____ بِنَا ہوا۔ ج ضَرْبِي _____ قَمِ: شکل۔ شکل۔ حصہ آدی کی صفت۔ برف پالاج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبِيَّةُ: طبیعت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "هذه ضَرْبِيَّةُ الشَّيْءِ عَلَيْنَا" یعنی یہ اس کی عادت ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تلوار سے مارا ہوا۔ بدن کا وہ حصہ جس میں مارا جاتا ہو۔ جزیہ _____ مِنَ السَّيْفِ: دھار _____ مِّنَ الضَّرْبِ وَ نَحْوَهُ: آدن یا روئی کی پٹی۔ ج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبُ: بارے کی جگہ یا وقت۔ اصل _____ وَالضَّرْبُ: تلوار یا اس کی دھار۔ ہڈی جس میں گودا ہو۔ ج مَضَارِبُ</p>	<p>اضرب في المكان: اقامت کرنا۔ سر جھکانا _____ عَنَهُ: اعراض کرنا _____ الْقَوْمُ: پالے سے ڈھک جانا _____ الخَبْرُ: بکتا۔ کہا جاتا ہے "أَضْرَبْتُ جَأْشًا لِأَمْرِ كَذَا" یعنی اس نے فلاں کاہ پر اپنے آپ کو مستعمل کر لیا۔ تَضْرِبُ الشَّيْءُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ تَضَارِبُ الْقَوْمِ: ایک دوسرے کو مارنا۔ إِضْطْرِبُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ ایک دوسرے کو مارنا _____ الْأَمْرُ: غلظ پذیر ہونا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو مارنا _____ هِي أَهْوَدُ: حرد ہونا۔ کہا جاتا ہے إِضْطْرِبُ حَبْلَهُمْ یعنی ان کا کلمہ مختلف و متفرق ہو گیا _____ مِّنْ كَذَا: تنگ دل ہونا _____ فَلَانٌ: حصہ مقرر کرنے کا سوال کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِضْطْرِبْتُ خَاتِمًا مِّنْ ذَهَبٍ" یعنی میں نے سونے کی انگوٹھی بنانے کے لیے کہا۔ إِضْطْرِبُ: القَسْلُ: شد کا سفید اور گاڑھا ہونا۔</p>
<p>ضَرْبٌ (ن) ضَرْبُ خَاوَ ضَرْبَانَا: السُّوقُ: کسا بازاری ہونا _____ ضَرْبُ خَاوَ ضَرْبَانَا: الذَّابِقُ جُلْهَانَا: دولتی مارنا۔ ضَرْبَةٌ: ایک دوسرے کو گال دینا۔ تیر مارنا۔ قريب ہونا اور مقابل ہونا۔ أَضْرَحَهُ: فاسد کرنا۔ ڈور کرنا۔ أَضْرَحُ السُّوقُ: کسا بازاری کرنا۔ إِنضَرَجُ: الشَّيْءُ: پھٹنا _____ مَا تَيْنِ الْقَوْمِ: دوری ہو جانا۔ تعلقات کا قتم ہو جانا۔ إِضْطْرِبُ الشَّيْءُ: بؤال دینا۔ پھینک دینا۔</p>	<p>الضَّرْبُ وَالضَّرْبُ: مارنے والا۔ ج ضَرْبَانَا _____ بِنَا ہوا۔ ج ضَرْبِي _____ قَمِ: شکل۔ شکل۔ حصہ آدی کی صفت۔ برف پالاج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبِيَّةُ: طبیعت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "هذه ضَرْبِيَّةُ الشَّيْءِ عَلَيْنَا" یعنی یہ اس کی عادت ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تلوار سے مارا ہوا۔ بدن کا وہ حصہ جس میں مارا جاتا ہو۔ جزیہ _____ مِنَ السَّيْفِ: دھار _____ مِّنَ الضَّرْبِ وَ نَحْوَهُ: آدن یا روئی کی پٹی۔ ج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبُ: بارے کی جگہ یا وقت۔ اصل _____ وَالضَّرْبُ: تلوار یا اس کی دھار۔ ہڈی جس میں گودا ہو۔ ج مَضَارِبُ</p>	<p>اضرب في المكان: اقامت کرنا۔ سر جھکانا _____ عَنَهُ: اعراض کرنا _____ الْقَوْمُ: پالے سے ڈھک جانا _____ الخَبْرُ: بکتا۔ کہا جاتا ہے "أَضْرَبْتُ جَأْشًا لِأَمْرِ كَذَا" یعنی اس نے فلاں کاہ پر اپنے آپ کو مستعمل کر لیا۔ تَضْرِبُ الشَّيْءُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ تَضَارِبُ الْقَوْمِ: ایک دوسرے کو مارنا۔ إِضْطْرِبُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ ایک دوسرے کو مارنا _____ الْأَمْرُ: غلظ پذیر ہونا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو مارنا _____ هِي أَهْوَدُ: حرد ہونا۔ کہا جاتا ہے إِضْطْرِبُ حَبْلَهُمْ یعنی ان کا کلمہ مختلف و متفرق ہو گیا _____ مِّنْ كَذَا: تنگ دل ہونا _____ فَلَانٌ: حصہ مقرر کرنے کا سوال کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِضْطْرِبْتُ خَاتِمًا مِّنْ ذَهَبٍ" یعنی میں نے سونے کی انگوٹھی بنانے کے لیے کہا۔ إِضْطْرِبُ: القَسْلُ: شد کا سفید اور گاڑھا ہونا۔</p>
<p>أَضْرَحَهُ: فاسد کرنا۔ ڈور کرنا۔ أَضْرَحُ السُّوقُ: کسا بازاری کرنا۔ إِنضَرَجُ: الشَّيْءُ: پھٹنا _____ مَا تَيْنِ الْقَوْمِ: دوری ہو جانا۔ تعلقات کا قتم ہو جانا۔ إِضْطْرِبُ الشَّيْءُ: بؤال دینا۔ پھینک دینا۔</p>	<p>الضَّرْبُ وَالضَّرْبُ: مارنے والا۔ ج ضَرْبَانَا _____ بِنَا ہوا۔ ج ضَرْبِي _____ قَمِ: شکل۔ شکل۔ حصہ آدی کی صفت۔ برف پالاج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبِيَّةُ: طبیعت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "هذه ضَرْبِيَّةُ الشَّيْءِ عَلَيْنَا" یعنی یہ اس کی عادت ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تلوار سے مارا ہوا۔ بدن کا وہ حصہ جس میں مارا جاتا ہو۔ جزیہ _____ مِنَ السَّيْفِ: دھار _____ مِّنَ الضَّرْبِ وَ نَحْوَهُ: آدن یا روئی کی پٹی۔ ج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبُ: بارے کی جگہ یا وقت۔ اصل _____ وَالضَّرْبُ: تلوار یا اس کی دھار۔ ہڈی جس میں گودا ہو۔ ج مَضَارِبُ</p>	<p>اضرب في المكان: اقامت کرنا۔ سر جھکانا _____ عَنَهُ: اعراض کرنا _____ الْقَوْمُ: پالے سے ڈھک جانا _____ الخَبْرُ: بکتا۔ کہا جاتا ہے "أَضْرَبْتُ جَأْشًا لِأَمْرِ كَذَا" یعنی اس نے فلاں کاہ پر اپنے آپ کو مستعمل کر لیا۔ تَضْرِبُ الشَّيْءُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ تَضَارِبُ الْقَوْمِ: ایک دوسرے کو مارنا۔ إِضْطْرِبُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ ایک دوسرے کو مارنا _____ الْأَمْرُ: غلظ پذیر ہونا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو مارنا _____ هِي أَهْوَدُ: حرد ہونا۔ کہا جاتا ہے إِضْطْرِبُ حَبْلَهُمْ یعنی ان کا کلمہ مختلف و متفرق ہو گیا _____ مِّنْ كَذَا: تنگ دل ہونا _____ فَلَانٌ: حصہ مقرر کرنے کا سوال کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِضْطْرِبْتُ خَاتِمًا مِّنْ ذَهَبٍ" یعنی میں نے سونے کی انگوٹھی بنانے کے لیے کہا۔ إِضْطْرِبُ: القَسْلُ: شد کا سفید اور گاڑھا ہونا۔</p>
<p>أَضْرَحَهُ: فاسد کرنا۔ ڈور کرنا۔ أَضْرَحُ السُّوقُ: کسا بازاری کرنا۔ إِنضَرَجُ: الشَّيْءُ: پھٹنا _____ مَا تَيْنِ الْقَوْمِ: دوری ہو جانا۔ تعلقات کا قتم ہو جانا۔ إِضْطْرِبُ الشَّيْءُ: بؤال دینا۔ پھینک دینا۔</p>	<p>الضَّرْبُ وَالضَّرْبُ: مارنے والا۔ ج ضَرْبَانَا _____ بِنَا ہوا۔ ج ضَرْبِي _____ قَمِ: شکل۔ شکل۔ حصہ آدی کی صفت۔ برف پالاج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبِيَّةُ: طبیعت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "هذه ضَرْبِيَّةُ الشَّيْءِ عَلَيْنَا" یعنی یہ اس کی عادت ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تلوار سے مارا ہوا۔ بدن کا وہ حصہ جس میں مارا جاتا ہو۔ جزیہ _____ مِنَ السَّيْفِ: دھار _____ مِّنَ الضَّرْبِ وَ نَحْوَهُ: آدن یا روئی کی پٹی۔ ج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبُ: بارے کی جگہ یا وقت۔ اصل _____ وَالضَّرْبُ: تلوار یا اس کی دھار۔ ہڈی جس میں گودا ہو۔ ج مَضَارِبُ</p>	<p>اضرب في المكان: اقامت کرنا۔ سر جھکانا _____ عَنَهُ: اعراض کرنا _____ الْقَوْمُ: پالے سے ڈھک جانا _____ الخَبْرُ: بکتا۔ کہا جاتا ہے "أَضْرَبْتُ جَأْشًا لِأَمْرِ كَذَا" یعنی اس نے فلاں کاہ پر اپنے آپ کو مستعمل کر لیا۔ تَضْرِبُ الشَّيْءُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ تَضَارِبُ الْقَوْمِ: ایک دوسرے کو مارنا۔ إِضْطْرِبُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ ایک دوسرے کو مارنا _____ الْأَمْرُ: غلظ پذیر ہونا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو مارنا _____ هِي أَهْوَدُ: حرد ہونا۔ کہا جاتا ہے إِضْطْرِبُ حَبْلَهُمْ یعنی ان کا کلمہ مختلف و متفرق ہو گیا _____ مِّنْ كَذَا: تنگ دل ہونا _____ فَلَانٌ: حصہ مقرر کرنے کا سوال کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِضْطْرِبْتُ خَاتِمًا مِّنْ ذَهَبٍ" یعنی میں نے سونے کی انگوٹھی بنانے کے لیے کہا۔ إِضْطْرِبُ: القَسْلُ: شد کا سفید اور گاڑھا ہونا۔</p>
<p>أَضْرَحَهُ: فاسد کرنا۔ ڈور کرنا۔ أَضْرَحُ السُّوقُ: کسا بازاری کرنا۔ إِنضَرَجُ: الشَّيْءُ: پھٹنا _____ مَا تَيْنِ الْقَوْمِ: دوری ہو جانا۔ تعلقات کا قتم ہو جانا۔ إِضْطْرِبُ الشَّيْءُ: بؤال دینا۔ پھینک دینا۔</p>	<p>الضَّرْبُ وَالضَّرْبُ: مارنے والا۔ ج ضَرْبَانَا _____ بِنَا ہوا۔ ج ضَرْبِي _____ قَمِ: شکل۔ شکل۔ حصہ آدی کی صفت۔ برف پالاج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبِيَّةُ: طبیعت۔ عادت۔ کہا جاتا ہے "هذه ضَرْبِيَّةُ الشَّيْءِ عَلَيْنَا" یعنی یہ اس کی عادت ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے۔ تلوار سے مارا ہوا۔ بدن کا وہ حصہ جس میں مارا جاتا ہو۔ جزیہ _____ مِنَ السَّيْفِ: دھار _____ مِّنَ الضَّرْبِ وَ نَحْوَهُ: آدن یا روئی کی پٹی۔ ج ضَرْبِ الضَّرْبِ الضَّرْبُ: بارے کی جگہ یا وقت۔ اصل _____ وَالضَّرْبُ: تلوار یا اس کی دھار۔ ہڈی جس میں گودا ہو۔ ج مَضَارِبُ</p>	<p>اضرب في المكان: اقامت کرنا۔ سر جھکانا _____ عَنَهُ: اعراض کرنا _____ الْقَوْمُ: پالے سے ڈھک جانا _____ الخَبْرُ: بکتا۔ کہا جاتا ہے "أَضْرَبْتُ جَأْشًا لِأَمْرِ كَذَا" یعنی اس نے فلاں کاہ پر اپنے آپ کو مستعمل کر لیا۔ تَضْرِبُ الشَّيْءُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ تَضَارِبُ الْقَوْمِ: ایک دوسرے کو مارنا۔ إِضْطْرِبُ: متحرک ہونا۔ موج مارنا۔ ایک دوسرے کو مارنا _____ الْأَمْرُ: غلظ پذیر ہونا۔ الْقَوْمُ: ایک دوسرے کو مارنا _____ هِي أَهْوَدُ: حرد ہونا۔ کہا جاتا ہے إِضْطْرِبُ حَبْلَهُمْ یعنی ان کا کلمہ مختلف و متفرق ہو گیا _____ مِّنْ كَذَا: تنگ دل ہونا _____ فَلَانٌ: حصہ مقرر کرنے کا سوال کرنا۔ کہا جاتا ہے "إِضْطْرِبْتُ خَاتِمًا مِّنْ ذَهَبٍ" یعنی میں نے سونے کی انگوٹھی بنانے کے لیے کہا۔ إِضْطْرِبُ: القَسْلُ: شد کا سفید اور گاڑھا ہونا۔</p>

طے ڈہرے ڈہرے ہوں۔
أَرْضٌ مُضَعَّفَةٌ: زمین جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔

ضَعِلَ (س) ضَعْلًا: ماں باپ کے قریب
الغلب ہونے سے بچے کا بلبا ہونا۔

ضَعَائِضُهُ ضَعْفًا: پوشیدہ ہونا۔

أَضَعَّ الْقَوْمُ: سرسبز باغ میں ہونا۔ فراخ دستی
کی زندگی بسر کرنا۔ أَضَعَّتْ وَاحِضَةٌ
الْأَرْضُ: سبز زار ہونا۔

الضَّيْفُ: تروتازگی۔

الضَّيْفَةُ: سرسبز باغ۔ فراخ دستی کی زندگی۔
پتلا خمیر۔ لوگوں کی مغلطہ جماعت۔

ضَعَبَ (ف) ضَعْبًا: بھیڑیے یا خرگوش کی
طرح آواز کرنا۔ گھبرا دینا۔

الضَّعِيبُ وَالضَّغَابُ: خرگوش اور بھیڑیے
کی آواز۔

الضَّعْبُوسُ: لومڑی کا بچہ۔ کمزور مرد۔ کبڑی
کھیرا۔ ہلیوں کی مانند ایک سبزی۔ ج ضَعْفًا بَيْسٌ ۶
ضَعَفَتْ (ف) ضَعْفًا: الحدیث۔ ملانا۔ کپڑے
کو دھونا اور صاف نہ کرنا۔ الشَّيْءُ: جمع
کرنا۔

أَضَعَّتْ: الحَالِمُ التَّوْبَاتُ: خواب کو ٹھک سے
بیان کرنا۔

ضَعَّتْ: النَّبَاتُ: سبزی کا مٹنا۔

إِضْطَفَّتْ: الْحَطَبُ: کبڑی کو اٹھا کرنا۔

الضَّعْفُ: تروتازگی کا مٹنا۔

مِنَ الْخَبِيرِ وَالْأَمْرِ: مخلوط باتیں جن کی
کوئی حقیقت نہ ہو۔ ج أَضْعَافٌ: أَضْعَافٌ
أَخْلَامٌ: گزبو خواب جن کی کوئی تعبیر دی جا
سکے۔

كَلَامٌ ضَعْفٌ وَضَعْفٌ: ایسی گفتگو جس میں
کوئی ثبوت نہ ہو۔

التَّضْعِيفُ: بارش سے تر زمین یا ناناٹ۔

ضَعْفَةٌ (ف) ضَعْفًا وَأَضْعَفَةٌ: بھیجنا۔ بھیج
کرنا۔ تنگی کرنا۔

ضَاعِظَةٌ ضَاعِظًا وَضَاعِظَةٌ: ایک
دوسرے کو بھیجنا۔ تنگی کرنا۔

تَضَاعَظُوا: تنگی کرنا۔

إِنْضَغَطَ: مغلوب ہونا۔

إِنْضَغَطَ عَلَيْهِ: تاوان وغیرہ میں سختی کرنا۔ اور
قیاس کے مطابق اضغطہ ہے۔

الضَّغْفَةُ: تنگی۔ کہا جاتا ہے "أَخَذْتُ فُلَانًا
ضَغْفَةً" جبکہ تم تنگی کرو تاکہ کسی شے پر مجبور
کرو۔ شدت۔ مشقت۔

الضَّغْفَةُ: قمر۔ تنگی۔ مجبوری۔ ضَغْفَةُ الْقَبْرِ:
قنار قبر۔

الضَّاعِظُ: فَا۔ تمہیں۔ امانت دار۔

الضَّاعِظُ: کابوس (ایک قسم کی بیماری)

الضَّحِيطُ: کمزور رائے والا۔ ج ضَغْفِي مَوْتٌ
ضَغْفِيَّةٌ۔

الْمَضْغَطُ: بہت زمین۔ ج مَضْغِطٌ۔

ضَغَلَّ ضَغِيلاً: بچھاننا۔ گتے ہوئے آواز نکالنا۔

الضَّغِيلُ: بچھاننا۔ گتے والے کے منہ کی آواز۔

ضَغَمَ (ف) ضَغْمًا: الشَّيْءُ: وہ۔ ہنسنوڑنا۔ کہا
جاتا ہے "ضَغَمَةُ ضَغْمَةَ الْأَسَدِ" اس نے اسے
شیر کی طرح ہنسنوڑ لیا۔

الضَّغَامَةُ: واتوں سے کٹ کر پھینکی ہوئی چیز۔
الضَّيْفَمُ: شیر۔ کائے والا۔ ج ضَيَاغِمُ
الضَّيْفِيُّ: شیر۔

ضَعِنَ (س) ضَعْنًا: عَلَيْهِ: کینہ رکھنا۔
إِلَيْهِ: بائیں ہونا۔

إِنْضَغَفَنُ: بھل کے نیچے لینا۔

إِنْضَغَفَنَ وَتَضَاعَفَنَ: الْقَوْمُ: ایک دوسرے
سے کینہ رکھنا۔ کہا جاتا ہے "إِنْضَغَفَنَ فُلَانٌ عَلَى
فُلَانٍ ضَغِيئَتَهُ" یعنی کینہ کو پوشیدہ رکھا۔

الضَّيْفَنُ: کینہ۔ شوق۔ میلان۔ کچی۔ بھل۔
جانب۔ ہاڑ کا پہلو۔ ج أَضْعَانُ۔

الضَّاعِنُ وَالضَّيْفَنُ: کینہ۔ در فَوْشٍ ضَاعِنٌ وَ
ضَعِنٌ: آڑیل گھوڑا جو بغیر بارے ہوئے نہ چلے۔

عَوْدٌ ضَعِنٌ: شیرھی کبڑی۔

الضَّغِيئَةُ: کینہ۔ ج ضَعْنَانُ۔

ضَغَا يُضَغِفُوا ضَغْفًا: الْمُقَامَرُ: خیانت کرنا
إِلَيْهِ: عاجزی کرنا۔ ضَغْفًا وَأَضْعَافًا

السُّتُوْرُ: بلی کا سیاہیوں میاؤں کرنا۔

أَضْعَاهُ إِضْعَاءً: میاؤں میاؤں کرنے پر
برا لگینہ کرنا۔

تَضَاعَى: بھوک یا مار سے بلبلانا۔

الضَّغَاءُ: مہ۔ ذلیل آدمی کی آواز۔

ضَغَفَ (ن) ضَغْفًا وَضَغْفًا: الْقَوْمُ عَلَى الْمَاءِ
أَوْ الطَّعَامِ: بھیڑ کرنا۔ ضَغْفًا الشَّيْءُ: جمع
کرنا۔

تَضَاعَفَ: الْقَوْمُ: بھیڑ کرنا۔ کہاں والا ہوتا۔

ضَغَفَ الْحَالُ: بد حال۔

الضَّغْفَةُ: جماعت۔

الضَّغْفَةُ وَالضَّغْفَةُ: دریا کا کنارہ۔

مِنَ الْبَحْرِ: سمندر کا ساحل۔ ج
ضَغْفًا۔

الضَّغْفُ: مال کی قلت اور اہل و عیال کی
کثرت۔ حاجت۔ کمزوری۔ جلد بازی۔

الضَّغَالَةُ: بے عقل۔

عَيْنٌ ضَغْفُوفٌ: بہت پانی والا چشمہ۔

مَاءٌ مُضَغْفُوفٌ: جس پانی پر بھیڑ زیادہ ہو۔

ضَغْفَةٌ (ض) ضَغْفًا: طمانچہ رانا۔

ضَغْدَعُ الْمَاءِ: پانی کا مینڈکوں والا ہونا
الزُّجْلُ: سکرنا۔ گوز کرنا۔

الضَّغْدُوعُ: مینڈک۔ ج ضَغْدَاعٌ وَعِضْغَادِي
أَوْ رِيحٌ كَمِ مَسْتَمَلٍ هُوَ - وَاحِدٌ ضَغْدَعَةٌ۔

ضَغْفُورٌ (ض) ضَغْفًا وَضَغْفًا: الْحَتْلُ: ریش پٹنا
الشَّغْرُ: ہال گوندھنا۔ ضَغْفُورٌ الْبِنَاءُ:
عمارت کو پتھروں سے بھیرنے کے کارے کے بنانا۔

الزُّجْلُ: روڑے میں کودنا۔ الدَّابَّةُ:
جانور کے منہ میں لگام دینا۔

ضَغْفُورٌ عَلَى الْأَمْرِ: مدد کرنا۔

تَضَاعَفُوا عَلَى الْأَمْرِ: ایک دوسرے کی مدد
کرنا۔

إِنْضَغَفُوا: گندھا ہوا ہونا۔ پٹا ہوا ہونا۔ کہا جاتا ہے
"إِنْضَغَفُوا الْحَبْلَانِ" یعنی دونوں رسیاں گندھ
گئیں۔

الضَّغْفُورُ: مہ۔ کچا دھ۔ کچا دھ۔ گندھے ہوئے
بالوں کی ایک ٹہنی۔ ریت کا ہزار توڑہ جو ایک جگہ جمع
ہو گیا ہو۔ ج ضَغْفُورٌ وَأَضْعَافًا۔

الضَّغْفَارُ: کچا دھ۔ کچا دھ۔ ج ضَغْفُورٌ
الضَّغْفُورَةُ: ریت کا ہزار توڑہ جو ایک جگہ جمع ہو گیا
ہو۔ کٹاؤ ضَغْفُورَةٌ: بھرا ہوا ترش۔

ضفط

ضل

ضل

الضفیفو۔ گندھے ہوئے بالوں کی رشتی۔ سندر کا کنارہ۔ کچاوہ کا تنگ۔	زیادہ ہونا۔ الحوض۔ حوض کا کناروں سے بہنا۔ النوب۔ کپڑے کا پورا ہونا۔
الضفیفوۃ۔ گندھے ہوئے بالوں کی ایک پٹی۔ چوٹی۔ ج ضفانو۔ کہا جاتا ہے ”کثاثة ضفیفوۃ“ یعنی بھرا ہوا ترش۔	صفت ضفای۔ الضفا۔ جانب۔ مثنیٰ ضفوان۔ ضفوفۃ العیش۔ خوش میٹھی۔ ضفّ (ض) ضفا۔ آواز کرنا۔
ضفّ (ن) ضفّوا۔ کودنا۔ فلانا۔ دفع کرنا۔ ہاتھ یا پیر سے مارنا۔ القوس۔ گھوڑے کے منہ میں لگام دینا۔ البھیضو۔ اؤٹ کے منہ میں زبردستی لقمہ دینا۔ إضطفّوہ۔ زبردستی لگانا۔ الضفاض۔ چغل خور۔	ضکّ (ن) ضکّا۔ بھیجنا۔ الامر فلانا۔ تنگ ہونا۔ ہ بالحقیجۃ۔ مغلوب کرنا۔ ضکّوہ (ن) ضکّوا۔ زور سے چبھونا۔ الضکلی۔ تموزا پانی۔ الضیکلی۔ بڑے ذیل ڈول کا۔ نکا۔ فقیر ج ضیاکل و ضیاکیلۃ۔ الأضکل۔ نکا۔
الضفیفوۃ۔ برا لقمہ۔ ج ضفانیزو۔ ضفّضفۃ۔ القوم۔ جماعت۔ قوم۔ ضفّظۃ (ن) ضفّظا۔ بالجنبل۔ رشتی سے باندھنا۔ الزجل۔ حاجت پوری کرنا پسندیدہ۔ یا پستانہ کرنا۔	ضلّ (س ض) ضلّلا و ضلّالۃ۔ گمراہ ہونا۔ دین حق یا راہ حق سے ہٹ جانا۔ صفت ضلّ ج۔ ضلّال و ضلّالون۔ الظریق او عتقہ۔ ہدایت نہ پانا۔ الشی عتقہ۔ ضائع ہونا۔ بیکار جانا۔ ضلّ سعویۃ۔ کامیاب نہ ہونا۔ الشی۔ تلف ہونا۔ الزجل۔ مرنا اور گل سڑ کر مٹی اور بڑھی ہو جانا۔ الزجل۔ بھول جانا۔ ضللۃ تضلیل و تضلّال۔ گمراہ کرنا۔ گمراہی کی طرف نسبت کرنا۔
ضفّظ (ک) ضفّظا۔ ڈھیلے اور بڑے پیٹ کا ہونا۔ جال اور کمزور رائے کا ہونا۔ تضافظ۔ اللحم۔ گوشت کا گٹھا ہوا ہونا۔ الضفّظۃ۔ جمالت۔ کمزوری رائے۔ الضافظ۔ فا۔ مسافر جس کا سفر دور کا نہ ہو۔ الضافظۃ۔ مؤنث ضافظ۔ بار برداری کا اؤٹ۔ کینہ آدمی۔ شتریان۔	أضلّ۔ الشی۔ ضائع کرنا۔ ہلاک کرنا۔ و فن کرنا۔ غائب کرنا۔ ہ اللہ۔ اللہ کا کسی کو گمراہ کر دینا فلان قومۃ۔ گھوڑے کا بھاگ جانا اور یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں گیا۔ الشی او الزجل۔ گمراہ پانا اور اسی سے ہے ”آئی قومہ فاضللہم“ یعنی اپنی قوم کے پاس آیا تو ان کو گمراہ پایا۔
ضفّظ (ن) ضفّظا۔ بڑے پیٹ والا۔ الضفاط و الضفیط و الضفیفظ۔ موٹا و سیلا۔ بڑے پیٹ والا۔ یوق۔ کال جو قوم کا ساتھ جنگ و تیرہ میں نہ دے۔ شتریان۔ الضفاط۔ کینہ آدمی۔ الضفّظ۔ موٹا و سیلا۔ بڑے پیٹ والا۔	تضال۔ گمراہی کا دعویٰ کرنا۔ إستضل۔ گمراہ ہونے کو کہنا۔ الضلّ و الضللّ و الضلال و الضلالۃ۔ گمراہی۔ باطل۔ ہلاکت۔ کہا جاتا ہے ”ہو ضلّ بن ضلّ او ضلّ بن ضلّ او ضلّ أضلال او ضلّ أضلال“ یعنی وہ گمراہی میں متنک ہے یا اس کے باپ کا پتہ نہیں یا اس کے اندر تیر نہیں۔ الضلل۔ گمراہی۔ پانی جو پتھروں کے نیچے سے یا درختوں کے نیچے جس کو کبھی دھوپ نہ لگے۔
اؤٹ۔ کینہ آدمی۔ شتریان۔ الضفاط و الضفیط و الضفیفظ۔ موٹا و سیلا۔ بڑے پیٹ والا۔ یوق۔ کال جو قوم کا ساتھ جنگ و تیرہ میں نہ دے۔ شتریان۔ الضفاط۔ کینہ آدمی۔ الضفّظ۔ موٹا و سیلا۔ بڑے پیٹ والا۔	أضلّ۔ الشی۔ ضائع کرنا۔ ہلاک کرنا۔ و فن کرنا۔ غائب کرنا۔ ہ اللہ۔ اللہ کا کسی کو گمراہ کر دینا فلان قومۃ۔ گھوڑے کا بھاگ جانا اور یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں گیا۔ الشی او الزجل۔ گمراہ پانا اور اسی سے ہے ”آئی قومہ فاضللہم“ یعنی اپنی قوم کے پاس آیا تو ان کو گمراہ پایا۔
ضفّظ (ض) ضفّظا۔ ایٹھ۔ کسی کے پاس جا کر بیٹھنا۔ بحاجتہ۔ حاجت پوری کر دینا۔ پر جلیہ۔ لات مارنا۔ ضعیف۔ ساتھ آنا۔ بہ الاضض۔ زمین پر ٹپک دینا فلانا۔ چوڑے تر پلاٹ مارنا۔ علیہ۔ علم کرنا۔ تضافظ۔ القوم علیہ۔ بل کر دے کرنا۔ الضیف و الضیفن۔ یوق۔ چھوٹے قد کا موٹا۔ ضفا یضفّو ضفّوا۔ الزاش۔ سر پر بال بہت	ضلع (ک) ضلّاعۃ۔ قوی مضبوطا پلیوں والا ہونا۔ صفت ضلیع۔ ضلع (ف) ضلّعا۔ الشی۔ ٹیڑھا ہو جانا۔ صفت ضلیع۔ الزجل۔ چلی پر مارنا علیہ۔ علم کرنا۔ ضلع (س) ضلّعا و ضلّعا۔ پیدائشی ٹیڑھا ہونا۔ صفت ضلیع اور اسی سے ہے ”لا یقین ضلّک او ضلّک“ یعنی میں تحری کی کچی کو درست کر دوں گا۔ ضلیع مع فلان۔ جھکا الزجل۔ حکم سیرا سیراب ہونا۔ ضلّعا۔ جھکا۔ ٹیڑھا کرنا۔ بوجھل کرنا۔ ضلیع النوب۔ کپڑے پر پلیوں کے مانند نقش و نگار بانا۔ أضلّعا۔ جھکا۔ بوجھل کرنا۔ کہا جاتا ہے ”فلان أضلّعا الخطوب“ یعنی فلاں کو

حوادث نے جو حمل کر دیا۔

تَضَلَّعَ: حکم سیرا سیراب ہونا اور اسی سے ہے "تَضَلَّعَ مِنَ الْعُلُومِ" یعنی اس نے علوم سے حصہ کال پایا۔

إِضْطَلَعَ: قوی ہونا _____ بحفلیہ: بوجھ لے کر کھڑا ہونا اور اس کی طاقت رکھنا۔

الضَّلَعُ: میلان و ٹیڑھا پن۔ کہا جاتا ہے "ضَلَّكَ مَعَ فَلَانٍ" تمہارا میلان فلاں کی جانب ہے۔

الضَّلَعُ وَالضَّلَعُ: بلی (مؤنث) أَضْلَعُ وَضَلَّعُ وَاضْلَاعٌ: کہا جاتا ہے "هُنَّ عَلَيَّ ضِلْعٌ جَانِبَةٌ" یعنی وہ سب میرے اوپر ظلم کرنے میں مشغول ہیں۔ الضَّلَعُ وَالضَّلَعُ مِنَ الْبَيْطَانِ: خربوزے کی قاش پھانک۔ ضِلْعُ السِّلْقِيِّ وَنَحْوُهُ: چندر کے پتوں کی موٹی رگ۔ الضَّلَعُ: چھوٹا پہاڑ۔ ہند۔ جال آباد۔

الضِّلَعَةُ: جانب۔ الضِّلَعَةُ: ایک سبز رنگ کی چھوٹی پھولی۔ الأضلاعُ: مضبوط موٹا مروج ضلع۔ الضِّلُوعُ: زمین کا ڈھلوان۔

الضِّلِينُ: مضبوط پہلیوں والا۔ قوی۔ ج ضلع۔ مؤنث ضِّلِينَةٌ زَجَلٌ ضِّلِينُ الْعَقِيمِ: بڑے منہ والا۔ قَوْسٌ ضِّلِينٌ وَضِّلِينَةٌ وَمَضْلُوعَةٌ: کمان جس کی لکڑی میں جھکاؤ ہو۔

المُضْلَعُ مِنَ الْأَحْمَالِ: بوجھل۔ عاجز کر دینے والا۔ کہا جاتا ہے "مُضْلَعٌ بِهَذَا الْأَمْرِ" اسے اس کام کی طاقت ہے۔

المُضْلَعُ: پہلوؤں والا _____ مِنَ الشَّيْبِ: ہماری دار کپڑا۔

حَمَّةٌ (ان) ضَمًّا الشَّيْءُ: جمع کرنا _____ الشَّيْءَ إِلَيْهِ: بقدر کرنا اور اپنی طرف کھینچنا _____ عَلَى الشَّيْءِ: بقدر کرنا _____ فَلَانًا إِلَيْهِ: ساتھ رکھنا۔ ضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ: معاند کرنا _____ الْحَرْفُ: حرف کو ضم کی حرکت دینا۔ کہا جاتا ہے "ضَمَّ جَنَاحَهُ عَنِ النَّيَّاسِ" یعنی اس نے لوگوں سے نرمی برتی۔

ضَمَّهُ إِلَيْهِ: ملانا۔

أَضَمَّهُ الشَّيْءَ إِلَى فَلَانٍ: فلاں کی طرف چیز

بھیجا۔

إِنضَمَّ: ملنا _____ عَلَى كَذَا: مشتمل ہونا۔ تَضَمَّ الشَّيْءُ: پوری طرح سے شامل ہونا۔ إِضْطَمَّ: اپنی طرف ملانا۔ إِضْطَمَّ عَلَيْهِ: مشتمل ہونا۔

الضَّمُّ وَالضَّمَّةُ: پیش کی حرکت۔ الضَّمَّةُ: گھوڑوں کے گھوڑوں کی جماعت۔ الضَّمَامُ: ملانے کا زریعہ۔

الضَّمْرُومُ: دولے ٹیلوں کے درمیان کی وادی۔ الضَّمِيمُ: ساقی۔ مؤنث ضَمِيمَةٌ۔

الإضْمَاعَةُ: جماعت۔ ج أضاميم _____ مِنَ الْكُتُبِ: کتابوں کا بنڈل۔

الْمُنضَمَةُ: عَلَى كَذَا: مشتمل ملا ہوا۔ کہا جاتا ہے "أَضْمَحَ مُنْضَمًا" یعنی لاغر ہو گیا گویا کہ بعض بعض کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

ضَمَّحَ (ان) ضَمَّحًا وَضَمَّحٌ: جَسَدُهُ: خوشبو لگانا۔

ضَمَّحٌ وَأَضْمَحٌ: بِالْأَرْضِ: زمین سے چٹ جانا۔

الضَّمَّجَةُ: ایک بدبودار کبوتر جو کائتا ہے۔ كَهْمَلٌ: الضَّمَّجُ: آفت جو انسان کو لاحق ہو۔

إَضْمَحَلٌ: نیت و ناپور ہونا _____ السَّحَابُ: بادل کا کھل جانا۔

ضَمَّحَ (ان) ضَمَّحًا وَضَمَّحٌ: جَسَدُهُ بِالطَّلَبِ: بدن میں خوشبو لگانا۔

تَضَمَّحَ وَالضَّمَّحُ وَالضَّمَّحُ: بِالطَّلَبِ: خوشبو سے لت پت ہونا۔

الضَّمَّحَةُ: موٹی عورت یا اونٹنی۔

ضَمَدَ (ان ض) ضَمَدًا وَضَمَدٌ: الْجُزْحُ: زخم پر پٹی باندھنا۔ کہا جاتا ہے "أَضْمَدَ عَلَيْنَا كِتَابًا" یعنی اپنے کپڑے کو اپنے اوپر باندھو "ضَمَدَهُ بِالْعَصَا" اس نے اس کے سر پر لاکھی ماری اور ایسا "ضَمَدَ اسْمُهُ بِالسِّيفِ"

ضَمَدَ (س) ضَمَدًا: خشک ہونا۔ سخت غصیناک ہونا _____ عَلَيْهِ: کہنے کرنا۔

أَضْمَدَ الْقَوْمَ: جمع کرنا۔

تَضَمَّدَ الْجُزْحُ: پٹی باندھ جانا۔

الضَّمْدُ: مہ۔ تر۔ خشک۔ عمدہ کبیراں۔ خراب

کبیراں۔ کیندوری۔ الضمد۔ دوست۔ ساقی۔

الضمد۔ ظلم پر اتارنا۔ الضماید۔ قائل۔ لازم۔

الضماد والضمادة: پٹی جس سے عضو مجروح کو باندھا جائے _____ کہا جاتا ہے "أَنَا عَلَى ضِمَادَةٍ مِنَ الْأَمْرِ" یعنی میں کام کے نزدیک پہنچ گیا ہوں۔

ضَمْرٌ (ان) وَضَمْرٌ (ك) ضَمْرًا: ڈبلا ہونا۔ لاغر ہونا۔ چھریا ہونا۔ صفت ضامير مؤنث ضامير و ضامير مؤنث و ضامير مؤنث۔

أَضْمَرَ الْأَمْرُ: پوشیدہ کرنا _____ لِحْنِ نَفْسِهِ شَيْثًا: اپنے دل میں کسی چیز کا عزم کرنا _____

الخبير: مہ تک پہنچنا۔ أَضْمَرَتِ الْأَرْضُ فَلَانًا: زمین نے اس کو موت یا سفر کی وجہ سے غائب کر دیا۔ الشاعِرُ: شاعر کا اظہار برتا اور

إضمار اصطلاح فن عروض میں یہ ہے کہ دوسرے حرف کو ساکن کر دیں۔ جیسے مُتَقَفِّعًا عِلْنِ

کے دوسرے حرف کو ساکن کر دیں تو مُتَقَفِّعًا عِلْنِ ہو کر مُتَقَفِّعًا عِلْنِ کے وزن پر ہو جاتا ہے۔

أَضْمَرَ وَضَمْرٌ: الْقَوْمُ: ڈبلا کرنا۔ چھریا جانا۔

تَضَمَّرَ وَجْهَهُ: لاغری کی وجہ سے کھل سکا جانا۔

إِنضَمَرَ الْفُضْضُ: شئی کا خشک ہونا۔

إِضْطَمَرَ: مل جانا _____ الْقَوْمُ: گھوڑے کا ڈبلا ہونا۔ چھریا ہونا۔

الضمر۔ چھریا۔ ڈبلا۔ پتلے پیٹ والا۔ نازک بدن۔ مؤنث ضمرَةٌ۔ تک۔ راز (_____ المضمر) پوشیدہ۔

الضمر والضمير۔ ڈبلا پن۔ الضمير۔ راز۔ پوشیدہ خیال۔ پڑ مرده انجور۔ ضمیر نغویوں کے نزدیک وہ کلمہ ہے جو حکم غالب اور غائب پر دلالت کرے جیسے أَنَا۔ أَنْتَ۔ هُوَ ج ضمائر۔

الضمار۔ پوشیدہ۔ ملا ہوا وعدہ۔ ہر وہ چیز جس پر اعتماد نہ ہو۔ مال جس کی واپسی کی امید نہ ہو _____ مِنَ الدُّنْيَا: جس کی مدت معین نہ ہو۔

الإضمار۔ مہ۔ زمانہ شاعر کی ایک قسم

تشریح اصغر فعل کے تحت میں دیکھو۔
 الضَّوْمَرَانُ وَالضَّيْمَرَانُ: ایک قسم کی خوشبو دار گھاس۔
 المِضْمَارُ: گھوڑوں کے میدان کی انتہا۔ وہ میدان جہاں گھوڑے چمیرے کئے جائیں۔
 كَهْوُورُودُ: گھوڑوں کے چمیرے کرنے کی مدت۔ میدان گھوڑوں۔
 ضَمَمَزَ (ن) ضَمَمَزَا: چپ رہنا۔
 اللُّقْمَةُ: بڑا لقمہ بنانا اور نگل جانا۔
 عَلِيٌّ مَالِيَهُ: بخل کرنا۔ صفت ضَامِرٌ وَضَمُورٌ: ج. ضَمُورٌ۔
 ضَمَمَسَا (ش) ضَمَمَسَا: آہستہ آہستہ چاہنا۔
 ضَمَمَضَمَ ضَمَمَضَمَةً: دل کو قوی کرنا۔ ہمارا بنانا۔
 الْأَسَدُ: شیر کا گونجا۔
 فَلَانٌ عَلِيٌّ مَالِيٌّ: کل لینا۔
 الضَّمَمَضَمُ وَالضَّمَامِضِمُ: دلیر۔ گرائڈیل۔ شیر طہناک۔
 ضَمَمِنَ (س) ضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا الشَّيْءَ وَبِهِ: کفیل ہونا۔ خاص ہونا۔
 ضَمَمِنَ (س) ضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا الشَّيْءَ: ایسے مرض میں مبتلا ہونا جو ہمیشہ رہے اور وقتاً فوقتاً سخت ہوتا رہے۔ صفت ضَمَمِنٌ۔
 ضَمَمِنَ الشَّيْءَ الْوَعَاءَ: برتن میں رکھنا۔
 هَ الشَّيْءَ: زمرہ دار بنا دینا۔
 الشَّاعِرُ: شاعر کا تعین کرنا۔ یعنی دوسرے کے شعر کو اپنے کلام میں شامل کرنا۔
 تَضَمَّنَ الشَّيْءَ: مشتمل ہونا۔
 عَقِيٌّ: اس نے میری طرف سے اپنے زمرہ لے لیا۔
 الضَّمَمِنُ وَالضَّمَمِنَةُ وَالضَّمَمَانُ وَالضَّمَامَةُ: ہمیشہ کارہے والا مرض۔ لچاپین۔
 الضَّمَمِنُ: اندرون شئی۔ ضَمَمِنَ الْكِتَابِ: کتاب لایچ۔
 الضَّمَمِنُ: عاشق۔ پرانے مرض والا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ ضَمَمِنٌ عَلَيَّ أَهْلِيهِ" یعنی وہ اپنے لوگوں پر بوج ہے۔
 الضَّمَامِينُ: فا۔ خاصین۔ کفیل۔ زمرہ دار۔
 الضَّمَمِينُ: کفیل۔ مرض لازم میں مبتلا۔ ج.

ضَمَمِنَ۔
 الضَّمَمَانُ: مہ۔ کفالت۔ تاوان۔ ڈنڈ۔
 الضَّمَمُونُ: مہ۔ جس کی کفالت کی جائے۔
 مِنَ الضَّمَمِيَّةِ: مضموم جو جملہ سے سمجھ میں آئے اور جملہ اس کے لیے بیان نہ کیا گیا ہو۔ ج. ضَمَامِيْنُ۔
 الضَّمَمِيْنُ: مہ۔ تعین کیا ہوا۔
 مِنَ الْأَصْوَابِ: غیر مکمل آواز جب تک دوسرے سے ملایا نہ جائے سمجھ میں نہ آئے۔
 ضَمَمِنَ (س) ضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا: بخل کرنا۔
 الضَّمَمَانُ: مکان سے جدا ہونا۔
 الضَّمَمِنُ وَالضَّمَمِنَةُ: جس پر بخل کیا جائے۔ خاص۔
 کہا جاتا ہے "هُوَ ضَمَمِنٌ وَضَمَمِنٌ" وہ میرے ساتھ شخص ہے۔
 الضَّمَمِنُ: ہمارا۔
 الضَّمَمِينُ: بخل۔ کہا جاتا ہے "إِنَّمَا يُضَمِّنُ بِالضَّمَمِينِ" یعنی بخل کے ساتھ بخل کیا جاتا ہے۔
 الضَّمَمَانِ: وہ چیزیں جن کی نفاست کی وجہ سے بخل کیا جائے اور اسی سے ہے "ضَمَمِنَ اللَّهُ" اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے خاص لوگ۔
 الضَّمَمَانَةُ: مہ۔ بخل کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَجَمْتُ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يَضَمَمَانِيهِمْ" میں قوم پر اچانک بچھڑ گیا اور وہ لوگ متحرق نہیں ہوئے تھے۔
 الضَّمَمِنَةُ وَالضَّمَمِنَةُ: جس پر بخل کیا جائے۔ ج. ضَمَمَانٌ۔
 ضَمَمِنَا (ف) ضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا: جھینا۔
 الضَّمَمِنُ: جانا۔
 الضَّمَمِنُ: مال۔ کثیر ہونا۔
 الضَّمَمِنُ (ف) ضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا: ضَمَمِنَا (س) ضَمَمِنَا وَأَضَمَمِنَا (المرأة): بہت اولاد والی ہونا۔ صفت ضَمَمِنٌ وَضَمَمِنَةٌ: ج. ضَمَمَانِيٌّ۔
 الضَّمَمِنُ وَالضَّمَمِنَةُ: شرمنا اور منتہض ہونا۔
 الضَّمَمِنُ: اصل۔ معدن۔ کثرت نسل۔ ج. ضَمَمِنَةٌ۔
 الضَّمَمِنُ وَالضَّمَمِنَةُ: ضرورت۔
 ضَمَمِنَ (ن) ضَمَمِنَا بِالْأَرْضِ: زمین پر چلک دینا۔ ضَمَمِنَ بِالشَّيْءِ: بے خبر کرنا۔


ضَمَمِنَ (س) ضَمَمِنَا الشَّيْءَ: مونا اور نموس ہونا۔
 الضَّمَمِنُ: بھیر کرنا۔
 الضَّمَمِنُ: بھلی۔
 الضَّمَمِنُ: چلی۔ نکالنا۔ ڈیک۔
 الضَّمَمِنُ: کونیں وغیرہ پر بہت زیادہ بھیر۔
 ضَمَمِنَ (ک) ضَمَمِنَا الشَّيْءَ: ست رائے۔ ضعیف العقل۔ کمزور بدن والا۔ صفت ضَمَمِنٌ ج. ضَمَمِنٌ (ک) ضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا: بھل کرنا۔
 ضَمَمِنَ ضَمَمِنَا: زکام زدہ ہونا۔
 ضَمَمِنَا اللَّهُ: زکام میں مبتلا کرنا۔
 الضَمَمِنُ: بھل۔ مذکر و مؤنث دونوں میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "مَكَانٌ ضَمَمِنٌ وَعَيْشَةٌ ضَمَمِنٌ"۔
 الضَمَمِنُ: مضبوط جسم والا۔ مذکر و مؤنث دونوں میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "زَجَلٌ ضَمَمِنٌ وَأَمْرَةٌ ضَمَمِنَةٌ" بڑا درخت۔
 الضَمَمِنُ وَالضَمَمِنَةُ: زکام۔
 الضَمَمِنَةُ: بھل۔ بھل کرنا۔
 الضَمَمِنُ: بھل کرنا۔ بھل کرنا۔ کہا جاتا ہے "هَجَمْتُ عَلَى الْقَوْمِ وَهُمْ يَضَمَمَانِيهِمْ" میں قوم پر اچانک بچھڑ گیا اور وہ لوگ متحرق نہیں ہوئے تھے۔
 الضَمَمِنَةُ وَالضَمَمِنَةُ: جس پر بخل کیا جائے۔ ج. ضَمَمَانٌ۔
 ضَمَمِنَا (ف) ضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا: جھینا۔
 الضَّمَمِنُ: جانا۔
 الضَّمَمِنُ: مال۔ کثیر ہونا۔
 الضَّمَمِنُ (ف) ضَمَمِنَا وَضَمَمِنَا: ضَمَمِنَا (س) ضَمَمِنَا وَأَضَمَمِنَا (المرأة): بہت اولاد والی ہونا۔ صفت ضَمَمِنٌ وَضَمَمِنَةٌ: ج. ضَمَمَانِيٌّ۔
 الضَّمَمِنُ وَالضَمَمِنَةُ: شرمنا اور منتہض ہونا۔
 الضَّمَمِنُ: اصل۔ معدن۔ کثرت نسل۔ ج. ضَمَمِنَةٌ۔
 الضَّمَمِنُ وَالضَمَمِنَةُ: ضرورت۔
 ضَمَمِنَ (ن) ضَمَمِنَا بِالْأَرْضِ: زمین پر چلک دینا۔ ضَمَمِنَ بِالشَّيْءِ: بے خبر کرنا۔

<p>بلاجا۔ الضور۔ سخت بھوک۔ الضور۔ کل بدل۔ الضورة۔ ذیل 'حقیر' ضارَ یضورُ ضورًا۔ الفقرة: پھل کو چبانے حقه: کم کر دینا۔ ضوئی ضو ضوًا و ضیضاء۔ شور مچانا۔ الضوئی والضو ضا والضیضاء۔ شور و نوحا۔ ضوط۔ الأشياء: جمع کرنا۔ تضوط۔ الشئ: جمع ہونا۔ الاضوط۔ ٹیڑھے جڑے والا۔ بیوقوف۔ الضویطة۔ بیوقوف۔ حوض کی مٹی کا گلیلا خیر۔ ضاعة یضوع ضوعًا۔ حرکت دینا۔ رنجیدہ کرنا۔ بھڑکانا۔ گھبرانا۔ ضاع المینک: بھگ کی خوشبو پھیلنا۔ الدابة: جانور کو ڈبلا کرنا الضی: رونے میں تپ و تاب کھانا۔ تضوع المینک: بھگ کی خوشبو بھرنانا۔ الضی: رونے میں تپ و تاب کھانا وانضاع الفرح: پرندہ کے بچے کا چوگر کے لیے اپنی ماں کی طرف پر پھیلانا۔ الضوع والضوع: نر الو۔ رات کو اڑنے والے پرندوں میں سے ایک پرندہ۔ الضواع: نر الو کی آواز۔ رجل معضوع: خوفزدہ۔ صاف یضوف ضوفًا۔ عن الشئ: الگ ہونا۔ ضان یضون ضونًا۔ زیادہ اولاد ہونا۔ الضونة۔ سم۔ چھوٹی بچی۔ الضیون۔ بلا۔ ج۔ ضیون۔ الضوة۔ شور۔ لڑائی کا شور۔ ضوی یضوی ضویً۔ خلتی یا لاغری سے تکی پڑی کا ہونا۔ ضوی یضوی ضیاً وضویًا۔ الیہ: پناہ لینا۔ الرجل: رات کو آنا۔ ضوًا الیہ: مائل کرنا۔ أضوی۔ ڈبلا ہونا۔ لاغر ہونا۔ الرجل:</p>	<p>کرنا۔ الضہل۔ مجمع دودھ۔ تھوڑا پانی۔ الضاہلة۔ من الغیون: تھوڑے پانی کا چشمہ۔ الضہواء۔ بے پستان عورت۔ الضہوة۔ جو بڑج۔ اج۔ انہاء۔ ضہیت تضہی ضہی۔ المیزاة: عورت کا بغیر پستان اور بغیر دودھ کے ہونا۔ صفت ضہیاء ج ضہی۔ ضہیت الأرض: زمین میں کچھ نہ آگنا اور بغیر پانی کے پھیل میدان ہونا۔ ضاہی مضاہاة۔ الرجل: مشابہ ہونا۔ الضہی۔ مشابہ۔ ہم شکل۔ کہا جاتا ہے "ہو ضہیک" وہ تمہارا ہم شکل ہے۔ ضاء یضوء ضوًا و ضوًا و ضیاء الفمض وغیرہ: روشن ہونا۔ چمکانا۔ ضوًا تضوئة۔ التیث: روشن کرنا۔ عن الأفر: بھرجانا۔ أضاء إضاءة۔ التیث: روشن ہونا۔ التیث: روشن کرنا۔ تضوًا: تاریکی میں کھڑا ہونا تاکہ آگ کی روشنی میں لوگوں کو دیکھ سکے۔ تضوًا: کسی ایسی جگہ مائل ہونا جہاں سے آگ کی روشنی سے دیکھ سکے۔ إضضاء یہ: روشن ہونا۔ من فلان: مشورہ کرنا۔ الضوء والضوء۔ روشنی۔ ج۔ أضواء۔ الضیاء والضواء۔ روشنی۔ الضوی والضوی۔ روشن۔ روشن کرنے والا۔ ضاح یضح ضوحًا عن کذا: اعراض کرنا۔ بھرجانا۔ وانضاج الوادی: کشادہ ہونا۔ تضو ج الوادی: وادی کا بہت تپ دار ہونا۔ انضوج فی ضوج الوادی: وادی کے موڑ میں داخل ہونا۔ الضوج۔ وادی کا موڑ۔ ج۔ أضواج۔ الضوجان۔ سخت خشک۔ مؤنث ضوجانہ۔ ضوج اللہن: دودھ میں پانی ملانا۔ ضارَ یضورُ ضورًا۔ سخت بھوک ہونا۔ ضارة الأفر: نقصان پہنچانا۔ تضو۔ درد کی تکلیف یا بھوک سے تپ و تاب کھانا۔ الذئب و نحوہ: بھوک سے</p>	<p>"لہ ضو کثیر" اس کی بہت اولاد ہے۔ الضی۔ بچلی بتاریاں۔ ضنت تضنی و ضینت تضنی ضنی و ضناء المیزاة: کثیر اولاد ہونا۔ ضنی نصیب فلان: حصہ کا بڑھنا۔ ضہب (ف) ضہبًا بالتار: آگ سے متغیر کرنا۔ ضہبت (ف) ضہبتًا۔ کمزور ہونا۔ ضہبت اللحم: گوشت کو بریاں کرنا۔ القوس: نرم کرنے کے لیے آگ کے سامنے کرنا۔ صفت ضہبًا ضہبت القوم: زیادہ ہونا اور تیز چلنا۔ ضاہبہ مضاہبہ۔ برا تاؤ کرنا۔ گلی گوج کرنا۔ ضہب۔ القوم: مخلوط لوگ۔ الضہب۔ ہاڑ کا وہ گرم حصہ جہاں گوشت کو بھون سکتے ہوں۔ ضہتہ (ن) ضہتًا۔ سخت رونانا۔ ضہذہ (ف) ضہذًا۔ أضہذہ وأضہذہ وأضہذہ غلبہ کرنا اور ظلم کرنا۔ تکلیف دینا اور مجبور کرنا۔ الضہذہ۔ غلبہ اور تیز۔ کہا جاتا ہے ضہذہ لکل أحد یعنی ہر وہ شخص جو چاہتا ہے اسے مجبور کرتا ہے۔ الضہتہ۔ سخت مضبوط۔ الضہر والضاهر۔ پہاڑ کی چٹنی۔ وادی۔ الضہر۔ کھجور۔ ضہزہ و ضہسہ (ف) ضہزًا و ضہسًا۔ سخت رونانا۔ الدابة: جانور کا اگلے واتنوں سے کاٹنا۔ ضہل (ف) ضہلًا و ضہولًا۔ اللہن: تھوڑا تھوڑا جمع ہونا۔ التافؤ و نحوہا: تھوڑی دودھ والی ہونا۔ صفت ضہول ج ضہل ضہلہ۔ حقه: حق کم کرنا (و۔ تضہل) الی فلان: کسی کی جانب بغیر ارادہ جنگ کے لوٹنا۔ أضہل۔ التخل: کھجوریں پکنے لگنا۔ الی فلان مالا: مال کو فلاں کی طرف کرنا۔ إضضہل۔ الخبز: حسب امکان خیر طلب</p>
--	--	---

کمزور کرنا۔ ہ حَقَّةٌ: کم کرنا۔
 الأمر: کچا کام کرنا۔ اَضْوَاتُ المَوَازِ: کمزور پختہ
 جنا۔ اَضْوَاءُ الیَہِ: اپنی طرف مائل کرنا۔
 اِنضَوٰی العِضْوَانِ: الیَہِ: شامل ہونا۔ ملنا۔
 العِضْوٰی: فارمات کو آنے والا۔
 الضَّوِیُّ: کمزور ڈیلا۔ خَلَّتْ بِالْاَغْرٰی سے کمزور
 جسم والا۔ مَوْنَتْ حِصَانًا۔
 ضَاغٌ یَضِیغُ ضِیغًا وَضِیوُجًا وَضِیغَانًا
 عَثَّةً وَ الیَہِ: جھکانا۔ مائل ہونا۔ ضیاحت
 عِظَامَةٌ: لاغری کی وجہ سے ہڈیوں کا مل جانا۔
 ضَاخَتْ تَضِیغُ ضِیغًا۔ اِلْبَادُ: خالی ہونا۔
 ضَاخٌ وَ ضِیغٌ: اللِّیْنُ: پالی ملانا۔ ضِیغٌ
 فَلَانًا: پالی ملا ہوا دودھ پلانا۔
 تَضِیغُ اللِّیْنِ: پالی میں دودھ ملنا۔
 الزَّجُلُ: پالی ملا ہوا دودھ پینا۔
 الضَّیغُ: شمد۔
 الضَّیغُ وَ الضَّیاحُ: پالی ملا ہوا دودھ۔ شور پانا۔
 الضَّیغَةُ: پالی لے ہوئے دودھ کی ایک مرتبہ
 پینے کی مقدار۔
 ضَاوَةٌ یَضِیغُہُ ضِیغًا۔ الأمرُ: نقصان دینا۔
 ضَاوَةٌ یَضِیغُہُ ضِیغًا۔ ظلم کرنا۔ ضَاوَةٌ حَقَّةٌ:
 کم کرنا۔
 الضَّیغُ: شیرہ۔ کئی۔
 قِسْمَةٌ ضِیغٌ: ناقص تقسیم۔ خالمانہ تقسیم۔
 ضَاغٌ یَضِیغُ ضِیغًا وَ ضِیغَانًا۔ فِی مَشِیئَتِہِ۔
 موٹاپے کی وجہ سے چلنے میں جسم اور موٹاپوں کو
 جڑکت رہا۔ صفت ضِیغَانٌ وَ ضِیغَاتٌ۔
 ضَاغٌ یَضِیغُ ضِیغًا وَ ضِیغًا وَ ضِیغَةً
 وَ ضِیغًا۔ ضَاغٌ ہوتا۔ تلف ہونا۔ بیکار ہونا۔
 صفت ضَاغٌ جِ ضِیغٌ وَ ضِیغٌ۔
 اَضَاغَہُ: ضَاغٌ کرنا۔ اَضَاغُ الزَّجُلُ: بہت
 جائیداد والا ہونا۔
 تَضِیغٌ: المِسْلُ: مٹک کا بھڑکانا۔ مٹک کو
 خوشبو کا پھیلانا۔
 الضَّیغُ: مد۔ ایک قسم کی خوشبو۔ بے فائدہ۔
 کہا جاتا ہے "ضَاتٌ ضِیغًا وَ ضِیغًا وَ ضِیغًا"
 یعنی مر گیا اور کسی کو اس کی پروانہ ہوئی۔
 الضَّیغَةُ: جائیداد۔ زمین میر حاصل۔ اس کی

تصغیر ضِیغَةٌ ہے اور جمع ضِیغٌ وَ ضِیغَاتٌ وَ
 ضِیغَاتٌ۔ الضَّیغَةُ: پیشہ۔ کہا جاتا ہے "کَانَتْ
 ضِیغَةُ القَرَبِ بِنِیْسَانَتِہِ الِابِلِ" عرب کا پیشہ
 اونٹوں کا انتظام کرنا تھا۔
 المِضْیغُ: بہت ضَاغٌ کرنے والا۔
 المِضْیغَةُ وَ المِضْیغَةُ: موضع ہلاکت۔ جہاں
 ضَاغٌ ہونے کے اسباب زیادہ ہوں۔ کہا جاتا ہے
 "تَلَدَّ کُمْ مِضْیغَةُ العِلْمِ" تمہارے شہر میں ظلم
 کے ضَاغٌ ہونے کے اسباب بہت ہیں۔
 ضَاغٌ یَضِیغُ ضِیغًا الیَہِ: مائل ہونا۔ بہت
 جانا۔ ضَاغَاتُ الشَّمْسِ: آفتاب کا غروب کے لیے
 مائل ہونا۔ السَّہْمُ عَنِ المَہْدَفِ: تیر کا
 نشانہ سے بہت جانا۔ الزَّجُلُ: خوف کرنا
 ۔ مَنہ: پرہیز کرنا اور ڈرنا۔
 ضَاغٌ یَضِیغُہُ ضِیغًا وَ ضِیغًا۔ ممان ہونا۔
 ممانی طلب کرنا۔ کہا جاتا ہے "ضَاغٌ المَہْمُ
 فَلَانًا" یعنی فلاں پر غم نازل ہوا۔
 ضِیغٌ: ممان بنانا۔ ممانی کا کھانا پیش کرنا۔
 ضِیغَةُ الیَہِ: جھکانا۔ ضِیغُ الزَّجُلُ: مائل ہونا۔
 بہت جانا۔ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے
 لیے مائل ہونا۔
 اَضَاغُ الزَّجُلُ: دوڑنا۔ جلدی چلنا۔ خوف کرنا
 ۔ الشَّقُّ الِی الشَّقِی: جھکانا۔ سارا رہنا۔ ملانا
 ۔ الزَّجُلُ: پناہ دینا۔ مجبور کرنا۔ مَنہ: مَنہ:
 چرکنا رہنا۔ عَلِیہُ: جھانکنا۔ فَلَانًا
 عَلِی فَلَانٍ: ممان اتارنا۔ الکَلِمَةُ الِی
 الکَلِمَةُ: ایک کی نسبت دوسرے کی طرف
 طریقہ مخصوص پر کرنا۔
 تَضِیغٌ: ممان ہونا۔ طلب ضیافت کرنا۔
 تَضِیغُ الزَّجُلُ: مائل ہونا۔ الشَّمْسُ:
 غروب کی طرف مائل ہونا۔
 اِنضَاغٌ الیَہِ: ملنا۔
 تَضَایغٌ الوَادِی: ٹھگ ہونا۔
 اِسْتَضَاغٌ: ضیافت طلب کرنا۔ اِسْتَضَاغٌ بِہِ:
 فریاد کرنا۔ مِنَ فَلَانٍ الِی فَلَانٍ: پناہ لینا۔
 الضَّیغُ: ممان (واحد و جمع) مَوْنَتْ ضِیغٌ وَ
 ضِیغَةٌ جِ اَضْیَاغٌ وَ ضِیوُفٌ وَ ضِیَاغٌ وَ
 ضِیغَانٌ وَ اَضَاغِیغٌ۔

الضَّیغُ: طفل۔
 الضَّیغُ: ہلو۔ کہا جاتا ہے "ہُوَ فِی ضِیغٍ
 فَلَانٍ" وہ فلاں کے ہلو میں ہے۔
 الضَّیغَةُ: ممانی کا کھانا۔
 المِضْیَاغُ فِی العَزَبِ: جو جنگ میں گھر گیا
 ہو جو قوم کے ساتھ چپکرا گیا ہو۔
 المِضْیغُ وَ المِضْیغَةُ: ممانی کی جگہ۔
 المِضْیَاغُ: بہت ممانوں والا بیڑیاں۔
 المِضْیغَةُ وَ المِضْیغَةُ: حزن۔ غم۔
 مِضْیَاغٌ: الوَادِی: وادی کے ہلو۔
 ضَاغٌ یَضِیغُ ضِیغًا وَ ضِیغًا۔ ٹھگ ہونا۔
 صفت ضِیغٌ وَ ضَاغٌ وَ ضِیغٌ۔ الزَّجُلُ:
 بھل کرنا۔
 ضِیغَةٌ تَضِیغُہُ: ٹھگ کرنا۔ ضِیغٌ عَلِیہُ: سختی
 کیا جاتا۔
 اَضَاغٌ اَضَاغًا۔ ٹھگ کرنا۔ اَضَاغٌ الزَّجُلُ:
 محتاج ہونا۔
 تَضِیغٌ وَ تَضِیغٌ: ٹھگ ہونا۔ وَ تَضَایغٌ الامْرُ
 بِہِ اَوْ عَلِیہُ: ٹھگ ہونا۔ کہا جاتا ہے "تَضَایغٌ
 القَوْمِ" یعنی قوم کشادہ دل نہیں یا ان کے مکان
 کشادہ نہیں۔
 ضَاغٌ یَضِیغُہُ ضِیغًا: سختی کرنا۔
 الضَّیغُ وَ الضَّیغُ: سختی۔ حزن۔ غم جس سے
 ٹھگ دلی ہو۔
 الضَّیغُ وَ الضَّیغُ: ٹھگ۔
 الضَّیغَةُ وَ الضَّیغَةُ: بد حال۔ محتاجی۔ جِ ضِیغٌ
 وَ ضِیغٌ۔
 الضَّیغُ: نا۔ ٹھگ۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ ضَاغٌ
 صَدْرُہُ بِکَذَا" فلاں وجہ سے ٹھگ دل ہے۔ جِ
 ضَاغَةٌ جِیسے سائید کی جمع سَادَةٌ۔
 الاَضِیغُ: بہت ٹھگ۔ مَوْنَتْ ضِیغٌ وَ ضِیغٌ۔
 المِضْیغُ: ٹھگ جگہ۔ مشکل کام۔ گھٹلی۔ جِ
 مِضْیَاغٌ۔
 ضَاغَةٌ یَضِیغُہُ ضِیغًا۔ ظلم کرنا۔ مجبور کرنا۔
 ضَاغَةٌ اِسْتَضَاغًا۔ حَقَّةٌ: کم کر لینا۔
 الضَّیغُ: ظلم۔ جِ ضِیغٌ۔
 ضِیغٌ: الجَبَلِ: پہاڑ کا کنارہ۔
 الضَّیغَةُ: حاجت۔ ضرورت۔



ظَاطًا. الواس وغيره : پست کرنا۔ کہا جاتا ہے "ظَاطًا زَامَةً عَنْ كَذَا" یعنی فلاں چیز سے اس نے اپنے سر کو پست کر لیا۔ فَرَسَةٌ: گھوڑے کو تیز دوڑانے کیلئے اس کی دونوں رانوں میں ایز لگانا۔ ظَاطَاتِ الْمَرْأَةِ بِسْرَهَا: عورت کا پردہ ڈالنا؛ ظَاطًا يَدُهُ بِالْعَيْنِ لَكُمْ كُو وَصِيلًا جَوْزَنَا۔ الخُفْرَةُ: گڑھے کو گہرا کرنا۔ فَلَانٌ مِنْ فَلَانٍ: کسی کو مرتبے سے گرا دینا۔ ظَاطًا فِينِ قَتْلِ الْقَوْمِ: قوم کے قتل کرنے میں مبالغہ کرنا۔ تَخِي بَرْتَا۔

تَطَّأَطَّأَ: پست ہونا۔
الطَّأَطَّأُ: پست زمین۔ چھوٹا اونٹ۔
الطَّلَاةُ: کچھڑ۔

طَلْبَةٌ (ن ض) غِطَا: علاج کرنا۔ طَلَبَ الزُّجْلُ: جلد بازی نہ کرنا۔ نرمی کرنا۔ اور اسی سے مثل ہے "مَنْ أَحَبَّ طَلَبَ" یعنی جو دوست رکھتا ہے نرمی کرتا ہے اور کہا جاتا ہے "إِصْنَعُهُ صِنْعَةَ مَنْ طَلَبَ لِمَنْ حَبَّ" یعنی معاملہ کرو اس شخص جیسا جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو نرمی کرتا ہے۔ خَوْزُ الْقَرْبَةِ: منگ میں بیوند لگانا۔ عام لوگ کہتے ہیں "طَلَبَ عَلِيٌّ وَجِهَهُ" یعنی وہ اپنے منہ کے تل اوندھا ہو گیا اور صواب اکثہ ہے اور کہا جاتا ہے "مَا كُنْتُ طَلْبِيًّا وَقَدْ طَلَبْتُ" اور طَلَبْتُ" یعنی تم طیب نہیں تھے اور بن گئے۔ طَلَبَ الزُّجْلُ: جاوہ کیا جانا۔

طَلَبْتَهُ: علاج کرنا۔ طَلَبْتُ الْحَيَاظَ الْفُؤَبَ: درزی کا کپڑے میں کشادہ ہونے کے لیے جوڑ لگانا۔

الْقَرْبَةُ: منگ کے سوراخ پر بیوند لگانا۔

طَلَبٌ مُطَابَةٌ: الْأَمْرُ: مزاولت کرنا۔ کہا جاتا

ہے "أَنَا أَطَابْتُ هَذَا الْأَمْرَ مُنْذُ جِئْتُ كُنَى أَبْلَغَهُ" یعنی میں ایک مدت سے اس امر کی مشق و مزاولت کر رہا ہوں تاکہ اس کو حاصل کر لوں۔

تَطَلَّبَ: الرَّجُلُ: طیب بننا۔ لِفَلَانٍ: علاج کرنا۔

إِسْتَطَلَبَهُ: دوا تجویز کرنا۔

الطَّبُّ: طیب۔ حَازِقٌ: کہا جاتا ہے "هُوَ طَلَبٌ يَهْدِي الْأَمْرَ" یعنی وہ اس امر کا عالم ہے۔ طیب۔ الطَّبُّ: ارادہ۔ خواہش۔ حال۔ شان۔ عارت۔ کہا جاتا ہے "فَلَانٌ طَيْبُهُ الْمَجُونُ" فلاں کی عادت مذاق کی ہے۔

الطَّبُّ: وَالطَّبُّ وَالطَّبُّ: جسمانی اور روحانی علاج۔ نرمی۔ جاوہ۔

الطِّيَابُ: جس سے علاج کیا جائے۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طِيَابٌ مَرَضِكَ" یعنی یہ تمہارے مرض کا علاج ہے۔

الطَّبَّةُ: مَوْنَتٌ: طَلَبٌ: گوشہ۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي تِلْكَ الطَّبَّةِ" یعنی وہ اس گوشہ میں ہے۔

الطَّبَّةُ جِ طَلَبِ الطَّبَّاتِ جِ طَبَّاتٍ: زمین، کپڑے، کھال یا بادل کا مستطیل کلا۔ والطَّبَّاتَةُ مِنَ الْخَوْزِ: منگ کے نچلے حصہ میں دو سوراخوں کے درمیان کا چیز۔

الطَّبَّيْبُ: فَنٌ: طب کا جاننے والا۔ فَنٌ: طب کا ماہر جِ أَطْبَيْتُهُ: أَطْبَيْتُهُ: مَوْنَتٌ: طَبَّيْبَةٌ: الْمَطْبُوبُ: محرزہ جس پر جاوہ کا اثر ہو۔

طَبَّيْحٌ (س) طَبَّيْحًا: الرَّجُلُ: بیوقوف ہونا۔ صفت أَطْبَحَ: عَلِيٌّ زَائِبُهُ وَعَلِيٌّ كُنَى أَجْوَبٌ: سر پر یا ہر کھوکھلی چیز پر مارنا۔ تَطَبَّيْحٌ: فِي الْكَلَامِ: مختلف رنگوں میں گفتگو کرنا۔

طَبَّيْحٌ (ف ن) طَبَّيْحًا وَ طَبَّيْحٌ: اللَّحْمُ: گوشت پکانا۔ طَبَّيْحُ الصَّبِيِّ: بچہ کا حرکت کرنا۔ بڑھنا۔

إِنطَبَّيْحٌ: پکانا۔

أَطْبَحَ: الرَّجُلُ: اپنے لیے پکانا۔ اللَّحْمُ: گوشت پکانا۔

الطَّبَّيْحُ وَالطَّبَّيْحُ: جو کچھ پکایا جائے۔

الطَّبَّايْحَةُ: ہانڈی کے جھاگ۔ پکی ہوئی چیز۔

الطَّبَّايْحَةُ: باورچی گیری۔

الطَّبَّايْحُ: پکانے والا۔ اور اس کو طہای بھی کہتے ہیں اور استعمال عوام میں طَبَّايْحُ کا طَلَاقُ اَلْمَكْلَمِي پر ہوتا ہے اور حسن یہ ہے کہ اس کو منصب کہا جائے۔

الطَّبَّيْحُ: پکی ہوئی چیز۔ چونہ۔ پکی اینٹ۔ جِ أَطْبَيْحَةٌ:

الطَّبَّايْحُ: پکانے والا۔ سخت۔ بخار۔

الطَّبَّايْحَةُ: مَوْنَتٌ: طَبَّايْحٌ: دوپہر۔

الطَّبَّايْحُ وَالطَّبَّايْحُ: مضبوطی۔ قوت۔ موٹاپا۔ کہا جاتا ہے "مَنَافِي كَلَامِهِ طَبَّايْحٌ" یعنی کوئی فائدہ نہیں۔

الْأَطْبِيْحُ: بہت زیادہ بیوقوف۔

الْمَطْبِيْحُ: باورچی خانہ۔ جِ مَطْبَايْحُ:

الْمَطْبِيْحُ: پکانے کا اوزار۔ جِ مَطْبَايْحُ:

الْمَطْبِيْحُ وَالْمَطْبِيْحُ: باورچی خانہ۔

طَبَّيْرٌ (ن) طَبَّيْرًا: اُجْمَلًا: کودنا۔ چھپنا۔

الطَّبَّيْرُ وَالطَّبَّيْرِيْنُ: کھلاڑا (یہ دونوں کلمے وکیل ہیں)

الطَّبَّايْرُ: انجیر کے مشابہ ایک درخت۔ واحد طَبَّايْرَةٌ:

الطَّبَّيْرِي: طبرستان کی طرف منسوب۔

عَلَى الْعَمَلِ: حاوی ہوتا ہے۔ بِالْحَقِّ: اقرار کرنا۔ یقین کرنا۔ الْمَقْبُذُ: قیدی کا چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا۔ الْفَرْسُ فِي جَزْبِهِ: اگلی ٹانگوں کی جگہ میں پھیلے ٹانگوں کو رکھنا۔ أَطَبَّقَ الشَّيْءُ: ڈھانپنا۔ اللَّيْلُ: تاریک ہونا۔ الشُّجُومُ: کثرت سے ظاہر ہونا۔ الرَّخِي: ایک پاٹ کو دوسرے پاٹ پر رکھنا۔ کما جاتا ہے "أَطَبَّقِي شَفْتَيْكَ" یعنی چپ رہو۔ أَطَبَّقَ الزَّائِكُ: رُكُوع کی حالت میں دونوں ہاتھوں کو کھینچنے کے درمیان کر لینا۔ أَطَبَّقُوا: عَلِي الْأَمْرُ: اجماع کر لینا۔ أَطَبَّقَتِ الْحُمَى: بخار کا لگنا رہنا۔ کما جاتا ہے "مَا أَطَبَّقَ فَلَانًا" یعنی وہ کیسا حاذق ہے۔ تَطَابَقَ الْقَوْمُ: اتفاق کر لینا۔ تَطَلَّقَ وَأَنْطَبَقَ الشَّيْءُ: بند ہونا۔ الطَّبَقُ: مطابق۔ کما جاتا ہے "هَذَا طَبَقُ ذَاكَ" یعنی یہ اس کے مطابق ہے۔ دن کا حصہ۔ لاسہ جس سے پردوں کا شکار کیا جائے۔ ایک درخت کا پھل الطَّبَقُ مِنَ النَّاسِ: جماعت۔ الطَّبَقُ: مطابق۔ پردہ۔ طَشْتَرِي: جِ أَطَبَّقِ مِنَ الظَّنِّ: سچ زمین ریڑھ کی ہڈی۔ مِنَ اللَّيْلِ وَالتَّهَارِ: دن رات کا بڑا حصہ۔ کما جاتا ہے "أَقَمْتُ عِنْدَهُ طَبَقًا مِنَ التَّهَارِ" یعنی میں نے اس کے پاس دن کے بوسے حصے میں اقامت کی۔ مِنَ الْمَطَرِ: عام بارش۔ کما جاتا ہے مَطَرِ طَبَقٌ وَدَيْمَةٌ طَبَقٌ حَالٌ: کما جاتا ہے "الذَّهْرُ أَطَبَّقَ" یعنی زمانے کے مختلف احوال ہیں۔ جماعت۔ کما جاتا ہے "مَضَى طَبَقٌ بَعْدَ طَبَقٍ" یعنی ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت گزرتی ہے۔ "جَاءَ طَبَقٌ مِنْ خَوَادِجِ" یعنی نڈوں کی جماعت آئی۔ "أَطَبَّقِي الرَّاسَ" سر کی ہڈیاں۔ بَنَاتُ طَبَقٍ: مہینتیں۔ کچھوے۔ سانپ۔ أُمُّ طَبَقٍ: مصیبت۔ الطَّبَقَةُ: جال۔ پھندا۔ دن کا ایک حصہ۔ جِ طَبَقٍ وَطَبَقٍ: الطَّبَقَةُ: مرتبہ۔ حال۔ کما جاتا ہے "ان كُتِبَ إِلَيَّ طَبَقَةٌ" اس کے خطوط میری طرف متواتر آئے۔ جِ طَبَقَاتٍ:

الطَّبَعُ: کینہ۔ سَيْفٌ طَبَعٌ: زنگ آلود گنوار۔ الطَّايِعُ وَالطَّبَاعُ: خلقی عادت۔ الطَّايِعُ وَالطَّبَاعُ: ہر وہ چیز جس سے ہنری جائے۔ جِ طَبَوَاعٍ: کما جاتا ہے "هَذَا كَلَامٌ عَلَيْهِ طَبَاعُ الْفَصَاحَةِ" یعنی یہ ایسا کلام ہے جس پر فصاحت کی مرہ ہے۔ الطَّبَاعُ: طَبَاعِ اس مفاعل کا مبالغہ۔ الطَّبَاعَةُ: گنوار سازی۔ چھاپنے کا پیشہ۔ دَاوِ الطَّبَاعَةِ: گنوار سازی کا کارخانہ۔ چھاپنے کی جگہ۔ الطَّبِيعَةُ: خلقی و جبلی عادت۔ جِ طَبَائِعِ: الطَّبَائِعِ الْأَزْجِعِ: سردی۔ گرمی۔ خشکی۔ تری۔ الطَّبِيعِي: جو طبیعت کے ساتھ شخص ہو۔ جو ہر چیز کو طبیعت کی طرف منسوب کرے۔ جو عظیم طبیعت کا ماہر ہو اور عظیم طبیعت وہ عظیم ہے جس میں طرائع اشیاء سے بحث کی جائے۔ الطَّبِيعَانِ: ہر۔ کما جاتا ہے "هَذَا طَبِيعَانِ الْأَمِيرِ" یہ امیر کی مرہ ہے۔ الْمَطْبِيعَةُ وَالْمَطْبِيعُ: چھاپنے کی جگہ۔ جِ مَطْبِيعِ: المَطْبِيعَةُ: چھاپنے کا آلہ۔ پریس۔ جِ مَطْبِيعِ: المَطْبِيعُ: ع۔ مہم۔ چھپا ہوا۔ پسندیدہ۔ مِنَ الشُّعْرَاءِ: جو بلا تکلف اشعار کرے۔ طَبَقَتْ (س) طَبَقًا وَطَبَقًا يَذُو: بند ہونا۔ پہلو سے لگنا۔ طَبَقَ يَفْعَلُ الشَّيْءُ: شروع کرنا۔ کرنے لگنا۔ طَبَقَ الشَّيْءُ: عام ہونا۔ السَّحَابُ الْجَوُّ: بادل کا نفا کو گھیر لینا۔ الْمَاءُ وَجِذَةُ الْأَرْضِ: ڈھانپ لینا۔ السَّنْفُ الْمَفْصَلُ: گنوار کا جوڑ کو جدا کرنا۔ کما جاتا ہے "إِنَّهُ يَطْبِقُ الْمَفْصَلَ" جبکہ جنت میں غالب ہو۔ طَبَقَ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ: حاکم کا درست فیصلہ کرنا۔ الْفَرْسُ فِي عَذْوِهِ: دوڑنے میں ایک ساتھ دونوں ٹانگوں کا اٹھانا اور اٹھاننا کرنا۔ طَبَقَهُ طَبَقًا وَطَبَقًا وَمُطَابَقَةً: موافقت کرنا۔ طَبَقَ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ: دونوں کو ایک طریقہ پر کرنا۔ بَيْنَ قَمِيصَيْنِ: ایک کے اوپر ایک پہننا۔ هُوَ عَلَى الْأَمْرِ: برابری کرنا۔ الرَّجُلُ

طَبَقَهُ (ن) طَبَقًا: بھرتیا۔ الطَّبَرُ: پھاڑ کا مضبوط کنارہ۔ دو کوہان کا اوٹ۔ طَبَسَتْ: گارے سے لپٹا۔ الطَّبَسُ: ہر ایک کالی چیز۔ الطَّبَسُ: بھیرا۔ بَحْرُ طَبَسِشٍ: بست پانی والا سمندر۔ الطَّبَسُ: لوگ۔ الطَّبَسَةُ: استعمال عوام میں بچوں کے مارنے کی لمبی چمڑی اور فصیح لفظ مخففہ ہے۔ طَبَقَتْ طَبَقَةً: الْمَاءُ: او السَّنْبُلُ: پانی یا سیلاب کا آواز کرنا۔ الْوَادِي: داوی کا بہنا۔ الْمَاءُ: پانی کو حرکت دینا۔ الطَّبِيطَةُ: گینہ کالا۔ الطَّبِيطَةُ: کوڑا۔ طَبَعُ (ف) طَبَعًا الشَّيْءُ: کسی چیز کی تصویر بنانا۔ عَلَيْهِ: مر لگنا۔ الدِّهْمُ: سکہ ڈھاننا۔ السَّنْفُ: گنوار بنانا۔ ڈھاننا۔ الْمَلَّةُ: الخَلْقُ: پیدا کرنا۔ الدَّلْوُ: ڈول بھرنا۔ کما جاتا ہے "طَبَعَ اللَّهُ عَلَيَّ قَلْبِي" یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر ہر کردی جس کی وجہ سے وہ خیر کی توفیق سے محروم ہے۔ طَبَعُ (س) طَبَعًا: میلا چکلا ہونا۔ عیب دار ہونا۔ السَّنْفُ: گنوار کا زنگ آلود ہونا۔ صفت طَبَعٌ وَأَطَبَعَ: طَبَعٌ: عَلَيَّ الْجَهْلُ: پیدا کیا جانا۔ طَبَعُ الْإِنَاءِ: بھرتیا۔ گندا کرنا۔ عوام کہتے ہیں "طَبَعُ الدَّابَّةِ" یعنی سدھا لیا۔ فصیح لفظ اس کے لیے "رَضَاهَا" ہے۔ قَطَطَعَ: بھر جانا۔ ڈھلنا۔ بَطْبَاعُ آيَتِهِ: باپ کے اخلاق اختیار کرنا۔ التَّهَارُ الْمَاءُ: سر کا کناروں سے برہ نکلنا۔ انطَبَعَ: بھر جانا۔ ڈھلنا۔ الطَّبَعُ: پیدا کٹی عادت۔ مثال۔ نمونہ۔ کما جاتا ہے "إِضْرِبْنِي عَلَى طَبَعِ هَذَا" یعنی اس کو اس کے نمونہ پر بناؤ۔ جِ طَبَاعِ: الطَّبَعُ: پانی جذب ہونے کی جگہ۔ پیمانہ بھر۔ مقلیدہ۔ نمر جِ طَبَعُ وِ طَبَاعُ () وَالطَّبَعُ: زنگ میل کیل۔ عیب۔ جِ أَطَبَّقِ:

الطحار۔ سخت قسم کی بچپش جس میں آدمی آہ آہ کرنے لگے۔	الطنبۃ۔ طنبور کی آواز۔ ایک کھیل۔	الطریق۔ بند۔
الطخزور۔ بدلی۔ ج طخاریر۔ الطخاریر: بادل کے ٹکڑے۔	الطائون۔ گڑھا جس میں حفاظت کے لیے آگ کو دیا جائے۔	الطریق۔ رات کا ایک حصہ۔ ج طریق (_____ و الطریق) مطابق۔ کہا جاتا ہے "هَذَا طَرِيقٌ ذَا لَفٍ" اور طِبَاقُہ" یعنی یہ اس کے مطابق اور موافق ہے۔ طِبَاقُ الْأَرْضِ: زمین کی سطح۔
طخوب۔ تیز دوڑنا۔ القزوبۃ: منگ بھرنا۔ گوز کرنا۔	الطنبجۃ۔ تہیز۔ ج طنبنجات۔	الطابق و الطابق۔ کڑاہی۔ آدمی بکری۔ ج طواقب و طواقب۔
الطخوب۔ کوڑا کرکٹ۔	طباہۃ یظنوبہ طنبۃ او اظباہۃ اظباہ۔ پکارنا۔ بلانا۔	الطابق و الطابق و الطابق۔ شیشہ۔ بڑی پکی اینٹ (اور یہ دخیل ہے)
الطخوبۃ۔ مُثَلَّثَةٌ: بادل یا کپڑے کا ایک ٹکڑا۔ طخطححہ۔ توڑنا۔ طخطحح القوم بالقوم: متفرق کرنا۔ ہلاک کرنا۔ مائلۃ: بکھیرنا۔	طبت تطبی طبی۔ الناقۃ: ڈھیلے تھنوں والی ہوتا۔	المطابق۔ زمین کے نیچے قید خانہ۔ الجئون المطابق: لگا رہتوں۔ سنۃ مظفۃ: سخت قسط۔ المطبیقات: مہینیں۔ الخوروف المطبیقة: مس ضابط۔
تططحح۔ ٹوٹنا۔ متفرق ہونا۔ ہلاک ہونا۔ بکھیرنا۔	الطنبۃ و الطنبۃ۔ من التورق: ڈھیلے تھنوں والی اور تنی۔	المطابق۔ صائب الرائے۔ سحابۃ مظفۃ: تمام زمین پر سنے والا بادل۔
طلحلۃ (ف) طخلأ۔ تلی پر مارنا۔ طحل طحل (س) طخلأ و طخلأ۔ تلی کا بڑھنا۔	طش (س) طشا۔ الشی: پاؤں یا ہتھیلی سے مار کر جگہ سے ہٹانا۔	طبل (ن) طبلأ و طبل۔ ڈھول بجانا۔ عوام کہتے ہیں۔ طبل فی المنشی: یعنی چلنے میں تھک گیا اور صحیح لفظ بطل ہے۔
الماء: پانی کا بڑھنا۔ تلی کا بڑھنا۔ طحل طحل۔ تلی کی بیماری ہونا۔ صفت مظحون۔	الطش۔ بچوں کا ایک کھیل جس میں گول لکڑی کو پھینکتے ہیں۔	الطبل۔ ڈھول۔ ج طبلول و اظبال۔
الطحال۔ مرض جو تلی کو لاحق ہو۔	المظفۃ۔ بچوں کے کھیل کی ایک گول لکڑی۔	الطبال۔ ڈھول بجانے والا۔
الطخلۃ۔ خاکستری رنگ۔	طفر (ن) طفرأ و طفرأ و طفر۔ اللبیب: دودھ کا بالائی والا ہونا۔ صفت طائر۔	الطبنالۃ۔ ڈھول بجانے کا پیشہ۔
الأطحل۔ خاکستری رنگ والا۔ مؤنث طخلأ ع طخل۔	الطفرۃ۔ کچڑ۔ کالی۔ بالائی۔ غلیظ پالی۔ وسعت عیش۔ بھیر کا اون۔	الطبنیۃ۔ خراج کے روپے۔ ج طبنیات۔
الطجل۔ بڑی تلی والا۔ غضبناک۔ بھرا ہوا۔ کچڑ والا پانی۔	طحن (ن) طحنأ و طحن۔ الشی: بھونا۔	الطوبالۃ۔ مادہ بھیر۔ ج طوبالآت۔
الطحل۔ عند الغامۃ: باریک تنگے اور فصیح لفظ حٹا ہے۔	الطاحن و الطاحن۔ کڑاہی۔ ج طباحن و طواجن (اور یہ دونوں گے دخیل ہیں) المطحن۔ بھنا ہوا۔	طحن (ض) طحنأ۔ التاز: آگ کو دیا جاتا۔
طلحلب۔ الماء: کالی والا ہونا۔ صفت مٹخلب۔ مٹخلب۔ الأرض: سرسبز ہونا۔ الزجل: قتل کرنا۔	طحوت (ف) طحوا۔ العین قذاہا: خس و خاشاک کو دور کرنا۔ نکال پھینکنا۔ صفت طحوزۃ الریح السحاب: ہوا کا بال کو اڑا دینا۔	طحن (ض) طحنأ و طحن۔ الشی و لبش۔ سمجھ دار ہونا۔ صفت طحن و طحن۔
الطحلب و الطحلب و الطحلب۔ کالی۔ ایک ٹکڑا کالی کا۔	طحو (ض) طحوا و طحوا و طحوا۔ آہ کرنا۔	طحنۃ۔ موافق ہونا۔ طحن الحفیرۃ: گہرا کرنا۔ اظبالاً اظبناناً۔ بالمکان: مطمئن ہونا۔
طحنۃ۔ کہا جاتا ہے "مَاعَلَيْهِ طَحْلَبَةٌ" یعنی اس کے اوپر بال نہیں۔	الطحو و الطحو۔ متفرق پتلے پتلے بادل۔	الطنین و الطنین و الطنین۔ مردار جو گدھوں اور درندوں کے شکار کیلئے جال میں رکھا جائے۔ اعرابوں کا ایک کھیل۔
طخم (ف) طخمۃ۔ علینہ: کودنا اور حملہ کرنا اور یہ استعمال عوام ہے اور ممکن ہے کہ یہ فحتم	الطخور و المظحور۔ من القسی: دو پھینکنے والی کمان۔	الطنین۔ طنبور یا ربط۔
		الطنین۔ گہرا کوڑا کرکٹ جس کو ہوا اڑالائے۔

ستاروں کا روشن ہونا — یثدہ: زخم کی وجہ سے گر جانا۔ الرجل من السطح: گرنا۔
أظرة: گرنا۔ کانا۔ دھکارنا۔ اظرة علی الأظور: براگینتہ کرنا۔
ظوزت العجارية: لڑکی کا اپنی زلفوں کو ستورنا۔

الظرة: کنارہ ج اظراؤ۔ کہا جاتا ہے ”ہو یخمنی اظراؤ الجلاوی“ یعنی وہ اطراف بلاد کی حفاظت کرتا ہے۔ ”و جاوراً ظراً“ یعنی سب آئے۔
الظرة: کمر۔

الظرة: پیشانی۔ پیشانی کے بال۔ کپڑے کا نقش و نگار۔ کنارہ۔ کتاب کا حاشیہ۔ نمر کا کنارہ۔ وادی کا کنارہ۔ بادل کا لبا کلا۔ ج ظرات و ظرد و طزار و اظراد اور اس لفظ کو اس علامت کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جو شاہی فرامن وغیرہ میں لکھا جاتا ہے جس میں بادشاہ کا نام مع لقب کے ہوتا ہے اور صواب لفظ ظغراء ہے۔

غلام ظاراً و ظریزاً: جوان جس کی سس بھیک گئی ہوں۔ سنان ظریزاً: تیز تیز۔
المظفر: فاعل غضب مظرفاً: بے موقع غضب۔
الظربان: تشری۔ طباق۔

المظرة: عادت۔ کہا جاتا ہے ”لہم مظرة حسنة“ ان کی اچھی عادت ہے۔
ظراً (ف) ظراً و ظروفاً: علیہم: دور سے اور اچانک آجانا۔ کہا جاتا ہے ”ظرة علی ہم لا اظیفقہ“ میرے اوپر ایسا غم آچکا ہے جس کی مجھے طاقت نہیں۔

ظروفاً (ک) ظروفاً: عطاء و ظروفاً: التیاب۔ تروازہ ہوتا۔ صفت ظریزاً۔
أظرة: حد سے زیادہ مدح کرنا۔
الطاری: فاعل۔ ظریزاً: مسافر۔ غیر اصلی۔ ج ظروفاً ظروفاً۔

الطاریة: مؤنث طاری۔ مصیبت۔ ج طوارى و طارنات۔ اور طاریة کو ان لوگوں پر بھی بولا جاتا ہے جو غیر ملکی ہوں اور کسی جگہ آباد ہو جائیں۔

الظزان: راستہ۔ آمر منکر۔ غیر پندیدہ بات۔

الطحیة: بادل کا کلا۔
طخ (ن) طخاً: الشی: بھینکا اور زور کرنا۔ (طخوفاً) بد غلق ہونا۔
المطخعة: ایک کلاڑی جس سے بچے کھیتے ہیں۔
طخشت (س) طخشا: العین: آنکھ کا بے نور ہونا۔

طخطح: الشی: برابر کرنا۔ ایک کو دوسرے سے ملانا۔ اللیل: تاریک کرنا۔
تطخطح: اللیل: تاریک ہونا۔
السحاب: بادل گھر کر رہا ہونا۔

الطخطخ: گھر ہوا بادل۔ بد غلق۔
الطخاطخ: تاریکی۔
طخیم (ف) طخما و طخیم (ک) طخامة۔
تکیر کرنا۔

إطخیم: اللحم: خشک ہو کر سیاہی مائل ہونا۔
الطخمة: بکریوں کا گلہ۔
الطخمة: ناک کے اگلے حصے کی سیاہی۔
اللاطم: جانور یا انسان کے ناک کا گلا حصہ۔
والطخیم: خشک گوشت۔

طخا یطخو اظخو او طخو: اللیل: تاریک ہونا۔
الطخاء: بلند بادل۔ دل کی گہراہٹ۔
الطحیة و الطخیة و الطخیة: تاریکی۔ بادل کا ایک کلا۔ الطخیة: بیوقوف۔ ج طخیون۔
الطخواء و الطخیاء: من اللیالی: تاریک راتیں۔

الطراحیة: سخت تاریکی۔
ظرا (ن) ظراً: الماشیة: جانوروں کو زور سے ہانکنا۔ الإبل: اونٹوں کو اطراف سے گھیرنا۔ الشی: کانا۔ الفوب: کپڑے کو پھاڑنا۔ الإبل الجبال: اونٹوں کا پہاڑ کو طے کرنا۔
ظرة القوم: کسی قوم پر گزرتا۔ السبکین: چھری تیز کرنا۔ البنیان: کسی عمارت کی حرمت کرنا۔ الحوض: حوض کو لینا۔ المال: مال چھیننا اور اسی سے ہے ”ظرة عقله“ فلائح: طمانچہ مارنا۔ دھکارنا۔

ظرا (ن) ظراً و ظروفاً: الشارب او التیاب: مونچھ یا نانات کا آنا۔ ظرت الشخوم: کی تحریف ہو۔
الطحمة: مقلنة۔ من الناس: جماعت۔ من السیل: سیلاب کا زور۔ من اللیل: بہت تاریکی۔
(و) الطخماء: ایک قسم کی سبزی۔
الطحمة: سخت جنگجو۔ بہت اونٹ۔
الطخوم: تیز ناکتے والا۔
المطخوم: بھرا ہوا۔
طحن (ف) طحناً و طحن: النور: گیوں پینا۔
المنیة القوم: ہلاک کرنا۔
طحنبت الأفی: سانپ کا کندلی مارنا۔ صفت مطحان۔
تطحن: پینا۔
الطحن و الطحین: پیسا ہوا آٹا۔
الطاحنة: مؤنث طاحن۔ ڈاڑھ۔ ج طواجن۔
الطحان: پینے والا۔ آئے کا پینے والا۔
الطحانة: پیالی کا پشیر۔
الطاحون و الطاحونة: چکی پینے کا مکان۔ ج طواجن۔
الطحون و الطحانة: لڑائی۔ بڑا لشکر۔ بہت اونٹ۔
المطحنة: چکی۔ ج مطاحن۔
المطحنة: پینے کا مکان۔ ج مطاحن۔
طخا یطخو طخو: ا: بعد ہونا۔ ہلاک ہونا۔ الشی: دفع کرنا۔ بالکوة: بھینکنا۔
القوم: ایک دوسرے کو ہٹانا۔
طخا یطخا طخو: الشی: پھیلانا۔ دراز کرنا۔ الشی: پھیلانا۔ دراز ہونا۔ القمور: روشن ہونا۔ الرجل: جانا۔ کہا جاتا ہے ”طخابه همته“ یعنی اس کی بہت اس کو ہر کام پر لے گئی۔ پلویر یطخا یفلان شخمة: ہوتا ہوتا۔
الطخا: چوڑی زمین۔
الطاحی: بلند۔ پھلنے والا۔ بڑی جماعت۔
مقلنة طاحیة و مطخوة و مطحیة: بڑا سا بان۔
بقلة مطحیة: زمین پر پھلنے والی سبزی۔
طخی: طخی طخیاً: پلویر پلٹنا۔

طخا یطخو اظخو او طخو: اللیل: تاریک ہونا۔
الطخاء: بلند بادل۔ دل کی گہراہٹ۔
الطحیة و الطخیة و الطخیة: تاریکی۔ بادل کا ایک کلا۔ الطخیة: بیوقوف۔ ج طخیون۔
الطخواء و الطخیاء: من اللیالی: تاریک راتیں۔
الطراحیة: سخت تاریکی۔
ظرا (ن) ظراً: الماشیة: جانوروں کو زور سے ہانکنا۔ الإبل: اونٹوں کو اطراف سے گھیرنا۔ الشی: کانا۔ الفوب: کپڑے کو پھاڑنا۔ الإبل الجبال: اونٹوں کا پہاڑ کو طے کرنا۔
ظرة القوم: کسی قوم پر گزرتا۔ السبکین: چھری تیز کرنا۔ البنیان: کسی عمارت کی حرمت کرنا۔ الحوض: حوض کو لینا۔ المال: مال چھیننا اور اسی سے ہے ”ظرة عقله“ فلائح: طمانچہ مارنا۔ دھکارنا۔
ظرا (ن) ظراً و ظروفاً: الشارب او التیاب: مونچھ یا نانات کا آنا۔ ظرت الشخوم: کی تحریف ہو۔
الطحمة: مقلنة۔ من الناس: جماعت۔ من السیل: سیلاب کا زور۔ من اللیل: بہت تاریکی۔
(و) الطخماء: ایک قسم کی سبزی۔
الطحمة: سخت جنگجو۔ بہت اونٹ۔
الطخوم: تیز ناکتے والا۔
المطخوم: بھرا ہوا۔
طحن (ف) طحناً و طحن: النور: گیوں پینا۔
المنیة القوم: ہلاک کرنا۔
طحنبت الأفی: سانپ کا کندلی مارنا۔ صفت مطحان۔
تطحن: پینا۔
الطحن و الطحین: پیسا ہوا آٹا۔
الطاحنة: مؤنث طاحن۔ ڈاڑھ۔ ج طواجن۔
الطحان: پینے والا۔ آئے کا پینے والا۔
الطحانة: پیالی کا پشیر۔
الطاحون و الطاحونة: چکی پینے کا مکان۔ ج طواجن۔
الطحون و الطحانة: لڑائی۔ بڑا لشکر۔ بہت اونٹ۔
المطحنة: چکی۔ ج مطاحن۔
المطحنة: پینے کا مکان۔ ج مطاحن۔
طخا یطخو طخو: ا: بعد ہونا۔ ہلاک ہونا۔ الشی: دفع کرنا۔ بالکوة: بھینکنا۔
القوم: ایک دوسرے کو ہٹانا۔
طخا یطخا طخو: الشی: پھیلانا۔ دراز کرنا۔ الشی: پھیلانا۔ دراز ہونا۔ القمور: روشن ہونا۔ الرجل: جانا۔ کہا جاتا ہے ”طخابه همته“ یعنی اس کی بہت اس کو ہر کام پر لے گئی۔ پلویر یطخا یفلان شخمة: ہوتا ہوتا۔
الطخا: چوڑی زمین۔
الطاحی: بلند۔ پھلنے والا۔ بڑی جماعت۔
مقلنة طاحیة و مطخوة و مطحیة: بڑا سا بان۔
بقلة مطحیة: زمین پر پھلنے والی سبزی۔
طخی: طخی طخیاً: پلویر پلٹنا۔

کما جاتا ہے "حَمَامٌ طَرَانِي" یعنی وہ کوئی ترحون معلوم کہاں سے آیا "كَلَامٌ طَرَانِي" جو کلام غیر پسندیدہ اور ادب و تمدن سے گرا ہوا ہو۔

طَرَاةُ السَّنْبِلِ: سیلاب کا زور۔
طَرَبَ (س) طَرَبْنَا: خوشی یا غم سے جھومنا۔
صفت طَرِبٌ۔

طَرَبٌ: گانا _____ فِينِ صَوْتِهِ: سُر ٹکانا _____ عَنِ الطَّرِيقِ: بھٹ جانا۔ طَرَبَهُ وَأَطْرَبَهُ وَ تَطَرَبْتُهُ: خوشی پر برا بھلا کہنا۔

إِسْتَطْرَبَ: بست خوش ہونا _____ فَلَانًا: خوش ہونے کو کہنا _____ الْإِبِلِ: حُدِي سے حرکت میں لانا۔

الطَّرُوبُ وَالْمِطْرَابُ وَالْمِطْرَابَةُ: بست زیادہ خوش۔

الْمِطْرَبُ وَالْمِطْرَبَةُ: تنگ راستہ۔ ج

مِطْرَابُ: المِطْرَابِ: متروک راستہ۔
الْمِطْرَبَالُ: ہر بلند عمارت۔ دُور سے نظر آنے والا جھنڈا۔ بڑی چٹان پہاڑ کی جو فضا میں ہوج
طَرَابِيلُ: طَرَابِيلُ الشَّامِ: نلک شام کے گرجے۔

الْمِطْرَبِيلُ: گاہنے کی مشین۔ ج طَرَابِيلُ۔

طَرَحَ (ف) طَرَحَا: الشَّمْسُ وَالشَّمْسُ: پھینک دینا _____ عَنَهُ: ڈال دینا اور دُور کر دینا۔ کما جاتا

ہے "طَرَحْتَ التَّوْبَى بِفُلَانٍ كُلَّ مَطْرَحٍ" یعنی فرق نے فلاں کو دُور ڈال دیا۔ طَرَحَ النُّوبَ عَلَيْهِ: کسی چیز پر کڑوا ڈالنا۔ طَرَحْتَ الْأَنْفَى:

حمل گرانے۔ طَرَحَ الْحَايِبِ: حساب کرنے والے کا کسی بڑے عدد کو چھوڑ دینا _____ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةُ: مسالہ پیش کرنا۔

طَرَحَ (س) طَرَحَا: بدخلق ہونا۔ خوش عیش ہونا۔

طَرَحَ: طرح کا مبالغہ۔ طَرَحَ بِهِ السَّفَرُ إِلَى نَاجِيَةٍ كَذَا: سفر نے اس کو فلاں گوشہ میں پھینک دیا۔ طَرَحَ الْأَنْفَى: حمل گروانا _____ الْبِنَاءَ: عمارت کو بست بلند کرنا۔

طَارَحَهُ مَطَارَحَةً: الْكَلَامَ: او الشَّعْرَ او الْعِنَاءَ: جھنگڑیا شعرا یا گانے میں مقابلہ کرنا۔

إِطْرَحَهُ: پھینک دینا۔ دُور کر دینا۔

تَطَارَحَ: الْقَوْمُ الْكَلَامَ: او الْعِنَاءَ: ایک کا دوسرے سے کلام یا گانے میں مقابلہ کرنا۔

الطَّرْحُ: ڈالنا ہوا۔ پھینکا ہوا۔ حمل ناتمام۔

الطَّرْحُ وَالطَّرُوحُ وَالطَّرَاحُ: مکان بعید۔
الطَّرُوحُ: کسی شاخوں والا درخت خرما ج طَّرُوحٌ۔

الطَّرْحَةُ: چادر ہزرنگ کی اور عوام کے نزدیک بمعنی اور زہنی۔

الطَّرِيحُ: ڈالنا ہوا۔ پھینکا ہوا ج طَّرِيحِي۔

الطَّرْحُ: ڈالنا ہوا۔ پھینکا ہوا۔
الْأَطْرُوحَةُ: سوال جو تم کسی کے سامنے پیش کرو۔

المَطْرُوحُ: ڈالنے کی جگہ۔ بچھانے کی جگہ۔ ج مَطْرَاحُ: کما جاتا ہے "مَا طَرَحَكَ هَذَا

المَطْرُوحُ" یعنی تھیس اس میں کس نے ڈال دیا۔
طَرَفٌ وَمَطْرَحٌ: دُور تین نگاہ۔ زَمَحٌ مِطْرَحٌ لِمَا نِيْزِهِ۔

المِطْرَاحُ مَعَهُ قَوْلٌ مَطْرَحٌ: وہ قول جس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔

الطَّرْحَانُ وَالطَّرْحَانُ: رئیس۔ ج طَرْحَانَةٌ۔

الطَّرْحُونُ: ایک قسم کی نباتات ہے جس کا ریشہ عاقراً قرار ہے۔

الطَّرِيحُ: ایک قسم کی چھوٹی پھول۔

الطَّرِيحُ: اللَّيْلُ: تاریک ہونا _____ الزَّوْجِلُ: نگاہ کمزور ہونا۔

طَرَدَهُ (ن) طَرَدَا: طَرَدَا: دُور کرنا۔ علمیدہ کرنا۔ دھکانا _____ هِ مِنْ بِلَادِهِ: جلا وطن کرنا۔ طَرَدَ الْإِبِلَ: ادھر ادھر سے جمع کر کے ہانکنا۔

طَرَدَ (س) طَرَدَا: شکار کا پھینکا کرنا۔

طَرَدَ السَّوْطَ: أَثْمَانًا: طَرَدَهُ عَنِ الْبَلَدِ: جلا وطن کرنا۔

طَارَدَ طَرَادًا وَ مُطَارَدَةً: الْآقْرَانُ: ایک کا دوسرے کے اوپر حملہ کرنا۔ کما جاتا ہے "هُمُ فُؤْسَانُ الطَّرَادِ" وہ لوگ بدافعت کے شمسوار ہیں۔

أَطْرَدَهُ: جلا وطن کرنے کا حکم دینا۔ جلا وطن کرنا۔

تَطَارَدَ: الْقَوْمُ: بعض کا بعض پر حملہ کرنا۔

إِنْطَرَدَ: جلا وطن ہونا۔

إِطْرَدَ: دُور ہونا _____ الْأَمْرُ: ایک دوسرے کے پیچھے ہونا اور درست ہونا _____ الْإِنْهَازُ:

جاری ہونا _____ الْقَوْمُ إِلَى الْمَسِيرِ: پے در پے چلنا۔

إِسْتَنْطَرَدَهُ: فریب دینے کیلئے ٹکست کو ظاہر کرنا۔ کلام کو اس طرح بیان کرنا کہ اس سے دوسرا کلام لازم آجائے۔ إِسْتَنْطَرَدَ إِلَيْهِ الْأَمْرُ: پہنچنا۔

الطَّرْدُ: بھجور کے پودے۔ ج طَّرْدٌ۔

الطَّرْدُ: پانی۔ جس میں جانور گھستے ہوں۔
الطَّرَادُ: طَارَدَ كَمَا بَلَغَهُ: تیز رفتار جنگی جہاز۔

كشادہ مکان۔ لبادن۔

الطَّرِيدُ: دھکانا ہوا۔ بھاگنے والا جو تمہارے بعد پیدا ہوا اور تم بھی اپنے بعد پیدا ہونے والے کا طرید۔ کلام گے _____ مِنْ الْإِيَّامِ لِبَادِنِ:

الطَّرِيدَانُ: رات دن۔
الطَّرِيدَةُ: بھگایا ہوا شکار۔ ریشم وغیرہ کا مستطیل ٹکڑا۔ چرایا ہوا اونٹ۔ تور وغیرہ کے صاف کرنے کے لیے بھیجا ہوا جھیرا۔ ج طَرِيدٌ۔

الطَّرَادُ: کما جاتا ہے "فَلَانٌ يَمْشِي مَشْيًا طَرَادًا" یعنی فلاں سیدھی چال چلتا ہے۔ چھوٹا نیزہ۔

المِطْرَدُ: چھوٹا نیزہ۔ ج مِطْرَادٌ۔

يَوْمٌ مَطْرَدٌ: لبادن۔

حُكْمٌ مَطْرَدٌ: عام حکم اور اسی سے ہے "قَاعِدَةُ مَطْرَدَةٌ"

المِطْرَدَةُ وَالْمِطْرَدَةُ: وسط راستہ۔ شاہراہ

المِطْرَدَةُ: دھکانے کا سبب۔

طَرَزَ (س) طَرَزْنَا: بدخلق کے بعد اچھا اخلاق ہونا _____ فِي الْمَلْبَسِ: لباسِ فاخرہ استعمال کرنا۔

طَرَزَهُ (ن) طَرَزْنَا: گھونسا مارنے کا ہونا۔

طَرَزَ: النَّوْبُ: بتل بولنے کا ہونا۔

تَطَرَزَ: النَّوْبُ: بتل بولنے والا ہونا۔ فَن لَبِسَهُ: لباسِ فاخرہ پہننا۔

الطَّرِيزُ: بیت۔ طریقہ۔ ترتیب۔

الطَّرِيزُ: کپڑے کا نقش و نگار۔ مقام جہاں کپڑے الجھے جئے جائیں۔ طریقہ۔ کما جاتا ہے

الطَّرْمَةُ - بجر۔
 الطَّرْمَةُ وَالطَّرْمَةُ وَالطَّرْمَةُ - اوپر کے ہونٹ کا کڑھا۔
 الطَّرْمَةُ - دائروں کی زردی۔ دائروں کے درمیان کا بقیہ کھانا۔ منہ کے اوپر خشک تھوک۔
 الطَّرْمِيمُ - غصہ۔
 الطَّرْمُوتُ - بھول کی کچی ہوئی روٹی۔
 طَّرْمُوحُ - البناء - لمبی بنا۔
 الطَّرْمَاحُ وَالطَّرْمَاحُ وَالطَّرْمُوحُ - لمبا۔
 الطَّرْمَاحُ - مشہور۔ عالی نسب۔ خوش میں۔
 طَّرْمَذٌ - بیکار ڈیک مارنا۔ جھوٹا نخر کرنا۔ صفت طَّرْمَاذُو طَّرْمَازَانُ۔
 طَّرْمَسٌ - گھبراہٹ سے خاموش رہنا۔ کمروہ جانا۔ بھگانا۔ _____ الْوَجْهَ : ترش رو ہونا
 _____ الْكَاتِبِ الْكِتَابَةَ : مٹانا ()
 وَالطَّرْمَسُ اللَّيْلُ : تاریک ہونا۔
 الطَّرْمَسُ وَالطَّرْمَسُ وَالطَّرْمَسَاءُ - سخت تاریکی۔
 الطَّرْمُوسُ وَالطَّرْمُوسَةُ - بھول کی کچی ہوئی روٹی۔
 الطَّرْمُوقُ - جگاڑ۔
 طَّرْمُوقٌ وَطَّرْمُوقٌ وَطَّرْمُوقٌ طَّرْمُوقٌ وَطَّرْمُوقٌ
 وَطَّرْمُوقٌ وَطَّرْمُوقٌ - الغَضَنُ أَوْ النَّحْمُ : شنی یا گوشت کا تازہ زرم ہونا۔ صفت طَّرْمُوقٌ۔
 طَّرْمُوقٌ وَطَّرْمُوقٌ وَطَّرْمُوقٌ وَطَّرْمُوقٌ : دوسرے آتا۔
 طَّرْمُوقٌ - الشَّقِيُّ : ترو تازہ کرنا _____ الطَّيْبُ : خوشبوؤں کو مخلوط کرنا _____ الطَّعَامُ : کھانے میں سالہ ملانا۔
 أَطَّرْمُوقٌ أَطَّرْمُوقٌ فَلَانَا : تعریف میں مبالغہ کرنا۔
 أَطَّرْمُوقٌ - حمد ہونا اور بیٹھ پھولنا۔
 الطَّرْمُوقُ - جو کچھ زمین میں غیر جنس زمین سے ہو۔
 لِاتِّعَادِ أَوْ حُلُوقِ -
 الطَّرْمُوقُ - نرم تازہ۔
 الإِطَّرْمُوقَةُ - سویاں۔
 الأَطَّرْمُوقَانِ مِنَ الشَّبَابِ : ابتدائے شباب۔
 عَنقُورَانِ شَبَابِ -
 طَّرْمُوقٌ (س) طَّرْمُوقٌ - التَّيْبَةُ : متوجہ ہونا۔
 طَّرْمُوقَةٌ (ن) طَّرْمُوقٌ - گھونسا مار کے ہٹانا۔

پائی جمع ہونے کے مواضع۔ اونٹوں کے پیر کے نشانات۔ أَطَّرْمُوقِي النَّظْمِ : بیت کی سلوٹ۔
 الطَّرْمُوقَةُ - طَّرْمُوقٌ كَالاسْمِ نَوْعٌ - طَّرْمُوقٌ - طَّرْمُوقٌ - طَّرْمُوقَةُ - راستہ۔ طَّرْمُوقَةُ - عادت۔ لالچ۔ بدہمت پھر ج طَّرْمُوقٌ۔
 الطَّرْمُوقُ - جوتے کا چمڑا۔ لوبا کہ جس کو چوڑا کر کے ڈھال وغیرہ پر منڈھیں۔ جوتے کے چمڑے کا ٹکڑا جس سے جوتا کا ٹھیس۔ ج طَّرْمُوقٌ۔
 الطَّرْمُوقِي - راستہ (مذکر مؤنث) ج طَّرْمُوقٌ أَطَّرْمُوقٌ وَأَطَّرْمُوقَةٌ وَأَطَّرْمُوقَةٌ - حالت۔ مذہب۔ دھاری۔ طَّرْمُوقَةُ - عادت۔ حالت۔ مذہب۔ دھاری۔ کپڑے کا مستطیل ٹکڑا۔ لمبا کھجور کا درخت۔ نیچے کا ستون۔ ساتباں کا ستون۔ قوم کا شریف اور افضل۔ واحد اور جمع دونوں میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے "هُوَ طَّرْمُوقَةٌ قَوْمُهُ وَهُمْ طَّرْمُوقَةٌ قَوْمِهِمْ" یا وَهُمْ طَّرْمُوقَانِ قَوْمِهِمْ ج طَّرْمُوقَانِ - ثبوت طَّرْمُوقَانِ پر آتا ہے طَّرْمُوقَانِ الدَّهْرُ : حوادثِ دہر۔
 الطَّرْمُوقُ - فا۔ رات کو آنے والا۔ ج طَّرْمُوقٌ وَ أَطَّرْمُوقٌ - صبح کا ستارہ۔
 الطَّرْمُوقَةُ - طَارِقٌ كَالْمَوْثِ - مصیبت۔ قبیلہ مرد۔ چھوٹا تخت۔ ج طَّرْمُوقٌ وَ طَارِقَاتُ -
 الطَّرْمُوقِي - مؤنث طَّرْمُوقَةُ - المَطَّرْمُوقُ - ج مَطَّرْمُوقِي - بہت سر جھکانے والا۔
 المَطَّرْمُوقُ وَ المَطَّرْمُوقَةُ - روٹی، اون ڈھننے کا ڈنڈا۔ ج مَطَّرْمُوقَانِ مَطَّرْمُوقِي -
 المَطَّرْمُوقُ - طعم۔ وہ شخص جس میں نرمی اور ڈھیلا پن ہو۔ وہ شخص جس میں جنون اور یوقنی ہو۔ ماءً مَطَّرْمُوقٌ : وہ پانی جس میں اونٹ بیگنی و پیشاب کریں۔
 المَطَّرْمُوقُ - نظیر ج مَطَّرْمُوقِي - المَطَّرْمُوقِي : پیدل چلنے والے لوگ۔ اونٹوں کی قطار۔
 طَّرْمُوقٌ (س) طَّرْمُوقَانِ - بَيْتُ النَّحْلِ : شہد سے بھرنا۔
 طَّرْمُوقَانِ الْعَسَلُ : چھتے سے شہد بہنا۔
 أَطَّرْمُوقٌ - آستانہ۔ دائروں پر میل جانا۔ أَطَّرْمُوقٌ فَوْزٌ - شہد کا بزمہ یا بدو دار ہونا۔
 طَّرْمُوقٌ لِيْنِ الْكَلَامِ : کلام کرنے میں رک جانا۔
 الطَّرْمُوقُ وَ الطَّرْمُوقُ وَ الطَّرْمُوقُ - شہد۔ الطَّرْمُوقُ - بدہمت بادل۔ زَجَلٌ طَّرْمُوقٌ - مردورازند۔

طَّرْمُوقٌ (س) طَّرْمُوقَانِ - گدلا پائی پینا۔ طَّرْمُوقَانِ الْبَيْعِيُّ : اونٹ کے گھٹنے میں کمزوری یا اس کی پٹلی میں کچی ہونا۔ صفت أَطَّرْمُوقٌ - مؤنث طَّرْمُوقَانِ ج طَّرْمُوقٌ۔
 طَّرْمُوقَةٌ لَهٗ : راستہ بنانا۔ _____ الْمَوْضِعَ : راستہ اختیار کر لینا۔ کہا جاتا ہے "لَا تَطَّرْمُوقُوا الْمَسَاجِدَ" یعنی مسجدوں کو راستہ مت بناؤ۔ "طَّرْمُوقٌ طَّرْمُوقَةٌ حَسَنَةٌ" اچھا طریقہ گھر لینا۔
 _____ الْخَدِيدَ : لوہے کو کوٹنا اور پھیلانا۔
 طَّرْمُوقَتِ الْحَامِلِ يَوْلِدُهَا : بچے کو مشکل سے جانا۔ الْقَطَاةُ : اٹلے دینے کا وقت قریب ہونا۔
 کہا جاتا ہے "طَّرْمُوقٌ بِحَقِي" یعنی میرے حق کا انکار کیا پھر اقرار کر لیا۔
 طَّرْمُوقٌ - بَيْنَ النَّوْمَيْنِ : اوپر نیچے پینا۔ الطَّلَامُ أَوْ الْعَمَامُ : تاریکی یا بادل کا پاپے آنا۔
 أَطَّرْمُوقٌ - خاموش ہونا۔ نگاہ جھکا کر زمین کی طرف دیکھنا۔ کہا جاتا ہے "أَطَّرْمُوقٌ زَانِسَةٌ" یعنی سر جھکایا۔ _____ إِلَى اللَّهْوِ : مائل ہونا۔
 الضَّيْدُ : جال لگانا أَطَّرْمُوقَتِ الْإِبِلِ : ایک دوسرے کے پیچھے چلنا۔ الزَّجَلُ : پیدل چلنا۔ نکاح کرنا۔
 تَطَّرْمُوقٌ - إِلَيْهِ : چلنا یہاں تک کہ پہنچنا۔ إِلَى الْأَمْرِ : راستہ تلاش کرنا۔
 أَطَّرْمُوقَتِ الْإِبِلِ : بعض کا بعض کے پیچھے چلنا۔ متفرق ہونا اور سیدھے راستہ کو چھوڑ دینا۔ أَطَّرْمُوقٌ جَنَاحُ الطَّيْرِ : پرندے کے بازوؤں کا ایک پر ایک جہر جانا۔ الشَّرَابُ : شنی کا بدہمت ہونا۔
 تَطَّرْمُوقُ الشَّقِيُّ : بے درپے ہونا۔ تَطَّرْمُوقَتِ الْإِبِلِ : بعض کا بعض کے پیچھے ہونا۔
 اسْتَطَّرْمُوقُ - الشَّقِيُّ : راستہ بنانا۔ _____ بَيْنَ الصُّفُوفِ : صفوں کے درمیان چلنا۔ _____ هٗ : سکری پھینکنے کو کہنا۔
 الطَّرْمُوقُ وَ الطَّرْمُوقُ وَ الطَّرْمُوقَةُ - مرتبہ۔ وعدہ کہا جاتا ہے "أَتَيْتَهُ طَّرْمُوقِينَ" یعنی میں اس کے پاس دو مرتبہ آیا۔
 الطَّرْمُوقُ وَ الطَّرْمُوقُ - چھندا۔ جال ج أَطَّرْمُوقٌ - الطَّرْمُوقَةُ - چھندا۔ جال۔ ج طَّرْمُوقٌ - الطَّرْمُوقُ - مٹک کی سلوٹ۔ ج أَطَّرْمُوقٌ۔

طسۃ (ن) طسۃ۔ غالب آنا اور خاموش کرنا
 ۱۔ فی الماء: غوطرنا۔ طس القوم: بصر
 میں دور تک چلا جانا۔ کہا جاتا ہے ”ما أذرى أذن
 طس“ میں نہیں جانتا کہاں گیا۔
 طسس۔ جانا۔ فی البلاد: سفر کرنا۔
 الطس۔ ہاتھ دھونے کیلئے تانبے کا برتن۔
 سخی۔ ج اطمس وطمس وطمس وطمس۔
 الطسۃ و الطسۃ۔ ہاتھ دھونے کیلئے تانبے کا
 برتن۔ سخی۔ ج طسات و طسات و طسات
 و طسات۔
 الطسۃ۔ برتن مذکور کو بنانے والا۔ یا بیچنے
 والا۔
 الطساسة۔ برتن مذکور بنانے کا پیشہ۔
 طسناً (ف) طسناً و طسناً (س) طسناً تخم
 ہوتا۔ صفت طسائی طسینی۔ طسائینہ: شرم
 کرتا۔
 اطمسۃ۔ بد بھسی کرتا۔
 الطسۃ۔ تخم۔ بیضہ۔
 الطسۃ۔ ہاتھ دھونے کا تانبے کا برتن ج
 طسوت۔
 طسغ (ف) طسغاً فی البلاد۔ جانا۔
 طسغ (س) طسغاً۔ بے غیرت اور مفلس
 ہونا۔ صفت طسغ و طسغ۔
 طسغ (ن) طسغاً۔ الشی: مٹانا۔
 طسغ (ش) طسغوماً۔ مٹا۔
 طسغ (س) طسغاً۔ بیضہ ہونا۔ تخم ہونا۔
 الطسغ۔ تاریکی۔ تیرگی۔ گرد آلودگی۔
 طسغ او اطمساً من سحاب: تھوڑے
 سے بادل۔
 الطسغام و الطسغام و الطسغام۔ من الغبار:
 بہت زیادہ غبار۔
 طسنت (ن) طسنتاً و اطمسنت السماء:
 چھو بار بار سنا۔
 طسنت۔ الزجل: زکام جیسی بیماری لاحق ہونا۔
 الطساش و الطسۃ۔ زکام جیسی ایک بیماری کا
 نام۔
 الطساش۔ کمزوری نگاہ۔
 الطسۃ۔ چھوٹا بیڑہ۔

طعم (ش) طعماً و طعماً۔ الشی: چکھنا
 ۱۔ علیہ: قادر ہونا۔
 طعم (س) طعماً و طعماً الطعم: کھانا
 ۱۔ طعماً الغضن: ایک درخت کی نشی کا
 دوسرے درخت کی نشی میں ٹکس جانا۔
 طعم (ف) طعماً آسودہ ہونا۔ کہا جاتا ہے ”ما
 یطعم اکل هذا“ یعنی اس کا کھانے والا آسودہ
 نہیں ہوتا۔
 طعم الغضن: نشی کو دوسرے درخت کی نشی
 سے بیوند لگانا اور عرف اطباء و عوام میں بیکہ لگانے
 کے معنی میں مستعمل ہے۔ ”طعم العظم“
 گوڈے دار ہونا۔
 اطمع۔ الغضن: بیوند لگانا۔ ۱۔ کھانا
 کھانا۔ خوراک دینا۔ الشجور: پھل دینا
 پھل پکنا۔ الشی: مزے دار ہونا یا مزے کا
 بدل جانا۔
 طاعم و تطاعم۔ الحمام: مادہ کی چوچ میں
 چوچ ڈالنا۔ طاعمۃ: ساتھ کھانا۔
 تطعم۔ الشی: چکھنا۔
 اطمع۔ مزیدار ہونا۔ اطمعت الشجرة: پھل
 کا پکنا اور عمدہ ہونا۔ عرب بولتے ہیں ”هُوَ لَا
 یطعم“ یعنی نہ تو وہ ادب دیکھتا ہے اور نہ ایسی چیز
 حاصل کرتا ہے جو اسے درست کر دے۔
 استظعم۔ مزہ پانا۔ ۱۔ کھانا لگانا۔
 الطعم: مزہ معلوم کرنے کے لیے چکھنا۔ کہا جاتا
 ہے ”استظعمہ الحدیث“ یعنی اس نے بات
 کہنے کے لیے کہا۔
 الطعم۔ مزہ ج طعموم۔ کھانے کی خواہش۔ کہا
 جاتا ہے ”زجل ذو طعم“ یعنی صاحب عقل و
 تجربہ ہے۔
 الطعم۔ کھانا۔ قدرت۔ کہا جاتا ہے ”هذا اطعمام
 طعم“ یعنی ایک شخص کو سیر کرنے والا ہے۔ دانے
 جو شکار کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔
 الطعمۃ۔ کھانے کا طریقہ۔ کب و کمانی کا ذریعہ۔
 الطعمۃ۔ خوراک۔ کھانے کی دعوت۔ رزق۔
 کب و کمانی کا ذریعہ۔ کہا جاتا ہے ”جعلت
 ضیعتی طعمۃ لفلان“ یعنی میں نے فلاں کو اپنی
 جائیداد و زراعت کے لیے عاریت پر دے دی ج

طعم۔
 الطعم۔ خوراک ج اطمعۃ ج اطمعات۔
 گیوں۔
 الطعم و الطاعم۔ خوش خوراک۔ کہا جاتا ہے
 ”انا طاعم عن طعامکم“ یعنی میں تمہارے
 کھانے سے مستحق ہوں۔
 جزو طعموم و طعمین۔ ذبح کرنے کے اذنت
 نہ ڈبے نہ موئے۔ الطعمۃ: بکری جو کھانے
 کیلئے روک لی گئی ہو۔
 الطعمی۔ کھانا بیچنے والا۔
 المنظعم۔ کھانے کی جگہ۔ خوراک۔ ج
 مظاعم۔
 المنظعم۔ زیادہ کھانے والا۔
 المنظعم۔ ممان نواز۔
 المنظعم۔ مفر۔ رزق دیا ہوا۔
 المنظعموم۔ مفر۔ خوراک۔ جو چکھا جائے۔
 بیوند۔ بیکہ۔
 طعنتہ (ف) ن طعنتا۔ نیزہ مارنا اور چھوٹا
 ۱۔ فی المفازة: جانا۔ ۱۔ فی المسین:
 بوڑھا ہونا۔ الفرس فی العنان: لگام کھینچ
 کر تیز چلانا۔ طعنا و طعنتا: فی الرجل و
 علیہ: سب لگانا۔ طعنتہ: مارنا۔ اللیل:
 ساری رات چلنا۔
 طعن الرجل: طاعون زدہ ہونا۔
 تطاعن القوم تطاعنوا و طعنوا۔
 ایک دوسرے کو نیزہ مارنا۔
 الطعنة۔ نیزے کی ضرب۔ نیزے کی ضرب کا
 نشان۔ ج طعن و طعنات۔
 الطاعون۔ پلک۔ وبا کی موت۔ ج طوعا عین۔
 الطعان و المظعن و المظعان۔ بہت نیزہ
 مارنے والا ج مظاعین و مظاعین اور اسی سے
 ہے ”هُوَ طعانٌ فی أعراض الناس“ یعنی وہ
 لوگوں کی آبرو پر بہت زیادہ طعن کرنے والا ہے۔
 الطعین۔ نیزہ زدہ۔ پلک زدہ۔ ج طعن۔
 الطعین۔ جگ میں نیزہ مارنے میں ماہر۔
 المظنة۔ نیزہ بازی۔
 طعنة (ف) طعنا۔ دفع کرنا۔ مٹانا۔
 الطعراء و الطعری۔ شاہی فرامین اور سکون

ہوتا۔

ظَفَلٌ (ن) ظَفُوْلًا: رات کے وقت داخل ہوتا۔ ظَفَلَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے قریب ہونا۔

ظَفِلٌ (س) ظَفَلًا وَظَفِلَ النَّبَاتُ: نباتات کا مٹی لگ جانے سے طویل نہ ہونا۔

ظَفَلٌ اللَّيْلُ: قریب ہونا۔ ظَفَلَتِ الشَّمْسُ آفتاب کا ڈوبنے کے قریب ہونا۔ الظَّفَلُ: طفلی ہونا۔ الْكَلَامُ: غور کرنا۔

ظَفْلَةٌ: نرمی برتا اور یہ ظَفَلٌ الزَّاعِمِ الْإِبِلِ سے ماخوذ ہے جبکہ درواہا چلنے میں اُونٹوں سے نرمی کرے تاکہ اُونٹ کے پیچھے بھی ساتھ ہو جائیں۔

أَظْفَلَ: رات کے وقت داخل ہونا۔ إِظْفَلَتِ الشَّمْسُ: آفتاب کا غروب کے وقت سرخ ہونا۔ الْأَنْفَى: پچھ والی ہونا۔ أَظْفَلَ الْكَلَامَ: سوچنا۔

تَظَفَّلَ: بچوں کی سی عادت اختیار کرنا۔ طفیلی ہوتا۔

الظَّفَلُ: نرم و نازک۔ ح طفلان و ظفول مؤنث ظفلة۔

الظَّفَلُ: ہر چیز کا چھوٹا۔ کہا جاتا ہے "هُوَ يَسْفِي لِي فِي الْأَطْفَالِ الْحَاجَاتِ" یعنی وہ میری چھوٹی چھوٹی حاجتوں میں کوشش کرتا ہے۔ ہر وحشی جانور کا بچہ۔ مؤنث طفلة۔ کہا جاتا ہے جَارِيَةٌ ظَفْلٌ وَظَفْلَةٌ اور ظَفْلٌ واحد وجمع دونوں کیلئے مستعمل ہے اسلئے کہ اسم جنس ہے۔ الظَّفَلُ: حاجت رات۔ آفتاب جو قریب غروب ہو۔

چنگاری۔ کہا جاتا ہے "تَظْفِيْرَاتُ أَظْفَالِ النَّارِ" یعنی چنگاری اڑی۔ رِيْحٌ ظَفْلٌ: نرم نرم چلنے والی ہوا۔ ح اظفان۔

الظَّفَلُ: بچپن کی حالت۔ تاریکی۔ ظَفْلٌ الْعِدَاةُ: طلوع آفتاب کے کچھ بعد۔ ظَفْلٌ الْعَشِيِّ: غروب آفتاب سے کچھ قبل۔

الظَّفَالُ وَالظَّفَالُ: خشک گارا۔ الظَّفُوْلِيَّةُ وَالظَّفَالَةُ وَالظَّفُوْلَةُ: بچپنا۔ الظَّفِيلُ: گدلاہانی جو حوض میں باقی رہ جائے۔

الظَّفِيلِيَّةُ: بے بلائے دعوت میں شریک ہونے والا اور یہ ایک مخصوص جس کا نام ظفیل تھا اس کی طرف منسوب ہے۔

الْمُظْفِلُ: پچھ والی (انسان ہو یا جانور) ح مظافل و مظافیل۔ کہا جاتا ہے "أَيْتَةُ مُظْفِلٍ" بچوں کو ہلاک کرنے والی ٹھنڈی رات۔

ظَفَنَ (ن) ظَفَنًا: مرنا۔ ہ: قید کرنا۔ إِظْفَانٌ: الْمَكَانُ: قابل اطمینان ہونا۔ الزَّجَلُ: اچھی عادت والا ہونا۔

الظَّفَانِيْنَ: جموت۔ لغو بیوہ ممتنگو۔ قید۔ ظَفَا يَظْفُو ظَفْوًا وَظَفْوًا: پانی پر آجانا اور نہ نشین نہ ہونا اور اسی سے ہے "السَّمَكُ الظَّفَائِي" جو چھلی کہ پانی میں مرجائے اور اوپر آجائے۔ الظَّنِي: ہرن کا تیز دوڑنا۔

فَوْقَ الْقَوَسِ: کود کر گھوڑے پر بیٹھنا۔ فِي الْأَرْضِ: داخل ہونا۔ فَلَانٌ: مرنا۔ الظَّفَاوَةُ: ہانڑی کا جھگکا۔ کہا جاتا ہے "أَصْبَنَا ظَفَاوَةً مِنَ الرِّيْعِ" یعنی کچھ تھوڑا سا حصہ ملا۔

آفتاب یا ماہتاب کا ہل۔ الظَّفْوَةُ: باریک گھاس۔ الظَّفِيَّةُ: خمیٹ قسم کا ایک سانپ۔ ح ظففي۔ ظَفِيٌّ: چمپر چمپر پرنے کی آواز کی نقل۔

الظَّفَسُ: طریقہ۔ طریقہ۔ دینیہ پر عموماً استعمال ہوتا ہے۔ ح ظَفُوْسٌ اور عوام کے نزدیک بمعنی حالت جو اور تغیرات جو اس میں لائق ہوں۔ ظَفَقْتُ ظَفْقَةً: الدَّوَابُّ: جانوروں کے پاؤں سے آواز لگانا۔

ظَلٌّ (ن) ظَلًّا: الْغَرِيْمُ: ٹالنا۔ وَحَقَّةٌ كَمِ كَرْنَا يَابِلٌ كَرْنَا: ظَلَّتِ السَّمَاءُ الْأَرْضَ: زمین پر ہلکی بارش ہونا۔ وَهَالِدُهُنَّ: جمل لانا۔ ظَلٌّ الْإِبِلِ: اُونٹ کو تیز ہانکنا۔

ظَلٌّ (س) وَظَلَّ ظَلًّا وَأَطْلَ الدَّمُ: بغیر قصاص کے چھوڑ دینا۔ صفت ظَلِيْنٌ وَظَلُوْنٌ وَظَلٌّ: أَطْلَ الدَّمُ: بغیر قصاص کے چھوڑ دینا الزَّمَانُ: قریب ہونا۔ عَالِيَةً: جھانکنا۔ عَلِيٌّ حَقِيْقٌ: غالب آنا۔ کہا جاتا ہے "أَطْلَ عَلِيٌّ فَلَانَ بِالْأَدَى" یعنی ہمیشہ تکلیف پہنچائی۔

ظَلَّانٌ: گردن اٹھا کر دُور کی چیز دیکھنا اور کہا جاتا ہے "تَظَالَّتْ لَهْ" میں نے اس کو دیکھنے کے لیے

گردن اٹھائی۔ اسْتَضَلَّ: عَلَيْنَا: جھانکنا۔ الْقَوَسُ ذَنْبِيَّةٌ وَبَدَنِيَّةٌ: گھوڑے کا دم اٹھانا۔ الظَّلُّ: ہلکی بارش۔ نَحْيٌ حِطْلًا وَظِلُّ حَوْشٍ: نماول پسند۔ بڑی عمر والا۔ سَابِ (الظَّلُّ) دودھ و بقول بعض خون۔ اُونٹنی کے دودھ کی قلت۔

الظَّلُّ: سائب۔ الظَّلَّةُ: خوش نماول پسند۔ لَذِيْعٌ وَخَشِيْبٌ: لَذِيْعٌ شَرَابٌ: پیوی۔ ہلکی بارش کا ترکیباً ہوا باغ۔ کھانے پینے کی وسعت۔ بڑھیا عورت۔ بَدْرِيَانٌ: الظَّلَّةُ: ایک مرتبہ۔ دودھ پینے کی مقدار گردن ح ظلل۔

الظَّلَاءُ: بے بدلہ خون۔ الظَّلَلُ: بلند جگہ۔ ویران مکانات کے نشانات۔ ہر چیز کا جسم اور اسی سے ہے "أَعْبَسْنِي ظِلَّةٌ وَرَاقَتِي هَيْكَلَةٌ" یعنی اس کا جسم اور ذیل ڈول مجھے پسند آیا ح أَظْلًا وَظَلُوْنٌ: ظَلٌّ السَّفِيْنَةُ: کشتی کا پردہ۔ ظَلَّلَ النَّسَاءُ: پانی کی سطح الظَّلُّ مِنَ الدَّارِ: چھوڑنا۔

الظَّلَالَةُ: ہر چیز کا جسم۔ اچھی بیعت۔ اچھی حالت۔ ترو تازگی۔ شادمانی۔ ویران مکان کے نشانات۔

الظَّلِيلُ: پرانی چٹائی۔ ح ظِلَّةٌ وَاطْلَقُوا ظِلُّنَ: النَّظْلُ: بلند مکان جس سے جھانکا جائے۔ الْمَظْلُوْلُ: مہم۔ مِنَ الْأَعْمَالِ: جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔ الْمُظْطَلُّ: کمز۔ ظَلَّتْ (ن) ظَلْبًا: الشَّيْءُ: ڈھونڈنا۔ اَلْيَبِيَّةُ: راغب ہونا۔ ظَلَّتْ (س) ظَلْبًا: دُور ہونا۔ تَظَلَّبَ وَاطْلَبَ: الشَّيْءُ: تکلف کے ساتھ اور بار بار ڈھونڈنا۔ ظَلَّبَ: الشَّيْءُ: مہلت سے ڈھونڈنا۔ ظَالِبُهُ ظَلَابًا وَمُظَالِبُهُ: اِنَابَتُهَا: ظَلْبُهُ: کھانے کے لیے مجبور کرنا۔ طلب کردہ چیز کو مانا۔ کہا جاتا ہے "أَطْلَبَةُ الْفَقْرُ" یعنی فقر نے مانگنے پر مجبور کر دیا۔ أَظْلَبَ النَّسَاءُ: دُور ہونا کہ

گردن اٹھائی۔ اسْتَضَلَّ: عَلَيْنَا: جھانکنا۔ الْقَوَسُ ذَنْبِيَّةٌ وَبَدَنِيَّةٌ: گھوڑے کا دم اٹھانا۔ الظَّلُّ: ہلکی بارش۔ نَحْيٌ حِطْلًا وَظِلُّ حَوْشٍ: نماول پسند۔ بڑی عمر والا۔ سَابِ (الظَّلُّ) دودھ و بقول بعض خون۔ اُونٹنی کے دودھ کی قلت۔

الظَّلُّ: سائب۔ الظَّلَّةُ: خوش نماول پسند۔ لَذِيْعٌ وَخَشِيْبٌ: لَذِيْعٌ شَرَابٌ: پیوی۔ ہلکی بارش کا ترکیباً ہوا باغ۔ کھانے پینے کی وسعت۔ بڑھیا عورت۔ بَدْرِيَانٌ: الظَّلَّةُ: ایک مرتبہ۔ دودھ پینے کی مقدار گردن ح ظلل۔

الظَّلَاءُ: بے بدلہ خون۔ الظَّلَلُ: بلند جگہ۔ ویران مکانات کے نشانات۔ ہر چیز کا جسم اور اسی سے ہے "أَعْبَسْنِي ظِلَّةٌ وَرَاقَتِي هَيْكَلَةٌ" یعنی اس کا جسم اور ذیل ڈول مجھے پسند آیا ح أَظْلًا وَظَلُوْنٌ: ظَلٌّ السَّفِيْنَةُ: کشتی کا پردہ۔ ظَلَّلَ النَّسَاءُ: پانی کی سطح الظَّلُّ مِنَ الدَّارِ: چھوڑنا۔

الظَّلَالَةُ: ہر چیز کا جسم۔ اچھی بیعت۔ اچھی حالت۔ ترو تازگی۔ شادمانی۔ ویران مکان کے نشانات۔

الظَّلِيلُ: پرانی چٹائی۔ ح ظِلَّةٌ وَاطْلَقُوا ظِلُّنَ: النَّظْلُ: بلند مکان جس سے جھانکا جائے۔ الْمَظْلُوْلُ: مہم۔ مِنَ الْأَعْمَالِ: جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔ الْمُظْطَلُّ: کمز۔ ظَلَّتْ (ن) ظَلْبًا: الشَّيْءُ: ڈھونڈنا۔ اَلْيَبِيَّةُ: راغب ہونا۔ ظَلَّتْ (س) ظَلْبًا: دُور ہونا۔ تَظَلَّبَ وَاطْلَبَ: الشَّيْءُ: تکلف کے ساتھ اور بار بار ڈھونڈنا۔ ظَلَّبَ: الشَّيْءُ: مہلت سے ڈھونڈنا۔ ظَالِبُهُ ظَلَابًا وَمُظَالِبُهُ: اِنَابَتُهَا: ظَلْبُهُ: کھانے کے لیے مجبور کرنا۔ طلب کردہ چیز کو مانا۔ کہا جاتا ہے "أَطْلَبَةُ الْفَقْرُ" یعنی فقر نے مانگنے پر مجبور کر دیا۔ أَظْلَبَ النَّسَاءُ: دُور ہونا کہ

گردن اٹھائی۔ اسْتَضَلَّ: عَلَيْنَا: جھانکنا۔ الْقَوَسُ ذَنْبِيَّةٌ وَبَدَنِيَّةٌ: گھوڑے کا دم اٹھانا۔ الظَّلُّ: ہلکی بارش۔ نَحْيٌ حِطْلًا وَظِلُّ حَوْشٍ: نماول پسند۔ بڑی عمر والا۔ سَابِ (الظَّلُّ) دودھ و بقول بعض خون۔ اُونٹنی کے دودھ کی قلت۔

الظَّلُّ: سائب۔ الظَّلَّةُ: خوش نماول پسند۔ لَذِيْعٌ وَخَشِيْبٌ: لَذِيْعٌ شَرَابٌ: پیوی۔ ہلکی بارش کا ترکیباً ہوا باغ۔ کھانے پینے کی وسعت۔ بڑھیا عورت۔ بَدْرِيَانٌ: الظَّلَّةُ: ایک مرتبہ۔ دودھ پینے کی مقدار گردن ح ظلل۔

الظَّلَاءُ: بے بدلہ خون۔ الظَّلَلُ: بلند جگہ۔ ویران مکانات کے نشانات۔ ہر چیز کا جسم اور اسی سے ہے "أَعْبَسْنِي ظِلَّةٌ وَرَاقَتِي هَيْكَلَةٌ" یعنی اس کا جسم اور ذیل ڈول مجھے پسند آیا ح أَظْلًا وَظَلُوْنٌ: ظَلٌّ السَّفِيْنَةُ: کشتی کا پردہ۔ ظَلَّلَ النَّسَاءُ: پانی کی سطح الظَّلُّ مِنَ الدَّارِ: چھوڑنا۔

الظَّلَالَةُ: ہر چیز کا جسم۔ اچھی بیعت۔ اچھی حالت۔ ترو تازگی۔ شادمانی۔ ویران مکان کے نشانات۔

الظَّلِيلُ: پرانی چٹائی۔ ح ظِلَّةٌ وَاطْلَقُوا ظِلُّنَ: النَّظْلُ: بلند مکان جس سے جھانکا جائے۔ الْمَظْلُوْلُ: مہم۔ مِنَ الْأَعْمَالِ: جس پر ہلکی بارش ہوئی ہو۔ الْمُظْطَلُّ: کمز۔ ظَلَّتْ (ن) ظَلْبًا: الشَّيْءُ: ڈھونڈنا۔ اَلْيَبِيَّةُ: راغب ہونا۔ ظَلَّتْ (س) ظَلْبًا: دُور ہونا۔ تَظَلَّبَ وَاطْلَبَ: الشَّيْءُ: تکلف کے ساتھ اور بار بار ڈھونڈنا۔ ظَلَّبَ: الشَّيْءُ: مہلت سے ڈھونڈنا۔ ظَالِبُهُ ظَلَابًا وَمُظَالِبُهُ: اِنَابَتُهَا: ظَلْبُهُ: کھانے کے لیے مجبور کرنا۔ طلب کردہ چیز کو مانا۔ کہا جاتا ہے "أَطْلَبَةُ الْفَقْرُ" یعنی فقر نے مانگنے پر مجبور کر دیا۔ أَظْلَبَ النَّسَاءُ: دُور ہونا کہ

گردن اٹھائی۔ اسْتَضَلَّ: عَلَيْنَا: جھانکنا۔ الْقَوَسُ ذَنْبِيَّةٌ وَبَدَنِيَّةٌ: گھوڑے کا دم اٹھانا۔ الظَّلُّ: ہلکی بارش۔ نَحْيٌ حِطْلًا وَظِلُّ حَوْشٍ: نماول پسند۔ بڑی عمر والا۔ سَابِ (الظَّلُّ) دودھ و بقول بعض خون۔ اُونٹنی کے دودھ کی قلت۔

الظَّلُّ: سائب۔ الظَّلَّةُ: خوش نماول پسند۔ لَذِيْعٌ وَخَشِيْبٌ: لَذِيْعٌ شَرَابٌ: پیوی۔ ہلکی بارش کا ترکیباً ہوا باغ۔ کھانے پینے کی وسعت۔ بڑھیا عورت۔ بَدْرِيَانٌ: الظَّلَّةُ: ایک مرتبہ۔ دودھ پینے کی مقدار گردن ح ظلل۔

بغیر وہودے نہ مل سکے۔

الطَّلْبَةُ اسم ہے مطالبہ کا۔ طلب کی نوعیت (و الطَّلْبَةُ) جو چیز طلب کی جائے۔

الطَّلِبُ جو چیز طلب کی جائے۔ طلب کرنے والا۔ ج اظْلَاب و طَلْبَةٍ۔

الطَّلْبَةُ ذور کا سفر۔

الطَّالِبُ فا۔ شاگرد۔ ج طَلَبَةٌ و خَلَّابٌ و طَلَبٌ و طَلَّبٌ۔

الطَّلُوبُ بہت زیادہ طلب کرنے والا۔ بٹنر طَلُوبٌ کنواں جس کا پانی دور ہو۔ ج طَلَّبُ الطَّلِبُ بہت زیادہ مانگنے والا۔ ج طَلْبَاءُ۔

الطَّلَابُ بہت زیادہ مانگنے والا۔ الطَّلِبِيَّةُ مومنات طَلِبِيَّاتِ ج طَلَّابِيَّاتِ۔

المَطْلَبُ طلب کرنا۔ مقصد کسی علم کا کوئی مسرت ج مَطْلَابُ۔

المَطْلَبُ فا۔ مائة مَطْلَبِيَّاتِ ذور کا پانی۔

المَطْلُوبُ مقہ۔ جو طلب کیا جائے۔ ج مَطْلَابِيَّاتِ۔

طَلَّتْ (ن) طَلُوبًا۔ الماءُ پانی بہنا۔ جاری ہونا۔

طَلَّتْ عَلَيَّ كَذَا زیادہ ہونا۔

الطَّلْفَةُ جابل۔ ضعيف العقل۔ کمزور دماغ۔

طَلَّحَ (ف) طَلَّحًا و طَلَّحًا لَتَبِيْعِيَّةٍ اُونٹ کا تھکانا۔ صفت طَلَّحٌ و طَلَّحٌ و طَلْبِيْعٌ۔

طَلَّحَ التَّبِيْعِيَّةَ و طَلَّحَهُ و اَطَّلَحَهُ تھکانا۔ طَلَّحَ عَلَيَّ فُلَانٍ اصرار کرنا۔ طَلَّحَ التَّبِيْعِيَّةَ تھکانا۔

طَلَّحَ (ن) اَطَّلَحًا فاسد ہونا۔ خراب ہونا۔

طَلَّحَ (س) طَلَّحًا و طَلَّحٌ پیت خالی ہونا۔ صفت طَلْبِيْعٌ و طَلَّحٌ و طَلَّحٌ۔ طَلَّحَتْ اِبْرٰهِيْمَ طَلَّحًا ببول کھانے سے پیت خراب ہونا۔

الطَّلْحُ شگوفہ۔ درخت خرما۔ کیلا۔ حوض کا بقیہ گدلا پانی۔ ببول کا درخت۔ واحد طَلْحَةٌ۔

الطَّلْحُ لاغر تھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے بِيْعِيَّةٌ طَلَّحٌ و نَاقَةٌ طَلَّحٌ اَطَّلَحٌ و طَلَّاحٌ۔

مَكَانٌ طَلَّحٌ جس میں ببول کے درخت زیادہ ہوں۔

الطَّلْحُ نعمت۔ کہا جاتا ہے "هُوَ فِي طَلْحٍ" وہ

خوش عیش ہے۔

الطَّلْحُ فا۔ درکار۔ ج طَلْبِيْحُوْنَ و طَلَّحٌ۔ نَاقَةٌ طَلَّحٌ و اِبْرٰهِيْمَ طَلَّحٌ تھکے ہوئے اُونٹ۔

الطَّلْحُ کبک کا درخت۔ اِبْرٰهِيْمَ طَلَّحٌ سفر کی وجہ سے تھکا ہوا اُونٹ۔

الطَّلْحُ جھجھری۔ لاغر تھکا ہوا۔ کہا جاتا ہے بِيْعِيَّةٌ طَلَّحٌ و نَاقَةٌ طَلْبِيْحَةٌ و طَلْبِيْعٌ ج طَلَّاحٌ و طَلَّحِيٌّ۔

الطَّلْحِيَّةُ کافز کا ایک ورق ج طَلَّاحِيٌّ۔

المَطْلُحُ فِي الْكَلَامِ بہتان گھڑنے والا۔

طَلَّحَ (ن) طَلَّحًا۔ الشَّقِيُّ کلا کرنا۔

الْكَيْتَابَةُ خراب کرنا۔ فُلَانًا بِالْقَدْرِ لست بہت کرونا۔

اَطَّلَحَ الذَّمُّعُ بہنا۔ بکھرنا۔

الطَّلْحُ خراب پانی۔

الطَّلْحَاءُ بِيْعِيَّةٌ جو خوف عورت۔

اَطَّلَحَهُ الرُّجُلُ تکبر کرنا۔ غرور کرنا۔

اُمُوْرٌ مُطَّلَحِيَّاتٌ سخت و دشوار امور۔

طَلَّسَ (ش) طَلَّسًا۔ التَّبَصُّرُ نگاہ کا ضائع ہونا۔

و طَلَّسَ الْكَيْتَابَةَ لکھے ہوئے کو مٹا دینا۔

طَلَّسَ (س) طَلَّسًا و طَلَّسٌ (ک) طَلَّسَةٌ۔

خاستری مائل بہ سیاہی ہونا۔ صفت اَطَّلَسَ ج طَلَّسٌ۔

طَلَّسَ بِيْعِيَّةٌ السَّجْنُ بید خانے میں ڈالا جانا۔

طَلَّسَ الْكَيْتَابُ ختم کرنا۔ (ن) و تَطَلَّسَ الرُّجُلُ طَلَّسًا استعمال کرنا۔

اِنطَلَّسَ الْاَمْرُ بوشیدہ ہونا۔

اَطَّلَسِي اَطَّلَسِيَّاتُ الْعَرَفِيُّ سارے جسم پر پسینہ بہنا۔

الطَّلَسُ کلا چادر۔

الطَّلَسُ مٹایا ہوا کافز۔ میلا کپڑا ج اَطَّلَسٌ۔

الطَّلَسَةُ خاستری مائل بہ سیاہی۔ پتلا پتلا بادل ج طَلَّسٌ۔

الطَّلَسَةُ جھجھری جس سے لکھی ہوئی تختی صاف کی جائے۔

الطَّلَسِيَّاتُ اندھا۔

الطَّلَسِيَّاتُ سبز رنگ کی چادر جس کو مشائخ و علماء

استعمال کرتے تھے اور یہ بھیوں کا لباس ہے ج طَلَّيْسٌ۔

الطَّلَيْسَانُ بمعنی طَلَيْسٌ ج طَلَّيْسٌ و طَلَّيْسَةٌ۔

الْاَطَّلَسُ بھیڑا جس کے بال گر گئے ہوں اور اس کا رنگ خاستری مائل بہ سیاہی ہو۔ پرانا کپڑا۔

میلہ۔ چور۔ ریشمی کپڑا۔

طَلَّسَمَ عَنِ الْقِتَالِ لڑائی سے پیچھے ہٹنا۔

الرُّجُلُ سر جھکانا اور منہ بگاڑنا۔

السَّاجِزُ جاوید کا مسرت لکھنا۔

الطَّلَسْمُ جاوید کی لکیریں یا تحریر ج طَلَّاسِمٌ۔

الطَّلَسْمُ بمعنی طَلَّسَمَ ج طَلَّسَمَاتٌ۔

الطَّلَشُ جھری۔

طَلَّظَلَهُ حُرکت دینا۔

الطَّلَّظِلُ و الطَّلَّظِلَةُ معصیت۔

الطَّلَّظِلَةُ معصیت۔ موت۔ طلق کا کڑوا۔

الطَّلَّظِلُ موت۔ سخت مرض۔

طَلَّحَ (ن) طَلَّوْعًا و مَطَّلَعًا و مَطَّلَعًا الكَوْكَبُ و نَخْوَةٌ ستارہ وغیرہ کا ٹکنا۔

عَلَيْهِمْ مَتَوِّجٌ ہونا۔ عَنْهُمْ قاتب ہونا اور دور ہونا۔

طَلَّحَ (ف) و طَلَّحَ (س) طَلَّوْعًا الْجَبَلُ پہاڑ پر چڑھنا۔ عَلَيَّ الْاَمْرُ جانا۔

الْبِلَادُ بلکوں کا قاعدہ کرنا۔

المَكَانُ بچھٹنا۔ مِنَ الْبِلَادِ شہروں سے ٹکنا۔ و طَلَّحَ التَّخْلُ جھونڈنا۔ طَلَّحَ الْكَيْبِلُ بیانا کو بھرننا۔

طَلَّعَهُ مَطَّلَعًا و طَّلَّعًا زیادتی غرور و فکر سے مطلع ہونا۔ الْكَيْتَابُ کتاب چڑھنا۔

ه بِالْاَمْرِ بپوش کرنا۔ کہا جاتا ہے "طَالِغِي سَمَلٌ وَ قَبْتُ بِكَيْبَلِكُ" یعنی اپنی کتابوں کو ہر وقت میرے سامنے پیش کرو۔

اَطَّلَعَ الْكَوْكَبُ ستارہ کا ٹکنا۔

النَّبَاتُ نباتات کا اٹنا۔ التَّخْلُ جھونڈنا۔

لَكُنَّا الشَّجَرُ درخت کے پتے ٹکنا۔

التَّخْلَةُ درخت خرما کا طویل ہونا۔

عَلَيَّ الشَّقِيُّ جھانکنا۔ الفَعْجُو جھجھجھنے کے طلوع ہونے کو دیکھنا۔ ه عَلَيَّ سِتْرَهُ

”علی الاطلاق او مطلقاً“ یعنی عام طریقہ سے بلا کسی اشتاء کے۔

الظلقاء۔ وہ حضرات جو فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور ان پر احسان کیا گیا۔

الطلاق والمطلاق والمطيلق۔ بہت زیادہ طلاق دینے والا۔

المطلق۔ خلاف مقید۔ من الخیل وہ گھوڑا جس کی ایک ٹانگ میں سفیدی نہ ہو۔

ظلم (ن) ظلمنا وظلم۔ الخیزة: روٹی کو ہاتھ سے ہموار کرنا۔ ظلم العرق عن جبینہ: پیشانی سے بہندہ پونچھنا۔

الظلم۔ روٹی پھیلانے کا تختہ۔

الظلم۔ دانتوں کا میل۔

الظلمة۔ روٹی جو ظلم۔ المظلمة۔ بیلن۔ عام لوگ اسے شوک کہتے ہیں۔

ظلمس۔ ترش روٹی کرنا۔ تیوری چڑھانا۔

الظلمس۔ المنا۔

الظلمس۔ الذیل: تخت تاریک ہوتا۔

الظلمساء۔ تاریکی۔ بغیر کسی علامت کے زمین۔ پتلا پتلا بدل۔

ظله (ف) ظلنا۔ الرجل فی البلاد: جانا۔

آہستہ چلنا۔

إظله إظلاها۔ مطلع ہونا۔

الظله۔ پتلا بدل۔

الظلیة۔ بقیہ مال۔

ظلاءة یظلو ظلاً۔ ٹانگ باندھنا۔

ظلاً یظلو ظلاً و الظل: دیر کرنا۔

أظلت الوحشینی: بچے وال ہونا۔

إظلولی اظلیلاً۔ اچھی گفتگو والا ہونا۔

الظلاءة والظلو۔ ہرن کا بچہ پیدا ہونے وقت۔

ہرچیز کا چھوٹا جلاؤ اور جلاؤ و ظلی و ظلیان و ظلیان و ظلیان۔

الظلو۔ بھیرنا۔

الظلو۔ جانوروں کا بچہ۔

الظلو۔ صبح کی سفیدی۔

الظلاءة والظلاءة والظلاءة۔ وہ حسن و

رواق۔ کہا جاتا ہے ”هذا كلام ما عليه

ظلاءة“ یعنی یہ ایسی گفتگو ہے جس میں کوئی خوبی

وروق نہیں۔ منہ میں کھانے کا بقیہ۔ جلاؤ۔ خون یا

دودھ پر کی تپتی جھلی۔ الظلاءة: جو کسی چیز پر طلاء

کیا جائے۔

طلی یظلی ظلیاً: ٹانگ باندھ کر رکھنا۔

التعبیر القظران او بالتمظران: اونٹ پر قطران

لانا (دیکھئے القظران) الشئی: روکنا۔

طلی (س) طلی فؤة: دانتوں میں زردی ہونا

لسانہ: زبان کا کھیل ہونا۔

طلی تطلیتہ۔ گانا۔ فلاناً: قید کرنا۔ گالی

دینا۔ البعبور القظران: اونٹ پر قطران لانا

(دیکھئے القظران) اللیل الأفاق: رات کا

آفاق کو دھانپ لینا۔

أظلی۔ کمزوری یا کسی درجہ سے گردن کا جھکانا۔

تظلی۔ کھیل کود میں منہمک رہنا۔

واظلی بالظظران: قطران سے لت پت ہونا۔

الظلی۔ فحش۔ قطران ملا ہوا۔ سخت مریض۔

ہرن کا بچہ یا ظلاء۔ خواہش۔ کہا جاتا ہے ”قضی

ظلاءة“ یعنی اپنی خواہش پوری کی۔

الظلی۔ لذت۔

الظلاء۔ قطران۔ انگور کا رس جس میں سے

پکانے کی وجہ سے دو تہائی جاتا رہے۔ اور شراب

سے بھی کٹایا گیا جاتا ہے۔ رستی جس سے ہرن کے

بچے کے پیر کو باندھیں (س) والظلاءة) ہر وہ

چیز جس کو طلا کیا جائے۔

الظلاء۔ خون کے اوپر کی باریک جھلی۔

الظلی۔ دودھ ایک مرتبہ پینے کی مقدار۔

الظلیة والظلاءة۔ گردن ج ظلی۔

الظلی۔ بکری کا چھوٹا بچہ ج ظلیان (س)

والظلیان اور دانتوں کی زردی۔

المظلی والمظلاء۔ ننگ نالرج مظال۔

المظلی۔ دائم المرض۔ کمزور مریض۔ قیدی کہ

جس کی رہائی کی امید نہ ہو۔

ظلم (ن) ظلمنا وظلمنا۔ الإناء: برتن بھرنا

الشعور: بال کا ٹانیا کرہ لگانا۔ الماء:

ڈھانپ لینا۔ الشئی: زیادہ ہونا۔

الأمر: بڑا ہونا۔

ظلم (ض) ظلمنا البئر: کنوئیں کو پات دینا۔

ظلم (ن) ظلمنا وظلمنا۔ الفرس:

گھوڑے کا آہستہ آہستہ دوڑنا۔

ظلم وظلم وظلم وظلم۔ الطائر: پرندہ کا نشی پر

آرتنا۔

أظلم واستظلم الشعور: بال کاٹنے کا وقت

قریب ہونا۔

الظلم: پانی۔ سمندر۔ عدد کثیر۔ عمدہ گھوڑا۔

تعجب۔ تعجب انگیز۔ کہا جاتا ہے ”جاء بالظلم

والزم“ یعنی بہت مال لایا۔

الظلمة من الناس: جماعت ظممة القوم قوم

کے جمع ہونے کی جگہ۔

الظلم۔ آہستہ دوڑ۔ عمدہ گھوڑا۔ ظلمیم

الناس: مختلف قسم کے لوگ۔

فوش ظلموم۔ حیر رمار گھوڑا۔

الظامة۔ بڑی مصیبت۔ قیامت۔

الأظالم۔ ٹانگیں۔

ظلمان۔ دیکھو اوادہ ”ظلمن“

ظلمت (ن) ظلمنا۔ الشئی: چھوٹا۔

ظلمت وظلمت (ن) ظلمنا۔ الموزاة:

حائض ہونا۔ صفت ظالمات۔

الظلمت مہ۔ میں کچیل۔ فساد۔ خون۔ حیض۔

تمت۔ کہا جاتا ہے ”ما یفلان ظلمت وریبة“

یعنی فلاں کے ساتھ تمہمت کا میل کچیل نہیں۔

ظلمح (ف) ظلمحا وظلمحا وظلموحا

بصرہ الیہ: نگاہ اٹھنا۔ بصرہ الیہ: بلندی کی

جانب دیکھنا۔ بانقبہ: مغرور ہونا۔ ناک

چڑھانا۔ بہ: لے جانا۔ فی

الظلب: کوشش کرنا۔

ظلمحت (ف) ظلمحا وظلموحا۔ الذابئة

جانور کا سرکش ہونا۔ الموزاة علی

زوجہا: عورت کا نافرمان ہونا۔ صفت ظالمی

ج ظلموح۔

ظلمح الفرس: گھوڑے کا اگلی ٹانگوں کو اٹھانا

بالشئی فی الهواء: بھینکانا۔

أظلمح بصرہ الیہ: نگاہ اٹھانا۔

بجزم ظلموح الموج: بلند موج والا سمندر۔

ظلمحات الذہر وظلمحاتہ: مصائب۔

الظلمح۔ غرور۔ فخر۔

الظلمح۔ دور۔ حریص۔

طَمَحَ (ن) طَمَحًا بِأَنْفِهِ: تَكَبَّرَ كَرًا.

طَمَرَ (ض) طَمْرًا: الشَّقِي: دُفِنَ كَرًا. چمپانا
طَمْرًا وَ طَمْرُوزًا وَ طَمْرَاوًا وَ طَمْرَانًا
كُودًا. آپھلانا۔

طَمْرَ (ن) طَمْرُوزًا: جانا۔ سفر کرنا۔

طَمْرَ (ن) طَمْرًا: المَطْمُورَةُ: كَهَيِّتِ بَهْرًا.
(وَ طَمِيرٍ (س) طَمْرًا) الجُنْحُ: سَوَجَ
جانا۔

الْيَدُ: وَرَمَ آجَانًا.

طَمَرَ فِي حَبْرٍ مَرِيحًا: وَادِعٌ فِي رُودٍ هَوَانًا.

طَمَّرَ الشَّقِي: لَيْثًا أوردُفِنَ كَرًا
الْبَيْتَ: بِرُودِهِ لِنَاكًا.

إِطْمَرَ: عَلَى قُرْبِهِ: چھپنے سے کود کر سوار
ہونا۔

الطِمْرُ: پُرَانَا كَبِيرًا جُو كَسِي حَبْرًا كَمَا لَمْ يَدُ جُو
أَطْمَارًا: كَمَا جَانَا هُوَ "لَا حَبْرَ الشَّمْسِ فِي
الْأَطْمَارِ" یعنی زرد رنگ کا ہو گیا اور اس کی کچھ
روشنی جاتی رہی۔

الطِمْرُ وَ الطِمْرُورُ وَ الطِمْرُورُ وَ الطِمْرُورُ
لَبِي نَائِمًا كَبِيرًا رَقْمًا كَبِيرًا.

الطَامِرُ: فَ- بِسُوحِ طَمْرٍ: كَمَا جَانَا هُوَ
طَامِرٌ بَيْنَ طَامِرٍ "وہ بھول ہے یہ بھی نہیں معلوم
کہ اس کا باپ کون ہے۔"

الطَمْرُ: جَمَلٌ نَادِيٌّ.

طَمْرَةٌ الشَّبَابِ: ابْتَدَأَ شَبَابًا. عَقْوَانِ
شباب۔

الطَامِرُورُ وَ الطَمْرُورُ: حَبْرٌ جُو طَمْرٍ: كَمَا
جَانَا هُوَ "كَتَبَ فِي الطَمْرُورِ وَ الطَمْرُورِ"

الطَمْرُورُ وَ المِظْمَرُ: مَعْمَارُونَ كَادِهًا.
پرانے لباس والا۔ کما جاتا ہے "هُوَ عَلِيٌّ مِظْمَرٌ
أَيْبُهُ" وہ صورت و سیرت میں اپنے باپ کے
مشابہ ہے۔

المِظْمُورَةُ: كَهَيِّتِ قَبْدٍ.

طَمَسَ (ن) طَمْسًا: دُورَ هَوَانًا. كَمَا جَانَا هُوَ
"لَا أَدْرِي أَيْنَ طَمَسَ" میں نہیں جانتا کہاں گیا
_____ پھینبہ: دُور تَك دِكْهَانًا.

طَمَسَ (ن) طَمَسًا وَ طَمْسًا وَ
طَمَسًا وَ انطَمَسَ: مَنًا. طَمَسَ النَجْمُ او

الْبَصْرُ سِتَارَهُ يَأْتِي كَابًا لُورَهُوَانًا.

طَمَسَ (ض) طَمْسًا الشَّقِي: مَنًا. هَلَاكٌ كَرًا.
ڈھانپ لینا۔ جڑ کھورنا _____ الغَيْمُ النُّجُومُ:
بادل کا ستارے کی روشنی کو زائل کر دینا۔

طَمَسَ (ض) طَمْسًا الشَّقِي: اِنْدَاوَهُ كَرًا.

زُبُوعٌ طَمَّاشٌ: مَنَةٌ هُوَ مَكَاتًا.

الظَّمِيْسُ وَ المِظْمُوسُ: اِنْدَاوَهُ.

ظَمَّظَمَ: وَسَطَ سَمْدَرٍ فِي تَمْرًا.

الظَّمْظَامُ: وَسَطَ سَمْدَرٍ.

الظَّمْظَمُ وَ الطَّمْظَمِيَّةُ وَ الظَّمْظَمَانِيَّةُ
كِي لَكْتِ وَالا۔

طَمَعَ (س) طَمْعًا وَ طَمَاعًا وَ طَمَاعِيَّةً فِي
الشَّقِي وَ يَه: لَابِحٌ كَرًا. صِفَتِ طَمَاعٍ وَ طَمْعٍ وَ
طَمْعٌ جُو طَمِعُورٌ وَ طَمْعَاءٌ وَ اَطْمَاعٌ
وَ طَمَاعِيٌّ.

طَمَعَ (ك) طَمَاعَةً: سَمَتْ لَابِحٌ كَرًا.

طَمَعَةٌ: لَابِحٌ بِرِغْبَتِيَّةٍ كَرًا.

أَطْمَعَةٌ: لَابِحٌ فِي رِغْبَتِيَّةٍ وَ اِنْدَاوَهُ.

تَطْمَعُ: لَابِحٌ هَوَانًا. خَوَانٌ مَنْدُ هَوَانًا.

الطَمْعُ: وَ هُوَ جُو جَسَ كِي خَوَانِ كِي جَانَا. لِكْرِكِي
تَتَوَاوَعَجَ اَطْمَاعٌ.

الظَّمَاعَةُ: خَوَانٌ مَنْدِيٌّ.

الظَّمَاعُ وَ المِظْمَاعُ: سَمَتْ زَادَهُ لَابِحٌ.

المِظْمَاعُ: جَسَ كِي خَوَانِ كِي جَانَا. جُو
مِظْمَاعِيٌّ.

المِظْمَاعَةُ: بَاعَثَ طَمَحَ لَابِحٌ پُرَاسَانَهُ وَ اَلِ جُو
طَمِعَتْ (س) طَمْعًا عَيْبَةً: آكَمَتْ كَابَسَتْ كَبِجْرًا
وَ اَلِ هَوَانًا.

طَمَلَّ (ن) طَمَلًا: الخَبْرَانُ الخَبْرَانُ: رُوئِي كُو تَمَلِيْنِ
سے چوڑی کرنا _____ القُوبُ: كَبِيرَةٌ كُو كَبْرًا
رُكْنًا.

الدَّمُ السَّهْمُ وَ عَيْبَةٌ: خُونٌ كَابَسَتْ كَبِجْرًا.
الزَّوَالِي: جُرُودٌ كَابَسَتْ كَبِجْرًا.

طَمَلَّ (س) وَ طَمَلَّ طَمَلًا: خُونٌ تَمَلَّ يَأْتِي
تَارِكُورًا سَمْتِ طَمَلِيْنِ.

أَطْمَلَّ: الكِتَابُ: مَنَارًا.

انطَمَلَّ الزَّجَلُ: جُورُورٌ كَسَامَتِ شَرِكِي
ہونا۔

الظَّمَلُ: خَمِيرٌ كُو نَدَاوَهُ اِنْدَاوَهُ حَلَقُورًا.

الظَّمَلُ: يُووقُ: كَمِينٌ بِدَكَارٍ بِدُورَانِ جُو
اپنے فصل پر شرائے اور نہ کسی کے کچھ کھنے کی
پر واکرے۔ کلا کبیل۔ فقیر۔ بد حال بد شکل ہار۔

پُرَانَا كَبِيرًا: جُو طَمْرُورًا () وَ الطَّمْلَةُ
وَ الطَّمْلَةُ: كَدَلَابَانِيٌّ كَبِجْرًا.

الظَّمَلُ: فَ- مَرُودٌ كَارِ جُو اِنْدَاوَهُ فَصَلِ كِي پُرَوَانِ
کرے۔

الظَّمَلُ: كَدَلَابَانِيٌّ كَسَامَتِ جُو اِنْدَاوَهُ كَارِ
وَ غَيْرِهِ كَابِجْرًا پھیل۔ بکری کا بچہ۔ سَمْتِ طَمَلِيْنِ
خُونِ سَمْتِ پَتِ تَمْرًا خَبْرًا طَمَلِيْنِ: بَیْنِ سَمْتِ
چوڑی کی ہوئی روئی۔

الظَّمْلُ: بِدَكَارِ جُو اِنْدَاوَهُ فَصَلِ كِي پُرَوَانِ كَرًا۔
الظَّمْلَةُ: بِدَكَارِ كِي بِدَكَارِيٌّ.

المِظْمَلَةُ: بَیْنِ.

طَمَانٌ طَمَانَةٌ وَ طَمَانٌ: طَهْرَةٌ: بِبَيْتِ كُو پَسْتِ
کرنا۔ جھکانا _____ الشَّقِي: سَاكِنٌ كَرًا.

تَطْمَانٌ: پَسْتِ هَوَانًا.

إِطْمَانٌ: اَطْمَانًا وَ طَمَانِيَّةً اَلِيَّةً: اَرَامٌ لَبَانًا.
قَرَارٌ كَبِيرًا: پَسْتِ هَوَانًا. كَمَا جَانَا هُوَ "إِطْمَانٌ عَمَّا
كَانَ نَفْعَةً" یعنی چھوڑ دیا۔

الظَّمْنُ: سَاكِنٌ جُو طَمْرُورًا.

المِظْمَنْ: سَاكِنٌ _____ مِزِنِ الأَرْضِ: نِزْمٌ
پست زمین۔

طَمًا يَطْمُو طَمْرًا وَ طَمِيٌّ يَطْمِي طَمْرًا
المَاءُ: پَانِيٌّ كَابَلَدٌ هَوَانًا وَ اِنْدَاوَهُ كَبِجْرًا _____
البَحْرُ: سَمْدَرٌ كَابِجْرًا جَانَا _____ التَّبْتُ: بِنَاتَاتِ
کا طویل ہونا۔ بڑھنا۔

طَمَّتْ هَمَّتَةً: بِهَمَّتِ بَلَدٌ هَوَانًا. طَمَّاهِ الهَمُّ وَ
الخَوْفُ: عَمَّا يَخُوفُ كَابَسَتْ هَوَانًا.

طَلَّ (ض) طَلًّا وَ طَلِيْنًا وَ طَلَّنَ الذَّبَابُ او
التَّافُوسُ وَ شِبْهَهُ ذَلِكَ: جَمَّحَنَانًا. بَجَانًا. آوَاوَرِيَّةً.
وَ طَلَّنَ فُلَانٌ: مَرِنًا.

أَطَنَّ: بَجَانًا. آوَاوَرِيَّةً. اَطَنَّ السَّاقُ بِطَبْلِي كُو
کات دینا۔

الظَّنُّ: جَسَمٌ اَطَّقَانٌ وَ طِنَانٌ. بَأْسٌ كَابَسَتْ
اور ایک بَأْسٌ طَلَّةٌ كَلَامًا هُوَ. الظَّنُّ وَ هَمْلِيٌّ هُوَ كِي
رُوئِي كَابِجْرًا۔

چٹائی کپڑا ج مضافس۔
 الطنو۔ بدکاری۔
 الطنو۔ فرش۔
 طنی (س) طنی و طنی تلی یا پھپھڑے کا پہلو
 یا پسلیوں سے چٹنا۔ صفت طن و طنی فی
 فجورہ او فسادہ۔ بدکاری یا فساد میں ہمیشہ جملا
 رہنا۔ (طنی) اللدیع من لدغ القورب
 بچھو کے کاٹے کا اچھا ہو جانا۔ اظنآ المرص:
 مرض کا باقی رہ جانا۔
 طنی۔ تلی یا پھپھڑے کی بیماری کا علاج کرنا۔
 الطنی۔ تسمت۔ بھی ہوئی راکھ۔ مرض۔
 الطنی۔ بدکاری و فساد۔
 الطانی۔ فا۔ زنا کا رجحان۔
 طهز (ن) و طهز (ک) طهز و طهز و
 و طهزة۔ پاک ہونا۔ صفت طهز و طهز
 طهز و طهز و طهز و طهز و طهز۔ کہا جاتا
 ہے ”رجل طهز الصیاب“ یعنی پاک دامن۔
 طهزة (ف) طهز و طهز۔
 طهزة پاک کرنا۔ طهز المشی بالماء۔ دھونا۔
 طهز و طهز۔ میل پھیل سے پاک ہونا۔
 نمانا۔
 الأظہار۔ عورت کی پاکی کا زمانہ۔
 الظہور۔ جس سے پاکی حاصل کی جائے۔
 الظهرة۔ پاکی۔ پانی سے نمانا۔
 المظہر۔ موت کے بعد ایک مدت معین کے
 لیے اہر اور صالحین کے نفوس کے پاک کرنے کی
 جگہ (کلمہ نصرانیہ)
 المظہرة و المظہرة۔ لوٹا۔ طہارت حاصل
 کرنے کا مکان۔ کہا جاتا ہے ”السوا المظہرة
 یلقم“ یعنی سواک منہ کی صفائی کا سبب ہے۔ ج۔
 مظاہر۔
 المظہرة۔ متعدی امراض کے مریض کے
 کپڑے اور سامان کے صاف کرنے کا آلہ۔
 طهس (ف) طهسا۔ فی الارض۔ داخل
 ہونا اور گھسنا۔
 طهس (ف) طهسا العمل۔ کام کو گاڑ دینا۔
 اظہف۔ السقاء۔ نرم ہونا۔ ڈھیلا ہونا۔ فی
 الکلام: آسان اور روانی سے کہنا۔

المظنب۔ کندھا۔ موزہ۔ حاج مظائب۔
 المظنب۔ فاقہ۔ بہت تعریف کرنے والا۔
 جیش مظناب۔ بہت بڑا لشکر۔
 المظنور و المظنار۔ ستارچ مظاہر۔
 مظنب مظنبۃ الرجل: عقلمندی کے بعد
 یہ قوف بنا۔ کہا جاتا ہے ”کان بینہم مظنبۃ“ یعنی
 ان کے درمیان شرفیادہ۔
 المظنب۔ یہ قوف۔ کندہ بن۔
 المظنجرۃ۔ تانے کی ریگی۔
 المظنجیر۔ کڑا ہی کنایہ از بزل و کینہ۔
 طنخ (س) طنخا۔ بدبھی ہونا۔ دل پر چربی
 غالب ہونا۔ موٹا ہونا۔ صفت طنخ و طنخ
 طنخت نفسہ۔ جی کا گڑھا۔
 اظنخ و ظنخ۔ بدبھی کرنا۔ کہا جاتا ہے
 ”مرّ طنخ من اللیل“ رات کا ایک حصہ گزر گیا۔
 طنز (ن) طنز ابہ۔ تسخر کرنا۔
 نظائر القوم: ایک دوسرے کے ساتھ تسخر
 کرنا۔
 الطنار۔ تسخر کرنے والا۔
 المظنظلة۔ عند العامة: حلق کا ٹوا۔ صحیح لفظ
 ظلاظلة ہے۔
 ظنطن ظنطنۃ الجرش و الظنٹ
 والذباب و نحوہا: جس کا بجا۔ طشت کا آواز
 رہنا۔ بھی کا بھنٹنا۔
 ظنیف (س) ظنفا۔ تسم ہونا (س) ظنافة
 و ظنوف و ظنفا) بدباطن ہونا۔ صفت ظنیف۔
 ظنفة۔ تسم کرنا۔ ظنّف الجذاز: دیوار پر کانٹے
 کی باڑھ لگانا۔ کانس نکالنا۔ متالی بنانا۔ نفسہ
 الی کذا: لالچ کے قریب کرنا۔
 ظنّف القوم: قوم پر بیچ کر گھیر لینا۔
 الظنّف و الظنّف و الظنّف و الظنّف بہاڑکی
 چوٹی۔ بہاڑکی ابھری ہوئی چٹان۔ چمبہ۔ کانس۔
 متالی ظنوف و اظنّف۔
 المظنّف۔ چمبہ یا کانس والا۔ بہاڑکی چوٹی پر
 چڑھنے والا۔
 ظنفس۔ بدخلق ہونا۔ بہت کپڑے پننا۔
 الطنفس۔ تروی۔ بدخلق۔
 الطنفس و الطنفس و الطنفس۔ فرش۔

الطنان۔ زیادہ بچنے والا۔ کہا جاتا ہے ”فلان
 ذکور طنان“ یعنی فلاں کا ذکر مشہور ہے ”و تلک
 قصیدۃ طنانۃ“ یعنی اس قصیدہ کی ہر جگہ میں
 شہرت ہے۔
 الطنی۔ من الرجال: بڑے ڈیل ڈول کا۔
 طننا (ف) طننا و طنی (س) طننا۔ شرم کرنا۔
 اظننا کسی مکان کی طرف مائل ہونا۔
 اظننا الی الحوض: حوض کی طرف جانا اور
 پانی پینا۔
 اظننا الی البساط: بچھونے کی طرف جانا اور
 کابل سے اس پر سو جانا۔ کہا جاتا ہے ”حیۃ لا
 تُظنی“ سناپ۔ جس کا زسا ہو اور آئی مری جائے۔
 الطن: بے بقیہ روح۔ کہا جاتا ہے ”زمنی فلان
 فی طنبہ“ یعنی مر گیا۔ بھی ہوئی راکھ۔ خواہش
 نفس کی طرف میلان۔ بدکاری۔ چھوٹا۔ فرش
 باغ۔ ہمت۔ کہا جاتا ہے ”فلان یعینہ الطن“
 یعنی فلاں بڑی ہمت والا ہے۔ منزل۔ تسمت۔
 طنب (س) طنبا۔ الزومخ: نیزے کا ٹیڑھا ہونا
 الفوس: گھوڑے کا لمبی پیٹہ اور لمبی اور
 کمزور ٹانگوں والا ہونا۔ صفت اظنّب مؤنث
 طنباء۔
 طنب الحیمۃ: خیر لگانا۔ بالمکان:
 اقامت کرنا۔ الذنّب: بھیڑیے کا بھونکنا
 البقاء: ملک کے سوراخ پر پوند لگانا۔
 طناب القوم: قوم کے خیموں کی رسی کے
 ساتھ اپنے خیمہ کی رسی ملانا۔
 اظنبت الریح: ہوا کا غبار کو اڑانا۔
 الایل: بعض اونٹوں کا بعض کے پیچھے چلنا۔
 فی الوصف او العذو: مبالغہ کرنا۔
 طناب القوم: خیمے کی رسیوں کو بعض کو
 بعض کی طرف کرنا۔
 الطنب: خیمہ کی لمبی رسی۔ جسم کا پچھا۔ درخت
 کی جڑ اظناب و طنبۃ۔ کہا جاتا ہے ”مدت
 الشمس اظنابھا“ یعنی آفتاب طلوع ہوا۔
 ”تقضت اظنابھا“ یعنی غروب ہوا (س)
 والاظنابۃ: کمان کے قبضہ پر پاندھنے کا تسمج
 اظناب۔ کہا جاتا ہے ”خیل اظناب“ بعض
 بعض کے پیچھے چلنے والے۔

لَفْلَانٍ مِنْ مَّالِهِ طَهْفَةٌ كَيْفَ حَضَرْتَا-

الطهف - بحور -

الطهف - بنہ -

زُبْدَةٌ طَهْفَةٌ - نرم کھن -

الطهفۃ - مِنَ الشَّيْءِ : کلزا -

الطهاف - مِنَ السَّحَابِ : بلند بادل -

الطهافۃ - گیسو -

طَهْفٌ (ف) طَهْفًا : تیر چلتا -

ظَهْلٌ وَ ظَهْلٌ (ف س) ظَهْلًا وَ ظَهْلًا وَ

تَظَهَّلَ - المَاءُ : بدبودار ہونا - صفت ظاہلٌ وَ

ظَهْلٌ -

أَظْهَلَتْ - الأَرْضُ : تھوڑی سی گھاس آگاہ -

الظھلۃ - تھوڑی سی گھاس - بقیہ شے

ظَهْمٌ الشَّيْءِ : موٹا ہونا _____ مِنْهُ : نفرت

کرتا -

تَظَهَّمَ الطَّعَامُ : ناپسند کرتا - کہا جاتا ہے "فَلَانٌ

يَتَظَهَّمُ عَنَّا" ہم سے وحشت کرتا ہے -

المظہم - موٹا - کمزور - کھل اور خوش نما اور

اس سے ہے "جَوَادٌ مُظْهَمٌ" یعنی خوبصورت -

عمدہ گھوڑا -

ظہا یظہم ظہوا - سفر کرتا - جانا -

ظہا یظہم و یظہم ظہوا او ظہوا و ظہما و

ظہایۃ - اللحم : پکانا یا بھونا -

أَظْهَى الظَّهَاءَ - پکانے یا بھونے میں ماہر ہونا -

الظہو - کام -

الظھی - تنکا -

الظھی - گناہ - پکا ہوا -

الظھی - سخت مار - پتلا بادل -

الظاہی - نا - یورچی - نانائی - بھوننے والا ج

ظہاء و ظھی مؤنث ظاہیۃ ج طواہ و

ظاہیات -

الظہایۃ - پکانے کا پیشہ -

الظہاؤۃ - دودھ یا خون کے اوپر کی باریک

جھلی -

الظہاءۃ - بلند بادل -

ظاء یظاء و یظوؤ ظوؤۃ - آتا جانا - فی

الأرض : دُور تک نکل جانا -

نَظَّاءٌ تَظَايُؤُا - الأَسْعَاؤُ : بھاؤ کا گراں

ہوتا -

الظاءۃ - کیچڑ - چراگاہ میں دُور نکل جانا - کہا جاتا

ہے "مَآبِلُ الذَّارِ طَوِيُّ" یعنی گھریں کوئی نہیں -

الظؤب - کئی اینٹ - واحد ظؤبۃ -

الظؤاب - خشک پڑ -

ظَاخٌ یظُوخ ظُوخًا - حیران ہونا - ہلاکت کے

قریب ہونا _____ السہم : نشانہ سے خطا کرنا -

ظُوخًا : حیران کرنا - آوارہ پھرانا - ظُوخٌ بہ :

خطرناک امور پر برا گئیے کرنا - نضاع آسانی میں

پھینکانا - کہا جاتا ہے "ظُوخٌ بہ ظَوَائِعُ الزَّمَنِ"

یعنی زمانے کے حوادث نے اس کو پھینک دیا -

ظُوخٌ تَظْوِيحًا وَ طَيِّحٌ تَطْيِيحًا الشَّيْءِ : ضائع

کرتا -

ظَاوِحَةٌ مُظَاوِحَةٌ - بگڈا : ایک دوسرے پر

پھینکانا -

أَظَاحَهُ - ہلاک کرنا - فَاکَرْنَا - أَظَاخَ الشَّعْرُ - بال

گرا دینا -

تَظَوَّخَ - فِي البِلَادِ : سرگرداں ہونا اور ادھر

ادھر پھرنا - فِي البُسْرِ : کنوئیں میں گرتا - کہا جاتا ہے

"نَامَ عَلَيَّ مَطِيئَهُ - يَتَظَوَّخُ" یعنی وہ ہوا میں آمد

رفت رکھتا ہے -

تَظَاوَحَ تَظَاوِحًا القَوْمُ فَلَانًا بِالْأَمْرِ او

بِالضَّرْبِ : آپس میں تنازع کرنا - تَظَاوَحَتْ بِہ

التَّوْبَى - فَرَأَى اِدْرِبَعْدَ نَظْمًا لَہِ اس کو پھینک دیا -

الظوح - دُور - بعید - کہا جاتا ہے "بیتۃ ظوح"

دُور کی نیت -

الظوانح - شدائد - مہلکات -

المظاوح - ہلاکت کی جگہیں - واحد مظاوحۃ -

المیظواح - لاشی -

ظَاخَةٌ یظُوخُ ظُوخًا - قول یا فعل کی حسرت

لگانا - صفت ظُوخ -

ظَاذٌ یظُوذُ ظُوذًا - ثابت رہنا -

ظَوَّذُو تَظَوَّذُوا فِي البِلَادِ : پھرنا - ظَوَّذَ بِہ ملک

جنگلوں میں جانے پر برا گئیے کرنا -

إِنطاد - ہوا میں بلند ہونا -

الظؤد - مہ - پہاڑ - ٹیلہ - جَظْوَادٌ وَ طَوْدَةٌ -

المطادۃ - دُور دراز کا ایوان -

المظاود - خطرناک مقامات -

المُنطاد - بلند - غبارہ - جَ مَناطیند -

ظَار یظُوذُ ظُوذًا وَ ظُوذًا اَنَا یُفْلَانٌ : قریب

ہوتا -

الظؤر - اندازہ وحد - کہا جاتا ہے "عَدَا ظؤرہ"

یعنی حد سے بڑھ گیا - "وَ جَاوَزَ ظؤرہ" اندازہ

سے تجاوز کر گیا - بیت - حال - باری - کہا جاتا ہے

"أَتَيْتُهُ ظؤرًا وَعَدَدَ ظؤرٍ" یعنی بار بار جَظْوَارٌ -

اور کہا جاتا ہے "التَّاسُّ الظُّوَارِ" یعنی لوگ مختلف

قسم کے اور مختلف حالات کے ہیں -

الظؤر - پہاڑ - مکان کے سامنے کا گھن - وہ چیز

جو کسی چیز کے انداز پر ہو یا اس کے مقابل ہو -

الظؤار - وہ چیز جو کسی چیز کے مقابل ہو - یا اس

کے انداز پر ہو - (_____ وَ المظوار) مکان کے

سامنے کا گھن - کہا جاتا ہے "هَذِهِ الذَّارِ عَلَيَّ

ظؤارِ دَارِي" یعنی اس کی دیوار میرے مکان کی

دیوار سے ملی ہوئی ہے -

الظؤری وَ الظؤزائی - وحشی پرندہ ہو یا

آدی - الظؤری : انجمن - کہا جاتا ہے "مَآبِلُ الذَّارِ

ظؤری او ظؤزائی" یعنی کوئی نہیں -

ظَاوَرَةُ المَنخَلِ - چھلنی کا گھیرا - اور یہ محرف

ہے صحیح "الإطار" ہے -

الظاؤرۃ وَ الظاؤر - عِنْدَ العامَّةِ : دائرہ - وف - کہا

جاتا ہے "لَقِيَ هِنَةَ الأظؤرین" یعنی اس کو اس

سے بڑی مصیبت پہنچی - اور مبالغہ کے ارادہ سے

جمع سالم لایا جاتا ہے "بَلَغَ فَلَانٌ فِي العِلْمِ

اَظؤرِيہ" فلاں علم کی دونوں حد اول و آخر یعنی

علم کی انتہا پہنچ گیا -

ظاس یظوؤس ظؤسًا - الوجہ : چہرے کا

خوبصورت ہونا _____ الشئی : رودنا -

ظؤسۃ - مزین کرنا - ظؤس المصؤر : مور کی

شکل بنانا - ظؤس بہ : لے جانا -

تَظؤسٌ للحمامة : کبوتری کے سامنے پروں

کو پھیلانا - تَظؤسَتِ المَؤرَةُ : آراستہ و مزین

ہوتا -

الظؤس - چاند -

الظؤس - ایک مسل دوکانام -

الظاس - پانی پینے کا برتن - یا لرج ظاسات -

الظاؤس الظاؤس - مور - تصغیر ظؤس

شئ: احاطہ کرنے والا۔ الطوق: گلے کا زیور۔ گلا۔ ہر احاطہ کرنے والا ج الطوق: قدرت۔ طاقت۔ کہا جاتا ہے ”ہذا لہی طوقی“ یعنی یہ میری طاقت میں ہے ”لا تَحْمِلْنَا مَالًا ظَلَاةً لَنَا بِه“ یعنی ہمارے اوپر وہ نہ ڈال جس کی ہمارے اندر وسعت نہ ہو اور ہمارے لئے وہ دشوار ہو۔ دھاکے کی ایک لٹ۔ بالوں کا مٹھا۔ پھولوں کا گلدستہ۔ اور عام لوگ روشن دان کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ المطوق: کتنے دار کو تڑپوں جس کی گردن طوق کے مانند ہو۔ طال يطول طولا: لمبا ہونا _____ علیہ۔ غالب ہونا۔ فخر کرنا۔ احسان کرنا۔ طولا: لمبا کرنا۔ طولا: ملت دینا _____ للدابة: جانور کی رستی ڈھلی کر دینا۔ تطول: طولاً۔ علیہ: احسان کرنا۔ اطالة و اطولة اطالة و اطولا: لمبا کرنا۔ اطالت المرأة: لمبے لمبے بننے جتنا۔ طاولا كطاولا: ٹال ٹال کرنا۔ لمبا یا فضل و بخشش میں غالب ہونا۔ تطاول: دیکھتے ہوئے گردن بلند کرنا _____ تکبر کرنا۔ فخر کرنا۔ علم کرنا۔ لمبا یا ظاہر کرنا _____ علیہ الغمر: بڑھنا۔ تطاولا: ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ استطال استطالة: طویل ہونا _____ علیہ: فضل و احسان کرنا۔ بلند ہو کر دیکھنا _____ علی عجزہ: بدنامی کی شہرت دینا۔ کہا جاتا ہے ”استطالوا علی القوم“ یعنی قوم نے جتنا گل کیا تھا اس سے زیادہ گل کیا۔ الطول: فضل۔ بخشش۔ قدرت۔ غنا۔ الطول: لمبا یا اطوال۔ الطيلة: عمر۔ کہا جاتا ہے ”اطال الله طيلة“ اللہ تعالیٰ اس کی عمر کو طویل کرے۔ زیادہ بھر۔ الطول: لمبے ٹانگوں کا ایک آبی پرندہ۔ الطیل والیطول والیطوال والیطیال: زمانہ بھر۔ الطایل والیطیال: قدرت۔ فضل۔ غنا۔ کہا	ج أطول اس و طو او یس۔ طوش۔ الرجل: ٹال ٹال کرنا _____ الذکر: آنتہ کرنا۔ الطواشی: آنتہ۔ خصی۔ ج طواشیہ۔ مولد ہے اور کہا گیا کہ لفظ عجی ہے۔ طاع يطوع و يطاع طوعا و ایفلا ن: فرماں بردار ہونا۔ صفت طابع ج طوع و طایفون کہا جاتا ہے ”امرؤ فاطاع“ اسے حکم دیا اور اس نے اطاعت کی۔ اس موقع پر باب افعال ہی سے استعمال ہے مجرور سے نہیں۔ ”یسانه لا یطوع یکذا“ یعنی اس کی زبان ناطعہ آری نہیں کرتی ”و طاع له المزع“ یعنی چراگاہ اس کے لئے وسیع ہے۔ اطاعة اطاعة و طاعة: فرمانبردار ہونا۔ اطاع الشجر: پھل پکانا۔ اطاع له المرعی: و اطاعة: چراگاہ کا کشادہ ہونا۔ انطاع انطیاعا: لہ: فرمانبردار ہونا۔ تطوع: بکلف اطاعت کرنا۔ تطوع فی الجندیة: لشکر میں رضا کارانہ شامل ہو جانا۔ بالشئ: تبرع کرنا _____ بالشئ وللشئ: بکلف استطاعت ظاہر کرنا _____ الشئ: ارادہ کرنا۔ قصد کرنا۔ تطاع ل الامر: بکلف استطاعت ظاہر کرنا۔ استطاع استطاعة الامر: طاقت رکھنا اور حذف نام کے ساتھ استطاع یتطوع بھی کہا جاتا ہے۔ الطواعة: طوع کا اسم مصدر ہے۔ الطواعیة: فرماں برداری۔ الطاع و الطوع و الطیع: فرمانبردار۔ کہا جاتا ہے ”هو طوع یدک“ یعنی وہ تمہارا تابع ہے فرض طوع العنان: یعنی نرم و تابعدار گھوڑا۔ ”عملة طوعا“ یعنی اس نے اس کام کو خوشی کیا۔ المطوع و المطوعة: فرمانبردار۔ المطوعة: رضا کارانہ جہاد میں شامل ہونے والے۔ المطوع و المطوع: فرائض و واجبات کے علاوہ اعمال صالحہ کو بطور نفل ادا کرنے والا۔
طاف يَطُوفُ طَوْفًا و طَوَافًا و طَوَافًا بِالْمَكَانِ و حَوْلَهُ: گھومنا۔ پکرگانا _____ لہی البلاد ملک میں پھرنا _____ بہ الخیال لہی التَّوَم: خواب میں نظر آنا۔ طَوْفَةٌ تَطْوِيفًا و تَطَوَافًا: گھومنا۔ طَوَّفَ لہی البلاد: ملک میں پھرنا۔ طَوَّفَ و تَطَوَّفَ و اسْتَطَافَ اسْتَطَافَةً بِالشَّئِ و حَوْلَهُ: بہت پکرگانا۔ ”طَوَّفَ النَّاسَ او الجوزاء“ آدمی یا ٹڈیوں کا زمین پر چھاجانا۔ اسْتَطَافَهُ: گھومنا۔ پکرگانا۔ اطاف۔ بالشئ: نازل ہونا۔ احاطہ کر لینا۔ قریب ہونا _____ علیہ وہ: رات کو آنا _____ علیہ گرد گھومنا۔ الطوف: پانی پر تیرنے والی چیز۔ گھنٹی۔ الطوف: رات کو پھرا دینے والے چوکیدار۔ دیوار ج اطواف۔ الطاف: بہت زیادہ طواف کرنے والا۔ الطوفان: سخت سیلاب۔ سخت بارش۔ رات کا سخت اندھیرا۔ موت تباہ کن۔ من کمل شئ: ہر چیز کا زیادہ۔ الطائف: فاقہ چوکیدار۔ الطایفة: مؤنت طایف۔ جماعت۔ گروہ۔ کھڑا کسی چیز کا وہ لوگ جو ایک مذہب یا رائے کے ہوں۔ ج طایفات طوائف۔ الطواف: بہت پھرنے والا۔ بہت پکرگانے والا۔ خاوم۔ گھنٹی۔ گھنٹی بنانے والا۔ المطاف: طواف کرنے کی جگہ۔ طاق يَطُوفُ طَوْفًا و طَافَةً و اِطَاقَ الشَّئِ: قادر ہونا۔ اطاق علی الشئ: قادر ہونا۔ طاقت رکھنا۔ طَوْفَةُ الشَّئِ: کسی کام کی تکلیف دینا۔ طَوْفَهُ الطوق: طوق پہنانا۔ کہا جاتا ہے ”طَوْفُهُ بِالسَّبِيفِ و غیرہ“ اس نے اسے تلوار یا تھوڑی۔ اطَّوَّقَ و تَطَوَّقَ: طوق پہنانا۔ تَطَوَّقَتِ الْحَيَّةُ: کنڈلی مارنا۔ الطاق: محراب۔ طاقت۔ ج طاقات و طیقان۔ الطاق: بغیر گریبان کے ایک قسم کا کپڑا _____ الطاق: پھاڑے نکلا ہوا بڑا بجز و طایق کُلُّ	